

الحمد لله
الاسرار
محمد

جہانگیر

المصنف

عبد الشراف

2

الأمم عبد الشراف بن محمد الصنعاني

سنیئر
برادرز
اردو بازار لاہور

ترجمہ
ابوالعلاء محمد حسین ہاشمی
اَدَامَ اللّٰہِ تَعَالٰی مَعَالِیْہِ وَبَارَکَ اَیَّامُہِ وَیَّالِیْہِ



جہانگیر

المصنف

نمبر 2

عبد الکریم

الامام عبد الکریم بن محمد البصغانی

ترجمہ

ابوالعلاء محمد الدین بہانگیر

ادام اللہ تعالیٰ معالیہ وبارک ایامہ ولیالیہ

شیر برادرز®
نویس: 042-37246006
زبیہ سنٹر، ۴، اڑو بازار لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

المصنف

عبد التکوان

هو القادر



جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر

All rights are reserved

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

تصنيف _____ الأمل عبد الزاق بن محمد البصغاني
مترجم _____ أبو العلا محمد بن جہانگیر
کمپوزنگ _____ ورڈز میکر
باہتمام _____ ملک شبیر حسین
سن اشاعت _____ دسمبر 2015ء
سرورق _____ اے ایف ایس ایڈورٹائزر
طباعت _____ اشتیاق اے مشتاق پرنٹرز لاہور
ہدیہ _____ روپے

شعبہ سنٹر ۴، اردو بازار لاہور
شعبہ برادرز® فون: 042-37246006
shabbirborther786@gmail.com

ضروری التماس

قارئین کرام! ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب کے متن کی تصحیح میں پوری کوشش کی ہے، تاہم پھر بھی آپ اس میں کوئی غلطی پائیں تو ادارہ کو آگاہ ضرور کریں تاکہ وہ درست کر دی جائے۔ ادارہ آپ کا بے حد شکر گزار ہوگا۔

شعبہ برادرز
اردو بازار لاہور

عنوانات

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۳	باب: سجدہ سہو کو بھول جانا.....	۱۳	باب: جو شخص (نماز کے دوران) اُس موقع پر کھڑا ہو جائے جب اُس نے بیٹھنا تھا یا جب کھڑا ہونا تھا اُس وقت بیٹھ جائے یا دو رکعات ادا کرنے کے بعد سلام پھیر دے (تو اُس کا حکم کیا ہوگا؟)
۲۵	باب: نفل نماز میں سجدہ سہو کے بارے میں سہو ہو جانا.....	۱۴	باب: جو شخص امام کے پیچھے ہو کیا اُس پر سجدہ سہو لازم ہوگا؟
۲۸	باب: جس شخص کو تکبیر کہنے میں یا سمع اللہ لمن حمدہ پڑھنے میں سہو ہو جائے.....	۱۵	باب: جس شخص کی نماز کا کچھ حصہ فوت ہو جائے اور امام کو سہو بھی ہو جائے.....
۲۸	باب: جو شخص (نماز کے دوران) کنکریاں ہلاتا ہے یا لکیریں (بناتا ہے).....	۱۶	باب: جو شخص سہو کی وجہ سے فرض نماز کو نفل کے ساتھ ملا دیتا ہے.....
۲۹	باب: نماز کے دوران کلام کرنا.....	۱۷	باب: جس آدمی کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی نماز کے بارے میں شک ہو جائے اور اُسے یہ پتہ نہ چلے کہ کیا اُس نے نماز (مکمل طور پر) ادا کی ہے یا نہیں کی ہے؟
۲۹	باب: نماز کے دوران کھانا پینا.....	۱۷	باب: جو شخص کوئی ایسی سورت تلاوت کرتا ہے جس میں سجدہ تلاوت موجود ہو اور وہ سجدہ کرنا بھول جاتا ہے یا اُس کے ساتھ دوسرے سجدہ کو ملا دیتا ہے؟
۳۱	باب: نماز کے دوران چھینک آ جانا.....	۱۸	باب: جس شخص کو رکوع یا سجدہ میں سہو ہو جاتا ہے.....
۳۲	باب: نماز کے دوران کھانا پینا.....	۱۸	باب: تمہارا یہ دو سجدے ایسی صورت میں کرنا جب یہ تم پر لازم نہ ہوں یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جب یہ تم پر لازم ہوں اور تم انہیں ترک کر دو.....
۳۳	باب: نماز کے دوران کسی چیز سے ٹیک لگانا.....	۲۰	باب: جو شخص نماز ادا کرنا بھول جائے اور اُسے یہ پتہ نہ چلے کہ وہ کون سی نماز تھی؟
۳۳	باب: نماز کے دوران سلام کرنا (یا جواب دینا).....	۲۱	باب: جب ایام تشریق میں سہو اور تکبیر اکٹھے ہو جائیں (تو کیا کیا جائے گا؟)
۳۳	باب: جس شخص کو (نماز ادا کرنے کے دوران) حدث لاحق ہو جائے.....	۲۲	باب: جس امام کو نماز کے دوران حدث لاحق ہو جائے.....
۴۰	باب: اور پھر وہ کوئی کلام کرنے سے پہلے واپس آ جائے.....		
۴۰	باب: جو شخص غلطی سے قبلہ کی طرف رخ کیے بغیر نماز ادا کر لیتا ہے.....		
۴۳	باب: جو شخص وقت کے علاوہ میں نماز ادا کر لے.....		
۴۶	باب: صفوں کا ایک دوسرے کے لیے امام ہونا.....		
۴۶	باب: آدمی کا جنابت کی حالت میں نماز ادا کر لینا.....		
۴۷	باب: جو شخص لوگوں کی امامت کرتا ہے اگر وہ جنبی ہو یا بے وضو حالت میں ہو (تو کیا کرے گا؟).....		
۴۹	باب: جب کسی قوم کے امام کو جنابت لاحق ہو جائے اور اُسے پانی نہ ملے (تو کیا کرنا چاہیے؟).....		
۵۲	باب: جس امام کو نماز کے دوران حدث لاحق ہو جائے.....		
۵۳	باب: جس امام کو نماز کے دوران حدث لاحق ہو جائے.....		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۱۰	باب: ایک شخص کا دو مردوں اور ایک عورت کی امامت کرنا	۵۷	باب: جب کوئی شخص کسی ایسے کپڑے کو پہن کر نماز ادا کرے جو پاک نہیں ہوتا
۱۱۲	باب: جب نماز کا وقت ہو جائے اور آدمی کے ساتھ صرف ایک ہی شخص ہو	۶۰	باب: نماز کو کتنا طویل کیا جائے گا اور کتنا مختصر کیا جائے گا؟
۱۱۳	باب: امام کا طاق (یعنی محراب) میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا	۶۲	باب: امام کا تخفیف کرنا (یعنی مختصر نماز ادا کرنا)
۱۱۵	باب: چبوترے پر نماز ادا کرنا	۶۸	باب: جو شخص نماز ادا کرے اور اسے مکمل نہ کرے
۱۱۶	باب: مقصورہ (الگ سے بنائے ہوئے حجرے) میں نماز ادا کرنا	۷۳	باب: اوقات کی حفاظت کرنا
۱۱۷	باب: آدمی نے جہاں فرض نماز ادا کی ہو وہاں نوافل ادا نہ کرے	۷۳	باب: جو شخص امام کے برخلاف کرتا ہے
۱۱۷	باب: آدمی نے جہاں فرض نماز ادا کی ہو وہاں نوافل ادا نہ کرے	۷۷	باب: نماز کے دوران ہنسنا یا مسکرا دینا
۱۲۰	باب: امام کا قرآن مجید کو دیکھ کر تلاوت کرنا	۸۰	باب: حکمرانوں کا نماز کو تاخیر سے ادا کرنا
۱۲۱	باب: جو شخص اپنے گھر میں نماز ادا کرتا ہے اور پھر وہ (مسجد میں) باجماعت نماز پالیتا ہے	۸۸	باب: جب امام نماز کو مکمل ادا نہ کرے
۱۲۵	باب: وہ وقت جس میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے	۹۲	باب: جب کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو ان کی امامت کون کرے گا؟
۱۳۵	باب: مغرب سے پہلے دو رکعات ادا کرنا	۹۲	باب: جب کسی شخص کے پاس اس کے گھر میں جایا جائے (تو کیا کیا جائے گا؟)
۱۳۷	باب: جب نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی اور نماز ادا نہیں کی جائے گی	۹۲	باب: غلام کا امامت کرنا
۱۴۰	باب: جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو کیا فجر کی دو رکعات (سنت) ادا کی جاسکتی ہیں؟	۹۲	باب: نابینا شخص کا امام ہونا
۱۴۵	باب: جو شخص دعا کرتے ہوئے اپنی دعا میں نام لے کر (کسی کے لیے) دعا کرے	۹۵	باب: کیا ولد الرزاق امامت کر سکتا ہے؟
۱۵۳	باب: آدمی کا منہ پر کپڑا لپیٹ کر نماز ادا کرنا	۹۷	باب: کیا کوئی شخص اپنے والد کی امامت کر سکتا ہے؟
۱۵۵	باب: (نماز کے دوران امام کو متوجہ کرنے کے لیے) سبحان اللہ کہنے کا حکم مردوں کے لیے ہے	۹۸	باب: جو بزرگ ابھی بالغ نہ ہوا ہو کیا وہ امامت کر سکتا ہے؟
۱۵۹	باب: کیا کوئی شخص بیٹھ کر امامت کر سکتا ہے؟	۹۹	باب: جب کسی مسجد کے امام کے ہاں کوئی آجائے (تو کیا کیا جائے؟)
۱۶۳	باب: بیٹھ کر نماز ادا کرنا	۱۰۰	باب: جب کوئی امام قرآن کی تلاوت کرے اور اس میں عجمیت ہو (یعنی وہ صحیح طریقہ سے قرآن نہ پڑھ سکتا ہو)
۱۶۶	باب: جب آدمی بیٹھ کر نماز ادا کرے گا تو اس کے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟	۱۰۱	باب: جب کوئی امام قرآن کے علاوہ کچھ پڑھ دے
		۱۰۲	باب: امام کا بلند آواز میں تلاوت کرنا
		۱۰۳	باب: ایک شخص کا ایک شخص کی امامت کرنا
		۱۰۹	باب: ایک مرد اور ایک عورت کی امامت کرنا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۳۶	نمازیں ایک ساتھ ادا کرنا	۱۶۹	باب: کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والے کی بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے پر فضیلت
۲۴۷	باب: حضر کے دوران دو نمازیں ایک ساتھ ادا کرنا	۱۷۱	باب: بیمار کی نماز
۲۴۹	سفر میں نوافل ادا کرنا	۱۷۶	باب: بیمار شخص کا سواری پر نماز ادا کرنا اور ایسے شخص کا نماز ادا کرنا جس پر بیہوشی طاری ہوئی ہو
۲۵۲	باب: جو شخص سفر کے دوران مکمل نماز ادا کرے	۱۷۸	باب: سوئے ہوئے شخص اور مدہوش شخص کا حکم اور گا کر قرأت کرنا
۲۵۳	باب: سفر کے دوران روزہ رکھنا	۱۸۱	باب: اچھی آواز ہونا
۲۶۳	باب: جب آدمی سفر پر روانہ ہوگا تو روزہ رکھنا کب ترک کرے گا؟	۱۸۶	باب: قرآن کو تریل کے ساتھ (یعنی ٹھہر ٹھہر کے) پڑھنا
۲۶۳	باب: کیا فرض نماز سواری پر ادا کر سکتی ہے جب رخ قبلہ کی طرف ہو یا قبلہ کی طرف نہ ہو	۱۸۷	باب: نماز میں ایک ہی آیت کو بار بار پڑھنا اور دن کے وقت کی قرأت
۲۶۳	اور یہ نماز کیسے ادا کی جائے گی؟	۱۹۰	باب: رات کی تلاوت
۲۶۶	باب: سواری پر نفل نماز ادا کرنا	۱۹۲	باب: جس شخص کو نماز کے دوران قرآن (کی تلاوت میں) مشابہ لگ جائے
۲۶۹	باب: سواری پر وتر ادا کرنا	۱۹۶	باب: دن اور رات کی (نفل) نماز کیسے ادا کی جائے گی
۲۷۱	باب: کیا کوئی شخص جب اپنے جانور کو ہانک کر لے جا رہا ہو تو وہ نماز ادا کر سکتا ہے؟ اور نماز کو قصر کرنا	۱۹۶	اور نماز خوف سے پہلے نماز کیسے ادا کی جائے گی؟
۲۷۲	باب: کشتی میں نماز ادا کرنا	۱۹۸	باب: نماز خوف کا بیان
۲۷۵	باب: برہنہ شخص کا نماز ادا کرنا	۲۰۷	باب: تلواروں کے مقابلہ کے وقت نماز ادا کرنا
۲۷۶	باب: وتر کا واجب ہونا کیا نوافل میں سے کوئی چیز واجب ہے؟	۲۱۰	باب: سفر کے دوران نماز ادا کرنا
۲۸۰	باب: وتر کا فوت ہو جانا	۲۱۸	باب: کتنی مسافت (کے سفر میں) نماز کو قصر کیا جائے گا؟
۲۸۵	باب: کون سی گھڑی میں وتر ادا کرنا مستحب ہے؟	۲۲۲	باب: مسافر شخص جب سفر پر روانہ ہوگا تو وہ نماز قصر کرنا کب سے شروع کرے گا؟
۲۹۰	باب: کتنے وتر ادا کیے جائیں گے؟	۲۲۵	باب: جو شخص نماز کے وقت میں (سفر پر جانے کے لیے) نکلے
۲۹۶	باب: وتر میں سلام کیسے پھیرا جائے گا؟	۲۳۲	باب: مسافر شخص کا متیم لوگوں کی امامت کرنا
۲۹۸	باب: رات کی (نفل) نماز کا آخری حصہ	۲۳۵	باب: مسافر شخص کا متیم لوگوں کی نماز میں شامل ہونا اور جو شخص حضر کی نماز کو بھول جائے
۳۰۱	باب: جو شخص وتر ادا کرنے کے بعد (سو جائے) اور پھر وہ بیدار ہو کر نوافل ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو	۲۳۵	باب: اور پھر اسے سفر کے دوران یہ بات یاد آئے
۳۰۲	باب: وتر میں کیا تلاوت کیا جائے اور اس میں تکبیر کیسے کہی جائے؟	۲۳۵	باب: جو شخص حضر کی نماز کو بھول جائے، اور سفر کے دوران دو
۳۰۲	باب: نبی اکرم ﷺ کی رات کی (نفل) نمازوں اور وتر کا		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۰۷	کرنا، اُس کا رکوع کرنا اور اُس کا سجدہ کرنا	۳۰۵	تذکرہ
۳۰۹	باب: عورت کے بیٹھنے کا طریقہ	۳۱۳	باب: وتر ادا کرنے کے بعد لیٹ جانا، باب: رات کے وقت نوافل ادا کرنا
۳۰۹	باب: عورت کا خواتین کی امامت کرنا	۳۱۵	باب: مغرب اور عشاء کے درمیان نماز ادا کرنا
۳۱۱	باب: جب عورت مردوں سے زیادہ قرأت جانتی ہو اور ایسی عورت کا نماز ادا کرنا جس پر وہ ہو	۳۱۷	باب: رات کے وقت نماز ادا کرنا
۳۱۶	باب: خواتین کا جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہونا	۳۲۱	باب: جس شخص کی رات کی کچھ (نفل نماز) فوت ہو جائے وہ اُس کی قضاء کب کرے گا؟
۳۲۱	باب: مساجد کو آراستہ کرنا اور مسجد میں سے گزرنا	۳۲۲	باب: صبح صادق کے بعد نماز ادا کرنا
کتاب الجمعة		۳۲۵	باب: فجر کی دو رکعت کب ادا کی جائیں گی؟
کتاب: جمعہ کے بارے میں روایات		۳۲۷	باب: فجر کی دو رکعت کی فضیلت کے بارے میں جو کچھ منقول ہے
۳۲۸	باب: سب سے پہلے جمعہ کس نے قائم کیا؟	۳۲۹	باب: فجر کی دو رکعت میں تلاوت کرنا
۳۲۹	باب: امام کا جمعہ پڑھانا، خواہ وہ جہاں کہیں بھی ہو	۳۳۰	باب: فجر کے وقت کلام کرنا
۳۳۰	باب: کس شخص پر جمعہ میں شرکت واجب ہوتی ہے؟	۳۳۳	باب: نماز سے پہلے یا اُس کے بعد نوافل ادا کرنا
۳۳۳	باب: جو شخص جمعہ میں شریک نہیں ہوتا	۳۳۰	باب: گھر میں نوافل ادا کرنا
۳۳۶	باب: چھوٹی بستیوں کا حکم	۳۳۲	باب: نفل نماز کی فضیلت
۳۳۹	باب: جب امام جمعہ کے دن خطبہ نہ پڑھے تو وہ کتنی رکعات ادا کرے گا؟	۳۳۳	باب: چاشت کی نماز
۳۴۰	باب: کس شخص پر جمعہ لازم ہوتا ہے؟	۳۵۳	باب: آدمی کا امام کے پیچھے مسجد سے باہر موجود رہ کر نماز ادا کرنا
۳۴۲	باب: جمعہ کا وقت	۳۵۵	باب: استسقاء کا بیان
۳۴۶	باب: جمعہ کے دن قرأت کرنا	۳۶۷	باب: نشانیوں کا بیان
۳۴۹	باب: نبی اکرم ﷺ کے منبر کا مقام	۳۷۶	باب: قنوت کا بیان
۳۵۱	باب: نبی اکرم ﷺ کا عصا کے ساتھ ٹیک لگانا	۳۹۲	باب: وہ نماز جو کفارہ بن جاتی ہے
۳۵۳	باب: کھڑے ہو کر خطبہ دینا	۳۹۵	باب: جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے
۳۵۸	باب: امام جب منبر سے نیچے اترے تو اُس کا استلام کرنا	۳۹۷	باب: کیا خواتین پر اذان دینا اور اقامت کہنا لازم ہے؟
۳۶۰	باب: جب کوئی خاتون جمعہ کی نماز میں شریک ہو تو وہ کتنی رکعات ادا کرے گی؟	۳۹۹	باب: عورت کتنے کپڑوں میں نماز ادا کرے گی؟
۳۶۱	باب: منبر پر قرأت کرنا	۴۰۲	باب: دو پیشہ کا بیان
۳۶۲	باب: جمعہ کے دن دعائے قنوت پڑھنا		باب: عورت کا دونوں ہاتھوں کے ساتھ تکبیر کرنا، عورت کا قیام

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۰۲	ہونے کے بعد مسجد میں آئیں	۴۶۲	باب: جمعہ کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا اور مسواک استعمال کرنا
	باب: جو شخص جمعہ میں موجود ہو اور ہجوم زیادہ ہو اور وہ امام کے	۴۶۹	باب: دن کے ابتدائی حصہ میں غسل کر لینا
۵۰۳	ساتھ رکوع نہ کر سکے	۴۷۰	باب: مسافر کا غسل کرنا
۵۰۵	باب: جس شخص کا خطبہ رہ جائے	۴۷۱	باب: جمعہ کے دن (صاف) لباس پہننا
	باب: جب امام خطبہ دے رہا ہو تو کسی شخص کا منبر کے پاس	۴۷۲	باب: جمعہ کے لیے جانا
۵۱۰	کھڑے ہونا	۴۷۳	باب: جمعہ کے دن اذان دینا
۵۱۱	باب: جب امام خطبہ دے رہا ہو تو لوگوں کی گردنیں پھلانگنا	۴۷۵	باب: نماز کے لیے تیزی سے جانا
۵۱۳	باب: اجازت مانگنا	۴۷۶	باب: جب امام آجائے تو لوگوں کا بیٹھنا
۵۱۵	باب: آدمی کا ایسے وقت میں آنا جب امام خطبہ دے رہا ہو	۴۸۰	باب: جمعہ کے دن کون سی چیز خاموشی کو لازم کرتی ہے؟
۵۱۷	باب: جمعہ سے پہلے یا اس کے بعد نماز ادا کرنا	۴۸۳	باب: امام کے خطبہ کے دوران کوئی فضول حرکت کرنا
۵۱۹	باب: جمعہ اور اس سے پہلے کی نماز میں فصل کرنا		باب: امام کا جمعہ کے دن منبر پر رہتے ہوئے ذکر و اذکار کے
۵۲۰	باب: جمعہ کے دن سفر کرنا	۴۸۳	علاوہ بات چیت کرنا
۵۲۲	باب: جمعہ کے دن اونگھ آ جانا	۴۸۶	باب: لوگوں کا رخ کرنا
۵۲۴	باب: آدمی کا امام کے خطبہ کے دوران احتباء کے طور پر بیٹھنا	۴۸۸	باب: خطبہ اور اس کے ماقبل کے درمیان فصل پیدا کرنا
۵۲۵	باب: جمعہ کے دن کی عظمت کا بیان	۴۸۸	باب: واعظین کا تذکرہ
۵۳۱	باب: جمعہ کے دن کی مخصوص گھڑی	۴۹۲	خطبہ کا واجب ہونا
۵۳۸	باب: جمعہ کے دن کا کفارہ ہونا	۴۹۳	کونسی چیز جمعہ کو منقطع کر دیتی ہے
	باب: آدمی کا اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں		باب: جمعہ کے دن چھینک آ جانا جبکہ امام اس وقت خطبہ دے رہا
۵۳۹	بیٹھنا	۴۹۷	ہو
۵۴۰	باب: جو شخص جمعہ کے دن انتقال ہو جائے	۴۹۸	باب: جمعہ کے دوران سلام کا جواب دینا
	باب: عیدین کی نماز کے بارے میں روایات		باب: جمعہ کے دن قرآن مجید کی تلاوت کرنا، لوگ نماز سے پہلے
	باب: امام کے آنے سے پہلے اور خطبہ کے بعد (نفل) نماز ادا	۴۹۹	تلاوت کیا کرتے تھے
۵۴۱	کرنا		باب: جمعہ کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو تو کسی چیز سے ٹیک
۵۴۶	باب: ان دونوں کے لیے اذان دینا	۵۰۰	لگانا
۵۴۸	باب: خطبہ سے پہلے نماز ادا کرنا	۵۰۱	باب: جو شخص خطبہ نہیں سنتا
۵۵۲	باب: عید کے دن خطبہ کے لیے خاموش رہنا		باب: جو شخص مسجد میں موجود نہیں ہوتا، کیا اس پر جمعہ لازم
۵۵۳	باب: سب سے پہلے کس نے پہلے خطبہ دیا اور پھر نماز ادا کی؟	۵۰۱	ہوگا؟
			باب: جب کچھ لوگ جمعہ کے دن لوگوں کے نماز سے فارغ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۵۹۱	باب: کن لوگوں کو صدقہ دیا جائے گا؟	۵۵۵	باب: جس نے (نماز عید کی ادائیگی کے لیے) جانا ہے اُس کے نکلنے (کا وقت)
۵۹۳	باب: کیا محتاج شخص بھی صدقہ فطر ادا کرے گا؟	۵۵۵	اور ہاتھ میں عصا پکڑ کر خطبہ دینا
۵۹۵	باب: جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والے غلام کا حکم	۵۵۸	باب: عیدین کے دن سوار ہونا اور عید الفطر کی نماز کی فضیلت
۵۹۷	باب: صدقہ فطر کب ادا کیا جائے گا؟	۵۵۹	باب: ہتھیار لے کر نکلنا اور خطبہ کا واجب ہونا
۵۹۹	باب: صدقہ فطر اُس وقت ادا کرنا جب اُس کا وقت آئے	۵۶۰	باب: خطبہ میں تکبیر کہنا
۶۰۰	باب: کیا دیہاتی علاقوں کے رہنے والے لوگ نماز عید ادا کریں گے؟	۵۶۰	باب: عید کے دن نماز عید میں تکبیر کہنا
۶۰۱	باب: عید کے دن زیب و زینت اختیار کرنا	۵۶۵	باب: دو تکبیروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟
﴿کتاب فضائل القرآن﴾		۵۶۶	باب: دونوں ہاتھوں کے ذریعہ تکبیر کہنا (یعنی تکبیر کہتے ہوئے رفع یدین کرنا)
کتاب: قرآن مجید کے فضائل کے بارے میں روایات		۵۶۶	باب: عید کے دن نماز عید میں تلاوت کرنا
۶۰۳	باب: قرآن مجید میں کتنے سجدہ تلاوت ہیں؟	۵۶۸	باب: عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا واجب ہونا
۶۱۱	باب: (آیت سجدہ کو) سننے والے شخص کو سجدہ تلاوت لازم ہونا	۵۶۹	باب: جو شخص وضو کیے بغیر یہ نماز ادا کر لے گا یا جس کی عیدین کی نماز فوت ہو جائے
۶۱۷	باب: سجدہ تلاوت کرنے کے بعد سلام پھیرنا	۵۷۰	باب: چھوٹی بستیوں میں عیدین کی نماز ادا کرنا
۶۱۸	باب: کیا سجدہ تلاوت کی قضاء کی جائے گی؟	۵۷۱	باب: نماز عید کے لیے خواتین کا جانا
۶۱۸	باب: جب آپ نماز ادا کرنے کے بعد آیت سجدہ سن لیں	۵۷۲	باب: عیدین کا اجتماع (یعنی جمعہ کے دن عید ہونا)
اور کتنے عرصہ میں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے (یعنی مکمل ختم کرنا چاہیے)		۵۷۵	باب: نماز سے پہلے کچھ کھانا
۶۱۹	باب: آدی کا سجدہ شکر کرنا	۵۷۷	باب: مسواک کرنا
۶۲۳	قرآن کو یاد رکھنا اور اُسے بھول جانا	۵۷۸	باب: عید کے دن غسل کرنا
۶۲۶	باب: قرآن کی تعلیم دینا اور اس کی فضیلت	۵۸۰	باب: عید الفطر کے دن ماپنے کے حوالے سے کتنی زکوٰۃ (یعنی صدقہ فطر) ادا کیا جائے گا؟
۶۳۳	باب: معوذتین کا حکم	۵۸۱	باب: صدقہ فطر کا بیان
۶۳۹	﴿کتاب الجنائز﴾		باب: کیا (عورت کے) پیٹ میں موجود بچہ کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا؟
کتاب: جنائز کے بارے میں روایات		۵۸۱	باب: کیا دیہاتی علاقوں کے رہنے والے لوگ بھی اسے ادا کریں گے؟
۶۵۰	باب: (قریب المرگ) بیمار کو تلقین کرنا	۵۸۸	باب: صدقہ فطر کا واجب ہونا
۶۵۳	باب: میت کی آنکھیں بند کر دینا	۵۹۰	
۶۵۴	باب: میت کا اعلان کرنا		
باب: جب کسی شخص کا موت کا وقت قریب آئے تو اُس کا غسل			

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۷۰۳	باب: میت کی ہڈی توڑ دینا	۶۵۵	کرنا اور میت کو قبلہ کی طرف پھیر دینا
۷۰۳	باب: جنازہ کے آگے چلنا	۶۵۶	باب: مرنے کے وقت کیا کہا جائے؟
۷۰۳	باب: جنازہ کے ساتھ جانے کی فضیلت	۶۵۸	باب: تلوار رکھنا
۷۱۰	باب: وضو کے بغیر نماز جنازہ ادا کرنا	۶۵۸	باب: تعزیت کرنا
۷۱۲	باب: جنازہ کے ساتھ آواز پست رکھنا	۶۶۰	باب: میت کو غسل دینا
۷۱۲	باب: جنازہ کے ساتھ سوار ہو کر جانا	۶۶۵	باب: خواتین کو غسل دینا
۷۱۳	باب: خواتین کا جنازہ کے ساتھ جانے کا مکروہ ہونا	۶۶۷	باب: میت کے (پیٹ پر) دباؤ ڈالنا
۷۱۶	باب: جنازہ کو دیکھ کر کھڑا ہونا	۶۶۸	باب: غسل دینے والے کا اجر
۷۲۱	باب: مردوں اور خواتین کی نماز جنازہ کیسے ادا کی جائے گی؟	۶۶۹	باب: جو شخص میت کو کفن دیتا ہے
۷۲۳	باب: آزاد لوگوں اور غلاموں کے جنازے کا حکم	۶۶۹	باب: جو شخص میت کو غسل دیتا ہے کیا وہ غسل کرے گا یا وضو کرے گا؟
۷۲۵	باب: مرد کے مقابلہ میں عورت کی میت کو کہاں رکھا جائے گا؟	۶۶۹	باب: عورت کا مرد کو (یعنی بیوی کا شوہر کو) غسل دینا
۷۲۶	باب: جنازہ کے مقابلہ میں امام کہاں کھڑا ہوگا؟	۶۷۲	باب: جو شخص کسی بے آب و گیاہ جگہ پر انتقال کر جائے
۷۲۶	باب: جب کئی مردوں کے جنازے اکٹھے ہو جائیں؟	۶۷۳	باب: جو شخص خواتین کے ساتھ ہو اور انتقال کر جائے یا خواتین مردوں کے ساتھ ہوں اور (انتقال کر جائیں)
۷۲۷	باب: نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے تکبیر کہتے ہوئے رفع یدین کرنا	۶۷۵	باب: جب کوئی عورت ہو جس کے ساتھ کوئی محرم عزیز موجود نہ ہو
۷۲۸	باب: میت کی نماز جنازہ ادا کرنے کا زیادہ حقدار کون ہے؟	۶۷۶	باب: خوشبو لگانا
۷۳۰	باب: نبی اکرم ﷺ کی نماز جنازہ کیسے ادا کی گئی تھی؟	۶۷۷	باب: میت کے ساتھ آگ نہیں لے جانی جائے گی
۷۳۱	باب: مرد اور عورت کو دفن کرنا	۶۷۹	باب: کفن کا بیان
۷۳۲	باب: لحد کا بیان	۶۸۲	باب: کفن کا تذکرہ اور خیمہ لگانے کا تذکرہ
۷۳۵	باب: جنازہ پر تکبیر کہنا	۶۹۱	باب: عورت کا کفن
۷۳۹	باب: جس شخص کی کوئی تکبیر نہ جائے	۶۹۳	باب: پورے مال میں سے کفن دینا
۷۴۰	باب: نماز جنازہ کے دوران سہولاً حق ہونا نماز جنازہ کو کوئی چیز منقطع نہیں کرتی ہے	۶۹۵	باب: بچہ کا کفن
۷۴۱	باب: میت کی نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے قرأت کرنا اور دعا کرنا	۶۹۶	باب: میت کے بالوں اور ناخنوں کا حکم
۷۴۸	باب: امام کا نماز جنازہ میں سلام پھیرنا	۶۹۸	باب: میت کی چار پائی اور استغفار کا حکم
۷۴۹	باب: کتنے لوگ قبر میں داخل ہوں گے؟	۷۰۰	باب: جنازہ کے ساتھ چلنا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۷۸۱	باب: جس شخص کی نماز جنازہ لوگوں کا ایک گروہ ادا کرے ...	۷۵۰	باب: جب میت کو قبر میں اتارا جائے تو کیا پڑھا جائے؟
۷۸۱	باب: اہل کتاب سے تعلق رکھنے والی ایسی عورت کا حکم جو کسی مسلمان شخص کی حاملہ ہو	۷۵۳	باب: میت کو قبر میں کس طرف سے اتارا جائے گا؟
۷۸۱	باب: نماز جنازہ ادا کرتے وقت صفیں درست کرنا	۷۵۵	باب: میت پر زریہ (نام کی خوشبو) لگانا
۷۸۲	باب: بچہ کی نماز جنازہ ادا کرنا	۷۵۵	باب: قبر پر کپڑے کے ذریعہ پردہ کر دینا
۷۸۳	باب: نابالغ بچے پیدائش سے پہلے مرجانے والے بچے ...	۷۵۶	باب: (قبر پر) مٹی ڈالنا
۷۸۳	باب: نماز جنازہ ادا کرنے اور ان کی وراثت کا حکم	۷۵۶	باب: قبر پر پانی چھڑکنا
۷۸۳	باب: زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچے اور سنگسار شدہ شخص کی نماز جنازہ ادا کرنا	۷۵۷	باب: قبر کو اونچا بنانا (اور اس پر) عمارت بنانا
۷۸۷	باب: قیدی کی نماز جنازہ ادا کرنا	۷۶۱	باب: قبر کو عمدہ طریقہ سے بنانا
۷۹۳	باب: شہید کی نماز جنازہ ادا کرنا اور اسے غسل دینا	۷۶۱	باب: (جب میت کو دفن کر کے) ڈارغ ہو جائے تو میت کے لیے دعا کرنا
۷۹۳	باب: جو شخص کسی میت کے پاس سے نرے اور اسے دفن نہ کرے	۷۶۲	باب: قبر پر (شکار کے لیے) جال لگانا یا (قبر پر) بیٹھنا
۸۰۱	باب: جب جنازہ دیکھیں تو کیا پڑھیں؟	۷۶۵	باب: میت کی چار پائی کو اٹھانے کا طریقہ
۸۰۲	باب: میت پر کھانا دینا	۷۶۵	باب: لوگوں کا باقاعدہ اجازت ملنے سے پہلے جنازہ سے واپس چلے جانا
۸۰۳	باب: صبر کرنا، رونا، نوحہ کرنا	۷۶۷	باب: آدمی اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے جس سے اُسے پیدا کیا گیا ہو
۷۲۱	باب: قبروں کی زیارت کرنا	۷۶۹	باب: آدمی کا (جس شہر میں) انتقال ہوا ہو اُسے وہاں سے دوسری جگہ منتقل نہ کیا جائے
۷۲۷	باب: اہل قبرستان کو سلام کرنا	۷۷۰	باب: میت کے دفن ہو جانے کے بعد اُس کی نماز جنازہ ادا کرنا
۷۲۹	باب: نبی اکرم ﷺ کی قبر مبارک پر (آپ ﷺ کی خدمت میں) سلام پیش کرنا	۷۷۱	باب: رات کے وقت دفن کرنا
۷۳۲	باب: قبر کی آزمائش	۷۷۳	باب: ایسے وقت میں نماز جنازہ ادا کرنا جس وقت میں نماز ادا کرنا مکروہ ہوتا ہے
۷۳۶	باب: بیمار کی عیادت کرنا	۷۷۶	باب: کیا قبرستان کے درمیان میں نماز جنازہ ادا کی جاسکتی ہے؟
۷۳۹	باب: بیمار شخص کو پسینہ آنا	۷۷۸	باب: جب فرض نماز کا وقت ہو جائے اور جنازہ بھی موجود ہو
۷۵۰	باب: میت کو بوسہ دینا	۷۸۰	باب: مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا
۷۵۱	باب: اچانک موت		
۷۵۲	باب: نبی اکرم ﷺ کی عمر مبارک اور آپ کے بعض اصحاب کی عمر مبارک کا تذکرہ		

بَابُ إِذَا قَامَ فِيمَا يُقْعَدُ فِيهِ أَوْ قَعَدَ فِيمَا يُقَامُ أَوْ سَلَّمَ فِي مَثْنَى

باب: جو شخص (نماز کے دوران) اُس موقع پر کھڑا ہو جائے جب اُس نے بیٹھنا تھا یا جب کھڑا ہونا تھا اُس وقت بیٹھ جائے یا دو رکعات ادا کرنے کے بعد سلام پھیر دے (تو اُس کا حکم کیا ہوگا؟)

3491- آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَصِيفٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: السَّهُوُ إِذَا قَامَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ، أَوْ قَعَدَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ، أَوْ يُسَلِّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِهِ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ يَتَشَهَّدُ فِيهَا

*** حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: سہو اُس وقت لازم ہوگا جب آدمی بیٹھنے کی جگہ کھڑا ہو جائے یا کھڑے ہونے کے مقام پر بیٹھ جائے یا دو رکعات پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے تو جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوگا تو وہ بیٹھنے کے دوران دو مرتبہ سجدہ سہو کر لے گا اور اس میں تشہد کے کلمات پڑھے گا۔

3492- آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: صَلَّى بِنَا ابْنِ الزُّبَيْرِ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ: وَحَضَرْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، قَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، فَقَامَ فَصَلَّى الثَّالِثَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهُوِ، وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ قَالَ: فَدَخَلَ أَصْحَابُ لَنَا عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ لَهُ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ، كَأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَعْيبَ بِذَلِكَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَصَابَ وَأَصَابُوا

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء فرماتے ہیں: ابن زبیر (شاید حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما مراد ہیں) نے ایک مرتبہ ہمیں مغرب کی نماز پڑھائی (ابن جریج کہتے ہیں:) میں نے دریافت کیا: کیا آپ اُس موقع پر موجود تھے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! انہوں نے دو رکعات پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا تو لوگوں نے سبحان اللہ سبحان اللہ کہا تو وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے تیسری رکعت ادا کی جب انہوں نے سلام پھیرا تو دو مرتبہ سجدہ سہو کیا لوگوں نے بھی اُن کے ساتھ سجدہ سہو کیا۔

راوی بیان کرتے ہیں: پھر ہمارے کچھ ساتھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اُن کے سامنے اس صورت حال کا ذکر کیا تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ لوگ اس حوالے سے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما پر اعتراض کر رہے ہیں تو حضرت

3491- مصنف ابن ابی شیبہ - کتاب الصلوة إذا سلم من ركعتين ثم ذكر انه لم يتم - حديث: 4450 شرح معاني الآثار للطحاوي - باب سجود السهو في الصلاة هل هو قبل التسليم او بعده حديث: 1628 السنن الكبرى للبيهقي - كتاب

الصلوة جباع ابواب سجود السهو وسجود الشكر - باب من سها فجلس في الاولى حديث: 3593

3492- مصنف ابن ابی شیبہ - کتاب الصلوة إذا سلم من ركعتين ثم ذكر انه لم يتم - حديث: 4449 شرح معاني

الآثار للطحاوي - باب سجود السهو في الصلاة هل هو قبل التسليم او بعده حديث: 1630 السنن الكبرى للبيهقي -

كتاب الصلاة جباع ابواب سجود السهو وسجود الشكر - باب الكلام في الصلاة على وجه السهو حديث: 3654

عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اُس (یعنی ابن زبیر) نے بھی ٹھیک کیا ہے اور لوگوں نے بھی ٹھیک کیا ہے۔

3493 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا قَامَ فِي قُعُودٍ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ وَيَتَشَهَّدُ تَشَهُدَيْنِ

*** عطاء فرماتے ہیں: جب آدمی بیٹھنے کی جگہ کھڑا ہو جائے، تو جب وہ نماز سے فارغ ہوگا، تو دو مرتبہ سجدہ سہو کر لے گا، اور تشہد دو مرتبہ پڑھے گا۔

3494 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا سَلَّمَ فِي مَثَى الْإِنْصِرَافِ ثُمَّ ذَكَرَ، فَلْيُوفِ عَلَى مَا مَضَى، وَيَسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهْوِ

*** عطاء فرماتے ہیں: جب آدمی دو رکعات پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اُسے یاد آئے (کہ ابھی نماز مکمل نہیں ہوئی) تو وہ جو گزر چکا ہے اُس کی بنیاد پر نماز کو پورا کرے گا اور دو مرتبہ سجدہ سہو کر لے گا۔

3495 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ، أَوْ جَلَسْتَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ، أَوْ جَهَرْتَ فِيمَا يُخَافَتْ فِيهِ، أَوْ خَافَتْ فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ نَاسِيًا سَجَدْتَ سَجْدَتِي السَّهْوِ، فَإِنْ تَعَمَّدْتَ الْجَهْرَ فِيمَا يُخَافَتْ فِيهِ، أَوْ عَمَدْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهْوِ، فَإِنْ نَسِيتَ شَيْئًا مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فَتَقْضِيهَا بِاللَّيْلِ، فَأَقْرَأْ كَمَا أَنْتَ تَقْرَأُ بِالنَّهَارِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ

*** سفیان ثوری فرماتے ہیں: جب تم اُس موقع پر کھڑے ہو جاؤ جب بیٹھنا تھا یا اُس موقع پر بیٹھ جاؤ جہاں کھڑا ہونا تھا یا پست آواز والی نماز میں بلند آواز میں قرأت کر لو یا بلند آواز والی نماز میں پست آواز میں قرأت کر لو اور بھول کر ایسا کر لو تو تم دو مرتبہ سجدہ سہو کرو گے، لیکن اگر تم پست آواز والی نماز میں جان بوجھ کر بلند آواز میں قرأت کرو یا ان میں سے کوئی اور چیز جان بوجھ کر کرو تو پھر تم سجدہ سہو نہیں کرو گے، اگر تم دن کی نماز کا کچھ حصہ بھول جاؤ تو اُسے رات کے وقت قضاء کر لو گے اور تم دن کی فرض نماز (کی قضاء ادا کرتے ہوئے) اسی طرح تلاوت کرو گے جس طرح تم دن کے وقت تلاوت کرتے ہو۔

3496 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ صَلَّى الظُّهْرَ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَسْرُحْ فَيَذْكُرْ قَالَ: يُوفَى عَلَى مَا مَضَى، فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: أَقُومُ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَاسْهَوْ حَتَّى أُشِيرَ إِلَى إِنْسَانٍ بِيَدِي وَلَمْ أَتَكَلَّمْ قَالَ: اقْعُدْ وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص ظہر کی نماز میں دو رکعات ادا کرتا ہے اور پھر کھڑا ہو جاتا ہے تھوڑی ہی دیر میں اُسے یاد آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا: جتنی نماز گزر چکی ہے وہ اُس حساب سے پوری کرے گا۔ ایک شخص نے اُن سے کہا: میں فرض نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں مجھے سہو ہو جاتا ہے یہاں تک کہ میں کسی انسان کی طرف اپنے ہاتھ کے ذریعہ اشارہ کر دیتا ہوں لیکن میں کلام نہیں کرتا۔ انہوں نے فرمایا: تم بیٹھ کر دو مرتبہ سجدہ سہو کر لو۔

3497 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ قَامَ فِي قُعُودٍ، أَوْ قَعَدَ فِي قِيَامٍ، أَوْ سَلَّمَ

سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ

* * * قتادہ فرماتے ہیں: اگر آدمی بیٹھنے کی جگہ کھڑا ہو جائے یا کھڑے ہونے کی جگہ بیٹھ جائے یا سلام پھیر دے تو وہ دو

مرتبہ سجدہ سہو کرے گا۔

3498 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ سَهَا فِقَامًا، وَلَمْ يَبْرَحْ ثُمَّ

ذَكَرَ قَالَ: أَوْفٍ عَلَى مَا مَضَى

* * * ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر آدمی کو سہو

ہو جائے اور وہ کھڑا ہو جائے اور تھوڑی ہی دیر میں اُسے یاد آ جائے۔ تو انہوں نے فرمایا: جو نماز گزر چکی ہے اُسے پوری کرو۔

بَابُ هَلْ فِي سَجْدَتِي السَّهْوِ تَشَهُدٌ وَتَسْلِيمٌ

باب: کیا سجدہ سہو کے بعد تشہد پڑھا جائے گا اور سلام پھیرا جائے گا؟

3499 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ خَصِيفٍ، عَنِ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ تَشَهُدٌ

فِي سَجْدَتِي السَّهْوِ

* * * ابو عبیدہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ وہ سجدہ سہو کے بعد تشہد کے کلمات پڑھتے

تھے۔

3500 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي الْجَعْفَانِ، عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ

أَنَّهُ سَهَا فِي صَلَاتِهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَالَ: فَقُلْنَا لَهُ: هَلْ كَانَ مِنْ تَشَهُدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَسَلَّمَ إِبْرَاهِيمُ

فِيهِمَا

* * * اسماعیل بن رجاء ابراہیم نخعی کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ انہیں نماز میں سہو ہو گیا تو انہوں نے بیٹھنے

کے دوران دو مرتبہ سجدہ سہو کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں: ہم نے ان سے دریافت کیا: کیا انہوں نے تشہد کے کلمات پڑھے تھے؟

انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! اور ابراہیم نخعی نے اس کے بعد سلام بھی پھیرا تھا۔

3501 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ قَتَادَةَ قَالَ: يَتَشَهُدُ فِي سَجْدَتِي السَّهْوِ وَيُسَلِّمُ

* * * قتادہ فرماتے ہیں: آدمی سجدہ سہو کے بعد تشہد کے کلمات پڑھے گا اور سلام پھیرے گا۔

3502 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ عَبْدَ

الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى وَهُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَسَلَّمَ فَسَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ، ثُمَّ سَلَّمَ مَرَّةً أُخْرَى قَالَ: سَأَلْتُ

الْحَكَمَ، وَحَمَادًا فَقَالَا: يَتَشَهُدُ فِي سَجْدَتِي السَّهْوِ

* * * شعبہ بن حجاج، حکم کے بارے میں نقل کرتے ہیں: وہ بیان کرتے ہیں: عبدالرحمن بن ابولیلی کو نماز میں وہم ہو گیا،

انہوں نے سلام پھیر دیا دو مرتبہ سجدہ سہو کیا پھر دوسری مرتبہ سلام پھیرا۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے حکم اور حمد سے اس بارے میں دریافت کیا تو ان دونوں نے جواب دیا: آدمی سجدہ سہو کے بعد تشہد کے کلمات پڑھے گا۔

3503 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ فِي سَجْدَتِي السَّهْوِ قِرَاءَةٌ وَلَا رُكُوعٌ وَلَا تَشَهُدٌ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا سَجَدْتُ السَّهْوِ أَجْعَلُ نَهْضِي قِيَامًا؟ قَالَ: بَلِ اجْلِسْ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ وَأَوْفَى لَهَا

*** مطاء فرماتے ہیں: سجدہ سہو میں نہ تو تلاوت ہوگی نہ رکوع ہوگا اور نہ ہی تشہد ہوگا۔ میں نے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جب میں سجدہ سہو کر لیتا ہوں تو کیا میں اُستے کو قیام قرار دوں گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! بلکہ تم بیٹھو گے یہ میرے نزدیک زیادہ بہتر ہے اور زیادہ بہتر ادا ہوگی ہے۔

3504 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَيْسَ فِيهِمَا تَشَهُدٌ وَلَا تَسْلِيمٌ

*** ابن جریج نے حسن بصری کا یہ قول نقل کیا ہے کہ ان دونوں سجدوں کے بعد نہ تو تشہد ہوگا اور نہ ہی سلام پھیرنا ہوگا۔

3505 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى يَسْجُدُ سَجْدَتِي السَّهْوِ؟ قَالَ:

حِينَ يُسَلِّمُ، مَا أَحَبُّ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ السَّلَامِ عَلَيْكُمْ شَيْئًا، قُلْتُ: أَكْبَرُ حِينَ أَخْفِضُ صُلْبِي لِلشُّجُودِ، وَحِينَ أَرْفَعُ؟ قَالَ: نَعَمْ لَيْسَ فِيهَا إِلَّا ذَلِكَ، إِلَّا أَنْ يَذْكَرَ انْسَانَ رَبَّهُ، فَأَوْفِ سُجُودَهُمَا، فَإِذَا رَفَعَ صُلْبَهُ فَلْيُنْصِبْهُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَفْصِلِهِ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: سجدہ سہو کب کیا جائے گا؟ انہوں نے جواب دیا: سلام پھیرنے کے بعد مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ السلام علیکم اور سجدہ سہو کے درمیان کوئی اور چیز رکھی جائے۔ میں نے دریافت کیا: جب میں سجدہ سہو کے لیے اپنی پشت کو جھکاؤں گا تو کیا میں تکبیر کہوں گا اور جب اٹھاؤں گا اُس وقت بھی کہوں گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! اس میں صرف یہی چیز ہے البتہ آدمی (سجدہ کے دوران) اپنے پروردگار کا ذکر کرے گا اور اپنے سجدے مکمل کرے گا۔ جب وہ اپنی پشت کو اٹھائے گا تو بالکل سیدھا ہو جائے گا یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے جوڑ کی جگہ پر آجائے۔

بَابُ هَلْ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ؟

باب: جو شخص امام کے پیچھے ہو، کیا اُس پر سجدہ سہو لازم ہوگا؟

3506 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ فَلَيْسَ

مَعَهُ مِنْ صَلَاتِهِ سَهْوٌ وَلَا سُجُودٌ

*** ابن جریج نے مطاء کا یہ قول نقل کیا ہے: جب امام کو سہو ہو جائے اور وہ سجدہ سہو نہ کرے تو اُس کے پیچھے موجود شخص

پر بھی نہ تو سہولازم ہوگا اور نہ ہی سجدہ سہولازم ہوگا۔

3507 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ قَالَ:

قُلْتُ: وَإِنْ سَجَدَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ؟ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِمْ سَهْوٌ

*** عطاء فرماتے ہیں: امام کے پیچھے موجود شخص پر سہولازم نہیں ہوگا۔ میں نے دریافت کیا: اگر وہ امام ہر رکعت میں تین

مرتبہ سجدہ کر لے تو بھی نہیں؟ انہوں نے فرمایا: مقتدیوں پر سہولازم نہیں ہوگا۔

3508 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَلَمْ

يَسْجُدْ، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ أَنْ يَسْجُدُوا

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جب امام کو سہو ہو جائے اور وہ سجدہ نہ کرے تو اُس کے پیچھے موجود لوگوں پر سجدہ کرنا لازم

نہیں ہوگا۔

3509 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَادٍ قَالَ: إِذَا سَهَا الْإِمَامُ سَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ، وَإِذَا

سَهَا مَنْ خَلْفَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ حَتَّى لَا يَضُرُّهُمْ سَهْوٌ مَعَ الْإِمَامِ

*** ثوری نے حماد کا یہ قول نقل کیا ہے: جب امام کو سہو ہو جائے تو اُس کے پیچھے موجود شخص بھی سجدہ کرے گا اور امام

کے پیچھے موجود شخص کو سہو ہو جائے تو اُن لوگوں پر سجدہ سہولازم نہیں ہوگا یہاں تک کہ امام کے ساتھ سہو کرنا انہیں کوئی نقصان نہیں

پہنچائے گا۔

3510 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ

*** معمر نے زہری اور قتادہ کے حوالے سے اس کی مانند نقل کیا ہے۔

3511 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ مِنَ الصَّلَاةِ

شَيْءٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ نَاسِيًا قَالَ: يَقُومُ فَيُنِي، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتِي السَّهْوِ

*** ابراہیم نخعی ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جس کا نماز کا کچھ حصہ رہ جاتا ہے اور وہ بھول کر سلام پھیر دیتا

ہے تو وہ فرماتے ہیں: وہ کھڑا ہو کر بنا قائم کرے گا اور پھر دو مرتبہ سجدہ سہو کر لے گا۔

بَابُ الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ وَقَدْ سَهَا الْإِمَامُ

باب: جس شخص کی نماز کا کچھ حصہ فوت ہو جائے اور امام کو سہو بھی ہو جائے

3512 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ قَاتَهُ مِنَ الصَّلَاةِ

شَيْءٌ، وَقَدْ سَهَا الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ قَالَ: إِذَا سَلَّمَ وَسَجَدَ فَلَيْسَ سَجْدٌ مَعَهُ، فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَقُمْ، وَلْيَقْصِرْ

*** منصور نے ابراہیم نخعی کا یہ قول نقل کیا ہے: جو ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کی نماز کا کچھ حصہ رہ جاتا ہے اور

امام کو اس کے آنے سے پہلے سہو بھی لاحق ہو چکا ہوتا ہے تو وہ یہ فرماتے ہیں: جب امام سلام پھیر کر سجدہ کرے گا تو وہ شخص بھی امام کے ساتھ سجدہ کرے گا جب امام فارغ ہو جائے گا تو پھر وہ شخص اٹھ کر باقی رہ جانے والی نماز ادا کرے گا۔

3513 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ.

* * یونس نے حسن بصری کے حوالے سے اس کی مانند نقل کیا ہے۔

3514 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ قَنَادَةَ مِثْلَهُ

* * معمر نے قنادہ کے حوالے سے اس کی مانند نقل کیا ہے۔

بَابُ الرَّجُلِ يَسْهُوُ فَيَخْلُطُ الْمَكْتُوبَةَ بِالتَّطَوُّعِ

باب: جو شخص سہو کی وجہ سے فرض نماز کو نفل کے ساتھ ملا دیتا ہے

3515 - آثار صحابہ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ نَسِيَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ

الْفَرِيضَةِ حَتَّى دَخَلَ فِي التَّطَوُّعِ، ثُمَّ ذَكَرَ فَصَلَّى بَقِيَّةَ صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

* * قنادہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ فرض نماز کی ایک رکعت بھول گئے یہاں تک کہ انہوں نے نفل نماز شروع کر دی پھر انہیں یاد آیا تو انہوں نے فرض نماز کا باقی رہ جانے والا حصہ ادا کیا اور جب وہ بیٹھے ہوئے تھے اُس وقت سجدہ سہو کر لیا۔

3516 - اقوال تابعین: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: أَحْسَبُهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ:

إِذَا نَسِيَ شَيْئًا مِنَ الْفَرِيضَةِ حَتَّى يَدْخُلَ فِي التَّطَوُّعِ، ثُمَّ ذَكَرَ، انْصَرَفَ عَلَى شَفْعٍ، وَاسْتَقْبَلَ صَلَاتَهُ، وَكَانَ يَقُولُ: التَّطَوُّعُ بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَهُ

* * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جب کوئی شخص فرض نماز کا کچھ حصہ بھول جائے اور نفل نماز پڑھنی شروع کر دے پھر اُسے یاد آئے تو وہ جفت رکعت ادا کرنے کے بعد اپنی نماز کو ختم کرے گا اور اسے سر تو (فرض) نماز ادا کرے گا اور وہ یہ فرماتے ہیں: نفل نماز ادا کرنا (نماز کے دوران) کلام کرنے کی مانند ہے۔

معمر بیان کرتے ہیں: مجھے اُس شخص نے یہ بات بتائی ہے جس نے حسن بصری کو بھی اس کی مانند کہتے ہوئے سنا ہے۔

3517 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي أَرْبَعٍ جَالِسًا، وَقَدْ فَاتَ

الرَّجُلَ رَكْعَةً، فَقَامَ الرَّجُلُ يَقْضِي وَظَنَّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ سَلَّمَ، فَاتَمَّ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَلَا يَعْدُ لَهَا، وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ الْإِمَامُ

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: جب امام چار رکعات ادا کرنے کے بعد بیٹھا ہو اور کسی شخص کی ایک رکعت فوت ہو جائے تو وہ شخص اٹھ کر قضا ادا کرنے لگے اور یہ گمان کرے کہ امام نے سلام پھیر دیا ہے، لیکن اس کے چوتھی رکعت مکمل کرنے

کے بعد پھر امام سلام پھیرے، تو وہ شخص اس رکعت کو شمار نہیں کرے گا، بلکہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس رکعت کو (دوبارہ) ادا کرے گا۔

3518 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جریج قال: قلنا: إن سها رجل في أول ركعة، فلما صلى ركعتين ظن أنه قد صلى أربعاً، فسجد سجدتي السهو، ثم ذكر فقام فأتته أربعاً، فليعد صلاته من أجل أنه جعل من بين ظهراني صلته تطوعاً يعنى سجدتي السهو قال: ونحن نقول: لا

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: ہم نے سوال کیا: اگر کسی شخص کو پہلی رکعت میں سہو ہو جاتا ہے اور جب وہ دو رکعات ادا کر لیتا ہے، تو وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس نے چار ادا کی ہیں، پھر وہ دو مرتبہ سجدہ سہو کر لیتا ہے، پھر اُسے یاد آتا ہے اور وہ کھڑا ہو کر چار رکعات مکمل کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کو نماز کو دہرانا چاہیے کیونکہ اُس نے اپنی نماز کے دوران ایک نفل نماز شروع کر دی تھی، اُس سے مراد یہ ہے کہ کیا ایسے شخص پر سجدہ سہو لازم ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا: ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا۔

بَابُ الرَّجُلِ يَشْكُ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ الْإِنْصِرَافِ وَلَا يَدْرِي أَصَلَّى أَمْ لَا

باب: جس آدمی کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنی نماز کے بارے میں شک ہو جائے اور اُسے

یہ پتا نہ چلے کہ کیا اُس نے نماز (مکمل طور پر) ادا کی ہے یا نہیں کی ہے؟

3519 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن الحسن قال: إذا كان شكه بعد الإنصراف فلا بأس عليه، وإذا شك أصلى أم لا؟ فإن كان في وقت أعاد، وإن ذهب لم يعد

*** حسن بصری فرماتے ہیں: جب آدمی کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد شک ہو تو اُسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن جب اُسے یہ شک ہو کہ کیا اُس نے نماز ادا کی ہے یا ادا نہیں کی ہے؟ تو اگر تو نماز کا وقت موجود ہوگا، تو وہ نماز دہرا دے گا اور اگر نماز کا وقت رخصت ہو چکا ہوگا، تو وہ نماز کو نہیں دہرائے گا۔

3520 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن شيخ من أهل البصرة، عن أشعث، عن الحسن في رجل لا يدرى أصلى أم لا؟ قال: يُعيد ما كان في وقت تلك الصلاة، فإذا مضى الوقت فليس عليه إعادة

*** حسن بصری ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جسے یہ پتا نہیں چلتا کہ کیا اُس نے نماز ادا کر لی یا نہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں: جب تک نماز کا وقت موجود ہے، تو وہ نماز کو دہرا لے گا، لیکن اگر وقت رخصت ہو چکا ہو تو ایسے شخص پر نماز کو دہرانا لازم نہیں ہوگا۔

3521 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن صاحب له، عن محمد بن جابر، عن حماد، عن إبراهيم قال:

إن أحب إلي أن أعيد الصلاة إلا أن أكون كثير النسيان فأسجد سجدتي السهو

*** حماد نے ابراہیم نخعی کا یہ قول نقل کیا ہے: میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ میں نماز کو دہرا لوں البتہ اگر

مجھے اکثر نسیان لاحق ہوتا ہوتا پھر میں سجدہ سہو کر لوں گا۔

بَابُ الرَّجُلِ يَقْرَأُ السُّورَةَ فِيهَا سَجْدَةٌ فَيَسْهُوُ أَنْ يَسْجُدَ أَوْ يُضِيفَ إِلَيْهَا أُخْرَى
باب: جو شخص کوئی ایسی سورت تلاوت کرتا ہے جس میں سجدہ تلاوت موجود ہو اور وہ سجدہ کرنا بھول

جاتا ہے یا اس کے ساتھ دوسرے سجدہ کو ملا دیتا ہے؟

3522 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَرَأَ فِي الْمَكْتُوبَةِ سُورَةَ فِيهَا سَجْدَةٌ، فَسَهَا فَلَمْ يَسْجُدْ حَتَّى رَكَعَ وَسَجَدَ لَهَا قَالَ: فَلَا يَقْرَأُ، وَيَسْجُدُ سَجْدَتِي السَّهْوِ
** عطاء ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جو فرض نماز میں کسی ایسی سورت کی تلاوت کرتا ہے جس میں سجدہ تلاوت موجود ہوتا ہے اور پھر وہ شخص بھول کر سجدہ نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ رکوع میں چلا جاتا ہے اور پھر اس کے لیے سجدہ کرتا ہے۔ تو عطاء فرماتے ہیں: وہ تلاوت نہیں کرے گا اور سجدہ سہو کر لے گا۔

3523 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَادًا عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَقَرَأَ السَّجْدَةَ فَرَكَعَ بِهَا، وَنَسِيَ أَنْ يَسْجُدَهَا حَتَّى رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ: يَسْجُدُ سَجْدَتِي الرَّكْعَةِ حَتَّى إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ

** معمر بیان کرتے ہیں: میں نے حماد سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو نماز ادا کرتے ہوئے آیت سجدہ تلاوت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی رکوع میں چلا جاتا ہے وہ سجدہ کرنا بھول جاتا ہے یہاں تک کہ اپنا سر اٹھا لیتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں: ایسا شخص اس رکعت کے دو سجدے کرے گا پھر جب وہ نماز مکمل کر لے گا تو دو مرتبہ سجدہ سہو کرے گا۔

بَابُ الرَّجُلِ يَسْهُوُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

باب: جس شخص کو رکوع یا سجدہ میں سہو ہو جاتا ہے

3524 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ شَكَّكَ فِي السُّجُودِ فَلَا تُعَدُّ وَاسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهْوِ، وَإِنْ اسْتَيْقَنْتَ أَنَّكَ قَدْ سَجَدْتَ فِي رَكْعَةٍ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ فَلَا تُعَدُّ، وَاسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهْوِ، قُلْتُ: فَمَا لِلرُّكُوعِ لَا يَكُونُ كَذَلِكَ؟ قَالَ: إِنْ الرُّكُوعَ أَشَدُّ، فَإِنْ نَسِيتَ الرَّكْعَةَ ثُمَّ اسْتَيْقَنْتَ فَأَعِدْهَا
** ابن جریج نے عطاء کا یہ قول نقل کیا ہے: اگر تمہیں سجدہ کے بارے میں شک ہو جاتا ہے تو تم نماز کو نہیں ڈہراؤ گے اور سجدہ سہو کر لو گے اور اگر تمہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ تم نے ایک رکعت میں تین سجدے کر لیے تھے تو تم نماز کو نہیں ڈہراؤ گے اور (نماز کے آخر میں) دو مرتبہ سجدہ سہو کر لو گے۔ میں نے دریافت کیا: رکوع کا کیا حکم ہے کہ وہ اس کی مانند نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا: رکوع زیادہ شدید ہے اگر تم رکوع کرنا بھول جاتے ہو اور تمہیں اس بات کا یقین ہو تو تم نماز کو ڈہراؤ گے۔

3525 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ فَرَكَعَ، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ سَاجِدٌ أَنَّهُ لَمْ يَسْجُدْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى إِلَّا سَجْدَةً وَاحِدَةً قَالَ: لَا يَعْتَدُّ بِهَذِهِ الرَّكْعَةِ الَّتِي ذَكَرَ وَهُوَ سَاجِدٌ، وَلَكِنْ لِيَرْفَعَ رَأْسَهُ فَلْيَسْجُدِ الَّتِي فَاتَتْهُ، وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتِي الرَّكْعَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا، ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهْوِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: وَإِنْ ذَكَرَ بَعْدَمَا سَجَدَ سَجْدَةً اعْتَدَّ بِهَا، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَهُ الَّتِي فَاتَتْهُ، ثُمَّ لِيَسْجُدْ إِلَى سَجْدَتِهِ الْأُولَى أُخْرَى، وَإِنْ ذَكَرَ وَهُوَ قَائِمٌ سَجَدَ، ثُمَّ عَادَ قَائِمًا إِلَى حَيْثُ كَانَ يَقْرَأُ مِنْ قِرَاءَتِهِ، وَإِنْ نَسِيَ الرَّجُلُ الرَّكُوعَ لَمْ يَعْتَدَّ بِسُجُودِهِ، وَقَضَى الرَّكُوعَ وَالسُّجُودَ مُسْتَأْنِفًا

*** امام عبد الرزاق نے سفیان ثوری کا یہ قول نقل کیا ہے: جو ایسے شخص کے بارے میں ہے جو کھڑا ہو کر تلاوت کرتا ہے

پھر رکوع میں جاتا ہے پھر ایک مرتبہ سجدہ کرتا ہے اور پھر کھڑا ہو کر تلاوت شروع کر دیتا ہے پھر رکوع میں جاتا ہے پھر جب وہ سجدہ کی حالت میں ہوتا ہے تو اُسے یاد آتا ہے کہ اُس نے پہلی رکعت میں صرف ایک ہی مرتبہ سجدہ کیا تھا تو ایسے شخص کے بارے میں سفیان ثوری یہ فرماتے ہیں کہ وہ اس رکعت کو شمار نہیں کرے گا جس کے سجدہ کے دوران اُسے یاد آیا (کہ پچھلی رکعت میں اُس نے ایک ہی سجدہ کیا تھا) وہ اپنے سر کو اٹھائے گا اور وہ سجدہ کرے گا جو رہ گیا تھا پھر دو مرتبہ وہ سجدے کرے گا جو اُس رکعت کے ہیں جسے اُس نے ابھی ادا کیا ہے پھر جب وہ نماز سے فارغ ہوگا (تو آخر میں) دو مرتبہ سجدہ سہو کر لے گا۔ وہ فرماتے ہیں: اگر دوسری مرتبہ سجدہ کرنے کے بعد اُسے یہ بات یاد آتی ہے تو پھر وہ اُس سجدہ کو شمار کرے گا اور پھر وہ اُس سجدہ کو کرے گا جو فوت ہو گیا تھا پھر وہ پہلے والے سجدہ کے ساتھ ایک اور سجدہ کرے گا اور اگر اُسے یہ بات اُس وقت یاد آتی ہے جب وہ قیام کی حالت میں ہو تو وہ سجدہ میں چلا جائے گا اور پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے گا جہاں وہ پہلے تلاوت کر رہا تھا اور اگر کوئی شخص رکوع کرنا بھول جاتا ہے تو اُس کا سجدہ شمار نہیں ہوگا وہ نئے سرے سے رکوع اور سجدہ کو ادا کرے گا۔

3526 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَةً فِي أَوَّلِ صَلَاتِهِ، حَتَّى صَلَّى ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ أَوْ أَرْبَعًا قَالَ: إِذَا ذَكَرَهَا خَرَّ سَاجِدًا، وَإِذَا ذَكَرَهَا بَعْدَمَا يَرُكِعُ مَضَى فِي رُكُوعِهِ وَسَجَدَ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ

*** قتادہ فرماتے ہیں: جو شخص نماز کے آغاز میں سجدہ کرنا بھول جاتا ہے یہاں تک کہ تین یا چار رکعات ادا کر لیتا ہے تو وہ یہ فرماتے ہیں: جب اُسے سجدہ کرنا یاد آئے گا تو وہ سجدہ میں چلا جائے گا اور اگر اُسے رکوع میں جانے کے بعد یہ بات یاد آتی ہے تو وہ رکوع کو جاری رکھے گا اور پھر بعد میں تین سجدے کر لے گا۔

3527 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ رَكَعَ ثُمَّ سَهَا فَسَجَدَ سَجْدَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ قَائِمٌ قَالَ: يُتِمُّ صَلَاتَهُ فَإِذَا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ، قُلْتُ: وَلَا يَخْرُ سَاجِدًا إِذَا ذَكَرَهَا؟ قَالَ: أَمَا بَعْدُ قِيَامِهِ

*** عطاء ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو رکوع میں جاتا ہے پھر بھول جاتا ہے اور صرف ایک ہی سجدہ

کرتا ہے پھر جب وہ قیام کی حالت میں ہوتا ہے اُس وقت اُسے یہ بات یاد آتی ہے تو عطاء فرماتے ہیں: وہ شخص اپنی نماز کو مکمل کرے گا جب وہ سلام پھیرے گا تو دو مرتبہ سجدہ سہو کر لے گا۔ میں نے دریافت کیا: جب اُسے یہ یاد آئے گا (کہ اُس نے سجدہ نہیں کیا) تو کیا وہ سجدہ میں نہیں جائے گا؟ انہوں نے فرمایا: کیا وہ قیام کے بعد (سجدہ میں جائے گا)۔

3528 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الرَّابِعَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ سَجْدَةً قَالَ: يَسْجُدُ أَرْبَعًا مُتَوَالِيَاتٍ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتِي السَّهْوِ * * سفیان ثوری ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو چار رکعات ادا کرنے کے بعد بیٹھتا ہے اور پھر اُسے یاد آتا ہے کہ اُس نے ہر رکعت میں ایک سجدہ بھول گیا تھا تو ثوری فرماتے ہیں: وہ چار مسلسل سجدے کرے گا پھر تشہد کے کلمات پڑھے گا پھر سلام پھیرے گا پھر دو مرتبہ سجدہ سہو کرے گا۔

3529 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ صَالِحٍ - مَوْلَى التَّوَّامَةِ - أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِرُكُوعٍ * * صالح بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: رکوع کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

بَابُ إِنَّكَ إِنْ تَسْجُدَهُمَا فِيمَا لَيْسَ عَلَيْكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمَا فِيمَا عَلَيْكَ

باب: تمہارا یہ دو سجدے ایسی صورت میں کرنا جب یہ تم پر لازم نہ ہوں یہ تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جب یہ تم پر لازم ہوں اور تم انہیں ترک کر دو

3530 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ دَرَّاسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشِيِّ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا شَأْنُكَ يَا أَبَا عُمَرَ؟ قَالَ: خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ سَهْوَتٌ قَالَ: قُلْتُ: لَوْ سَهَوْتُ لَسَبَّحْنَا قَالَ: خَشِيتُ أَنْ تَكُونُوا نَسِيتُمْ كَمَا نَسِيتُ

* * یونس بن درافس بیان کرتے ہیں: میں نے ابراہیم نخعی کے پیچھے شام کی کوئی ایک نماز ادا کی تو جب انہوں نے سلام پھیرا تو دو مرتبہ سجدہ سہو کیا میں نے کہا: اے ابو عمران! آپ کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا: مجھے یہ اندیشہ ہے کہ مجھے سہو ہو گیا تھا۔ راوی کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا: اگر آپ کو سہو ہوا ہوتا تو ہم سبحان اللہ کہہ دیتے۔ انہوں نے کہا: مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ تم لوگ بھی اسی طرح بھول گئے ہو گے جس طرح میں بھول گیا۔

3531 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ حَمَادٍ: نَسِيتُمْ كَمَا نَسِيتُ * * حماد (یہ الفاظ نقل) فرماتے ہیں: تم لوگ بھی اسی طرح بھول گئے جس طرح میں بھول گیا۔

3532 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: اِنَّكَ اِنْ تَسَجَّدَهُمَا فِيمَا

لَيْسَ عَلَيْكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ اَنْ تَدْعَهُمَا فِيمَا عَلَيْكَ، يَعْنِي: سَجَدَتِي السَّهْوِ

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جس صورت حال میں تم پر یہ سجدے لازم نہیں ہوتے، اُس وقت تمہارا ان دونوں سجدوں کو کر لینا تمہارے لیے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ جس صورت حال میں یہ تم پر لازم ہوتے ہیں، اُس میں تم ان دونوں کو ترک کر دو۔ ابراہیم نخعی کی مراد سہو کے دو سجدے تھے۔

3533 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ الْكَلَّاعِيِّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ سَالِمٍ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ

*** حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: ہر قسم کے سہو کے لیے سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کیے جائیں گے۔

بَابُ الرَّجُلِ يَسْهُو عَنْ صَلَاةٍ لَا يَدْرِي مَا هِيَ

باب: جو شخص نماز ادا کرنا بھول جائے اور اُسے یہ پتا نہ چلے کہ وہ کون سی نماز تھی؟

3534 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ فَاتَتْهُ اِحْدَى صَلَاتِي الْعِشِيِّ وَلَا يَدْرِي الظُّهْرَ

اَوْ الْعَصْرَ قَالَ: لَا يَبْدُو اَيُّ صَلَاتِي الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ

*** سفیان ثوری ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جس کی شام کی کوئی ایک نماز رہ جاتی ہے اور اُسے یہ پتا نہیں چلتا کہ وہ ظہر کی نماز تھی یا عصر کی؟ تو سفیان ثوری فرماتے ہیں: اُس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے ظہر کی نماز ادا کرے اور پھر عصر کی نماز ادا کرے۔

3535 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ نَسِيَ يَوْمَ السَّبْتِ صَلَاةَ الظُّهْرِ اَوْ صَلَاةَ

الْعَصْرِ، وَلَا يَدْرِي اَيَّتَهُمَا نَسِيَ يَوْمَ الْاِحْدِ قَالَ: يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، ثُمَّ يُصَلِّي الظُّهْرَ اَيْضًا

*** سفیان ثوری ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو ہفتہ کے دن ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھنی بھول جاتا ہے اور اُسے یہ پتا نہیں چلتا کہ وہ اتوار کے دن ان دونوں میں سے کون سی نماز بھول گیا تھا، تو سفیان ثوری فرماتے ہیں: وہ پہلے ظہر کی اور عصر کی نماز ادا کرے گا، پھر اُس کے بعد ظہر کی نماز دوبارہ ادا کرے گا۔

3536 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُقَاتِلٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلَاةً وَّاحِدَةً مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ،

وَلَا يَدْرِي اَيَّتَهُنَّ الَّتِي نَسِيَ؟ قَالَ: يُصَلِّي الْغَدَاةَ، ثُمَّ الظُّهْرَ، ثُمَّ الْعَصْرَ، كُلَّ صَلَاةٍ مِنْهُنَّ بِاقَامَةٍ، وَاِنْ نَسِيَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَلَا يَدْرِي اَيَّتَهُنَّ هِيَ فَلْيُصَلِّ الْمَغْرِبَ بِاقَامَةٍ وَالْعِشَاءَ بِاقَامَةٍ، فَاِنْ كَانَ الَّذِي لَا يَدْرِي

أَيَّتَهُنَّ الَّتِي نَسِيَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ بِإِقَامَةٍ إِقَامَةٍ

*** اذ فرماتے ہیں: جو شخص دن کی کوئی ایک نماز پڑھنی بھول جاتا ہے اور اسے یہ پتا نہیں چلتا کہ وہ کون سی نماز بھول گیا تھا۔ تو وہ فرماتے ہیں: وہ پہلے فجر کی نماز ادا کرے گا، پھر ظہر کی، پھر عصر کی اور ان میں سے ہر ایک نماز اقامت کے ساتھ ادا کرے گا، اگر وہ شخص رات کی نماز ادا کرنا بھول جاتا ہے اور اسے یہ پتا نہیں چلتا کہ وہ کون سی نماز تھی، تو وہ پہلے اقامت کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کرے گا، پھر اقامت کے ساتھ عشاء کی نماز ادا کرے گا، اور اگر اسے یہ پتا نہیں چلتا کہ وہ کون سی نماز پڑھنی بھول گیا تھا رات کی نماز تھی یا دن کی نماز تھی؟ تو پھر وہ تمام نمازیں ایک ایک اقامت کے ساتھ ادا کرے گا۔

بَابُ إِذَا اجْتَمَعَ السَّهْوُ وَالتَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ

باب: جب ایام تشریق میں سہو اور تکبیر اکٹھے ہو جائیں (تو کیا، کیا جائے گا؟)

3537 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: اخْتَلَفَ الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ فِي رَجُلٍ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، فَقَالَ الْحَسَنُ: يُكَبِّرُ مَعَ الْإِمَامِ إِذَا كَبَّرَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَقْضِي مَا فَاتَهُ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: يَقُومُ فَيَقْضِي، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَبَّرَ بَعْدُ وَأَحَبُّ إِلَيَّ سُفْيَانَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: يَقُومُ فَيَقْضِي

*** ہشام بیان کرتے ہیں: حسن بصری اور ابن سیرین کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہو گیا جس شخص کی نماز کا کچھ حصہ امام کے ساتھ رہ جاتا ہے اور ایام تشریق میں ایسا ہوتا ہے؟ تو حسن بصری فرماتے ہیں: جب امام تکبیر کہے گا، تو پہلے وہ امام کے ساتھ تکبیر پڑھے گا، پھر اٹھ کر جو نماز رہ گئی تھی اسے ادا کرے گا۔

جبکہ ابن سیرین کہتے ہیں: وہ اٹھ کر نماز ادا کر لے گا، جب نماز پڑھ کر فارغ ہو جائے گا اس کے بعد وہ تکبیر کہے گا۔ سفیان ثوری کے نزدیک ابن سیرین کا قول زیادہ پسندیدہ ہے، وہ یہ فرماتے ہیں: وہ شخص اٹھ کر پہلے نماز ادا کرے گا (اس کے بعد تکبیر کہے گا)۔

3538 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ

*** سفیان ثوری نے ایک اور سند کے ساتھ ابراہیم نخعی کے حوالے سے وہی قول نقل کیا ہے، جو حسن بصری کے قول کی مانند ہے۔

3539 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ مَعَ الْإِمَامِ قَالَ: يَقُومُ فَيَقْضِي، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَبَّرَ بَعْدُ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ،

*** امام عبدالرزاق امام ابوحنیفہ کے حوالے سے حماد کے حوالے سے ابراہیم نخعی کا قول نقل کرتے ہیں: جو ایسے شخص

کے بارے میں ہے، جس کی نماز کا کچھ حصہ امام کی اقتداء میں رہ جاتا ہے اور یہ ایام تشریق میں ہوتا ہے تو ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: وہ اٹھ کر نماز ادا کرے گا جب وہ نماز سے فارغ ہو جائے گا اُس کے بعد تکبیر پڑھے گا۔

(اس روایت کے مطابق ابراہیم نخعی کی رائے) ابن سیرین کے قول کی مانند ہے۔

3540 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ لِأَبِي حَنِيفَةَ أَحْسَنَ مِنْ هَذَا

الْحَدِيثِ

*** امام عبدالرزاق فرماتے ہیں: عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں: میں نے امام ابوحنیفہ سے اس سے زیادہ عمدہ روایت

اور کوئی نہیں سنی۔

بَابُ نَسْيَانِ سَجْدَتِي السَّهْوِ

باب: سجدة سہو کو بھول جانا

3541 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: فِي كُلِّ مَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَسْجُدَ

سَجْدَتِي السَّهْوِ إِذَا نَسَيْتَهُمَا حَتَّى تَقُومَ، فَارْكَعْ رَكَعَتَيْنِ إِذَا ذَكَرْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ

*** ابن جریج نے عطاء کا یہ قول نقل کیا ہے: ہر وہ صورت حال جس میں تمہیں سجدة سہو کرنا چاہیے اگر تم سجدة سہو کرنا

بھول جاتے ہو اور پھر اٹھ جاتے ہو تو جب تمہیں فرض نماز کے بارے میں یہ چیز یاد آتی ہے تو تم دو رکعات ادا کرو گے۔

3542 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ نَسِيَ سَجْدَتِي السَّهْوِ

قَالَ: إِذَا لَمْ يَذْكُرْهُمَا حَتَّى انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْجُدْهُمَا، فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ، فَإِنْ ذَكَرَهُمَا وَهُوَ قَاعِدٌ لَمْ يَقُمْ

يَسْجُدْهُمَا

*** قتادہ نے حسن بصری کا یہ قول نقل کیا ہے: جو ایسے شخص کے بارے میں ہے جو سجدة سہو کرنا بھول جاتا ہے وہ یہ

فرماتے ہیں: اگر اُسے سجدة سہو کرنا یاد نہیں آتا یہاں تک کہ وہ نماز ختم کر دیتا ہے اور یہ دونوں سجدے نہیں کرتا تو اُس کی نماز ادا ہو

جائے گی اگر یہ دونوں اُسے اُس وقت یاد آتے ہیں جب وہ بیٹھا ہوا تھا اور ابھی کھڑا نہیں ہوا تھا تو وہ اُس وقت یہ دونوں سجدے کر

لے گا۔

3543 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَسِيتُ سَجْدَتِي السَّهْوِ فَتَحَدَّثْتُ

أَوْ عَلِمْتُ وَلَمْ أَقُمْ قَالَ: فَاسْجُدْهُمَا قَالَ: فَإِنْ كَانَ حِينَ فَرَغْتَ وَلَمْ تَتَكَلَّمْ ثُمَّ ذَكَرْتَ قَالَ: فَاجْلِسْ فَاجْلِسْ،

فَاسْجُدْهُمَا

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں سجدة سہو بھول جاتا ہوں پھر میں بات چیت کر لیتا

ہوں یا کلام کر لیتا ہوں اور کھڑا نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے فرمایا: تم یہ دونوں سجدے کر لو۔ انہوں نے یہ فرمایا: جب تم فارغ ہو جاتے

ہو اور ابھی تم نے کلام نہیں کیا تھا اور پھر تمہیں یہ بات یاد آتی ہے تو تم بیٹھو اور یہ دونوں سجدے کر لو۔

3544 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلْمَةَ بْنِ نُبَيْطِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: سَهَوْتُ فَاتَيْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مَزَاحِمٍ فِي مَنْزِلِهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي سَهَوْتُ، فَقَالَ: اسْجُدْهُمَا الْآنَ قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَمَّا غَيْرُهُ فَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ ذَكَرَهُمَا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ أَنْ يَسْجُدَهُمَا وَالْآنَ فَلَا

*** سلمہ بن نبیط اشجعی بیان کرتے ہیں: مجھے سہواً حق ہو گیا، میں ضحاک بن مزاحم کے پاس ان کے گھر آیا، میں نے کہا: مجھے سہواً ہو گیا ہے، انہوں نے فرمایا: تم اب یہ دونوں سجدے کر لو۔

سفیان ثوری فرماتے ہیں: جہاں تک دیگر حضرات کا تعلق ہے تو وہ اس بات کو مستحب سمجھتے ہیں کہ آدمی کو اگر مسجد میں رہنے کے دوران یہ دونوں سجدے یاد آ جائیں تو وہ ان دونوں کو کر لے گا، ورنہ نہیں کرے گا۔

3545 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ، سَهَا فِي صَلَاتِهِ، فَتَكَلَّمَ بَعْدَهَا سَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ، فَقِيلَ لَهُ فَتَّحَى وَسَجَدَهُمَا

*** ابن اسحاق بیان کرتے ہیں: علقمہ بن قیس کو نماز میں سہواً ہو گیا، انہوں نے سلام پھیرنے کے بعد اور سجدہ سہواً کرنے سے پہلے کلام کر لیا، ان سے اس بارے میں بات کی گئی تو وہ ایک طرف بٹھے اور انہوں نے یہ دونوں سجدے کر لیے۔

3546 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلْقَمَةَ أَوْهَمَ فِي صَلَاتِهِ فَسَلَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّكَ أَوْهَمْتَ، فَقَالَ: أَكْذَلِكُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَتَنَى رِجْلَهُ فَسَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَمِعْتُ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّهُ انْفَتَلَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّكَ لَمْ تَسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهْوِ فَتَحَرَّفَ لِلْقِبْلَةِ فَسَجَدَهُمَا

*** حسن بن عبید اللہ نے ابراہیم نخعی کا یہ بیان نقل کیا ہے: ایک مرتبہ علقمہ کو نماز کے دوران وہم ہوا اور انہوں نے سلام پھیر دیا، ایک شخص نے کہا: آپ کو وہم ہو گیا ہے، انہوں نے کہا: کیا ایسا ہی ہوا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا: جی ہاں! تو علقمہ نے ٹانگ کو موڑا اور دو مرتبہ سجدہ سہواً کر لیا۔

معمربیان کرتے ہیں: میں نے ایک شخص کو یہ ذکر کرتے ہوئے سنا ہے: علقمہ نے نماز ختم کر دی تھی اور ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ نے سجدہ سہواً نہیں کیا تھا؟ تو انہوں نے پھر اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ دونوں سجدے کر لیے۔

3547 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: إِذَا قُمْتَ فِي التَّطَوُّعِ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ، أَوْ جَلَسْتَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ، فَاسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهْوِ؟ يَقُولُ: إِذَا سَهَا فِيهَا فَلَا يَسْجُدُ وَيَتَوَخَّى الْإِمَامُ فِيهَا

*** عطاء فرماتے ہیں: جب تم نفل نماز میں اس مقام پر کھڑے ہو جاؤ جہاں بیٹھنا تھا یا اس موقع پر بیٹھ جاؤ، جہاں کھڑے ہونا تھا تو تم دو مرتبہ سجدہ سہواً کر لو۔

وہ یہ فرماتے ہیں: جب آدمی کو اس نماز میں سہواً ہو جائے تو وہ سجدہ نہیں کرے گا، اور امام کے لیے اس میں گنجائش ہے۔

بَابُ السَّهْوِ فِي سَجْدَتِي السَّهْوِ فِي التَّطَوُّعِ

باب: نفل نماز میں سجدہ سہو کے بارے میں سہو ہو جانا

3548 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ فِي سَجْدَتِي السَّهْوِ

سَهْوٌ يَقُولُ: اِذَا سَهَا فِيهَا فَلَا يَتَوَخَّى فِيهَا وَيَتَوَخَّى التَّمَامَ فِيهَا

* * * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: سجدہ سہو میں سہو نہیں ہوتا وہ یہ فرماتے ہیں: جب اس میں سہو ہو جائے تو اس میں مزید اضافہ نہیں ہوگا اور اس کی بنیاد پر نماز مکمل کر لی جائے گی۔

3549 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: اِذَا سَهَوْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَلَمْ تَدْرِ مَا

صَلَّيْتَ، فَلَا تُعِدُّ، وَلَكِنْ عَلَىٰ اٰخَرَىٰ ذٰلِكَ فِي نَفْسِكَ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهْوِ

* * * عطاء فرماتے ہیں: جب تمہیں نفل میں سہو ہو جائے اور تمہیں یہ پتا نہ چلے کہ تم نے کتنی رکعت ادا کی ہیں؟ تو تم اس

نماز کو نہیں دہراؤ گے بلکہ اُس پر بناء قائم کرو گے جو تمہارے ذہن میں سب سے زیادہ قریبی ہوگا اور پھر دو مرتبہ سجدہ سہو کر لو گے۔

3550 - اقوال تابعین: اٰخْبَرَنَا مَعْمَرٌ يَقُولُ: مَنْ اٰخَذَ الْعِلْمَ جُمْلَةً ذَهَبَ مِنْهُ جُمْلَةٌ

* * * معمر فرماتے ہیں: جو شخص پورا علم حاصل کرتا ہے اُس کا علم پورا ہی رخصت ہوتا ہے۔

3551 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: اِنْ سَهَوْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَلَا بَأْسَ اِنْ لَا

تَسْجُدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ

* * * عطاء فرماتے ہیں: اگر تمہیں نفل میں سہو ہو جاتا ہے اور تم سجدہ سہو نہیں بھی کرتے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

3552 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: رَأَيْتُهُ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ ثُمَّ سَجَدَ وَهُوَ جَالِسٌ، فَقُلْتُ

لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: اِنِّي كَثِيرُ السَّهْوِ، فَقُلْتُ: اَفِي التَّطَوُّعِ سَهْوٌ؟ قَالَ: اٰخْبَرَنِي اَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سَيْرِيْنَ اَنَّهُ كَانَ

لَا يَرَىٰ عَلٰى مَنْ سَهَا فِي التَّطَوُّعِ سَهْوًا. قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَرَاهُ سَهْوًا، وَيَسْجُدُ فِيهِ كَمَا يَسْجُدُ فِي الْفَرِيضَةِ

* * * امام عبدالرزاق معمر کے بارے میں فرماتے ہیں: میں نے انہیں نوافل ادا کرتے ہوئے دیکھا پھر جب وہ بیٹھے

ہوئے تھے تو انہوں نے سجدہ کر لیا میں نے دریافت کیا: یہ کیوں کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: مجھے بہت زیادہ سہو لاحق

ہوتا ہے۔ میں نے دریافت کیا: کیا نفل میں بھی سہو ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا: ایوب نے ابن سیرین کے حوالے سے مجھے یہ بات

بتائی ہے کہ جس شخص کو نوافل میں سہو ہو جائے ابن سیرین اُس پر سجدہ سہو کے لازم ہونے کے قائل نہیں تھے جبکہ حسن بصری ایسے

شخص پر سہو کے لازم ہونے کے قائل تھے اور وہ نوافل میں بھی اسی طرح سجدہ سہو کرتے تھے جس طرح فرض نماز میں کرتے تھے۔

3553 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: اِذَا كَانَ وَهْمُهُ فِي التَّطَوُّعِ وَالْوَتْرِ، فَلْيَبْنِ

اِلَىٰ وَهْمِهِ، وَلَا يَسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهْوِ

*** قادمہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی کو نفل نماز یا وتر کی نماز میں وہم ہو جائے تو وہ اپنے وہم پر بناء قائم کرے اور دوسرے سجدہ سہو کرے۔

3554 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَهَا فِي التَّطَوُّعِ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ

*** حسن بصری یہ فرماتے ہیں: جب آدمی کو نفل میں سہو ہو جائے تو وہ دوسرے سجدہ سہو کرے گا۔

3555 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ أَنَّهُ سَأَلَ حَمَادًا، فَقَالَ: اسْجُدْهُمَا إِذَا سَهَوْتَ فِي التَّطَوُّعِ

*** شعبہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے حماد سے سوال کیا تو حماد نے جواب دیا: اگر تمہیں نفل میں سہو ہو جاتا ہے تو تم سجدہ سہو کرو گے۔

3556 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: ذَكَرْتُ لِلثَّوْرِيِّ قَوْلَ ابْنِ سِيرِينَ: لَيْسَ فِي التَّطَوُّعِ سَهْوٌ

*** اسماعیل بن عبد اللہ فرماتے ہیں: میں نے سفیان ثوری کے سامنے ابن سیرین کا قول نقل کیا کہ نفل نماز میں سہو نہیں ہوتا (متن میں ثوری کا جواب منقول نہیں ہے)

3557 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ سَهَوْتَ فِي التَّطَوُّعِ فَاسْجُدْهُمَا فِي آخِرِ صَلَاتِكَ

*** عطاء فرماتے ہیں: اگر تمہیں نفل نماز میں سہو ہو جاتا ہے تو تم نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لو گے۔

3558 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا قُمْتَ فِي التَّطَوُّعِ فِيمَا يُجْلَسُ فِيهِ، أَوْ جَلَسْتَ فِيمَا يُقَامُ فِيهِ، فَاسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهْوِ

*** عطاء فرماتے ہیں: جب تم نفل نماز میں اس موقع پر کھڑے ہو جاؤ جہاں بیٹھنا تھا یا اس جگہ بیٹھ جاؤ جہاں کھڑے ہونا تھا تو تم دوسرے سجدہ سہو کر لو گے۔

3559 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ سَهَوْتَ قَبْلَ الْوُتْرِ اسْجُدْهُمَا بَعْدَ الْوُتْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ

*** ابن جریج عطاء کے بارے میں نقل کرتے ہیں: میں نے ان سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ اگر مجھے وتر سے پہلے سہو ہو جاتا ہے تو کیا میں وتر کے بعد سجدہ سہو کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

3560 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنْ نَسِيتُ أَنْ اسْجُدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ فِي التَّطَوُّعِ حَتَّى انْقَلَبْتُ إِلَى أَهْلِي قَالَ: فَلَا تَسْجُدْهُمَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا تَطَوُّعٌ

*** ابن جریج نے عطاء کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: میں نے اُن سے دریافت کیا: اگر میں نفل نماز میں سجدہ سہو کرنا بھول جاتا ہوں یہاں تک کہ میں اپنے گھر واپس چلا جاتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا: پھر تم یہ دو سجدے نہیں کرو گے کیونکہ یہ دونوں نفل ہیں۔

3561 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ رِثَابٍ، عَنِ الْأَخْنَفِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: دَخَلْتُ بَيْتَ الْمُقَدِّسِ فَوَجَدْتُ فِيهِ رَجُلًا كَثِيرَ السُّجُودِ، فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قُلْتُ: أَتَدْرِي أَعْلَى شَفَعَ انْصَرَفَتْ أُمَّ عَلِيٍّ وَتُرِي؟ قَالَ: إِنْ أَكْ لَا أَدْرِي فَإِنَّ اللَّهَ يَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ أَبِي الْقَاسِمِ، ثُمَّ بَكَأ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ أَبِي الْقَاسِمِ، ثُمَّ بَكَأ، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً، وَكُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ قَالَ: قُلْتُ: أَخْبَرَنِي مَنْ أَنْتَ رَحِمَكَ اللَّهُ؟ قَالَ: أَبُو ذَرٍّ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَتَقَاصَرْتُ إِلَيَّ نَفْسِي

*** احنف بن قیس بیان کرتے ہیں: میں بیت المقدس میں داخل ہوا مجھے اُس میں ایک شخص ملا جو بہت زیادہ سجدے کرتا تھا مجھے اُس میں دلچسپی پیدا ہوئی جب اُس نے نماز مکمل کی تو میں نے دریافت کیا: کیا تم جانتے ہو کہ تم نے جفت رکعات ادا کرنے کے بعد نماز ختم کی ہے؟ یا طاق رکعات کے بعد ختم کی ہے؟ اُس نے کہا: اگر مجھے نہیں پتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے پھر اُس نے کہا: میرے محبوب حضرت ابو القاسم رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے اُس کے بعد وہ رونے لگا۔ پھر اُس نے کہا: میرے محبوب حضرت ابو القاسم رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے پھر وہ رونے لگ گیا پھر اُس نے کہا: میرے محبوب حضرت ابو القاسم رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے (آپ نے فرمایا ہے):

”جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مرتبہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس سجدہ کی وجہ سے اُس شخص کے ایک درجہ کو بلند

کرتا ہے اور اُس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے اور اُس کے لیے ایک نیکی کو نوٹ کرتا ہے۔“

احنف بن قیس کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا: آپ مجھے بتائیں جناب کہ آپ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے! انہوں نے جواب دیا: میں ابو ذر ہوں میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں۔ راوی کہتے ہیں: تو مجھے خود پر بڑی ندامت محسوس ہوئی۔

3562 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، وَخَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنِ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنِ مُطَرِّفٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ كَعْبٍ فَمَرَرْنَا بِرَجُلٍ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ، لَا يَدْرِي أَعْلَى شَفَعَ هُوَ أَمْ عَلِيٍّ وَتُرِي؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا أُرْشِدَنَّ هَذَا، فَتَخَلَّفْتُ فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، أَعْلَى شَفَعَ أَنْتَ أَمْ عَلِيٌّ

3561- سنن الدارمی - کتاب الصلاة باب فضل من سجد لله سجدة - حدیث: 1481 مسند احمد بن حنبل - مسند الانصار حدیث ابی ذر الغفاری - حدیث: 20926 البحر الزخار مسند البزار - الاحنف بن قیس حدیث: 3319 السنن الكبرى للبيهقي - کتاب الصلاة جباء ابواب صلاة التطوع - باب من اجاز ان يصلي بلا عقد عدد حدیث: 4254

وتري؟ قال: قد كفيئت، قلت: من كفاك؟ قال: الكرام الكاتبون قال: ثم قال: من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة، ورفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة قال: ثم قلت: من أنت؟ قال: أبو ذر، قال: فقلت: تكلفت مطرفاً أمه، أبي ذر يعرف السنة، قال: فقال كعب: أين مطرف؟ قال قيل: تخلف يرشد رجلاً راه لا يدري أعلى شفع هو أم على وتر؟ فقال كعب: من سجد لله سجدة كتب الله له بها حسنة ورفع له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة

*** ابو عثمان نہدی نے مطرف کا یہ بیان نقل کیا ہے: ایک مرتبہ میں حضرت کعب بن زیدؓ کے ساتھ جا رہا تھا ہمارا گزرا ایک شخص کے پاس سے ہوا جو رکوع اور سجدے کیے جا رہا تھا اُسے یہ پتا نہیں چل رہا تھا کہ کیا وہ جفت رکعات کے بعد نماز ختم کر رہا ہے یا طاق کے بعد کر رہا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں نے کہا: میں اس شخص کی ضرورت راہنمائی کروں گا۔ پھر میں آگے بڑھا اور میں نے کہا: اے ابو عبد اللہ! کیا تم جفت رکعات کی نماز ادا کرتے ہو؟ یا طاق رکعات کی؟ اُس نے جواب دیا: میری کفایت ہو چکی ہے (اس لیے میں اس کی پرواہ نہیں کرتا) میں نے دریافت کیا: تمہاری کفایت کس نے کی ہے؟ اُس نے جواب دیا: معزز لکھنے والے (فرشتوں نے) یعنی وہ رکعات کا حساب رکھتے ہیں (راوی بیان کرتے ہیں: پھر اُس شخص نے کہا:

”جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مرتبہ سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس سجدہ کی وجہ سے اُس شخص کے لیے ایک نیکی نوٹ کرتا ہے اور اُس کی وجہ سے اُس شخص کے لیے ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اُس سجدہ کی وجہ سے اُس شخص کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے۔“

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: ابو ذر! راوی بیان کرتے ہیں: میں نے کہا: مطرف کی ماں اُسے روئے! (یعنی اپنی ماں کے بارے میں یہ کہا) حضرت ابو ذر غفاریؓ سنت کو زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں۔

راوی بیان کرتے ہیں: اس پر کعب نے کہا: مطرف کہاں ہے؟ تو کہا گیا: وہ پیچھے چلا گیا ہے وہ ایک شخص کی راہنمائی کرنا چاہ رہا تھا جسے اُس نے دیکھا تھا کہ اُسے یہ پتا نہیں چل رہا تھا کہ کیا وہ جفت رکعات کی نماز ادا کر رہا ہے یا طاق رکعات کے بعد نماز ختم کر رہا ہے۔ تو کعب نے کہا:

”جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مرتبہ سجدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس سجدہ کی وجہ سے اُس شخص کے لیے ایک نیکی نوٹ کرتا ہے اور اُس کی وجہ سے اُس شخص کے ایک درجہ کو بلند کرتا ہے اور اُس سجدہ کی وجہ سے اُس شخص کے ایک گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔“

بَابُ الرَّجُلِ يَسْهُو بِهَا فِي التَّكْبِيرِ أَوْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

باب: جس شخص کو تکبیر کہنے میں یا سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ پڑھنے میں سہو ہو جائے

3563 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر قال: سألت الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ فِي مَوْضِعٍ

سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ: اللَّهُ أَكْبَرُ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ سَهْوٌ

*** جابر نامی راوی بیان کرتے ہیں: میں نے امام شعبی سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو سمع اللہ لمن حمدہ کی جگہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو انہوں نے جواب دیا: ایسے شخص پر (سجدہ) سہولازم نہیں ہوگا۔

3564 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ تَكْبِيرِ الصَّلَاةِ أَوْ سَمِعَ

اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَإِنَّهُ يَقْضِيهِ حِينَ ذَكَرَهُ

*** قتادہ فرماتے ہیں: جو شخص نماز میں اللہ اکبر کہنا یا سمع اللہ لمن حمدہ پڑھنا بھول جاتا ہے تو جب وہ اُسے یاد آئے گا

اُس وقت وہ اُسے پڑھ لے گا۔

بَابُ الرَّجُلِ يُحْصِي بِالْحَصَا أَوْ بِالْخُطُوطِ

باب: جو شخص (نماز کے دوران) کنکریاں ہلاتا ہے یا لکیریں (بناتا ہے)

3565 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُّحْصِي الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ

بِالْحَصَى وَالْخُطُوطِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا فرض نماز میں کنکریاں (ہلائیں) یا خطوط (یعنی

لکیریں بنائیں) جاسکتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

بَابُ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ

باب: نماز کے دوران کلام کرنا

3566 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ سَهَوْتُ فِي الْمَكْتُوبَةِ

فَتَكَلَّمْتُ؟ قَالَ: بِلَفْظَةٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: قَدْ انْقَطَعَتْ صَلَاتُكَ، فَعُدَّ لَهَا جَدِيدًا

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اگر میں فرض

نماز کے دوران بھول کر کلام کر لیتا ہوں؟ انہوں نے دریافت کیا: ایک لفظ؟ میں نے جواب دیا: جی ہاں! انہوں نے فرمایا: تمہاری نماز ختم ہو جائے گی، تم نئے سرے سے نماز ادا کرو۔

3567 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ " أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ

صَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ فَرَكَعَ رَكَعَتَيْنِ، فَجَاءَهُ ابْنُ لَهُ صَغِيرٌ فَجَلَسَ إِلَيْهِ، فَكَلَّمَهُ عُرْوَةُ، حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ آتَمَ قَالَ:

فَسَبَّحْنَا بِهِ، فَقَامَ فَرَكَعَ الثَّلَاثَةَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ "

*** سعد بن ابراہیم بیان کرتے ہیں: عروہ بن زبیر نے ان لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھائی، انہوں نے دو رکعات ادا کی

تھیں کہ ان کا چھوٹا بیٹا ان کے پاس آ گیا اور ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ عروہ نے اُس بچے کے ساتھ کوئی کلام کیا، وہ یہ سمجھے کہ شاید

وہ نماز مکمل کر چکے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: ہم نے سبحان اللہ کہہ کر انہیں متنبہ کیا تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے تیسری رکعت بھی ادا کر لی پھر جس، وہ بیٹھے ہوئے تھے اُس وقت انہوں نے سجدہ سہو کر لیا۔

3568 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: إِنَّ عَمَدَ الْكَلَامِ فَلَيْتَمَ صَلَاتَهُ وَافِيَةً، وَقَالَ: إِنَّمَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَهَا، حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ آتَمَ، وَلَوْ عَمَدَهُ

*** عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں: اگر آدمی جان بوجھ کر کلام کرتا ہے تو پھر وہ اپنی نماز کو مکمل کرے گا وہ یہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ نے کلام کیا آپ کو سہو ہوا تھا آپ یہ سمجھے کہ شاید آپ نے نماز مکمل کر لی ہے خواہ آدمی جان بوجھ کے یہ کلام کرے۔

3569 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ يُصَلِّي الظُّهْرَ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ وَأَنْصَرَفَ قَالَ: يُعَوِّذُ لَهَا كَامِلَةً، إِلَّا أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ الَّذِي يَقُولُونَ

*** ابن جریج نے عطاء کا یہ قول نقل کیا ہے: جو ایسے شخص کے بارے میں ہے جو ظہر کی نماز میں دو رکعات ادا کرنے کے بعد سلام پھیر کر نماز ختم کر دیتا ہے تو عطاء یہ فرماتے ہیں: وہ پوری نماز ادا کرے گا البتہ اگر وہ اُس طرح کی صورت حال ہو جس طرح نبی اکرم ﷺ نے کیا تھا جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے (تو حکم مختلف ہے)۔

3570 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَتَكَلَّمَ، وَقَدْ بَقِيََتْ عَلَيْهِ رَكَعَةٌ قَالَ: يَسْتَقْبِلُ صَلَاتَهُ قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فانتَشَرَ ذَكَرُهُ؟ قَالَ: لَا يَضُرُّهُ

*** مغیرہ نے ابراہیم نخعی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: اُن سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا جو نماز ادا کرتے ہوئے کلام کر لیتا ہے حالانکہ ابھی اُس کی ایک رکعت باقی تھی تو ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: وہ نئے سرے سے نماز شروع کرے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں نے اُن سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا جو نماز ادا کر رہا ہوتا ہے اور اس دوران اُس کا آلہ منتشر ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: یہ چیز اُسے نقصان نہیں دے گی۔

3571 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ: بَيْنِي عَلَى مَا مَضَى

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جب کوئی شخص نماز کے دوران کلام کر لے تو وہ نماز کو دہرائے گا۔ اسماعیل بن ابوخالد فرماتے ہیں: جتنی نماز گزر چکی تھی وہ اُس پر بناء قائم کرے گا۔

3572 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، مَرَّ رَجُلٌ يَطْرُدُ شَوْلًا لَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَفْطِنْ، فَصَرَخَ بِهِ عُمَرُ، فَقَالَ: يَا صَاحِبَ الشَّوْلِ رُدَّ إِلَيْكَ، فَرَدَّهَا، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ الْمُتَكَلِّمُ؟ قَالُوا: عُمَرُ قَالَ: يَا لَكَ فِقْهًا يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، قُلْتُ لَهُ: مَا الشَّوْلُ؟ قَالَ: فِرْقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ

*** عبد الرحمن بن زید بن اسلم اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ مکہ کے راستے میں (سفر کے دوران) اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے تھے اسی دوران ایک شخص وہاں سے گزرا جو اپنی اونٹنی کو لے کر جا رہا تھا، نبی اکرم ﷺ نے اُس کی طرف اشارہ کیا، لیکن اُسے سمجھ نہیں آئی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلند آواز میں اُسے کہا: اے اونٹنی والے شخص! اپنے اونٹ کو واپس لے جاؤ! تو وہ اُس اونٹ کو واپس لے گیا، جب نبی اکرم ﷺ نے نماز ادا کر لی، تو آپ نے دریافت کیا: کلام کس نے کیا تھا؟ لوگوں نے بتایا: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے ابن خطاب! تم کتنے سمجھدار ہو!

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے استاد سے دریافت کیا: لفظ ”شول“ کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا: یہ اونٹ کی ایک قسم ہے۔

(یہ اُس اونٹنی کو کہتے ہیں: جس کا دودھ نہ اُترتا ہو اور یہ عام طور پر اُس وقت ہوتا ہے جب وہ سات ماہ کی حاملہ ہو چکی ہو)

3573 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن الحسن، وقتادة، وحماد قالوا في رجل سها في صلاته فتكلم قالوا: يعيد صلاته

*** حسن بصری، قتادہ اور حماد یہ فرماتے ہیں: جو شخص نماز کے دوران بھول کر کلام کر لے، تو وہ نماز کو ڈھرائے گا۔

3574 - احوال تابعین: عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد قال: كانوا يتكلمون في الصلاة، ويعلم الرجل آخاه، حتى نزلت هذه الآية: (وقوموا لله قانتين) (البقرة: 238) فقطعوا الكلام قال: "القنوت: هو السكوت، والقنوت: الطاعة"

*** مجاہد بیان کرتے ہیں: پہلے لوگ نماز کے دوران کلام کر لیا کرتے تھے اور کوئی شخص اپنے بھائی کو کسی چیز کی تعلیم دے دیتا تھا، یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی:

”تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو۔“

تو اُن لوگوں نے کلام کرنا بند کر دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں: یہاں قنوت سے مراد خاموشی اختیار کرنا ہے، ویسے قنوت کا مطلب فرمانبرداری کرنا بھی ہوتا ہے۔

بَابُ الْعُطَاسِ فِي الصَّلَاةِ

باب: نماز کے دوران چھینک آجانا

3575 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن ابراهيم قال: اذا عطست وانت تصلي فاحمد في نفسك

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جب تمہیں نماز ادا کرنے کے بعد چھینک آجائے، تو تم اپنے دل میں الحمد للہ پڑھو۔

3576 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: اخبرنا عمرو بن دينار قال: لا اراني الا وقد

سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: "عَطَسَ إِنْسَانٌ فَتَرَحَّمَ عَلَيْهِ آخِرُ وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّ ذَلِكَ لَا يُفْعَلُ فِي الصَّلَاةِ"

*** عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں: میں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمن کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: ایک مرتبہ ایک شخص کو چھینک آئی تو دوسرے شخص نے نماز ادا کرنے کے دوران اُس کے لیے رحمت کے کلمات کہے تو لوگوں نے کہا: نماز میں ایسا نہیں کیا جاتا۔

3577 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: عَطَسَ رَجُلٌ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ أَعْرَابِيٌّ إِلَى جَنْبِهِ: رَحِمَكَ اللَّهُ، قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: فَظَنَرِ الْيَوْمَ فَقُلْتُ: وَائْتِكَلَاهُ، مَا بَالُهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيَّ، فَضَرَبُوا بِأَكْفِهِمْ عَلَى أَفْخَادِهِمْ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ دَعَانِي، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: يَا أَبِي وَأُمِّي، مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَطُّ خَيْرًا مِنْهُ، وَاللَّهِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي وَلَا شَتَمَنِي، فَقَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ تَسْبِيحٌ، وَتَكْبِيرٌ، وَتَهْلِيلٌ، وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*** زید بن اسلم بیان کرتے ہیں: ایک شخص کو نماز کے دوران چھینک آگئی تو ایک دیہاتی نے جو اُس کے پہلو میں کھڑا ہوا تھا اُس سے یہ کہا: اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے! وہ دیہاتی بیان کرتا ہے: لوگوں نے مجھے گھور کر دیکھا میں نے کہا: تمہارا ستیاناس ہو! تم لوگ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو اُن لوگوں نے اپنے ہاتھ اپنے زانوؤں پر مارے (کہ تم خاموش رہو!)۔ جب نبی اکرم ﷺ نے اپنی نماز مکمل کی تو آپ نے مجھے بلوایا وہ دیہاتی بیان کرتے ہیں: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! اللہ کی قسم! میں نے آپ سے زیادہ بہتر استاد کبھی نہیں دیکھا۔ وہ صاحب بیان کرتے ہیں: اللہ کی قسم! نہ تو نبی اکرم ﷺ نے مجھے ڈانٹا نہ بُرا بھلا کہا آپ نے ارشاد فرمایا: نماز کے دوران لوگوں کا عام کلام کرنا مناسب نہیں ہے یہ تسبیح، تکبیر، لا الہ الا اللہ پڑھنے اور قرآن کی تلاوت کے لیے ہوتی ہے۔ (راوی کہتے ہیں: یا شاید جو بھی نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

بَابُ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ فِي الصَّلَاةِ

باب: نماز کے دوران کھانا پینا

3578 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يُؤْكَلُ فِي الصَّلَاةِ وَلَا يُشْرَبُ، قُلْتُ: فَشَرِبْتُ نَاسِيًا قَالَ: إِنْ كُنْتَ لَمْ تَتَكَلَّمْ فَأَوْفِ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهْوِ، وَإِنْ شَرِبْتَ عَامِدًا فَقَدْ انْقَطَعَتْ صَلَاتُكَ فَأَعِدِ الصَّلَاةَ

*** عطاء فرماتے ہیں: نماز کے دوران کھایا یا پیا نہیں جائے گا میں نے کہا: اگر میں بھول کر کچھ پی لیتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا: اگر تو تم نے کلام نہیں کیا تو جتنی نماز گزر چکی ہے اُس کی بنیاد پر باقی نماز پوری کر لو اور پھر آخر میں سجدہ سہو کر لینا، لیکن

اگر تم نے جان بوجھ کر کیا ہو تو تمہاری منقطع ہو جائے گی اور تم نماز کو ڈھراؤ گے۔

3579 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءً قَالَ: لَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ وَهُوَ يُصَلِّي،

فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ

*** سفیان ثوری نے ایک شخص کے حوالے سے عطاء کا یہ قول نقل کیا ہے: آدمی نماز ادا کرنے کے دوران کچھ کھائے یا

پئے گا نہیں، اگر تو وہ ایسا کرتا ہے تو وہ نماز کو ڈھراؤ گے۔

3580 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكُلُ فِي التَّطَوُّعِ وَأَشْرَبُ وَلَوْ

مَجَّةً؟ قَالَ: لَا لِعَمْرِي، وَلَكِنْ أَنْصَرِفُ وَأَشْرَبُ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا میں نفل نماز کے دوران کچھ کھا سکتا ہوں یا کچھ پی

سکتا ہوں خواہ ایک گھونٹ ہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے! پہلے تم نماز ختم کرو پھر کچھ پیو۔

3581 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ اشْعَثِ، عَنِ اِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ

يُصَلِّي

*** ابراہیم نخعی اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ وہ نماز ادا کرنے کے دوران کچھ پی لیں۔

3582 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ عُثْمَانَ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَشْرَبُ وَهُوَ

يُصَلِّي تَطَوُّعًا

*** عثمان فرماتے ہیں: میں نے سعید بن جبیر کو نفل نماز ادا کرنے کے دوران کچھ پیتے ہوئے دیکھا۔

3583 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ لَيْثٍ، عَنِ طَاوُسٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

*** طاؤس فرماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

3584 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ لَيْثٍ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ فِي فِيهِ الدَّرَاهِمُ أَوْ

الشِّيءُ وَهُوَ يُصَلِّي

قَالَ سُفْيَانُ: وَلَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَفِي حُجْزَتِهِ الطَّعَامُ أَوْ الشِّيءُ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ

*** لیث فرماتے ہیں: یہ بات مکروہ ہے کہ جب آدمی نماز ادا کر رہا ہو اس وقت اس کے منہ میں درہم یا کوئی اور چیز

ہو۔ سفیان فرماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی ایسی حالت میں نماز ادا کرے کہ جب اس کے ڈب میں کھانے کی کوئی

چیز یا کوئی اور چیز ہو۔

3585 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، " كَرِهَ الْأَكْلَ فِي الصَّلَاةِ - أَوْ

قَالَ: هُوَ حَرَامٌ فِي الصَّلَاةِ "

*** ابن سیرین اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ نماز کے دوران کچھ کھایا جائے۔ (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں: وہ

فرماتے ہیں: نماز کے دوران یہ حرام ہے۔

بَابُ الْإِتِّكَاءِ فِي الصَّلَاةِ

باب: نماز کے دوران کسی چیز سے ٹیک لگانا

3586 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: سَهَوْتُ فَاتَّكَأْتُ فِي مَثْنِي، أَوْ قَبْلَ أَنْ أَسْلِمَ تَسْلِيمَ التَّشَهُدِ الْآخِرِ؟ قَالَ: فَصَلِّ مَا بَقِيَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَتَكَلَّمْ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهْوِ قَالَ: وَإِنْ عَمَدْتَ ذَلِكَ فَقَدْ انْقَطَعَتْ صَلَاتُكَ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں دو رکعات کے بعد بھول کر ٹیک لگا لیتا ہوں یا آخری تشهد کا سلام پھیرنے سے پہلے ایسا کر لیتا ہوں تو عطاء نے فرمایا: جو نماز باقی رہ گئی ہے اسے تم ادا کر لو اگر تم نے اس دوران کوئی کلام نہیں کیا اور پھر سجدہ سہو کر لو گے۔ عطاء نے یہ بھی فرمایا: اگر تم جان بوجھ کر ایسا کرتے ہو تو تمہاری نماز منقطع ہو جائے گی۔

بَابُ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ

باب: نماز کے دوران سلام کرنا (یا جواب دینا)

3587 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَلَّمَ عَلَيْهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي بِهِ عَطَاءٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، فَلَقِيتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ فَسَأَلْتُهُ، فَحَدَّثَنِي بِهِ * * امام محمد باقر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے سلام کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز ادا کر رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کا جواب دیا۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء نے امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ روایت مجھے بیان کی تھی، پھر میری ملاقات امام باقر رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور میں نے ان سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی۔

3588 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ عُمَانَ بْنَ مَطْعُونٍ، سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي الصَّلَاةِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ

* * عبید اللہ بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں: حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، آپ اس وقت نماز ادا کرنے کے دوران بیٹھے ہوئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کا جواب دیا۔

3589 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدِ الْحَمِيرِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، سَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فَرَدَّ عَلَيْهِ

السَّلَام

*** حمید حمیری بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں سلام کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُس وقت نماز ادا کر رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کا جواب دیا۔

3590 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ لِي عَوْنُ بَنِ عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ حُمَيْدِ الْحَمِيرِيِّ، عَمَّنْ يُرْضَى بِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَتْ مُهَاجِرَةُ الْحَبَشِ نَزَعَ عَنْ ذَلِكَ، فَكَانَ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَرُدُّ، فَقِيلَ لَهُ: قَدْ كُنْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهُ تَرُدُّ وَأَنْتَ بِمَكَّةَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ شُغْلًا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ هُوَ الَّذِي سَلَّمَ عَلَيْهِ مَرَّجَعَهُ مِنْ مُهَاجِرِهِ مِنَ الْحَبَشِ

*** حمید حمیری اپنی پسندیدہ شخصیت کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں (شاید اس سے مراد حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں) جب حبشہ کے مہاجرین مدینہ منورہ واپس آئے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران سلام کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کا جواب نہیں دیا۔ آپ کی خدمت میں اس حوالے سے گزارش کی گئی کہ اے اللہ کے نبی! جب آپ مکہ میں نماز ادا کر رہے ہوتے تھے اُس وقت تو سلام کا جواب دے دیتے تھے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نماز میں ایک مشغولیت ہوتی ہے۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں: ابن ابویلی نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حبشہ کے مہاجرین کے ہمراہ (مدینہ منورہ) واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تھا (یعنی یہ اُن کا واقعہ ہے)۔

3591 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: عَنْ أَبِي وَائِلٍ - شَكَ مَعْمَرٌ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَرُدُّ بَعْضُهُمْ عَلَيَّ بَعْضِ السَّلَامِ فِي الصَّلَاةِ، حَتَّى سَلَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَلَّمَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَقَعَدَ حَزِينًا يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ نَزَلَ فِيهِ شَيْءٌ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا، أَوْ كَفَى بِالصَّلَاةِ شُغْلًا قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ التَّحِيَّاتِ يَعْنِي التَّشَهُدَ

*** ابووائل حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: پہلے لوگ نماز کے دوران ایک دوسرے کو سلام کا جواب دے دیتے تھے یہاں تک کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی سلام کا جواب دے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب نہیں دیا۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ غمگین ہو کر بیٹھ گئے وہ یہ سمجھے کہ شاید اُن کے بارے میں قرآن کا کوئی حکم نازل ہو گیا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز مکمل کی تو حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ کے سامنے یہ صورت حال ذکر کی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے فرمایا: نماز میں ایک مشغولیت ہوتی ہے۔ (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں) نماز کی اپنی مشغولیت ہی کافی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں التحیات

کی تعظیم نہ دوں! (راوی کہتے ہیں:) یعنی تشہد کے کلمات کی تعظیم نہ دوں!

3592 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، فَسَلَّمْنَا عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْنَا، وَقَالَ: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا

* * ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: پہلے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو (آپ کے نماز ادا کرنے کے دوران) سلام کر دیا کرتے تھے یہاں تک کہ جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس (مدینہ منورہ) آئے اور ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے ہمیں جواب نہیں دیا آپ نے ارشاد فرمایا: نماز میں مخصوص مشغولیت ہوتی ہے۔

3593 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْجِعَهُ مِنَ الْحَبَشَةِ وَهُوَ يُصَلِّي، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى انْقَلَبَ، فَقَالَ: إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا

* * ابن سیرین بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے یہ ان کی حبشہ سے واپسی کی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُس وقت نماز ادا کر رہے تھے حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب نہیں دیا جب آپ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا: نماز میں مخصوص مشغولیت ہوتی ہے۔

3594 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنِ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا جِئْتُ مِنْ أَرْضِ الْحَبَشَةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيَّ، فَأَخَذَنِي مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ، ثُمَّ انْتَضَرْتُهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ ذَكَرْتُ

3592 - صحیح البخاری - کتاب الجمعة ابواب العمل في الصلاة - باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة
حدیث: 1156 صحیح مسلم - کتاب الساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة - حدیث: 869 صحیح ابن خزيمة - جلاء ابواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها جلاء ابواب الكلام المباح في الصلاة والدعاء والذكر - باب نسخ الكلام في الصلاة وحظره بعدما كان مباحا حدیث: 819 مستخرج ابی عوانة - باب في الصلاة بين الاذان والإقامة في صلاة المغرب وغيره بيان حظر الكلام في الصلاة بعد إباحته فيها - حدیث: 1360 صحیح ابن حبان - باب الإمامة والجماعة باب الحدث في الصلاة - ذكر الخبر المصرح بمعنى ما اشرنا إليه حدیث: 2267 سنن ابی داود - کتاب الصلاة باب تفریع ابواب الركوع والسجود - باب رد السلام في الصلاة حدیث: 801 سنن ابن ماجه - کتاب إقامة الصلاة باب البصلي يسلم عليه كيف يرد - حدیث: 1015 مصنف ابن ابی شيبه - کتاب الصلاة الرجل يسلم عليه في الصلاة - حدیث: 4744 السنن الكبرى للنسائي - کتاب السهو رد السلام بالإشارة في الصلاة - حدیث: 534 شرح معانی الآثار للطحاوی - باب الإشارة في الصلاة حدیث: 1660 السنن الصغير للبيهقي - کتاب الصلاة تفریع ابواب سائر صلاة التطوع - باب سجود السهو حدیث: 689 مسند احمد بن حنبل مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه - حدیث: 3769 البحر الزخار مسند البزار - الاعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حدیث: 1336 المعجم الكبير للطبراني - من اسمه عبد الله طرق حدیث عبد الله بن مسعود ليلة الجن مع رسول الله - باب حدیث: 9936

ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحَدِّثُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، وَإِنَّهُ قَضَى - أَوْ قَالَ أَحَدَتْ - أَنْ لَا تَكَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ

*** ابو اہل بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: پہلے ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز ادا کرنے کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے تو آپ ہمیں جواب دے دیتے تھے جب میں حبشہ کی سرزمین سے آیا اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، مجھے اس حوالے سے بڑی پریشانی ہوئی، میں آپ کا انتظار کرتا رہا، جب آپ نے نماز مکمل کی تو میں نے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس معاملہ میں ایک نیا حکم دیا ہے اور اُس نے یہ حکم دیا ہے کہ تم لوگ نماز کے دوران کلام نہ کرو۔

3595 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يُصَلِّي، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ، وَلْيَشِرْ إِشَارَةً، فَإِنَّ ذَلِكَ رَدُّهُ

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک شخص کے پاس سے گزرے جو نماز ادا کر رہا تھا، انہوں نے اُس شخص کو سلام کیا، اُس شخص نے انہیں جواب دیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اُس سے فرمایا: جب کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہو اور اُسے سلام کیا جائے تو وہ جواب میں کلام ہرگز نہ کرے بلکہ اشارہ کر دے یہ اُس کی طرف سے جواب ہوگا۔

3596 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ الرَّجُلُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: إِذَا سَلِمَ عَلَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَرَدَّ عَلَيْهِ إِشَارَةً قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

*** سالم بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو سلام کیا جو نماز ادا کر رہا تھا، اُس شخص نے انہیں جواب دیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اُس کے پاس واپس گئے اور بولے: جب تم نماز ادا کر رہے ہو اور اس دوران تمہیں سلام کیا جائے تو تم اُسے اشارہ کے ذریعہ جواب دو۔

یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں منقول ہے۔

3597 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ يُصَلِّي فِيهِ، وَدَخَلَ مَعَهُ صُهَيْبٌ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَسَأَلْتُ صُهَيْبًا كَيْفَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: كَانَ يُشِيرُ بِيَدِهِ

*** زید بن اسلم بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بات بیان کی ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عمرو بن عوف کی مسجد میں تشریف لے گئے آپ نے وہاں نماز ادا کی آپ کے ساتھ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ بھی مسجد میں چلے گئے، کچھ انصار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا: جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز ادا کرنے کے دوران آپ کو سلام کیا گیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کے ذریعہ اشارہ کر کے (سلام کا جواب دیا تھا)۔

3598 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جریج، عن عطاء قان: رآيت موسى بن جميل وكان مصلياً، وابن عباس يصلى ليلاً إلى الكعبة قال: فرأيت موسى صلى، ثم يعود، ثم انصرف، فمر على ابن عباس فسلم عليه، فقبض ابن عباس على يد موسى هكذا، وقبض عطاء بكفيه على كفيه - قال عطاء: فكان ذلك منه تحية، ولم أر ابن عباس تكلم

* * * عطاء بیان کرتے ہیں: میں نے موسیٰ بن جمیل کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بھی نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا یہ لوگ رات کے وقت خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں نے موسیٰ کو دیکھا کہ انہوں نے نماز ادا کی پھر وہ دوبارہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے نماز مکمل کی پھر ان کا گزر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس سے ہوا تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو سلام کیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنا ہاتھ موسیٰ کے ہاتھ پر اس طرح رکھا۔ پھر عطاء نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر رکھا۔ عطاء کہتے ہیں: یہ ان کی طرف سے سلام کا جواب تھا میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو (نماز کے دوران سلام کا جواب دیتے ہوئے) کلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

3597- سنن ابی داود - کتاب الصلاة' باب تفریع ابواب الركوع والسجود - باب رد السلام فی الصلاة' حدیث: 803 السنن للنسائی - کتاب السهو' باب رد السلام بالإشارة فی الصلاة - حدیث: 1179' سنن ابن ماجه - کتاب إقامة الصلاة' باب المصلي يسلم عليه كيف يرد - حدیث: 1013' سنن الدارمی - کتاب الصلاة' باب كيف يرد السلام فی الصلاة - حدیث: 1384' المستدرک علی الصحیحین للحاکم - کتاب الهجرة' حدیث: 4220' صحیح ابن حبان - باب الإمامة والجماعة' باب الحدث فی الصلاة - ذکر الإباحة للمراء ان يرد السلام إذا سلم عليه وهو يصلي' حدیث: 2289' صحیح ابن خزيمة - جماع ابواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها' جماع ابواب الافعال الباحة فی الصلاة - باب الرخصة بالإشارة فی الصلاة برد السلام إذا سلم علی المصلي' حدیث: 848' مصنف ابن ابی شیبة - کتاب الصلاة' من كان يرد ويشير بيده او براسه - حدیث: 4745' السنن الكبرى للنسائی - العمل فی افتتاح الصلاة' رد السلام بالإشارة فی الصلاة - حدیث: 1091' مشکل الآثار للطحاوی - باب بیان مشکل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه' حدیث: 4996' السنن الكبرى للبيهقي - کتاب الصلاة' جماع ابواب ما يجوز من العمل فی الصلاة - باب الإشارة برد السلام' حدیث: 3166' مسند احمد بن حنبل 'مسند عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما - حدیث: 4431' مسند الشافعی - ومن کتاب الامالی فی الصلاة' حدیث: 193' مسند الحمیدی - حدیث صہیب رضی اللہ عنہ عن رسول الله صلى الله عليه' حدیث: 145' البحر الزخار مسند البزار - ما روى ابن عمر ' حدیث: 1207' مسند ابی یعلی الموصلی - مسند عبد الله بن عمر' حدیث: 5505' مسند الرویانی - حدیث بلال مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم' حدیث: 721' المعجم الكبير للطبرانی - باب الصاد ما اسند صہیب - عبد الله بن عمر' حدیث: 7122

3599 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَصَاءٍ قَالَ: رَأَيْتُ مُوسَى بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَمِيلٍ الْجُمَحِيِّ، سَلَّمَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي قَبْلِ الْكَعْبَةِ، فَأَخَذَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَدَهُ " * * * عطاء بیان کرتے ہیں: میں نے موسیٰ بن عبد اللہ بن جمیل جُمحی کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو سلام کیا تو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اُس وقت خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے تو حضرت عبد اللہ بن عباس نے اُن کا ہاتھ پکڑ لیا۔

3600 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَوْ مَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ مَا سَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ * * * جابر بیان کرتے ہیں: اگر میرا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہو جو نماز ادا کر رہے ہوں تو میں اُن کو سلام نہیں کروں گا۔

3601 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: أَمَا أَنَا فَأَكْرَهُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَى قَوْمٍ يُصَلُّونَ أُخْرِجُهُمْ قَالَ: وَيُسَلِّمُ عَلَيَّ وَأَنَا جَالِسٌ فِي مَثْنَى فَأَرُدُّ حِينَئِذٍ * * * عطاء بیان کرتے ہیں: جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں یہ اس بات کو مکروہ سمجھتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں کو سلام کروں جو نماز ادا کر رہے ہوں اور انہیں حرج میں مبتلا کروں۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں: اگر مجھے اُس وقت سلام کیا جائے جب میں دو رکعات ادا کرنے کے بعد بیٹھا ہوا ہوں تو اُس وقت میں سلام کا جواب دے دوں گا۔

3602 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كُنْتُ قَائِمًا لِتَصَلِّيَ فَكُنْتُ رَادًّا لَوْ سَلَّمَ عَلَيْكَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ أَنْظِرُ أَنْ أَنْصَرِفَ ثُمَّ أَرُدُّ عَلَيْهِ * * * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو سلام کیا جائے تو کیا آپ اُس کا جواب دیں گے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! بلکہ پہلے میں نماز ختم کروں گا پھر اس کا جواب دوں گا۔

3603 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ مَنْصُورٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَرُدُّ عَلَيْهِ، فَإِذَا أَنْصَرَفْتَ فَإِنْ كَانَ قَرِيبًا فَرُدِّ، وَإِنْ كَانَ قَدْ ذَهَبَ فَاتَّبِعْهُ السَّلَامَ * * * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جب تمہیں نماز ادا کرنے کے دوران سلام کیا جائے تو تم اُس کا جواب نہ دو جب تم نماز مکمل کر لو تو اگر وہ شخص قریب ہو تو جواب دے دو اور اگر وہ جاچکا ہو تو اُس کے پیچھے سلام بھیج دو۔

3604 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ قَالَا: يَرُدُّ السَّلَامَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ * * * حسن بصری اور قتادہ فرماتے ہیں: جب آدمی نماز ادا کر رہا ہو تو سلام کا جواب دیدے گا۔

3605 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ وَهُوَ

يُصَلِّي أَسَارَ بِرَأْسِهِ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے نماز ادا کرنے کے دوران انہیں سلام کیا جاتا تھا تو وہ اپنے سر کے ذریعہ (اشارہ کر کے) سلام کا جواب دیتے تھے۔

بَابُ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ ثُمَّ يَرْجِعُ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ

باب: جس شخص کو (نماز ادا کرنے کے دوران) حدث لاحق ہو جائے

اور پھر وہ کوئی کلام کرنے سے پہلے واپس آ جائے

3606 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدٌ رِزًّا أَوْ رُعَافًا أَوْ قَيْنًا فَلْيَنْصَرِفْ وَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَ وَلَا اغْتَدَّ بِمَا مَضَى *** حارث نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان نقل کیا ہے: جب کسی شخص کو (ہوا خارج ہونے کی) پست آواز محسوس ہو یا نکسیر پھوٹ جائے یا قے آجائے تو وہ (نماز کو چھوڑ کر) چلا جائے وہ اپنا ہاتھ ناک پر رکھ لے از سر نو وضو کرے اگر اس نے کلام کر لیا تھا تو نئے سرے سے نماز پڑھے ورنہ جتنی نماز گزر گئی تھی اسے شمار کرے (اور اس سے آگے ادا کرے)۔

3607 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منقول ہے۔

3608 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ الْحَنْفِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ سَعْدِ الْحَنْفِيِّ قَالَ: قَالَ سَلْمَانَ: إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ رِزًّا مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَلْيَنْصَرِفْ، فَلْيَتَوَضَّأْ غَيْرَ مُتَكَلِّمٍ وَلَا بَاغٍ - يَعْنِي عَمِلَ عَمَلًا - ثُمَّ لِيَعُدَّ إِلَى الْآيَةِ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ

*** حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب کسی شخص کو پاخانہ یا پیشاب نکلنے کی صورت محسوس ہو تو اسے (نماز چھوڑ کر) چلے جانا چاہیے اور کوئی کلام کیے بغیر اور کوئی کام کیے بغیر از سر نو وضو کرنا چاہیے اور پھر اس آیت کو دوبارہ پڑھنا چاہیے جو وہ پہلے پڑھ رہا تھا۔

3609 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا رَعَفَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، أَوْ وَجَدَ مَذْيًا فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَتِمُّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى، مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ

*** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جب کسی شخص کی نماز کے دوران نکسیر پھوٹ جائے یا اسے قے آجائے یا اسے ندی محسوس ہو تو اسے (نماز چھوڑ کر چلے جانا چاہیے) اور از سر نو وضو کرنا چاہیے پھر واپس آ کر جتنی نماز گزر چکی تھی اس کے بعد کی باقی نماز مکمل کرنی چاہیے جبکہ اس دوران اس نے کوئی کلام نہ کیا ہو۔

3610 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي الرَّجُلَ إِذَا رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ ذَرَعَهُ قِيءٌ، أَوْ وَجَدَ مَذِيئًا أَنْ يَنْصَرِفَ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ

*** سالم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص کو یہ فتویٰ دیا کہ اگر اُسے نماز کے دوران نکسیر پھوٹ جاتی ہے یا قے آجاتی ہے یا مذی محسوس ہوتی ہے تو اُسے (نماز چھوڑ کر چلے جانا چاہیے) از سر نو وضو کرنا چاہیے اور پھر باقی کی رہ جانے والی نماز کو مکمل کرنا چاہیے جبکہ اُس نے اس دوران کوئی کلام نہ کیا ہو۔

3611 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْقِيءُ وَالرُّعَافُ سَوَاءٌ، يَتَوَضَّأُ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ

*** زہری فرماتے ہیں: قے اور نکسیر ایک جیسی حیثیت رکھتی ہے ان دونوں کی وجہ سے وضو کیا جائے گا اگر آدمی نے کلام نہ کیا ہو۔

3612 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَعَفَ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَدَخَلَ بَيْتَهُ، وَأَشَارَ إِلَى وَضُوءٍ، فَأَتَى بِهِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ دَخَلَ فَاتَمَّ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بَيْنَ ذَلِكَ

*** نافع بیان کرتے ہیں: بعض اوقات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز ادا کر رہے ہوتے تھے اور اس دوران ان کی نکسیر پھوٹ جاتی تھی وہ اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تھے وضو کے پانی کی طرف اشارہ کرتے تھے وہ لایا جاتا تھا وہ وضو کرتے تھے پھر وہ (مسجد میں) داخل ہو کر باقی رہ جانے والی نماز مکمل کر لیتے تھے وہ اس دوران کوئی کلام نہیں کرتے تھے۔

3613 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِيمَنْ رَعَفَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: يَنْفَتِلُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ

*** قتادہ نے ایسے شخص کے بارے میں جس کی نماز کے دوران نکسیر پھوٹ جاتی ہے یہ فرمایا ہے: وہ مڑ کر جائے گا وضو کرے گا اور باقی رہ جانے والی نماز جو مکمل کر لے گا جبکہ اُس نے اس دوران کوئی کلام نہ کیا ہو۔

3614 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَبْرِ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ يَقُولُ: إِنْ رَعَفْتَ فِي الصَّلَاةِ فَاشْدُدْ مِنْخَرَكَ، وَصَلِّ كَمَا أَنْتَ، فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ مِنَ الدَّمِ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ لَا تَتَكَلَّمُ حَتَّى تَبْنِي عَلَى مَا مَضَى

*** سعید بن مسیب فرماتے ہیں: اگر نماز کے دوران تمہاری نکسیر پھوٹ جاتی ہے تو تم اپنے نتھنے کو مضبوطی سے بند کر لو گے اور اسی حالت میں نماز ادا کر لو گے اگر خون باہر نکل آتا ہے تو تم وضو کرو گے اور اس دوران کلام نہیں کرو گے تاکہ جتنی نماز باقی رہے چکی تھی اُس پر بناء قائم کر لو۔

3615 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِنْ كَانَ لَا

يَسْتَمْسِكُ رُغَافَهُ فِي الصَّلَاةِ حَشَاءُ

** * عکرمہ فرماتے ہیں: اگر نماز کے دوران نکسیر نہیں رکتی ہے تو آدمی اس میں روئی رکھ لے گا۔

3616 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنِ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا رَعَفَ الْإِنْسَانُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ انْصَرَفَ، فَغَسَلَ الدَّمَ عَنْهُ، ثُمَّ رَجَعَ وَأَتَمَّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، وَلَا وُضُوءَ عَلَيْهِ

** * طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: جب کسی شخص کی نماز ادا کرنے کے دوران نکسیر پھوٹ جائے تو وہ نماز چھوڑ کر جائے گا اپنے خون کو دھوئے گا پھر واپس آ کر باقی رہ جانے والی نماز کو مکمل کر لے گا جبکہ اس نے اس دوران کلام نہ کیا ہو ایسے شخص پر دوبارہ وضو کرنا لازم نہیں ہوگا۔

3617 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنِ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ رَعَفَ إِنْسَانٌ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَيُصَلِّيَ، فَلْيُصَلِّ مَا بَقِيَ عَلَى مَا مَضَى إِذَا لَمْ يَتَكَلَّمْ وَلَكِنْ عَمْرًا يَقُولُ: إِنْ عَمَدَ الْكَلَامَ فَلْيَسْتَقْبِلْ صَلَاتَهُ وَافِيَةً، وَقَالَ: إِنَّمَا تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَهَا، حَسِبَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ، فَلَمْ يُعَدِّ

** * طاؤس فرماتے ہیں: اگر کسی شخص کی نماز کے دوران نکسیر پھوٹ جاتی ہے اور پھر وہ اس دوران کلام نہیں کرتا یہاں تک کہ وضو کر کے نماز ادا کر لیتا ہے تو وہ باقی رہ جانے والی نماز کو ادا کرے گا جبکہ اس نے اس دوران کلام نہ کیا ہو۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں: تاہم عمرو بن دینار یہ فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کو جب سہواً ہوا تھا تو آپ نے کلام کیا تھا آپ یہ سمجھے تھے کہ آپ نے نماز مکمل کر لی ہے اس لیے آپ نے نماز کو دہرایا نہیں تھا۔

3618 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ أَبِيهِ، يَرُويهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا رَعَفَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ أَوْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَإِنْ كَانَ قَلَسًا يَغْسِلُهُ، أَوْ وَجَدَ مَذِيئًا فَلْيُنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ يَرْجِعْ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَلَا يَسْتَقْبِلْهَا جَدِيدًا، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ لَا يَتَكَلَّمُ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ

** * ابن جریج اپنے والد کے حوالے سے نبی اکرم ﷺ کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: آپ نے ارشاد فرمایا ہے: ”جب کسی شخص کی نماز کے دوران نکسیر پھوٹ جائے یا اُسے قے آجائے اگر چہ وہ منہ بھر کے ہو تو وہ شخص اُسے دھو لے گا یا اگر کسی کو ندی نکلی ہوئی محسوس ہوتی ہے تو وہ نماز چھوڑ کر جائے گا از سر نو وضو کرے گا پھر واپس آ کر باقی نماز ادا کرے گا وہ نئے سرے سے نماز شروع نہیں کرے گا شرط یہ ہے کہ اُس نے باقی رہ جانے والی نماز کی طرف واپس آنے تک اس دوران کوئی کلام نہ کیا ہو۔“

3619 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَحَدَتْ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ حَدَّثًا، ثُمَّ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى تَوَضَّأَ، أَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِ عَلَى مَا مَضَى مِنْهَا، فَإِنْ تَكَلَّمَ اسْتَقْبَلَهَا مُؤْتِنَةً

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: مجھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے: وہ یہ فرماتے ہیں: جب کسی شخص کو نماز کے دوران حدث لاحق ہو جائے تو وہ کلام نہ کرے یہاں تک کہ وضو کر لے اور پھر جتنی نماز گزر چکی تھی اس کی بنیاد پر باقی رہ جانے والی نماز کو مکمل کر لے، اگر وہ اس دوران کلام کر لیتا ہے تو وہ نئے سرے سے شروع سے نماز ادا کرے گا۔

3620 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، وابن جریج، عن الزہری أن المسور بن مخرمة قال: یعیذ

الصلاة، ولا یعتد بشیء مما مضی فی الرعاف

*** زہری بیان کرتے ہیں: حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں: ایسا شخص نماز کو دہرائے گا، نکسیر پھوٹنے کی

صورت میں وہ پہلی گزری ہوئی نماز کو کچھ شمار نہیں کرتے۔

3621 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن سماع الحسن یقول: یستقبل صلاته تکلم أو لم

یتکلم

*** حسن بصری فرماتے ہیں: ایسا شخص نئے سرے سے نماز ادا کرے گا، خواہ اس نے کلام کیا ہو یا کلام نہ کیا ہو۔

3622 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن ایوب، عن ابن سیرین یقولون: یستقبل ما لم یتکلم

فإذا تکلم، حتی لا اکون فی شک احب الی

*** ابن سیرین بیان کرتے ہیں: لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شخص اس وقت نئے سرے سے نماز ادا کرے گا، خواہ اس نے

کلام کیا ہو خواہ نہ کیا ہو تو اس بارے میں مجھے کوئی شک نہ رہے یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے (کہ وہ نئے سرے سے نماز ادا کرے)۔

3623 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوری، عن مغیرة قال: الضحک، والبول، والریح، یعیذ

الوضوء والصلاة، والقیء والرعاف ینبئ إذا لم یتکلم، فإن تکلم استقبل

*** مغیرہ فرماتے ہیں: ہنسنے، پیشاب نکلنے، ہوا خارج ہونے کی صورت میں آدمی وضو اور نماز کو دہرائے گا، جبکہ قے آ

جانے یا نکسیر پھوٹنے کی صورت میں وہ نماز پر بناء قائم کرے گا جبکہ اس نے کلام نہ کیا ہو اگر اس نے کلام کر لیا ہو تو وہ نئے سرے سے نماز ادا کرے گا۔

3624 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن یحیی، عن الثوری، عن مجالد بن سعید أنه سمع ابراہیم

النخعی قال: " ثلاث یعاد منه الوضوء والصلاة: الضحک، والبول، والریح، وثلاث یعاد منه الصلاة ولا

یعاد منه الوضوء: الکلام، والاکل، والشرب، وثلاث یعاد منه الوضوء ولا یعاد منها الصلاة إلا أن یتکلم:

القیء، والرعاف، وما یسیل من الجروح والقروح " قال: وكان ابراہیم یرى القیح والدم

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: تین صورتوں میں وضو اور نماز کو دہرانا پڑتا ہے: (نماز کے دوران) ہنس پڑنا، پیشاب نکل

جانا یا ہوا خارج ہو جانا اور تین صورتوں میں صرف نماز کو دہرانا پڑتا ہے وضو کو نہیں دہرایا جائے گا: (نماز کے دوران) کلام کر لینا،

کچھ کھالینا یا پالی لینا تین صورتوں میں وضو کو دہرایا جائے گا نماز کو نہیں دہرایا جائے گا، اسوائے اس صورت کے جب آدمی اس دوران کلام کرتے آجانا، نکسیر پھوٹ جانا یا زخموں وغیرہ میں سے (پیپ وغیرہ کا) نکل جانا۔
راوی بیان کرتے ہیں: ابراہیم نخعی کے نزدیک پیپ اور خون کے بارے میں یہ حکم ہے۔

3625 - اَقْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: أَيَّمَا رَجُلٍ أَحَدَتْ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيْتَمَّ مَا بَقِيَ، وَإِنْ تَكَلَّمَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِذَا تَكَلَّمَ أَعَادَ الصَّلَاةَ

* * عامر بیان کرتے ہیں: جو شخص نماز کے دوران حدث کا شکار ہو جائے وہ نماز چھوڑ کر جا کر از سر نو وضو کرے گا اور باقی رہ جانے والی نماز کو مکمل کر لے گا، اگرچہ اس نے درمیان میں کلام کر لیا ہو۔
ابراہیم نخعی یہ فرماتے ہیں: جب وہ کلام کر لے گا تو نماز کو دہرائے گا۔

3626 - حَدِيثُ نَبِيِّ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ الْحَمِيرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَقْطَعُ إِلَّا لِثَلَاثٍ: لِرُعَافٍ، أَوْ لِأَحْدَاثٍ، أَوْ لِتَسْلِيمِ الْإِنْصِرَافِ"

* * حضرت عبد اللہ بن کعب حمیری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:
"نماز صرف تین صورتوں میں منقطع ہوتی ہے، نکسیر پھوٹ جائے یا حدث لاحق ہو جائے یا آدمی سلام پھیر کر نماز ختم کرے۔"

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي مُخْطِئًا لِلْقِبْلَةِ

باب: جو شخص غلطی سے قبلہ کی طرف رخ کیے بغیر نماز ادا کر لیتا ہے

3627 - اَقْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ صَلَّيْتَ ثُمَّ فَرَعْتَ، فَإِذَا أَنْتَ لَمْ تَنْصِبِ الْقِبْلَةَ وَلَمْ تَفْتِكِ الصَّلَاةَ، فَعُدْ لِصَلَاتِكَ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتْكَ تِلْكَ الصَّلَاةُ وَلَمْ تَذْكُرْ فَلَا تَعُدْ * * عطاء فرماتے ہیں: اگر تم نماز ادا کر لو اور جب فارغ ہو جاؤ تو تمہیں پتا چلے کہ تمہارا رخ قبلہ کی طرف نہیں تھا اور ابھی نماز کا وقت فوت نہیں ہوا تو تم نماز کو دہراؤ گے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر نماز کا وقت فوت ہو گیا اور تمہیں یاد بھی نہیں رہا تو تم نماز کو نہیں دہراؤ گے۔

3628 - اَقْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتِ

* * حسن بصری فرماتے ہیں: جب تک وقت باقی ہے ایسا شخص نماز کو دہرائے گا۔

3629 - اَقْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَزْحَمُنِي النَّاسُ فِي كَثْرَتِهِمْ

وَيَلْفِتُنِي عَنْ مُنْقَطِعِ الْبَيْتِ، حَتَّى مَا أَكَادُ اسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ، أَوْ مَا أَكَادُ اسْتَقْبِلُ مِنَ الْبَيْتِ شَيْئًا قَالَ: اجْتَهِدْ عَلَى أَنْ تَسْتَقْبِلَهُ، فَإِنْ غَلَبَكَ الْأَمْرُ فَلَا بَأْسَ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: لوگوں کی کثرت کی وجہ سے مجھے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات میرا رخ قبلہ سے ذرا ہٹ جاتا ہے یہاں تک کہ میرا رخ قبلہ کی طرف نہیں رہتا یا قبلہ سے کچھ ہٹ جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا: تم اس بات کی بھرپور کوشش کرو کہ تمہارا رخ قبلہ کی طرف رہے، لیکن اگر یہ چیز تمہارے بس سے باہر ہو جاتی ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

3630 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن ابن المسيب قال: من صلى مُحَطَّنًا لِلْقِبْلَةِ

فَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ

*** سعید بن مسیب فرماتے ہیں: جو شخص قبلہ کی طرف رخ میں غلطی کر جاتا ہے ایسے شخص پر نماز کو ذرا ہٹانا لازم نہیں ہوگا۔

3631 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن ابراهيم قال: من صلى لغير القبلة

أَجْزَاهُ

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جو شخص (غلطی سے) قبلہ کی طرف کی بجائے دوسری طرف رخ کر کے نماز ادا کر لیتا ہے تو

اُس کی نماز جائز ہوگی۔

3632 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن اسرائيل، عن ثوير بن ابي فاختة قال: قلت لمجاهد: صليت

مُنْحَرِفًا عَنِ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: يُجْزِيكَ

*** ثور بن ابوفاختہ بیان کرتے ہیں: میں نے مجاہد سے دریافت کیا: میں ایسی حالت میں نماز ادا کرتا ہوں کہ قبلہ سے

رخ ہٹا ہوا ہوتا ہے انہوں نے فرمایا: یہ تمہارے لیے جائز ہوگا۔

3633 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر

قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة

*** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کرتے ہیں: مشرق اور مغرب کے درمیان میں قبلہ ہے۔

3634 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، وعبد الله الثوري، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر،

عن عمر

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے۔

3635 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوري، عن حكيم بن جبير، عن ابراهيم، وعن عبد الأعلى،

عن سعيد بن جبير قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة

*** سعید بن جبیر فرماتے ہیں: مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے (یعنی قبلہ کی سمت کا خیل رکھا جائے گا)۔

3636 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

* * * نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کرتے ہیں: مشرق اور مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي غَيْرِ وَقْتٍ

باب: جو شخص وقت کے علاوہ میں نماز ادا کر لے

3637 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ فِي أَرْضِ الْحَبَشَةِ فِي يَوْمٍ سَحَابٌ لَمْ يَدْرِ أَحْضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ أَمْ لَا، فَقَالَ: أَصَلَّى فَإِنْ كَانَتْ الْوَقْتُ قَدْ حَضَرَ كُنْتُ قَدْ صَلَّيْتُ، وَإِلَّا أَعَدْتُ قَالَ: فَكَانَ قَدْ صَلَّى فِي الْوَقْتِ قَالَ: يُجْزئُهُ ذَلِكَ

* * * سفیان ثوری ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو حبشہ کی سرزمین پر کسی ایسے دن میں موجود ہوتا ہے جب بادل چھایا ہوا ہوتا ہے اسے یہ پتا نہیں چلتا کہ کیا نماز کا وقت ہو چکا ہے یا نہیں ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا: میں نماز ادا کر لوں گا کیونکہ اگر اس نماز کا وقت ہوا تو میں نے نماز ادا کر لی ہوگی ورنہ میں نماز کو ڈھرا لوں گا۔ سفیان ثوری یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں یہ شخص نماز کو وقت میں ادا کر لے گا۔ وہ فرماتے ہیں: یہ اس کے لیے جائز ہے۔

3638 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ الرَّشَكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ مُحَرَّرِ الْمَازِنِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ صَلَاةَ الْعَصْرِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ، فَلَمَّا أَصَحَّتْ إِذَا هُوَ قَدْ صَلَّى لَهَا لغيرِ وَقْتٍ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ

* * * صفوان بن محرز مازنی بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک بارش والے دن میں ہمیں سر کی نماز پڑھائی جب نماز ادا کر لی تو بعد میں پتا چلا کہ یہ نماز وقت میں ادا نہیں کی گئی تو انہوں نے نماز کو ڈھرا لیا۔

3639 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، أَوِ الصُّبْحَ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ لَمْ أَعْلَمْ حَتَّى فَاتَتْ، فَقَالَ لِي: وَمَا هَذَا؟ وَلَمْ لَا تَعْلَمْ؟ وَكَيْفَ لَا تَعْلَمْ؟

* * * ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں سورج ڈھلنے سے پہلے ظہر کی نماز ادا کر لیتا ہوں یا صبح صادق ہونے سے پہلے فجر کی نماز ادا کر لیتا ہوں پھر مجھے اس بات کا پتا اس وقت چلتا ہے جب نماز کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے فرمایا: یہ کیسے ہو سکتا ہے! تمہیں کیوں نہیں پتا چلا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتا ہی نہ چلے؟

بَابُ الصُّفُوفِ بَعْضُهَا أَيْمَةٌ لِبَعْضٍ

باب: صفوں کا ایک دوسرے کے لیے امام ہونا

3640 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الصُّفُوفُ بَعْضُهَا لِبَعْضٍ

*** امام شععی فرماتے ہیں: صفیں ایک دوسرے کے لیے امام ہوتی ہیں۔

3641 - اِتْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي أَيَّامِ الْحَجِّ وَغَيْرِهَا أَكُونُ بِمَعَزِلٍ عَنِ الْإِمَامِ، أَيَجْزِيَنِي رَفْعُ الْإِمَامِ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَمْ أَنْتَظِرُ رَفْعَ مَنْ عِنْدِي مِمَّنْ يَلِينِي مِنَ النَّاسِ؟ قَالَ: بَلْ يُجْزِيكَ رَفْعُ، وَيُجْزِيءُ أَشَدَّ ذَلِكَ فِي نَفْسِكَ مُوَافَقَتُهُ لِرَفْعِ الْإِمَامِ، إِنْ تَمَّ بِهِ مَا اسْتَطَعْتَ

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے سوال کیا: حج کے موقع پر یا کسی اور موقع پر بعض اوقات میں امام سے بہت دور ہوتا ہوں تو کیا میرے لیے امام کا رکوع یا سجدہ سے سر اٹھالینا جائز ہوگا یا پھر میں اس بات کا انتظار کروں گا جو لوگ میرے قریب کھڑے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر سر اٹھاؤں؟ تو انہوں نے فرمایا: اٹھالینا تمہارے لیے جائز ہوگا اور تمہارے لیے یہ چیز زیادہ ضروری ہے کہ تم سر اٹھانے میں امام کے سر اٹھانے کی موافقت کرو جہاں تک تم سے ہو سکے تم (براہ راست) امام کی پیروی کرو۔

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ جُنُبٌ

باب: آدمی کا جنابت کی حالت میں نماز ادا کر لینا

3642 - حَدِيثُ نُبُوِي: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ لِلنَّاسِ:

3642- صحيح البخارى - كتاب الغسل' باب إذا ذكر في المسجد انه جنب - حديث: 271' صحيح مسلم - كتاب المساجد ومواضع الصلاة' باب متى يقوم الناس للصلاة - حديث: 982' صحيح ابن خزيمة - كتاب الإمامة في الصلاة' جماع ابواب قيام المومنين خلف الإمام وما فيه من السنن - باب افتتاح غير الطاهر الصلاة ناويا الإمامة' حديث: 1530' مستخرج ابى عوانة - باب الدليل على ان من صلى المكتوبة وحده ليس عليه إعادتها' بيان النهى عن القيام إذا أقيمت الصلاة في المسجد من المومنين - حديث: 1049' صحيح ابن حبان - باب الإمامة والجماعة' باب الحدث في الصلاة - ذكر خبر قد يوهم عالما من الناس انه مضاد لخبر ابى' حديث: 2260' سنن ابن ماجه - كتاب إقامة الصلاة' باب ما جاء في البناء على الصلاة - حديث: 1216' السنن للنسائي - كتاب الإمامة' الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه انه على غير طهارة - حديث: 788' السنن الكبرى للنسائي - ذكر الإمامة' الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه انه على غير طهارة - حديث: 852' مشكل الآثار للطحاوى - باب بيان مشكل ما روى عنه عليه السلام في صفوف الناس' حديث: 516' سنن الدارقطني - كتاب الصلاة' باب صلاة الإمام وهو جنب او محدث - حديث: 1179' السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة' جماع ابواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغيره - باب إمامة الجنب' حديث: 3783' معرفة السنن والآثار للبيهقي - كتاب الصلاة' باب الصلاة بالنجاسة - حديث: 1307' مسند احمد بن حنبل - مسند ابى هريرة رضى الله عنه - حديث: 7079' المعجم الصغير للطبراني - من اسمه محمد' حديث: 807' المعجم الاوسط للطبراني - باب العين' باب اليم من اسمه: محمد - حديث: 5524

مَكَانِكُمْ، ثُمَّ دَخَلَ فَاعْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ قِيَامٌ فِي الصُّفُوفِ، وَرَأْسُهُ يَنْطَفُ مَاءً

*** عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بیان کرتے ہیں: نماز کھڑی ہو گئی، نبی اکرم ﷺ تشریف لائے یہاں تک کہ جب آپ جائے نماز پر کھڑے ہوئے تو آپ کو یاد آیا کہ آپ نے غسل نہیں کیا، آپ نے لوگوں سے فرمایا: تم لوگ اپنی جگہ پر رہو! پھر آپ گھر تشریف لے گئے، آپ نے غسل کیا، پھر آپ لوگوں کے پاس واپس تشریف لائے تو وہ اپنی صفوں میں کھڑے ہوئے تھے اور نبی اکرم ﷺ کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔

3643 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَقَهُ الْقَوْمُ جُنُبًا لَمْ يَجِدْ مَاءً

أَيَوْمَهُمْ؟ قَالَ: لَا لِعَمْرِي، وَإِنْ كَانَ أَمِيرًا فَلَا يُؤْتَهُمْ

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: قوم کا سب سے سمجھدار شخص جنسی ہو جاتا ہے اُسے پانی نہیں ملتا تو کیا وہ ان کی امامت کرے گا؟ انہوں نے فرمایا: جی نہیں! مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے! خواہ وہ ان کا امیر ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ ان کی امامت نہیں کرے گا۔

3644 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَالِكِ، عَنِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ زُبَيْدِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ قَالَ:

خَرَجْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى الْجُرُفِ، فَنَظَرَ فَإِذَا هُوَ قَدْ احْتَلَمَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَغْتَسِلْ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أَرَانِي إِلَّا وَقَدْ احْتَلَمْتُ وَمَا شَعُرْتُ، وَصَلَّيْتُ وَمَا شَعُرْتُ قَالَ: فَاعْتَسَلَ وَغَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، وَنَضَحَ مَا لَمْ يَرَ، ثُمَّ أَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ الضُّحَى مُتَمَكِّنًا

*** زبید بن صلت بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ جرف کی طرف جا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جائزہ لیا تو انہیں احتلام ہوا تھا اور انہوں نے غسل کیے بغیر نماز پڑھ لی ہوئی تھی انہوں نے فرمایا: اللہ کی قسم! مجھے احتلام ہو گیا اور مجھے پتا بھی نہیں چلا اور مجھے پتا بھی نہیں چلا اور میں نے اسی حالت میں نماز بھی پڑھ لی۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھر انہوں نے غسل کیا اور اپنے کپڑے پر جو نشان دیکھا تھا اس کو دھویا اور جہاں وہ نشان نظر نہیں آیا تھا اس جگہ پانی چھڑکا پھر انہوں نے اذان دلوائی اقامت کہلوائی اور پھر دن اچھی طرح چڑھ جانے کے بعد (فجر کی نماز) دوبارہ (ادا کی)۔

3645 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ أَبِيهِ نَحْوَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَعَادَ

الصَّلَاةَ وَلَمْ يَلْفَعْنَا أَنَّ النَّاسَ أَعَادُوا

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ ہشام بن عروہ کے حوالے سے ان کے والد سے منقول ہے تاہم اس میں یہ الفاظ ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز کو دہرایا تھا ہم تک یہ روایت نہیں پہنچی کہ لوگوں نے بھی نماز کو دہرایا تھا۔

3646 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الشَّرِيدُ قَالَ:

وَكَنتُ أَنَا وَعَسْرُ بْنُ الْخَطَّابِ جَالِسَيْنِ بَيْنَنَا جَدُولٌ قَالَ: فَرَأَى عُمَرُ فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةً، فَقَالَ: فَرَطَ عَلَيْنَا الْإِحْتِلَامُ. مِنْذُ أَكَلْنَا هَذَا اللَّسَمَ، ثُمَّ غَسَلَ مَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ، وَاعْتَسَلَ وَأَعَادَ الصَّلَاةَ

*** سلیمان بن یسار بیان کرتے ہیں: شریذ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ ایک مرتبہ میں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے ہمارے درمیان ایک نالہ تھا۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑے پر جنابت کا نشان دیکھا تو بولے: جب سے ہم نے یہ چکنائی کھانا شروع کی ہے اُس وقت سے احتلام زیادہ ہونے لگا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے کپڑے پر لگے ہوئے نشان کو دھویا، غسل کیا اور نماز کو دہرایا۔

3647 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَلَّيْتُ جُنْبًا أَوْ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ وَ لَمْ أَعْلَمْ، حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: فَتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ عُدْتُ لِصَلَاتِكَ

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں جنابت کی حالت میں یا بے وضو حالت میں نماز ادا کر لیتا ہوں مجھے اس کا پتا نہیں چلتا یہاں تک کہ اُس کی نماز کا وقت رخصت ہو جاتا ہے۔ تو عطاء نے فرمایا: تم وضو کر کے اپنی نماز کو دہراؤ گے۔

بَابُ الرَّجُلِ يَوْمَ الْقَوْمِ وَهُوَ جُنْبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

باب: جو شخص لوگوں کی امامت کرتا ہے، اگر وہ جنبی ہو یا بے وضو حالت میں ہو (تو کیا کرے گا؟)

3648 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنْبٌ فَأَعَادَ، وَلَمْ يَلْغْنَا أَنَّ النَّاسَ أَعَادُوا

*** عروہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جنابت کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی تو انہوں نے اُس نماز کو دہرایا، لیکن ہم تک یہ روایت نہیں پہنچی کہ لوگوں نے بھی اُس نماز کو دہرایا تھا۔

3649 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ آمَهُمْ وَهُوَ جُنْبٌ، أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَعَادَ الصَّلَاةَ، وَلَمْ يُعِدْ مَنْ وَرَاءَهُ

*** قاسم بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جنابت کی حالت میں لوگوں کی امامت کر دی۔ (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) بے وضو حالت میں امامت کر دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز کو دہرایا لیکن اُن کے پیچھے موجود لوگوں نے نماز کو نہیں دہرایا۔

3650 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، عَنِ سَالِمِ بْنِ ابْنِ عُمَرَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْعَصْرِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَأَعَادَ، وَلَمْ يُعِدْ أَصْحَابُهُ

*** سالم بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے ساتھیوں کو عصر کی نماز پڑھائی، وہ اُس وقت بے وضو تھے تو انہوں نے اُس نماز کو دہرایا، لیکن اُن کے ساتھیوں نے نہیں دہرایا۔

3651 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: ایسا شخص نماز کو دہرائے گا، لیکن لوگ نماز کو نہیں دہرائیں گے۔

3652 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ

*** حسن بصری فرماتے ہیں: وہ شخص نماز کو دہرائے گا، لیکن لوگ نہیں دہرائیں گے۔

3653 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ صَلَّى بِالنَّاسِ إِمَامٌ قَوْمٌ غَيْرُ

مُتَوَضِّئِينَ، فَذَكَرَ حِينَ فَرَغَ قَالَ: يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ، فَإِنْ ذَكَرَ حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ فَإِنَّهُ يُعِيدُ هُوَ وَلَا يُعِيدُونَ

*** عطاء فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص جو لوگوں کا امام ہو وہ بے وضو حالت میں لوگوں کو نماز پڑھا دے اور جب وہ نماز

سے فارغ ہو اُس وقت اُسے یاد آئے تو عطاء فرماتے ہیں: وہ امام نماز کو دہرائے گا اور لوگ بھی دہرائیں گے، لیکن اگر اُس امام کو

اُس وقت یہ بات یاد آتی ہے جب نماز کا وقت رخصت ہو چکا ہو تو صرف امام نماز کو دہرائے گا، لوگ نہیں دہرائیں گے۔

3654 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: فَصَلَّى بِهِمْ جُنُبًا فَلَمْ يَعْلَمُوا

وَلَمْ يَعْلَمْ، حَتَّى فَاتَتْ تِلْكَ الصَّلَاةَ قَالَ: فَلُعِيدُوا فَلَيْسَتْ الْجَنَابَةُ كَالْوَضُوءِ

*** ابن جریج عطاء کے بارے میں نقل کرتے ہیں: میں نے اُن سے دریافت کیا: اگر کوئی شخص لوگوں کو جنابت کی

حالت میں نماز پڑھا دیتا ہے اور لوگوں کو بھی اس بات کا پتا نہیں چلتا اور اُس امام کو بھی پتا نہیں چلتا یہاں تک کہ اُس نماز کا وقت

رخصت ہو جاتا ہے تو عطاء نے فرمایا: وہ لوگ نماز کو دہرائیں گے، کیونکہ جنابت کا حکم وضو کی مانند نہیں ہے۔

3655 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: يُعِيدُ وَلَا يُعِيدُونَ

*** سعید بن جبیر فرماتے ہیں: وہ امام نماز کو دہرائے گا، لوگ نہیں دہرائیں گے۔

3656 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: حَدِيثٌ مُتَّبَعٌ

عِنْدَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَرْكَبُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ رَكْبَتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا يَنْظُرُ فِي أَمْوَالِ يَتَامَى أَبْنَاءِ

الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأُخْرَى يَنْظُرُ أَرْقَاءَ النَّاسِ، مَا يَبْلُغُ مِنْهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمًا فِي بَعْضِ ذَلِكَ بِالْجُرْفِ نَزَلَ،

وَقَالَ: أَدْخَلَ يَدَهُ فَوَجَدَ شَيْئًا، فَقَالَ: إِنِّي لَا ظَنِّي قَدْ صَلَّيْتُ جُنُبًا، إِنَّا إِذَا أَصَابْنَا الْوَدَّكَ لَأَنْتَ عُرُوقُنَا، ثُمَّ

اغْتَسَلَ فَصَلَّى الصُّبْحَ، وَلَمْ يَأْمُرِ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوْهَا

*** ابن جریج نے اہل مدینہ میں سے ایک شخص کا قول نقل کیا ہے جو قابل اعتماد ہے وہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ

عنه ہر ہفتہ میں دو مرتبہ سوار ہو کر تشریف لے جاتے تھے ایک مرتبہ وہ مہاجرین کے بچوں کے یتیموں کے اموال کا جائزہ لیتے تھے اور

دوسری مرتبہ وہ لوگوں کے غلاموں کا جائزہ لیا کرتے تھے کہ اس حوالے سے اُن تک جو اطلاعات پہنچتی ہیں (اُن کی تفتیش کرتے

تھے) یہاں تک کہ ایک مرتبہ انہوں نے ”جرف“ نامی جگہ کے قریب پڑاؤ کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں: انہوں نے اپنا ہاتھ تہ بند

کے اندر داخل کیا تو انہیں کچھ محسوس ہوا۔ پھر انہوں نے فرمایا: مجھے اپنے بارے میں یہ گمان ہے کہ میں نے جنابت کی حالت میں

نماز ادا کی ہے جب سے چربی ہمیں ملنا شروع ہوئی ہے ہماری رگیں کمزور ہو گئی ہیں۔ پھر انہوں نے غسل کر کے صبح کی نماز ادا کی

لیکن انہوں نے لوگوں کو (نماز دوبارہ ادا کرنے) کا حکم نہیں دیا۔

3657 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَاعِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ

*** امام شععی فرماتے ہیں: وہ امام نماز کو دہرائے گا اور لوگ بھی دہرائیں گے۔

3658 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَاعِدٍ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَوْمَ قَوْمًا

فَصَلَّى رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَأَى شَيْئًا فَفَزِعَ فَقَطَعَ صَلَاتَهُ قَالَ: يَسْتَأْنِفُونَ

*** امام شععی سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا، جو لوگوں کی امامت کرتا ہے اور انہیں ایک یا دو رکعات

پڑھا دیتا ہے، پھر وہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے تو پریشان ہو کر وہ نماز کو منقطع کر دیتا ہے انہوں نے جواب دیا: وہ لوگ نئے سرے سے

نماز ادا کریں گے۔

3659 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَادًا يَقُولُ: إِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ

فَسَدَتْ صَلَاةُ الْقَوْمِ

*** حماد فرماتے ہیں: جب امام کی نماز فاسد ہوگی تو لوگوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔

3660 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي جَابِرِ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ

الْمُسَيَّبِ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ مَرَّةً وَهُوَ جُنُبٌ فَأَعَادَ بِهِمْ

*** سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ نے جنابت کی حالت میں اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھا

دی تو ان تمام حضرات نے نماز کو دہرایا تھا۔

3661 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ عَبَادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ

عَاصِمِ بْنِ أَبِي ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَنَسٍ أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ جُنُبًا، ثُمَّ أَمَرَ ابْنَ النَّبَاحِ فَنَادَى: مَنْ كَانَ صَلَّى مَعَ أَمِيرِ

الْمُؤْمِنِينَ الصُّبْحَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ، فَإِنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ

وَذَكَرَهُ غَالِبُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِثْلَهُ

*** عاصم بن ابوضمرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں: ایک مرتبہ انہوں نے جنابت کی حالت میں

لوگوں کو نماز پڑھا دی پھر انہوں نے ابن نباح کو حکم دیا، اُس نے یہ اعلان کیا کہ جس شخص نے بھی امیر المؤمنین کی اقتداء میں صبح کی

نماز ادا کی تھی وہ نماز کو دہرائے کیونکہ انہوں نے جنابت کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی تھی۔

یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے۔

3662 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ حُسَيْنِ بْنِ مَهْرَانَ، عَنِ الْمُطَّرِحِ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ

3660 - مصنف ابن ابی شیبہ - کتاب الصلاة الرجل یصلی بالقوم وهو علی غیر وضوء - حدیث: 4510 سنن الدارقطنی

- کتاب الصلاة باب صلاة الإمام وهو جنب او محدث - حدیث: 1186 السنن الکبری للبیہقی - کتاب الصلاة جباع

ابواب الصلاة بالنجاسة وموضع الصلاة من مسجد وغیره - باب إمامة الجنب حدیث: 3793

رَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَرْبُودٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَأَعَادَ وَلَمْ يُعِدِ النَّاسَ، فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ: قَدْ كَانَ يَنْبَغِي لِمَنْ صَلَّى مَعَكَ أَنْ يُعِيدُوا قَالَ: فَتَزَلُّوا إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ قَالَ: قُلْتُ: مَا تَزَلُّوا؟ قَالَ: رَجَعُوا. قَالَ الْقَاسِمُ: وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ

*** حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جنابت کی حالت میں لوگوں کو نماز پڑھا دی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز کو دہرایا، لیکن لوگوں کو نماز کو نہیں دہرایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا: ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس شخص نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی ہے وہ سب لوگ نماز کو دہرائیں۔ راوی بیان کرتے ہیں: تو کچھ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کو اختیار کیا۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: لفظ ”نزلوا“ کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اس سے مراد ہے کہ انہوں نے رجوع کیا۔

قاسم نامی راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بھی اس بارے میں وہی قول ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔

3663 - آثَابُ سَابِغَةِ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّ عَلِيًّا صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ، أَوْ عَلِيٌّ غَيْرٌ وَضُوءٌ، فَأَعَادَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُعِيدُوا

*** امام محمد باقر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دی (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں) بے وضو حالت میں نماز پڑھا دی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز کو دہرایا اور لوگوں کو یہ حکم دیا کہ وہ بھی نماز کو دہرائیں۔

بَابُ إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً

باب: جب کسی قوم کے امام کو جنابت لاحق ہو جائے اور اسے پانی نہ ملے (تو کیا کرنا چاہیے؟)

3664 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً يَتَوَضَّأُ بِهِ؟ قَالَ: يَتِيمٌ وَيَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي بِهِمْ، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ طَهَّرَهُ

*** معمر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے زہری سے ایسے امام کے بارے میں سوال کیا جسے جنابت لاحق ہو جاتی ہے اور اسے پانی نہیں ملتا جس کے ذریعہ وہ وضو بھی کر سکے تو زہری نے جواب دیا: وہ امام تیمم کر کے آگے بڑھے گا اور لوگوں کو نماز پڑھانے کا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پاکی عطا کر دی ہے۔

3665 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَا: التَّيْمُّ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ

*** حسن بصری اور سعید بن مسیب فرماتے ہیں: تیمم پانی (استعمال کرنے) کی مانند ہے۔

3666 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، فَقُلْتُ: أَفَقَهُ الْقَوْمُ أَصَابَتَهُ جَنَابَةٌ،

أَوْ آتَى غَائِطًا فَتَمَسَّحَ بِالتُّرَابِ أَيَوْمُهُمْ؟ قَالَ: لَا، فَلَا يُؤْمُهُمْ وَإِنْ كَانَ أَمِيرُهُمْ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے سوال کیا، میں نے کہا: قوم کے سب سے زیادہ مجھدار شخص کو جنابت

لاحق ہو جاتی ہے یا وہ پاخانہ کر کے آتا ہے تو کیا مٹی کے ذریعہ مسح کر کے (یعنی تیمم کر کے) وہ ان لوگوں کی امامت کر سکتا ہے؟
عطاء نے جواب دیا: جی نہیں! وہ ان لوگوں کی امامت نہیں کرے گا اگرچہ وہ ان لوگوں کا امیر ہی کیوں نہ ہو۔

3667 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنِ اِبْرَاهِيمَ فِي اِمَامِ قَوْمٍ اَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً

قَالَ: لِيَقْدَمَ غَيْرَهُ

*** سفیان ثوری امام کے بارے میں ابراہیم نخعی کا یہ قول نقل کرتے ہیں: جو لوگوں کا امام ہو اور اسے جنابت لاحق ہو

جائے اور اسے پانی دستیاب نہ ہو تو ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: وہ کسی دوسرے شخص کو آگے کر دے گا۔

3668 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ صَاحِبِ لَهُ، عَنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنِ أَبِي اسْحَاقَ، أَوْ

غَيْرِهِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنِ عَلِيِّ قَالَ: لَا يَوْمُ الْمُتَيْمِمِ الْمُتَطَهِّرِينَ قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: لَا يَوْمُ الْمُتَقَيِّدِ الْمُطْلَقِينَ

*** حارث نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے: تیمم کرنے والا شخص وضو کرنے والوں کی امامت نہیں کرے گا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں: مقید شخص، مطلق لوگوں کی امامت نہیں کرے گا۔

بَابُ الْاِمَامِ يُحَدِّثُ فِي صَلَاتِهِ

باب: جس امام کو نماز کے دوران حدیث لاحق ہو جائے

3669 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنِ مَنْصُورٍ، عَنِ اِبْرَاهِيمَ، عَنِ عَلْقَمَةَ اَنَّهُ اَمَّ قَوْمًا

فَرَعَفَ، ثُمَّ اَنْصَرَفَ فَاَوْمَى اِلَى رَجُلٍ اَنْ يَتَقَدَّمَ، ثُمَّ جَاءَ فَاتَمَّ بِقِيَّةِ صَلَاتِهِ

*** علقمہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے: ایک مرتبہ وہ لوگوں کی امامت کر رہے تھے ان کی نکسیر پھوٹ گئی تو وہ نماز

چھوڑ کر چلے گئے، انہوں نے ایک شخص کو اشارہ کیا کہ وہ آگے بڑھ جائے پھر وہ آئے اور انہوں نے اپنی بقیہ نماز مکمل کر لیا۔

3670 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ اَبِي بَكْرٍ بِنِ عِيَّاشٍ، عَنِ اِسْمَاعِيلَ بِنِ سَمِيْعٍ قَالَ: عَنِ اَبِي رَزِيْنِ

قَالَ: اَمَّا عَلِيٌّ فَرَعَفَ، فَاَخَذَ رَجُلًا فَقَدَّمَهُ وَتَاَخَّرَ

*** ابورزین بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہماری امامت کر رہے تھے ان کی نکسیر پھوٹ گئی تو انہوں نے

ایک شخص کو پکڑ کر آگے کر دیا اور خود پیچھے ہو گئے۔

3671 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ اَمَّ قَوْمًا فَاَحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ،

قَالَ: يَقْدَمُ رَجُلًا يُصَلِّي بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْ صَلَاتِهِمْ

*** حسن بصری اور قتادہ ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو لوگوں کی امامت کرتا ہے اور اسے نماز کے دوران حدت لاحق ہو جانا ہے تو یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں: وہ کسی شخص کو آگے کر دے گا جو لوگوں کو باقی رہ جانے والی نماز پڑھا دے گا۔

3672 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: اِنْ رَعَفَ الْاِمَامُ فَلْيَتَاخَّرْ، وَلْيَقْدَمْ رَجُلًا فَيَصَلِّيَ بِهِمْ

*** عطاء بیان کرتے ہیں: اگر امام کی نکسیر پھوٹ جاتی ہے تو اسے پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور کسی شخص کو آگے کر دینا چاہیے جو ان لوگوں کو نماز پڑھا دے۔

3673 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا اُحْدَثَ الْاِمَامُ فِيْ اٰخِرِ صَلَاتِهِ حِيْنَ يَسْتَوِي قَاعِدًا، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَصَلَاةٌ مَنْ وَّرَاءَهُ عَلٰى مِثْلِ صَلَاتِهِ *** حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”جب امام کو نماز کے آخر میں یعنی جب وہ سیدھا بیٹھا ہو اور اس وقت اسے حدت لاحق ہو جائے تو وہ اپنی نماز کو مکمل کر لے اور اس کے پیچھے موجود شخص کی نماز اس کی نماز کی مانند ہوگی۔“

3674 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ اُحْدَثَ فِي صَلَاتِهِ وَقَبْلَ اَنْ يَتَشَهَّدَ قَالَ: فَحَسْبُهُ، فَلَا يُعَدُّ

*** عطاء ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جسے نماز کے دوران تشہد پڑھنے سے پہلے حدت لاحق ہو جاتا ہے تو عطاء فرماتے ہیں: یہ اس کے لیے کافی ہے وہ نماز کو نہیں دہرائے گا۔

3675 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: اِذَا رَفَعَ الْاِمَامُ رَاسَهُ مِنَ السُّجُودِ فِيْ اٰخِرِ صَلَاتِهِ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَاِنْ اُحْدَثَ

*** عطاء فرماتے ہیں: جب امام اپنی نماز کے آخری سجدہ سے سر اٹھائے گا تو اس کی نماز مکمل ہو جائے گی اگرچہ اسے حدت لاحق ہو جائے۔

3676 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ يُحْدَثُ بَيْنَ ظَهْرَانِي صَلَاتِهِ قَالَ: اِذَا قَضَى الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

3673- سنن ابی داود - کتاب الصلاة باب الإمام يحدث بعد ما يرفع راسه من آخر الركعة - حديث: 527 شرح معاني الآثار للطحاوي - باب السلام في الصلاة ، هل هو من فروضها او من حديث: 1025 سنن الدارقطني - كتاب الصلاة باب من احدث قبل التسليم في آخر صلاته - حديث: 1236 السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة جلاء ابواب صفة الصلاة - باب تحليل الصلاة بالتسليم حديث: 2768

*** سعید بن مسیب ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو نماز کے دوران حدث کا شکار ہو جاتا ہے وہ یہ فرماتے ہیں: جب وہ رکوع اور سجدہ ادا کر چکا ہو تو اُس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔

3677 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ يُحَدِّثُ حِينَ يَفْرُغُ مِنَ السُّجُودِ فِي الرَّابِعَةِ وَقَبْلَ التَّشَهُدِ؟ قَالَ: قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ

*** منصور بیان کرتے ہیں: میں نے ابراہیم نخعی سے دریافت کیا: ایک شخص جو چوتھی رکعت کے سجدہ سے فارغ ہوتا ہے، اُس کے تشہد پڑھنے سے پہلے اُسے حدث لاحق ہو جاتا ہے تو ابراہیم نے فرمایا: اُس کی نماز مکمل ہوگئی۔

3678 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبِيدٍ قَالَ: أَمَا أَنَا فَسَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُحَدِّثُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَبْلَ التَّشَهُدِ قَالَ: لَا يُعِيدُ وَأَمَّا هَؤُلَاءِ - يَعْنِي أَصْحَابَهُ - فَقَالُوا: عَنْ عَمْرِو: يُعِيدُ

*** عمرو بن عبید بیان کرتے ہیں: میں نے حسن بصری کو ایسے شخص کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: جو نماز کے آخر میں تشہد سے پہلے حدث کا شکار ہو جاتا ہے وہ یہ فرماتے ہیں: وہ نماز کو نہیں دہرائے گا۔ (راوی بیان کرتے ہیں: جہاں تک اُن کے شاگردوں کا تعلق ہے تو انہوں نے عمرو کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ ایسا شخص نماز کو دہرائے گا۔

3679 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالنَّخَعِيِّ، قَالَا: لَا يُعِيدُ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: حَتَّى يُسَلِّمَ فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَمْ تَتِمَّ

*** سعید بن مسیب اور ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: ایسا شخص نماز کو نہیں دہرائے گا۔ ابن سیرین کہتے ہیں: جب تک وہ سلام نہیں پھیرتا (تب تک وہ نماز کو دہرائے گا) کیونکہ اُس کی نماز ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔

3680 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: "لَا تَتِمُّ صَلَاتُهُ حَتَّى يُسَلِّمَ، تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ، وَخَاتِمَتُهَا التَّسْلِيمُ - أَوْ قَالَ: آخِرُهَا التَّسْلِيمُ"

*** مجاہد بیان کرتے ہیں: ایسے شخص کی نماز اُس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک وہ سلام نہیں پھیرتا، کیونکہ تکبیر کہہ کر نماز شروع ہوتی ہے اور سلام پھیر کر ختم ہوتی ہے۔ (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں: اس کے آخر میں سلام ہوتا ہے۔

3681 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ - أَوْ ابْنِ عَمْرٍو، أَنَا أَشْكُ - قَالَ: فَضْلُ الصَّلَاةِ التَّسْلِيمُ قَالَ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ

*** زہری نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کا یہ بیان نقل کیا ہے: تم سلام پھیرنے تک نماز کو ادا کرو۔ زہری بیان کرتے ہیں: ایسا شخص نماز کو دہرائے گا۔

3682 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي الرَّجُلِ يُحَدِّثُ فِي آخِرِ السُّجُودِ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ: يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَجِيءُ، فَيَتَشَهَّدُ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ قَالَ: فَإِنْ تَكَلَّمْ

*** سطاء بن ابی رباح ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو نماز کے آخری سجدہ کے بعد حدث کا شکار ہو جاتا ہے وہ بیان کرتے ہیں: وہ شخص نماز کو ختم کر کے وضو کرے گا پھر آ کر تشهد پڑھے گا جبکہ اُس نے اس دوران کوئی کلام نہ کیا ہو۔ وہ بیان کرتے ہیں: اگر اُس نے کلام کیا ہو تو وہ نماز کو دہرائے گا۔

3683 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوري في رجل يحدث بعد ما جلس في الرابعة ولم يتشهد قال: ينصرف فيتوضأ، ثم يعوذ فيتشهد

*** سفیان ثوری ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو چوتھی رکعت میں بیٹھنے کے بعد اور تشهد پڑھنے سے پہلے حدث کا شکار ہو جاتا ہے وہ فرماتے ہیں: وہ شخص نماز چھوڑ کر جائے گا وضو کرے گا اور پھر واپس آ کر تشهد کو دہرائے گا۔

3684 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرايت ما يكره أن يقال في الصلاة، أكرهه أن يقوله بعد ما يفرغ من التشهد الأول؟ قال: نعم

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جس چیز کو نماز کے دوران کہنا مکروہ ہو تو کیا پہلے تشهد سے فارغ ہونے کے بعد بھی اُسے کہنا مکروہ ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

3685 - آثار صحابه: عبد الرزاق، عن عبد الله، عن شعبة، عن مسلم الشامي، عن حملة - رجل من علي، عن عمر بن الخطاب قال: لا تجزئ صلاة إلا بتشهد

*** حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: تمہاری نماز تشهد کے بغیر درست نہیں ہوگی۔

3686 - آثار صحابه: عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: إذا تشهد الرجل، وخاف أن يحدث قبل أن يسلم الإمام، فليسلم، وقد تمت صلاته، وإن كبر يتشهد

*** عاصم بن ضمیرہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے: جب کوئی شخص تشهد پڑھ لے اور اُسے یہ اندیشہ ہو کہ امام کے سلام پھیرنے سے پہلے اُسے حدث لاحق ہو جائے گا تو اُس شخص کو سلام پھیر دینا چاہیے کیونکہ اُس کی نماز مکمل ہو چکی ہے لیکن اگر اُس نے تکبیر کہی تھی تو پھر وہ تشهد بھی پڑھے گا۔

3687 - آثار صحابه: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري أن معاوية صلى بالناس فركع ثم طعن وهو ساجد أو راکع، فسلم، ثم قال: أتموا صلاتكم، فصلى كل رجل لنفسه، ولم يقدم أحدا

*** زہری بیان کرتے ہیں: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھاتے ہوئے رکوع کیا پھر وہ سجدہ کے عالم میں تھے یا رکوع کے عالم میں تھے کہ اسی دوران انہیں زخمی کر دیا گیا انہوں نے سلام پھیرا اور پھر بولے: تم لوگ اپنی نماز مکمل کرو پھر شخص تنہا نماز ادا کر لے۔ انہوں نے کسی شخص کو آگے نہیں کیا۔

3688 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوري في رجل أم قومًا فصلى بهم ركعة أو ركعتين، ثم

أَحَدَتْ فَقَدَّمَ رَجُلًا لَمْ يُدْرِكْ أَوَّلَ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: يُصَلِّي بِهَمْ أَلَدَى قَدَمِ صَلَاةِ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَنْكُصُ قَاعِدًا، وَيُقَدِّمُ رَجُلًا زَحْفًا، فَيَسْلِمُ بِهِمْ، وَيَقُومُ هُوَ فَيَتِمُّ

* * سفیان ثوری ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو لوگوں کی امامت کرتا ہے اور انہیں ایک یا دو رکعات پڑھاتا ہے تو اسے حدت لاحق ہو جاتا ہے پھر وہ کسی ایسے شخص کو آگے کر دیتا ہے جس نے نماز کا ابتدائی حصہ نہیں پایا تھا تو سفیان ثوری فرماتے ہیں: جس شخص کو آگے کیا ہے وہ ان لوگوں کو امام کی نماز کے مطابق نماز پڑھائے گا پھر وہ بیٹھ کر پیچھے ہو جائے گا اور کسی اور شخص کو سرین کے بل آگے کرے گا وہ شخص ان لوگوں کو سلام پھروادے گا اور وہ (جو بعد میں امام بنا تھا) کھڑا ہو کر باقی رہ جانے والی نماز کو مکمل کرے گا۔

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ غَيْرِ طَاهِرٍ

باب: جب کوئی شخص کسی ایسے کپڑے کو پہن کر نماز ادا کر لے جو پاک نہیں ہوتا

3689 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَلَّيْتُ فِي إِزَارٍ غَيْرِ طَاهِرٍ،

فَعَلِمْتُ قَبْلَ أَنْ تَفُوتَ تِلْكَ الصَّلَاةَ، أَوْ بَعْدَهَا فَاتَتْ قَالَ: لَا تَعِدْ، وَمَا شَأْنُ الثَّوْبِ وَمَا شَأْنُ ذَلِكَ؟

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں نے ایک ایسے تہبند کو پہن کر نماز ادا کر لی جو پاک نہیں تھا پھر اس نماز کا وقت فوت ہونے سے پہلے مجھے اس بات کا علم ہو گیا یا اس نماز کا وقت گزرنے کے بعد پتا چلا (تو کیا کرنا ہوگا؟) انہوں نے فرمایا: تم نماز کو نہیں دہراؤ گے کپڑے کا کیا معاملہ ہے! اس کی حیثیت کیا ہے؟

3690 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءِ الْخِرَاسَانِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي

رَبَاحٍ: قَدْ صَلَّيْتُ فِي ثَوْبِي هَذَا كَذَا وَكَذَا؟ وَقَالَ: صَلَّيْتُ فِيهِ مِرَارًا وَفِيهِ دَمٌ نَسِيتُ أَنْ أَغْسِلَهُ

* * عطاء خراسانی بیان کرتے ہیں: عطاء بن ابی رباح نے مجھ سے فرمایا: میں نے اپنے اس کپڑے میں اتنی اتنی نمازیں ادا کی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں: میں نے کئی مرتبہ اس کپڑے میں نماز ادا کی جبکہ اس میں خون لگا ہوا تھا اور میں اسے دھونا بھول گیا تھا۔

3691 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي ثَوْبِهِ

دَمًا بَعْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلَاةِ لَا يُعِيدُ قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

* * سعید بن مسیب فرماتے ہیں: جب کوئی شخص اپنے کپڑے میں خون لگا ہوادیکھا اور یہ نماز فارغ ہونے کے بعد دیکھے تو وہ نماز کو دہرائے گا نہیں۔

معمر بیان کرتے ہیں: میں نے زہری کو بھی اس کی مانند بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔

3692 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا رَأَى الرَّجُلُ فِي

ثَوْبِهِ دَمًا، أَوْ نَجَسًا، أَوْ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، أَوْ تَيَمَّمَ فَأَذْرَكَ الْمَاءَ فِي وَقْتٍ، فَإِنَّهُ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ الْحَسَنُ: يُعَيُّ هَذَا كُلُّهُ مَا دَامَ فِي وَقْتٍ

* * * سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں: جب کوئی شخص اپنے کپڑے پر خون یا پیپ لگی ہوئی دیکھے یا اس نے قبلہ کی طرف رخ کیے بغیر نماز ادا کر لی تھی یا اس نے تیمم کر کے نماز ادا کر لی تھی اور پھر نماز کے وقت کے دوران وہ پانی تک پہنچ جاتا ہے (تو ان تمام صورتوں میں) اس پر نماز کو ذرا انا لازم نہیں ہوگا۔

قتادہ بیان کرتے ہیں: حسن بصری یہ فرماتے ہیں: وہ شخص نماز کو ذرا ہرائے گا اور یہ اس وقت ہوگا جب ابھی نماز کا وقت باقی ہو۔

3693 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يُعِيدُ، فَإِنْ عَلِمَ بِهِ حِينَ صَلَّى وَقَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ

* * * طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: وہ شخص نماز کو ذرا ہرائے گا جبکہ اسے اس بات کا علم اس وقت ہو جب وہ نماز ادا کر رہا ہو یا اسے نماز ادا کرنے سے پہلے اس کا علم ہو جائے۔

3694 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ أَنَّهُ قَالَ: لَا يُعِيدُ * * * سالم فرماتے ہیں: وہ شخص نماز کو نہیں ذرا ہرائے گا۔

3695 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي هِشَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الْأَذَى وَقَدْ صَلَّى؟ قَالَ: اقْرَأْ عَلَى الْآيَةِ الَّتِي فِيهَا غَسَلُ الثَّوْبِ * * * ابو ہشام بیان کرتے ہیں: میں نے سعید بن جبیر سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو اپنے کپڑے پر گندوں کی ہونے دیکھتا ہے اور اس نے (وہی کپڑا پہن کر) نماز ادا کر لی ہوئی ہے۔ تو سعید بن جبیر نے فرمایا: تم مجھے وہ آیت پڑھ کر سناؤ جس میں کپڑے کو دھونے کا حکم موجود ہے۔

3696 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا أَيُّمُّ بْنُ نَابِلٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، وَمُجَاهِدًا عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَلَيْسَ بِطَاهِرٍ قَالَا: لَا يُعِيدُ

* * * ایمن بن نابل بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء اور مجاہد سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو ایسے کپڑے میں نماز ادا کر لیتا ہے جو پاک نہیں ہوتا؟ تو ان دونوں نے جواب دیا: وہ نماز کو نہیں ذرا ہرائے گا۔

3697 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عِيَّاشٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَنَا فَقَالَ: إِنِّي لَأَرَى فِي ثَوْبِي مَنِيًّا، وَقَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ، فَحَتَّهَ بِيَدِهِ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ

* * * مجاہد بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے انہوں نے فرمایا: بعض اوقات مجھے اپنے کپڑے پر منی لگی ہوئی نظر آ جاتی ہے اور میں اسے پہن کر نماز ادا کر لیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اسے اپنے ہاتھ کے

ذریعہ کھری دیتے تھے اور نماز کو نہیں دہراتے تھے۔

3698 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابراهيم بن محمد، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: من صلى وفي ثوبه دم، او احتلام علم به، فلا يعيد الصلاة

*** حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: جو شخص نماز ادا کرے اور اس کے کپڑے پر خون یا احتلام (یعنی منی) لگی ہوئی ہو اور اسے نماز ادا کرنے کے بعد اس کا پتا چلے تو وہ نماز کو نہیں دہرائے گا۔

3699 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن اسرائيل، عن عيسى بن ابي عزة قال: سألت عامراً الشَّعْبِيَّ قال: قلت: أصاب ثوبي دم، فعلمت به بعدما سلمت؟ قال: لا تعد وإن كنت قد علمت به

*** عیسیٰ بن ابو عزہ بیان کرتے ہیں: میں نے امام عامر شعمی سے دریافت کیا میں نے کہا: میرے کپڑے پر خون لگ جاتا ہے اور مجھے سلام پھیرنے کے بعد اس کا پتا چلتا ہے تو انہوں نے فرمایا: تم نماز کو نہیں دہراؤ گے خواہ تمہیں پہلے سے اس کا علم ہو چکا ہوتا۔

3700 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابي بكر بن عياش، عن حصين، عن ابراهيم النخعي قال: اذا رأيت في ثوبك دمًا وانت في الصلاة، فإن كان قليلاً فامض، وإن كان كثيراً فضعه ولا تعد

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جب تمہیں نماز ادا کرنے کے دوران اپنے کپڑے پر خون لگا ہوا نظر آ جائے تو اگر وہ تھوڑا ہو تو تم اپنی نماز کو جاری رکھو اور اگر وہ زیادہ ہو تو اس کپڑے کو اتار دو لیکن نماز کو دہرانا نہیں۔

3701 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: إذا رأى الإنسان في ثوبه دمًا وهو في الصلاة فأنصرف يغسله، أتم ما بقى على ما مضى ما لم يتكلم

قال الزهري: وقال سالم: كان ابن عمر ينصرف لقليله وكثيره *** سالم حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: جب کوئی شخص نماز ادا کرنے کے دوران اپنے کپڑے پر خون لگا ہوا دیکھے تو وہ نماز ختم کر کے اس جگہ کو دھو لے اور جتنی نماز گزر چکی تھی اس کی بنیاد پر باقی نماز کو مکمل کر لے جبکہ اس نے اس دوران کلام نہ کیا ہو۔

زہری بیان کرتے ہیں: سالم فرماتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما (نماز کو درمیان میں چھوڑ کر چلے جاتے تھے) خواہ وہ (لگا ہوا خون) تھوڑا ہوتا یا زیادہ ہوتا۔

3702 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن أبيه، عن الحسن قال: يعيد ما كان في وقت قال: وقال النخعي: لا يعيد

*** حسن بصری فرماتے ہیں: جب تک نماز کا وقت باقی ہے وہ نماز کو دہرائے گا۔ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: وہ نماز کو نہیں دہرائے گا۔

3703 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا كَانَ فِي ثَوْبِهِ قَدْرُ الدَّرْهِمِ

أَعَادَ الصَّلَاةَ

* * حماد بن ابی سلیمان فرماتے ہیں: جب اس کے کپڑے پر درہم کی مقدار جتنی (نجاست لگی ہوگی) تو وہ نماز کو دہرائے گا۔

3704 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يُغَسَّلُ قَلِيلُ الدَّمِ وَكَثِيرُهُ

* * تھنی کے سماجہ ادا کرنے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: آدمی خون کو دھوئے گا، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔

بَابُ الصَّلَاةِ مَا يُطَوَّلُ مِنْهَا وَمَا يُحَدَفُ

باب: نماز کو کتنا طویل کیا جائے گا، اور کتنا مختصر کیا جائے گا؟

3705 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَدْ كَانَ يَرُكِّدُ فِي الْأَوَّلِينَ مِنَ

الظُّهْرِ، وَيُخَفِّفُ الْآخِرِينَ، وَكَذَلِكَ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَكُلُّ ذَلِكَ فِي الْقِيَامِ، فَأَمَّا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَا، قُلْتُ: أَفَجَعَلَ الْآخِرِينَ فِي الْقِيَامِ؟ قَالَ: أَوْ لَمْ يَتَشَكَّ أَمَّا هَذَا فَلَا

* * ابن جریر عطاء کا یہ قول نقل کرتے ہیں کہ ظہر کی پہلی دو رکعات کو طویل ادا کیا جائے گا، اور آخری دو رکعات کو مختصر ادا کیا

جائے گا، مغرب اور عشاء میں بھی ایسا ہی کیا جائے گا لیکن یہ صرف قیام میں ہوگا، رکوع یا سجدہ میں ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے دریافت کیا: کیا قیام میں آخری دو کو ہم بنا لیں گے؟ انہوں نے جواب دیا: کیا وہ شک کا شکار نہیں ہوا؟ جہاں تک اس کا تعلق ہے تو یہ نہیں ہوگا۔

3706 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ

جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، إِذْ جَاءَ أَهْلُ الْكُوفَةِ يَشْكُونَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ مَرَّ بِهِمْ سَعْدٌ، فَدَعَاهُ فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ يَشْكُرُونَكَ، وَزَعَمُوا أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَأَرُكِّدُ فِي الْأَوَّلِينَ وَأُحَدِّفُ فِي الْآخِرِينَ، قَالَ عُمَرُ: كَذَلِكَ الظَّنُّ يَا أَبَا إِسْحَاقَ

* * حضرت جابر بن سمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اسی

دوران اہل کوفہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شکایت کرتے ہوئے یہ کہا: وہ اچھے

طریقہ سے نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ابھی وہ لوگ وہاں موجود تھے کہ اسی دوران حضرت سعد رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے، تو حضرت

عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ہوا اور فرمایا: یہ لوگ آپ کی شکایت کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ اچھے طریقہ سے نماز نہیں پڑھتے

تے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہی نماز پڑھتا ہوں، میں انہیں عشاء

کی نماز پڑھاتا ہوں تو پہلی دو رکعات طویل ادا کرتا ہوں اور آخری دو رکعات مختصر ادا کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس

حق آپ کے بارے میں یہی گمان تھا۔

3707 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: شَكَأَ أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ فَقَالُوا: لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي قَالَ: فَسَأَلَهُ عُمَرُ، فَقَالَ: إِنِّي لَا صَلَّيْتُ بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَرَكُدُ فِي الْأَوَّلِينَ، وَأَحْدِفُ فِي الْآخِرِينَ قَالَ: ذَلِكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ قَالَ الثَّوْرِيُّ: قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ، أَوْ غَيْرُهُ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْسٍ لِسَعْدٍ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَا تَنْفِرُ فِي السَّرِيَّةِ، وَلَا تَعْدِلُ فِي الرَّعِيَّةِ، وَلَا يَقْسِمُ فِي السَّوِيَّةِ، فَقَالَ سَعْدٌ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذِبَ فَأَعْمِ بَصْرَهُ، وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ، وَأَطْلِفْ قَلْبَهُ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ

* * حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: اہل کوفہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی شکایت کی انہوں نے یہ کہا: یہ نماز ٹھیک طرح سے نہیں پڑھاتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں دریافت کیا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: میں ان لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق نماز پڑھاتا ہوں میں پہلی دو رکعات طویل ادا کرتا ہوں اور آخری دو رکعات مختصر ادا کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے ابواسحاق! آپ کے بارے میں یہی گمان تھا۔

سفیان ثوری بیان کرتے ہیں: عبد الملک یا شاید کسی اور شخص نے یہ بات بیان کی ہے: بنو عبس سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا: اللہ جانتا ہے کہ آپ نہ تو کسی جنگی مہم میں روانہ ہوتے ہیں نہ رعایا میں انصاف کرتے ہیں نہ برابری کی بنیاد پر تقسیم کرتے ہیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا: اے اللہ! اگر تو یہ بات جھوٹی ہے تو اس شخص کو نابینا کر دے اور اسے آزمائشوں کا شکار کر دینا اس کی غربت کو طویل کر دینا۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ یہ کہتا تھا: مجھے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بددعا لگ گئی ہے۔

3708 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْأَوَّلُ مِنَ الصَّلَوَاتِ

كُلُّهَا هِيَ أَطْوَلُ فِي الْقِرَاءَةِ

* * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: تمام نمازوں کی پہلی رکعت میں زیادہ طویل قرأت کی جائے گی۔

3709 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَيْسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ

* * امام شعبی کے حوالے سے بھی وہی روایت منقول ہے جو ابراہیم کے قول کی مانند ہے۔

3710 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنِّي لِأَحِبُّ أَنْ يُطَوَّلَ الْإِمَامُ الْأُولَى مِنْ

كُلِّ صَلَاةٍ حَتَّى يَكْثُرَ النَّاسُ قَالَ: فَإِذَا صَلَّيْتُ لِنَفْسِي فَإِنِّي أَحْرِصُ عَلَى أَنْ أَجْعَلَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ سَوَاءً، إِنَّمَا يُفْضَلُ الْأَوَّلِينَ فِي الْجَمَاعَةِ لِثُبُوتِ النَّاسِ

* * ابن جریج نے عطاء کا یہ قول نقل کیا ہے: مجھے یہ بات پسند ہے کہ امام ہر نماز کی پہلی رکعت کو طویل ادا کرے تاکہ

لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں: جب میں اکیلا نماز ادا کروں گا تو میں اس چیز کا خواہشمند ہوں گا کہ میں پہلے والی

دونوں اور آخری والی دونوں رکعتوں کو برابر ادا کروں، پہلی والی دو رکعت باجماعت نماز میں زیادہ (طویل) ہوں گی، تاکہ لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جائے۔

3711 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: هَلْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسَوِّي بَيْنَ الْقِيَامِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ؟ قَالَ: كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ ذَلِكَ كُلِّهِ حَتَّى مَا يَكَادُ شَيْءٌ مِنْ صَلَاتِهِ يَكُونُ أَطْوَلَ مِنْ شَيْءٍ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ظہر، عصر اور عشاء کی نمازوں میں ایک جتنا قیام کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: وہ ان تمام نمازوں میں ایک جتنا قیام کرتے تھے یہاں تک کہ ان کی نماز میں سے کوئی بھی رکعت دوسری سے زیادہ طویل نہیں ہوتی تھی۔

بَابُ تَخْفِيفِ الْإِمَامِ

باب: امام کا تخفیف کرنا (یعنی مختصر نماز ادا کرنا)

3712 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفِ الصَّلَاةَ، فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُطِلْ صَلَاتَهُ مَا شَاءَ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”جب کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے، تو وہ مختصر نماز پڑھائے کیونکہ لوگوں میں بڑی عمر کے لوگ، کمزور لوگ، بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں، جب کوئی شخص تنہا نماز ادا کرے، تو وہ جتنی چاہے طویل نماز ادا کرے۔“

3713 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ أَوْ أَحَدِهِمَا،

3713- صحیح البخاری - کتاب الاذان ابواب صلاة الجماعة والإمامة - باب: إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء - حدیث: 682 صحیح مسلم - کتاب الصلاة باب امر الائمة بتخفيف الصلاة في تمام - حدیث: 743 مستخرج ابی عوانة - باب في الصلاة بين الاذان والإقامة في صلاة المغرب وغيره بيان معارضة الخبر الدال على انه على الإباحة لا على الحتم - حدیث: 1239 صحیح ابن حبان - کتاب الصلاة باب صفة الصلاة - ذكر الامر للبرء إذا صلى وحده ان يطول ما شاء فيها حدیث: 1780 موطا مالك - کتاب صلاة الجماعة باب العمل في صلاة الجماعة - حدیث: 304 سنن ابی داود - کتاب الصلاة ابواب تفریع استفتاح الصلاة - باب في تخفيف الصلاة حدیث: 681 الجامع للترمذی ابواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء إذا ام احدكم الناس فليخفف حدیث: 224 السنن للنسائی - کتاب الإمامة ما على الإمام من التخفيف - حدیث: 818 السنن الكبرى للنسائی - ذكر الإمامة ما على الإمام من التخفيف - حدیث: 881 السنن الكبرى للبيهقي - کتاب الصلاة جماعة ابواب صلاة الإمام وصفة الائمة - باب ما على الإمام من التخفيف حدیث: 4894 مسند احمد بن حنبل مسند ابی هريرة رضي الله عنه - حدیث: 7494

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ، وَالشَّيْخَ الْكَبِيرَ، وَذَا الْحَاجَةَ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”جب کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو مختصر نماز پڑھائے کیونکہ ان لوگوں میں بیمار، عمر رسیدہ اور کام کاج والے لوگ ہوتے ہیں۔“

3714 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُقَدِّرِ الْقَوْمَ بِأَضْعَفِهِمْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالْكَبِيرَ، وَذَا الْحَاجَةَ

*** حسن بصری نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے:

”جو شخص لوگوں کی امامت کرتا ہے تو وہ لوگوں میں سے کمزور ترین افراد کا حساب رکھے کیونکہ لوگوں میں ضعیف، عمر رسیدہ اور کام کاج والے لوگ ہوتے ہیں۔“

3715 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِذَا كُنْتَ إِمَامًا فَاحْذِفِ الصَّلَاةَ، فَرِنْ فِي النَّاسِ الْكَبِيرَ، وَالضَّعِيفَ، وَالْمُعْتَلَّ، وَذَا الْحَاجَةَ، وَإِذَا صَلَّيْتَ وَحَدَّكَ فَطَوَّلْ مَا بَدَا لَكَ وَأَبْرِدْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ يَقْرَأُ فِيهَا مَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْمَعَنَاكُمْ، وَمَا أَخْفَى عَلَيْنَا أَخْفَيْنَاهُ مِنْكُمْ، ذَلِكَ كُلُّهُ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: جب تم امام ہو تو نماز کو مختصر ادا کرو کیونکہ لوگوں میں عمر رسیدہ، ضعیف، بیمار اور

کام کاج والے لوگ ہوتے ہیں اور جب تم اکیلے نماز ادا کرو تو جتنا تمہیں مناسب لگے اتنا طول دے دو اور نماز کو ٹھنڈے وقت میں ادا کرو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی تپش کا حصہ ہے ہر نماز میں تلاوت کی جاتی ہے جن نمازوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں تلاوت کی تھی ان ہم تمہارے سامنے بلند آواز میں تلاوت کرتے ہیں اور جن نمازوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پست آواز میں تلاوت کی تھی ان میں ہم پست آواز میں تلاوت کرتے ہیں۔

راوی بیان کرتے ہیں: یہ سب باتیں ایک ہی حدیث میں ہیں جو میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زبانی سنی ہے۔

3716 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ قَالَ لَهُ فِي قَوْلٍ مِنْ ذَلِكَ: اقْدِرِ النَّاسَ بِأَضْعَفِهِمْ، فَإِنَّ فِيهِمُ النَّحْوُ مِنْ هَذَا الْخَبَرِ، وَإِذَا كُنْتَ وَحَدَّكَ فَطَوَّلْ مَا شِئْتَ وَزَادَ آخَرُونَ عَنْ عَطَاءٍ فِي حَدِيثِهِ هَذَا حِينَ أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الطَّائِفِ قَالَ: وَإِنْ آتَاكَ الْمُؤَدَّنُ يُرِيدُ أَنْ يُؤَدَّنَ فَلَا تَمْنَعُهُ

*** عطاء بیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابوالعاص رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا تو آپ نے ان

سے فرمایا جس میں یہ بات بھی شامل تھی:

”تم لوگوں میں سے کمزور ترین افراد کا حساب رکھنا کیونکہ ان لوگوں میں“ (اس کے بعد حسب سابق روایت کے الفاظ ہیں جس میں یہ الفاظ بھی ہیں:) ”جب تم اکیلے ہو تو جتنی چاہو طویل نماز ادا کرو۔“
دیگر راویوں نے عطاء کے حوالے سے اس روایت کو نقل کرتے ہوئے اس میں یہ الفاظ زائد نقل کیے ہیں: جب نبی اکرم ﷺ نے انہیں طائف کا امیر مقرر کیا تو یہ فرمایا:
”جب تمہارے پاس کوئی ایسا مؤذن آئے جو اذان دینا چاہتا ہو تو تم اسے منع نہ کرنا۔“

3717 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ رَبِّهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الطَّائِفِ قَالَ: وَكَانَ آخِرُ شَيْءٍ عَاهَدَهُ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُخْفِفَ عَنِ النَّاسِ الصَّلَاةَ
* * حضرت عثمان بن ابوالعاص ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے انہیں طائف کا امیر مقرر کیا اور نبی اکرم ﷺ نے مجھے آخری ہدایت یہ کی کہ میں لوگوں کو مختصر نماز پڑھاؤں۔

3718 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، وَأَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا صَلَّيْتُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةً أَخْفَ مِنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَامِ لِرُكُوعٍ وَسُجُودٍ
* * حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم ﷺ کے بعد ایسی کوئی نماز ادا نہیں کی جو رکوع اور سجود مکمل ہونے کے باوجود نبی اکرم ﷺ کی نماز سے زیادہ مختصر ہو۔

3719 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ سَرِجَسَ قَالَ: عُذْنَا أَبَا وَقِيدٍ الْبَكْرِيِّ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْفَ صَلَاةٍ عَلَى النَّاسِ وَأَطْوَلَ النَّاسِ صَلَاةً لِنَفْسِهِ
* * نافع بن سرجس بیان کرتے ہیں: ہم ابووقید بکری کی عیادت کے لیے گئے جو ان کی اس بیماری کے دوران تھا جس میں ان کا انتقال ہوا تو میں نے انہیں یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم ﷺ لوگوں کو سب سے زیادہ مختصر نماز پڑھاتے تھے اور اکیلے سب سے زیادہ طویل نماز ادا کیا کرتے تھے۔

3720 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنِّي لَأَتَجَاوَزُ فِي صَلَاتِي إِذَا سَمِعْتُ بُكَاءَ - أَوْ قَالَ: إِذَا سَمِعْتُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ"
* * زہری نے نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان نقل کیا ہے:

”بعض اوقات جب میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں (یہاں ایک لفظ کے بارے میں راوی کو شک ہے)۔“

3721 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: صَلَّى

بِنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الصُّبْحِ فَقَرَأَ سُورَتَيْنِ مِنْ أَقْصَرِ سُورِ الْمُفْصَلِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ بُكَاءَ صَبِيٍّ فِي مُؤَخَّرِ الصُّفُوفِ فَأَحْبَبْتُ أَنْ تَفْرُغَ إِلَيْهِ أُمَّهُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَرَأَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ يَوْمَئِذٍ

*** حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صبح کی نماز پڑھا رہے تھے آپ نے مفصل سورتوں سے تعلق رکھنے والی دو چھوٹی سورتوں کی تلاوت کی اُس کے بعد آپ نے اس کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”بعض اوقات میں پیچھے کی صفوں میں سے کسی بچہ کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اُس کی ماں اُس کے لیے فارغ ہو جائے۔“

ابن جریج بیان کرتے ہیں: اُس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انا اعطیناک الکوثر کی تلاوت کی تھی۔

3722 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّي لَأَخْفِفُ الصَّلَاةَ إِذْ أَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ خَشِيَةً أَنْ تَفْتِنَ أُمَّهُ *** عطاء بیان کرتے ہیں: اُن تک یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: ”بعض اوقات میں کسی بچہ کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں اس اندیشہ کے تحت کہ کہیں اُس کی ماں آزمائش کا شکار نہ ہو جائے۔“

3723 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي الْحُوَيْرِثِ الزُّرْقِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَأَسْمَعُ صَوْتَ الصَّبِيِّ وَرَأَيْي فَأَخْفِفُ الصَّلَاةَ شَفَقًا أَنْ تَفْتِنَ أُمَّهُ *** امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: ”بعض اوقات میں اپنے کسی بچہ کی آواز سنتا ہوں تو نماز کو مختصر کر دیتا ہوں اس اندیشہ کے تحت کہ کہیں اُس کی ماں آزمائش کا شکار نہ ہو جائے۔“

3724 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي السَّوْدَاءِ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ: قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَجْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسِتِّينَ آيَةً، ثُمَّ قَامَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَسَمِعَ صَوْتَ صَبِيٍّ، فَقَرَأَ فِيهَا ثَلَاثَ آيَاتٍ

*** حضرت عبدالرحمن بن سابط رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں ساٹھ آیات کی تلاوت کی جب آپ دوسری رکعت میں کھڑے ہوئے تو آپ نے ایک بچہ کی (رونے کی) آواز سنی تو آپ نے اُس رکعت میں تین آیات تلاوت کیں۔

3723- الجامع للترمذی ' ابواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدیث: 358، البحر الزخار مسند البزار - من حدیث عثمان بن ابی العاص' حدیث: 2034، المعجم الاوسط للطبرانی - باب الالف' باب من اسبه ابراهيم - حدیث: 2374

3725 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن جریج قال: أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: بينا فتى من الأنصار علف ناصحه، وأقام معاذ بن جبل صلاة العشاء، فنزل الفتى علفه، فقام فتوصاً، وحضر الصلاة، وافتتح معاذ بسورة البقرة، فصلى الفتى وترك معاذاً، وانصرف إلى ناصحه فعلفه - أو فعلفها - فلما انصرف معاذ جاء الفتى، فسبته ونقصه، ثم قال: لآتين نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرك، فأصبحنا فاجتمعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له معاذ شأنه، فقال الفتى: إنا أهل عمل وشغل، فطول علينا، استفتح بسورة البقرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتريد أن تكون فتاناً؟ إذا أمتت الناس فأقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، واللّيل إذا يغشى، وأقرأ باسم ربك، والضحي، وبهذا النحو، فقال عبد الله بن عبید بن عمیر: فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الفتى فقال: يا معاذ، ادع، فدعا، فقال لفتى: ادع، فقال: والله لا أدري ما دندنتكما هذه، غير أنني والله لئن لقيت العدو لأصدقن الله، فلقى العدو فاستشهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله فصدقه الله.

* * * حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ انصار سے تعلق رکھنے والا ایک نوجوان اپنی اونٹنی کو چارہ کھلا رہا تھا جبکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس نوجوان نے چارہ کھلانا چھوڑا اور اٹھ کر وضو کیا اور نماز میں آ کر شریک ہو گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی تو اس نوجوان نے اکیلے نماز ادا کی اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا اور واپس اپنی اونٹنی کے پاس جا کر اسے چارہ کھلانے لگا۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو وہ اس نوجوان کے پاس آئے اور اسے برا بھلا کہا تو اس نوجوان نے کہا: میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور حاضر ہو کر آپ کی صورت حال کے بارے میں بتاؤں گا۔

راوی بیان کرتے ہیں: اگلے دن ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکٹھے حاضر ہوئے تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا، اس نوجوان نے کہا کہ ہم کام کاج کرنے والے لوگ ہیں یہ ہمیں لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے معاذ! کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم آزمائش کا شکار کرنے والے بن جاؤ؟ جب تم لوگوں کی امامت کرو تو سورہ الاعلیٰ، سورہ اللیل اور سورہ العلق اور سورہ الضحیٰ کی تلاوت کیا کرو یا اس جیسی سورتوں کی تلاوت کیا کرو۔

عبد اللہ بن عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلایا اور فرمایا: اے معاذ! تم دعا کرو! انہوں نے دعا کی پھر آپ نے نوجوان سے فرمایا: تم دعا کرو! تو اس نے عرض کی: اللہ کی قسم! مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں آپ لوگوں کی طرح (مختصر اور جامع الفاظ میں) کس طرح دعا کروں؟ البتہ یہ ہے کہ اللہ کی قسم! اگر میرا دشمن سے سامنا ہو تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور سچا ثابت کروادے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھر جب اس شخص کا دشمن سے سامنا ہوا تو اس نے جام شہادت نوش کر لیا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سچ کہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سچ کو ثابت کر دیا۔

3726 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَشْهَدُ الصَّلَاةَ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فَلَانٌ قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ قَالَ: مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيفَ، وَالْكَبِيرَ، وَذَا الْحَاجَّةِ

*** حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی: میں باجماعت نماز میں صرف اس لیے شریک نہیں ہوتا کہ فلاں صاحب ہمیں لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وعظ و نصیحت کے کسی کام میں اتنا غضب ناک کبھی نہیں دیکھا جتنا اُس دن غضب ناک دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو لوگوں کی امامت کرتا ہے اُسے مختصر نماز پڑھانی چاہیے، کیونکہ اُس کے پیچھے کمزور، عمر رسیدہ اور کام کاج والے لوگ ہوتے ہیں۔

3727 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءِ الْعَطَّارِ دِي قَالَ: قَدِمَ طَلْحَةُ وَالزُّبَيْرُ فَصَلَّى بِنَا طَلْحَةُ فَخَفَّفَ، فَقُلْنَا: مَا هَذَا؟ قَالَ: بَادَرْتُ الْوَسْوَاسَ

*** ابو رجاء عطاردی بیان کرتے ہیں: حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما آئے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں نماز پڑھاتے ہوئے مختصر نماز پڑھائی، ہم نے دریافت کیا: یہ کیوں کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: وسوسے آنے سے پہلے ہی (میں نے اسے ختم کر دیا)۔

3728 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ دُعْلُقٍ، عَنْ خُلَيْدٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: اخذوا هذه الصلاة قبل وسوسة الشيطان

*** حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: شیطان کے وسوسے آنے سے پہلے ہی اس نماز کو مختصر طور پر ادا کر لو۔

3729 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: كَانَ أَبِي يُطِيلُ الصَّلَاةَ فِي بَيْتِهِ، وَيُخَفِّفُ عِنْدَ النَّاسِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَتَاهُ، لِمَ تَفْعَلُ هَذَا؟ قَالَ: إِنَّا أَيْمَةٌ يُقْتَدَى بِنَا *** حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے مصعب بن سعد بیان کرتے ہیں: میرے والد اپنے گھر میں طویل نماز ادا کرتے تھے، لیکن لوگوں کی موجودگی میں مختصر نماز ادا کرتے تھے۔ میں نے کہا: ابا جان! آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: ہم پیشوا ہیں، ہماری پیروی کی جاتی ہے۔

3730 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءِ قَالَ: صَلَّى بِنَا الزُّبَيْرُ صَلَاةً فَخَفَّفَ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: إِنِّي أَبَادِرُ الْوَسْوَاسَ

*** ابو رجاء بیان کرتے ہیں: حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے ہمیں نماز پڑھاتے ہوئے مختصر نماز پڑھائی، اُن سے اس بارے میں بات کی گئی تو انہوں نے فرمایا: وسوسے آنے سے پہلے ہی (میں نے اسے ختم کر دیا)۔

3731 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ شَاةً عَزُوزًا لَمْ يَفْرُغْ مِنْ لَيْنِهَا حَتَّى أَصَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، أُتِمَّ رُكُوعُهَا وَسُجُودُهَا

*** عمرو بن میمون اودی بیان کرتے ہیں: اگر کوئی شخص تھوڑا دودھ دینے والی بکری کو پکڑے تو وہ اس کا دودھ دوہ کر ابھی فارغ نہیں ہوگا کہ میں اتنی دیر میں پانچوں نمازیں ادا کر لوں گا جس میں میں نے رکوع اور سجود مکمل ادا کیے ہوں گے۔

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي صَلَاةً لَا يُكْمِلُهَا

باب: جو شخص نماز ادا کرے اور اسے مکمل نہ کرے

3732 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ حُذَيْفَةَ فِي الْمَسْجِدِ، فَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي صَلَاةً لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ دَعَاهُ، فَقَالَ لَهُ: مُنْذُ كَمْ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، قَالَ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ كُنْتَ، وَلَوْ مِتَّ وَأَنْتَ عَلَى هَذَا لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي فِطَرَ عَلَيْهَا

*** زید بن وہب بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز ادا کر رہا تھا لیکن رکوع اور سجدے مکمل نہیں کر رہا تھا جب اس نے نماز مکمل کی تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے بلایا اور اس سے دریافت کیا: تم کتنے عرصہ سے اس طرح نماز ادا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا: چالیس سال سے! حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نے اتنے عرصہ سے نماز ادا کی ہی نہیں ہے اور اگر تم اسی حالت میں مر گئے تو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے علاوہ پر مرو گے جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گامزن تھے۔

3733 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ حُذَيْفَةَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَبْوَابِ كِنْدَةَ صَلَّى صَلَاةً جَعَلَ يَنْقُرُ فِيهَا، وَلَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مُنْذُ كَمْ صَلَّيْتَ هَذِهِ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ: مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، وَلَوْ مِتَّ لَمِتَّ عَلَى غَيْرِ الْفِطْرَةِ الَّتِي فِطَرَ عَلَيْهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ حُذَيْفَةُ: إِنَّ الرَّجُلَ يُخَفِّفُ، ثُمَّ يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ

*** زید بن وہب بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اسی دوران کندہ کے دروازوں کی طرف سے ایک شخص ان کے پاس آیا اس نے نماز ادا کی جس میں وہ ٹھونگے مارنے لگا وہ رکوع بھی مکمل نہیں کر رہا تھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس سے دریافت کیا: تم کتنے عرصہ سے اس طرح نماز ادا کر رہے ہو؟ اس نے کہا: چالیس سال سے! حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نے چالیس سال سے نماز ادا کی ہی نہیں ہے اور اگر تم اس حالت میں مر گئے تو تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے علاوہ پر مرو گے۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آدمی کو مختصر نماز ادا کرنی چاہیے لیکن رکوع اور سجدے مکمل کرنے

چاہئیں۔

3734 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَثِقُ بِهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ لَا يُتِمُّ رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا، فَقَالَ: شَيْءٌ خَيْرٌ مِنْ لَا شَيْءٍ

*** سفیان ثوری بیان کرتے ہیں: مجھے ایک قابل اعتماد شخص نے حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ وہ ایک ایسے شخص کے پاس سے گزرے جو رکوع اور سجدے مکمل نہیں کر رہا تھا، تو انہوں نے فرمایا: کچھ ہونا نہ ہونے سے بہتر ہوتا ہے۔

3735 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلَيْنِ يُصَلِّيَانِ، أَحَدُهُمَا مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، وَالْآخَرُ لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَضَحِكَ قَالُوا: مِمَّا تَضْحَكُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: عَجِبْتُ لِهَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، أَمَّا الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ فَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاتَهُ *** حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے دو آدمیوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، ان میں سے ایک شخص نے اپنے تہبند کو لٹکایا ہوا تھا جبکہ دوسرا شخص رکوع اور سجدے مکمل نہیں کر رہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہنس پڑے لوگوں نے کہا: اے ابو عبدالرحمن! آپ کس بات پر ہنسے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: مجھے ان دو آدمیوں پر حیرانگی ہو رہی ہے! جس شخص نے اپنے تہبند کو لٹکایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا، اور دوسرے شخص کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔

3736 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ

3736- سنن ابی داؤد - کتاب الصلاة، ابواب تفریع استفتاح الصلاة - باب صلاة من لا یقیم صلبه فی الركوع والسجود حدیث: 736، سنن ابن ماجہ - کتاب إقامة الصلاة، باب الركوع فی الصلاة - حدیث: 866، الجامع للترمذی، ابواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء فيمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، حدیث: 250، سنن الدارمی - کتاب الصلاة، باب فی الذی لا یتم الركوع والسجود - حدیث: 1349، صحیح ابن حبان - کتاب الصلاة، باب صفة الصلاة - ذکر الإخبار عن نفي جواز صلاة البرء إذا لم یقم اعضاءه، حدیث: 1914، مستخرج ابی عوانة - باب فی الصلاة بین الاذان والإقامة فی صلاة المغرب وغيرها، بیان صفة الصلاة إذا استعملها البصلى كانت صلاته جائزة - حدیث: 1280، صحیح ابن خزیمة - کتاب الصلاة، باب ذکر بیان ان صلاة من لا یقیم صلبه فی الركوع - حدیث: 566، السنن للنسائی - کتاب الافتتاح، إقامة الصلب فی الركوع - حدیث: 1021، مصنف ابن ابی شیبة - کتاب الصلاة، فی الرجل ینقص صلاته وما ذکر فیہ وكيف یصنع - حدیث: 2922، السنن الکبریٰ للنسائی - التطبيق، إقامة الصلب فی السجود - حدیث: 688، مشکل الآثار للطحاوی - باب بیان مشکل ما روى عن حکیم بن حزام، حدیث: 181، سنن الدارقطنی - کتاب الصلاة، باب لزوم إقامة الصلب فی الركوع والسجود - حدیث: 1136، مسند احمد بن حنبل - مسند الشامیین، بقية حدیث ابی مسعود البدری الانصارى - حدیث: 16775، مسند الطیالسی - ابو مسعود البدری، حدیث: 640، مسند الحمیدی - احادیث ابی مسعود الانصارى رضی اللہ عنہ، حدیث: 441

أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ فِيهَا صَلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ

*** حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

”ایسے شخص کی نماز درست نہیں ہوتی جو نماز کے دوران رکوع اور سجدہ میں اپنی پشت کو ٹھیک نہیں رکھتا۔“

3737 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَجَلَانُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَا أَنْظِرُ فِي الصَّلَاةِ مِنْ وَرَائِي كَمَا أَنْظِرُ بَيْنَ يَدَيَّ، فَسَوُّوا صُفُوفَكُمْ، وَأَحْسِنُوا رُكُوعَكُمْ وَسُجُودَكُمْ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”میں نماز کے دوران اپنے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں جس طرح میں اپنے آگے دیکھ سکتا ہوں تم لوگ اپنی صفیں درست رکھا کرو اپنے رکوع اور سجدے ٹھیک کیا کرو۔“

3738 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَجْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْسَنَ الصَّلَاةَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ، ثُمَّ أَسَاءَ هَا حِينَ يَخْلُو، فَتِلْكَ اسْتِهَانَةٌ اسْتَهَانَ بِهَا رَبُّهُ

*** حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں:

”جو شخص اُس وقت اچھے طریقے سے نماز ادا کرے جب لوگ اُسے دیکھ رہے ہوں اور جب وہ تنہا ہو اُس وقت بُرے طریقے سے نماز ادا کرے تو یہ ایک توہین ہوگی جس کے ذریعہ اُس نے اپنے پروردگار کی توہین کی ہے۔“

3739 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَلَادٍ بْنِ رَافِعِ بْنِ مَالِكِ الزُّرْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمِيهِ - وَكَانَ بَدْرِيًّا - قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمُقُهُ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ قَالَ: فَرَجَعْتُ فَصَلَّى، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَرَجَعْتُ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: ارْجِعْ

3737- صحیح ابن خزیمة - کتاب الصلاة' باب إتمام السجود والزجر عن انتقاصه وتسمية المنتقص ركوعه وسجوده

سارقا - حدیث: 642' صحیح ابن حبان - کتاب التاريخ' ذکر البیان بان المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يرى من -

حدیث: 6429' السنن للنسائی - کتاب التطبيق' باب الامر بإتمام السجود - حدیث: 1110' مصنف ابن ابی شیبة -

کتاب الصلاة' ما قالوا فی إقامة الصف - حدیث: 3501' السنن الكبرى للنسائی - التطبيق' الامر بإتمام السجود -

حدیث: 693' مسند احمد بن حنبل 'مسند ابی هريرة رضي الله عنه - حدیث: 8071' مسند ابن الجعد - من حدیث

عجلان' حدیث: 2361'

فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ الثَّلَاثَةَ أَوْ الرَّابِعَةَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ، فَقَالَ: أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ، يَا بِي أَنْتَ وَأُمِّي، وَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ لَقَدْ اجْتَهَدْتُ وَحَرِصْتُ فَأَرِنِي وَعَلِّمْنِي، فَقَالَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُصَلِّيَ فَأَحْسِنُ وُضُوءَكَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ، فَإِذَا اتَّمَمْتَ عَلَى هَذَا، فَقَدْ اتَّمَمْتَ وَمَا نَقَصْتَ مِنْ هَذَا نَقَصْتَهُ مِنْ نَفْسِكَ

*** علی بن یحییٰ بن خالد اپنے والد کے حوالے سے اُن کے چچا جو ایک بدری صحابی ہیں اُن کا یہ بیان نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ ہم نبی اکرم ﷺ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اسی دوران ایک شخص اندر آیا اُس نے دو رعات ادا کیں نبی اکرم ﷺ اُس کا جائزہ لیتے رہے پھر وہ شخص آیا اُس نے نبی اکرم ﷺ کو سلام کیا، نبی اکرم ﷺ نے اُسے سلام کا جواب دیا اور پھر ارشاد فرمایا: تم جا کر نماز ادا کرو کیونکہ تم نے نماز ادا نہیں کی۔ راوی بیان کرتے ہیں: وہ شخص واپس گیا اُس نے نماز ادا کی پھر وہ شخص آیا اُس نے نبی اکرم ﷺ کو سلام کیا، نبی اکرم ﷺ نے اُسے سلام کا جواب دیا پھر آپ نے ارشاد فرمایا: تم واپس جا کر نماز ادا کرو کیونکہ تم نے نماز ادا نہیں کی۔ وہ شخص واپس آیا پھر اُس نے آ کر نبی اکرم ﷺ کو سلام کیا، نبی اکرم ﷺ نے اُسے سلام کا جواب دیا پھر آپ نے ارشاد فرمایا: تم واپس جا کر نماز ادا کرو کیونکہ تم نے نماز ادا نہیں کی۔ جب اُس نے تیسری یا شاید چوتھی مرتبہ ایسا کیا اور نبی اکرم ﷺ نے پہلے کی طرح یہی بات پھر ارشاد فرمائی تو اُس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! اُس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب کو نازل کیا ہے! میں نے اپنی بھرپور کوشش کی ہے اور پورا خواہشمند بھی ہوں (کہ میں ٹھیک طریقہ سے نماز ادا کروں) اب آپ مجھے یہ بتادیں اور تعلیم دے دیں (کہ میں کیسے نماز ادا کروں؟) نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب تم نماز ادا کرنے کا ارادہ کرو تو پہلے اچھی طرح سے وضو کرو پھر قبلہ کی طرف رخ کر کے تکبیر کہو پھر قرأت کرو پھر رکوع میں جاؤ اور اطمینان سے رکوع کرو پھر اٹھو اور سیدھے کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ کرو اور اطمینان سے سجدہ کرو پھر اٹھو اور اطمینان سے بیٹھ جاؤ پھر سجدہ میں جاؤ اور اطمینان سے سجدہ کرو پھر اٹھو جب تم اس طرح نماز ادا کرو گے تو تم نماز کو مکمل کر لو گے اور اس میں جو کمی رہ جائے گی وہ تمہاری طرف سے کمی شمار ہوگی۔

3740 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ نَعْمَانَ بْنِ مُرَّةَ الزَّرَقِيِّ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَا تَقُولُونَ فِي السَّارِقِ، وَالزَّانِي، وَشَارِبِ الْخَمْرِ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: هُنَّ فَوَاحِشٌ، وَفِيهِنَّ عُقُوبَاتٌ، وَشَرُّ السَّرِقَةِ سَرِقَةُ الرَّجُلِ صَلَاتَهُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ: لَا يُتَمُّ رُكُوعُهَا وَلَا سُجُودُهَا

*** نعمان بن مرہ زرقی "مرفوع" حدیث کے طور پر یہ بات نقل کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم لوگ چور زانی اور شرابی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اُن لوگوں نے عرض کی: اللہ اور اُس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں! نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: یہ فحش کام ہیں اور ان کاموں پر سزا بھی ملتی ہے، لیکن آدمی کی سب سے بُری چوری یہ ہے کہ آدمی نماز میں چوری کرے۔ لوگوں نے

عرض کی: یا رسول اللہ! کوئی شخص اپنی نماز کو کیسے چوری کر سکتا ہے؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: یوں کہ وہ اُس کے رکوع اور سجدے کو مکمل ادا نہ کرے۔

3741 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "إِنَّ الْمَلَائِكَةَ يَكْتُبُونَ أَعْمَالَ نَبِيِّ آدَمَ فَيَقُولُونَ: فَلَانٌ نَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ الرَّبْعَ، وَنَقَصَ فَلَانٌ الشَّطْرَ وَزَادَ فَلَانٌ كَذًا وَكَذَا" * * * طاووس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: فرشتے اولادِ آدم کے اعمال نوٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں: فلاں شخص نے اپنی نماز میں ایک چوتھائی کمی کر دی فلاں نے نصف کمی کر دی اور فلاں نے اتنا اتنا اضافہ کر دیا۔

3742 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَيْدَعَنَّ أَنْاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَنْقُوصِينَ، قِيلَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَمَا الْمَنْقُوصُونَ؟ قَالَ: يُنْقِصُ أَحَدُهُمْ صَلَاتَهُ فِي وُضُوئِهِ وَالتَّفَاتِيهِ

* * * حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: قیامت کے دن لوگوں کو نقص کے ہمراہ بلایا جائے گا۔ دریافت کیا گیا: اے ابو عبد الرحمن! نقص والے لوگ کون ہوں گے؟ انہوں نے جواب دیا: کوئی ایسا شخص جو اپنی نماز میں وضو یا توجہ کے حوالے سے نقص پیدا کرتا ہے۔

3743 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: "النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ ثَلَاثَةٌ: مُقْمَحٌ، وَمُلْجَمٌ، وَمَعْصُومٌ، فَأَمَّا الْمُقْمَحُ: فَالَّذِي يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ يُفَكِّرُ فِي أَمْرِ دُنْيَاهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ أَمْرِ صَلَاتِهِ، وَأَمَّا الْمُلْجَمُ: فَالَّذِي يَلْوِي عُنُقَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا، وَأَمَّا الْمَعْصُومُ: فَالَّذِي يُقْبَلُ عَلَى صَلَاتِهِ، لَا يَهْتَمُّ غَيْرَهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا"

* * * زید بن اسلم فرماتے ہیں: نماز کے حوالے سے لوگوں کی تین قسمیں ہیں: کمی والا لگام والا بچاؤ والا جہاں تک کمی والے کا تعلق ہے تو یہ وہ شخص ہے جو اپنا ہاتھ سینے پر رکھتا ہے اور پھر دنیاوی کاموں سے متعلق غور و فکر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے جہاں تک لگام والے کا تعلق ہے تو یہ وہ شخص ہے جو اپنی گردن دائیں طرف اور بائیں طرف موڑتا ہے جہاں تک معصوم کا تعلق ہے تو یہ وہ شخص ہے جو اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتا ہے اور نماز سے فارغ ہونے تک کوئی دوسری چیز اسے مشتعل نہیں کرتی ہے۔

3744 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا إِذَا رَأَوْا الرَّجُلَ لَا يُحْسِنُ الصَّلَاةَ عَلَّمُوهُ

* * * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: پہلے لوگ جب کسی ایسے شخص کو دیکھتے تھے جو اچھے طریقہ سے نماز ادا نہیں کرتا تھا تو وہ اسے تعلیم دیتے تھے۔

3745 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ آتَى بَعْدَمَا فَرَعْتَ مِنْ

صَلَاتِي لَمْ أَرْضَ كَمَا لَهَا، أَعُوذُ لَهَا؟ قَالَ: بَلَى، هَا اللَّهُ إِذَا فَعُدَّ لَهَا، فَإِنْ كَانَتْ قَدْ فَاتَتْ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، فَإِنِّي أَرْجُو أَنْ لَا يَرُدَّ اللَّهُ عَلَيْكَ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد اس کے مکمل ہونے کے حوالے سے راضی نہیں ہوتا تو کیا میں اُسے دوبارہ ادا کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! تم اسے دوبارہ ادا کرو گے اور اگر یہ فوت بھی ہو چکی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے تم اسے دوبارہ ادا کرو گے تو مجھے اُمید ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ مسترد نہیں کرے گا۔

3746 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الْإِنْسَانُ مِنَ الصَّلَاةِ اتِّمَامًا لَا يُجْزِيهِ دُونَهُ؟ قَالَ: الْوُضُوءُ لَا يَكْفِي مِنْهُ إِلَّا الْإِسْبَاحُ، وَمِنَ الْقِرَاءَةِ أَمْ الْقُرْآنِ قَالَ: قُلْتُ: يَكْفِي إِذَا انْتَهَى إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: نماز کے لیے کون سی چیزیں شرط ہیں کہ جب وہ ہوں تو نماز مکمل ہو جاتی ہے اس کے بغیر جائز نہیں ہوتی؟ انہوں نے فرمایا: وضو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اچھی طرح سے وضو کیا جائے اور قرأت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ میں نے دریافت کیا: جب یہاں تک ہو جائے گا تو یہ کفایت کر جائے گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

بَابُ الْمُحَافَظَةِ عَلَى الْأَوْقَاتِ

باب: اوقات کی حفاظت کرنا

3747 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ لِلصَّلَاةِ وَقْتًا كَوَقْتِ الْحَجِّ

*** حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حج کے مخصوص وقت کی طرح نماز کا بھی مخصوص وقت ہوتا ہے۔

3748 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ذَكْوَانَ، عَنِ كَعْبِ قَالَ: "إِنَّ

الصَّلَاةَ ثَلَاثَةَ أَثْلَاطٍ: ثَلَاثُ طَهُورٍ، وَثَلَاثُ رُكُوعٍ، وَثَلَاثُ سُجُودٍ، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ قَبْلَنْ مِنْهُ، وَمَنْ نَقَصَ فَإِنَّمَا يَنْقُصُ مِنْ نَفْسِهِ"

*** حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نماز کے تین حصے ہوتے ہیں ایک حصہ کا تعلق طہارت سے ہے ایک حصہ کا

تعلق رکوع سے ہے اور ایک حصہ کا تعلق سجدہ سے ہے جو شخص ان کی حفاظت کرے گا اُس کی طرف سے نمازیں قبول ہوں گی اور جو شخص کمی کرے گا تو یہ اُس کی طرف سے کمی شمار ہوگی۔

3749 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ زُبَيْدٍ، عَنِ أَبِي الضُّحَى، عَنِ كَعْبِ، مِثْلَ هَذَا، إِلَّا

أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِنَّ قَبْلَنْ مِنْهُ وَمَا سِوَاهُنَّ، وَمَنْ ضَيَّعَهُنَّ رُدِدْنَ عَلَيْهِ وَمَا سِوَاهُنَّ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ کعب سے منقول ہے تاہم اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص ان نمازوں کو باقاعدگی سے ادا کرے گا اس کی طرف سے یہ قبول ہوں گی اور جو شخص انہیں ضائع کر دے گا تو اس کی یہ چیزیں اور دوسرے اعمال مسترد کر دیئے جائیں گے۔

3750 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ: الصَّلَاةُ مِثَالُ مَنْ أَوْفَى أَوْفَى بِهِ، وَمَنْ طَفَفَ فَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لِلْمُطَفِّينَ

*** سالم بن ابوالجعد بیان کرتے ہیں: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا: نماز ماپنے کی چیز ہے جو شخص اسے پورا کرے گا اسے پوری ادائیگی کی جائے گی اور جو شخص ناپ تول میں کمی کرے گا تو تم جانتے ہو کہ کمی کرنے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔

بَابُ الَّذِي يُخَالِفُ الْإِمَامَ

باب: جو شخص امام کے برخلاف کرتا ہے

3751 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يُؤْمِنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَرِدَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ

3751 - صحیح البخاری - کتاب الاذان ابواب صلاة الجماعة والإمامة - باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام حديث 670 صحیح مسلم - کتاب الصلاة باب النهی عن سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما - حديث: 676 صحیح ابن خزيمة - کتاب الإمامة فی الصلاة جماع ابواب قيام المأمومین خلف الإمام وما فيه من السنن - باب التغلیظ فی مبادرة المأموم الإمام برفع الرأس من السجود حديث: 1506 مستخرج ابی عوانة - باب فی الصلاة بین الاذان والإقامة فی صلاة المغرب وغیرہ بیان حظر مبادرة المأموم إمامه بالركوع والسجود ورفع الرأس من الركوع - حديث: 1352 صحیح ابن حبان - باب الإمامة والجماعة باب الحدث فی الصلاة - ذکر الزجر عن رفع المصلی بصره إلى السماء مخافة ان يلتصق حديث: 2313 سنن الدارمی - کتاب الصلاة باب النهی عن مبادرة الائمة بالركوع والسجود - حديث: 1338 سنن ابی داود - کتاب الصلاة باب التشدید فیمن يرفع قبل الإمام او يضع قبله - حديث: 533 سنن ابن ماجه - کتاب إقامة الصلاة باب النهی ان يسبق الإمام بالركوع والسجود - حديث: 957 الجامع للترمذی ابواب السفر - باب ما جاء فی التشدید فی الذي يرفع رأسه قبل الإمام حديث: 562 السنن للنسائی - کتاب الإمامة مبادرة الإمام - حديث: 823 مصنف ابن ابی شيبته - کتاب صلاة التطوع والإمامة وابواب متفرقة من قال: انتم بالإمام - حديث: 7043 السنن الكبرى للنسائی - ذکر الإمامة مبادرة الإمام - حديث: 886 السنن الكبرى للبيهقي - کتاب الصلاة جماع ابواب صفة الصلاة - باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام حديث: 2415 مسند احمد بن حنبل مسند ابی هريرة رضي الله عنه - حديث: 7365 مسند الطيالنسي - احاديث النساء ما اسند ابو هريرة - ومحمد بن زياد حديث: 2601 مسند ابن الجعد - شعبة حديث: 934 المعجم الصغير للطبرانی - باب من اسبه بشران حديث: 304 المعجم الاوسط للطبرانی - باب الباء من اسبه بشران - حديث: 3384

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”جو شخص امام سے پہلے اپنا سر (رکوع یا سجدہ سے) اٹھا لیتا ہے وہ اس بات سے محفوظ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اُس کے سر کو گدھے کے سر میں تبدیل کر دے۔“

3752 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن زياد بن الفياض، عن تميم بن سلمة قال: قال عبد

الله: ما يؤمن الرجل إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يعود رأسه كراس كلب، لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، أو لا ترجع إليهم

*** حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب کوئی شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھالے تو وہ اس بات سے محفوظ نہیں ہوتا کہ

اُس کا سر کتے کے سر میں تبدیل ہو جائے لوگ یا تو نماز کے دوران اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جائیں گے یا پھر اُن کی بینائی اُن کی طرف واپس ہی نہیں آئے گی۔

3753 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، عن مريح بن

عبد الله السعدي قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن الذي يرفع رأسه قبل الإمام، ويخفض قبله فإنما ناصيته بيد الشيطان

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: جو شخص امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے یا اُس سے پہلے جھک جاتا ہے تو

اُس کی پیشانی شیطان کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔

3754 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي اسحاق قال: حدثنا عبد الله بن يزيد الخطمي

قال: حدثنا البراء بن عازب، وهو غير كذوب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع، وقال: سمع الله لمن حمده، لم يحن منا رجل ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا

3754- صحیح البخاری - کتاب الاذان، ابواب صلاة الجماعة والإمامة - باب متى يسجد من خلف الإمام

حدیث: 669، صحیح مسلم - کتاب الصلاة، باب متابعة الإمام والعمل بعده - حدیث: 758، صحیح ابن خزيمة - کتاب

الإمامة في الصلاة، جباع ابواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن - باب مبادرة الإمام المأموم بالسجود

حدیث: 1505، مستخرج ابی عوانة - باب في الصلاة بين الاذان والإقامة في صلاة المغرب وغيره، بيان ما يقول البصلي

إذا رفع رأسه من الركوع ومقدار وقوفه - حدیث: 1467، الجامع للترمذی، ابواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه

وسلم - باب ما جاء في كراهية ان يبادر الإمام في الركوع والسجود، حدیث: 264، مصنف ابن ابی شيبه - کتاب صلاة

التطوع والإمامة و ابواب متفرقة، من قال: ائتم بالإمام - حدیث: 7050، مسند احمد بن حنبل - اول مسند الكوفيين

حدیث البراء بن عازب - حدیث: 18305، البحر الزخار مسند البزار - مسند النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه

وسلم، حدیث: 2755، مسند ابی يعلى البوصلي - مسند البراء بن عازب، حدیث: 1659، مسند الروياني - ثابت بن عبيد

حدیث: 407، المعجم الاوسط للطبراني - باب الالف، من يبادر امامه احد - حدیث: 2033، المعجم الصغير للطبراني - من

اسمه احمد، حدیث: 79

* * حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب (رکوع سے) سر اٹھاتے تھے تو سمع اللہ لمن حمدہ پڑھتے تھے اور ہم میں سے کوئی بھی شخص اپنی پشت کو اس وقت تک نہیں جھکاتا تھا جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں نہیں چلے جاتے تھے پھر آدمی سجدے میں جاتا تھا۔

3755 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعَمٍ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنِّي قَدْ تَبَدَّنْتُ فَلَا تُبَادِرُوا فِي الْقِيَامِ، وَلَا تُبَادِرُوا فِي السُّجُودِ * * حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”میرا وزن زیادہ ہو گیا ہے تو تم قیام میں (یعنی سجدہ سے اٹھتے ہوئے) مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو اور نہ ہی سجدے میں (جاتے ہوئے) مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔“

3756 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي اسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْاُخْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا يُرْكَعُ قَبْلَ الْاِمَامِ وَلَا يُرْفَعُ قَبْلَهُ

* * حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نہ تو امام سے پہلے رکوع میں جایا جائے گا اور نہ ہی اس سے پہلے اٹھا جائے گا۔

3757 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ سُهَيْمِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَا تُبَادِرُوا ائِمَّتِكُمْ بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ، فَاِنْ سَبَقَ اِحَدٌ مِنْكُمْ فَلْيَضَعْ قَدْرًا مَّا يَسْبِقُ بِهِ

* * حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: تم اپنے اماموں سے پہلے رکوع یا سجدوں میں نہ جاؤ، اگر تم میں سے کوئی ایک شخص پہلے چلا گیا تو اس کا اتنا حصہ ضائع ہو جائے گا جو وہ پہلے گیا تھا۔

3758 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مَخْلَدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: أَيُّمَا رَجُلٍ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْاِمَامِ فِي رُكُوعٍ أَوْ فِي سُجُودٍ، فَلْيَضَعْ رَأْسَهُ بِقَدْرِ رَفْعِهِ اِيَّاهُ

* * حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو شخص امام سے پہلے رکوع یا سجدہ سے سر اٹھا لیتا ہے وہ اپنے سر کو اٹھانے کی مقدار جتنے (وقت کے بعد ہی) اپنے سر کو (بعد میں) رکھے گا۔

3759 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَدْرِ يَحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَبْلَ الْاِمَامِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ

* * علی بن شیبان اپنے والد کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں:

”جو شخص امام سے پہلے سر اٹھالیتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔“

بَابُ الضَّحِكِ وَالتَّبَسُّمِ فِي الصَّلَاةِ

باب: نماز کے دوران ہنسنا یا مسکرا دینا

3760 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ يَوْمًا، فَجَاءَ رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، فَوَقَعَ فِي رَكِيَّةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَضَحِكَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ضَحِكَ فَلْيُعِدْ وُضُوءَهُ، ثُمَّ لْيُعِدْ صَلَاتَهُ

*** ابو العالیہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ایک دن اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی اسی دوران ایک صاحب آئے جن کی بینائی انتہائی کمزور تھی وہ ایک گڑھے میں گر گئے جس میں پانی موجود تھا تو نبی اکرم ﷺ کے بعض اصحاب ہنس پڑے جب نبی اکرم ﷺ نے نماز مکمل کی تو آپ نے فرمایا: ”جو شخص ہنس پڑا تھا وہ وضو کو بھی دہرائے اور نماز کو بھی دہرائے۔“

3761 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَّاحِيِّ: أَنَّ رَجُلًا أَعْمَى تَرَدَّى

فِي بِنْرِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ، فَضَحِكَ بَعْضُ مَنْ كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ضَحِكَ مِنْكُمْ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ

*** ابو العالیہ ریاحی بیان کرتے ہیں: ایک نابینا صاحب ایک کنویں میں (یعنی گڑھے میں) گر گئے نبی اکرم ﷺ اپنے اصحاب کو اس وقت نماز پڑھا رہے تھے تو نبی اکرم ﷺ کی اقتداء میں نماز ادا کرنے والوں میں سے بعض حضرات ہنس پڑے تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم میں سے جو ہنس پڑا تھا وہ اپنی نماز کو دہرائے۔

3762 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ،

مِثْلَ ذَلِكَ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ ابو العالیہ سے منقول ہے۔

3763 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: بَيْنَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فِي بَصَرِهِ سُوءٌ، فَوَقَعَ فِي بِنْرِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ضَحِكَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ، وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ

*** ابو العالیہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اسی دوران ایک صاحب آئے جن کی بینائی انتہائی کمزور تھی وہ مسجد کے پاس موجود ایک کنویں میں گر گئے تو نبی اکرم ﷺ نے ہنسنے والے شخص کو حکم دیا کہ وہ دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کرے۔

3764 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: اِذَا ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي

الصَّلَاةِ اسْتَأْنَفَ الْوُضُوءَ وَاسْتَأْنَفَ الصَّلَاةَ

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جب کوئی شخص نماز کے دوران ہنس پڑے گا تو وہ نئے سرے سے وضو کرے گا اور نئے سرے سے نماز ادا کرے گا۔

3765 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: لَيْسَ فِي الضَّحِكِ

وُضُوءٌ

*** معمر بیان کرتے ہیں: میں نے زہری سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: ہنسنے کی وجہ سے وضو لازم نہیں ہوتا۔

3766 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطْرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: اِذَا

ضَحِكَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ يُعِيدُ الصَّلَاةَ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ،

*** حضرت جابر بن عبد اللہ فرماتے ہیں: جب کوئی شخص نماز کے دوران ہنس پڑتا ہے تو وہ نماز کو دہرائے گا وضو کو نہیں دہرائے گا۔

3767 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ امام شعبی سے منقول ہے۔

3768 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ

مُحَمَّدٍ: اَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يَضْحَكُ فَأَمَرَهُ اَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ

*** قاسم بن محمد کے بارے میں یہ بات منقول ہے: انہوں نے ایک شخص کو (نماز کے دوران) ہنستے ہوئے دیکھا تو اسے یہ حکم دیا کہ وہ نماز کو دہرائے۔

3769 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: اَنَّهُ اَمَرَ اَصْحَابَهُ مِنْ

الضَّحِكِ بِاعَادَةِ الصَّلَاةِ وَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ

*** ایوب نے قاسم بن محمد کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو (نماز کے دوران) ہنسنے کی وجہ سے نماز کو دہرانے کا حکم دیا تھا وضو کو دہرانے کا حکم نہیں دیا تھا۔

3770 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: اِنْ ضَحِكْتَ فِي الصَّلَاةِ مُتَعَمِّدًا، ثُمَّ

فَرَقَرْتَ فَتَنْدَ قَطَعَتْ صَلَاتُكَ، قُلْتُ: اَرَأَيْتَ اِنْ ضَحِكْتُ نَاسِيًا فِي سَجْدَتَيْنِ، وَاَنَا اَرَى اِنِّي قَدْ فَرَعْتُ؟ قَالَ: مَا

اَذْرِي لَعَلَّكَ اِنْ اَوْفَيْتَ مَا بَقِيَ عَلَيَّ مَا مَضَى، ثُمَّ سَجَدْتَ سَجْدَتِي السَّهْوِ اَنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُ عَنْكَ، بَلْ هُوَ قَوْلُهُ

يَنْصِي عَنْكَ

*** عطاء بیان کرتے ہیں: اگر تم نماز کے دوران جان بوجھ کر ہنس پڑتے ہو اور پھر تم بلند آواز میں ہنستے ہو تو تمہاری نماز منقطع ہو جائے گی۔ میں نے دریافت کیا: اگر میں دو سجدوں (کے بعد) بھول کر ہنس پڑتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نماز پڑھ کر فارغ ہو چکا ہوں (تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟) انہوں نے فرمایا: مجھے نہیں معلوم! ہو سکتا ہے کہ تم اگر اس کو مکمل کر دو جو گزری ہوئی نماز کے بعد باقی رہ گئی ہے اور پھر تم سجدہ سہو کر لو تو تمہاری طرف سے یہ جائز ہو بلکہ رائے تو یہی ہوگی کہ یہ تمہاری طرف سے ادا ہو جائے گا۔

3771 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ التَّبَسُّمُ قَالَ: قُلْتُ: أَسْجُدُ مَعَهُ سَجْدَتِي السَّهْوِ؟ إِنْ قَرَقَرْتُ وَلكَ وَتَرْتُ فَاشْفَعُ بِرُكْعَةٍ ثُمَّ اسْتَقْبِلَ صَلَاتِكَ جَدِيدًا
*** ابن جبیر نے ابن جریج کا یہ قول نقل کیا ہے کہ مسکرانے کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: کیا میں اس کی وجہ سے سجدہ سہو کروں گا؟ انہوں نے کہا: اگر تم آواز گمے ساتھ ہنستے ہو اور تمہاری طاق رکعت نماز ہے تو تم ایک رکعت مزید ملا کر جفت کر لو گے اور پھر نئے سرے سے نماز پڑھو گے۔

3772 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا قَرَقَرْتُ مَعَ الْإِمَامِ فَقَدْ قَطَعَتْ صَلَاتِكَ، فَأَبْتَدِءْ صَلَاتَكَ حِينَئِذٍ مَعَهُ
*** ابن جریج نے عطاء کا یہ قول نقل کیا ہے: جب تم امام کی اقتداء میں بلند آواز میں ہنس پڑتے ہو تو تمہاری نماز منقطع ہو جائے گی، تم اسی وقت امام کے پیچھے نئے سرے سے نماز شروع کرو گے۔

3773 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ التَّبَسُّمُ قَالَ: قُلْتُ: أَسْجُدُ مَعَهُ سَجْدَتِي السَّهْوِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ، وَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَفْعَلَ
*** ابن جریج نے عطاء کا یہ قول نقل کیا ہے: تبسم نماز کو نہیں توڑتا ہے۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا: کیا مجھے سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ انہوں نے کہا: اگر تم چاہو تو کر لو ویسے میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ تم ایسا کر لو۔

3774 - اقوال تابعین: الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ التَّبَسُّمُ، وَلَكِنْ يَقْطَعُ الْقَرْقَرَةَ

*** ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے: تبسم نماز کو منقطع نہیں کرتا ہے بلکہ آواز سے ہنسا سے توڑتا ہے۔
3775 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ التَّبَسُّمُ
*** مجاہد فرماتے ہیں: تبسم نماز کو نہیں توڑتا ہے۔

3776 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ التَّبَسُّمُ حَتَّى يَقْهَقَهُ أَوْ يُكْرِمَكَ

*** قتادہ بیان کرتے ہیں: تبسم نماز کو نہیں توڑتا یہاں تک کہ آدمی قہقہہ لگائے یا آواز کے ساتھ ہنستے۔

3777 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَوْ تَبَسَّمتَ فَبَدَتْ اَسْنَانُكَ، لَا يَقْطَعُ

ذَلِكَ صَلَاتَكَ

*** عطاء فرماتے ہیں: اگر تم مسکرا دیتے ہو یہاں تک کہ تمہارے دانت ظاہر ہو جاتے ہیں تو تمہاری نماز (محض اس وجہ سے) نہیں ٹوٹے گی۔

3778 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: إِذَا كَشَرَ فَلَا يَضُرُّهُ حَتَّى يُكْرِكَرَ، قُلْتُ

لَهُ: مَا كَشَرَ؟ قَالَ: تَبَيَّنَ اَسْنَانُهُ

*** منصور فرماتے ہیں: جب ”کشر“ ہو تو یہ آدمی کو نقصان نہیں دے گا جب تک آدمی آواز کے ساتھ نہیں ہنستا۔
راوی کہتے ہیں کہ میں نے اُن سے دریافت کیا: ”کشر“ سے مراد کیا ہے؟ اُنہوں نے کہا: یہ کہ آدمی کے دانت ظاہر ہو جائیں۔

بَابُ الْأَمْرَاءِ يُؤَخَّرُونَ الصَّلَاةَ

باب: حکمرانوں کا نماز کو تاخیر سے ادا کرنا

3779 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ:

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهُ سَتَكُونُ أُمَرَاءُ بَعْدِي، يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لَوْ قَتَلَتْهَا، وَيُؤَخَّرُونَ عَنْ وَقْتِهَا، فَصَلُّوْهَا مَعَهُمْ، فَإِنْ صَلُّوْهَا لَوْ قَتَلَتْهَا وَصَلَّيْتُمْوْهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْرَوْهَا عَنْ وَقْتِهَا فَصَلَّيْتُمْوْهَا مَعَهُمْ فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ نَكَتَ الْعَهْدَ فَمَاتَ نَاكِثًا لِعَهْدِهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ

*** عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد کے حوالے سے نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں:

”عنقریب میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو نماز کو اُس کے وقت پر ادا کریں گے اور کچھ ایسے ہوں گے جو نماز کو اُس کے وقت سے تاخیر سے ادا کریں گے تو تم اُن لوگوں کے ساتھ نماز ادا کر لینا، اگر وہ اس نماز کو اُس کے وقت پر ادا کریں گے اور تم بھی اُن کے ساتھ اُس نماز کو ادا کر لو گے تو تمہارا بدلہ تمہیں ملے گا، اُن کا بدلہ اُنہیں ملے گا، لیکن اگر وہ نماز کو اُس کے وقت سے تاخیر سے ادا کریں گے تو تم اُن لوگوں کے ساتھ وہ نماز ادا کر لینا، تمہیں تمہارا ثواب ملے گا، اُنہیں اُن کا گناہ ملے گا، جو شخص جماعت سے علیحدہ ہوتا ہے وہ زمانہ جاہلیت کی موت مرتا ہے اور جو شخص عہد کو توڑ کر مرتا ہے تو عہد کو توڑنے والا شخص جب قیامت کے دن آئے گا تو اُس کے پاس کوئی حجت نہیں ہوگی۔“

3780 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: سَأَلْتُ

3779-مسند احمد بن حنبل - مسند المکین حدیث عامر بن ربیعہ - حدیث: 15404، مسند ابی یعلیٰ الموصلی -

حدیث عامر بن ربیعہ حدیث: 7042

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، وَهُوَ ابْنُ أَخِي أَبِي ذَرٍّ، عَنِ الْأَمْرَاءِ إِذَا أَخْرُوا الصَّلَاةَ، فَضْرَبَ رُكْبَتِي، فَقَالَ: سَأَلْتُ أَبَا ذَرٍّ عَنِ ذَلِكَ، فَفَعَلَ بِي كَمَا فَعَلْتُ بِكَ، وَضْرَبَ رُكْبَتِي، وَحَدَّثَنِي أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَلَ بِهِ كَمَا فَعَلَ بِي، وَضْرَبَ رُكْبَتَهُ كَمَا ضْرَبَ رُكْبَتِي، فَقَالَ: صَلَّى الصَّلَاةَ لَوْ قَتَلَهَا قَالَ: فَإِنْ أَدْرَكْتُمْ مَعَهُمْ فَصَلُّوا، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا يُصَلِّي

*** ابو العالیہ بیان کرتے ہیں: میں نے عبد اللہ بن صامت سے حکمرانوں کے بارے میں دریافت کیا جو نماز کو تاخیر سے ادا کرتے ہیں وہ (یعنی عبد اللہ بن صامت) حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں تو انہوں نے میرے گھٹنے پر ہاتھ مارا اور بولے: میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے اس بارے میں دریافت کیا تھا تو انہوں نے بھی میرے ساتھ اسی طرح کیا تھا جس طرح میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے انہوں نے میرے گھٹنے پر ہاتھ مارا اور پھر مجھے یہ بات بتائی کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ وہی کیا تھا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھٹنے پر ہاتھ مارا جس طرح انہوں نے میرے گھٹنے پر ہاتھ مارا تھا اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تم نماز کو اُس کے وقت پر ادا کر لو“۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اگر تم ان کے ساتھ نماز پاتے ہو تو اُسے بھی ادا کر لو“ کوئی بھی شخص یہ ہرگز نہ کہے کہ میں نے نماز ادا کر لی ہوئی ہے اور پھر وہ نماز ادا نہ کرے۔“

3781 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: أَخَّرَ عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ الصَّلَاةَ، فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَامِتٍ، فَضْرَبَ فِخْدِي، ثُمَّ قَالَ: سَأَلْتُ خَلِيلِي أَبَا ذَرٍّ، فَضْرَبَ فِخْدِي، ثُمَّ قَالَ: سَأَلْتُ خَلِيلِي - يَعْنِي - النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْرَبَ فِخْدِي، فَقَالَ: "صَلِّ الصَّلَاةَ لَوْ قَتَلَهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتُمْ فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: إِنِّي قَدْ صَلَّيْتُ فَلَا يُصَلِّي"

*** ابو العالیہ بیان کرتے ہیں: عبید اللہ بن زیاد نے ایک نماز تاخیر سے ادا کی تو میں نے عبد اللہ بن صامت سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے میرے زانوں پر ہاتھ مارا پھر بولے: میں نے اپنے خلیل حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تو انہوں نے میرے زانوں پر ہاتھ مارا پھر انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے خلیل یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے زانوں پر ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا:

”تم نماز کو اُس کے وقت پر ادا کر لو پھر اگر تمہیں (حکمران کے پیچھے) وہ نماز مل جاتی ہے تو تم اُسے بھی ادا کر لو اور کوئی بھی شخص یہ ہرگز نہ کہے کہ میں نے نماز ادا کر لی ہوئی ہے اور پھر وہ نماز ادا نہ کرے۔“

3782 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ مَنْصُورٍ، عَنِ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنِ أَبِي الْمُثَنَّى، عَنِ ابْنِ امْرَأَةِ عَبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ، عَنِ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّهَا سَتَجِيءُ أُمْرَاءٌ يُشْغَلُهُمْ أَشْيَاءٌ حَتَّى لَا يُصَلُّوا الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ أَصَلِّي مَعَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ

* * ابو ثنی نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کے صاحبزادے (یعنی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے سوتیلے بیٹے) کے حوالے سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں: (حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کی ہے:) ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عنقریب ایسے حکمران آئیں گے جن کی مصروفیات زیادہ ہوں گی جس کی وجہ سے وہ نماز کو اس کے وقت پر ادا نہیں کریں گے۔ ایک صاحب نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا میں ان کے ساتھ نماز ادا کر لوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جی ہاں!

3783 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَامِتٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لَوْ قَتَبَتْهَا، وَيُؤَخِّرُونَهَا عَنْ وَقْتِهَا، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لَوْ قَتَبَتْهَا، فَإِنْ أَخْرَوْهَا فَقَدْ أَحْرَزْتُمْ صَلَاتِكُمْ

* * حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: "عنقریب ایسے حکمران آئیں گے جو نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں گے اور کبھی نماز کو اس کے وقت سے تاخیر سے ادا کریں گے تو اگر وہ وقت پر ادا کریں تو تم نماز ادا کر لو اور اگر وہ تاخیر سے ادا کریں تو تم اپنی نماز کی حفاظت کر چکے ہو گے۔"

3784 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي ذَرٍّ: مَا لِي أَرَاكَ لِقَابَقًا؟ كَيْفَ بَكَ إِذَا أَخْرَجُوكَ مِنَ الْمَدِينَةِ؟ قَالَ: آتَى الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ قَالَ: فَكَيْفَ بَكَ إِذَا أَخْرَجُوكَ مِنْهَا؟ قَالَ: آتَى الْمَدِينَةَ قَالَ: فَكَيْفَ بَكَ إِذَا أَخْرَجُوكَ مِنْهَا؟ قَالَ: أَخَذُ سَيْفِي فَأَضْرِبُ بِهِ قَالَ: فَلَا، وَلَكِنْ اسْمِعْ وَأَطِعْ، وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ قَالَ: فَلَمَّا خَرَجَ أَبُو ذَرٍّ إِلَى الرَّبْدَةِ وَجَدَ بِهَا غَلَامًا لِعُثْمَانَ أَسْوَدَ، فَأَذَّنَ وَأَقَامَ، ثُمَّ قَالَ: تَقَدَّمْ يَا أَبَا ذَرٍّ قَالَ: لَا، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ أَسْمَعَ وَأَطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ قَالَ: فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى خَلْفَهُ

* * طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا: کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم الگ تھلگ ہو جاؤ گے! اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب لوگ تمہیں مدینہ منورہ سے نکال دیں گے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے عرض کی: میں ارض مقدس چلا جاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس وقت کیا ہوگا جب لوگ تمہیں وہاں سے بھی نکال دیں گے! انہوں نے عرض کی: میں مدینہ آ جاؤں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب لوگ تمہیں وہاں سے نکال دیں گے! انہوں نے عرض کی: میں اپنی تلوار پکڑوں گا اور اس کے ذریعہ لڑائی کروں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم ایسا نہ کرنا بلکہ تم اطاعت و فرمانبرداری کرنا خواہ (اس وقت کا حکمران) کوئی کالا غلام ہو۔

راوی بیان کرتے ہیں: جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ربذہ چلے گئے تو وہاں انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ایک سیاہ فام

غلام کو پایا جو اذان دے رہا تھا اور اقامت کہہ رہا تھا، اُس نے کہا: اے حضرت ابوذر! آپ آگے بڑھئے! تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جی نہیں! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اطاعت و فرمانبرداری کروں خواہ کوئی سیاہ فام غلام (امام ہو)۔
راوی بیان کرتے ہیں: تو وہ غلام آگے بڑھا اور حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اُس کے پیچھے نماز ادا کی۔

3785 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي صُهَيْبٍ، وَابِي الْمُثَنَّى، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا، فَإِذَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَاجْعَلُوا صَلَاتِكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً

* * ابو صہیب اور ابو ثنیٰ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”عنقریب تم پر ایسے حکمران آئیں گے جو نماز کو تاخیر سے ادا کریں گے، تو تم لوگ نماز کو اُس کے وقت پر ادا کر لینا، اگر تم (اُن حکمرانوں کے ساتھ) اُس نماز کو پاؤ تو اُسے ادا کر لینا اور اُن لوگوں کے ساتھ اپنی نماز کو نفل بنا لینا۔“

3786 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: إِنِّي لَا أَلُوكُمْ عَنِ الْوَقْتِ، فَصَلِّي بِهِمُ الظُّهْرَ، حَسْبُهُ قَالَ: حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّهُ سَتَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ، فَصَلُّوا الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتُمْ مَعَهُمْ فَصَلُّوا

* * ابن سیرین بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں سے کہا: میں (نماز کے) وقت کے حوالے سے تمہارے ساتھ کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اُن لوگوں کو ظہر کی نماز اُس وقت پڑھائی جب سورج ڈھل گیا تھا، پھر انہوں نے کہا کہ عنقریب تم پر ایسے حکمران مسلط ہوں گے جو نماز کو تاخیر سے ادا کریں گے، تو تم نماز کو اُس کے وقت پر ادا کر لینا، اگر تم اُن لوگوں کے ساتھ بھی نماز کو پاؤ تو اُسے بھی ادا کر لینا۔

3787 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " أَنْتُمْ فِي زَمَانٍ قَلِيلٍ خُطْبَاؤُهُ، كَثِيرٍ عُلَمَاؤُهُ، يُطِيلُونَ الصَّلَاةَ، وَيُقْصِرُونَ الْخُطْبَةَ، وَإِنَّ سَيَاتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ كَثِيرٌ خُطْبَاؤُهُ، قَلِيلٌ عُلَمَاؤُهُ، يُطِيلُونَ الْخُطْبَةَ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ، حَتَّى يُقَالَ: هَذَا شَرْقُ الْمَوْتَى " قَالَ: قُلْتُ لَهُ: وَمَا شَرْقُ الْمَوْتَى؟ قَالَ: إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسُ جِدًّا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ فَلْيَصِلِ الصَّلَاةَ لَوَقْتِهَا، فَإِنْ احْتَبَسَ فَلْيَصِلِ مَعَهُمْ، وَلْيَجْعَلِ صَلَاتَهُ وَحْدَهُ الْفَرِيضَةَ، وَلْيَجْعَلِ صَلَاتَهُ مَعَهُمْ تَطَوُّعًا

* * ابو احوص، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: تم ایک ایسے زمانہ میں پائے جاتے ہو جس میں خطیب کم ہیں اور علماء زیادہ ہیں جو نمازوں کو طویل ادا کرتے ہیں اور خطبہ مختصر دیتے ہیں، عنقریب تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں خطیب زیادہ ہوں گے اور علماء کم ہوں گے، وہ لوگ خطبے طویل دیں گے اور نمازیں تاخیر سے ادا کریں گے یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ یہ شرق موتی ہے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے اُن سے دریافت کیا: شرق موتی سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جب سورج انتہائی زرد ہو جائے۔ تو جو شخص اس طرح کی صورت حال پائے، تو وہ نماز کو اُس کے وقت میں ادا کر لے اور اگر وہ کہیں

نمبر ہوا ہو تو ان لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرے اُس نے جو تمہارا نماز ادا کی تھی اُسے فرض شمار کرے اور جو ان لوگوں کے ساتھ نماز ادا کی تھی اُسے نفل بنے۔

3788 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَيْفَ بَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِذَا كَانَ عَلَيْكَ أَمْرًا يُطْفُونَ السَّنَةَ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مِيقَاتِهَا؟ قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَسْأَلُنِي ابْنُ أُمِّ عَبْدِ كَيْفَ تَفْعَلُ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

* * قاسم بن عبد الرحمن، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں: ”اے ابو عبدالرحمن! اُس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب تم پر ایسے حکمران مسلط ہوں گے جو سنت کو بھادیں گے اور نماز کو اُس کے وقت سے تاخیر سے ادا کریں گے۔“

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ اس بارے میں مجھے کیا حکم دیتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”اے ابن ام عبد! تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے! اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بارے میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی۔“

3789 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِبِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَهْدِيٍّ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كَيْفَ أَنْتَ يَا مَهْدِيُّ إِذَا ظَهَرَ بِخِيَارِكُمْ، وَاسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ أَحَدَانُكُمْ، وَصَلَّيْتَ الصَّلَاةَ لِغَيْرِ مِيقَاتِهَا؟ قَالَ: قُلْتُ: لَا أَدْرِي قَالَ: لَا تَكُنْ جَابِيًا، وَلَا عَرِيفًا، وَلَا شَرَطِيًّا، وَلَا بَرِيدًا، وَصَلِّ الصَّلَاةَ لَوْ قَتَبَهَا

* * مہدی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے مہدی! اُس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب تمہارے بہترین لوگ رخصت ہو جائیں گے اور کسن اور بدترین لوگ تم پر حکمران بن جائیں گے جو نمازوں کو ان کے اوقات کے علاوہ میں ادا کریں گے۔ مہدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا: مجھے نہیں معلوم (کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم جابی (خراج وصول کرنے کا سرکاری اہلکار) عریف (قبیلہ کے امور کا سرکاری اہلکار) شرطی (سپاہی) یا برید (سرکاری قاصد) نہ بننا اور نماز کو اُس کے وقت پر ادا کر لینا۔

3790 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْرَجَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ الصَّلَاةَ مَرَّةً، فَأَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْمُؤَدِّنَ فَثَوَّبَ بِالصَّلَاةِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ الْوَلِيدُ: مَا صَنَعْتَ؟ أَجَاءَكَ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ حَدِيثٌ أَمْ ابْتَدَعْتَ؟ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: وَكُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، وَلَكِنْ أَبِي عَلَيْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَنْ نَنْتَظِرَكَ بِصَلَاتِنَا وَأَنْتَ فِي حَاجَتِكَ

* * قاسم بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں: ولید بن عقبہ نے ایک مرتبہ ایک نماز تاخیر سے ادا کی تو حضرت عبداللہ بن

مسعود بنی النخعی نے مؤذن کو حکم دیا، اُس نے نماز کے لیے تھویب کہی، پھر حضرت عبداللہ بنی النخعی آگے بڑھے تو انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھادی، ولید نے انہیں پیغام بھیجا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس امیر المؤمنین کی طرف سے کوئی نیا حکم آیا ہے یا آپ نے بدعت اختیار کی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود بنی النخعی نے فرمایا: ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا لیکن اللہ اور اُس کے رسول نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ ہم اپنی نماز کے لیے تمہارا انتظار کریں اور تم اپنے کام کاج کر رہے ہو۔

3791 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: بَلَّغْنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: سَيَحْدُثُ

بَعْدَكُمْ عُمَّالٌ لَا يُصَلُّونَ الصَّلَاةَ لِمِيقَاتِهَا، وَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ فَصَلُّوا لِمِيقَاتِهَا

*** عطاء بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود بنی النخعی کے بارے میں یہ بات مجھ تک پہنچی ہے کہ وہ فرماتے ہیں:

تمہارے بعد عنقریب ایسے حکمران آئیں گے جو نمازیں اپنے وقت پر ادا نہیں کریں گے، جب وہ ایسا کریں تو تم لوگ نمازوں کو اُن کے وقت پر ادا کر لینا۔

3792 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَمَا مَا يُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا

مُفَرِّطًا فِيهَا؟ قَالَ: صَلَّى مَعَهُ الْجَمَاعَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ، قُلْتُ: فَمَا لَكَ إِلَّا تَنْتَهَى إِلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: الْجَمَاعَةُ أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا لَمْ تَفُتْ، قُلْتُ: وَإِنْ أَصْفَرَّتِ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ وَلِحَقَّتْ بَرٌّ وَسِ الْجِبَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ تَغِبْ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ النَّخَعِيِّ، وَخَيْثَمَةَ قَالَ: كَانَا يُصَلِّيَانِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ مَعَ

الْحَجَّاجِ وَكَانَ يُمَسِّي

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: جو شخص نماز کو تاخیر سے ادا کرتا ہے اور اسے اُس وقت

ادا کرتا ہے جب اس کا وقت رخصت ہو چکا ہوتا ہے تو عطاء نے کہا: تم اُس کے ساتھ نماز ادا کر لو، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا

میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ میں نے دریافت کیا: کیا وجہ ہے کہ آپ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود بنی النخعی کے قول

کو اختیار نہیں کرتے؟ تو عطاء نے جواب دیا: جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے جبکہ اُس نماز کا وقت

بالکل ہی رخصت نہ ہو جائے۔ میں نے کہا: اگر سورج غروب ہونے کے قریب ہو کر زرد ہو چکا ہو اور پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ

چکا ہو تو انہوں نے فرمایا: جی ہاں! جب تک وہ غروب نہیں ہوتا (تب تک تم باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرو)۔

اعمش نے نخعی اور خیثمہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: یہ دونوں حضرات ظہر اور عصر کی نماز حجاج کے ساتھ ادا کیا کرتے

تھے حالانکہ وہ شام کر دیتا تھا۔

3793 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: خَطَبَ الْحَجَّاجُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَخَّرَ

الصَّلَاةَ، فَأَرَادَ إِنْسَانٌ أَنْ يَثْبُتَ إِلَيْهِ، وَيَحْبِسُهُ النَّاسُ

*** ثابت بیان کرتے ہیں: جمعہ کے دن حجاج نے خطبہ دیا، اُس نے نماز میں تاخیر کر دی، ایک انسان نے اس حوالے

سے اس پر اعتراض کرنا چاہا تو لوگوں نے اسے روک دیا۔

3794 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ قَتَادَةَ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ الْأَمْرَاءِ وَإِنْ آخَرُوا

* * حسن بصری زہری اور قتادہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے: یہ لوگ امراء کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے اگرچہ وہ تاخیر سے ادا کریں۔

3795 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: آخَرَ الْوَلِيدُ مَرَّةً الْجُمُعَةَ حَتَّى أَمْسَى قَالَ: فَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ قَبْلَ أَنْ أَجْلِسَ، ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ وَأَنَا جَالِسٌ وَهُوَ يَخْطُبُ قَالَ: أَضَعُ يَدَيَّ عَلَى رُكَّتَيْي وَأَوْمُءُ بِرَأْسِي

* * ابن جریج نے عطاء کا یہ بیان نقل کیا ہے: ولید نے ایک مرتبہ جمعہ کی نماز میں تاخیر کر دی یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں نے بیٹھنے سے پہلے ظہر کی نماز ادا کر لی پھر میں نے عصر کی نماز بھی بیٹھنے کے دوران ادا کر لی جبکہ وہ اس وقت خطبہ دے رہا تھا۔ عطاء کہتے ہیں: میں نے اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے ہوئے تھے اور اپنے سر کے ذریعہ اشارہ کر رہا تھا۔

3796 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جَبْرِ، وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: وَآخَرَ الْوَلِيدُ مَرَّةً الصَّلَاةَ، فَرَأَيْتُهُمَا يَوْمَئِذٍ إِيْمَاءً وَهُمَا قَاعِدَانِ

* * محمد بن ابواسماعیل بیان کرتے ہیں: میں نے سعید بن جبیر اور عطاء بن ابی رباح کو دیکھا ہے وہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ولید نے ایک نماز تاخیر سے ادا کی تو ان دونوں حضرات نے بیٹھے ہوئے ہی اشارہ کے ساتھ نماز ادا کر لی۔

3797 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَأَبِي عُبَيْدَةَ: أَنَّهُمَا كَانَا يُصَلِّيَانِ الظُّهْرَ إِذَا حَانَتِ الظُّهْرُ، وَإِذَا حَانَتِ الْعَصْرُ صَلَّى الْعَصْرَ فِي الْمَسْجِدِ مَكَانَهُمَا، وَكَانَ ابْنُ زِيَادٍ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ

* * ابوحنبل نے مسروق اور ابوعبیدہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ یہ دونوں حضرات ظہر کی نماز اس وقت ادا کر لیتے تھے جب ظہر کا وقت ہو جاتا تھا اور عصر کی نماز مسجد میں اپنی جگہ پر ادا کر لیتے تھے جب عصر کا وقت ہو جاتا تھا (اس وقت کا حکمران) ابن زیاد ظہر اور عصر کی نماز تاخیر سے ادا کرتا تھا۔

3798 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ: أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ مَعَ الْمُخْتَارِ الْكُذَّابِ

* * عقبہ نے ابووائل کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے "مختار کذاب" کے ساتھ نماز ادا کی تھی (یادو نمازیں ایک ساتھ ادا کی تھیں)۔

3799 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقٍ قَالَ: كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ

نصلي الجمعة في بيوتنا، ثم ناتي المسجد، وذلك ان الحجاج كان يؤخر الصلاة

* * * عامر بن شقيق، شقيق کے بارے میں نقل کرتے ہیں: وہ ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم جمعہ کی نماز گھر میں ادا کر لیں، پھر مسجد میں آئیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حجاج اس نماز کو تاخیر سے ادا کرتا تھا۔

3800 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: الصلاة حسنة لا

أبالي من شاركني فيها

* * * حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: نماز اچھی چیز ہے، میں اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس میں کون میرے

ساتھ شریک ہوتا ہے؟

3801 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن هشام، عن أبي جعفر: ان حسنا، وحسینا، كانا

يسرعان اذا سمعا منادي مروان، وهما يشتمان به يصليان معه

* * * ہشام نے امام باقر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے: حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما جب مروان کے مؤذن

کو اذان دیتے ہوئے سنتے تھے تو تیزی سے چلے جاتے تھے یہ دونوں حضرات اس پر تنقید کرتے تھے لیکن اس کی اقتداء میں نماز ادا کر لیتے تھے۔

3802 - اقوال تابعين: عبد الرزاق، عن أبي الأشهب، شيخ من أهل البصرة قال: سألت يحيى بن أبي

كثير، وكانت الخوارج ظهرُوا علينا، فقلت: يا أبا نصر، كيف ترى في الصلاة خلف هؤلاء؟ قال: إن القرآن إمامك، صل معهم ما صلوا لوقتها

* * * ابوالشہب جو بصرہ کے ایک بزرگ ہیں وہ بیان کرتے ہیں: میں نے یحییٰ بن ابوکثیر سے سوال کیا یہ اس وقت کی

بات ہے جب خوارج ہم پر غالب آچکے تھے میں نے کہا: اے ابونصر! ان لوگوں کے پیچھے نماز ادا کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا: قرآن کا فیصلہ تمہارے سامنے ہے! تم ان کے ساتھ نماز ادا کرو جب تک وہ نماز کو وقت پر ادا کرتے ہیں۔

3803 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، وغيره، عن الأوزاعي، عن عمير بن هانٍ قال: رأيت ابن

عمر، وابن الزبير، ونجدة، والحجاج، وابن عمر يقول: يتهافون في النار كما يتهافت الذبان في المرق، فإذا سمع المؤذن أسرع إليه، يعني مؤذنتهم فيصلي معه

* * * عمیر بن ہانی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، نجدہ اور حجاج کو دیکھا، حضرت

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ فرما رہے تھے: یہ جہنم میں یوں گریں گے جس طرح مکھیاں شور بے میں گرتی ہیں جب وہ مؤذن کی آواز سنتے تھے تو تیزی سے (نماز کی طرف) جاتے تھے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مؤذن جو ان حکمرانوں کا مؤذن تھا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان لوگوں کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے۔

بَابُ الْإِمَامِ لَا يُتَمُّ الصَّلَاةَ

باب: جب امام نماز کو مکمل ادا نہ کرے

3804 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِمَامٌ لَا يُوفِي الصَّلَاةَ، أَعْتَزِلُ

الصَّلَاةَ؟ قَالَ: بَلْ صَلَّى مَعَهُ، وَأَوْفَى مَا اسْتَطَعْتَ وَإِنْ قَامَ، قُلْتُ: وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ فِي بَادِيَةِ مَعَ الْإِمَامِ، وَلَا يُتَمُّ قَالَ: وَكَذَلِكَ فَاتَمَّهُ أَنْتَ، قُلْتُ: فَكُنْتُ أَنَا وَرَجُلٌ فِي سَفَرٍ فَوَجَدْنَا، فَكَانَ يُؤْمِنِي وَلَا يُتَمُّ، وَأَصَلِي وَخَدِي؟ قَالَ: بَلْ صَلَّى مَعَهُ وَأَوْفَى، اثْنَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدٍ، وَثَلَاثَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ اثْنَيْنِ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگر امام نماز کو مکمل ادا نہیں کرتا تو کیا میں نماز سے الگ ہو جاؤں گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! بلکہ تم اُس کے ساتھ نماز ادا کرو گے اور جہاں تک تم سے ہو سکے گا تم نماز کو مکمل کرو گے خواہ امام اٹھ کھڑا ہو۔ میں نے دریافت کیا: کیا اگر ویرانے میں امام کے ساتھ اس طرح کی صورت حال ہو کہ وہ نماز مکمل نہ کرتا ہو تو پھر بھی یہی ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا: اسی طرح ہوگا! تم خود نماز کو مکمل کر لو گے۔ میں نے کہا: میں اور ایک شخص اکٹھے سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں ایسی صورت حال کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ میری امامت کرتا ہے لیکن نماز کو مکمل نہیں کرتا، تو کیا میں اُسے چھوڑ کر اکیلا نماز ادا کر لوں؟ عطاء نے فرمایا: تم اُس کے ساتھ نماز ادا کرو اور نماز کو مکمل کر لو دو آدمیوں کا نماز ادا کرنا میرے نزدیک ایک آدمی سے زیادہ پسندیدہ ہے اور تین کا (باجماعت نماز ادا کرنا) میرے نزدیک دو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

3805 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عِيَّاشٍ، عَنِ ابْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: قُلْتُ

لِعَلْقَمَةَ: إِمَامَنَا لَا يُتَمُّ الصَّلَاةَ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ: لِكِنَّا نُتَمُّهَا قَالَ: يَعْنِي نُصَلِّي مَعَهُمْ وَنُتَمُّهَا

*** اعمش بیان کرتے ہیں: میں نے علقمہ سے سوال کیا: ہمارا امام نماز مکمل طور پر نہیں پڑھاتا تو علقمہ نے کہا: لیکن ہم تو اسے مکمل ادا کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: اُن کی مراد یہ تھی کہ ہم اُن اماموں کے ساتھ نماز ادا کریں گے اور نماز کو مکمل کر لیں گے۔

بَابُ الْقَوْمِ يَجْتَمِعُونَ مِنْ يَوْمِهِمْ؟

باب: جب کچھ لوگ اکٹھے ہو جائیں تو اُن کی امامت کون کرے گا؟

3806 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْمٌ اجْتَمَعُوا فِي سَفَرٍ قُرَيْشِيٌّ،

وَعَرَبِيٌّ، وَمَوْلَى، وَعَبْدٌ، وَأَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، أَيُّهُمْ يَوْمَ أَصْحَابُهُ؟ قَالَ: كَانَ يَوْمَهُمْ أَفْقَهُهُمْ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ سَوَاءً فَأَقْرَبُهُمْ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاسْتَنْهُمْ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ سَوَاءً، وَكَانَ الْعَبْدُ أَسْنَهُمْ، أَيُّهُمْ لِسِنِّهِ، فَيَوْمَ الْقُرَيْشِيِّ وَغَيْرِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا لَهُمْ لَا يَوْمَهُمْ أَعْلَمَهُمْ، وَأَقْرَبُهُمْ، وَأَسْنَهُمْ مَنْ كَانَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يَعْنِي بِهِ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کچھ لوگ سفر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اُن میں قریشی بھی

ہیں عربی بھی ہیں غلام بھی ہیں آزاد شدہ غلام بھی ہیں دیہات کے رہنے والے دیہاتی بھی ہیں تو ان میں سے اپنے ساتھیوں کی امامت کون کرے گا؟ عطاء نے جواب دیا: ان کی امامت وہ کرے گا جو ان میں سب سے زیادہ فقیہ ہو اگر وہ فقہ میں برابر ہوں تو وہ کرے گا جس کو سب سے زیادہ اچھی قرأت آتی ہو اگر وہ فقہ اور قرأت میں برابر ہوں تو امامت وہ کرے گا جس کی عمر زیادہ ہو۔ میں نے کہا: اگر وہ فقہ اور قرأت میں برابر ہوں اور جو غلام ہے وہ عمر میں ان سب سے بڑا ہو تو کیا وہ اپنی عمر کی وجہ سے ان لوگوں کی امامت کرے گا؟ وہ ایک قریشی یا دوسرے (عربوں وغیرہ کی) امامت کرے گا؟ عطاء نے جواب دیا: جی ہاں! وہ ان کی امامت کیوں نہ کرے! جبکہ وہ ان سب سے زیادہ علم رکھتا ہے ان سب سے زیادہ اچھی قرأت جانتا ہے ان سب سے زیادہ عمر والا ہے۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: سفیان ثوری بھی اسی بات کے قائل تھے۔

3807 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن جریج قال: اخبرنا نافع، انه سمع ابن عمر يقول: كان سالم

مولى ابي حذيفة يوم المهاجرين الاولين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والانصار في مسجد قبا، فيهم ابو بكر، وعمر، و ابو سلمة، وزيد، وعامر بن ربيعة

*** نافع بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: حضرت

ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے غلام سالم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے مہاجرین اولین اور انصار کی مسجد قبا میں امامت کیا کرتے تھے ان لوگوں میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت ابو سلمہ، حضرت زید، حضرت عامر بن ربيعة رضی اللہ عنہم شامل ہوتے تھے۔

3808 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن اسماعيل بن رجاء، عن اوس بن

ضمعج، عن ابي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم القوم اقرؤهم، فان كانوا في القراءة سواء فاقدمهم هجرة، فان كانوا في الهجرة سواء فاعلمهم بالسنة، فان كانوا في العلم سواء فاقدمهم سنا، ولا يوم رجل في سلطانه، ولا يجلس على تكريمته في بيته الا ان ياذن بذلك

3808- صحیح مسلم - کتاب المساجد ومواضع الصلاة' باب من احق بالإمامة - حدیث: 1113 'صحیح ابن خزیمة -

کتاب الإمامة فی الصلاة' باب ذکر احق الناس بالإمامة - حدیث: 1419 'مستخرج ابی عوانة - باب فی الصلاة بین

الاذان والإقامة فی صلاة المغرب وغیره' بیان ما يستحق به الرجل الإمامة وحظر التقدم بین یدی السلطان -

حدیث: 1069 'صحیح ابن حبان - باب الإمامة والجماعة' فصل فی فضل الجماعة - ذکر البیان بان القوم إذا استوا فی

القراءة يجب ان يؤمهم' حدیث: 2151 'سنن ابی داود - کتاب الصلاة' باب من احق بالإمامة - حدیث: 499 'سنن ابن

ماجه - کتاب إقامة الصلاة' باب من احق بالإمامة - حدیث: 976 'الجامع للترمذی' ابواب الصلاة عن رسول الله

صلى الله عليه وسلم - باب من احق بالإمامة' حدیث: 223 'السنن للنسائی - کتاب الإمامة' من احق بالإمامة -

حدیث: 776 'مصنف ابن ابی شیبة - کتاب الصلاة' من قال: يوم القوم اقرؤهم لكتاب الله - حدیث: 3415 'السنن

الكبرى للنسائی - ذکر الإمامة' من احق بالإمامة - حدیث: 840 'السنن الكبرى للبيهقي - کتاب الصلاة' جماع ابواب

اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك - باب: "اجعلوا انتمكم خياركم" وما جاء فی الإمامة' حدیث: 4766

*** حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”لوگوں کی امامت وہ کرے گا جو سب سے زیادہ قرأت جانتا ہو اگر وہ قرأت میں برابر ہوں تو وہ شخص کرے گا جس نے پہلے ہجرت کی ہو اگر وہ ہجرت کے حوالے سے برابر ہوں تو وہ شخص کرے گا جو سنت کا زیادہ عالم ہو اگر وہ علم میں برابر ہوں تو وہ شخص کرے گا جس کی عمر زیادہ ہو اور کسی شخص کے غلبہ کی جگہ اس کی امامت نہیں کی جائے گی اور اس کے گھر میں اس کے بیٹھنے کی مخصوص جگہ پر نہیں بیٹھا جائے گا البتہ اس کی اجازت کے ساتھ ایسا کیا جاسکتا ہے۔“

3809 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّرَيْبِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنِ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَقُّ الْقَوْمِ أَنْ يُؤْتَهُمْ أَقْرَبُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هَجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًا، وَلَا يُؤَمَّنُ رَجُلٌ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يُقْعَدُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَكَ

*** حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”لوگوں کی امامت کرنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے جو اللہ کی کتاب کا سب سے زیادہ علم رکھتا ہو اگر وہ قرأت میں برابر ہوں تو وہ شخص ہے جو سنت کا زیادہ عالم رکھتا ہو اگر وہ سنت میں برابر ہوں تو وہ شخص ہے جس نے ہجرت پہلے کی ہو اگر وہ ہجرت کے حوالے سے بھی برابر ہوں تو وہ شخص ہے جس کی عمر زیادہ ہو کسی بھی شخص کے غلبہ میں اس کی امامت ہرگز نہیں کی جائے گی اور اس کے گھر میں اس کے بیٹھنے کی مخصوص جگہ پر نہیں بیٹھا جائے گا البتہ اگر وہ تمہیں اجازت دے دیتا ہے (تو حکم مختلف ہے)۔“

3810 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُؤَمُّ الْقَوْمَ إِلَّا أَقْرَبُهُمْ

*** حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں:

”لوگوں کی امامت صرف وہی شخص کرے جو ان میں سب سے زیادہ قرأت جانتا ہو۔“

3811 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ رَجُلٍ، عَنِ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَدِمَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَدُ جَرْمٌ، فَأَمَرَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ أَنْ يُؤْمَهُمْ، وَكَانَ أَصْغَرَهُمْ سِنًا، لِأَنَّهُ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا

*** عمرو بن سلمہ بیان کرتے ہیں: جرم قبیلہ کا وفد نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے عمرو بن سلمہ کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کی امامت کریں حالانکہ وہ عمر میں ان سب سے کم تھے اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کو ان سب لوگوں کے مقابلہ میں زیادہ قرآن آتا تھا۔

3812 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، فَقَالَ سَعِيدٌ لِأَبِي سَلَمَةَ: حَدِّثْ فَإِنَّا سَنَتَّبِعُكَ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّمَهُمْ أَقْرَبُهُمْ، فَإِنْ كَانَ أَصْغَرُهُمْ سِنًا فَإِذَا آمَهُمْ فَهُوَ أَمِيرُهُمْ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَذَاكُمْ أَمِيرٌ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

* * * مہاجر بن ضمیرہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن اور سعید بن جبیر اکٹھے ہوئے تو سعید نے ابو سلمہ سے کہا: آپ حدیث بیان کیجئے! ہم آپ کی پیروی کریں گے۔ تو ابو سلمہ نے بتایا کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: ”جب تین لوگ سفر میں اکٹھے ہوں تو ان کی امامت وہ شخص کرے گا جو ان میں سب سے زیادہ قرأت جانتا ہو خواہ وہ عمر میں ان سب سے کم ہو اور جب وہ ان کی امامت کرے گا تو وہ ان کا امیر بھی شمار ہوگا۔“
تو ابو سلمہ نے کہا: یہ لوگ امیر شمار ہوں گے اللہ کے رسول نے یہی حکم دیا ہے۔

3813 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: لَقِيَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَكْبًا يُرِيدُونَ الْبَيْتَ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ فَاجَابَهُمْ أَحَدُهُمْ سِنًا، فَقَالَ: عِبَادُ اللَّهِ الْمُسْلِمُونَ قَالَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ قَالَ: مِنَ الْفَجِّ الْعَمِيقِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ قَالَ: الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، قَالَ عُمَرُ: تَأْوَلَهَا لَعَمْرُ اللَّهِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ أَمِيرُكُمْ؟ فَأَشَارَ إِلَى شَيْخٍ مِنْهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: بَلْ أَنْتَ أَمِيرُهُمْ، لِأَحَدِهِمْ سِنًا الَّذِي أَجَابَهُ بِجَدِّ

* * * عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ملاقات کچھ سواروں سے ہوئی جو بیت اللہ کی طرف جا رہے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: تم کون لوگ ہو؟ تو انہیں اس شخص نے جواب دیا جس کی عمر سب سے کم تھی اس نے کہا: اللہ کے مسلمان بندے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا: دور کے علاقہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جواب دیا: بیت عتیق کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اللہ کی قسم! یہ شخص (قرآن کے الفاظ ڈہرا رہا ہے)۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: تم لوگوں کا امیر کون ہے؟ تو اس نے اپنے میں سے ایک بزرگ شخص کی طرف اشارہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جی نہیں! بلکہ تم ان کے امیر ہو تم عمر میں ان سب سے کم ہو لیکن تم نے جواب سب سے عمدہ دیا ہے۔

3814 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَقَهُ الْقَوْمُ إِنْ قَدَّمَ آخَرَ ذُوْنَهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنِّي لَأَفْعَلُهُ

* * * ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: قوم کا سب سے زیادہ عالم شخص اگر اپنے سے کم عمر شخص کو آگے کر دیتا ہے (تو اس کا کیا حکم ہوگا؟) انہوں نے جواب دیا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بعض اوقات میں بھی ایسا کر لیتا ہوں۔

3815 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْجَرَمِيِّ قَالَ:

جَاءَنَا وَفَدُّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ قَالَ لَنَا: لِيَوْمِكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، فَكَانَ عَمْرُو بَرًّا سَلَمَةً يَوْمَهُمْ وَلَمْ يَكُنِ احْتَلَمَ

* * حضرت عمرو بن سلمہ جرمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک وفد ہمارے پاس آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو نماز کی تعلیم دی پھر آپ نے ہم سے فرمایا: تمہاری امامت اُس شخص کو کرنی چاہیے جسے تم سب سے زیادہ قرآن آتا ہو۔ راوی کہتے ہیں: تو حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ ان لوگوں کی امامت کرتے تھے حالانکہ وہ ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے۔

بَابُ الرَّجُلِ يُوتَى فِي رُبْعِهِ

باب: جب کسی شخص کے پاس اُس کے گھر میں جایا جائے (تو کیا، کیا جائے گا؟)

3816 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: صَاحِبُ الرَّبْعِ يَوْمَ مَنْ جَاءَهُ، قُلْتُ لَهُ: مَا الرَّبْعُ؟ قَالَ: مَنْزِلُهُ

* * عطاء فرماتے ہیں: گھر کا مالک اُس شخص کی امامت کرے گا جو اُس کے پاس آئے گا۔

ابن جریج کہتے ہیں: میں نے اُن سے دریافت کیا: ”ربع“ سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے کہا: اُس کا گھر۔

3817 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ يُنَاوِلُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ الْقُرَشِيُّ، وَالْعَرَبِيُّ، وَالْأَعْرَابِيُّ، وَالْمَوْلَى، وَالْعَبْدُ، وَكَانَ لِكُلِّ امْرٍءٍ فُسْطَاطًا، فَانْطَلَقَ أَحَدُهُمْ إِلَى فُسْطَاطِ أَحَدِهِمْ، فَحَانَ الصَّلَاةَ، مَنْ يَوْمُ الْقَوْمِ حِينَئِذٍ؟ قَالَ: يَوْمُهُمْ صَاحِبُ الرَّحْلِ، وَهُوَ حَقُّهُ يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کچھ مختلف قسم کے لوگ ایک جگہ رہتے ہیں جیسے ایک قریشی ہے، ایک عربی ہے، ایک دیہاتی ہے، ایک آزاد شدہ غلام ہے، ایک غلام ہے، ان میں سے ہر ایک کا مخصوص گھر ہے (یا خیمہ ہے) ان میں سے کوئی ایک شخص دوسرے کے خیمہ کی طرف چلا جاتا ہے اسی دوران نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو ان کی امامت اُس وقت کون کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا: وہ شخص کرے گا جس کا خیمہ ہے اور اسے یہ حق ہے کہ وہ اس کی اجازت جسے چاہے دیدے۔

3818 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ صَنَعَ طَعَامًا، ثُمَّ دَعَا أَبَا ذَرٍّ، وَحَدِيفَةَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ، فَتَقَدَّمَ أَبُو ذَرٍّ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ، فَقَالَ لَهُ حَدِيفَةُ: وَرَاءَكَ رَبُّ الْبَيْتِ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ: كَذَلِكَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَتَأَخَّرَ أَبُو ذَرٍّ

* * قتادہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے کھانا تیار کیا، پھر حضرت ابوذر غفاری، حضرت حدیفہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کو بلوایا، نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تاکہ ان لوگوں کو نماز پڑھائیں تو حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ نے اُن سے کہا: گھر کا مالک آپ کے پیچھے موجود ہے، وہ امامت کا زیادہ حقدار ہے۔ تو حضرت

ابو زر غفاری رضی اللہ عنہ نے اُن سے کہا: اے ابن مسعود! کیا اسی طرح ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: جی ہاں! راوی کہتے ہیں: تو حضرت ابو زر غفاری رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹ گئے۔

3819 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ غُلَامًا لَمْ يَحْتَلِمْ يُؤْتَى فِي رُبْعِهِ؟ قَالَ: "يَوْمُهُمْ إِذَا لَمْ يَحْتَلِمْ، وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ: حَقٌّ، فَإِنْ شَاءَ أَمَّهُمْ بِحَقِّهِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى حَقَّهُ غَيْرَهُ مِنْهُمْ" * * ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایسے لڑکے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو ابھی بالغ نہیں ہوا، اُس کے گھر کوئی آجاتا ہے؟ تو عطاء نے جواب دیا: اگر وہ بالغ نہیں ہوا، تو پھر وہ اُن لوگوں کی امامت نہیں کرے گا، لیکن یہ بات کہی جاتی ہے کہ اُسے حق حاصل ہے، اگر چاہے تو اپنے حق کی وجہ سے اُن کی امامت کرے، اور اگر چاہے تو اپنا دوسرے کسی شخص کو دیدے۔

3820 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَدِمَ مَكَّةَ، فَاتَاهُ نَاسٌ فِي مَنْزِلِهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَمَّهُمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: ائْتُوا * * زہری بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مکہ آئے، کچھ لوگ اُن کے گھر اُن سے ملنے کے لیے آئے نماز کا وقت ہو گیا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اُن کی امامت کی (اور قصر نماز پڑھائی) جب انہوں نے سلام پھیرا تو فرمایا: تم لوگ نماز مکمل کر لو۔

3821 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَرْثَةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ أَطْلُبُهُ فِي دَارِهِ، فَقِيلَ: هُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَاتَيْتُهُ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ، وَحَدِيفَةُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لِحَدِيفَةَ: أَنْتَ صَاحِبُ الْكَلَامِ؟ فَقَالَ حَدِيفَةُ: "إِي وَاللَّهِ، لَقَدْ قُلْتُ ذَلِكَ كَرِهْتُ أَنْ يُقَالَ: فَلَانٌ وَقَرَاهُ فَلَانٌ كَمَا تَفَرَّقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ" قَالَ: فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَ أَبُو مُوسَى، فَأَمَّهُمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي دَارِهِ * * مرہ ہمدانی بیان کرتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تلاش میں اُن کے گھر آیا، تو مجھے بتایا گیا کہ وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ہاں ہیں، میں اُن کے گھر آیا، تو وہاں حضرت عبداللہ اور حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہما موجود تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا: آپ صاحب کلام ہیں! تو حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا: جی ہاں! اللہ کی قسم! میں نے یہ بات کہی ہے، مجھے یہ بات بُری لگی کہ یہ کہا جائے کہ فلاں شخص ہے، اور فلاں شخص نے اسے پڑھا ہے، جس طرح بنی اسرائیل کے درمیان اختلافات ہو گئے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا، تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اُن لوگوں کی امامت کی، کیونکہ یہ سب لوگ اُن کے گھر میں موجود تھے۔

3822 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَاسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، مَوْلَى بَنِي أُسَيْدٍ قَالَ: تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَدَعَوْتُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا ذَرٍّ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَحَدِيفَةَ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَتَقَدَّمَ حَدِيفَةُ لِيُصَلِّيَ بِنَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ أَوْ غَيْرُهُ:

لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا مَمْلُوكٌ فَأَمَّتْهُمْ

* * ابونضر و ابوسعید نامی راوی کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے شادی کر لی، میں اُس وقت غلام تھا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی دعوت کی، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی، نماز کا وقت ہو گیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہمیں نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ یا شاید کسی اور نے اُن سے کہا: آپ کو اس کا حق نہیں ہے! پھر اُن لوگوں نے مجھے آگے کیا حالانکہ میں ایک غلام تھا، لیکن میں نے اُن لوگوں کی امامت کی۔

3823 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ كَانَ الْعَبْدُ وَالْأَعْرَابِيُّ لَا يَقْرَأَنِ الْقُرْآنَ، أَيُّوْمَانِ مَنْ جَاءَهُمَا فِي رُبْعِهِمَا؟ قَالَ: لَا لِعُمْرِي، لَا يَوْمَانِ، قُلْتُ: إِنْ كَانَا يَقْرَأَنِ بِأَمِّ الْقُرْآنِ قَطُّ قَالَ: أَحْسَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهُمَا مَعَهَا فَفَهٌّ، وَأَنْ يَكُونَا جَافِيَيْنِ لَا يَعْلَمَانِ شَيْئًا

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگر کوئی غلام شخص یا کوئی دیہاتی شخص قرآن صحیح طریقہ سے نہ پڑھ سکتے ہوں تو جو شخص ان کے ہاں ان سے ملنے کے لیے آئے گا تو کیا یہ اُس کی بھی امامت کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے! ایسی صورت میں یہ لوگ امامت نہیں کریں گے۔ میں نے دریافت کیا: اگر یہ دونوں صرف سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہوں؟ عطاء نے جواب دیا: مجھے یہ اندیشہ ہے کہ ان دونوں کو سورۃ فاتحہ آنے کے باوجود دین کی سمجھ بوجھ نہیں ہوگی اور یہ دونوں مزاج کے سخت ہوں گے اور انہیں کسی چیز کا پتا نہیں ہوگا۔

بَابُ إِمَامَةِ الْعَبْدِ

باب: غلام کا امامت کرنا

3824 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِأَعْلَى الْوَادِي هُوَ وَأَبُوهُ، وَعَبِيدُ بْنُ عَمِيرٍ، وَالْمَسُورُ بْنُ مَخْرَمَةَ، وَنَاسٌ كَثِيرٌ، فَيُؤْمِتُهُمْ أَبُو عَمْرٍو مَوْلَى عَائِشَةَ، وَأَبُو عَمْرٍو غَلَامُهَا لَمْ يُعْتِقْ، فَكَانَ إِمَامًا أَهْلِهَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَعُرْوَةُ، وَأَهْلِيهِمَا، إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ كَانَ يَسْتَأْخِرُ عَنْهُ أَبُو عَمْرٍو قَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا غَيَّبَنِي أَبُو عَمْرٍو وَدَلَانِي فِي حُفْرَتِي فَهُوَ حُرٌّ

* * عبداللہ بن ابوملیکہ بیان کرتے ہیں: وہ لوگ وادی کے بالائی حصہ سے اُم المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے وہ ہوتے تھے اُن کے والد ہوتے تھے اور عبید بن عمیر ہوتے تھے مسور بن مخرمہ ہوتے تھے اور بھی بہت سے لوگ ہوتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ابو عمرو اُن لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے۔ ابو عمرو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام تھے جو آزاد نہیں ہوئے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اہل خانہ کے امام تھے اُن اہل خانہ میں محمد بن ابوبکر اور عروہ

شامل ہیں اور ان کے بیوی بچے شامل ہیں، عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابوبکر ان میں شامل نہیں ہیں، وہ ان سے پیچھے ہٹ جایا کرتے تھے۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں: جب ابو عمر نے مجھے غیر موجود پایا اور مجھے دفن دیا (یعنی جب میرا انتقال ہو گیا) تو یہ آزاد ہو

گا۔

3825 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ يَوْمَهَا غُلَامًا يُقَالُ لَهُ ذُكْوَانُ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ أَيُّوبُ: عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: كَانَ يَوْمَ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَيُصَلِّيَ بِهَا

* * عبد الرحمن بن قاسم اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا غلام ان کی امامت کیا کرتا تھا، اس کا نام

ذکوان تھا۔

معمر بیان کرتے ہیں: ایوب نے یہ بات نقل کی ہے کہ ابن ابوملیکہ بیان کرتے ہیں: وہ غلام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں آنے والے ہر شخص کی امامت کیا کرتا تھا، صرف جب عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابوبکر آتے تھے تو (وہ غلام امامت نہیں کرتا تھا) بلکہ عبد اللہ بن عبد الرحمن، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔

3826 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: عَنِ الْعَبْدِ أَيُّومَ؟ قَالَ:

نَعَمْ، إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ

* * حماد بیان کرتے ہیں: میں نے ابراہیم نخعی سے غلام کے بارے میں دریافت کیا: کیا وہ امامت کر سکتا ہے؟ انہوں

نے جواب دیا: جی ہاں! جبکہ وہ نماز کو قائم کر سکتا ہو۔

بَابُ الْأَعْمَى إِمَامًا

باب: نابینا شخص کا امام ہونا

3827 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، " أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: - حَسِبْتُهُ قَالَ: مِنْ أَصْحَابِ بَدْرِ - أُصِيبَتْ أَبْصَارُهُمْ، فَكَانُوا يَوْمًا عَشَائِرَهُمْ، مِنْهُمْ عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَعَتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ، وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ

* * زہری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ افراد (راوی کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ انہوں

نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے:) وہ صاحب جنہیں غزوہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل ہے ان کی بینائی رخصت ہو گئی تو وہ لوگ

اپنے خاندان کے افراد کی امامت کیا کرتے تھے ان لوگوں میں حضرت عبد اللہ بن ام مکتوم، حضرت عتبان بن مالک اور حضرت معاذ

بن عفراء رضی اللہ عنہم شامل ہیں۔

3828 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَوْمَ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يَوْمَ النَّاسِ وَهُوَ أَعْمَى * * امام شعیبی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا تھا وہ لوگوں کی امامت کرتے تھے حالانکہ وہ نابینا تھے۔

3829 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ * * سعد بن ابراہیم بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ جب سفر پر تشریف لے جاتے تھے تو حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں اپنا نائب مقرر کرتے تھے۔

3830 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مَخْرَجًا، فَأَمَرَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنْ يَوْمَ أَصْحَابَهُ، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الزَّمَانِ، وَمَنْ لَا يَسْتَطِيعُ خُرُوجًا * * ابن جریج بیان کرتے ہیں: مجھے اُس شخص نے یہ بات بتائی ہے جسے میں سچا قرار دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ کہیں تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو یہ ہدایت کی کہ وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کریں اور ان لوگوں کی امامت کریں جو اپنا بیج لوگ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ نہیں جاسکے یا جو نکلنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے۔

3831 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: عَنِ الْأَعْمَى أَيَوْمَ الْقَوْمِ؟ فَقَالَ: مَا لَهُ إِذَا كَانَ أَفْقَهُهُمْ؟ فَقَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: إِلَّا أَنْ يُحْطِئَ الْقِبْلَةَ؟ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ أَخْطَأَ فَلْيُعَدِّلُوهُ، فَلْيَوْمَهُمْ إِذَا كَانَ أَفْقَهُهُمْ * * ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء سے نابینا شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ کیا وہ لوگوں کی امامت کر سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: کیوں نہیں! جبکہ وہ سب سے زیادہ سمجھدار بھی ہو۔ ایک شخص نے عطاء سے کہا: اگر وہ قبلہ کی طرف رخ نہ کر سکتا ہو (تو حکم مختلف ہوگا؟) عطاء نے کہا: اگر وہ قبلہ کی طرف ٹھیک رخ نہیں کرے گا تو لوگ اُسے سیدھا کر دیں گے جب وہ سب سے زیادہ فقیہ ہوگا تو پھر وہ ان کی امامت کرے گا۔

3832 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَادِ قَالَ: سَأَلْتُ اِبْرَاهِيمَ: عَنِ الْأَعْمَى هَلْ يَوْمٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا أَقَامَ الصَّلَاةَ * * حماد بن ابوسلیمان بیان کرتے ہیں: میں نے ابراہیم نخعی سے نابینا شخص کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا وہ امامت کر سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! جبکہ وہ نماز قائم کر سکتا ہو۔

3833 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ * * عبد بن ابوسلیمان بیان کرتے ہیں: میں نے ابراہیم نخعی سے نابینا شخص کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا وہ امامت کر سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! جبکہ وہ نماز قائم کر سکتا ہو۔

عَبَّاسٍ: كَيْفَ أَوْمَهُمْ وَهُمْ يُعَدُّونِي إِلَى الْقِبْلَةِ؟ حِينَ عَمِيَ

*** سعید بن جبیر نقل کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: میں اُن کی امامت کیسے کروں جبکہ وہ لوگ مجھے قبلہ کی طرف رُخ کرواتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بات اُس وقت کہی تھی جب وہ نابینا ہو چکے تھے۔

3834 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ خَلَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ ابْنَ

عَبَّاسٍ أَمَّهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَعْمَى عَلَى بَسَاطٍ قَدْ طَبَّقَ الْبَيْتَ

*** سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک کپڑا پہن کر اُن لوگوں کی امامت کرتے تھے وہ اُس وقت نابینا ہو چکے تھے اور وہ ایک چٹائی پر نماز پڑھایا کرتے تھے جو گھر میں بچھائی جاتی تھی۔

3835 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: كَانَ يَوْمَهُمْ وَهُوَ أَعْمَى

*** معمر نے قتادہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: وہ اُن لوگوں کی امامت کیا کرتے تھے حالانکہ وہ نابینا تھے۔

بَابُ هَلْ يَوْمٌ وَلَدَ الزَّانَا

باب: کیا ولد الزنا امامت کر سکتا ہے؟

3836 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى عَطَاءً: عَنْ وَلَدِ الزَّانَا

إِذَا كَانَ رِضَى أَيُّومِ الْقَوْمِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ سُلَيْمَانُ: وَنَحْنُ نَرَى ذَلِكَ

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: سلیمان بن موسیٰ نے عطاء سے ولد الزنا کے بارے میں دریافت کیا جبکہ وہ خود ایک پسندیدہ شخصیت ہو گیا وہ لوگوں کی امامت کر سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! سلیمان بیان کرتے ہیں: ہم بھی اسی بات کے قائل ہیں۔

3837 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ مَا رَأَى بِذَلِكَ بَأْسًا

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: عمرو بن دینار کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

3838 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنْ حَمَادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: عَنْ وَلَدِ الزَّانَا،

وَالْأَعْرَابِيِّ، وَالْعَبْدِ، وَالْأَعْمَى، هَلْ يَوْمُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا أَقَامُوا الصَّلَاةَ

*** حماد بیان کرتے ہیں: میں نے ابراہیم نخعی سے ولد الزنا دیہاتی، غلام اور نابینا شخص کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا یہ لوگ امامت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! جبکہ یہ لوگ نماز کو قائم کریں۔

3839 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ:

وَلَدَ الزَّانَا يَنْكِحُ، وَيُنْكَحُ إِلَيْهِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَوْمٌ

*** زہیر بن ابو ثابت بیان کرتے ہیں: میں نے امام شعبی کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: ولد الزنا نکاح کرے گا اُس

کے ساتھ نکاح کیا جائے گا، اُس کی گواہی بھی جائز ہوگی اور وہ امامت بھی کر سکتا ہے۔

3840 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: هَلْ يَوْمٌ وَلَدَ الزَّانَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا شَأْنُهُ؟ قُلْتُ: فَالْمُخْنَثُ؟ قَالَ: لَا، وَلَا كَرَامَةَ، وَلَا يُؤْتَمُّ بِهِ

* * * معمر بیان کرتے ہیں: میں نے زہری سے سوال کیا: کیا ولد الزنا امامت کر سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! اُس کا کیا معاملہ ہے! میں نے کہا: کیا مخنث (خواجہ سرا) شخص کر سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! ایسے شخص کو کوئی کرامت حاصل نہیں ہوگی اور اُس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔

بَابُ هَلْ يَوْمُ الرَّجُلِ أَبَاهُ؟

باب: کیا کوئی شخص اپنے والد کی امامت کر سکتا ہے؟

3841 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَوْمُ الرَّجُلِ أَبَاهُ، وَلَا أَخَاهُ الْكَبِيرَ

مِنْهُ

* * * ابن جریر نے عطاء کا یہ قول نقل کیا ہے: کوئی شخص اپنے والد کی یا اپنے بڑے بھائی کی امامت نہ کرے۔

3842 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ النَّبَاطِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَخَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ الْبَصْرَةَ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَصْرَةِ ثَلَاثَةُ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةُ فَرَاسِخَ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ، فَقَدَّمَ ابْنًا لَهُ يُقَالُ لَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَصَلَّى بِنَا صَلَاةَ الْفَجْرِ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ تَبَارَكَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُ: طَوَّلْتَ عَلَيْنَا

* * * ثابت بنانی بیان کرتے ہیں: میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا وہ اپنی سرزمین سے بصرہ کی طرف جا رہے تھے ان کے اور بصرہ کے درمیان تین میل (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) تین فرسخ کا فاصلہ تھا نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو آگے کیا جس کا نام ابو بکر تھا، اُس نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اُس نے سورہ ملک کی تلاوت کی۔ جب اُس نے نماز ختم کی تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اُس سے کہا: تم نے ہمیں بڑی لمبی نماز پڑھائی ہے۔

3843 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَمَادِينٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ: أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ

* * * عثمان بن ابوسلیمان بیان کرتے ہیں: حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کر لیتے تھے۔

3844 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَوْمَ الزُّبَيْرِ، وَطَلْحَةَ قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَوْمَ أَبَاهُ

* * * معمر بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہما کی امامت کر لیتے تھے۔

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی اپنے والد کی امامت کر لیتے تھے۔

بَابُ هَلْ يَوْمُ الْغُلَامِ وَلَمْ يَحْتَلِمَ؟

باب: جو لڑکا ابھی بالغ نہ ہوا ہو، کیا وہ امامت کر سکتا ہے؟

3845 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَوْمُ الْغُلَامِ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمَ

*** ابن جریج نے عطاء کا یہ قول نقل کیا ہے: ایسا لڑکا جو ابھی بالغ نہ ہوا ہو، وہ امامت نہ کرے۔

3846 - اقوال تابعین: الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ: اِنَّهُ كَرِهَ اَنْ يَوْمَ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ

*** مغیرہ نے ابراہیم نخعی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ وہ اس بات کو مکروہ سمجھتے ہیں کہ کوئی لڑکا جو بالغ نہ ہوا ہو

وہ امامت کرے۔

3847 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحَصِينِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يَوْمُ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَلِيُوْذِنَ لَكُمْ خِيَارُكُمْ

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: لڑکا اس وقت تک امامت نہیں کرے گا جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتا

اور تمہارے بہترین لوگ تمہارے لیے اذان دیں۔

3848 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي اِبْرَاهِيمُ، اَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ

الْعَزِيزِ اَخْبَرَهُ، اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي سُوَيْدٍ اَقَامَهُ لِلنَّاسِ، وَهُوَ غُلَامٌ بِالطَّائِفِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَوْمَهُمْ، فَكَتَبَ

بِذَلِكَ اِلَى عُمَرَ يُبَشِّرُهُ، فَغَضِبَ عُمَرُ، وَكَتَبَ اِلَيْهِ: مَا كَانَ نَوْلِكَ اَنْ تَقْدِمَ لِلنَّاسِ غُلَامًا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ

الْحُدُودُ

*** عزیز بن عمر بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں: محمد بن ابوسوید نے لوگوں کے لیے نماز قائم کی، وہ ان دنوں لڑکے تھے

اور یہ طائف شہر کی بات ہے اور رمضان کے مہینہ کی بات ہے انہوں نے ان لوگوں کی امامت کی تو انہوں نے عمر بن عبدالعزیز کو

اس بارے میں خط لکھا جس میں انہیں یہ خوشخبری سنائی تو عمر بن عبدالعزیز غصہ میں آگئے اور انہوں نے جواب میں لکھا کہ یہ تم نے

کیا کیا ہے کہ لوگوں کے آگے ایک لڑکے کو کر دیا ہے جس پر ابھی حدود واجب ہی نہیں ہوئی ہیں۔

3849 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، اَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، اَمَرَ غُلَامًا قَبْلَ اَنْ يَحْتَلِمَ فَصَلَّى

بِالنَّاسِ، فَقِيلَ لَهُ: لَمْ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ الضَّحَّاكُ: اِنَّ مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا لَيْسَ مَعِيَ، فَاِنَّمَا قَدَّمْتُ الْقُرْآنَ، قَالَ

مَعْمَرٌ: وَبَلَّغَنِي اَنَّ غُلَامًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَلَمْ يَحْتَلِمَ، وَكَانَ اَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ: انظُرُوا هَذَا مَا يَصْنَعُ وَقَوْمُهُ؟ يَعْنُونَ النَّبِيَّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا افْتَتَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، جَاءَهُ وَفُودُ النَّاسِ، فَكَانَ غُلَامٌ مِنْ جَرَمٍ

يُقَالُ لَهُ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ، كُلَّمَا مَرَّ بِهِ أَحَدٌ مِمَّنْ وَفَدَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمَ مِنْهُ الْقُرْآنَ " قَالَ: وَكَانَ أَكْثَرَ قَوْمِهِ قُرْآنًا، فَكَانَ يُؤْمُهُمْ وَهُوَ صَبِيٌّ لَمْ يَحْتَلِمْ، وَكَانَ عَلَيْهِ خَلْقٌ إِزَارٍ، فَتَقُولُ عَجُوزٌ مِنَ الْحَيِّ: أَلَا تَكْسُونَ إِمَامَكُمْ؟ قَالَ: فَاشْتَرَوْا لِي إِزَارًا بِثَلَاثَةِ دَرَاهِمٍ قَالَ: فَفَرِحْتُ بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا

*** معمر بیان کرتے ہیں: ضحاک بن قیس نے ایک لڑکے کو یہ ہدایت کی کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے وہ لڑکا ابھی بالغ نہیں ہوا تھا۔ ضحاک سے کہا گیا: آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ضحاک نے کہا: کیونکہ اس لڑکے کو اتنا قرآن آتا ہے جو مجھے نہیں آتا تو میں نے قرآن کو مقدم قرار دیا ہے۔

معمر بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے زمانہ اقدس میں بھی ایک لڑکا نماز پڑھایا کرتا تھا حالانکہ وہ ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، لیکن اُسے (اپنے علاقہ کے) سب لوگوں سے زیادہ قرآن آتا تھا۔

ایوب بیان کرتے ہیں: عربوں نے یہ کہا کہ تم ان صاحب کا جائزہ لو کہ یہ کیا کرتے ہیں اور ان کی قوم کیا کرتی ہے۔ ان کی مراد نبی اکرم ﷺ تھے۔ نبی اکرم ﷺ نے جب مکہ فتح کر لیا تو لوگوں کے وفود آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ جرم قبیلہ کا ایک نوجوان تھا جس کا نام عمرو بن سلمہ تھا، اُس کے علاقہ سے جب بھی وہ لوگ گزرتے تھے جو نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں وفد کی شکل میں جاتے تھے تو وہ اُن سے قرآن سیکھتا تھا، تو اُسے اپنی قوم میں سب سے زیادہ قرآن آتا تھا وہ اُن لوگوں کی امامت کیا کرتا تھا حالانکہ وہ لڑکا ابھی بالغ نہیں ہوا تھا، اُس کا تہبند بہت پرانا تھا، قبیلہ کی ایک بوڑھی خاتون نے کہا: تم لوگ اپنے امام کو پہننے کے لیے (کوئی مناسب لباس) کیوں نہیں دیتے! راوی بیان کرتے ہیں: تو اُن لوگوں نے تین درہم کے عوض میں میرے لیے تہبند خریدا۔

حضرت عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: مجھے اس سے بہت خوشی ہوئی۔

بَابُ الْإِمَامِ يُوتَى فِي مَسْجِدِهِ

باب: جب کسی مسجد کے امام کے ہاں کوئی آجائے (تو کیا، کیا جائے؟)

3850 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فِي مَسْجِدِ

بِطَائِفَةِ الْمَدِينَةِ قَالَ: وَلِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ أَرْضٌ يَعْمَلُهَا قَالَ: وَإِمَامُ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ مَوْلَى، وَمَسْكَنُ ذَلِكَ الْمَوْلَى وَأَصْحَابِهِ ثُمَّ، فَلَمَّا سَمِعَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ جَاءَ يَشْهَدُ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ الْمَوْلَى صَاحِبُ الْمَسْجِدِ لَابْنِ عُمَرَ: تَقَدَّمَ فَصَلِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِكَ، فَصَلَّى الْمَوْلَى

*** نافع بیان کرتے ہیں: مدینہ منورہ (کے اطراف میں) کسی محلہ کی مسجد میں نماز کھڑی ہوئی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس وقت اُس مسجد کے قریب اپنی سرزمین پر موجود تھے جہاں وہ کام کاج کر رہے تھے اُس مسجد کا امام ایک غلام تھا، اُس غلام

اور اُس کے ساتھیوں کی رہائش بھی وہیں موجود تھی جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اُن لوگوں کی آواز سنی کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے تو وہ اُن لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے آئے اُس مسجد کے امام نے جو ایک غلام تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ کہا: آپ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیے! تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: تم اس بات کے زیادہ حقدار ہو کہ اپنی مسجد میں نماز پڑھاؤ۔ تو اُس غلام نے نماز پڑھائی۔

3851 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ مُسَافِرٌ مَرَّ بِأَهْلِ مَاءٍ،

فَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ، فَقَدَّمُوهُ، لَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ أَيُّوْمُهُمْ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص جو مسافر ہے وہ کسی پانی کی جگہ کے پاس سے گزرتا ہے جہاں لوگ رہتے ہیں اسی دوران نماز کا وقت ہو جاتا ہے وہ لوگ اُسے آگے کر دیتے ہیں اُن لوگوں کا کوئی مخصوص امام نہیں ہے تو کیا وہ مسافر اُن لوگوں کی امامت کر سکتا ہے؟ عطاء نے جواب دیا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

بَابُ الْإِمَامِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ بِهِ أَعْجَمِيَّةٌ

باب: جب کوئی امام قرآن کی تلاوت کرے اور اُس میں عجمیت ہو

(یعنی وہ صحیح طریقہ سے قرآن نہ پڑھ سکتا ہو)

3852 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ:

اجْتَمَعَتْ جَمَاعَةٌ فِي بَعْضِ مَاءٍ حَوْلَ مَكَّةَ - قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: بِأَعْلَى الْوَادِي هَهُنَا - قَالَ: وَفِي الْحَجِّ، فَحَانَتِ الصَّلَاةَ، فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ أَعْجَمِيَّ اللِّسَانِ قَالَ: فَأَخْرَهُ الْمَسُورُ بْنُ مَخْرَمَةَ، وَقَدَّمَ غَيْرَهُ، وَتَغَيَّبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ بِشَيْءٍ حَتَّى جَاءَ الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمَدِينَةَ عَرَفَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ الْمَسُورُ: أَنْظِرْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ أَعْجَمِيَّ اللِّسَانِ، وَكَانَ فِي الْحَجِّ، فَخَشِيتُ أَنْ يَسْمَعَ بَعْضُ الْحَاجِّ قِرَاءَتَهُ فَيَأْخُذُ بِعُجْمَتِهِ قَالَ: أَوْ هُنَالِكَ ذَهَبَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: أَصَبَتْ

*** عطاء نقل کرتے ہیں: عبید بن عمیر نے یہ بات بیان کی ہے: ایک مرتبہ کچھ لوگ مکہ کے آس پاس کسی پانی

کے پاس اکٹھے ہوئے، راوی کہتے ہیں: میرا خیال ہے انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ وہ مکہ مکرمہ کے بالائی حصہ کی طرف اکٹھے ہوئے اور یہ حج کے موقع کی بات ہے اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا تو ابوسائب مخزومی کی آل سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جس کی زبان میں لکنت تھی وہ آگے بڑھا تو حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے اُسے پیچھے کر دیا اور دوسرے شخص کو آگے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس صورت حال کے بارے میں پتا چلا لیکن انہیں اس بارے میں واضح نہیں ہو سکا یہاں تک کہ وہ مدینہ منورہ آگئے جب وہ مدینہ منورہ آئے اور انہیں اس ساری صورت حال کے بارے میں تفصیلی طور پر پتا چلا تو حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اے امیر المؤمنین! آپ خود ملاحظہ فرمائیے کہ ایک شخص

جس کی زبان میں لکنت ہے اور حج کا موقع ہے تو مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ حاجیوں میں سے کوئی شخص اس کی تلاوت سنے گا اور اس کی لکنت کے ساتھ اُسے حاصل کر لے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: کیا تم نے وہیں سے اُسے ایسا کر دیا تھا؟ مسور بن مخرمہ نے جواب دیا: جی ہاں! تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: تم نے ٹھیک کیا ہے۔

بَابُ الْإِمَامِ يَقْرَأُ غَيْرَ الْقُرْآنِ

باب: جب کوئی امام قرآن کے علاوہ کچھ پڑھ دے

3853 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْسَانٌ يُؤْتِي فِي رُبْعِهِ فَيَوْمُ الْقَوْمِ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، وَيَسْجَعُ مَعَ ذَلِكَ قَالَ: فَلَا يَوْمَكَ فَلَا تُصَلِّ مَعَهُمْ، وَإِنْ كَانَ يَخْلُطُ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ هَهُنَا وَهَهُنَا فَصَلِّ بِصَلَاتِهِ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص کے ہاں اُس کے گھر کوئی آتا ہے وہ لوگوں کی امامت کرتا ہے اور وہ کچھ قرآن پڑھتا ہے اور اُس کے ساتھ بنا سنوار کر کچھ اور پڑھ دیتا ہے۔ تو عطاء نے کہا: وہ تمہاری امامت نہ کرے اور تم اُس کی اقتداء میں نماز ادا نہ کرو، لیکن اگر وہ قرآن کو مختلف جگہ سے پڑھ دیتا ہے تو پھر تم اُس کی نماز کی اقتداء کر لو۔

3854 - آثار صحابہ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مَرَّ بِأَهْلِ مَاءٍ وَقَدْ أَقِيَمَتِ الصَّلَاةَ، فَدَخَلَ مَعَهُمْ، فَأَمَّهُمْ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ، وَالْحَقُّ فِي قِرَاءَتِهِ: نَحْجُ بَيْتَ رَبِّنَا وَنَقْضِي الدِّينَ، وَزَادَ غَيْرُ قَتَادَةَ: وَهُنَّ كَالْقَطَوَاتِ يَهُوِينَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: (مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ) قَالَ: فَكَصَّ الْأَعْرَابِيُّ، وَتَقَدَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَصَلَّى بِهِمْ

*** قتادہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک پانی کے پاس رہنے والے لوگوں کے پاس سے گزرے وہاں نماز کھڑی ہوئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اُن کے ساتھ نماز میں شامل ہوئے اُن میں سے ایک شخص نے اُن کی امامت کرتے ہوئے قرأت کی اور قرأت کے ساتھ یہ الفاظ شامل کر دیئے:

”ہم اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرتے ہیں اور قرض کو ادا کر دیتے ہیں۔“

قتادہ کے علاوہ دیگر راویوں نے یہ الفاظ زائد نقل کیے ہیں: ”وَهُنَّ كَالْقَطَوَاتِ يَهُوِينَ“

تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی:

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ

”ہم نے اس طرح کی چیز اور کہیں نہیں سنی یہ اپنی ایجاد کی ہوئی ہے۔“

راوی کہتے ہیں: تو وہ دیہاتی پیچھے ہٹ گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اُن لوگوں کو نماز

پڑھائی۔

3855 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ طَيِّءٍ قَالَ: مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى مَسْجِدٍ لَنَا، فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ قَالَ: نَحُجُّ بَيْتَ رَبِّنَا وَنَقْضِي الدِّينَ، وَهُوَ مِثْلُ الْقَطَوَاتِ يَهُودِينَ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: (مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ) قَالَ: فَانصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ

*** ابو اسحاق نے ”طے“ قبیلہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا یہ بیان نقل کیا ہے: ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہمارے مسجد کے پاس سے گزرے اُن لوگوں میں سے ایک شخص آگے بڑھ گیا تھا اور سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا پھر اُس نے یہ کلمات پڑھے:

نَحُجُّ بَيْتَ رَبِّنَا وَنَقْضِي الدِّينَ، وَهُوَ مِثْلُ الْقَطَوَاتِ يَهُودِينَ

تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی:

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ

”ہم نے یہ کلام کسی دوسری ملت میں نہیں سنا یہ ایجاد کیا ہوا ہے۔“

راوی کہتے ہیں: تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس ہو گئے یعنی اُس باجماعت نماز سے علیحدہ ہو گئے۔

3856 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرْتُ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ الْحَمِيرِ قَالَ: صَلَّى ابْنُ مَسْعُودٍ وَرَاءَ الْأَعْرَابِيِّ، فَقَرَأَ الْأَعْرَابِيُّ أُمَّ الْقُرْآنِ، فَلَمَّا خَتَمَهَا، وَقَالَ: (غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ) (الفاحة: 7) قَالَ: نَحُجُّ بَيْتَ رَبِّنَا وَنَقْضِيهِ الدِّينَ، عَلَى مِثْلِ الْقَطَوَاتِ يَهُودِينَ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: (مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ) قَالَ: فَاسْتَأْخَرَ الْأَعْرَابِيُّ، حَتَّى تَقْدَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ، عَلِمَ أَنَّهُ أَفْقَهُ مِنْهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا رَأَيْتُ أَعْرَابِيًّا أَفْقَهُ مِنْهُ

*** حمید بن حمیری بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک دیہاتی کے پیچھے نماز ادا کی تو دیہاتی نے سورہ فاتحہ پڑھی جب اُس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور غیر المغضوب علیہم والضالین پڑھ لیا تو یہ کلمات کہے:

نَحُجُّ بَيْتَ رَبِّنَا وَنَقْضِيهِ الدِّينَ، عَلَى مِثْلِ الْقَطَوَاتِ يَهُودِينَ

تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ

”ہم نے یہ کلام کسی دوسری ملت میں نہیں سنا یہ ایجاد کیا ہوا ہے۔“

راوی بیان کرتے ہیں: تو وہ دیہاتی پیچھے ہٹ گیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آگے آگے دیہاتی کو یہ پتا چل گیا تھا کہ انہیں اُس سے زیادہ علم دین کا فہم حاصل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے اس سے زیادہ سمجھدار دیہاتی کوئی نہیں دیکھا۔

بَابُ رَفْعِ الْإِمَامِ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ

باب: امام کا بلند آواز میں تلاوت کرنا

3857 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَلَيْسَ إِنْ شَاءَ الْإِمَامُ أَمَّ النَّاسَ فِيمَا يَرْفَعُ بِهِ الصَّوْتُ مِنَ الْقِرَاءَةِ، رَفَعَ بِأَمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَطُّ لَا يَزِيدُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: بَلَى، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرْفَعَ بِهِمَا سُورَةٌ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر امام چاہے تو لوگوں کی امامت کرتے ہوئے جن نمازوں میں بلند آواز میں تلاوت کی جاتی ہے ان میں ہر رکعت میں صرف سورہ فاتحہ بلند آواز سے پڑھے مزید کچھ نہ پڑھے؟ تو عطاء نے جواب دیا: جی ہاں! لیکن مجھے یہ بات پسند ہے کہ وہ دونوں سورتیں بلند آواز سے پڑھے۔

3858 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَ يُؤَمِّرُ الْإِمَامُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَدْ كَانَ الزُّبَيْرُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ حَتَّىٰ أَنْ لِقِرَاءَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ لِلَّجَّةِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا إِمَامًا لَمْ يَزِدْ عَلَىٰ أَنْ يُسْمِعَهُمُ الشَّيْءَ؟ قَالَ: حَسْبُهُ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: امام کو یہ ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ بلند آواز میں قرآن کی تلاوت کرے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بلند آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے یہاں تک کہ ان کی تلاوت کی وجہ سے مسجد میں گونج پیدا ہو جاتی ہے۔ میں نے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص امام ہو جس کی آواز زیادہ اونچی نہ ہوتی ہو؟ تو انہوں نے کہا: یہ کافی ہوگا۔

3859 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ تُسْمَعُ قِرَاءَةُ عُمَرَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ دَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ

* * ابو سہیل بن مالک اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: فجر کی نماز میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قرأت کی آواز حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے گھر میں سنائی دیتی تھی۔

3860 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَالِكِ، عَنِ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ قِرَاءَةُ عُمَرَ تُسْمَعُ مِنَ الْبَلَاطِ

* * ابو سہیل بن مالک اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تلاوت کی آواز ”بلاط“ (نامی کھلی جگہ) پر سنائی دیتی تھی۔

بَابُ الرَّجُلِ يَوْمَ الرَّجُلِ

باب: ایک شخص کا ایک شخص کی امامت کرنا

3861 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَطَوِّعًا مِنَ اللَّيْلِ، فَقَامَ إِلَى الْقُرْبَةِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ لَمَّا رَأَيْتُهُ صَنَعَ ذَلِكَ، فَتَوَضَّأْتُ مِنَ الْقُرْبَةِ، ثُمَّ قُمْتُ إِلَى الشَّقِ الْأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَرَاءَ ظَهْرِهِ، فَعَدَّلَنِي كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشَّقِ الْأَيْمَنِ، قُلْتُ: أَفِي التَّطَوُّعِ كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: ایک رات میں اپنی خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ٹھہرا رات میں کسی وقت نبی اکرم ﷺ نفل نماز ادا کرنے کے لیے اٹھے آپ مشکیزہ کی طرف گئے آپ نے وضو کیا پھر آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگے جب میں نے نبی اکرم ﷺ کو یہ کرتے ہوئے دیکھا تو میں بھی اٹھا میں نے بھی مشکیزہ میں سے وضو کیا پھر میں نبی اکرم ﷺ کے بائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا تو نبی اکرم ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا اور اپنی پشت کی طرف سے مجھے گزار کر اپنے دائیں طرف کر دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: کیا نفل نماز میں ایسا ہوا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

3862 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلْمَةَ بِنِ كَهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نِمْتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ابْنَةِ الْحَارِثِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ، فَاتَى الْحَاجَةَ، ثُمَّ جَاءَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ قَالَ: ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَاتَى الْقُرْبَةَ فَتَوَضَّأَ وَضُوءًا بَيْنَ وَضُوءَيْنِ، لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى قَالَ: وَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةً أَنْ يَرَى اتَّقِيهِ - يَعْنِي أُرَاقِبُهُ - ثُمَّ قُمْتُ فَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ يَمَانِي إِذْنِي حَتَّى آدَارَنِي، فَكُنْتُ عَنْ يَمِينِهِ وَهُوَ يُصَلِّي قَالَ: فَتَمَّتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ جَاءَ بِلَالٌ فَأَذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَزَادَنِي يَحْيَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلْمَةَ بِنِ كَهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيِ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا، قَالَ كُرَيْبٌ: وَسَيِّ عِنْدِي: فِي التَّابُوتِ وَعَصْبِي، وَمُخِي، وَدَمِي، وَشَعْرِي، وَبَشْرِي، وَعِظَامِي

3861- صحیح البخاری - کتاب الوضوء - باب التخفيف في الوضوء - حدیث: 137، صحیح مسلم - کتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه - حدیث: 1314، صحیح ابن خزيمة - کتاب الوضوء - جماع ابواب الاواني اللواتي يتوضأ فيهن او يغتسل - باب إباحة الوضوء من الجفان والقصاع - حدیث: 128، مستخرج ابی عوانة - مبتدا کتاب الطهارة - باب الدليل على ان امر النبي صلى الله عليه وسلم للمستيقظ - حدیث: 568، صحیح ابن حبان - باب الإمامة والجماعة - باب الحدث في الصلاة - ذكر الإباحة للمتهجد بالدليل ان يؤم بصلاته تلك - حدیث: 2668، سنن ابی داود - کتاب الصلاة - ابواب قيام الليل - باب في صلاة الليل - حدیث: 1163، السنن للنسائي - کتاب التصديق - باب الدعاء في السجود - حدیث: 1114، السنن الكبرى للنسائي - کتاب الصلاة - ذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عباس في كيفية صلاة - حدیث: 391، شرح معاني الآثار للطحاوي - باب الوتر - حدیث: 1074

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: ایک رات میں اپنی حالہ سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے ہاں سو گیا، رات میں کسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ نے قضائے حاجت کی، پھر آپ تشریف لائے، آپ نے اپنا چہرہ اور دونوں بازو دھوئے، پھر آپ سو گئے۔

(حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے نوافل ادا کرنے کے لیے اٹھے، آپ مشکیزہ کے پاس گئے، آپ نے درمیانے درجہ کا وضو کیا، جو بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن مکمل تھا، پھر آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگے۔ (حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: میں نے بھی یوں ظاہر کیا جیسے میری آنکھ کھل گئی ہے، مجھے یہ بات پسند نہیں آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں یہ سمجھیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جائزہ لے رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: پھر میں اٹھا، میں نے بھی اسی طرح کیا جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا، تو آپ نے میرے کان کے پاس سے مجھے پکڑ کر گھما کر اپنے دائیں طرف کر دیا، آپ اس دوران نماز ادا کرتے رہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تیرہ رکعات پر مکمل ہوئی، جس میں فجر کی دو سنتیں بھی شامل تھیں، پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے یہاں تک کہ خراٹے لینے لگے، پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے، اور آپ کو نماز کے لیے بلایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے نماز ادا کی، آپ نے از سر نو وضو نہیں کیا۔

ایک سند میں راوی نے یہ الفاظ زائد نقل کیے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یہ الفاظ شامل تھے:

”اے اللہ! میرے دل میں نور کر دے، میری سماعت میں نور کر دے، میری بصارت میں نور کر دے، میرے دائیں طرف نور کر دے، میرے بائیں طرف نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے آگے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، اور میرے لیے نور کو زیادہ کر دے۔“

کریب نامی راوی بیان کرتے ہیں: چھ چیزیں میرے پاس تابوت میں (تحریری طور پر لکھی ہوئی ہیں)۔ (اس سے مراد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں یہ الفاظ بھی تھے:)

”میرے پٹھوں کو میرے گودے کو میرے خون کو، میرے بالوں کو، میری جلد کو اور میری ہڈیوں کو نور کر دے۔“

3863 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: ذَكَرَ لَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحْفَظُ، فَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ

*** سفیان ثوری بیان کرتے ہیں: ہمارے سامنے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ان کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، تو انہوں نے بتایا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کرتے تھے (یعنی آپ کا ذہن بیدار رہتا تھا)۔

بعض فقہاء نے یہ بات بیان کی ہے: نبی اکرم ﷺ کی آنکھ سوجاتی ہے، لیکن آپ کا دل نہیں ہوتا ہے۔

3864 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي

*** سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”میری آنکھیں سوجاتی ہیں، لیکن میرا دل نہیں سوتا ہے۔“

3865 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سُمَيْعِ الزَّيَّاتِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

كُنْتُ قُمْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَارَنِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، قَالَ سُفْيَانُ: فِي تَطَوُّعٍ

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم ﷺ کے پہلو میں آ کر کھڑا ہوا تو آپ نے مجھے ہما

کراپنے دائیں طرف کر دیا۔

سفیان کہتے ہیں: ایسا نفل نماز میں ہوا تھا۔

3866 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ،

أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَ: وَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، ثُمَّ

اسْتَيْقَظَ فَجَلَسَ، فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ

إِلَى شَيْءٍ مُعَلَّقٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ،

فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا، ثُمَّ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ،

فَاضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَ الْمُؤَدِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ وہ اپنی خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں ٹھہرے۔ وہ بیان

کرتے ہیں: میں چوڑائی کی سمت میں لیٹ گیا، نبی اکرم ﷺ اور آپ کی اہلیہ محترمہ لمبائی کی سمت میں لیٹ گئے۔ نبی اکرم ﷺ

3864-صحیح البخاری - کتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان - حدیث: 1925، صحیح مسلم - کتاب صلاة

السافرین وقصرها، باب صلاة الليل - حدیث: 1255، صحیح ابن خزيمة - کتاب الوضوء، جماع ابواب الافعال اللواتی

لا توجب الوضوء - باب ذکر ما كان الله عز وجل فرق به بين نبيه، حدیث: 49، مستخرج ابی عوانة - باب فی الصلاة

بين الاذان والإقامة فی صلاة المغرب وغيرها، بیان الاخبار التي تعارض اخبار عائشة المتقدمة فی الوتر من روايتها -

حدیث: 1850، صحیح ابن حبان - باب الإمامة والجماعة، باب الحدث فی الصلاة - ذکر خبر قد یوهم غیر المتبحر فی

صناعة العلم " ان حدیث: 2461، موطا مالك - کتاب صلاة الليل، باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فی الوتر -

حدیث: 265، سنن ابی داود - کتاب الطهارة، باب فی الوضوء من النوم - حدیث: 177، السنن للنسائی - کتاب قیام

الليل وتطوع النهار، باب کیف الوتر بثلاث - حدیث: 1688، السنن الكبرى للبيهقي - کتاب الطهارة، جماع ابواب

الحدث - باب ما ورد فی نوم الساجد، حدیث: 561

سوئے یہاں تک کہ جب نصف رات کا وقت ہوا یا شاید اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد کی بات ہے، تو نبی اکرم ﷺ بیدار ہوئے، آپ تشریف فرما ہوئے، آپ نے اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ پھیر کر نیند کے اثرات ختم کیے، پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری دس آیات کی تلاوت کی، پھر آپ لٹکے ہوئے مشکیزہ کی طرف گئے، اس سے وضو کیا، آپ نے اچھی طرح وضو کیا، پھر آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگے، میں نے بھی اسی طرح کیا، جس طرح نبی اکرم ﷺ نے کیا تھا، پھر میں آیا اور آپ کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا، نبی اکرم ﷺ نے اپنا دست مبارک میرے سر پر رکھا اور میرے کان کو پکڑ کر اُسے ملنے لگے، پھر نبی اکرم ﷺ نے دو رکعات ادا کیں، پھر دو رکعات ادا کیں، پھر دو رکعات ادا کیں، پھر آپ نے وتر ادا کیے اور لیٹ گئے یہاں تک کہ مؤذن آ گیا (یعنی مؤذن کے آنے تک آپ سوئے رہے) پھر آپ اٹھے، آپ نے دو مختصر رکعت ادا کیں، پھر تشریف لے گئے اور صبح کی نماز پڑھائی۔

3867 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: صَلَّى مَعَ أَبِي فَقَامَتِ امْرَأَتُهُ

خَلْفًا

* * ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے والد کے ساتھ نماز ادا کی تو خاتون ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی تھیں۔

3868 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

"كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ مَعَهُ عَلَى يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، حَزَرْتُ قِيَامَهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدَرًا: يَا أَيُّهَا الْمُرْمِلُ"

* * حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: میں سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھا، نبی اکرم ﷺ رات کے وقت

نوافل ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے، میں آپ کے بائیں طرف آ کر کھڑا ہو گیا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کر دیا، پھر آپ نے تیرہ رکعات ادا کیں، میں نے ہر رکعت میں آپ کے قیام کا یہ اندازہ لگایا کہ وہ سورہ مزمل کی تلاوت جتنا تھا۔

3869 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَامَ وَحَدَّثَهُ إِلَى

يَسَارِ ابْنِ عُمَرَ، فَجَرَّ بِيَمِينِهِ حَتَّى جَرَّهَ إِلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ

* * ابن جریج نے نافع کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ اکیلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بائیں طرف کھڑے ہو

گئے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کے دائیں ہاتھ کو کھینچ کر انہیں اپنے دائیں طرف کر دیا۔

3870 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُصَلِّي مَعَهُ الرَّجُلُ

قَطُّ فَإِنَّ يَكُونُ مِنْهُ؟ قَالَ: كَذَلِكَ إِلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، قُلْتُ: أَيْحَادِي بِهِ حَتَّى يَصِفَّ مَعَهُ لَا يَفُوتُ أَحَدُهُمَا

الْآخَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قُلْتُ: أَيْجِبُ أَنْ يَلْصَقَ بِهِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، هَا اللَّهُ إِذَا

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ ایک شخص

صرف ایک شخص کو نماز پڑھاتا ہے تو دوسرا کہاں کھڑا ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا: وہ اسی طرح اُس کے دائیں پہلو میں کھڑا ہوگا۔ میں نے دریافت کیا: کیا وہ اُس کے بالکل برابر میں کھڑا ہوگا؟ تاکہ اُس کے ساتھ صف بنالے اور اُن میں سے کوئی ایک دوسرے سے آگے پیچھے نہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: کیا یہ بات لازم ہے کہ وہ اُس کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں اور اُن کے درمیان کوئی کشادگی نہ ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! اللہ کی قسم! ایسا ہی ہونا چاہیے۔

بَابُ الرَّجُلِ يَوْمَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

باب: ایک مرد اور ایک عورت کی امامت کرنا

3871 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَقَامَتْ جَمِيلَةُ أُمُّ وَلَدِهِ خَلْفَنَا

*** ثابت بنانی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز ادا کی تو انہوں نے مجھے اپنے دائیں طرف کھڑا کر لیا اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی اُم ولد ”جمیلہ“ نامی خاتون ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی۔

3872 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ مَعَهُمَا الْمَرْأَةُ قَالَ: يَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ صَاحِبِهِ، وَتَقُومُ الْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

*** قتادہ ایسے دو آدمیوں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں: جن کے ساتھ ایک خاتون بھی ہو کہ مرد اپنے ساتھی کے دائیں طرف کھڑا ہوگا اور عورت اُن دونوں کے پیچھے کھڑی ہوگی۔

3873 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ

*** سفیان ثوری کے حوالے سے بھی قتادہ کے قول کی مانند منقول ہے۔

3874 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَقُومُ الرَّجُلُ إِلَى رُكْنِ الْإِمَامِ،

وَالْمَرْأَتَانِ وَرَاءَهُمَا، قُلْتُ: فَنِسْوَةٌ؟ قَالَ: وَكَذَلِكَ أَيْضًا، الرَّجُلُ إِلَى رُكْنِ الرَّجُلِ، وَالنِّسْوَةُ وَرَاءَهُمَا *** عطاء فرماتے ہیں: آدمی امام کے ایک طرف کھڑا ہوگا اور دو خواتین اُن کے پیچھے کھڑی ہوں گی۔ میں نے دریافت کیا: اگر خواتین زیادہ ہوں؟ انہوں نے کہا: پھر بھی اسی طرح ہوگا، مرد، مرد کے پہلو میں کھڑا ہوگا اور عورتیں ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہوں گی۔

3875 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثْتُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّيْتُ

إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصَلِّي مَعَهُ

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں نماز ادا کی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا

کھڑی ہوئیں وہ بھی ہمارے ساتھ نماز ادا کر رہی تھیں اور میں نبی اکرم ﷺ کے پہلو میں کھڑا ہو کر آپ ﷺ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہا تھا۔
3876 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَقُومُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ خَلْفَ الْأُخْرَى، وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا

حسن بصری فرماتے ہیں: دو آدمیوں میں سے ایک دوسرے کے پیچھے کھڑا ہوگا اور عورت ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہوگی۔

بَابُ الرَّجُلِ يَوْمَ الرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةِ

باب: ایک شخص کا دو مردوں اور ایک عورت کی امامت کرنا

3877 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ اسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَدِّهِ مَلِيكَةَ، يَعْنِي جَدَّةَ اسْحَاقَ: أَنَّهَا دَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَآكَلَتْ، ثُمَّ قَالَ: قَوْمُوا فَلْنُصَلِّ لَكُمْ قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدْ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبَسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: سیدہ ملیکہ رضی اللہ عنہا نے نبی اکرم ﷺ کی دعوت کی جو کھانا انہوں نے نبی اکرم ﷺ کے لیے تیار کیا تھا نبی اکرم ﷺ نے کھانا کھا لیا تو ارشاد فرمایا: تم لوگ اٹھو تاکہ ہم تمہیں نماز پڑھائیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں اپنی چٹائی کے پاس گیا جو زیادہ استعمال کی وجہ سے سیاہ ہو چکی تھی میں نے اس پر پانی چھڑکا پھر نبی اکرم ﷺ کھڑے ہوئے میں نے اور یتیم لڑکے نے آپ کے پیچھے صف بنالی اور بوڑھی خاتون ہمارے پیچھے کھڑی ہو گئیں تو نبی اکرم ﷺ نے ہمیں دو رکعات پڑھائیں پھر آپ نے نماز ختم کر دی۔

3878 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً؟ قَالَ: " يَقُولُ نَاسٌ: يَقُومُ اثْنَانِ إِلَى رُكْبِهِ، وَيَقُومُ آخِرُ وَرَاءَهُ " قَالَ: قُلْتُ: فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: أَقُولُ الثَّلَاثَةُ جَمَاعَةٌ، فَإِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيُؤَمِّمُهُمْ أَحَدُهُمْ، وَلْيَتَأَخَّرِ اثْنَانِ، فَلْيَقُومَا

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر وہ تین لوگ ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا: لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ دو مرد امام کے پہلو میں کھڑے ہوں گے اور تیسرا پیچھے کھڑا ہوگا۔ ابن جریج کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا: آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا: میرا یہ خیال ہے کہ تین آدمی جماعت ہیں تو جب تین آدمی جماعت ہوں گے تو ان میں سے کوئی ایک شخص امامت کرے گا اور دو آدمی پیچھے کھڑے ہو جائیں گے تو ان دو کو اس کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے۔

3879 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: يُصَلِّيَانِ وَرَاءَهُ

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: وہ دونوں مرد اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے۔

3880 - آثار صحابہ: عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً أَقَامَ رَجُلَيْنِ خَلْفَهُ

*** ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ہے: جب تین آدمی ہوں تو دو مرد امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔

3881 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعَثَاءِ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ

*** عمرو بن دینار نے ابو شعثاء کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے قول کی مانند نقل کیا ہے۔

3882 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الثَّلَاثَةُ جَمَاعَةٌ

*** حسن بصری فرماتے ہیں: تین آدمی جماعت ہوتے ہیں۔

3883 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدَ، أَقْبَلَا مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَى مَسْجِدٍ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّاسُ قَدْ صَلَّوْا، فَرَفَعَ بِهِمَا إِلَى الْبَيْتِ، فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالْآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمَا

*** ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: علقمہ اور اسود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں آئے تو انہوں نے لوگوں کو پایا کہ وہ نماز ادا کر چکے تھے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کو اپنے گھر لے گئے انہوں نے ایک شخص کو اپنے دائیں طرف کھڑا کر لیا اور دوسرے کو بائیں طرف کھڑا کر لیا اور پھر ان دونوں کو نماز پڑھائی۔

3884 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدَ، فَقَامَ هَذَا عَنْ يَمِينِهِ، وَهَذَا عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَامَ بَيْنَهُمَا

*** علقمہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے علقمہ اور اسود کو نماز پڑھائی تو ان دونوں میں سے ایک ان کے دائیں طرف کھڑا ہو گیا اور دوسرا بائیں طرف کھڑا ہو گیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کے درمیان کھڑے ہوئے۔

3885 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً فَلْيُصَفُّوا جَمِيعًا، وَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَتَقَدَّمْ أَحَدُهُمْ

*** ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب تین آدمی ہوں تو وہ صف بنا لیں اگر اس سے زیادہ ہوں گے تو ایک ان سے آگے کھڑا ہوگا۔

3886 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الثَّلَاثَةُ جَمَاعَةٌ، وَذَكَرَهُ هِشَامٌ، عَنِ

الحسن، ایضاً

* * * عطاء فرماتے ہیں: تین آدمی جماعت ہوتے ہیں۔ ہشام نے حسن بصری کے حوالے سے اسی کی مانند ذکر کیا ہے۔

بَابُ الصَّلَاةِ يَحْضُرُ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ

باب: جب نماز کا وقت ہو جائے اور آدمی کے ساتھ صرف ایک ہی شخص ہو

3887 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْإِمَامِ يَحْضُرُهُ الصَّلَاةُ، وَلَيْسَ

مَعَهُ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ قَالَ: يُقِيمُهُ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِذَا جَاءَ ثَالِثٌ تَأَخَّرَ وَقَامَا خَلْفَهُ

* * * حسن بصری ایسے امام کے بارے میں فرماتے ہیں: جس کو نماز کا وقت ہو جائے اور اُس کے ساتھ صرف ایک ہی شخص ہو تو حسن بصری فرماتے ہیں: وہ اُس شخص کو اپنے دائیں طرف کھڑے کر لے گا، جب تیسرا شخص آئے گا تو مقتدی پیچھے ہٹ جائے گا اور وہ دونوں مقتدی امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔

3888 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ

قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي الْهَاجِرَةِ تَطَوُّعًا، فَأَقَامَنِي حِدْوَهُ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ يَرْفَأُ مَوْلَاهُ، فَتَأَخَّرْتُ الصُّفُوفَ، فَصَفَّفْنَا خَلْفَ عُمَرَ

* * * عبید اللہ بن عبد اللہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا وہ اُس وقت دن چڑھے نوافل ادا کر رہا تھا، انہوں نے مجھے اپنے دائیں طرف کے مد مقابل کھڑا کر لیا، وہ اسی حالت میں رہے یہاں تک کہ اُن کا غلام ”یرفا“ اندر آیا تو میں پیچھے ہٹ گیا اور ہم دونوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے صف بنالی۔

3889 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ

عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ، دَخَلَ عَلَى عُمَرَ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ، فَقَامَ إِلَيَّ يَسَارِهِ، فَأَخَّرَهُ عُمَرَ إِلَى يَمِينِهِ، فَجَاءَ يَرْفَأُ مَوْلَى عُمَرَ، فَتَأَخَّرْتُ مَعَهُ، فَصَلَّيْتُ أَنَا وَيَرْفَأُ وَرَاءَهُ

* * * عبید اللہ بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں: اُن کے والد عبد اللہ بن عتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہیں نفل نماز ادا کرتے ہوئے پایا، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بائیں طرف کھڑے ہوئے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں پیچھے سے دائیں طرف کھڑا کر دیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غلام ”یرفا“ آ گیا، تو عبد اللہ بن عتبہ پیچھے ہٹ گئے اور میں اور ”یرفا“ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔

3890 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

وَلَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرُ الْإِمَامِ وَرَجُلٌ، قَامَ خَلْفَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّكْعَةِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ وَالْأُتَى تَقَدَّمَ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ سَفِيَانٌ

*** ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: جب نماز کھڑی ہو جائے اور مسجد میں امام اور ایک شخص کے علاوہ اور کوئی نہ ہو تو وہ شخص پہلے رکوع میں جانے تک امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، اگر کوئی شخص آ گیا تو ٹھیک ہے ورنہ وہ آگے ہو کر امام کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے گا۔

امام شععی بیان کرتے ہیں: وہ ایک شخص امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا۔

(امام عبدالرزاق فرماتے ہیں:) امام شععی کا قول سفیان ثوری کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔

3891 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ مَغِيرَةَ، عَنِ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُنْتُ اَقُومُ خَلْفَ الْاَسْوَدِ

حَتَّى يَنْزِلَ الْمُؤَذِّنُ

*** ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: میں اسود کے پیچھے کھڑا ہوتا تھا یہاں تک کہ مؤذن آجاتا تھا۔

3892 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ

*** حسن بصری فرماتے ہیں: متقدی امام کے دائیں طرف کھڑا ہوگا۔

3893 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: مَنْ أَمَّ قَوْمًا، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ لَمْ تُجَاوِزْ صَلَاتُهُ تَرْقُوتَهُ

*** حسن بصری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”جو شخص لوگوں کی امامت کرے اور وہ لوگ اُسے ناپسند کرتے ہوں، اُس شخص کی نماز اُس کے حلق سے آگے نہیں

جاتی۔“

3894 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَاسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ اِبْرَاهِيمَ

قَالَ: كُنْتُ اَقُومُ خَلْفَ عَلْقَمَةَ حَتَّى يَنْزِلَ الْمُؤَذِّنُ

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: میں علقمہ کے پیچھے کھڑا ہو جاتا تھا یہاں تک کہ مؤذن نیچے آجاتا تھا۔

3895 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ اِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَمَّ قَوْمًا، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ لَمْ تُجَاوِزْ صَلَاتُهُ تَرْقُوتَهُ

*** حسن بصری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”جو شخص لوگوں کی امامت کرے اور وہ لوگ اُسے ناپسند کرتے ہوں، تو اُس شخص کی نماز اُس کے حلق سے آگے نہیں

جاتی۔“

3896 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مِثْلَهُ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ نبی اکرم ﷺ سے منقول ہے۔

3897 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، أَوْ غَيْرِهِ: أَنَّ شُرَيْحًا، كَانَ يَوْمَ قَوْمِهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ حُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ مَا كَانَ، فَإِنَّهُمْ اتَّهَمُوا شُرَيْحًا فِي أَمْرِهِ، فَلَمَّا تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمْ قَالُوا: تَأَخَّرُ، فَقَالَ: أَكُلُّكُمْ عَلَى هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَاسْتَأْخَرَ شُرَيْحٌ

* * * امام عبدالرزاق نے اسماعیل یا شاید کسی اور کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: قاضی شریح اپنی قوم کی امامت کرتے تھے جب حجر بن عدی کا معاملہ پیش آیا تو ان کی قوم کے افراد نے حجر بن عدی کے معاملہ میں قاضی شریح پر الزام عائد کیا۔ ایک مرتبہ جب وہ ان لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو ان لوگوں نے کہا: آپ پیچھے ہٹ جائیں! قاضی شریح نے دریافت کیا: کیا تم سب لوگ اس بات کے قائل ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! تو قاضی شریح پیچھے ہٹ گئے۔

بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الطَّاقِ

باب: امام کا طاق (یعنی محراب) میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا

3898 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُصَلِّي فِي طَاقِ الْإِمَامِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَرَأَيْتُ مَعْمَرًا إِذَا أَمَّنَا يُصَلِّي فِي طَاقِ الْإِمَامِ * * * حبيب بن الوعمرة بیان کرتے ہیں: میں نے سعید بن جبیر کو امام کی طاق (محراب) میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے معمر کو دیکھا ہے کہ جب انہوں نے ہماری امامت کی تو امام کے طاق میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔

3899 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي طَاقِ الْإِمَامِ

* * * ابراہیم نخعی اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ امام کے طاق میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی جائے۔

3900 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ نَكْرَهُهُ

* * * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ ابراہیم نخعی سے منقول ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں: ہم اسے مکروہ قرار دیتے ہیں۔

3901 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ جَاءَ إِلَى ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ قَالَ: أَرَاهُ زَارَهُ قَالَ: فَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ، فَقَالَ ثَابِتٌ: تَقَدَّمَ يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ: أَنْتَ، فَأَنْتَ أَحَقُّ، قَالَ ثَابِتٌ: وَاللَّهِ لَا اتَّقَدَّمُكَ أَبَدًا قَالَ: فَتَقَدَّمَ الْحَسَنُ، وَاعْتَزَلَ الطَّاقَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ قَالَ ابْنُ التَّيْمِيِّ: وَرَأَيْتُ أَبِي،

3897 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، أَوْ غَيْرِهِ: أَنَّ شُرَيْحًا، كَانَ يَوْمَ قَوْمِهِ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ حُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ مَا كَانَ، فَإِنَّهُمْ اتَّهَمُوا شُرَيْحًا فِي أَمْرِهِ، فَلَمَّا تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمْ قَالُوا: تَأَخَّرُ، فَقَالَ: أَكُلُّكُمْ عَلَى هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَاسْتَأْخَرَ شُرَيْحٌ

* * * امام عبدالرزاق نے اسماعیل یا شاید کسی اور کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: قاضی شریح اپنی قوم کی امامت کرتے تھے جب حجر بن عدی کا معاملہ پیش آیا تو ان کی قوم کے افراد نے حجر بن عدی کے معاملہ میں قاضی شریح پر الزام عائد کیا۔ ایک مرتبہ جب وہ ان لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو ان لوگوں نے کہا: آپ پیچھے ہٹ جائیں! قاضی شریح نے دریافت کیا: کیا تم سب لوگ اس بات کے قائل ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! تو قاضی شریح پیچھے ہٹ گئے۔

بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ فِي الطَّاقِ

باب: امام کا طاق (یعنی محراب) میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا

3898 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُصَلِّي فِي طَاقِ الْإِمَامِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَرَأَيْتُ مَعْمَرًا إِذَا أَمَّنَا يُصَلِّي فِي طَاقِ الْإِمَامِ * * * حبيب بن الوعمرة بیان کرتے ہیں: میں نے سعید بن جبیر کو امام کی طاق (محراب) میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے معمر کو دیکھا ہے کہ جب انہوں نے ہماری امامت کی تو امام کے طاق میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔

3899 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي طَاقِ الْإِمَامِ

* * * ابراہیم نخعی اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ امام کے طاق میں کھڑے ہو کر نماز ادا کی جائے۔

3900 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ نَكْرَهُهُ

* * * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ ابراہیم نخعی سے منقول ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں: ہم اسے مکروہ قرار دیتے ہیں۔

3901 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ جَاءَ إِلَى ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ قَالَ: أَرَاهُ زَارَهُ قَالَ: فَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ، فَقَالَ ثَابِتٌ: تَقَدَّمَ يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ: أَنْتَ، فَأَنْتَ أَحَقُّ، قَالَ ثَابِتٌ: وَاللَّهِ لَا اتَّقَدَّمُكَ أَبَدًا قَالَ: فَتَقَدَّمَ الْحَسَنُ، وَاعْتَزَلَ الطَّاقَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ قَالَ ابْنُ التَّيْمِيِّ: وَرَأَيْتُ أَبِي،

وَلَيْثًا يَعْتَزِلَانِهِ

*** تیمی کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے حسن بصری کو دیکھا کہ وہ ثابت بنانی کے پاس آئے میرا خیال ہے کہ وہ اُن سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا تو ثابت نے کہا: اے ابوسعید! آپ آگے ہوں! تو حسن بصری نے کہا: آپ آگے ہوں کیونکہ آپ زیادہ حقدار ہیں تو ثابت نے کہا: اللہ کی قسم! میں آپ سے آگے کبھی نہیں جاؤں گا، تو حسن بصری آگے بڑھ گئے اور وہ طاق میں کھڑے نہیں ہوئے بلکہ اُس سے الگ کھڑے ہو کر انہوں نے نماز پڑھائی۔

تیمی کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے والد اور لیث کو دیکھا ہے کہ وہ طاق سے ہٹ کر نماز ادا کرتے تھے۔
3902 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ لَيْثِ قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاهِمٍ يَقُولُ:
 اَوَّلُ شِرْكَ كَانَتْ فِي هَذِهِ الضَّلَالَةِ هَذِهِ المَحَارِبِ

*** ضحاک بن مزاحم بیان کرتے ہیں: سب سے پہلا شرک جو اس گمراہی میں ہوا ہے وہ یہ محرابیں ہیں۔
3903 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْأَشْجَعِيِّ، عَنِ كَعْبِ قَالَ: يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُنْقِصُ أَعْمَارَهُمْ، وَيَزَيِّنُونَ مَسَاجِدَهُمْ، وَيَتَّخِذُونَ بِهَا مَذَابِحَ كَمَذَابِحِ النَّصَارَى، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ صَبَّ عَلَيْهِمُ الْبَلَاءُ
 *** کعب فرماتے ہیں: آخری زمانہ میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی عمریں کم ہوں گی وہ اپنی مساجد کو آراستہ کریں گے اور وہ عیسائیوں کے (گر جاگھر کی) قربان گاہ کی طرح قربان گاہ بنائیں گے جب وہ لوگ ایسا کریں گے تو ایسے لوگوں پر آزمائش کو اٹھیل دیا جائے گا۔

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الدُّكَّانِ

باب: چبوترے پر نماز ادا کرنا

3904 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ حَمَّادٍ، عَنِ مُجَاهِدٍ قَالَ: رَأَى سُلَيْمَانَ حُدَيْفَةَ يَوْمَهُمْ عَلَى دُكَّانٍ مِنْ جِصٍّ، فَقَالَ: تَأَخَّرُ، فَإِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَلَا تَرْفَعُ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: صَدَقْتَ
 *** مجاہد بیان کرتے ہیں: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو گچ کے بنے ہوئے چبوترے پر لوگوں کی امامت کرتے ہوئے دیکھا تو کہا: آپ پیچھے ہٹ جائیں! آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرح ایک فرد ہیں اس لیے دوسرے لوگوں کے مقابلہ میں خود کو بلند نہ کریں۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ نے ٹھیک کہا ہے۔

3905 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ مُجَاهِدٍ - أَوْ غَيْرِهِ، شَكَ أَبُو بَكْرٍ - أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، أَوْ قَالَ: أَبَا مَسْعُودٍ - أَنَا أَشْكُ - وَسُلَيْمَانَ، وَحُدَيْفَةَ صَلَّى بِهِمْ أَحَدُهُمْ، فَذَهَبَ يُصَلِّي عَلَى دُكَّانٍ،

فَجَبَدَهُ صَاحِبَاهُ، وَقَالَ: أَنْزَلَ عَنْهُ

* * * مجاہد یا شاید کوئی اور صاحب بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ میں) حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے اور حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ نے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے نماز ادا کی ان میں سے کسی ایک صاحب نے لوگوں کو نماز پڑھائی وہ صاحب چبوترے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھانے لگے تو ان کے دونوں ساتھیوں نے انہیں کھینچ لیا اور کہا: آپ اس سے نیچے آ جائیں۔

3906 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُرَيْبِ بْنِ شَرْحَبِيلٍ قَالَ: جَاءَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى مَسْجِدِنَا، فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقِيلَ لَهُ: تَقَدَّمَ، فَقَالَ: لِيَوْمَكُمْ إِمَامُكُمْ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ هَاهُنَا قَالَ: فَلْيَتَقَدَّمْ رَجُلٌ مِنْكُمْ، فَتَقَدَّمَ، فَأَرَادَ أَنْ يَقُومَ عَلَى شِبْهِ دُكَّانٍ، فَنَهَاهُ عَبْدُ اللَّهِ

* * * ہذیل بن شریبیل بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہماری مسجد میں ہمارے پاس تشریف لائے نماز کھڑی ہوئی ان سے کہا گیا: آگے بڑھئے! تو انہوں نے کہا: تمہارا امام ہی تم لوگوں کی امامت کرے۔ ان سے کہا گیا: یہاں کوئی باقاعدہ امام نہیں ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم میں سے کوئی ایک شخص آگے ہو جائے۔ ان میں سے ایک شخص آگے ہوا وہ ایک چبوترے کی مانند اونچی جگہ پر کھڑا ہونے لگا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے ایسا کرنے سے منع کر دیا۔

بَابُ الصَّلَاةِ فِي الْمَقْصُورَةِ

باب: مقصورہ (الگ سے بنائے ہوئے حجرے) میں نماز ادا کرنا

3907 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ مَعَ مُعَاوِيَةَ

* * * حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام کریم بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقصورہ میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔

3908 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْهَدَلِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمَقْصُورَةِ

* * * عبداللہ بن یزید ہذلی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ مقصورہ میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔

3909 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَنَسًا، وَالْحَسَنَ يُصَلِّيَانِ فِي الْمَقْصُورَةِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَرَأَيْتُ أَنَا مَعْمَرًا يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ

*** معمر بیان کرتے ہیں: مجھے اُس شخص نے یہ بات بتائی ہے جس نے حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حسن بصری کو مقصورہ میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

امام عبد الرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے معمر کو مقصورہ میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

3910 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ فِي الْمَقْصُورَةِ يُصَلِّي

غَيْرَ مَرَّةٍ، يَخْفِقُ بِرَأْسِهِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي، وَلَا يَتَوَضَّأُ

*** تیمی کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے کئی مرتبہ حسن بصری کو مقصورہ میں نماز ادا کرتے

ہوئے دیکھا، وہ اپنا سر جھکاتے تھے اور پھر کھڑے ہو جاتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے اور از سر نو وضو نہیں کرتے تھے (یعنی بیٹھے ہوئے سو جانے کی صورت میں وضو نہیں کرتے تھے)۔

3911 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصِيفِ الدِّيَاكِ قَالَ: سِئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمَقْصُورَةِ،

فَقَالَ: إِنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَنُوهُمْ

*** خصیف ذیاک بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مقصورہ کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو انہوں

نے کہا: حکمرانوں نے یہ اس لیے بنائے ہیں، کیونکہ انہیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں کوئی اُن پر حملہ نہ کر دے۔

3912 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ قَتَادَةَ، أَنَّ الْأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ، كَانَ لَا يُصَلِّي فِي

الْمَقْصُورَةِ، وَيَقُولُ: هِيَ حِمِّي، وَكَانَ لَا يَنَامُ فِي السَّرَادِقِ، وَيَقُولُ: لَمْ يُذْكَرِ السَّرَادِقُ إِلَّا لِأَهْلِ النَّارِ

*** احنف بن قیس، مقصورہ میں نماز ادا نہیں کرتے تھے وہ یہ فرماتے تھے: یہ پابندی والی جگہ ہے اور وہ شامیانے میں

نہیں سوتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ شامیانے کا ذکر صرف اہل جہنم کے لیے ہوا ہے۔

3913 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ رَجُلٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنِ حَمَّادٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَانَ

يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَقْصُورَةِ قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ: الصَّفُّ الْأَوَّلُ الَّذِي يَلِي الْمَقْصُورَةَ

*** حماد نے ابراہیم نخعی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: وہ مقصورہ میں نماز ادا کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ راوی بیان

کرتے ہیں: حماد یہ فرماتے ہیں کہ پہلی صف وہ ہوگی جو مقصورہ کے ساتھ موجود ہوگی۔

بَابُ لَا يَتَطَوَّعُ إِنْسَانٌ حَيْثُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ

باب: آدمی نے جہاں فرض نماز ادا کی ہو وہاں نوافل ادا نہ کرے

3914 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى

الْمَكْتُوبَةَ، ثُمَّ بَدَأَ لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ فَلْيَتَكَلَّمْ، أَوْ فَلْيَمْسِ، وَلْيُصَلِّ أَمَامَ ذَلِكَ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " إِنِّي لَأَقُولُ

لِلْجَارِيَةِ: انْظُرِي كَمْ ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ؟ مَا بِي إِلَّا أَنْ أَفْصَلَ بَيْنَهُمَا "

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جو شخص فرض نماز ادا کر لے پھر اسے یہ مناسب لگے کہ وہ نوافل بھی ادا کرے تو اسے پہلے کوئی کلام کر لینا چاہیے یا چلنا چاہیے یا اس جگہ سے آگے ہو کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: میں تو اپنی کنیر سے کہتا ہوں کہ تم اس بات کا جائزہ لو کہ کتنی رات بیت گئی ہے حالانکہ میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ میں (فرض اور نوافل) ان دونوں کے درمیان فصل پیدا کر دوں۔

3915 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جریج، عن عطاء قال: أخبرني من رأى ابن عمر، وصلى رجلاً المكتوبة ثم قام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة يتطوع فيه، فدفعه ابن عمر، فلما انصرف، قال له ابن عمر: هل تدري لم دفعتك؟ قال: لا، غير أني أرى أنك لم تدفعني إلا لخير قال: أجل، من أجل أنك لم تتكلم منذ انصرفت من المكتوبة، ولم تصل أمامك

*** عطاء بیان کرتے ہیں: مجھے اس شخص نے یہ بات بتائی ہے جس نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ ایک شخص نے فرض نماز ادا کی پھر اس نے جس جگہ فرض نماز ادا کی تھی پھر وہ اسی جگہ کھڑا ہو کر نوافل ادا کرنے لگا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے پرے کر دیا جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس سے دریافت کیا: کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں پرے کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا: جی نہیں! تاہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے کسی بھلائی کی وجہ سے ہی پرے کیا ہوگا انہوں نے فرمایا: جی ہاں! اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تھے تو تم نے کوئی کلام نہیں کیا تھا اور تم نے ذرا آگے ہو کر نماز نہیں پڑھی تھی (یعنی اسی جگہ پڑھنے لگے تھے)۔

3916 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جریج قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار، عن السائب بن يزيد أخبره قال: صليت الجمعة مع معاوية في المقصورة، فلما سلم فمضت مقامي فصليت، فلما دخل أرسل إلي، فقال: لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها حتى تكلم أو تخرج، فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك

*** سائب بن یزید بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں مقصورہ میں جمعہ کی نماز ادا کی جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو کر نماز ادا کرنے لگا جب میں اندر داخل ہوا تو انہوں نے مجھے پیغام دے کر بلوایا اور بولے: تم نے جو کیا ہے اسے دوبارہ نہ کرنا جب تم جمعہ کی نماز ادا کر لو تو نوافل اس وقت تک ادا نہ کرنا جب تک کوئی کلام نہیں کر لیتے یا باہر نہیں نکل جاتے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے۔

3917 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن ميسرة بن حبيب النهدي، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي بن أبي طالب قال: لا يصلح للإمام أن يصلّي في المكان الذي أم فيه القوم حتى يتحول أو يفصل بكلام

*** حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: امام کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اسی جگہ پر کھڑا ہو کر نماز ادا

کرے جہاں اُس نے لوگوں کی امامت کی تھی اُسے اُس جگہ سے منتقل ہو جانا چاہیے یا کلام کر کے فصل پیدا کر دینی چاہیے۔

3918 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْمَكْتُوبَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَلْيَتَقَدَّمْ قَلِيلًا، أَوْ يَتَأَخَّرْ قَلِيلًا، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ

* * حضرت عبدالرحمن بن سابط رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”جب کوئی شخص فرض نماز ادا کرے اور پھر اُس کا کچھ نوافل ادا کرنے کا ارادہ ہو تو وہ کچھ آگے ہو جائے یا کچھ پیچھے ہو جائے یا دائیں ہو جائے یا بائیں ہو جائے۔“

3919 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يُصَلِّي الْإِمَامُ التَّطَوُّعَ حَيْثُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ

* * منصور نقل کرتے ہیں: ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: امام نے جہاں فرض نماز ادا کی ہے وہ وہاں نوافل ادا نہ کرے۔

3920 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِذَا انْصَرَفُوا تَأَخَّرُوا لِيُصَلُّوا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، فَقَالَ: كَانُوا يَتَقَدَّمُونَ وَلَا يَتَأَخَّرُونَ * * ایوب نے ابو قلابہ کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے: انہوں نے کچھ لوگوں کو مسجد میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا جب نماز ختم ہوئی تو وہ لوگ پیچھے ہٹے تاکہ فرض کے بعد نماز ادا کریں تو ابو قلابہ نے کہا: پہلے لوگ نہ تو آگے ہوتے تھے اور نہ ہی پیچھے ہوتے تھے۔

3921 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: ذَكَرْتُ لِابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مَكَانِهِ تَطَوُّعًا، فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: لَا أَرَاكَ تُصَلِّي مَكَانَكَ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّمَا كَرِهَ ذَلِكَ لِلْإِمَامِ

* * قتادہ بیان کرتے ہیں: میں نے سعید بن مسیب کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو جمعہ کے دن اسی جگہ پر نوافل ادا کرتے ہوئے دیکھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اُسے اس سے منع کیا اور کہا: میں تمہیں نہ دیکھوں کہ تم نے اپنے پہلی والی جگہ پر ہی نماز ادا کی ہے۔

سعید بن مسیب کہتے ہیں: انہوں نے امام کے لیے یہ بات مکروہ قرار دی ہے۔

3922 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَوْمَهُمْ، ثُمَّ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانِهِ قَالَ: وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ سَبَّحَ مَكَانَهُ

* * حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ لوگوں کی امامت کرتے تھے اور پھر اسی جگہ نوافل بھی ادا کر لیتے تھے۔

3923 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ سِئْلَهُ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ نافع کے حوالے سے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں منقول ہے۔

3924 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَيْخِ لَنَا، يُقَالُ لَهُ أَبُو بَحْرٍ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ قَالَ: جَاءَنَا

عَبْدُ اللَّهِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نُقَدِّمَهُ، فَقَالَ: يَتَقَدَّمُ بَعْضُكُمْ، وَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ ائْتِطَوَّعُ مَكَانَهُ؟
فَقَالَ: نَعَمْ

*** سفیان ثوری اپنے ایک بزرگ ابو بحر کے حوالے سے اُن کے ایک بزرگ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت

عبد اللہ رضی اللہ عنہ ہمارے ہاں تشریف لائے ہم نے انہیں (امامت کے لیے) آگے کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے فرمایا: تم میں سے کوئی ایک شخص آگے ہو جائے۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ جو فرض نماز ادا کر لیتا ہے تو کیا وہ اسی جگہ نوافل ادا کر سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

3925 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمْ يَرِ

بِذَلِكَ بَأْسًا

*** مسعر نے ایک شخص کے حوالے سے اُس کے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس میں کوئی

حرج نہیں سمجھتے تھے۔

3926 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قِيلَ لَطَاوُسٍ: ائْتَحَوْلُ

الرَّجُلُ إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ مِنْ مَكَانِهِ لِيَتَطَوَّعَ؟ فَقَالَ طَاوُسٌ: (تُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ)

*** ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: طاووس سے دریافت کیا گیا: جب آدمی فرض نماز ادا کر لے گا تو کیا نوافل ادا کرنے

کے لیے اپنی جگہ سے ہٹے گا؟ تو طاووس نے کہا:

”تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہو۔“

بَابُ الْإِمَامِ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ

باب: امام کا قرآن مجید کو دیکھ کر تلاوت کرنا

3927 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ

يَوْمَهُمْ، وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ، فَيَتَشَبَّهُونَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ

*** ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: پہلے لوگ اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ وہ قرآن مجید دیکھ کر تلاوت کرتے ہوئے لوگوں

کی امامت کریں وہ لوگ اس کو اہل کتاب کے عمل سے مشابہہ قرار دیتے تھے۔

3928 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّهُ كَرِهَهُ

*** منصور نے مجاہد کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ وہ اسے مکروہ قرار دیتے ہیں۔

3929 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ بْنِ حَبِيبٍ أَبُو سَعِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُهُ

يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَمَّ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ

*** عبد القدوس بن حبیب نے حسن بصری کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے وہ یہ فرماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں

ہے کہ آدمی رمضان کے مہینہ میں قرآن مجید کو دیکھ کر تلاوت کرتے ہوئے (تراویح کی نماز میں) لوگوں کی امامت کرے۔

3930 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ: كَانَتْ تَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ وَهِيَ

تُصَلِّي

*** تیمی کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نماز ادا کرنے کے دوران قرآن مجید کو

دیکھ کر تلاوت کرتی تھیں۔

3931 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُصَلِّي وَالْمُصْحَفُ

إِلَى جَنْبِهِ، فَإِذَا تَرَدَّدَ نَظَرَ فِيهِ

*** ایوب بیان کرتے ہیں: ابن سیرین نماز ادا کرتے تھے قرآن مجید ان کے پہلو میں رکھا ہوا ہوتا تھا جب انہیں کوئی

مشابہہ لگتا تھا تو وہ قرآن مجید میں دیکھ لیتے تھے۔

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْجَمَاعَةَ

باب: جو شخص اپنے گھر میں نماز ادا کرتا ہے اور پھر وہ (مسجد میں) باجماعت نماز پالیتا ہے

3932 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ مَحْجَنٍ

الدَّنِيلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي بَيْتِي، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسْتُ

عِنْدَهُ، فَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أُصَلِّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: أَلَسْتَ بِمُسْلِمٍ؟

قُلْتُ: بَلَى قَالَ: فَمَا لَكَ لَمْ تُصَلِّ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي صَلَّيْتُ فِي بَيْتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا

أَقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، وَلَوْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ

*** ابن ماجہ نے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے ظہر اور عصر کی نماز میں اپنے گھر میں ادا کر لیں پھر میں نبی

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے پاس بیٹھ گیا نماز کے لیے اقامت کہی گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کر لی میں

نے نماز ادا نہیں کی جب آپ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ نے دریافت کیا: کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ میں نے عرض کی: جی ہاں!

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا وجہ ہے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ میں نے عرض کی: میں نے اپنے گھر میں نماز ادا کر لی تھی نبی

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب نماز قائم ہو تو تم نماز ادا کر لو خواہ تم پہلے نماز ادا کر چکے ہو۔

3933 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمْتُهُ فِي حَاجَةٍ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَنَا جَالِسٌ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَوَجَدَنِي جَالِسًا، فَقَالَ لِي: مَا أَنْتَ بِمُسْلِمٍ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي صَلَّيْتُ فِي رَحْلِي قَالَ: وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فِي رَحْلِكَ

*** بسر بن محجن اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نبی اکرم ﷺ کی حاضر ہوا اور کسی ضرورت کے سلسلہ میں آپ سے بات چیت کی پھر نماز کھڑی ہوئی تو میں بیٹھا رہا، نبی اکرم ﷺ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، جب آپ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے اور آپ نے مجھے بیٹھے ہوئے پایا تو آپ نے مجھ سے دریافت کیا: کیا تم مسلمان نہیں ہو! میں نے عرض کی: جی ہاں! یا رسول اللہ! نبی اکرم ﷺ نے دریافت کیا: پھر تم نے ہمارے ساتھ نماز ادا کیوں نہیں کی؟ میں نے عرض کی: میں اپنی رہائشی جگہ پر نماز ادا کر چکا ہوں، نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگرچہ تم اپنی رہائشی جگہ پر نماز ادا کر چکے تھے (پھر بھی تم نے ہمارے ساتھ نماز ادا کرنی تھی)۔

3934 - حدیث نبوی: عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَسْوَدِ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، فَانْحَرَفَ فَرَأَى رَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، فَدَعَا بِهِمَا، فَجِئَا بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَأَيْتُهُمَا، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ؟ قَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّيْنَا فِي الرَّحَالِ قَالَ: فَلَا تَفْعَلَا، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ، ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ، فَلْيُصَلِّهِمَا مَعَهُ. فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ

*** جابر بن یزید بن اسود خزاعی اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: ہم نے نبی اکرم ﷺ کی اقتداء میں فجر کی نماز ادا کی: جب نبی اکرم ﷺ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ نے لوگوں کے پیچھے دو آدمیوں کو دیکھا (جنہوں نے باجماعت نماز میں حصہ نہیں لیا تھا) نبی اکرم ﷺ نے ان دونوں کو بلوایا، ان دونوں کو لایا گیا تو ان کے اعضاء کانپ رہے تھے (یعنی وہ شدید خوفزدہ تھے) نبی اکرم ﷺ نے دریافت کیا: تم دونوں نے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کیوں نہیں کی؟ ان دونوں نے عرض کی: یا رسول اللہ!

3933- موطا مالک - کتاب صلاة الجماعة، باب إعادة الصلاة مع الإمام - حدیث: 299، المستدرک علی الصحیحین للحاکم - ومن کتاب الإمامة - اما حدیث عبد الرحمن بن مهدی - حدیث: 838، صحیح ابن حبان - باب الإمامة والجماعة، باب الحدث فی الصلاة - ذکر الامر لمن صلی فی بیته او رحله - حدیث: 2436، السنن للنسائی - کتاب الإمامة، إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه - حدیث: 852، سنن الدارقطنی - کتاب الصلاة، باب تکرار الصلاة - حدیث: 1338، السنن الکبریٰ للبیہقی - کتاب الصلاة، جماع ابواب ما يجوز من العمل فی الصلاة - باب الرجل یصلی وحده ثم یدرکها مع الإمام، حدیث: 3391، مسند احمد بن حنبل - مسند المدنیین، حدیث محجن الدیلی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم - حدیث: 16099، مسند الشافعی - ومن کتاب اختلاف مالک والشافعی رضی اللہ عنہما - حدیث: 965، المعجم الکبیر للطبرانی - بقية البیوم، من اسبه محجن - محجن ابو بسر الدیلی، حدیث: 17487

ہم اپنی رہائشی جگہ پر نماز ادا کر چکے تھے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم لوگ ایسا نہ کرو! جب کوئی شخص اپنی رہائشی جگہ پر نماز ادا کر چکا ہو اور پھر وہ امام کے ساتھ بھی نماز کو پائے تو وہ امام کے ساتھ بھی نماز ادا کرے یہ اس کے لیے نفل نماز ہو جائے گی۔

3935 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ صَلَّةِ بْنِ زُفَرٍ الْعَبْسِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ، فَمَرَّ بِمَسْجِدٍ، فَصَلَّى مَعَهُمُ الْمَغْرِبَ وَشَفَعَ بِرَكْعَةٍ، وَقَدْ كَانَ صَلَّى

*** صلہ بن زفر عبسی بیان کرتے ہیں: میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکلا اُن کا گزر مسجد کے پاس سے ہوا تو انہوں نے لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی حالانکہ وہ نماز ادا کر چکے تھے پھر اُن کا گزر مسجد کے پاس سے ہوا تو انہوں نے لوگوں کو عصر کی نماز پڑھائی حالانکہ وہ نماز ادا کر چکے تھے پھر اُن کا گزر مسجد کے پاس سے ہوا تو انہوں نے لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھائی اور ایک رکعت ادا کر کے نماز کو جفت کیا حالانکہ وہ پہلے یہ نماز ادا کر چکے تھے۔

3936 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ أَدْرَكْتُهَا مَعَ النَّاسِ، فَإِنِّي أَجْعَلُ الَّذِي صَلَّيْتُ فِي بَيْتِي نَافِلَةً، وَأَجْعَلُ صَلَاتِي مَعَ الْإِمَامِ الْمَكْتُوبَةَ، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ لَمْ تُدْرِكْ إِلَّا رَكْعَةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: وَكَذَلِكَ أَيْضًا

*** عطاء فرماتے ہیں: جب میں فرض نماز ادا کر چکا ہوں اور پھر اُس نماز کو لوگوں کے ساتھ پاؤں تو جو نماز میں نے اپنے گھر میں ادا کی تھی اُسے میں نفل قرار دوں گا اور امام کے ساتھ ادا کی جانے والی اپنی نماز کو فرض قرار دوں گا۔ (ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر آپ کو ایک رکعت ملتی ہے؟ انہوں نے فرمایا: اس صورت میں بھی میں یہی سمجھوں گا۔

3937 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَصْرِ أَيْعِيدُهَا إِذَا جَاءَ الْجَمَاعَةُ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: صَلَّى مَعَ الْقَوْمِ، فَإِنَّ صَلَاتَكَ مَعَهُمْ تَفْضُلُ صَلَاتِكَ وَحَدَاكَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً، أَوْ بَعْضًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً

*** معمر قتادہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں: میں نے اُن سے عصر کے بارے میں دریافت کیا کہ اگر آدمی باجماعت نماز میں شریک ہو تو کیا اس نماز کو بھی دوبارہ ادا کرے گا؟ معمر بیان کرتے ہیں: سعید بن مسیب نے یہ کہا ہے کہ ایسی صورت میں تم لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرو کیونکہ تمہارا لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرنا تمہارے اکیلے نماز ادا کرنے سے چوبیس گنا یا بیس گنا سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

3938 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: صَلَّيْتُ فِي بَيْتِي، ثُمَّ جِئْتُ فَوَجَدْتُ النَّاسَ يُصَلُّونَ، فَأَيُّهُمَا أَجْعَلُ صَلَاتِي؟ قَالَ: وَذَلِكَ إِلَيْكَ؟ إِنَّمَا ذَلِكَ إِلَى اللَّهِ

*** یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے سعید بن مسیب سے سوال کیا اُس نے کہا: میں اپنے گھر میں نماز ادا

کر لیتا ہوں پھر میں آتا ہوں اور لوگوں کو نماز ادا کرتے ہوئے پاتا ہوں تو ان دونوں میں سے کس کو میں اپنی (فرض) نماز قرار دوں گا؟ انہوں نے جواب دیا: کیا یہ معاملہ تمہارے اختیار میں ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوگا۔

3939 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فِي أَهْلِكَ، ثُمَّ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْإِمَامِ، فَصَلِّ مَعَهُ، غَيْرَ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا صَلَاةُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّهُمَا لَا تُصَلِّيَانِ مَرَّتَيْنِ

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اگر تم اپنے گھر میں نماز ادا کر چکے ہو اور پھر مسجد میں بھی امام کے ساتھ نماز کو پاؤ تو اس کے ساتھ بھی نماز ادا کر لو البتہ فجر اور مغرب کی نماز کا معاملہ مختلف ہے۔ مغرب کی وہ نماز جسے عشاء کہا جاتا ہے کیونکہ یہ دونوں نمازیں دو مرتبہ ادا نہیں کی جاتیں۔

3940 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ إِذَا صَلَّى فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَوَجَدَ الْإِمَامَ يُصَلِّي صَلَّى مَعَهُ، إِلَّا الصُّبْحَ وَالْمَغْرِبَ

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب گھر میں نماز ادا کر لیتے اور پھر گھر سے باہر جا کر امام کو نماز ادا کرتے ہوئے پاتے تو اس کے ساتھ نماز ادا کر لیتے تھے البتہ فجر یا مغرب کی نماز ادا نہیں کرتے تھے۔

3941 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ أَبِي قَلَابَةَ: أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْمَغْرِبَ فِي جَمَاعَةٍ

*** ایوب نے ابو قلابہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ وہ اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ جماعت کے ساتھ مغرب کی نماز کو دوبارہ ادا کیا جائے۔

3942 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَعَدَّ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا غَيْرَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ، وَيَقُولُ: صَلَاتُكَ الْأُولَى مِنْهُمَا

*** حسن بصری فرماتے ہیں: تم تمام نمازیں دوبارہ ادا کر لو گے صرف عصر اور فجر کا حکم مختلف ہے۔ وہ یہ فرماتے تھے: ان دونوں نمازوں میں پہلی ادا کی جانے والی تمہاری نماز شمار ہوگی۔

3943 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ عَطَاءٍ، سُئِلَ عَنِ الْمَغْرِبِ يُصَلِّيَهَا الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ يَجِدُ النَّاسَ فِيهَا؟ قَالَ: اشْفَعِ الَّذِي صَلَّيْتَ فِي بَيْتِكَ بِرُكْعَةٍ، ثُمَّ سَلِّمْ، وَالْحَقُّ بِالنَّاسِ، وَاجْعَلِ الَّتِي هُمْ فِيهَا الْمَكْتُوبَةَ

*** ابن جریج عطاء کے بارے میں نقل کرتے ہیں: ان سے مغرب کی نماز کے بارے میں دریافت کیا گیا جسے آدمی اپنے گھر میں ادا کر لیتا ہے اور پھر لوگوں کو مغرب کی نماز ادا کرتے ہوئے پاتا ہے تو انہوں نے فرمایا: تم نے اپنے گھر میں جو نماز ادا کی تھی ایک رکعت کے ذریعہ اسے جفت کر لو پھر سلام پھیرو اور پھر لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور ان لوگوں کے ساتھ ادا کی جانے

والی نماز کو فرض قرار دو۔

3944 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ، فَذَهَبْتُ أَشْفَعُ، فَلَمْ أَفْرُغْ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ، وَرَفَعَ مِنْ آخِرِ رَكْعَةٍ قَالَ: لَا تُعَدُّ وَلَكِنْ أَوْتَرُ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں نے عشاء کی نماز ادا کر لی پھر میں نے وتر بھی ادا کر لیے پھر میں مسجد میں داخل ہوا تو امام آخری رکعت میں تھا میں گیا اور میں نے نماز کو جفت کرنا چاہا (جو میں نے وتر ادا کیے تھے) لیکن میں ابھی فارغ نہیں ہوا تھا کہ امام رکوع میں چلا گیا اور اُس نے آخری رکعت کے رکوع سے سر اٹھا لیا تو انہوں نے فرمایا: تم نماز کو ڈھراؤ گے نہیں بلکہ تم وتر ادا کرو گے۔

3945 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي صَلَّيْتُ وَحْدِي رَكْعَةً ثُمَّ قَامُوا، فَأَخْشَى أَنْ لَا أَشْفَعَ رَكْعَتِي بِرَكْعَةِ حَتَّى يَقْرَعُوا، أَصَلِّي مَعَهُمْ؟ قَالَ: بَلِ اشْفَعَهَا بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَصَلَّ مَعَهُمْ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میں اکیلا ایک رکعت ادا کرتا ہوں پھر وہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اُن کے فارغ ہونے تک میں ایک رکعت کے ذریعہ اپنی نماز کو جفت نہیں کر سکوں گا تو کیا میں اُن لوگوں کے ساتھ نماز ادا کر لوں گا؟ انہوں نے فرمایا: جی نہیں! بلکہ تم ایک رکعت کے ذریعہ اپنی نماز کو جفت کرو گے اُس سے فارغ ہونے کے بعد اُن لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرو گے۔

3946 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكَ فَأَنَّ فِي صَلَاةٍ

*** ابن جریج نے عطاء کا یہ قول نقل کیا ہے: یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب تم اپنے گھر سے نکل آئے تو تم نماز کی حالت میں شمار ہوتے ہو۔

بَابُ السَّاعَةِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ

باب: وہ وقت جس میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے

3947 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ صَلَاةَ التَّطَوُّعِ تُكْرَهُ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَى أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، وَحِينَ يَحِينُ طُلُوعُ الشَّمْسِ، وَحِينَ يَحِينُ غُرُوبُهَا قَالَ: بَلَّغْنِي أَنَّهُ تَطَّلَعُ بَيْنَ قَرْنَيْ الشَّيْطَانِ، وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْهِ

*** عطاء بیان کرتے ہیں: میں نے یہ بات سنی ہے کہ نصف النہار کے وقت نفل نماز ادا کرنا مکروہ ہے یہاں تک کہ

سورج ڈھل جائے اور اُس وقت جب سورج نکل رہا ہو اور اُس وقت جب سورج غروب ہونے والا ہو۔ وہ بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے اور اُس کے دو سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔

3948 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ، أَنَّ أَبَا أَمَامَةَ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: نَبِيٌّ قَالَ: إِلَى مَنْ أُرْسِلْتَ؟ قَالَ: إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ قَالَ: أَيَّ حِينٍ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: مِنْ حِينٍ تُصَلِّي الصُّبْحَ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قَبْدَ رُوحٍ، وَمِنْ حِينٍ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ إِلَى غُرُوبِهَا قَالَ: فَأَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: شَطْرُ اللَّيْلِ الْآخِرِ، وَأَذْبَارُ الْمَكْتُوباتِ قَالَ: فَمَتَى غُرُوبُ الشَّمْسِ؟ قَالَ: مِنْ أَوَّلِ مَا تَصْفَرُّ الشَّمْسُ حِينَ تَدْخُلُهَا صُفْرَةٌ إِلَى حِينِ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: عبدالرحمن بن سابط نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: انہوں نے دریافت کیا: آپ کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نبی ہوں! انہوں نے دریافت کیا: آپ کو کن لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام سرخ اور سفید لوگوں کی طرف۔ انہوں نے دریافت کیا: کون سے وقت میں نماز ادا کرنا مکروہ ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب تم صبح کی نماز ادا کر لو اُس کے بعد سے لے کر سورج کے بلند ہونے تک جو ایک نیزے جتنا بلند ہو اور جب سورج زرد ہو جائے اُس وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: رات کے آخری نصف حصے میں کی جانے والی اور فرض نمازوں کے بعد کی جانے والی دعا۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: سورج کب غروب ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب سورج زرد ہوتا ہے تو جب اُس میں زردی داخل ہوتی ہے اُس کے ابتدائی وقت سے لے کر اُس وقت تک جب سورج باقاعدہ غروب ہو جاتا ہے۔

3949 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ مَنْصُورٍ، عَنِ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ رَجُلٍ، عَنِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ الْآخِرِ قَالَ: ثُمَّ الصَّلَاةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قَبْدَ رُوحٍ أَوْ رُوحِينَ، ثُمَّ لَا صَلَاةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

* * حضرت کعب بن مرہ بہری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! رات کے کون سے حصے (دعا) زیادہ سنی جاتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آخری نصف حصے میں۔ آپ نے فرمایا: اُس کے بعد نماز قبول ہوتی رہتی ہے (یعنی نوافل ادا کیے جاسکتے ہیں) یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے اُس کے بعد اُس وقت تک کوئی اور (نفل) نماز ادا نہیں کی جائے گی جب تک سورج ایک نیزے یا دو نیزے جتنا بلند نہیں ہو جاتا اُس کے بعد پھر کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا (یہاں روایت کے متن میں شاید کچھ الفاظ ساقط ہیں)۔

3950 - حدیث نبوی: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّنَابِحِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ - أَوْ قَالَ: تَطْلُعُ مَعَهَا قَرْنُ شَيْطَانٍ - فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارْقَهَا، فَإِذَا كَانَتْ فِي وَسْطِ السَّمَاءِ قَارَنَهَا، فَإِذَا دَلَّكَتْ - أَوْ قَالَ: زَالَتْ - فَارْقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَلَا تُصَلُّوا هَذِهِ الثَّلَاثَ سَاعَاتٍ"

*** حضرت ابو عبد اللہ صابحی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”بے شک سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) جب طلوع ہوتا ہے تو اُس کے ساتھ شیطان کا سینگ ہوتا ہے یہاں تک کہ جب وہ بلند ہو جاتا ہے تو وہ سینگ اُس سے الگ ہو جاتا ہے پھر جب وہ آسمان کے درمیان میں پہنچتا ہے تو وہ سینگ اُس کے ساتھ پھر مل جاتا ہے پھر جب سورج ڈھل جاتا ہے تو وہ سینگ اُس سے پھر علیحدہ ہو جاتا ہے جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو وہ سینگ پھر اُس سے پھر مل جاتا ہے تو تم ان تین اوقات میں نماز ادا نہ کرو۔“

3951 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا

*** حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”کوئی بھی شخص اہتمام کے ساتھ سورج طلوع ہونے کے وقت یا اُس کے غروب ہونے کے وقت نماز ادا نہ کرے۔“

3952 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَا تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَطْلُعُ قَرْنَاهُ مَعَ طُلُوعِهَا، وَيَغْرُبَانِ مَعَ غُرُوبِهَا قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ عَلَيْهِمَا الرَّجَالَ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَلَا غُرُوبَهَا فِي الصَّلَاةِ، فَنَحْنُ لَا نَتَحَرَّاهُ

3950-موطا مالك - كتاب القرآن' باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر - حديث: 513' سنن ابن ماجه -

كتاب إقامة الصلاة' باب ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة - حديث: 1249' السنن للنسائي - كتاب المواقيت

الساعات التي نهى عن الصلاة فيها - حديث: 559' السنن الكبرى للنسائي - مواقيت الصلوات' ذكر الساعات التي نهى عن

الصلاة فيها - حديث: 1525' مشكل الآثار للطحاوي - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه

حديث: 3345' السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة' جماع ابواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع - باب النهي

عن الصلاة في هاتين الساعتين' حديث: 4074' مسند احمد بن حنبل - اول مسند الكوفيين' حديث ابى عبد الله

الصنابحي - حديث: 18687' مسند الشافعي - من الجزء الثاني من اختلاف الحديث من الاصل العتيق' حديث: 749'

مسند ابى يعلى الموصلي - مسند عبد الله الصنابحي' حديث: 1420'

*** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں: تم سورج طلوع ہونے کے وقت یا غروب ہونے کے وقت کوشش کر کے نماز ادا نہ کرو کیونکہ اس کے طلوع ہونے کے ساتھ شیطان کے دو سینگ طلوع ہوتے ہیں اور اس کے غروب ہونے کے ساتھ وہ دونوں غروب ہوتے ہیں۔

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان اوقات میں نماز ادا کرنے والے لوگوں کی پٹائی کرتے تھے۔

طاؤس بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”نماز کی ادائیگی کے لیے سورج کے طلوع ہونے کے وقت یا سورج کے غروب ہونے کے وقت کا اہتمام نہ کرو۔“

راوی بیان کرتے ہیں: ہم تو اس چیز کی کوشش نہیں کرتے۔

3953 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابراهيم بن محمد، عن سمع يزيد بن ابي حبيب، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان هذه الصلاة التي فرضت على من كان قبلكم - يعني العصر - فضيعوها، فمن حفظها اليوم فله اجرها مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد، والشاهد النجم

*** يزيد بن ابو حبيب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”بے شک یہ نماز تم سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دی گئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد عصر کی نماز تھی تو ان لوگوں نے اسے ضائع کر دیا اب جو شخص اس کی حفاظت کرے گا اسے اس کا اجر دگنا ملے گا اور پھر اس کے بعد کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی جب تک شاہد دکھائی نہیں دیتا۔“

(راوی کہتے ہیں: شاہد سے مراد ستارہ ہے۔)

3954 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن حماد، عن ابراهيم قال: قال عبد الله: " ما أحب أن صلاة رجل حين تحمر الشمس - أو قال: تصفر - بفلسين حتى ترتفع قيد نخلة "

*** ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میری یہ خواہش نہیں ہے کہ جب سورج سرخ ہو یا زرد ہو (یہ شک راوی کو ہے) اس وقت کوئی شخص دو ٹکے کے عوض میں نماز پڑھ لے جب تک وہ ایک کھجور جتنا بلند نہیں ہو جاتا (یہاں شاید اصل متن میں کچھ الفاظ منقول نہیں ہیں)۔

3955 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، انها قالت: انظروا الى هؤلاء الذين تركوا الصلاة، حتى اذا كانت الساعة التي تكره الصلاة فيها قاموا يصلون قال: وذلك حين قام القاص بكرة، قال عطاء: اظن حين خان طلوع الشمس

*** سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: تم ان لوگوں کو دیکھو جو نماز ترک کر دیتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ وقت آتا ہے جس میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے تو اس وقت اٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں۔

راوی بیان کرتے ہیں: یہ وہ وقت ہے جب صبح کے وقت قصہ گو کھڑا ہوتا ہے۔ عطاء فرماتے ہیں: میرا خیال ہے اس سے مراد

وہ وقت ہے جب سورج نکلنے والا ہوتا ہے۔

3956 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ، وَتَحْرُمُ فِي سَاعَتَيْنِ قَالَ: تُكْرَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ قَيْدَ نَخْلَةٍ، وَنِصْفَ النَّهَارِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، وَتَحْرُمُ سَاعَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ حَتَّى يَسْتَوِيَ طُلُوعُهَا، وَحِينَ تَصْفَرُّ حَتَّى يَسْتَوِيَ غُرُوبُهَا، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ فِي قَرْنِ شَيْطَانٍ، وَتَطْلُعُ فِي قَرْنِ شَيْطَانٍ

*** ابن سیرین فرماتے ہیں: تین اوقات میں نماز ادا کرنا مکروہ ہے اور دو اوقات میں نماز ادا کرنا حرام ہے وہ یہ فرماتے ہیں: عصر کے بعد نماز پڑھنا مکروہ ہے فجر کی نماز کے بعد نماز پڑھنا مکروہ ہے جب تک وہ (سورج) ایک کھجور جتنا بلند نہیں ہو جاتا اور گرمی کی شدت میں نصف النہار کے وقت (نماز ادا کرنا مکروہ ہے) اور دو اوقات میں نماز ادا کرنا حرام ہے جب شیطان کا سینک طلوع ہوتا ہے جب تک وہ مکمل طور پر طلوع نہ ہو جائے اور جب سورج زرد ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر غروب نہ ہو جائے کیونکہ وہ شیطان کے سینک میں غروب ہوتا ہے اور شیطان کے سینک میں طلوع ہوتا ہے۔

3957 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ ابن سیرین سے منقول ہے۔

3958 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

*** حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

”عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے اور صبح کی نماز کے بعد کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔“

3959 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَاضٍ، وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ بُنْحَتٍ، كِلَاهُمَا، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَاضٍ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ، وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فِي فِتْيَةٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ يَعْيبُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ يَعْنِي بَنِي أُمِيَّةَ

*** حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابو القاسم رضی اللہ عنہ کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا

ہے:

”صبح کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی اور عصر کی نماز کے بعد رات آنے تک

(یعنی سورج غروب ہونے تک) کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی۔

اس پر عبد اللہ بن عیاض نامی راوی نے (حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے) کہا: حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ تو عصر کی نماز کے بعد بھی نماز ادا کرتے ہیں اور سورج کے نکلنے سے پہلے بھی نماز ادا کرتے ہیں؟ تو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا: حالانکہ وہ خود اس حوالے سے لوگوں پر اعتراضات کیا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں: یعنی بنو امیہ پر اعتراض کرتے تھے۔

3960 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ قَزَعَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلَقِينِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَهَانِي عَنْهُمَا، فَقَالَ: أَتْرُكُهُمَا لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ

*** قزعم بیان کرتے ہیں: میں نے عصر کے بعد دو رکعات ادا کیں، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی مجھ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے ان دونوں سے منع کیا تو قزعم نے کہ: کیا میں آپ کے لیے ان دونوں کو ترک کر دوں؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

3961 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي سَاعَتَيْنِ، بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اوقات میں نماز ادا کرنے سے منع کیا ہے عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک اور صبح کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک۔

3962 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ، فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ، فَقُلْتُ: فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ مَا أَمَرَ، وَنَحْنُ نَفْعَلُ مَا أَمَرْنَا

*** حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو عصر کے بعد دو رکعات ادا کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے دریافت کیا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات بتائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد دو رکعات ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: اُس نے (عبد اللہ بن زبیر نے) ٹھیک کہا ہے، میں نے کہا: میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

”عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے تک کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی اور فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک“

کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی۔“

تو نبی اکرم ﷺ نے جو حکم دیا ہے وہ اس کے حوالے سے کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہی کریں گے جو نبی اکرم ﷺ نے ہمیں حکم دیا ہے۔

3963 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ عَلَيْهَا رُؤُوسَ الْحِبَالِ يَعْنِي رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

*** حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات پر لوگوں کے سروں پر پٹائی کرتے ہوئے دیکھا، اُن کی مراد یہ تھی کہ عصر کے بعد دو رکعات ادا کرنے کی وجہ سے (اُن لوگوں کی پٹائی ہوتی تھی)۔

3964 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: ضَرَبَ عُمَرُ الْمُنْكَدِرَ إِذْ رَأَاهُ سَبَّحَ بَعْدَ الْعَصْرِ

*** سائب بن یزید بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب منکدر کو عصر کے بعد نوافل ادا کرتے ہوئے دیکھا تو اُس کی پٹائی کی۔

3965 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حَبِيشٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ

*** زر بن حبیش بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عصر کے بعد نماز ادا کرنے پر پٹائی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

3966 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو غَادِيَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الرَّكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ

*** ابو غادیہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عصر کے بعد دو رکعات ادا کرنے پر لوگوں کی پٹائی کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

3967 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، سَبَّحَ فِي سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ عُمَرُ، وَقَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ هَذَا

*** زہری بیان کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سفر کے دوران عصر کے بعد دو نوافل ادا کیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات پر اُن پر غصہ کا اظہار کیا اور بولے: اللہ کی قسم! آپ یہ بات جانتے ہیں (یا میں یہ بات جانتا ہوں) کہ نبی اکرم ﷺ نے اس سے منع کیا ہے۔

3968 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي يَوْمَ لَنْحَرٍ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ؟ قَالَ: لَا، وَلَا فِي غَيْرِ يَوْمِ النَّحْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَمَا أَنَا

فَإِنِّي أَصَلِي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ، وَأَمَّا أَنَا فَلَا أَنهَى أَحَدًا أَنْ يُصَلِّيَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا لَا يَتَحَرَّى طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: إِنَّهُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَلَا يَتَحَرَّى أَحَدٌ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا

*** ابن جریج نافع کے بارے میں نقل کرتے ہیں: میں نے ان سے دریافت کیا: کیا آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کو قربانی کے دن دن کے ابتدائی حصہ میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! قربانی کے دن کے علاوہ بھی نہیں دیکھا جب تک سورج بلند نہیں ہو جاتا۔ نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ فرماتے تھے: میں اسی طرح نماز ادا کرتا ہوں جس طرح میں اپنے ساتھیوں کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور میں کسی بھی شخص کو رات یا دن کے کسی بھی حصہ میں نماز ادا کرنے سے نہیں روکتا جبکہ وہ شخص اہتمام کے ساتھ سورج طلوع ہونے کے وقت یا غروب ہونے کے وقت نماز ادا نہ کر رہا ہو کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے تو کوئی بھی شخص سورج کے طلوع ہونے کے وقت یا اس کے غروب ہونے کے وقت نماز ادا نہ کرے۔“

3969 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ عَائِشَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ كَانَتَا تَرَكَعَانِ بَعْدَ

العصر

*** عطاء بیان کرتے ہیں: سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما عصر کی نماز کے بعد دو رکعات ادا کیا کرتی تھیں۔

3970 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ قَطُّ، إِلَّا مَرَّةً جَاءَهَا نَاسٌ بَعْدَ الظُّهْرِ فَشَغَلُوهُ فِي شَيْءٍ، وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الظُّهْرِ شَيْئًا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ قَالَتْ: فَلَمَّا صَلَّى الْعَصْرَ دَخَلَ بَيْتِي، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ

*** سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں وہ بیان کرتی ہیں: میں نے کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کے بعد نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا صرف ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ظہر کے بعد کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ کو مصروف رکھا جس کی وجہ سے آپ ظہر کے بعد نوافل ادا نہیں کر سکے یہاں تک کہ آپ نے عصر کی نماز ادا کر لی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز ادا کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعات ادا کیں۔

3971 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: قَدِمَ مُعَاوِيَةَ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: قُمْ يَا كَثِيرُ بِنِ الصَّلَاتِ إِلَى أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَاسْأَلْهَا عَنِ

الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَقُمْتُ مَعَهُ، وَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ، فَاتَيْنَا عَائِشَةَ فَقَالَتْ: لَا أَدْرِي، سَلُوا أُمَّ سَلَمَةَ، فَاتَيْنَا أُمَّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، لَمْ أَكُنْ أَرَاهُ يُصَلِّيهِمَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ؟ قَالَ: "قَدِمَ وَقَدْ مِنْ نَبِيِّ تَمِيمٍ - أَوْ قَالَ: قَدِمَتْ صَدَقَةٌ - وَكُنْتُ أَصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُهُمَا، فَهَمَّا هَاتَانِ"

*** ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا: اے کثیر بن صلت! تم ام المؤمنین کے پاس جاؤ اور ان سے عصر کے بعد کی دو رکعات کے بارے میں دریافت کرو۔ ابو سلمہ بیان کرتے ہیں: میں بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے عبد اللہ بن حارث کو بھی ساتھ بھیجا، ہم لوگ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا: مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے، تم لوگ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کرو۔ ہم لوگ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے بتایا: ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے تو آپ نے عصر کے بعد دو رکعات ادا کیں میں نے اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو رکعات ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! یہ دو رکعات کون سی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنو تمیم کا وفد آ گیا تھا (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) صدقہ آ گیا تھا تو جو رکعات میں ظہر کے بعد ادا کرتا تھا انہیں میں ادا نہیں کر سکا، تو یہ دونوں وہی تھیں۔

3972 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعْدٍ الْأَعْمَى، يُخْبِرُ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ السَّائِبُ مَوْلَى الْفَارِسِيِّينَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ رَأَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ خَلِيفَةُ رَكْعٍ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَمَشَى إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ بِالِدِرَّةِ وَهُوَ يُصَلِّي كَمَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ زَيْدٌ: اضْرِبْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَوَاللَّهِ لَا أَدْعُهُمَا أَبَدًا بَعْدَ إِذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا قَالَ: فَجَلَسَ إِلَيْهِ عُمَرُ، وَقَالَ: يَا زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، لَوْلَا أَنِّي أَخَشَى أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُلْمًا إِلَى الصَّلَاةِ حَتَّى اللَّيْلِ لَمْ أَضْرِبْ فِيهِمَا

*** حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو انہوں نے حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ کو عصر کے بعد دو رکعات ادا کرتے ہوئے دیکھا تو چلتے ہوئے ان کے پاس آئے اور ان کے نماز ادا کرنے کے دوران انہیں دڑھ مارا جب حضرت زید رضی اللہ عنہ نے نماز ختم کی تو انہوں نے کہا: اے امیر المؤمنین! آپ اور ماریے! لیکن میں نے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دو رکعات ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کے بعد میں ان دو رکعات کو کبھی ترک نہیں کروں گا۔ راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس بیٹھ گئے اور بولے: اے زید بن خالد! اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ سورج غروب ہونے تک مسلسل نوافل ادا کرنے کے بارے میں ان دو رکعات کو سیڑھی بنا لیں گے تو میں ان دونوں کو ادا کرنے کی وجہ سے (ان لوگوں کی) پٹائی نہ کرتا۔

3973 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَزْرَقِيُّ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ

عَبْدَ اللَّهِ بْنِ رَبَاحِ الْأَنْصَارِيِّ: يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي بَعْدَهَا، فَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَرْدَانَهُ - أَوْ بِثَوْبِهِ - وَقَالَ: اجْلِسْ فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِصَلَاتِهِمْ فَصَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ ابْنُ الْخَطَّابِ

*** عبد اللہ بن رباح انصاری نبی اکرم ﷺ کے اصحاب میں سے انصار سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے عصر کی نماز ادا کی اُس کے بعد ایک صاحب کھڑے ہوئے اور نماز ادا کرنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُس کی چادر یا شاید اُس کا کپڑا پکڑا اور بولے: بیٹھ جاؤ! تم سے پہلے اہل کتاب اسی وجہ سے ہلاکت کا شکار ہوئے کہ وہ اپنی نمازوں میں فصل نہیں کرتے تھے۔ تو نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: خطاب کے بیٹے نے ٹھیک کہا ہے۔

3974 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: صَلَّى مَا شِئْتُ إِلَى اللَّيْلِ قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ الرَّجُلَ يَرَاهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ

*** ابو حمزہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے عصر کے بعد نماز ادا کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: تم مغرب ہونے تک جتنی چاہو نمازیں ادا کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے کہ وہ جس شخص کو عصر کے بعد نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے تھے اُس کی پٹائی کرتے تھے۔

3975 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْمُصْعَبِ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ: عَنِ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَقَالَ: فَقُلْتُ: لَا أَدْعُهُمَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا" (الاحزاب: 36)، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ إِلَى: (مُبِينًا) (النساء: 20) "

*** عمرو بن مصعب بیان کرتے ہیں: طاؤس نے انہیں بتایا ہے کہ انہوں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے عصر کے بعد دو رکعات ادا کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں اس سے منع کر دیا۔ طاؤس کہتے ہیں کہ میں نے کہا: میں ان دو کو ترک نہیں کروں گا۔ تو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: (یعنی یہ آیت تلاوت کی: "کسی مؤمن مرد اور کسی مؤمن عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اُس کا رسول کسی معاملہ کے بارے میں فیصلہ دے دیں" انہوں نے یہ آیت "مبینا" تک تلاوت کی۔

3976 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ طَاوُسًا، أَقَامَهُ بِخَيْفٍ مَنَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، لِيُصَلِّيَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ لِي: أَتُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ؟ قَالَ: أَكْرَهْتُ وَاللَّهِ

*** ابراہیم بن میسرہ بیان کرتے ہیں: طاؤس کو منیٰ کے خیف میں لوگوں کے سامنے عصر کے بعد دو رکعات ادا کرنے

کے لیے کھڑا کر لیا گیا تو انہوں نے یہ دو رکعات ادا کیں (بعد میں) انہوں نے مجھ سے دریافت کیا: کیا تم نے بھی عصر کے بعد کی دو رکعات ادا کی ہیں؟ انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! مجھے ان کے لیے مجبور کیا گیا تھا۔

3977 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، أن أبا أيوب الأنصاري: كان

يُصَلِّي قَبْلَ خِلَافَةِ عُمَرَ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ تَرَ كَهُمَا، فَلَمَّا تُوْفِيَ رَكَعَهُمَا، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ كَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَيْهِمَا قَالَ: ابْنُ طَاوُسٍ: وَكَانَ أَبِي لَا يَدْعُهُمَا

*** طاووس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی

خلافت سے پہلے عصر کے بعد دو رکعات ادا کیا کرتے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے ان دو رکعات کو ترک کر دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے یہ دو رکعات ادا کرنا پھر شروع کر دیں۔ ان سے اس بارے میں دریافت کیا گیا کہ جناب یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی وجہ سے لوگوں کی پٹائی کیا کرتے تھے۔

طاووس کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں: میرے والد ان دو رکعات کو ترک نہیں کرتے تھے۔

3978 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن الزبير، يذكر أن

عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا قَطُّ إِلَّا رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عروہ بن زبیر کے صاحبزادے عبد اللہ کو یہ ذکر کرتے ہوئے سنا ہے کہ عروہ نے

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ بیان نقل کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان کے ہاں تشریف لاتے تھے تو عصر کے بعد دو رکعات ضرور ادا کرتے تھے۔

3979 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة قال: كنا نصلّي مع ابن الزبير العصري في

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَكَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ، وَكُنَّا نُصَلِّيهِمَا مَعَهُ نَقُومُ صَفًّا خَلْفَهُ

*** ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں: ہم لوگ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد حرام میں عصر کی نماز ادا کرتے

تھے وہ عصر کے بعد دو رکعات ادا کیا کرتے تھے ان کے ساتھ ہم بھی یہ دو رکعات ادا کرتے تھے ہم ان کے پیچھے صف بنا کر کھڑے ہو جاتے تھے۔

بَابُ الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

باب: مغرب سے پہلے دو رکعات ادا کرنا

3980 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أبان، عن أنس، أنه سئل عن رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ قَالَ:

رَأَيْتُ اللَّبَابُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَهُمَا

*** ابان نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ نقل کی ہے کہ اُن سے مغرب سے پہلے دو رکعات ادا کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا: میں نے نبی اکرم ﷺ کے اصحاب میں سے خالص ترین لوگوں کو یہ دو رکعات ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

3981 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَأَبِيُّ بِنُ كَعْبٍ يُصَلِّيَانِ الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ *** زید بن حبیش بیان کرتے ہیں: حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہما مغرب سے پہلے دو رکعات ادا کیا کرتے تھے۔

3982 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ ثَمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ *** ثمامہ بن عبداللہ بن انس بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کے اصحاب میں سے کچھ حضرات مغرب سے پہلے دو رکعات ادا کرتے تھے۔

3983 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثْتُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ عَلَيْنَا بَعْدَ مَا تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَيَكُونُ اللَّيْلُ، وَقَبْلَ أَنْ يُتَوَّبَ بِالْمَغْرِبِ، وَنَحْنُ نُصَلِّي، فَلَا يَنْهَانَا وَلَا يَأْمُرُنَا

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: مجھے حضرت بن انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے وہ فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ سورج غروب ہونے کے بعد ہمارے پاس تشریف لاتے تھے رات ہو چکی ہوتی تھی (یعنی سورج غروب ہو چکا ہوتا تھا) تو مغرب کی نماز کے لیے تھویب کہی جانے سے پہلے ہم نماز ادا کرتے تھے نبی اکرم ﷺ نے نہ تو ہمیں اس سے منع کیا اور نہ ہی ہمیں اس کا حکم دیا۔

3984 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لَا يَرَكْعُونَ الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ تَرَكَعُ بِهِمَا، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ أَنَسٌ يَرَكْعُهُمَا *** سعید بن مسیب فرماتے ہیں: مہاجرین مغرب سے پہلے کی دو رکعات ادا نہیں کرتے تھے اور انصار ان دو رکعات کو ادا کرتے تھے۔

زہری بیان کرتے ہیں: حضرت انس رضی اللہ عنہ یہ دو رکعات ادا کرتے تھے۔

3985 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَمْ يُصَلِّ أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ، وَلَا عُثْمَانُ الرَّكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ *** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: حضرت ابوبکر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم مغرب سے پہلے کی دو رکعات ادا نہیں

کرتے تھے۔

3986 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ اللَّتَابَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودِيَ بِالْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ لِيُصَلُّوا رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

*** حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے سمجھدار ترین افراد کو دیکھا ہے کہ جب مغرب کی اذان ہوتی تھی تو وہ ستونوں کی طرف لپکتے تھے تاکہ مغرب سے پہلے دو رکعات ادا کر لیں۔

بَابُ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ

باب: جب نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی اور نماز ادا نہیں کی جائے گی

3987 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب نماز کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی۔

3988 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ

*** سوید بن غفلہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اقامت کے بعد نماز ادا کرنے پر پٹائی کرتے تھے۔

3989 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بُلْعٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

*** عطاء بن یسار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ ان تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پہنچا ہے:

”جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو فرض نماز کے علاوہ اور کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی“۔

3990 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ مَوْهَبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلٍ، يَقُولُ لِلنَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ: وَيَلْكُمْ، لَا صَلَاةَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

*** صفوان بن موهب بیان کرتے ہیں: انہوں نے مسلم بن عقیل کو لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا جو اس وقت نماز ادا کر رہے تھے جب نماز کھڑی ہو چکی تھی: کہ تمہارا استیانس ہو! جب نماز کھڑی ہو جائے تو کوئی اور نماز ادا نہیں کی جاتی۔

3991 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ

عَقِيلٍ: يَنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْإِقَامَةِ

*** عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں: مجھے اُس شخص نے یہ بات بتائی ہے جس نے مسلم بن عقیل کو اقامت کے بعد (نفل یا سنت) نماز سے منع کرتے ہوئے سنا ہے۔

3992 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُسًا، قُلْتُ: أَرَكُعُ رَكْعَتَيْنِ

وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ؟ قَالَ: أَوْ تَطِيقُ ذَلِكَ؟

*** داؤد بن ابراہیم بیان کرتے ہیں: میں نے طاؤس سے سوال کیا میں نے کہا: جب مؤذن اقامت کہہ رہا ہو کیا میں اُس وقت دو رکعات ادا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے دریافت کیا: کیا تم اس کی طاقت رکھتے ہو؟

3993 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ فَضِيلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ:

أَنَّهُمَا يَكْرَهُانِ الصَّلَاةَ عِنْدَ الْإِقَامَةِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنْ كُنْتَ قَدْ دَخَلْتَ فِي شَيْءٍ فَاتِمَّهُ

*** ابراہیم نخعی اور سعید بن جبیر کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ اقامت کے وقت نماز ادا کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔

ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: اگر تم (اقامت شروع ہونے سے پہلے) کوئی نماز شروع کر چکے تھے تو اُسے مکمل کر لو۔

3994 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ، فَإِنْ

خَرَجَ الْإِمَامُ وَأَنْتَ رَاكِعٌ، فَأَرْكَعُ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى خَفِيفَةً، ثُمَّ سَلَّمَ

*** عطاء فرماتے ہیں: جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو کوئی اور نماز ادا نہیں کی جائے گی جب امام اُس وقت آجائے جب تم رکوع کی حالت میں ہو تو پھر تم اُس (ایک رکعت) کے ساتھ ایک مختصر رکعت ادا کر کے سلام پھیر دو گے۔

3995 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، رَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ - أَبُو سَعِيدٍ يَشْكُ - عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ

قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ الْعُشْبِ، وَهُوَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَلَّاتَانِ مَعًا؟

*** امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اپنے والد (امام محمد باقر رضی اللہ عنہ) کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عشب کے پاس سے گزرے جو اُس وقت دو رکعات ادا کر رہے تھے جب نماز کھڑی ہو چکی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا دو نمازیں ایک ساتھ ادا کی جائیں گی؟

3996 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خَرَجَ الْإِمَامُ وَأَنَا مُتَطَوِّعٌ، فَاتِمُّ؟

قَالَ: فَصَلِّهَا بِهَا، قُلْتُ: إِنِّي لَمْ أُسَلِّمْ تَسْلِيمَ الْإِنصْرَافِ قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ تَشَهَّدْتَ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: فَحَسْبُكَ، فَصَلِّهَا بِهَا

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: امام آجاتا ہے اور میں اُس وقت نوافل ادا کر رہا ہوتا ہوں تو کیا میں انہیں مکمل کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا: تم اس کے ذریعہ اُس میں فصل پیدا کر دو۔ میں نے کہا: اگر میں نماز ختم کرنے کا سلام نہیں پھیرتا؟ انہوں نے جواب دیا: کیا تم نے تشہد نہیں پڑھ لیا ہے؟ میں نے جواب دیا: جی ہاں! انہوں نے کہا: پھر یہ تمہارے لیے کافی ہے، تم اس کے ذریعہ اُس میں فصل پیدا کر دو۔

3997 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: كُنْتُ قَائِمًا أُصَلِّي، فَمَرَرْتُ بِسُجْدَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا فِي تِلْكَ السُّجْدَةِ قَالَ: صَلِّهَا بِهَا، قُلْتُ: أَكْبَرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَسْتَعِيدُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَلَا أَكْتَفِي بِاسْتِعَاذَتِي لِلتَّطَوُّعِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَسْتَعِيدَ

*** ابن جریج عطاء کے بارے میں نقل کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: میں کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا ہوتا ہوں اور سجدہ تلاوت سے گزرتا ہوں تو سجدہ میں چلا جاتا ہوں (یہاں اصل متن میں الفاظ نہیں ہیں) تو عطاء نے فرمایا: تم اسے اُس کے ساتھ ملا دو۔ میں نے دریافت کیا: کیا میں تکبیر کہوں گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: کیا میں اعوذ باللہ پڑھوں گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: کیا میں نفل نماز کے لیے اپنے استعاذہ پر اکتفاء نہ کروں؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! لیکن مجھے یہ بات زیادہ پسندیدہ ہے کہ تم دوبارہ اعوذ باللہ پڑھو۔

3998 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ الرَّازِيُّ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ قَالَ: فَعَرَفْتُهُ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِرَأِيهِ

*** عبد اللہ بن کثیر رازی بیان کرتے ہیں: نافع بن جبیر فرض نماز کے بعد نفل نماز ادا کر لیتے تھے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے اس حوالے سے اُن کا تذکرہ کیا تو انہوں نے کہا: یہ وہ اپنی رائے کے ساتھ نہیں کرتے تھے۔

3999 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ: أَنَّهُمَا كَانَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ يَصْلَانِ التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ

*** حسن بصری اور قتادہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ یہ دونوں حضرات بھی ایسا کر لیتے تھے یہ نوافل کو فرض نماز کے ساتھ ملا دیتے تھے۔

4000 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَالْأَعْمَشِ، وَالزُّبَيْرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ دَخَلَ مَسْجِدًا يَرَى أَنَّهُمْ قَدْ صَلَّوْا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، ثُمَّ أَقَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَ: يَدْخُلُ مَعَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَجْعَلُ الْبَاقِيَتَيْنِ تَطَوُّعًا، قَالَ الزُّبَيْرُ: فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: مَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا قَالَ: إِنَّ هَذَا كَانَ يَصْنَعُهُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

*** ابراہیم نخعی ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو مسجد میں داخل ہو کر یہ سمجھتا ہے کہ شاید لوگ نماز ادا کر چکے ہیں پھر وہ فرض نماز کی دو رکعات ادا کر لیتا ہے اسی دوران نماز کے لیے اقامت ہو جاتی ہے تو ابراہیم فرماتے ہیں: وہ امام کے ساتھ

شامل ہو کر دو رکعات ادا کر کے سلام پھیر دے گا اور پھر باقی دو رکعات کو نوافل بنا لیں گے۔

زیر نامی راوی بیان کرتے ہیں: میں نے ابراہیم نخعی سے دریافت کیا: میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا: تم سے پہلے کے لوگ اس طرح کیا کرتے تھے۔

4001 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يَقْطَعُ صَلَاتَهُ، وَيَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ

*** امام شعبی فرماتے ہیں: ایسا شخص اپنی نماز کو منقطع کرے گا اور لوگوں کے ساتھ (باجماعت نماز میں) شامل ہو جائے گا۔

4002 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ، اِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: اِذَا دَخَلْتَ فِي صَلَاةٍ فَلَا

تَدْخُلُ مَعَهَا غَيْرَهَا يَقُولُ: اِذَا كُنْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا تَجْعَلْهَا فِي تَطَوُّعٍ، اَوْ فِي تَطَوُّعٍ فَلَا تَجْعَلْهَا فَرِيضَةً

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جب تم نماز پڑھنا شروع کرو تو اس نماز کے ساتھ کسی دوسری نماز میں شامل نہ ہو جاؤ۔ وہ یہ

فرماتے ہیں: جب تم فرض نماز ادا کر رہے ہو تو اسے نفل میں شامل نہ کرو یا نفل ادا کر رہے ہو تو اسے فرض قرار نہ دو۔

4003 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَادٍ، أَنَّهُ قَالَ: اِذَا وَصَلْتَ التَّطَوُّعَ بِالمَكْتُوبَةِ فَهُوَ

بِمَنْزِلَةِ الْكَلَامِ يَقُولُ: وَلَكِنْ سَلَّمَ وَادْخُلْ مَعَهُمْ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ

*** حماد فرماتے ہیں: جب تم نوافل کو فرض نماز کے ساتھ ملا دو گے تو یہ کلام کرنے کے حکم میں ہوگا۔ وہ یہ فرماتے ہیں:

تاہم تمہیں سلام پھیر کر ان لوگوں کے ساتھ شامل ہونا چاہیے۔

معمر بیان کرتے ہیں: حسن بصری نے بھی یہی بات بیان کی ہے۔

بَابُ هَلْ يُصَلِّي رَكَعَتِي الْفَجْرِ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ

باب: جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے تو کیا فجر کی دو رکعات (سنت) ادا کی جاسکتی ہیں؟

4004 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ شَرِيكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ

أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، فَوَجَدَ رَجُلَيْنِ يُصَلِّيَانِ، فَقَالَ: أَصَلَّاتَانِ مَعًا؟

*** ابوسلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ تشریف لائے مؤذن اس وقت اقامت کہہ رہا تھا آپ

نے فجر کی نماز پڑھائی آپ نے دو آدمیوں کو (لوگوں سے ہٹ کر) نماز ادا کرتے ہوئے پایا تو دریافت کیا: کیا دو نمازیں ایک ساتھ ادا کی جائیں گی؟

4005 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ لِلصُّبْحِ، فَقَالَ: اتَّصَلَى الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟

*** ابن ابوملیکہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ایک شخص کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا جبکہ مؤذن اُس وقت صبح کی نماز کے لیے اقامت کہہ رہا تھا تو نبی اکرم ﷺ نے دریافت کیا: کیا تم صبح کی نماز میں چار رکعات ادا کرو گے؟

4006 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ، فَقَالَ: اتَّصَلَى الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟ قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَّغَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلَ ذَلِكَ

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب کسی شخص کو مؤذن کے اقامت کہنے کے دوران نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو دریافت کرتے تھے: کیا تم صبح کی نماز میں چار رکعات ادا کرو گے؟
معمر بیان کرتے ہیں: سعید بن جبیر کے حوالے سے اس کی مانند روایت مجھ تک پہنچی ہے۔

4007 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَوْ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهُمَا صَلَّاتُكَ؟ الَّتِي صَلَّيْتَ وَحَدَّكَ، أَمْ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا؟

*** ابو العالیہ یا شاید ابو عثمان بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ایک شخص کو دو رکعات ادا کرتے ہوئے دیکھا جبکہ فجر کی نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی تھی تو نبی اکرم ﷺ نے دریافت کیا: تم دونوں میں سے کس کو اپنی نماز شمار کرو گے وہ جو تم نے اکیلے ادا کی ہے یا وہ جو تم ہمارے ساتھ ادا کرو گے؟

4008 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا عِنْدَ الْإِقَامَةِ قَالَ: كَيْفَ يُصَلِّيَهُمَا وَقَدْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ؟

*** ایوب نے ابن سیرین کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے اقامت کے وقت ان دو رکعات (سنتوں) کو ادا کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں: ان دونوں کو کیسے ادا کیا جاسکتا ہے جبکہ فرض نماز شروع ہو چکی ہے۔

4009 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ أَكُنْ رَكَعْتُهُمَا قَالَ: فَارْكَعْتُهُمَا فِي الْمَسْجِدِ، إِلَّا أَنْ تَخْشَى أَنْ تَفُوتَكَ الرَّكَعَةُ الَّتِي الْإِمَامُ فِيهَا

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں امام اُس وقت نماز ادا کر رہا ہوتا ہے میں نے فجر کی دو سنتیں ادا نہیں کی ہوتی ہیں تو انہوں نے فرمایا: تم ان دو کو مسجد میں ادا کرو گے البتہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ امام جو رکعت ادا کر رہا ہے اگر وہ تم سے فوت ہو جاتی ہے (تو پھر تم انہیں ادا نہیں کرو گے)۔

4010 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَرْكَعْتَهُمَا فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: لَا أَبَالِي أَيْنَ تَرَكَعْتَهُمَا، إِذَا رَكَعْتَهُمَا قَبْلَ الصَّلَاةِ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا آپ کو یہ بات پسند ہے کہ میں انہیں راستہ میں ادا کر لوں؟ انہوں نے کہا: میں اس بات کی پروا نہیں کروں گا کہ تم انہیں کہاں ادا کرتے ہو جبکہ تم نماز سے پہلے انہیں ادا کر لو۔

4011 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ خِفْتُ أَنْ يَقُوتَنِي الصُّبْحُ؟ قَالَ: فَدَعُوهَا، وَلَا تَفُوتْكَ شَيْءٌ مِنَ الصُّبْحِ قَالَ: ثُمَّ أَخْبَرْتُهُ خَبَرَ أَبِي سَعْدٍ الْأَعْمَى إِيَّانَا عَنِ الَّذِي رَكَعَهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ میری صبح کی نماز رہ جائے گی؟ انہوں نے فرمایا: پھر تم ان دونوں کو چھوڑ دو لیکن تمہاری صبح کی نماز میں سے کچھ نہیں رہنا چاہیے۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے پھر انہیں ابوسعیدنا بینا کی نقل کردہ روایت کے بارے میں بتایا جو انہوں نے ہمیں بیان کی تھی کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کے زمانہ اقدس میں صبح کی نماز کے بعد یہ دو رکعات ادا کی تھیں۔

4012 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أَرَكَعَهُمَا فِي بَيْتِي ثُمَّ آتَى الْمَسْجِدَ فَأَجْلَسُ أَحَبَّ إِلَيَّ، قَالَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء فرماتے ہیں: میں ان دو رکعات کو اپنے گھر میں ادا کر کے پھر مسجد میں آؤں اور آکر بیٹھ جاؤں یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔

زید بن خالد بیان کرتے ہیں: تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔

4013 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا أَخْطَأْتَ أَنْ تَرَكَعَهُمَا قَبْلَ الصُّبْحِ

فَارَكَعَهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ * * عطاء فرماتے ہیں: جب تم غلطی کرتے ہوئے ان دو رکعات (یعنی فجر کی سنتوں) کو صبح صادق ہونے سے پہلے ادا کر لو تو پھر تم صبح صادق ہونے کے بعد انہیں (دوبارہ) ادا کرو۔

4014 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَلَمْ تَرَكَعْ رَكَعَتِي الْفَجْرِ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا فَرَغَ أَرَكَعَهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ

* * طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: جب نماز کھڑی ہو جائے اور تم نے فجر کی دو رکعات (سنتیں) ادا نہ کی ہوں تو تم امام کے ساتھ نماز ادا کر لو جب اس سے فارغ ہو جاؤ تو صبح کی نماز کے بعد ان دو رکعات کو ادا کرو۔

4015 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ رَكَعَهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ صَنْعَاءَ بَعْدَمَا سَلَّمَ

الْإِمَامَ

* * امام عبد الرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے ابن جریج کو صبح کی نماز کے بعد یہ دو رکعات ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے جو انہوں نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کی تھیں۔

4016 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّبْحِ، وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتِي الْفَجْرِ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الصُّبْحِ، فَرَكَعَ رَكْعَتِي الْفَجْرِ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَضَى وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا

*** عبد رب بن سعید جو یحییٰ بن سعید کے بھائی ہیں وہ اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ وہ صبح کی نماز ادا کرنے کے لیے گئے، نبی اکرم ﷺ صبح کی نماز شروع کر چکے تھے، ان کے دادا نے ابھی فجر کی دو رکعات سنتیں ادا نہیں کی تھیں، انہوں نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، جب وہ فجر کی نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے، تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فجر کی دو رکعات سنتیں ادا کیں۔ نبی اکرم ﷺ ان کے پاس سے گزرے، تو آپ نے دریافت کیا: یہ کون سی نماز ہے؟ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو اس بارے میں بتایا تو نبی اکرم ﷺ خاموش رہے اور تشریف لے گئے، آپ نے کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی۔

4017 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ فِي الصَّلَاةِ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتِي الْفَجْرِ، فَدَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِمْ، ثُمَّ قَعَدَ، حَتَّى إِذَا أَشْرَقَتْ لَهُ الشَّمْسُ قَضَاهَا قَالَ: وَكَانَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ صَلَّاهُمَا فِي الطَّرِيقِ

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مسجد میں داخل ہوئے، لوگ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ابھی فجر کی دو سنتیں ادا نہیں کی تھیں، وہ لوگوں کے ساتھ ان کی نماز میں شریک ہو گئے، اس کے بعد وہ بیٹھ گئے یہاں تک کہ جب سورج ان کے سامنے روشن ہو گیا تو انہوں نے وہ دو سنتیں ادا کیں۔ نافع بیان کرتے ہیں: جب نماز کھڑی ہو جاتی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راستے میں ہوتے، تو وہ یہ دو رکعات راستے میں ہی ادا کر لیتے تھے۔

4018 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ مُخَبِّرِ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَكَعَ فِي الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ صَلَاةَ الضُّحَى قَطُّ، فَقِيلَ لَهُ: مَا رَأَيْتَكَ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ قَطُّ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ نَسِيتُ رَكْعَتِي الْفَجْرِ فَرَكَعْتُهُمَا الْآنَ

*** صالح بن کیسان نے مخبر کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ چاشت کے وقت دو رکعات ادا کیں، انہوں نے پہلے کبھی چاشت کی نماز ادا نہیں کی تھی۔ ان سے اس بارے میں بات چیت کی گئی اور کہا گیا کہ ہم نے تو آپ کو کبھی یہ نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو انہوں نے فرمایا: میں فجر کی دو رکعات ادا کرنا بھول گیا تھا، وہ دونوں میں نے اب ادا کی ہیں۔

4019 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، بَيْنَا هُوَ يَلْبَسُ لِلصُّبْحِ إِذْ سَمِعَ الْإِقَامَةَ، فَصَلَّى فِي الْحُجْرَةِ رَكْعَتِي الْفَجْرِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَجَدَ الْإِمَامَ يُصَلِّي وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَهُمَا، دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی صبح صادق ہونے کے بارے میں التباس کا شکار تھے کہ اس دوران انہوں نے اقامت کی آواز سن لی انہوں نے اپنے حجرے میں فجر کی دو رکعات ادا کیں پھر وہ نکلے اور انہوں نے اونوں کے ساتھ نماز ادا کی۔ راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب امام کو نماز ادا کرتے ہوئے پاتے تھے تو دو سنتیں ادا نہیں کرتے تھے وہ امام کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے پھر یہ دو رکعات سنت سورج نکلنے کے بعد ادا کرتے تھے۔

4020 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جریج قال: أخبرني سليمان بن موسى قال: بلغنا، عن أبي الدرداء، أنه كان يقول: نعم والله، لئن دخلت والناس في الصلاة لأعمدَنَّ إلى سارية من سوارى المسجد، ثم لأرْكعَهما ثم لأكْمِلَهما، ثم لا أعجلُ عن إكْمالِهما، ثم أمشي إلى الناس فأصلي مع الناس الصبح *** حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جی ہاں! اللہ کی قسم! اگر میں (مسجد میں) آؤں اور لوگ اُس وقت نماز ادا کر رہے ہوں تو میں مسجد کے کسی ستون کی طرف بڑھ جاؤں گا اور ان دو رکعات (سنتوں) کو ادا کروں گا اور انہیں مکمل ادا کروں گا میں ان کی مکمل ادائیگی میں کسی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کروں گا پھر میں چلتا ہوا لوگوں کے پاس آؤں گا اور ان کے ساتھ صبح کی نماز ادا کروں گا۔

4021 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي موسى قال: جاءنا ابن مسعود والإمام يصلي الفجر، فصلَّى ركعتين إلى سارية، ولم يكن صلى ركعتي الفجر *** حضرت عبداللہ بن ابوموسیٰ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے امام اُس وقت فجر کی نماز ادا کر رہا تھا تو انہوں نے ستون کی طرف رخ کر کے دو رکعات ادا کیں کیونکہ انہوں نے فجر کی دو رکعات سنتیں بھی ادا نہیں کی تھیں۔

4022 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن أبي موسى، عن ابن مسعود مثله،

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے۔

4023 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر قال: وكان الحسن يفعلهُ

*** معمر بیان کرتے ہیں: حسن بصری بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

4024 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي الضحى، وعاصم، عن الشعبي: أن مسروقاً كان يصليهما والإمام قائم يصلي في المسجد

*** امام شععی بیان کرتے ہیں: مسروق ان دو رکعات کو ادا کر لیتے تھے جبکہ امام مسجد میں کھڑا ہوا نماز ادا کر رہا ہوتا تھا۔

4025 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن الحسن قال: إذا دخلت المسجد والإمام في الصلاة، ولم تكن ركعتي الفجر، فصليهما ثم ادخل مع الإمام، قال هشام: وكان ابن عمر،

وَالنَّخَعِيُّ يَدْخُلَانِ مَعَ الْإِمَامِ وَلَا يَرْكَعَانِ حِينَئِذٍ

*** حسن بصری فرماتے ہیں: جب تم مسجد میں داخل ہو اور امام نماز ادا کر رہا ہو اور تم نے ابھی فجر کی دو رکعات سنتیں ادا نہ کی ہوں تو تم ان دو کو ادا کرنے کے بعد امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔

ہشام بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور ابراہیم نخعی امام کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے وہ اُس وقت یہ دو رکعات ادا نہیں کرتے تھے۔

4026 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِنْ لَمْ يَقْضِ رَكْعَتِي الْفَجْرِ فَلَيْسَ

عَلَيْهِ شَيْءٌ

*** امام شعبی بیان کرتے ہیں: اگر کوئی شخص فجر کی دو رکعات قضاء ادا نہیں کرتا تو ایسے شخص پر کوئی چیز لازم نہیں ہوگی۔

بَابُ الرَّجُلِ يَدْعُو وَيُسَمِّي فِي دُعَائِهِ

باب: جو شخص دعا کرتے ہوئے اپنی دعا میں نام لے کر (کسی کے لیے) دعا کرے

4027 - حدیث نبوی: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ قَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا، دَعَا عَلَى نَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ: (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ فَأِنَّهُمْ ظَالِمُونَ) (آل عمران: 128)

*** سالم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں رکوع سے سر اٹھانے کے بعد یہ کہتے ہوئے سنا: ربنا ولك الحمد! جبکہ دوسری رکعت میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا: اے اللہ! فلاں پر اور فلاں پر لعنت کر! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں کے خلاف دعائے ضرر کی تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ آیت نازل کی:

”تمہارا اس معاملہ میں کوئی واسطہ نہیں ہے، خواہ اللہ تعالیٰ انہیں توبہ کی توفیق دے یا انہیں عذاب دے بے شک یہ لوگ ظالم ہیں۔“

4028 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلْمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كِسْفِي يَوْسُفَ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی دوسری رکعت کے رکوع سے سر اٹھایا

تو یہ دعا کی:

”اے اللہ! اے ہمارے پروردگار! حمد تیرے ہی لیے مخصوص ہے، اے اللہ! تو ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام، عیاش بن ابوربیعہ اور مکہ میں موجود کمزور مسلمانوں کو نجات عطا کر! اے اللہ! تو اپنی سختی کو مضر قبیلہ کے افراد پر مسلط کر دے اور ان پر حضرت یوسف کے زمانہ کی سی قحط سالی نازل کر دے۔“

4029 - حدیث نبوی: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، عُصَيَّةَ، وَذُكْوَانَ، وَرِعْلَ، وَلَحْيَانَ، وَكُلَّهُمْ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ

*** حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے فجر کی نماز میں ایک ماہ تک قنوت نازلہ پڑھی، جس میں آپ نے عربوں کے کچھ قبائل عصیہ، ذکوان، رعل، لحيان کے خلاف دعائے ضرر کی، ان سب کا تعلق بنو سلیم سے تھا۔

4030 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ: جَاءَ كَلْبٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلَاةَ الْعَصْرِ لَيَمُرَّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ احْبِسْهُ، فَمَاتَ الْكَلْبُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّكُمْ دَعَا عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: لَوْ دَعَا عَلَى أُمَّةٍ لَأَسْتَجِيبَ لَهُ

*** عبد الکریم جزری نے اہل طائف سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا یہ بیان نقل کیا ہے: ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ لوگوں کو عصر کی نماز پڑھا رہے تھے اسی دوران ایک کتا آیا اور لوگوں کے آگے سے گزرنے لگا، تو حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا: اے اللہ! اسے روک لے! تو وہ کتا وہیں مر گیا، جب نبی اکرم ﷺ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، تو آپ نے دریافت کیا: اس کے خلاف دعا کس نے کی تھی؟ ایک صاحب نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے! نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اگر یہ شخص کسی ایک امت کے خلاف دعا کرتا، تو اس کی وہ دعا بھی مستجاب ہو جاتی۔

4031 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: فَرَّ عِيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، وَسَلْمَةُ بْنُ هِشَامٍ، وَالْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِيَّاشُ، وَسَلْمَةُ مُكْبَلَانِ مُرْتَدِفَانِ عَلَى بَعِيرٍ، وَالْوَلِيدُ يَسُوقُ بِهِمَا، فَكَلِمَتُ إِضْبَعِ الْوَلِيدِ، فَقَالَ: هَلْ أَنْتِ إِلَّا إِضْبَعٌ دَمِيَّتٍ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ، فَعَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْرَجَهُمْ إِلَيْهِ وَشَانَهُمْ، قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ النَّاسُ، فَصَلَّى الصُّبْحَ فَرَكَعَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ دَعَا لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْجِ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلْمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطَأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِينِي يُوسُفَ

*** عبد الملک بن ابوبکر بیان کرتے ہیں: عیاش بن ابوربیعہ، سلمہ بن ہشام، ولید بن ولید بن مغیرہ مشرکین کی قید سے

فرار ہو کر نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گئے ان میں عیاش بن ابوربیعہ اور سلمہ بن ہشام اونٹ پر ایک دوسرے کے آگے پیچھے سوار تھے جبکہ ولید اُس اونٹ کو ہانک کر لے جا رہے تھے اسی دوران ولید کی انگلی زخمی ہو گئی تو انہوں نے یہ کہا:

”تم صرف ایک انگلی ہے جو خون آلود ہو گئی ہے اور تمہیں اللہ کی راہ میں اس صورت حال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔“

جب نبی اکرم ﷺ نے اُن لوگوں کے اپنی طرف آنے اور اُن کے معاملہ کا پتا چلا اور یہ لوگوں کے علم ہونے سے پہلے کی بات ہے تو آپ نے صبح کی نماز ادا کرتے ہوئے اُن میں سے پہلی رکعت میں جب رکوع کیا اور رکوع کے بعد سر اٹھایا تو آپ نے سجدے میں جانے سے پہلے ان دونوں کے لیے دعا کی اور یہ کہا:

”اے اللہ! تو عیاش بن ابوربیعہ کو نجات عطا کر! اے اللہ! تو سلمہ بن ہشام کو نجات عطا کر! اے اللہ! تو ولید بن ولید کو نجات عطا کر! اے اللہ! تو کمزور مومنین کو نجات عطا کر! اے اللہ! تو اپنی سختی کو مضر قبیلہ کے افراد پر مسلط کر دے اور اُن پر حضرت یوسف کے زمانہ کی سی قحط سالی نازل کر دے۔“

4032 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: دَعَوْتُ فِي الْمَكْتُوبَةِ عَلِيَّ رَجُلٍ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِهِ قَالَ: قَدْ انْقَطَعَتْ صَلَاتُكَ، ثُمَّ اخْبَرَنِي حِينِيذٍ قَالَ: دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَرَكَعَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ: اللَّهُمَّ أَنْجِ عِيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَسَلْمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ عِبَادِكَ، قُلْتُ: فَدَعَا بِهَذَا وَسَمَّى مَا سَمَّى قَالَ: لَا أَدْرِي أَكَانَ فِي سُبْحَةٍ أَوْ مَكْتُوبَةٍ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لَهُمْ فِي الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، وَلَعَلَّهُ أَمَرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَسْنَا كَهَيْئَتِهِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ: دَعَا لَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَدْعُ بَعْدَ ذَلِكَ فِيمَا بَلَغَنِي

*** ابن جریج عطاء کے بارے میں نقل کرتے ہیں: میں نے اُن سے دریافت کیا: میں فرض نماز میں کسی شخص کے خلاف دعا کرتا ہوں تو کیا اُس کا نام لے سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا: اس صورت میں تمہاری نماز منقطع ہو جائے گی۔ پھر انہوں نے اُس وقت مجھے بتایا کہ نبی اکرم ﷺ نے عیاش بن ابوربیعہ کے لیے دعا کی تھی آپ رکوع میں گئے جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو آپ نے کھڑے ہو کر یہ دعا کی:

”اے اللہ! عیاش بن ابوربیعہ، ولید بن ولید بن مغیرہ، سلمہ بن ہشام اور اپنے کمزور بندوں کو نجات عطا فرما۔“

میں نے کہا: نبی اکرم ﷺ نے یہ دعا کرتے ہوئے تو لوگوں کے نام لیے ہیں۔ عطاء نے جواب دیا: مجھے نہیں معلوم کہ کیا یہ نوافل میں ہوا تھا یا فرض نماز میں ہوا تھا؟ میں نے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر نبی اکرم ﷺ نے فرض نماز میں اُن لوگوں کے لیے دعا کی ہو؟ انہوں نے جواب دیا: مجھے نہیں معلوم! یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خصوصیت نبی اکرم ﷺ کی ہو کیونکہ ہم تو آپ کی مانند نہیں ہیں۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء نے یہ بات بیان کی: نبی اکرم ﷺ نے اُن لوگوں کے لیے دعا کی تھی لیکن مجھ تک پہنچنے

والی روایت کے مطابق اُس کے بعد نبی اکرم ﷺ نے اُن لوگوں کے لیے دعا نہیں کی۔

4033 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: دَعَا الْمَرْءُ فِي الْمَكْتُوبَةِ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَيَسْأَلُهُ قَالَ: مَا أَحْبَبُهُ، قُلْتُ: أَيْقَطُ ذَلِكَ صَلَاتُهُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَيْسُحِدُ سَجْدَتِي السَّهْوِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَتَدْعُو أَنْتَ الْمَرْءَ فِي الْمَكْتُوبَةِ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ مِنَ التَّشْهِيدِ الْآخِرِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: إِنِّي لَتَأْخُذُنِي الْمَرْءَ الرَّغْبَةَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَاسْتَغْفِرُ وَأَسْأَلُ، بِذَلِكَ قَلِيلٌ قَالَ: وَلَا سَوَاءَ، الدُّعَاءُ فِي الدُّنْيَا وَغَرَضِهَا، أَشَدُّ مِنَ الدُّعَاءِ لِلْآخِرَةِ وَالِاسْتِغْفَارِ

*** ابن جریج نے عطاء کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: میں نے دریافت کیا: آدمی فرض نماز میں دعائے مانگتے ہوئے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرے گا اور اُس سے کوئی چیز مانگے گا؟ انہوں نے جواب دیا: مجھے یہ بات پسند نہیں ہے۔ میں نے دریافت کیا: کیا اس طرح اُس کی نماز ٹوٹ جائے گی؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! میں نے دریافت کیا: کیا وہ اس وجہ سے سجدہ سہو کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! میں نے دریافت کیا: کیا آپ کبھی آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے فرض نماز میں دعا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! ابن جریج نے کہا: بعض اوقات مجھے فرض نماز کے دوران رغبت محسوس ہوتی ہے تو میں دعائے مغفرت کر سکتا ہوں اور میں سوال کر سکتا ہوں (یعنی کوئی چیز مانگ سکتا ہوں) جبکہ وہ چیز تھوڑی ہو؟ تو عطاء نے کہا: یہ دونوں چیزیں برابر نہیں ہیں دنیا کے بارے میں یا دنیا کی غرض کے بارے میں دعائے مانگنا آخرت کے لیے یا دعائے مغفرت کے بارے میں دعائے مانگنے سے زیادہ شدید ہے۔

4034 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا تَدْعُ بِشَيْءٍ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَسَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: لَا تَدْعُ فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَلَا أَعْلَمُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ إِلَّا التَّشْهِيدَ

*** ابراہیم بن میسرہ نے عطاء اور مجاہد کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب تم فرض نماز ادا کر رہے ہو تو امام کے فارغ ہونے تک کوئی دعائے مانگو۔

ابراہیم بن میسرہ بیان کرتے ہیں: میں نے طاؤس کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: تم فرض نماز میں دعائے مانگو میرے علم کے مطابق دو رکعات کے بعد صرف تشہد کے کلمات پڑھے جائیں گے۔

4035 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: اذْعُ فِي الْقَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ

*** ابن سیرین بیان کرتے ہیں: تم فرض نماز میں وہ دعائے مانگو جو قرآن میں مذکور ہے۔

4036 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ ابن سیرین کے بارے میں منقول ہے۔

4037 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: اذْعُ فِي الْفَرِيضَةِ

بِمَا فِي الْقُرْآنِ،

*** طاؤس فرماتے ہیں: تم فرض نماز میں وہ دعا مانگو جو قرآن میں ہے۔

4038 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ

قَوْلِ طَاوُسٍ

*** ابراہیم نخعی کے بارے میں طاؤس کے قول کی مانند منقول ہے۔

4039 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: اذْعُ فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا شِئْتَ

*** حسن بصری فرماتے ہیں: تم فرض نماز میں جو چاہو دعا مانگو۔

4040 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ

يَقُولُ: أَحْمِلُوا حَوَائِجَكُمْ عَلَى الْمَكْتُوبَةِ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَائِنَا: مَا مِنْ صَلَاةٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ

أَنْ أَدْعُو فِيهَا حَاجَتِي مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ: وَنَظَرْتُ فِي اسْتِفْتَا ح النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَأَصْحَابِهِ الْمَكْتُوبَةَ أَجِدُهُمْ يَدْعُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ فِي بَعْضِ رُكُوعِهِمْ وَسُجُودِهِمْ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ

*** حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں: تم اپنی ضروریات کو فرض نمازوں پر رکھو (یعنی فرض نمازوں میں ان

کے بارے میں دعا مانگو)۔

عمر و بن دینار اور ہمارے دیگر علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ میرے نزدیک اپنی حاجت کے بارے میں دعا مانگنے کے لیے

فرض نماز سے زیادہ اور کوئی نماز محبوب نہیں ہے۔

ابن جریج اور میں (یعنی امام عبدالرزاق) یہ کہتے ہیں کہ میں نے فرض نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے

آغاز کا جائزہ لیا تو میں نے ان حضرات کو پایا کہ یہ لوگ اپنے رکوع اور سجود میں بھی دعا کرتے تھے اور مغفرت طلب کرتے تھے تو

اس حوالے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

4041 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْفَرَاغِصَةِ قَالَ:

حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو لِلزُّبَيْرِ وَأَسْمَاءَ أُمِّهِ يُسَمِّيهِمَا فِي الصَّلَاةِ بِأَسْمَائِهِمَا

*** عروہ بن زبیر کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ حضرت زبیر اور اپنی والدہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہما کے لیے دعا کیا

کرتے تھے وہ نماز میں ان دونوں کے نام لے کر ان کے لیے دعا کرتے تھے۔

4042 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ

الْفَرَاغِصَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ فِي صَلَاتِهِ وَهُوَ سَاجِدٌ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَلَا أَسْمَاءَ

بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ

*** حفص بن فرافصہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے عروہ بن زبیر کو نماز کے دوران سجدہ کی حالت میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا: اے اللہ! حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور سیدہ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہما کی مغفرت کر دے۔

4043 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَتَكْرَهُ أَنْ يُسْتَغْفَرَ فِي التَّطَوُّعِ؟
قَالَ: نَعَمْ، حَتَّى يَجْلِسَ وَيَتَشَهَّدَ، ثُمَّ يُسْتَغْفِرُ جَالِسًا قَالَ: (أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي) (طہ: 14)

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا آپ اس بات کو مکروہ سمجھتے ہیں کہ نفل نماز میں دعائے مغفرت کی جائے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! یہاں تک کہ آدمی بیٹھ جائے اور تشہد کے کلمات پڑھے پھر وہ بیٹھنے کے دوران دعائے مغفرت کر سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

”تم میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔“

4044 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: "بَلَّغْنِي أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ كَمَا يَتَكَلَّمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، حَتَّى نَزَلَتْ: (وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) (الاعراف: 204)"

*** عطاء بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ پہلے لوگ نماز کے دوران اسی طرح کلام کر لیتے تھے جس طرح یہود و نصاریٰ کلام کر لیتے تھے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی:

”جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو۔“

4045 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: "صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللَّهِ، فَمَا عَلِمْتُ مَا يَقْرَأُ حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (زِدْنِي عِلْمًا) (طہ: 114)، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ فِي طَه"
*** علقمہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پہلو میں نماز ادا کی انہوں نے جو تلاوت کی تھی۔
میرے علم میں اضافہ کر دے۔

اس سے مجھے پتا چلا کہ آپ سورہ طہ کی تلاوت کر رہے ہیں (کیونکہ یہ سورہ طہ کی آیت کے الفاظ ہیں)۔

4046 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرٍ، عَنْ حَذِيفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا مَرَّ بِأَيَّةِ خَوْفٍ تَعَوَّذَ، وَإِذَا مَرَّ بِأَيَّةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ"
*** حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی خوف کے مضمون والی آیت پڑھی تو آپ نے اس سے پناہ مانگی اور جب رحمت کے مضمون والی آیت پڑھی تو اس رحمت کے بارے میں دعا مانگی۔

4047 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرِيَانِ بَأْسًا أَنْ يَدْعُوا الرَّجُلَ فِي التَّطَوُّعِ، إِذَا مَرَّ بِأَيَّةٍ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَقِفُ عِنْدَهَا فَيَسْأَلُ وَيَتَعَوَّذُ"

*** حسن بصری اور قتادہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ یہ دونوں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے کہ آدمی نفل نماز کے دوران دعا مانگے، جب وہ کسی ایسی آیت کو پڑھے جس میں جنت یا جہنم کا ذکر ہو تو وہاں ٹھہر کر (جنت کے بارے میں) دعا مانگے یا (جہنم سے) پناہ مانگے۔

4048 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن أبي الضحى، أن عائشة، مرتت بهذا الآية: (فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم) (الطور: 27)، فقالت: رب من عليّ وقيني عذاب السموم
*** ابو صحنی بیان کرتے ہیں: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ آیت تلاوت کی:
”تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں گرم ہوا کے عذاب سے بچالیا۔“

تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ دعا کی: اے میرے پروردگار! مجھ پر بھی احسان کرنا اور مجھے گرم ہوا کے عذاب سے بچالینا۔
4049 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن السدي، عن عبد خير الهمداني قال: سمعت علياً، قرأ في صلاة: سبح اسم ربك الأعلى، فقال: سبحان ربّي الأعلى
*** عبد خیر ہمدانی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نماز میں یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا:
”تم اپنے بلند و برتر پروردگار کے اسم کی پاکی بیان کرو۔“

تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا: سبحان ربی الاعلیٰ! (میں اپنے اعلیٰ پروردگار کی پاکی بیان کرتا ہوں)۔
4050 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن مسعر، عن عمير بن سعيد، أن أبا موسى الأشعري، قرأ في الجمعة: سبح اسم ربك الأعلى، فقال: سبحان ربّي الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية
*** عمیر بن سعید بیان کرتے ہیں: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جمعہ کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلیٰ کی تلاوت کی تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا اور ساتھ میں سورہ الغاشیہ کی تلاوت کی۔

4051 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبیر، عن ابن عباس، أنه كان إذا قرأ: (اليس ذلك بقادرٍ عليّ أن يحيي الموتى) (القيامة: 40) قال: سبحانك اللهم بلى، وإذا قرأ: سبح اسم ربك الأعلى قال: سبحان ربّي الأعلى

*** سعید بن جبیر نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے یہ آیت تلاوت کی:

”تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔“

تو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: تو پاک ہے اے اللہ! جی ہاں! تو اس بات پر قادر ہے۔

جب حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت تلاوت کی:

”تم اپنے اعلیٰ پروردگار کے اسم کی پاکی بیان کرو۔“

تو انہوں نے سبحان ربی الاعلیٰ (میں اپنے اعلیٰ پروردگار کی پاکی بیان کرتا ہوں) کہا۔

4052 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَرَأَ التَّيْنِ، وَبَلَغَ: (أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) (التين: ۱) قَالَ: بَلَى، وَإِذَا قَرَأَ: (أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) (القيامة: ۴۰) قَالَ: بَلَى، وَإِذَا قَرَأَ: (فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) (المرسلات: ۵۸)، وَبِمَا أَنْزَلَ أَوْ قَالَ: آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِمَا أَنْزَلَ

*** اسماعیل بن اُمیہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ جب کبھی سورہ تین کی تلاوت کرتے ہوئے یہ آیت پڑھتے تھے: ”کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے“ تو یہ کہتے تھے: جی ہاں! سب سے بڑا حاکم ہے۔
آپ جب یہ آیت پڑھتے تھے: ”کیا وہ اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ مردوں کو زندہ کر دے“۔ تو یہ کہتے ہیں: جی ہاں! وہ یہ قدرت رکھتا ہے۔

جب آپ یہ آیت تلاوت کرتے تھے: ”تو اس کے بعد وہ کون سی بات پر ایمان رکھیں گے“۔ تو آپ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو اُس نے نازل کیا ہے اُس پر ایمان رکھتے ہیں۔

4053 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ جَابَانَ قَالَ: بَدَأَ عِنْدَ حُجْرٍ الْمَدْرِيِّ، فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقَرَأَ، فَمَرَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ: (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَلَيْسَ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ) (الواقعة: ۵۸) قَالَ: بَلْ أَنْتَ يَا رَبُّ، بَلْ أَنْتَ يَا رَبُّ، ثَلَاثًا، ثُمَّ قَرَأَ: (أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَلَيْسَ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ) (الواقعة: ۵۹) قَالَ: بَلْ أَنْتَ يَا رَبُّ، بَلْ أَنْتَ يَا رَبُّ، ثَلَاثًا قَالَ: (أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَلَيْسَ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ أَمَّا مُزْنٍ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ) (الواقعة: ۶۰) قَالَ: بَلْ أَنْتَ يَا رَبُّ، بَلْ أَنْتَ يَا رَبُّ، ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: (أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَلَيْسَ أَنْشَأْتُمُ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ) قَالَ: بَلْ أَنْتَ يَا رَبُّ، قَالَهَا ثَلَاثًا

*** شداد بن جابان بیان کرتے ہیں: ایک رات میں حجر مدری کے ہاں ٹھہرا تو میں نے انہیں رات کے وقت نماز ادا کرتے ہوئے اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے سنا جب انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی:
”اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کہ جب تم انزال کرتے ہو تو کیا تم (بچہ کو) تخلیق کرتے ہو یا تخلیق کرنے والے ہم ہیں۔“

تو حجر مدری نے کہا: جی ہاں! اے میرے پروردگار! تو (تخلیق کرنے والا ہے) بلکہ تو (تخلیق کرنے والا ہے) میرے پروردگار! تو (تخلیق کرنے والا ہے) میرے پروردگار۔ انہوں نے یہ کلمات تین مرتبہ کہے پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی:
”اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کہ جب تم کھیتی باڑی کرتے ہو تو کیا زراعت کرنے والے تم لوگ ہو یا زراعت کرنے والے ہم ہیں۔“

تو حجر مدری نے کہا: بلکہ اے میرے پروردگار! تو ہے بلکہ اے میرے پروردگار! تو ہے۔
 انہوں نے تین مرتبہ یہ کلمات کہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی:
 ”اُس پانی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے جسے تم پیتے ہو کیا تم اُسے بادل سے نازل کرتے ہو یا ہم اُسے نازل کرنے والے ہیں۔“

تو حجر مدری نے کہا: بلکہ اے میرے پروردگار! تو ہے بلکہ اے میرے پروردگار! تو (نازل کرنے والا) ہے۔ انہوں نے تین مرتبہ یہ کلمات کہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی:
 ”آگ کے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے جسے تم روشن کرتے ہو تو اُس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں۔“

تو حجر مدری نے کہا: بلکہ اے میرے پروردگار! تو ہے۔ انہوں نے یہ کلمات تین مرتبہ کہے۔

4054 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: كُرَّةٌ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِذِكْرِ النَّارِ فَيَتَعَوَّذَ

مِنْهَا فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ، قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى بَأْسًا فِي التَّطَوُّعِ

*** ابن سیرین کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ آدمی فرض یا نفل نماز ادا کرتے ہوئے جہنم کا ذکر تلاوت کرے تو اُس سے پناہ مانگے۔

راوی بیان کرتے ہیں: حسن بصری نفل نماز میں اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے۔

4055 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُرَّةٌ إِذَا مَرَّ الْإِمَامُ بِآيَةِ

تَخْوِيفٍ أَوْ آيَةِ رَحْمَةٍ أَنْ يَقُولَ مَنْ خَلْفَهُ شَيْئًا

*** مجاہد فرماتے ہیں: یہ بات مکروہ ہے کہ جب امام خوف دلانے والی کسی آیت یا رحمت کے مضمون والی کسی آیت کی تلاوت کرے تو اُس کی تلاوت کے بعد کچھ اور کہے (یعنی کوئی دعا مانگے یا کلمات پڑھے)۔

4056 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: " إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ

فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) (الأعراف: 204)، قَالَ: هَذَا فِي الصَّلَاةِ

*** مجاہد فرماتے ہیں: (ارشاد باری تعالیٰ ہے:)

”جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اُسے غور سے سناؤ اور خاموش رہو۔“

مجاہد فرماتے ہیں: یہ نماز کے بارے میں حکم ہے۔

4057 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَنْصُورٍ، عَنِ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: " يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِذَا

شُغِلَ الْعَبْدُ بِكِتَابِهِ عَلَى مِنْ مَسْأَلَتِهِ إِيَّايَ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ "

*** مالک بن حارث بیان کرتے ہیں: اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے: جب بندہ اپنی تحریر میں مشغولیت کی وجہ سے مجھ سے

مانگ نہ سکا ہو تو میں اُسے اُس سے زیادہ عطا کرتا ہوں جو مانگنے والے کو عطا کرتا ہوں۔

4058 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: الدُّعَاءُ فِي التَّطَوُّعِ مِثْلُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ إِنْ سَمَيْتُ إِنْسَانًا يَقْطَعُ صَلَاتِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنْ قُلْتَهُ وَلَكَ وَتَرُّ فَاشْفَعْ بِرُكْعَةٍ، ثُمَّ انْصَرَفْ فَاسْتَقْبَلْ صَلَاتَكَ

*** ابن جریج عطاء کے بارے میں نقل کرتے ہیں: میں نے اُن سے دریافت کیا: نفل نماز کے دوران دعا مانگنا فرض نماز میں دعا مانگنے کی مانند ہے کہ اگر آپ کسی انسان کا نام لے لیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جی ہاں! اگر تم یہ کلمات اُس وقت کہتے ہو جب تم طاق رکعات ادا کر چکے ہو تو تم ایک رکعت کے ذریعہ اُسے جنت کر لو گے اُس کے بعد نماز کو مکمل کرنے کے بعد نئے سرے سے اُس نماز کو دہراؤ گے۔

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَهُوَ مُتَلِّمٌ

باب: آدمی کا منہ پر کپڑا پیٹ کر نماز ادا کرنا

4059 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: أَيُّصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ مُحَمَّرٌ فَأَه؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَنْزِعَهُ مِنْ فَيْكِ، إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّيْتَ فَإِنَّكَ تُنَاجِي رَبَّكَ *** ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء سے دریافت کیا گیا: کیا کوئی منہ کو ڈھانپ کر نماز ادا کر سکتا ہے؟ اُنہوں نے فرمایا: مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ تم اپنے منہ سے کپڑے کو اتار دو کیونکہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: جب تم نماز ادا کر رہے ہوتے ہو تو تم اپنے پروردگار سے مناجات کر رہے ہوتے ہو۔

4060 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: كَرِهَ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ، أَوْ عَلَى أَنْفِهِ فِي الصَّلَاةِ

*** ابن جریج نے عطاء کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ وہ اس بات کو مکروہ سمجھتے ہیں کہ آدمی نماز کے دوران اپنا ہاتھ یا اپنا کپڑا اپنے منہ یا اپنی ناک پر رکھے۔

4061 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَلِّمٌ

*** سعید بن مسیب کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ اس بات کو مکروہ سمجھتے ہیں کہ آدمی منہ پر کپڑا پیٹ کر نماز ادا کرے۔

4062 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، أَوْ أَحَدِهِمَا، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَلِّمٌ

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ آدمی منہ پر کپڑا لپیٹ کر نماز ادا کرے۔

4063 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثورثی، عن منصور، عن ابراهیم: انه كره ان يصلي الرجل وهو متلثم، وكان يقول: اذا عطس الرجل في الصلاة فليحمد الله ولا يجهر، وسأله عن الرجل يعطس على الخلاء قال: يحمد الله فانها تصعد

*** ابراہیم نخعی کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ آدمی منہ پر کپڑا لپیٹ کر نماز ادا کرے۔ وہ یہ فرماتے ہیں: جب آدمی کو نماز کے دوران چھینک آجائے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے گا، لیکن بلند آواز میں نہیں کرے گا۔ میں نے ان سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جسے بیت الخلاء میں چھینک آجاتی ہے تو انہوں نے جواب دیا: وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے گا کیونکہ یہ حمد اوپر جاتی ہے۔

4064 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن حصين بن عبد الرحمن، عن هلال بن يساف قال: ابصر جعدة بن هبيرة على رجل مغفرا وهو يصلي، فأرسل إليه رجلا: ان اكشف المغفر عن فيك

*** ہلال بن یساف بیان کرتے ہیں: جعدہ بن ہبیرہ نے ایک شخص کو نماز ادا کرنے کے دوران خود (یعنی لوہے کی ٹوپی) پہنے ہوئے دیکھا تو اس کی طرف ایک شخص کو بھیجا کہ تم اپنے منہ پر سے اس خود کو ہٹا دو۔

4065 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، " ان الحسن كان يرخص في ان يصلي الرجل وهو متلثم اذا كان من برد او عذر

*** قتادہ بیان کرتے ہیں: حسن بصری نے اس بات کی رخصت دی ہے کہ آدمی منہ پر کپڑا لپیٹ کر نماز ادا کرے جبکہ وہ ٹھنڈک کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے اس کپڑے کو لپیٹے ہوئے ہو۔

بَابُ التَّسْبِيحِ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيْقِ لِلنِّسَاءِ

باب: (نماز کے دوران امام کو متوجہ کرنے کے لیے) سبحان اللہ کہنے کا حکم مردوں کے لیے ہے

اور تالی مارنے کا خواتین کے لیے ہے

4066 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: اقول في المكتوبة: سبحان الله، سبحان الله، واشير بيدي ثم استوي الى الصف؟ قال: نعم، ذاك حسن

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں فرض نماز کے دوران سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا ہوں اور اپنے ہاتھ کے ذریعہ اشارہ بھی کر لیتا ہوں اور پھر میں صف کی طرف آ کر سیدھا ہو جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا: ٹھیک ہے! یہ اچھا ہے۔

4067 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، إِسْ إِسْ فِي الصَّلَاةِ قَالَ عَطَاءٌ: وَتَكَلَّمَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِإِسْ إِسْ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الصَّلَاةِ: كَذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَآحَبُّ إِلَيَّ عَطَاءٌ أَنْ يُسَبِّحَنَّ مِنَ التَّصْفِيقِ مِنْ إِسْ إِسْ، قَالَ عَطَاءٌ: وَصَفَّقَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِيَدَيْهِ

*** عطاء بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: سبحان اللہ کہنے کا حکم مردوں کے لیے ہے اور تالی مارنے کا حکم خواتین کے لیے ہے۔ نماز کے دوران اش اش (یعنی آواز نکالتے ہوئے) کہا جاسکتا ہے۔

عطاء بیان کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نماز کے دوران اش اش کہہ دیتے تھے۔

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نماز کے بارے میں اسی طرح فرماتے ہیں کہ مردوں اور خواتین کے لیے یہی کہنے کا حکم ہے اور عطاء کے نزدیک یہ بات پسندیدہ ہے کہ خواتین تالی مارنے کی بجائے یا اش اش کہنے کی بجائے سبحان اللہ کہہ دیں۔ عطاء بیان کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دونوں ہاتھوں کے ذریعہ تالی مارتے تھے۔

4068 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ *** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”نماز کے دوران امام کو متوجہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہنے کا حکم مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانے کا حکم خواتین

4068-صحیح البخاری - کتاب الجمعة ابواب العمل في الصلاة - باب التصفيق للنساء 'حديث: 1160' صحيح مسلم - كتاب الصلاة' باب تسبيح الرجل وقصفيق المرأة إذا نابها شيء في الصلاة - حديث: 670' صحيح ابن خزيمة - جماع ابواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها 'جماع ابواب الافعال الباحة في الصلاة - باب امر النساء بالتصفيق في الصلاة عند النائبة' حديث: 854' مستخرج ابى عوانة - باب في الصلاة بين الاذان والإقامة في صلاة المغرب وغيرها' باب إيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام - حديث: 1558' سنن الدارمي - كتاب الصلاة' باب التسبيح للرجال - حديث: 1385' السنن للنسائي - كتاب السهو' باب التصفيق في الصلاة - حديث: 1197' مصنف ابن ابى شيبه - كتاب صلاة التطوع والإمامة و ابواب متفرقة' من قال : التسبيح للرجال - حديث: 7146' السنن الكبرى للنسائي - كتاب السهو' التصفيق في الصلاة - حديث: 530' شرح معاني الآثار للطحاوي - باب الكلام في الصلاة لما يحدث فيها من السهو' حديث: 1646' مشكل الآثار للطحاوي - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه' حديث: 1516' السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة' جماع ابواب الكلام في الصلاة - باب ما يقول إذا نابه شيء في صلاته' حديث: 3103' مسند احمد بن حنبل 'مسند ابى هريرة رضى الله عنه - حديث: 7123' مسند الشافعي - ومن كتاب الامالي في الصلاة' حديث: 192' مسند الطيالسي - احاديث النساء' ما اسند ابو هريرة - وابو صالح' حديث: 2510' مسند الحميدى - احاديث ابى هريرة رضى الله عنه' حديث: 921' مسند ابى يعلى الموصلى - مسند ابى هريرة' حديث: 5818' المعجم الاوسط للطبراني - باب الالف' من اسبه احمد - حديث: 1265

کے لیے ہے۔

4069 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”(نماز میں امام کو متوجہ کرنے کے لیے) سبحان اللہ کہنے کا حکم مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانے کا حکم خواتین کے لیے ہے۔“

4070 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَحْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: سبحان اللہ کہنے کا حکم مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانے کا حکم خواتین کے لیے ہے۔“

4071 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الْأَذْنِ

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: متوجہ کرنے کے لیے سبحان اللہ کہنے کا حکم مردوں کے لیے ہے اور تالی بجانے کا حکم خواتین کے لیے ہے۔“

4072 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، إِذْ قِيلَ لَهُ: كَانَ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَأَهْلِ قُبَا شَيْءٌ، فَقَالَ: قَدِيمًا كَانَ ذَلِكَ، كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جِيءَ، فَقِيلَ لَهُ: كَانَ بَيْنَ أَهْلِ قُبَا شَيْءٌ، فَاذْهَبْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَأَبْطَأَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ بِلَالٌ لِأَبِي بَكْرٍ: أَلَا أُقِيمُ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: مَا سُنْتُ، فَأَقَامَ بِلَالٌ فَقَدَّمَ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ، فَبَيْنَا هُوَ يُصَلِّي أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَشُقُّ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَجَعَلُوا يُصَفِّقُونَ، وَكَانَ لَا يَلْتَفِتُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا التَّفَتَّ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ كَمَا هُوَ، فَكَصَّ إِلَى وَرَائِهِ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: مَا مَنَعَكَ إِذْ أُمِرْتُ أَنْ لَا تَكُونَ قَدْ صَلَّيْتَ؟ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَأْنُ التَّصْفِيقِ فِي الصَّلَاةِ؟ إِنَّمَا التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ

*** ابو حازم بیان کرتے ہیں: میں حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا اسی دوران ان سے یہ کہا گیا کہ بنو عمرو بن عوف اور اہل قباء کے درمیان کچھ اختلاف ہو گیا ہے تو انہوں نے فرمایا: یہ بڑا پرانا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس

میں ہم موجود تھے اسی دوران کوئی شخص آیا اور آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ اہل قباء کے درمیان لڑائی ہونے لگی ہے۔ تو نبی اکرم ﷺ اُن کے درمیان صلح کروانے کے لیے اُن کی طرف تشریف لے گئے جب آپ کی واپسی میں دیر ہو گئی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ کیا میں نماز کے لیے اقامت نہ کہوں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: جیسے تم چاہو! تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اقامت کہی تو لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو آگے کر دیا، ابھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے کہ اسی دوران نبی اکرم ﷺ تشریف لے آئے آپ صفوں میں سے گزرتے ہوئے آئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے تالیاں پٹینی شروع کیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز کے دوران ادھر ادھر تو جہ نہیں کرتے تھے لیکن جب لوگوں نے بکثرت تالیاں بجائیں تو انہوں نے توجہ کی تو انہیں نبی اکرم ﷺ اپنے پیچھے کھڑے ہوئے نظر آئے، نبی اکرم ﷺ نے انہیں اشارہ بھی کیا کہ وہ اسی طرح نماز کرتے رہیں جس طرح ہیں، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اُلٹے قدموں پیچھے آ گئے، نبی اکرم ﷺ آگے بڑھے آپ نے نماز پڑھائی، جب آپ نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو آپ نے دریافت کیا: تمہیں کیا چیز رکاوٹ بنی تھی جب میں نے تمہیں ہدایت کی تھی کہ تم جس طرح تھے اسی طرح نماز ادا کرتے رہتے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: ابو قحافہ کے بیٹے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے آگے کھڑا ہو۔ پھر نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: نماز کے دوران تالی بجانے کا کیا معاملہ ہے؟ مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنے کا حکم ہے اور خواتین کے لیے تالی بجانے کا حکم ہے۔

4073 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن جریج، عن رجل، عن أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوماً إلى المسجد، فقال: أين الفتى الدؤيبى؟ قال: هو ذاك يا رسول الله يوعك في مؤخر المسجد، فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم، فمسح على رأسي، وقال لي معروفاً، ثم أقبل على الناس، فقال: إن أنا سهوت في صلاحي فليصبح الرجال، وليصفيق النساء قال: فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسه في شيء من صلاحه، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفان ونصف من الرجال، وصفان من النساء - أو صفان من الرجال وصفان ونصف من النساء -

* * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک دن نبی اکرم ﷺ مسجد تشریف لائے آپ نے دریافت کیا: دوس قبیلہ سے تعلق رکھنے والا نوجوان کہاں ہے؟ کسی نے عرض کی: یا رسول اللہ! وہ وہاں ہے! وہ بیمار ہے اور مسجد کے پیچھے والے حصے میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ میرے پاس تشریف لائے آپ نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے بارے میں اچھے کلمات ارشاد فرمائے۔ پھر آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا: اگر میں نماز میں کوئی چیز بھول جاؤں تو مرد سبحان اللہ کہیں اور خواتین تالی بجائیں۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھر نبی اکرم ﷺ نے نماز پڑھائی لیکن آپ کو نماز میں کسی بھی قسم کا سہولاحق نہیں ہوا۔ نبی اکرم ﷺ کی اقتداء میں مردوں کی اڑھائی صفیں تھیں اور خواتین کی دو صفیں تھیں یا شاید مردوں کی دو صفیں تھیں اور خواتین کی اڑھائی صفیں تھیں۔

بَابُ هَلْ يَوْمُ الرَّجُلِ جَالِسًا

باب: کیا کوئی شخص بیٹھ کر امامت کر سکتا ہے؟

4074 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ قَاعِدًا وَجَعَلَ أَبَا بَكْرٍ وَرَاءَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ قَالَ: وَصَلَّى النَّاسُ وَرَاءَهُ قِيَامًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا صَلَّيْتُمْ إِلَّا قُعُودًا بِصَلَاةِ إِمَامِكُمْ، مَا كَانَ يُصَلِّي قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّي قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا

*** عطاء بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ بیمار ہو گئے آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ ہدایت کی کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو نبی اکرم ﷺ نے لوگوں کو بیٹھ کر نماز پڑھائی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے آپ کے اور لوگوں کے درمیان کھڑے ہو گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں: لوگوں نے نبی اکرم ﷺ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا کی تو نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مجھے بعد میں جس چیز کا خیال آیا، اگر پہلے آجاتا تو تم لوگ اپنے امام کی نماز کی پیروی کرتے ہوئے بیٹھ کر ہی نماز ادا کرتے، جب تک امام کھڑا ہو کر نماز ادا کرے تم کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اگر وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے تو تم بھی بیٹھ کر نماز ادا کرو۔“

4075 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَقَامَ حَذْوَهُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَرَأَ، فَإِذَا خَتَمَ وَكَانَتِ الرَّكْعَةُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَعَ وَسَجَدَ بِالنَّاسِ، قُلْتُ: وَكَمْ صَلَّى وَآيَةُ صَلَاةٍ تِلْكَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي إِلَّا أَنَّهَا صَلَاةٌ فِيهَا قِرَاءَةٌ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے نماز ادا کی آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو وہ آپ کے پہلو میں آپ کے برابر کھڑے ہو گئے۔ نبی اکرم ﷺ نے جب تلاوت ختم کی اور رکوع میں چلے گئے تو اس کے بعد نبی اکرم ﷺ رکوع سے کھڑے ہوئے آپ نے لوگوں کو رکوع اور سجدہ کروایا۔

(راوی بیان کرتے ہیں:) میں نے دریافت کیا: آپ نے کتنی رکعات ادا کی تھیں اور یہ کون سی نماز تھی؟ تو ابن جریج نے جواب دیا: مجھے نہیں معلوم! البتہ یہ کوئی ایسی نماز تھی جس میں (بلند آواز میں) قرأت کی جاتی ہے۔

4076 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَنْكُصُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ كَمَا هُوَ قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ، فَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُو

بَكَرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ

*** ہشام بن عروہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: ایک دن نبی اکرم ﷺ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اٹھنے قدموں پیچھے ہونے لگے تو نبی اکرم ﷺ نے انہیں اشارہ کیا کہ وہ جس طرح ہیں اسی طرح نماز پڑھاتے رہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ تشریف لائے اور ان کے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے تو لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز کی پیروی میں نماز ادا کر رہے تھے جبکہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ کی نماز کی پیروی میں نماز ادا کر رہے تھے اور نبی اکرم ﷺ بیٹھ کر (نماز ادا کر رہے تھے)۔

4077 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ حَتَّى جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ، وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ، فَصَلَّى قَائِمًا يَأْتُمُّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ يَأْتُمُونَ بِأَبِي بَكْرٍ

*** ابوسلمہ بن عبدالرحمن بیان کرتے ہیں: اپنی بیماری کے دوران نبی اکرم ﷺ تشریف لائے اور جائے نماز پر تشریف فرما ہوئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے پہلو میں کھڑے ہو گئے تو انہوں نے (نماز میں) نبی اکرم ﷺ کی پیروی کرتے ہوئے کھڑے ہو کر نماز ادا کی اور لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پیروی میں نماز ادا کی۔

4078 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسٍ فَجَحِشَ شِقَّةُ الْأَيْمَنِ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا، وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنْ اقْعُدُوا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ" قَالَ أَبُو عُرْوَةَ: وَبَلَّغَنِي أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*** حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ گھوڑے سے گر گئے جس کی وجہ سے آپ کا دایاں پہلو زخمی ہو گیا لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بیٹھ کر انہیں نماز پڑھائی اور انہیں اشارہ کیا کہ تم لوگ بھی بیٹھ جاؤ جب نبی اکرم ﷺ نے سلام پھیرا تو ارشاد فرمایا:

"امام کو اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے جب وہ تکبیر کہے تو تم لوگ بھی تکبیر کہو جب وہ رکوع کرنے لگے تو تم لوگ بھی رکوع کرنے لگے جب وہ سمع اللہ لمن حمد پڑھے تو تم ربنا ولک الحمد پڑھو جب وہ سجدہ میں جائے تو تم بھی سجدہ میں جاؤ جب وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے تو تم لوگ بھی بیٹھ کر نماز ادا کرو۔"

ابوعروہ بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔

4079 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شَهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَجَحِشَ شِقَّةُ الْأَيْمَنِ، فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَصَلُّوا مَعَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا

انصرف قال: "انما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين"

*** حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے گر گئے آپ کا دایاں پہلو زخمی ہو گیا، آپ نے بیٹھ کر لوگوں کو نماز پڑھائی، ان لوگوں نے آپ کی اقتداء میں بیٹھ کر نماز ادا کی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا:

”بے شک امام کو اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے، جب وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرے تو تم لوگ کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، جب وہ رکوع میں جائے تو تم رکوع میں جاؤ، جب وہ سمع اللہ لمن حمده پڑھے تو تم رہنا ولک الحمد پڑھو، جب وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز ادا کرو۔“

4080 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم قاعداً يوم الناس، فقام الناس خلفه، فأخلف يده اليهم يوم بها اليهم أن اجلسوا
*** هشام بن عروہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہوئے لوگوں کی امامت کی، لوگ آپ کے پیچھے کھڑے رہے تو آپ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف کر کے انہیں اشارہ کیا کہ تم لوگ بیٹھ جاؤ۔

4081 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن عيينة قال: أخبرني عمرو بن عبيد، عن الحسن: أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى، فدخل عليه عمر ونفر معه يعوذونه، فحضرت الصلاة فصلى بهم قاعداً وهم قيام، وأشار اليهم بيده أن اجلسوا، فلما فرغ قال: إن فارس إنما تفضلت عليهم ملوكهم لأنهم يجلسون ويقام لهم، فلا تفعلوا ذلك، وأشار بيده إلى ورانه من غير أن يرفعهما إلى عاتقه

*** حسن بصری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ کچھ لوگ بھی تھے یہ لوگ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آئے تھے، جب نماز کا وقت ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر ان لوگوں کو نماز پڑھائی، وہ لوگ کھڑے رہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کے ذریعہ انہیں اشارہ کیا کہ تم لوگ بیٹھ جاؤ۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا:

”اہل فارس کا یہ حال ہے کہ ان کے بادشاہ ان سے یوں نمایاں ہوتے ہیں کہ بادشاہ بیٹھے رہتے ہیں اور لوگ ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، تو تم لوگ ایسا نہ کرو۔“

راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کے ذریعہ پیچھے کی طرف اشارہ کیا تھا، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ گردن سے بلند نہیں کیے تھے۔

4082 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن منبه، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع

فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ "

* * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

"امام کو اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ اس کی پیروی کی جائے تو تم لوگ اس کے برخلاف نہ کرو جب وہ تکبیر کہے تو تم تکبیر کو جب وہ رکوع میں جائے تو تم رکوع کرو جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ پڑھے تو تم اللہم ربنا لک الحمد پڑھو جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو جب وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز ادا کرو۔"

4083 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْإِمَامُ أَمِيرٌ، فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا

* * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

"امام امیر ہوتا ہے اگر وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے تو تم لوگ بھی بیٹھ کر نماز ادا کرو اور اگر وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرے تو تم لوگ بھی کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔"

4084 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ قَهْدٍ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّ إِمَامَهُمْ اشْتَكَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَكَانَ يَوْمًا جَالِسًا وَنَحْنُ جُلُوسٌ

* * حضرت قیس بن قہد انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں لوگوں کے امام بیمار ہو گئے تو وہ بیٹھ کر ہماری امامت کرتے تھے اور ہم بھی بیٹھ کر (نماز ادا کرتے تھے)۔

4085 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَسِيدَ بْنَ حُضَيْرٍ.

4082- صحیح البخاری - کتاب الاذان ابواب صلاة الجماعة والإمامة - باب: إقامة الصف من تمام الصلاة حدیث: 701 صحیح مسلم - کتاب الصلاة باب انتظام المأموم بالإمام - حدیث: 654 صحیح ابن خزيمة - کتاب الإمامة فی الصلاة جماع ابواب قیام المأمومین خلف الإمام وما فیہ من السنن - باب امر المؤمنین بالاعتداء بالإمام حدیث: 1482 مستخرج ابی عوانة - باب فی الصلاة بین الاذان والإقامة فی صلاة المغرب وغیرہ بیان الانتظام بالإمام فی الصلاة وحظر مبادرتہ وحظر صلاة المأموم قائما - حدیث: 1290 صحیح ابن حبان - باب الإمامة والجماعة فصل فی فضل الجماعة - ذکر خبر ثانی يدل علی فساد تأویل هذا المتناول لهذا الخبر حدیث: 2139 سنن الدارمی - کتاب الصلاة باب: القول بعد رفع الرأس من الركوع - حدیث: 1333 سنن ابن ماجه - کتاب إقامة الصلاة باب إذا قرا الإمام فانتصوا - حدیث: 843 السنن للنسائی - کتاب الافتتاح تأویل قوله عز وجل: وإذا قرء القرآن فاستمعوا له وانصتوا - حدیث: 916 مصنف ابن ابی شیبة - کتاب الصلاة من كره القراءة خلف الإمام - حدیث: 3752 السنن الكبرى للنسائی - العمل فی افتتاح الصلاة تأویل قول الله جل ثناؤه وإذا قرء القرآن فاستمعوا له وانصتوا - حدیث: 976

اشتگی و کان یوم قومہ جالسًا

*** ہشام بن عروہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ بیمار ہو گئے تو وہ بیٹھ کر اپنی قوم کی امامت کرتے تھے۔

4086 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جریج، عن عطاء قال: أحب إلى إذا اشتكى الإمام أن يؤمر من يصلي بالناس إذا كان لا يستطيع أن يصلي إلا قاعدًا قال: وإن صلى الإمام قاعدًا فالسنة، قلت: فإن صلى قاعدًا أصلي معه أو أدعه؟ قال: بل صل معه. أترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: وأحب إلى أن يقدموا غيره منهم

*** عطاء بیان کرتے ہیں: میرے نزدیک زیادہ محبوب بات یہ ہے: جب امام بیمار ہو جائے تو وہ کسی شخص کو یہ ہدایت کرے کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھانے جبکہ امام صرف بیٹھ کر ہی نماز پڑھنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ عطاء یہ فرماتے ہیں: اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھاتا ہے تو یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ میں نے دریافت کیا: اگر امام بیٹھ کر نماز پڑھاتا ہے تو کیا میں اس کی اقتداء میں نماز ادا کروں گا؟ یا امام کو ترک کر دوں گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! بلکہ تم اس کی اقتداء میں نماز ادا کرو گے، کیا تم نبی اکرم ﷺ کی سنت سے منہ موڑنا چاہتے ہو؟ انہوں نے یہ بات کہی کہ مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ لوگ امام کی بجائے کسی دوسرے شخص کو آگے کر دیں (تا کہ وہ نماز پڑھادے)۔

4087 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن رجل بعدي جالسًا

*** امام شععی روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: ”میرے بعد کوئی بھی شخص بیٹھ کر امامت ہرگز نہ کرے۔“

4088 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن إسرائيل، عن جابر، عن الشعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن رجل بعدي جالسًا قال عبد الرزاق: وما رأيت الناس إلا على الإمام، إذا صلى قاعدًا صلى من خلفه قعودًا، وهي سنة من غير واحد

*** امام شععی روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے: ”میرے بعد کوئی بھی شخص بیٹھ کر امامت ہرگز نہ کرے۔“

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ امام خواہ کوئی بھی ہو جب وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے تو لوگ اس کے پیچھے بیٹھ کر ہی نماز ادا کرتے ہیں اور یہ سنت ہے جو کئی حوالوں سے ثابت ہے۔

بَابُ الصَّلَاةِ جَالِسًا

باب: بیٹھ کر نماز ادا کرنا

4089 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ أَوْ اثْنَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا، وَيُوتِلُ السُّورَةَ حَتَّى يَكُونَ فِي قِرَاءَةِ أَطْوَلَ مِنْهَا

*** سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: میں نے نبی اکرم ﷺ کو کبھی بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا یہاں تک کہ آپ کے وصال سے ایک یا شاید دو سال پہلے (آپ نے بیٹھ کر نمازیں پڑھنا شروع کر دیں) آپ اپنے نوافل بیٹھ کر ادا کیا کرتے تھے اور سورت کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے یہاں تک کہ وہ اپنے سے زیادہ طویل سورت سے بھی زیادہ طویل محسوس ہوتی تھی۔

4090 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ أَكْثَرَ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ

*** سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ﷺ کا وصال اُس وقت تک نہیں ہوا جب تک آپ کی زیادہ تر نمازیں بیٹھ کر ادا نہیں کی جاتی تھیں۔

4091 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: وَالَّذِي تَوَفَّى نَفْسَهُ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا تَوَفَّى حَتَّى كَانَ كَثِيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، وَكَانَ أَعْجَبُ الْعَمَلِ إِلَيْهِ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ كَانَ يَنْسِيرًا

*** سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: اُس ذات کی قسم جس نے آپ ﷺ کو موت دی! یعنی نبی اکرم ﷺ کو موت دی نبی اکرم ﷺ کا انتقال اُس وقت تک نہیں ہوا جب تک آپ کی اکثر (نفل) نمازیں بیٹھ کر ادا نہیں ہوتی تھیں البتہ فرض نمازوں کا معاملہ مختلف ہے۔ نبی اکرم ﷺ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل وہ تھا جسے کرنے والا اُسے باقاعدگی سے سرانجام دے اگرچہ وہ تھوڑا ہو۔

4092 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَهْلَ عَائِشَةَ يَذْكُرُونَ أَنَّهَا كَانَتْ، تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدَ الْإِنْصَابِ لِجَسَدِهِ فِي الْعِبَادَةِ، غَيْرَ أَنَّهُ حِينَ دَخَلَ فِي السِّنِّ، وَنَقَلَ مِنَ اللَّحْمِ كَانَ أَكْثَرَ مَا يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ

*** ابن ابوملیکہ بیان کرتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر والوں کو یہ بات ذکر کرتے ہوئے سنا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں: نبی اکرم ﷺ اپنے جسم کو (عبادت کے معاملہ میں) بہت زیادہ تھکاوٹ کا شکار کرتے تھے البتہ جب آپ کی عمر

شریف زیادہ ہوگئی اور جسم بھاری ہو گیا تو آپ زیادہ تر (نفل) نمازیں بیٹھ کر ادا کرتے تھے۔

4095 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: بَلَّغْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَمْ يَمُتْ حَتَّى صَلَّى جَالِسًا

*** عطاء بیان کرتے ہیں: ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا وصال اُس وقت تک نہیں ہوا جب تک آپ

بیٹھ کر نمازیں ادا کرنے نہیں لگے۔

4096 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ رُكُوعِهِ قَامَ فَقَرَأَ ثَلَاثِينَ آيَةً أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ

*** سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ﷺ بیٹھ کر نماز ادا کرتے تھے جب رکوع کے قریب پہنچتے تھے تو

آپ کھڑے ہو کر تیس یا چالیس آیات کی تلاوت کرتے تھے پھر رکوع میں جاتے تھے۔

4097 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ، وَكَانَ إِذَا بَقِيََتْ

عَلَيْهِ ثَلَاثُونَ آيَةً أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَجَدَ

*** سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ﷺ رات کی نفل نمازوں میں بیٹھ کر تلاوت نہیں کرتے تھے

یہاں تک کہ جب آپ کی عمر شریف زیادہ ہوگئی تو آپ (بیٹھ کر نوافل ادا کرنے لگے) یہاں تک کہ جب تیس یا چالیس آیات کی

تلاوت باقی رہ جاتی تھی تو آپ کھڑے ہو کر ان کی تلاوت کرتے تھے پھر سجدہ میں جاتے تھے۔

4098 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ

قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ، عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا رَكَعَ جَالِسًا

*** عبد اللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں: ہم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم ﷺ کی نماز کے بارے میں دریافت کیا

تو انہوں نے بتایا: نبی اکرم ﷺ جب کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے تھے تو قیام کی حالت سے ہی رکوع میں جاتے تھے اور جب بیٹھ

کر نماز ادا کرتے تھے تو بیٹھے ہوئے ہی رکوع کر لیتے تھے۔

4099 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ عَنْ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي

لَيْلًا طَوِيلًا قَائِمًا، وَلَيْلًا طَوِيلًا قَاعِدًا، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ

قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا

*** عبد اللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں: ہم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم ﷺ کی نماز کے بارے میں دریافت کیا

تو انہوں نے بتایا: نبی اکرم ﷺ رات کے وقت طویل نماز کھڑے ہو کر ادا کرتے تھے اور رات کے وقت طویل نماز بیٹھ کر ادا کرتے تھے۔ میں نے دریافت کیا: نبی اکرم ﷺ کیا کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا: جب آپ قیام کی حالت میں قرأت کرتے تھے تو قیام سے ہی رکوع میں جاتے تھے اور جب بیٹھ کر قرأت کرتے تھے تو بیٹھے ہوئے ہی رکوع کر لیتے تھے۔

4100 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا اَنْ يَفْتَحَ صَلَاتَهُ بِرَكَعَتَيْنِ قَائِمًا

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: آدمی کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ جب وہ بیٹھ کر نماز ادا کرنے کا ارادہ کرے تو اپنی (نفل) نماز کے آغاز میں کھڑے ہو کر دو رکعات ادا کر لے۔

بَابُ كَيْفَ يَكُونُ جُلُوسُهُ اِذَا صَلَّى قَاعِدًا؟

باب: جب آدمی بیٹھ کر نماز ادا کرے گا تو اس کے بیٹھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟

4101 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ جَالِسٌ فِي التَّطَوُّعِ اِنْ شَاءَ مُتَرَبِّعًا، وَاِنْ مُحْتَبًا قَالَ: وَابْسُطْ رِجْلَكَ اِنْ شِئْتَ بَعْدَ مَا تَشْهَدُ قَالَ: قُلْتُ: فَمَتَكِنًا؟ قَالَ: لَا

*** عطاء فرماتے ہیں: جب آدمی بیٹھ کر نوافل ادا کرے گا تو اگر وہ چاہے تو چار زانو بیٹھ جائے اور اگر چاہے تو احتباء کے طور پر بیٹھ جائے۔ عطاء یہ فرماتے ہیں: اگر تم چاہو تو تشهد کے بعد اپنے پاؤں پھیلا سکتے ہو۔ ابن جریج کہتے ہیں: ہم نے دریافت کیا: کیا ٹیک لگائی جاسکتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

4102 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: اِنَّهُ كَانَ يَحْتَبِي فِي آخِرِ صَلَاتِهِ فِي التَّطَوُّعِ

*** سعید بن مسیب کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ اپنی نفل نماز کے آخر میں احتباء کے طور پر بیٹھ جاتے تھے۔

4103 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَذَكَرَ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذُنُبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: اِذَا اَرَادَ اَنْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجْلَهُ وَسَجَدَ

*** سعید بن مسیب فرماتے ہیں: جب آدمی سجدہ میں جانے کا ارادہ کرے گا تو اپنی ٹانگ کو موڑ کر سجدہ میں جائے گا۔

4104 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: اِذَا اَرَادَ الرَّجُلُ اَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا مُتَرَبِّعًا فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَرْكَعَ ثَنَى فِخْذَهُ كَمَا يَجْلِسُ فِي الصَّلَاةِ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، وَقَوْلُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَحَبُّ اِلَى سُفْيَانَ

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جب آدمی چار زانو بیٹھے ہوئے نماز ادا کرے اور رکوع میں جانے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے زانوؤں کو سیدھا کرے گا جس طرح آدمی نماز میں (تشہد میں) بیٹھتا ہے پھر وہ رکوع اور سجدہ کرے گا۔

(امام عبدالرزاق فرماتے ہیں:) سعید بن مسیب کا قول سفیان ثوری کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے (جو سابقہ روایت میں بیان ہوا ہے)۔

4105 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد: انه كان يصلي جالساً متربعا

*** مجاہد کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ چارزانوں بیٹھ کر نوافل ادا کر لیتے تھے۔

4106 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوري، عن هشام، عن محمد قال: يصلي الرجل قاعداً متربعا

*** ہشام نے محمد بن سیرین کا یہ قول نقل کیا ہے: آدمی چارزانوں بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔

4107 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن شيخ، من الأنصار قال: رأيت أنسا يصلي متربعا

*** سفیان ثوری نے انصار کے ایک بزرگ کا یہ بیان نقل کیا ہے: میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کو چارزانوں بیٹھ کر نماز

ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

4108 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن حصين بن عبد الرحمن، عن الهيثم بن شهاب قال:

قال عبد الله: لأن يجلس الرجل على الرضفين خير من أن يجلس في الصلاة متربعا قال عبد الرزاق: "يقول: إذا كان صلي قائما فلا يجلس يتشهد متربعا، فأما إذا صلى قاعداً فليتربع"

*** ابن شہاب بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: آدمی انکاروں پر بیٹھ جائے یہ اس کے لیے اس

سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ نماز میں چارزانوں بیٹھے۔

. امام عبدالرزاق فرماتے ہیں: جب آدمی کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گا تو وہ تشہد میں چارزانوں نہیں بیٹھے گا، لیکن وہ بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے تو پھر چارزانوں بیٹھ سکتا ہے۔

4109 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن عبد الله، عن شعبة، عن الحكم، عن ابن عباس: انه كان يكره

التربع في الصلاة يعنى التطوع، قال شعبة: فسألت عنه حماداً، فقال: لا بأس به في التطوع

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ نماز میں، یعنی نفل نماز میں چارزانوں بیٹھنے کو

مکروہ سمجھتے تھے۔ شعبہ بیان کرتے ہیں: میں نے حماد سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: نفل نماز میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

4110 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوري، عن الحسن بن عمرو، عن أبيه، عن سعيد بن جبير: انه

كان يصلي محتباً حتى اذا بقيت عليه عشر آيات قام فقرأ ثم ركع

*** سعید بن جبیر کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ احتباء کے طور پر بیٹھ کر نماز ادا کر لیتے تھے یہاں تک کہ جب

دس آیات کی تلاوت باقی رہ جاتی تھی تو کھڑے ہو کر انہیں پڑھتے تھے اور پھر رکوع میں جاتے تھے۔

4111 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن أبيه: ان عطاءً صلى وهو محتب، فمر عليه

سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَقَالَ: كَانَكُمْ جُلُوسٌ تَتَحَدَّثُونَ، ثُمَّ أَطْلَقَ حَبُوتَهُ، فَلَمَّا ذَهَبَ أَطْلَقَ عَطَاءُ الْحَبُوتَةَ، وَهُوَ يُصَلِّي
 *** ابن تیمی نے اپنے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے: عطاء نے احتباء کے طور پر بیٹھ کر نماز ادا کی۔ سعید بن جبیر ان کے پاس
 سے گزرے تو انہوں نے کہا: تم لوگ یوں بیٹھے ہوئے ہو جس طرح آپس میں بات چیت کر رہے ہو پھر انہوں نے ان کی کمر کے
 اوپر بندھا ہوا کپڑا کھول دیا جب سعید چلے گئے تو عطاء نے وہ کپڑا دوبارہ کھول دیا (شاید درست یوں ہے کہ دوبارہ باندھ لیا) جبکہ
 وہ نماز ادا کر رہے تھے۔

4112 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يُصَلِّي جَالِسًا مُتَرَبِّعًا

*** تیمی کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے ابن سیرین کو چارزانوں بیٹھ کر نماز ادا کرتے
 ہوئے دیکھا ہے۔

4113 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ

أَخْبَرَهُ، أَنَّ مُزَاهِمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَعْجَبُ مِنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ مُعْجَبًا
 مُحْتَبِيًا مَا هِيَ بِشَيْءٍ، فَرَدَّ عَلَيْهِ عُمَرُ وَقَالَ: قَدْ بَلَّغْنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ
 أَكْثَرَ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ "

*** عثمان بن محمد بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے غلام مزاحم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے
 کہا: مجھے ایسے شخص کی نماز پر حیرت ہوتی ہے جو احتباء کے طور پر بیٹھ کر نماز ادا کرتا ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حضرت عمر بن
 عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اسے جواب دیتے ہوئے یہ کہا: ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہونے سے پہلے آپ کی
 زیادہ تر (نفل) نمازیں بیٹھ کر ادا ہوتی تھیں۔

4114 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ عَطَاءَ الْخُرَّاسَانِيَّ: كَانَ يَحْتَبِي فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ،

فَقُلْتُ لَهُ: مِمَّنْ أَخَذْتَ هَذَا؟ وَحَدَّثَنِي بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: مَا أَرَى أَخَذْتَهُ إِلَّا مِنْ ابْنِ
 الْمُسَيْبِ

*** معمر بیان کرتے ہیں: عطاء خراسانی نفل نماز میں احتباء کے طور پر بیٹھ جاتے تھے میں نے ان سے دریافت کیا:
 آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے حاصل کیا ہے؟ پھر میں نے انہیں زہری کی نقل کردہ روایت بیان کی جو سعید بن مسیب سے منقول ہے
 تو انہوں نے فرمایا: میرے خیال میں میں نے یہ مسئلہ سعید بن مسیب سے ہی حاصل کیا ہے۔

4115 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الْمُسَيْبِ

يُصَلِّي وَهُوَ مُحْتَبِي فِي تَطَوُّعٍ

*** ابوزناد بیان کرتے ہیں: میں نے سعید بن مسیب کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا وہ احتباء کے طور پر بیٹھ کر نوافل ادا
 کر رہے تھے۔

4116 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُحْتَبٍ فِي

التَّطَوُّعِ

*** معمر یا شاید کسی اور راوی نے یہ روایت نقل کی ہے کہ محمد بن سیرین احتباء کے طور پر نماز ادا کرتے تھے۔

4117 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ قَائِمًا فَأُصَلِّي فَأَقْرَأُ

جَالِسًا وَلَمْ أَرْكَعْ وَلَمْ أَسْجُدْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَرْكَعُ رُكْعَةً وَاحِدَةً ثُمَّ أَجْلِسُ فَأَقْرَأُ؟ قَالَ: لَا، اكْرَهُ أَنْ تَجْلِسَ

فِي وَتْرٍ، قُلْتُ: فَاسْتَفْتِحُ ثُمَّ أَجْلِسُ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ، لَسْتُ الْآنَ فِي وَتْرٍ، قُلْتُ:

فَجَلَسْتُ بَعْدَ رُكْعَةٍ وَاحِدَةٍ؟ قَالَ: اسْجُدْ سَجْدَتِي السَّهْوِ، وَلَكِنْ أَجْلِسُ فِي مَثْنَى مَا شِئْتَ

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں قیام کی حالت میں نماز کا آغاز کرتا ہوں پھر میں

نماز ادا کرتے ہوئے بیٹھ کر تلاوت کر سکتا ہوں جبکہ میں رکوع یا سجدہ نہیں کرتا انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا:

کیا میں ایک رکعت ادا کرنے کے بعد پھر بیٹھ کر تلاوت کر سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم

طاق رکعت میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے دریافت کیا: میں نماز کا آغاز کرتا ہوں پھر میں رکوع یا سجدہ میں گئے بغیر بیٹھ جاتا ہوں؟ انہوں

نے جواب دیا: جی ہاں! اگر تم چاہو تو ایسا کر سکتے ہو ایسی صورت میں یہ طاق رکعت شمار نہیں ہوگی۔ میں نے دریافت کیا: پھر کیا ایک

رکعت کے بعد میں بیٹھ سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا: تمہیں دو مرتبہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا لیکن دو رکعات ادا کرنے کے بعد تم جب چاہو

بیٹھ سکتے ہو۔

4118 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ قَائِمًا فَارْكَعْتُ

رُكْعَةً وَسَجَدْتُ، ثُمَّ قُمْتُ، أَفَأَجْلِسُ إِنْ شِئْتُ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَلَا سُجُودٍ؟ قَالَ: لَا

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں قیام کی حالت میں نماز کا آغاز کرتا ہوں پھر میں

ایک مرتبہ رکوع کر لیتا ہوں سجدہ کر لیتا ہوں پھر کھڑا ہو جاتا ہوں تو اگر میں چاہوں تو رکوع اور سجدہ کیے بغیر بیٹھ سکتا ہوں؟ انہوں

نے جواب دیا: جی نہیں!

بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ الْقَائِمِ عَلَى الْقَاعِدِ

باب: کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والے کی بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے پر فضیلت

4119 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ نَضْلَةَ

يُحَدِّثُ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُحْتَبًا قَدْ صَفَّ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَالْصَّقَ يَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى،

فَجَعَلَهُمَا كَذَلِكَ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ اجْتَدَبَهُ ابْنُ عُمَرَ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ: أَنْ ضَعُ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ

*** علقمہ بن نضلہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے

ایک شخص کو احتباء کے طور پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، اُس نے اپنے دو گھٹنوں کے درمیان میں کپڑا باندھا ہوا تھا اور اپنے ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملائے ہوئے تھے اور انہیں دونوں گھٹنوں کے درمیان اسی طرح رکھا ہوا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اُسے کھینچا اور اُسے اشارہ کر کے کہا کہ تم اپنی ہتھیلیاں اپنے گھٹنوں پر رکھو۔

4120 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ،

فَنَالْنَا وَبَاءَ مِنْ وُعُكِ الْمَدِينَةِ شَدِيدًا، وَكَانَ النَّاسُ يُكْثِرُونَ أَنْ يُصَلُّوا فِي سُبْحَتِهِمْ جُلُوسًا، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ عِنْدَ الْهَاجِرَةِ، وَهُمْ يُصَلُّونَ فِي سُبْحَتِهِمْ جُلُوسًا، فَقَالَ: صَلَاةُ الْجَالِسِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ قَالَ: وَطَفِقَ النَّاسُ حِينَئِذٍ يَتَجَشَّمُونَ الْقِيَامَ

* * * حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: ہم مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ میں بخاریکی وبا ہمیں لاحق ہو گئی جو انتہائی شدید تھی لوگ زیادہ تر نوافل بیٹھ کر ادا کرنے لگے ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ دن چڑھے لوگوں کے پاس تشریف لائے تو وہ بیٹھ کر نوافل ادا کر رہے تھے نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیٹھ کر ادا کرنے والے کی نماز کھڑے ہو کر ادا کرنے والے کی نماز کا نصف ہوتی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: تو وہ لوگ اسی وقت تیزی سے کھڑے ہو گئے۔

4121 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَهِيَ مُحِيطَةٌ فَحَمَّ النَّاسُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قُعُودًا، فَقَالَ: صَلَاةُ الْقَاعِدِ نِصْفُ صَلَاةِ الْقَائِمِ، فَتَجَشَّمُوا النَّاسُ الصَّلَاةَ قِيَامًا

* * * حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم ﷺ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں بخاریکی وبا عام تھی لوگ بھی بیمار ہو گئے ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ مسجد میں داخل ہوئے تو لوگ بیٹھ کر نوافل ادا کر رہے تھے نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے شخص کی نماز کھڑے ہو کر ادا کرنے والے کی نماز کا نصف ہوتی ہے۔ تو لوگ نماز ادا کرنے کے لیے تکلف کے ساتھ کھڑے ہوئے۔

4122 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

بْنِ الْعَاصِي، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِلْقَاعِدِ فِي الصَّلَاةِ نِصْفَ أَجْرِ الْقَائِمِ

* * * حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نے نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں:

”نماز کو بیٹھ کر ادا کرنے والے شخص کو کھڑے ہو کر ادا کرنے والے کے اجر کا نصف ملتا ہے۔“

4123 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي قَاعِدًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ، إِنِّي حَدِيثُ أَنَّكَ قُلْتَ: إِنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي جَالِسًا؟ فَقَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ

*** حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ بیٹھ کر نماز ادا کر رہے تھے میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے: ”بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے شخص کا اجر کھڑے ہو کر ادا کرنے والے شخص کی نماز کا نصف ہوتا ہے۔“ جبکہ آپ خود بیٹھ کر نماز ادا کر رہے ہیں؟ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جی ہاں! لیکن میں تم میں سے کسی ایک کی مانند نہیں ہوں۔

4124 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: أَلَا أُصَلِّي وَأَنَا جَالِسٌ، إِنْ شِئْتُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ؟ قَالَ: بَلَى، إِنْ شِئْتُ، وَلَكِنَّ صَلَاةَ الْقَاعِدِ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر میں چاہوں تو کسی علت کے بغیر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! اگر تم چاہو تو! لیکن بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کا اجر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والے کے اجر کا نصف ہوتا ہے۔

4125 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ، عَنْ بَعْضِ نِسَائِهِمْ: أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَصَلَّتِ الْعَصْرَ، ثُمَّ قَامَتْ فَصَلَّتْ بَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ قَالَ: ثُمَّ دَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّتِ الْعَصْرَ، ثُمَّ قَامَتْ فَصَلَّتْ بَعْدَهَا رَكَعَاتٍ وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَيُّ أُمَّ سَلَمَةَ، إِنِّي دَخَلْتُ عَلَى أُخْتِكَ عَائِشَةَ فَصَلَّتْ رَكَعَتَيْنِ لِبَعْدِ الْعَصْرِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِنَّ عَائِشَةَ أَشْبَتْ مِنِّي وَأَنَا كَبِيرَةٌ

*** یوسف بن ماہک نے اپنے خاندان کی بعض خواتین کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عصر کی نماز ادا کی پھر وہ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے دو رکعات ادا کیں۔ اُس کے بعد وہ (خواتین) نبی اکرم ﷺ کی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں، انہوں نے عصر کی نماز ادا کی پھر وہ کھڑی ہوئیں اور انہوں نے عصر کے بعد کچھ رکعت ادا کیں اور وہ رکعات انہوں نے بیٹھ کر ادا کیں۔ تو ایک خاتون نے عرض کی: اے ام سلمہ! میں آپ کی بہن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئی تھی تو انہوں نے عصر کے بعد صرف دو رکعات ادا کی تھیں۔ تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: عائشہ میرے مقابلہ میں کم عمر ہے اور میں عمر رسیدہ ہوں۔

بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ

باب: بیمار کی نماز

4126 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَعَلَّهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قِيلَ لَهُ: مَا عَلَامَةُ مَا يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَاعِدًا؟ قَالَ: إِذَا كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ لِدُنْيَاهُ فَلْيُصَلِّ

*** عمرو بن میمون اپنے والد کے بارے میں نقل کرتے ہیں: اُن سے دریافت کیا گیا: اس چیز کی علامت کیا ہے کہ بیمار شخص بیٹھ کر نماز ادا کر سکے؟ اُنہوں نے جواب دیا: جب وہ اپنے دنیاوی کاموں کے لیے کھڑا ہونے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے۔

4127 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَادٍ قَالَ: سَأَلْتُ اِبْرَاهِيْمَ: كَيْفَ يُصَلِّي الْمَرِيضُ؟ قَالَ: يَكُونُ قِيَامُهُ مُرَبَّعًا

*** حماد بیان کرتے ہیں: میں نے ابراہیم نخعی سے سوال کیا: بیمار شخص کیسے نماز ادا کرے گا؟ اُنہوں نے جواب دیا: اُس کا قیام چارزانوں ہوگا۔

4128 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ مِثْلَهُ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ مجاہد سے منقول ہے۔

4129 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَهُوَ مَرِيضٌ وَهُوَ يُصَلِّي مُضْطَجِعًا عَلَى يَمِيْنِهِ يَوْمَ اِيْمَاءٍ لِمُصَلَّةِ الظُّهْرِ قَالَ: وَكَانَ غَيْرُهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ يَقُولُ: كَانَ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ، تَلَى قَدَمَاهُ الْقِبْلَةَ قَدْرًا مَا لَوْ قَامَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

*** ابو ہیشم بیان کرتے ہیں: میں ابراہیم نخعی کی خدمت میں حاضر ہوا وہ بیمار تھے وہ دائیں پہلو کے بل لیٹ کر نماز ادا کر رہے تھے وہ اشارہ کے ساتھ نماز ادا کر رہے تھے اور وہ ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے۔

راوی بیان کرتے ہیں: اُن کے علاوہ دیگر فقہاء یہ کہتے ہیں کہ ایسا شخص گدی کے بل چت لیٹ کر اپنے دونوں پاؤں قبلہ کی طرف کرے گا کہ جس طرح اگر وہ کھڑا ہوتا تو اُس کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا۔

4130 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: يُصَلِّي الْمَرِيضُ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ تَلَى قَدَمَاهُ الْقِبْلَةَ

*** نافع، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کرتے ہیں: بیمار شخص گدی کے بل چت لیٹ کر نماز ادا کرے گا اور اُس کے دونوں پاؤں قبلہ کی طرف ہوں گے۔

4131 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلَّا مُضْطَجِعًا، فَيُصَلِّي وَهُوَ عَلَى جَنْبِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يَوْمَ اِيْمَاءٍ

*** قتادہ فرماتے ہیں: جب بیمار شخص صرف لیٹ کر ہی نماز ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ پہلو کے بل قبلہ کی طرف رخ کر کے (لیٹ کر) نماز ادا کرے گا اور اشارہ کے ساتھ ادا کرے گا۔

4132 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْمَرِيضُ يَكُونُ مُسْتَلْقِيًا لَا

يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْلِسَ قَالَ: فَلْيُصَلِّ مُنْحَرِفًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُصَلِّ مُسْتَلْقِيًا يَوْمَ بَرَأْسِهِ قَالَ: قُلْتُ: أَيْضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَسَجَدَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لِيَوْمَ بَرَأْسِهِ وَيَدَيْهِ، وَلِلتَّكْبِيرِ بِيَدَيْهِ

*** ابن جریج عطاء کے بارے میں نقل کرتے ہیں: میں نے ان سے دریافت کیا: ایک بیمار جو صرف چت لیٹ سکتا ہے وہ بیٹھ نہیں سکتا (اُس کا کیا حکم ہوگا؟) انہوں نے جواب دیا: وہ رُخ پھیر کر نماز ادا کر لے گا اور اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر وہ چت لیٹ کر سر کے ذریعہ اشارہ کرے گا۔ میں نے دریافت کیا: جب وہ رکوع یا سجدہ کرے گا تو کیا اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! وہ صرف اپنے سر اور دونوں ہاتھوں کے ذریعہ اشارہ کرے گا اور دونوں ہاتھوں کے ذریعہ بھی تکبیر کہنے کے لیے اشارہ کرے گا۔

4133 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا صَلَّى الْمَرِيضُ جَالِسًا فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا اسْتَطَاعَ

*** عطاء فرماتے ہیں: جب بیمار شخص بیٹھ کر نماز ادا کرے گا تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھے گا اور جب سجدہ کرے گا تو دونوں ہاتھ زمین پر رکھے گا اگر وہ اس کی استطاعت رکھتا ہو۔

4134 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا رَكَعَ الْمَرِيضُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ

*** قتادہ فرماتے ہیں: جب بیمار شخص رکوع کرے گا تو اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھے گا اور جب سجدہ کرے گا تو دونوں ہاتھ زمین پر رکھے گا۔

4135 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ وَبِهِ الْمُدُّ أَوْ شَبَّهُهُ كَيْفَ يُصَلِّي؟ قَالَ: عَلَى كُلِّ حَالٍ، مُسْتَلْقِيًا وَمُنْحَرِفًا، فَإِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ إِلَّا ذَلِكَ فَيَوْمُهُ إِيمَاءً، وَيَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ

*** معمر بیان کرتے ہیں: میں نے قتادہ کو سنا ان سے بیمار شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جسے مد یا اس کی مانند کسی بیماری کی شکایت ہو وہ کیسے نماز ادا کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا: وہ ہر حالت میں (نماز ادا) کر سکتا ہے چت لیٹ کر بھی سکتا ہے اور رُخ پھیر کر بھی کر سکتا ہے جب وہ قبلہ کی طرف رُخ کرے گا اور وہ صرف اشارہ کے ذریعہ نماز ادا کر سکتا ہو تو وہ اپنے سجدہ میں رکوع کی بہ نسبت زیادہ جھکے گا۔

4136 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْأَرْضِ أَيْسَجُدُ عَلَى حَصِيرٍ، أَوْ يُرْفَعُ إِلَيْهِ بَطْحَاءٌ عَلَى خُمْرَةٍ فَيَسْجُدُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لِيَوْمَ إِيمَاءٍ بَرَأْسِهِ، وَيَجْعَلُ السَّجْدَةَ أَخْفَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: جب بیمار شخص زمین پر سجدہ کرنے کی استطاعت نہ رکھتا

ہو تو کیا وہ چٹائی پر سجدہ کرے گا یا مٹی کو کسی چٹائی میں رکھ کر اُس کی طرف بلند کیا جائے گا تا کہ وہ اُس پر سجدہ کر لے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! بلکہ وہ اپنے سر کے ذریعہ اشارہ کر لے گا اور سجدہ میں رکوع کی بہ نسبت اپنے سر کو زیادہ جھکائے گا۔

4137 آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى صَفْوَانَ الطَّوِيلِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى وَسَادَةٍ، فَنَهَاهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى حَصَى أَوْ عَلَى وَسَادَةٍ، وَأَمَرَهُ بِالْإِيمَاءِ فَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَرِيضًا فَلَمْ يَسْتَطِعْ سُجُودًا عَلَى الْأَرْضِ فَلَا يَرْفَعُ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا، وَلِيَجْعَلَ سُجُودَهُ رُكُوعًا، وَلْيَوْمَءِ بِرَأْسِهِ وَقَدْ رَأَى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ صَلَّى، فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعْ بَعْدُ، فَجَعَلَ سُجُودَهُ رُكُوعًا

* * * عطاء بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صفوان طویل کے ہاں آئے جو تکیہ پر نماز ادا کر رہے تھے (یعنی تکیہ پر سجدہ کر رہے تھے) تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں کنکریوں پر یا تکیہ پر نماز ادا کرنے (یعنی سجدہ کرنے) سے منع کیا اور انہیں یہ ہدایت کی کہ وہ اشارہ کر لیں۔

(یہ روایت سننے کے بعد) سلیمان بن موسیٰ نامی راوی نے کہا: نافع نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر یہ فرماتے تھے: جب کوئی شخص بیمار ہو اور وہ زمین پر سجدہ کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو اُس کے چہرے کی طرف کوئی چیز بلند نہ کی جائے بلکہ وہ اپنے رکوع کو ہی سجدہ بنا لے گا (یعنی رکوع کی طرح ہی سجدہ کر لے گا) اور سر کے ذریعہ اشارہ کرے گا۔

نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو اُن کی اُس بیماری کے دوران جس میں اُن کا انتقال ہوا، انہیں دیکھا کہ وہ نماز ادا کر رہے تھے تو ایک مرتبہ تو انہوں نے اپنی پیشانی رکھ دی، لیکن اُس کے بعد وہ اپنی پیشانی نہیں رکھ سکے، تو انہوں نے اپنے رکوع کو ہی سجدہ قرار دے دیا۔

4138 آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ صَفْوَانَ الطَّوِيلِ، فَوَجَدَهُ يَسْجُدُ عَلَى وَسَادَةٍ، فَنَهَاهُ وَقَالَ: أَوْمءُ وَاجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَصَ مِنَ الرُّكُوعِ * * * عطاء فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ابن صفوان طویل کے پاس گئے تو اُسے تکیہ پر سجدہ کرتے ہوئے پایا تو اُسے ایسا کرنے سے منع کیا اور یہ فرمایا: تم اشارہ کر لو اور سجدہ میں رکوع کی بہ نسبت زیادہ جھک جاؤ۔

4139 آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سَحِيمٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَسْأَلُ ابْنَ صَلِي الرَّجُلِ عَلَى الْعُودِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: لَا أَمْرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا، مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا فَلْيُصَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَحَالِسًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَسُجِّعًا يَوْمَءِ إِيْمَاءً * * * جبلة بن سحیم بیان کرتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سنا، اُن سے سوال کیا گیا: کیا کوئی شخص جبکہ بیمار

ہو وہ لکڑی پر نماز ادا کر سکتا ہے (یعنی سجدہ کر سکتا ہے)؟ انہوں نے فرمایا: میں تمہیں اس بات کی ہدایت نہیں کروں گا کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی بت کو اختیار کر لو جو شخص کھڑا ہو کر نماز ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرے اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو بیٹھ کر ادا کرے اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو لیٹ کر اشارہ کے ذریعہ ادا کرے۔

4140 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَرِيضُ عَلَى الْأَرْضِ سُجُودًا أَوْ مَا إِيمَاءً، وَكَانَ قَتَادَةُ يَكْرَهُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْجِدَارِ، أَوْ يَرْفَعَ إِلَى وَجْهِهِ حَصَى أَوْ شَيْئًا

*** قنادہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جب بیمار شخص زمین پر سجدہ کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ اشارہ کے ذریعہ (نماز ادا کرے گا)۔

قنادہ بیمار شخص کے لیے یہ بات مکروہ قرار دیتے ہیں کہ وہ دیوار پر سجدہ کرے یا اُس کے چہرہ کی طرف کنکریا کوئی اور چیز بلند کی جائے (اور وہ اُن پر سجدہ کرے)۔

4141 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَسْتَطِيعُ رُكُوعًا وَلَا سُجُودًا أَوْ مَا بِرَأْسِهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهُوَ يَكْبُرُ

*** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جب بیمار شخص رکوع کرنے یا سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھے گا تو وہ اپنے سر کے اشارہ کے ذریعہ رکوع اور سجدہ کرے گا اور تکبیر کہے گا۔

4142 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لَا يَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوعِ أَوْ مَا بِرَأْسِهِ

*** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جب بیمار شخص رکوع پر قدرت نہ رکھتا ہو تو وہ اپنے سر کے ذریعہ اشارہ کرے گا۔

4143 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّبَلِيِّ قَالَ: أَصَابَ وَالِدِي الْفَالِجُ، فَأَرَمَهُ لِنَبِيِّ إِلَى ابْنِ عُمَرَ: أَيْرْفَعُ إِلَيْهِ شَيْئًا إِذَا صَلَّى؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَيْضًا بَيْنَ عَيْنَيْكَ أَوْ مَاءً

*** ابو حرب بن ابواسود دلیبی بیان کرتے ہیں: میرے والد کو فالج ہو گیا تو انہوں نے مجھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی خدمت میں بھیجا کہ جب وہ نماز ادا کر رہے ہوں تو اُن کی طرف کوئی چیز بلند کی جائے (کہ وہ اُس پر سجدہ کریں) تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: تم سامنے کی طرف اشارہ کرو۔

4144 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنْ أَبِي اسْحَاقَ، عَنِ زَيْدِ بْنِ مَعَاوِيَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، دَخَلَ عَلَى عُتْبَةَ أَخِيهِ، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى مِسْوَاكٍ يَرْفَعُهُ إِلَى وَجْهِهِ، فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ

ثُمَّ قَالَ: أَوْمِ إِيمَاءً وَتَكُنْ رَكَعَتِكَ أَرْفَعُ مِنْ سَجْدَتِكَ

* * * علقمہ اور اسود بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اپنے بھائی عتبہ کے پاس تشریف لے گئے وہ اُس وقت نماز ادا کر رہے تھے اور مسواک کو اُن کی طرف بلند کیا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اُسے پکڑ کر ایک طرف پھینک دیا اور پھر بولے: تم اشارہ کرو اور رکوع کرتے ہوئے سجدہ کی بہ نسبت بلند رہنا (یعنی سر کو زیادہ نہ جھکانا)۔

4145 - آثار صحابہ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ قَالَتْ: رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْجُدُ عَلَى مِرْفَقِي، وَهِيَ قَاعِدَةٌ، أَعْنَى تُصَلِّي قَاعِدَةً

* * * اُم حسن بیان کرتی ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کو ایک تکیہ پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا وہ اُس وقت بیٹھی ہوئی تھیں میرا مطلب ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کر رہی تھیں۔

4146 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي فَرَاةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَرِيضِ يَسْجُدُ عَلَى الْمِرْفَقِ الطَّاهِرَةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ

* * * ابو فزارہ سلمی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بیمار شخص کے بارے میں دریافت کیا جو پاک تکیہ پر سجدہ کرتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

4147 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: يَسْجُدُ الْمَرِيضُ عَلَى الْمِرْفَقِ الطَّاهِرَةِ، وَعَلَى الثَّوْبِ الطَّاهِرِ

* * * ابو اسحاق بیان کرتے ہیں: بیمار شخص پاک تکیہ پر یا پاک کپڑے پر سجدہ کرے گا۔

4148 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ أَبِي طَلْحَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِأَنْ يَكُفَّ الثَّوْبَ الْمَرِيضُ وَيَسْجُدَ عَلَيْهِ

* * * حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بیمار شخص کپڑے کو لپیٹ کر اُس پر سجدہ کرے۔

4149 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ، كَانَ يُصَلِّي عَلَى الشَّيْءِ دُونَ الْأَرْضِ

* * * ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں: عروہ زمین کے اوپر موجود کسی چیز پر نماز ادا کر لیتے تھے (یعنی اُس پر سجدہ کر لیتے تھے)۔

بَابُ صَلَاةِ الْمَرِيضِ عَلَى الدَّابَّةِ، وَصَلَاةِ الْمُغْمَى عَلَيْهِ

باب: بیمار شخص کا سواری پر نماز ادا کرنا اور ایسے شخص کا نماز ادا کرنا جس پر بیہوشی طاری ہوئی ہو

4150 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: كَانَ يُرَخِّصُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى دَابَّتِهِ إِلَى

الْقِبْلَةُ

*** قناده نے بیمار شخص کو اس بات کی رخصت دی ہے کہ وہ اپنی سواری پر موجود رہ کر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر سکتا ہے۔

4151 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جریج، عن عطاء قال: لا بأس بان يصلي المريض على دابته مقبلًا الى البيت غير مدبر عنه

*** عطاء فرماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بیمار شخص اپنی سواری پر رہتے ہوئے نماز ادا کر لے جبکہ اس کا رخ قبلہ کی طرف ہو قبلہ سے مڑا ہوا نہ ہو۔

4152 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع قال: اغمى على ابن عمر يومًا وليلة فلم يقض ما فاتته

*** نافع بیان کرتے ہیں: ایک دن اور ایک رات تک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر بیہوشی طاری ہوئی تو ان کی جو نمازیں رہ گئی تھیں انہوں نے اس کی قضاء نہیں کی۔

4153 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن نافع: ان ابن عمر اغمى عليه شهرًا فلم يقض ما فاتته، وصلى يومه الذي افاق فيه

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر ایک ماہ تک بیہوشی طاری ہوئی، لیکن اس دوران ان کی جو نمازیں رہ گئی تھیں انہوں نے ان کی قضاء نہیں کی۔ انہوں نے اس دن کی نماز ادا کی جس دن انہیں افاقہ ہوا تھا۔

4154 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، وابن جریج، عن ابن طاوس، عن ابيه قال: اذا اغمى على المريض ثم عقل لم يعد الصلاة، قال معمر: سألت الزهري عن ذلك، فقال: لا يقضى

*** طاوس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: جب بیمار شخص پر بیہوشی طاری ہو جائے اور پھر جب اسے ہوش آئے تو وہ نماز کو دہرائے گا نہیں۔

معمر بیان کرتے ہیں: میں نے زہری سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے یہی کہا کہ وہ قضاء نہیں کرے گا۔

4155 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، وقنادة، قال: يقضى صلاة يومه وصلاة ليله اذا لم يعقل

*** زہری اور قناده فرماتے ہیں: ایسا شخص اس دن اور اس رات کی نماز کی قضاء کرے گا جب اسے ہوش نہیں تھا۔

4156 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن السدي قال: حدثني يزيد: ان عمارة بن ياسر رمى، فأغمى عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق نصف الليل، فصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء

*** یزید نامی راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو تیرگنا تو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے وقت تک اُن پر بیہوشی طاری رہی نصف رات کے وقت اُنہیں ہوش آیا تو اُنہوں نے ظہر، عصر، مغرب اور پھر عشاء کی نمازیں ادا کیں۔

4157 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جریج، عن عطاء قال: اذا غلب المریض علی عقله ثم افاق، فلبصلاً ما فاتہ اذا عقل صلاحته کل يوم وکلیلة کذلک

*** عطاء فرماتے ہیں: جب بیمار شخص کی عقل مغلوب ہو جائے (یعنی وہ بیہوش ہو جائے) اور پھر جب اُسے افاقہ ہو (یعنی ہوش آجائے) تو اُس کی جو نمازیں رہ گئی تھیں وہ اُنہیں ادا کرے گا جبکہ اُسے نماز کی سمجھ ہو وہ روزانہ اسی طرح کرے گا۔

4158 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جریج، عن نافع: ان ابن عمر اشتکی مرّة غلب فیها علی عقله حتی ترک الصلاة، ثم افاق، فلم یصل ما ترک من الصلاة

*** نافع بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما شدید بیمار ہو گئے یہاں تک کہ ان کے حواس جاتے رہے (یعنی وہ بیہوش ہو گئے) یہاں تک کہ اُنہوں نے نماز ادا نہیں کی پھر جب اُنہیں افاقہ ہوا تو جو نماز اُنہوں نے ادا نہیں کی تھی اُسے ادا نہیں کیا (یعنی اُس کی قضاء نہیں کی)۔

4159 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوری فی رجل اُغسی علیہ فقانتہ صلاة واحدة لا یدری ایتھن ہی؟ قال: یبدأ فیصلی المغرب، ثم الفجر، ثم الظهر، ثم یوی بها الظهر والعصر والعشاء، فایتھن کانت فہی اربع

*** سفیان ثوری ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جس پر بیہوشی طاری ہو جائے اور اُس کی ایک نماز رہ جائے جس کے بارے میں اُسے پتا نہ چلے کہ کون سی نماز رہ گئی ہے تو سفیان ثوری فرماتے ہیں: وہ آغاز میں پہلے مغرب کی نماز ادا کرے گا پھر فجر کی ادا کرے گا پھر ظہر کی ادا کرے گا اور اس کے ذریعہ ظہر، عصر اور عشاء کی نیت کر لے گا اُن میں سے جو بھی نماز ہوئی تو یہ چار رکعات ہوں گی۔

4160 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن ابيه قال: فی المعتوه یفیک احياناً قال: لا یقضی الصلاة اذا عقل

*** طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: بیہوش شخص جسے کبھی افاقہ ہو جاتا ہو اُس کے بارے میں طاؤس فرماتے ہیں: جب اُسے ہوش آجائے گا تو وہ نماز کی قضاء نہیں کرے گا۔

بَابُ النَّائِمِ وَالسَّكَرَانِ وَالْقِرَاءَةِ عَلَى الْغِنَاءِ

باب: سوئے ہوئے شخص اور مدہوش شخص کا حکم اور گا کر قرأت کرنا

4161 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوری، هل یقضی النائم والسکران الصلاة، ولا یقضی

المريض؟

*** سفیان ثوری فرماتے ہیں: سو یا ہوا شخص یا مدہوش شخص نماز کی قضاء کریں گے البتہ بیمار شخص قضاء نہیں کرے گا۔

4162 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَادٍ فِي الْمَجْنُونِ يُفِيْقُ قَالَ: يَتَوَضَّأُ

*** حماد ایسے مجنون کے بارے میں فرماتے ہیں: جسے کبھی افاقہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ وضو کرے گا۔

4163 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَغْتَسِلُ

*** حسن بصری فرماتے ہیں: وہ غسل کرے گا۔

4164 - اقوال تابعین: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الْمَسْتَوْهِ يَفِيْقُ

أَحْيَانًا قَالَ: لَا يَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا عَقَلَ

*** طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: ایسا پاگل شخص جو کبھی ٹھیک ہو جاتا تو اس کے بارے

میں طاؤس فرماتے ہیں کہ جب اسے عقل آجائے گی تو وہ نماز کی قضاء نہیں کرے گا۔

4165 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْقِرَاءَةُ عَلَى الْعِنَاءِ؟ قَالَ: مَا

بَأْسَ بِذَلِكَ، سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: كَانَ دَاوُدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ الْمِعْرَافَةَ فَيَعْرِفُ بِهَا

عَلَيْهِ، يُرَدُّ عَلَيْهِ صَوْتُهُ، يُرِيدُ أَنْ يَبْكِيَ بِذَلِكَ وَيَبْكِي

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: گا کر قرأت کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہوں

نے جواب دیا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(وہ بیان کرتے ہیں:) میں نے عبید بن عمیر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام معرّفہ نانی (موتی) سے

آلہ لیتے تھے اور وہ اُسے بجاتے تھے وہ اُس کی آواز میں اس طرح کا زیروم پیدا کرتے تھے کہ جیسے رونے کی آواز آرہی ہے اور

وہ خود اس کے ساتھ رویا کرتے تھے۔

4166 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي

4166 - صحيح البخارى - كتاب فضائل القرآن' باب من لم يتغن بالقرآن - حديث: 4739' صحيح مسلم - كتاب صلاة

السافرين وقصرها' باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن - حديث: 1359' مستخرج ابى عوانة - مبتدا فضائل

القرآن' باب ذكر الخبر البيه للقاء ان يتغنى بالقرآن إذا كان حسن - حديث: 3131' صحيح ابن حبان - كتاب

الرقائق' باب قراءة القرآن - ذكر إباحة تحزين الصوت بالقرآن إذ الله اذن في ذلك' حديث: 751' سنن الداريمى -

كتاب الصلاة' باب التغنى بالقرآن - حديث: 1505' سنن ابى داود - كتاب الصلاة' باب تفریع ابواب الوتر - باب

استحباب الترتيل فى القراءة' حديث: 1272' السنن للنسائى - كتاب الافتتاح' تزيين القرآن بالصوت - حديث: 1011'

السنن الكبرى للنسائى - العمل فى افتتاح الصلاة' تزيين القرآن بالصوت - حديث: 1071' مشكل الآثار للمصحاوى - باب

بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه' حديث: 1115' السنن الكبرى للبيهقى - كتاب الصلاة' جماع ابواب

صفة الصلاة - باب كيف قراءة المصلى قال الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا' حديث: 2256' مسند (باقى حاشية على نسخة)

هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَدِنَ اللَّهُ لِنَبِيِّ مَا أَدِنَ لِنَبِيِّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”اللہ تعالیٰ کسی نبی کی کسی بھی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا، جتنی توجہ سے اُس نبی کو سنتا ہے جو قرآن کو خوبصورتی سے تلاوت کرتا ہے۔“

4167 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ يَأْدِنِ اللَّهُ لِنَبِيِّ مَا أَدِنَ لِنَبِيِّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ، قَالَ صَاحِبٌ لَهُ: زَادَ فِيهِ: يَجْهَرُ بِهِ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”اللہ تعالیٰ نبی کی کسی بھی چیز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا، جتنی توجہ سے وہ قرآن کی خوش الحانی سے کی گئی تلاوت کو سنتا ہے۔“

راوی کے ساتھی نے یہ الفاظ زائد نقل کیے ہیں:

”جسے وہ نبی بلند آواز میں تلاوت کر رہا ہو۔“

4168 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُخْبِرُ: حَسِبْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَدِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ كَمَا أَدِنَ لِإِنْسَانٍ حَسَنِ التَّرْنِيمِ بِالْقُرْآنِ يَعْنِي مَا أَدِنَ يَقُولُ: يَسْتَمِعُ

*** ابوسلمہ بن عبدالرحمن، نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کسی نبی کی کوئی بات اتنی توجہ سے نہیں سنتا، جتنی توجہ سے وہ اچھے ترنم سے قرآن کی گئی تلاوت کو سنتا ہے۔“

راوی کہتے ہیں: لفظ ما اذن سے مراد توجہ سے سنا ہے۔

4169 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَدِنَ اللَّهُ لِنَبِيِّ مَا أَدِنَ لِإِنْسَانٍ حَسَنِ التَّرْنِيمِ بِالْقُرْآنِ

*** ابوسلمہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”اللہ تعالیٰ کسی نبی کی بات کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا، جتنی توجہ سے وہ انسان کی اچھے ترنم کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو سنتا ہے۔“

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ سے) احمد بن حنبل 'مسند ابی ہریرة رضی اللہ عنہ - حدیث: 7497، مسند الحمیدی - احادیث ابی

ہریرة رضی اللہ عنہ، حدیث: 922، مسند ابی یعلیٰ البوصلی - مسند ابی ہریرة، حدیث: 5822، المعجم الاوسط

للعطبرانی - باب الالف، باب من اسبه ابراهيم، حدیث: 2731

4170 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَارِيُّ، وَالْمُتَوَكِّلُ بْنُ أَبِي نَهْيِكٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ سَعْدٌ لِعَبْدِ اللَّهِ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: الْمُتَوَكِّلُ بْنُ أَبِي نَهْيِكٍ قَالَ: نَعَمْ، تَجَارُ كَسْبَةً، تَجَارُ كَسْبَةً يُؤَخِّرُونَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ

*** عطاء بیان کرتے ہیں: عبد اللہ بن عمر القاری اور متوکل بن ابونہیک، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عبد اللہ سے دریافت کیا: یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا: متوکل بن ابونہیک! حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا: اچھا! تجارت کرنے والے کمانے والے لوگ تجارت کرنے والے کمانے والے لوگ جو پیچھے کر دیتے ہیں۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

”وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو خوش الحانی سے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔“

4171 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَهْيِكٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ *** حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو خوش الحانی سے قرآن کی تلاوت نہیں کرتا۔“

4172 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ لَيَأْذَنُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ حَسَنَ الصَّوْتِ - قَالَ: حَسْبُهُ - يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ"

*** حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی بات غور سے سنتا ہے جس کی آواز اچھی ہو۔“

راوی کہتے ہیں: میرا خیال ہے روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں:

”(وہ شخص اچھی آواز کے ذریعہ) قرآن کو خوش الحانی سے پڑھے۔“

بَابُ حُسْنِ الصَّوْتِ

باب: اچھی آواز ہونا

4173 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُحَرَّرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ، وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ الصَّوْتُ الْحَسَنُ *** حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”جیز کا ایک زیور ہوتا ہے اور قرآن کا زیور اچھی آواز ہے۔“

4174 - آثار تابعین: عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَسَنَ الصَّوْتِ، فَخَرَجَ لَيْلَةً يُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ، فَجَهَرَ بِصَوْتِهِ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَتَنَّتِ النَّاسَ، فَلَمْ يُعَدِّ لِذَلِكَ

* * * بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آواز بہت اچھی ہے ایک مرتبہ وہ رات کے وقت مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے نکلے انہوں نے بلند آواز میں تلاوت کی تو لوگ اکٹھے ہو گئے۔ سعید بن مسیب نے انہیں پیغام بھیجا آپ نے انہوں کو آواز مٹانے کا شکار کر دیا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دوبارہ ایسا نہیں کیا۔

4175 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ النَّهْمِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُولَى، وَزَيَّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، وَمَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبْنٍ، أَوْ مَنِيحَةَ وَرِقٍ، أَوْ أُهْدِيَ زَقَاقٌ فَهِيَ كَعَدَلٍ رَقَبَةٍ

* * * حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”جب تک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں تم اپنی آوازوں کے ذریعہ قرآن کو آراستہ کرو اور جو شخص عطیہ کے طور پر دودھ دے دیتا ہے یا دے دیتا ہے یا چاندی کے سکے دیتا ہے یا مشکیزہ دیتا ہے (یا راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے) تو یہ ایک غلام کو آواز کرنے کی مانند ہے۔“

4176 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: زَيَّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ

* * * حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”اپنی آوازوں کو قرآن کے ذریعہ آراستہ کرو۔“

اس کے بعد راوی نے سفیان ثوری کی نقل کردہ روایت کی مانند روایت نقل کی ہے۔

4177 - حدیث نبوی: عن معمر، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ صَوْتَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَهُوَ يَقْرَأُ، فَقَالَ: لَقَدْ أُوتِيَ أَبُو مُوسَى مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ

* * * سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے تلاوت کرنے کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا:

”ابو موسیٰ و حضرت داؤد کے خاندان کی سی خوش الحانی عطا کی گئی ہے۔“

4178 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن عیینة، عن مالک بن مغول قال: سمعت عبد الله بن بریدة یحدث، عن ابيه قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت الأشعري أبي موسى وهو يقرأ، فقال: لقد أوتى هذا مزماراً من مزامير آل داود فحدثه ذلك، فقال: الآن أنت لي صديق حين أخبرتني هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو علمت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم يستمع لقرائي حبرتها تحبيراً قال: وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتاً آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوله مرانياً؛ فلم أحب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء حتى رددتها علي مرة أو مرتين أو ثلاثاً، فقلت بعد اثنين أو ثلاثاً اتقوله مرانياً بل هو منيب قال: وسمع آخر يدعو: اللهم اني أسألك باني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله غيرك، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفواً أحد، فقال: لقد سأل الله باسمه الذي إذا دُعِيَ به أجاب وإذا سُئِلَ به أعطى

*** عبد اللہ بن بریدہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تلاوت کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا: اسے حضرت داؤد کے خاندان کی سی خوش الحانی عطا کی گئی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بتائی تو انہوں نے کہا: تم اب بتا رہے ہو! جب تم نے نبی اکرم ﷺ کے بارے میں یہ بات مجھے بتائی ہے تو اب تم میرے دوست ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ نبی اکرم ﷺ میری تلاوت سن رہے ہیں تو میں اسے اور زیادہ آراستہ کرتا۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھر نبی اکرم ﷺ نے مختلف آواز (زیادہ خوبصورت آواز) سنی تو نبی اکرم ﷺ نے دریافت کیا: کیا تم دکھاوے کے طور پر اسے پڑھ رہے ہو؟ میں نے نبی اکرم ﷺ کو کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ نبی اکرم ﷺ نے ایک یا دو یا شاید تین مرتبہ یہی دریافت کیا تو دو یا تین مرتبہ کے بعد میں نے عرض کی: جی نہیں! بلکہ یہ تو رجوع کرنے والے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ایک اور شخص کو دعا کرتے ہوئے سنا (وہ یہ دعا کر رہا تھا):

”اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے تو ایک ہے بے نیاز ہے جس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ ہی اسے جنم دیا گیا اور کوئی تیرا ہمسر نہیں ہے۔“

تو نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اس نے اللہ تعالیٰ کے اُس اسم کے وسیلہ سے دعا مانگی ہے کہ جب اُس کے ذریعہ دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اُسے قبول کرتا ہے اور جب اُس کے وسیلہ سے کچھ مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔“

4179 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كان عمر بن الخطاب إذا جلس عنده أبو موسى رُبَّمَا قال له: ذكّرنا ربنا يا أبا موسى قال: فيقرأ *** ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بعض اوقات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھتے ہوئے ہوتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے کہتے تھے: اے ابو موسیٰ! آپ ہمیں اپنے پروردگار کی یاد دلائیے! تو حضرت

ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ تلاوت کرتے تھے۔

4180 آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ لِأَبِي مُوسَى وَهُوَ جَالِسٌ مَعَهُ فِي مَجْلِسٍ: ذِكْرُنَا يَا أَبَا مُوسَى قَالَ: فَيَقْرَأُ

*** ابوسلمہ بن عبدالرحمن بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہتے تھے جو ان کی محفل میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے: اے ابوموسیٰ! آپ ہمیں یاد دلوائیے! تو حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تلاوت کرتے تھے۔

4181 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ لِأَبِي مُوسَى وَهُوَ جَالِسٌ مَعَهُ فِي الْمَجْلِسِ: ذِكْرُنَا رَبَّنَا فَيَقْرَأُ عِنْدَهُ

*** ابوسلمہ بن عبدالرحمن بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو کہتے تھے جو ان کے ساتھ محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے: آپ ہمیں ہمارے پروردگار کی یاد دلوائیے! تو حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تلاوت کرتے تھے۔

4182 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: بَيْنَمَا أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي ذَاتَ لَيْلَةٍ، قَالَ أُسَيْدٌ: غَشِيَتْنِي مِثْلُ السَّحَابَةِ فِيهَا مِثْلُ الْمَصَابِيحِ، وَالْمَرَأَةُ نَائِمَةٌ إِلَى جَنْبِي وَهِيَ حَامِلٌ، وَالْفَرَسُ مَرْبُوطٌ فِي الدَّارِ قَالَ: فَخَشِيتُ أَنْ يَنْفِرَ الْفَرَسُ، فَتَفَرَّعَ الْمَرَأَةُ فَتَلَقِيَّ وَلَدَهَا، وَأَنْصَرَفْتُ مِنْ صَلَاتِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي: اقْرَأْ يَا أُسَيْدُ، ذَلِكَ مَلَكٌ اسْتَمَعَ الْقُرْآنَ

*** ابوسلمہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت اسید بن حضیر انصاری رضی اللہ عنہ رات کے وقت نماز ادا کر رہے تھے حضرت اسید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میرے اوپر بادل کی سی کوئی چیز چھا گئی جس میں چراغ سے محسوس ہو رہے تھے میری بیوی میرے پہلو میں سوئی ہوئی تھی وہ حاملہ تھی گھر میں گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں گھوڑا متنفر نہ ہو جائے اور میری بیوی خوفزدہ نہ ہو جائے جس کے نتیجے میں اس کا بچہ ضائع ہو جائے اس لیے میں نے اپنی نماز ختم کی (اگلے دن) صبح جب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے اسید! تم تلاوت کرتے رہتے وہ فرشتہ تھا جو قرآن کی تلاوت کو غور سے سن رہا تھا۔

4183 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: بَيْنَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْبَارِحَةَ أَقْرَأُ عَلَيَّ ظَهْرَ بَيْتِي، إِذْ غَشِيَتْنِي شَيْءٌ كَالسَّحَابَةِ، وَأَمْرَاتِي حَامِلٌ، وَالْفَرَسُ مَرْبُوطٌ، فَخَشِيتُ أَنْ تَضَعَ أَمْرَاتِي، وَأَنْ يَنْفِرَ فَرَسِي، فَقَالَ: اقْرَأْ يَا أُسَيْدُ، فَإِنَّهُ الْمَلَكُ يَسْمَعُ الْقُرْآنَ، قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

*** ابن شہاب بیان کرتے ہیں: حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کی: یا رسول اللہ! گزشتہ رات میں اپنے گھر کی چھت پر تلاوت کر رہا تھا اسی دوران میرے اوپر بادل کی سی کوئی چیز آ گئی میری بیوی حاملہ ہے گھر میں گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا مجھے

یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں میری بیوی کا حمل ضائع نہ ہو جائے اور میرا گھوڑا متنفر نہ ہو جائے۔ تو نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے اسید! تم تلاوت کرتے رہتے کیونکہ وہ فرشتہ تھا جو قرآن کی تلاوت سن رہا تھا۔ یہ بات نبی اکرم ﷺ نے تین مرتبہ ارشاد فرمائی۔

4184 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ النَّخَعِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: حَتَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ النَّاسَ عَلَى السِّوَاكِ، وَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي دَنَا الْمَلَكُ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ، فَمَا يَزَالُ يَدْنُو حَتَّى أَنَّهُ يَضَعُ فَاهُ عَلَى فِيهِ، فَمَا يَلْفِظُ مِنْ آيَةٍ إِلَّا يَقَعُ فِي جَوْفِ الْمَلِكِ قَالَ: فَطَبْنَا مَا هُنَالِكَ وَحُبَّ عَلِيٍّ السِّوَاكِ

*** ابو عبد الرحمن سلمی بیان کرتے ہیں: حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو مسواک کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: جب آدمی کھڑے ہو کر نماز ادا کرتا ہے تو فرشتہ غور سے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے قریب ہو جاتا ہے اور مسلسل قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنا منہ آدمی کے منہ پر رکھ دیتا ہے تو انسان کے منہ سے جو بھی آیت نکلتی ہے وہ فرشتہ کے اندر چلی جاتی ہے۔ تو وہاں موجود سب لوگوں کو یہ بات اور حضرت علی کی مسواک سے محبت پتہ چل گئی۔

4185 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: سِئَلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْسَنُ النَّاسِ قِرَاءَةً؟ فَقَالَ: الَّذِي إِذَا سَمِعْتَ قِرَاءَةً رَأَيْتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ قِرَاءَةً قَطُّ أَطِيبَ مِنْ قِرَاءَةِ حَبِيبٍ " طَاوُسُ الْقَائِلُ

*** طاؤس بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ سے دریافت کیا گیا: سب سے زیادہ خوبصورت تلاوت کون کرتا ہے؟ تو نبی اکرم ﷺ نے جواب دیا: وہ شخص کہ جب تم اس کی تلاوت سنو تو تمہیں یہ محسوس ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ (اس روایت کے راوی کہتے ہیں:) اللہ کی قسم! میں نے حبیب اور اس روایت کے راوی طاؤس سے زیادہ عمدہ قرأت اور کسی کی نہیں سنی۔ (یہاں شاید حبیب سے مراد مشہور صوفی بزرگ حبیب عجمی ہیں)

4186 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا ذَكَرُوا أَنَّهُ الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا طَاعُونَ، خُذْنِي اللَّيْلَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا سَمِعْتُ يَا أَبَا قَلَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ لَا يَدْعُو أَحَدُكُمْ بِالْمَوْتِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي عَلَى آيِ شَيْءٍ هُوَ مِنْهُ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ سِتًّا أَحْشَى أَنْ يُدْرِكَنِي بَعْضُهُنَّ قَالَ: بَيْعُ الْحَكَمِ، وَاضَاعَةُ الدَّمِ، وَامَارَةُ السُّفَهَاءِ، وَكَثْرَةُ الشَّرْطِ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ، وَنَاسٌ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ يَتَغَنَّوْنَ بِهِ

*** ابن جریج نے کئی حضرات کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو سنا۔ بعض راویوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ وہ شخص حضرت حکم غفاری رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے یہ کہا: اے طاعون! تو آج رات مجھے اپنی گرفت میں لے! تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اے ابوفلاں! کیا آپ نے نبی اکرم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے نہیں سنا ہے: ”تم میں سے کوئی بھی شخص موت کی دعا نہ کرے کیونکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اُسے کس طرح کی صورت حال کا سامنا کرنا

پڑے گا۔

تو حضرت حکم غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا: جی ہاں! لیکن میں نے نبی اکرم ﷺ کو چھ چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے اور مجھے یہ اندیشہ ہے کہ کہیں ان میں سے کسی ایک کا زمانہ مجھے نصیب نہ ہو۔

” (نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:) ثالثی کو فروخت کرنا، خون کو ضائع کرنا، بیوقوفوں کی حکومت ہونا، شرطیں زیادہ عائد ہونا، رشتہ داری کے حقوق کا پامال کرنا اور لوگوں کا قرآن کو موسیقی بنا لینا جسے وہ گایا کریں گے۔“

بَابُ التَّرْتِيلِ فِي الْقُرْآنِ

باب: قرآن کو ترتیل کے ساتھ (یعنی ٹھہر ٹھہر کے) پڑھنا

4187 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضَّبْعِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي رَجُلٌ فِي كَلَامِي وَقِرَاءَتِي عَجَلَةٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَأَنْ أَقْرَأَ الْبَقْرَةَ فَأُرْتِلَهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَهَذَا الْقُرْآنَ كُلَّهُ * * ابو جمرہ ضبعی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا: میں ایک ایسا شخص ہوں جس کے بات کرنے اور تلاوت کرنے میں جلدی پائی جاتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: میں سورہ بقرہ کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کرتا ہوں۔ یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں پورا قرآن تیزی سے پڑھ لوں۔

4188 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ مُجَاهِدًا، فَقَالَ: رَجُلٌ قَرَأَ الْبَقْرَةَ، وَآلَ عِمْرَانَ فِي رَكْعَةٍ قِيَامَهُمَا وَاحِدًا، وَسُجُودُهُمَا وَرُكُوعُهُمَا وَاحِدًا، وَجَلُوسُهُمَا وَاحِدًا أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ قَالَ: الَّذِي قَرَأَ الْبَقْرَةَ قَالَ: ثُمَّ قَرَأَ مُجَاهِدًا: (وَقَرَأْنَا فَرَقْنَا لَهُ لِنَقْرَاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ) (الاسراء: 106) قَالَ: عَلَى تَوَدَّةٍ * * معمر بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے مجاہد سے سوال کیا، اُس نے کہا: ایک شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت ایک رکعت میں کرتا ہے (جبکہ دوسرا شخص ایک رکعت میں صرف سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے) اُن دونوں افراد کا قیام ایک ہی ہے اور رکوع اور سجود ایک جیسے ہوتے ہیں، تشہد ایک جیسا ہوتا ہے، تو ان دونوں میں سے کون زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ مجاہد نے کہا: وہ شخص جس نے صرف سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھر مجاہد نے یہ آیت تلاوت کی:

”اور قرآن وہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ تم اسے لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔“

مجاہد فرماتے ہیں: اس سے مراد نرمی سے پڑھنا ہے (یا ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے)۔

4189 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُهُ: (وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلًا) (النور: 32) فَأَشَارَ بِيَدِهِ هُوَ الطَّرْحُ، هُوَ النَّبْدُ، فَإِذَا هُوَ لَا يُحِبُّ التَّرْتِيلَ قَالَ: أَرَى أَنَّهُ يَرَى بِذَلِكَ تَنْشِيطَ الْإِنْسَانِ * * ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے مراد کیا ہے:

”اور ہم اسے ٹھہر ٹھہر کے (نازل کیا ہے)۔“

تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اس سے مراد کسی چیز کو پرے کرنا ہے یوں جیسے وہ ترتیل کو پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا: اس بارے میں میری یہ رائے ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان چاک و چوبند ہو کر تلاوت کرے۔

4190 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ مَنْصُورٍ، عَنِ مُجَاهِدٍ قَالَ: (وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلًا) (الفرقان)

32) قَالَ: بَعْضُهُ عَلَى إِثْرِ بَعْضٍ

*** مجاہد فرماتے ہیں: وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلًا سے مراد یہ ہے کہ اس میں سے کچھ حصہ کچھ کے بعد ہے۔

4191 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: تَرْتِيلًا تَرْتِيلًا

*** ابن جریج نقل کرتے ہیں: مجاہد فرماتے ہیں: اس سے مراد یہ ہے کہ اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔

4192 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنِ أَبِيهِ: فِي التَّرْتِيلِ قَالَ

تَلَيْتُهُ حَتَّى تَفْقَهُهُ

*** طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کے حوالے سے ترتیل کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ تم اسے اتنا

واضح کرو کہ تمہیں اس کی سمجھ آ جائے۔

4193 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِذَا لَفَظْتَ الْقُرْآنَ فِي

الْمَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ، فَلَمْ أُرِدْ مِنْهُ شَيْئًا وَعَجَلْتُ؟ قَالَ: حَسْبُكَ ذَلِكَ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میں فرض یا

نفل نماز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور اسے ٹھہر ٹھہر کے نہیں پڑھتا بلکہ جلدی پڑھ لیتا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا:

تمہارے لیے یہ بھی کافی ہے۔

4194 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ قَتَادَةَ، عَنِ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنِ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنِ

عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ

وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ

*** سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھنے والا شخص معزز نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو شخص قرآن کی تلاوت کرتے

ہوئے انکے ہوا سے دو گنا اجر ملے گا۔“

بَابُ تَرْدِيدِ الْآيَةِ فِي الصَّلَاةِ، وَبَابُ قِرَاءَةِ النَّهَارِ

باب: نماز میں ایک ہی آیت کو بار بار پڑھنا اور دن کے وقت کی قرأت

4195 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ رَدَدْتُ شَيْئًا مِنْهُ؟ قَالَ:

أَكْرَهُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَا تُرَدُّ مِنْهُ شَيْئًا فِي التَّطَوُّعِ وَالْمَكْتُوبَةِ قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ عُرِضْتُ عَلَى إِنْسَانٍ لِرَدِّدْتُمْ؟ قَالَ: إِنَّمَا يَكْرَهُ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میں قرآن کا کچھ حصہ بار بار پڑھتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: میں نماز میں اسے مکروہ قرار دوں گا، تم نفل یا فرض نماز میں قرآن کا کوئی حصہ بار بار نہ پڑھو۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میں کسی شخص کو قرآن سنار باہوں اور ایک ہی آیت بار بار پڑھ دوں؟ تو انہوں نے جواب دیا: یہ نماز میں مکروہ ہے۔

4196 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: "رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَهُوَ يُؤْمَهُمْ فِي رَمَضَانَ يُرَدِّدُ هَذِهِ الْآيَةَ: (إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ) (عافر: 71)، (يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ) (الانفطار: 7)، يُرَدِّدُهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا"

* * سعید بن عبید بیان کرتے ہیں: میں نے سعید بن جبیر کو دیکھا کہ وہ رمضان کے مہینہ میں لوگوں کی امامت کروا رہے تھے اور بار بار یہ آیت پڑھ رہے تھے:

"جب ان کی گردنوں میں زنجیریں ہوں گی۔"

اور یہ آیت بھی پڑھ رہے تھے:

"اے انسان! تمہیں کس چیز نے اپنے معزز پروردگار کے بارے میں غلط فہمی کا شکار کیا (وہ پروردگار) جس نے تمہیں پیدا کیا اور بالکل ٹھیک (پیدا) کیا۔"

انہوں نے دو یا تین مرتبہ ان آیات کو تکرار کے ساتھ پڑھا۔

4197 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ بِالنَّهَارِ فِي التَّطَوُّعِ قَالَ: وَيُقَالُ: يَرْفَعُ بِهَا مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ

* * عطاء نے حکیم بن عقال کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ وہ دن کے وقت نفل ادا کرتے ہوئے بلند آواز میں قرأت کرنے سے منع کرتے تھے وہ یہ فرماتے تھے: یہ بات کہی جاتی ہے کہ رات کے وقت آدمی جتنی چاہے بلند آواز میں تلاوت کرے۔

4198 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسْمِعُكَ الْقِرَاءَةَ فِي التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنَ السُّورَةِ الشَّيْءِ وَهُوَ يَسِيرٌ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے نافع سے دریافت کیا: کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دن کے وقت نوافل ادا کرتے ہوئے بلند آواز میں تلاوت کر لیتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! وہ کسی سورت کا کچھ حصہ تلاوت کر لیتے تھے لیکن وہ بہت تھوڑا سا ہوتا تھا۔

4199 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءٌ لَا يُرْفَعُ بِهَا الصَّوْتُ إِلَّا الْجُمُعَةَ وَالصُّبْحَ، وَمَا يُرْفَعُ
 ** حسن بصری فرماتے ہیں: دن کی نماز گونگی ہوتی ہے اس میں آواز کو بلند نہیں کیا جائے گا، صرف جمعہ کی اور فجر کی نماز کا حکم مختلف ہے (اور کسی نماز میں آواز کو بلند نہیں کیا جائے گا۔

4200 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءٌ
 ** مجاہد فرماتے ہیں: دن کی نماز گونگی ہوتی ہے۔

4201 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يَقُولُ:
 صَلَاةُ النَّهَارِ عَجْمَاءٌ

** عبدالکریم جزری بیان کرتے ہیں: میں نے ابو عبیدہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: دن کی نماز گونگی ہوتی ہے۔

4202 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ، إِلَى رَجُلٍ
 سَمِعَهُ يَجْهَرُ بِالنَّهَارِ، فَقَالَ: إِنَّ قِرَاءَةَ النَّهَارِ عَجْمَاءٌ

** عبدالکریم بیان کرتے ہیں: ابو عبیدہ نے مجھے ایک شخص کی طرف بھیجا جسے انہوں نے دن کے وقت بلند آواز میں تلاوت کرتے ہوئے سنا تھا، انہوں نے کہا: دن کی نماز گونگی ہوتی ہے۔

4203 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعَثَاءِ، عَنِ اسْوَدَ بْنِ هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ
 مَسْعُودٍ قَالَ: لَمْ يُخَافِ مَنْ أَسْمَعَ نَفْسَهُ

** اسود بن ہلال نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے: جو شخص اتنی آواز میں تلاوت کرے کہ خود اسے آواز آ رہی ہو تو اس نے پست آواز میں تلاوت نہیں کی۔

4204 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ قَتَادَةَ قَالَ: لَمْ يُخَافِ مَنْ أَسْمَعَ نَفْسَهُ يَقُولُ: إِذَا
 صَلَّى فِيمَا يُجْهَرُ فِيهِ الْقِرَاءَةُ

** قتادہ فرماتے ہیں: جس شخص کو خود اپنی آواز آ رہی ہو اس نے پست آواز میں تلاوت نہیں کی۔ وہ یہ فرماتے ہیں: (اس طرح کی تلاوت آدمی اس نماز میں کرے گا) جس میں بلند آواز میں تلاوت کی جاتی ہے۔

4205 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ هِشَامٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ قَالٍ: سَأَلْتُ عُبَيْدَةَ قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يَسْتَهِي
 أَنْ يُخْفِيَ قِرَاءَتَهُ قَالَ: فَيَسْمَعُ نَفْسَهُ

** محمد نامی راوی بیان کرتے ہیں: میں نے عبیدہ سے سوال کیا، میں نے کہا: ایک شخص اس بات کا خواہشمند ہوتا ہے کہ وہ اپنی قرأت کو مخفی رکھے تو انہوں نے جواب دیا: وہ خود کو سنو ادے۔

4206 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَبِي عُمَرَ الْمَدَنِيِّ قَالَ: سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنِ قِرَاءَةِ النَّهَارِ

فَقَامَ يُصَلِّي فَرُبَّمَا أَسْمَعَنَا الْآيَةَ "

*** ابو عمر مدنی بیان کرتے ہیں: ہم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے دن کی تلاوت کے بارے میں دریافت کیا تو وہ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگے جس میں سے وہ بعض اوقات کوئی آیت بلند آواز میں تلاوت کر لیتے تھے۔

4207 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُدَافَةَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَجَهَرَ بِصَوْتِهِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُسْمِعْنِي يَا حُدَافَةَ، وَأَسْمِعِ اللَّهَ تَعَالَى

*** زہری بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جو نماز ادا کر رہے تھے اور بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اے حذافہ! تم مجھے آواز نہ سناؤ، تم اللہ تعالیٰ کو سناؤ (یعنی پست آواز میں تلاوت کرو)۔

بَابُ قِرَاءَةِ اللَّيْلِ

باب: رات کی تلاوت

4208 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَأَلَهَا رَجُلٌ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ مِنَ اللَّيْلِ إِذَا قَرَأَ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا رَفَعَ وَرُبَّمَا خَفَضَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الدِّينِ سَعَةً قَالَ: فَهَلْ كَانَ يُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، رُبَّمَا أَوْتِرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ وَرُبَّمَا أَوْتِرَ مِنْ آخِرِهِ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الدِّينِ سَعَةً قَالَ: فَهَلْ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ قَالَتْ: رُبَّمَا اغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ وَرُبَّمَا نَامَ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَلَكِنَّهُ يَتَوَضَّأُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الدِّينِ سَعَةً

*** یحییٰ بن عمر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بارے نقل کرتے ہیں: ایک شخص نے ان سے سوال کیا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب تلاوت کرتے تھے تو کیا آپ آواز بلند کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا: بعض اوقات آپ آواز بلند کرتے تھے اور بعض اوقات پست رکھتے تھے۔ تو ان صاحب نے کہا: ہر طرح کی حمد اس اللہ کے لیے مخصوص ہے جس نے دین میں گنجائش رکھی ہے۔ پھر انہوں نے دریافت کیا: کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصہ میں وتر ادا کر لیتے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا: جی ہاں! بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصہ میں وتر ادا کرتے تھے اور بعض اوقات رات کے آخری حصہ میں ادا کرتے تھے۔ تو ان صاحب نے کہا: ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے جس نے دین میں گنجائش رکھی ہے۔ پھر ان صاحب نے دریافت کیا: کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں سو جاتے تھے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سونے سے پہلے غسل کر لیتے تھے اور بعض اوقات غسل کرنے سے پہلے سو جایا کرتے تھے تاہم آپ اس

صورت میں سونے سے پہلے وضو کر لیتے تھے۔ تو ان صاحب نے کہا: ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے جس نے دین میں گنجائش رکھی ہے۔

4209 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَبِي بَكْرٍ وَهُوَ يُصَلِّي وَهُوَ يُخَافُ، وَمَرَّ بِعُمَرَ وَهُوَ يَحْبِرُ، وَمَرَّ بِبِلَالٍ وَهُوَ يَخْلِطُ، فَاصْبَحُوا جَمِيعًا عِنْدَهُ فَقَالَ: مَرَرْتُ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَرَأَيْتُ تُخَافُ قَالَ: أَجَلُ أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَالَ: ارْفَعْ شَيْئًا قَالَ: مَرَرْتُ بِكَ يَا عُمَرُ وَأَنْتَ تَجْهَرُ قَالَ: أَبِي وَأُمِّي أَسْمِعُ الرَّحْمَنَ، وَأَوْقِظُ النَّائِمَ قَالَ: "دُونَ - أَوْ قَالَ: - اخْفِضْ شَيْئًا" قَالَ: وَمَرَرْتُ بِكَ يَا بِلَالُ وَأَنْتَ تَخْلِطُ قَالَ: أَجَلُ أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَخْلِطُ الطِّيبَ بِالطِّيبِ قَالَ: اقْرَأْ كُلَّ سُورَةٍ عَلَيَّ نَحْوَهَا

*** سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جو نماز ادا کر رہے تھے اور پست آواز میں تلاوت کر رہے تھے پھر آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جو بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جو ملی جلی کی تلاوت کر رہے تھے۔ اگلے دن یہ لوگ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں اکٹھے ہوئے تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے ابو بکر! میں تمہارے پاس سے گزرا تھا تم پست آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: جی ہاں! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم آواز کچھ بلند کرو۔ پھر آپ نے فرمایا: اے عمر! میں تمہارے پاس سے بھی گزرا تھا تم بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! میں رحمٰن کو سنارہا تھا اور سوئے ہوئے کو بیدار کرنا چاہ رہا تھا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کچھ پست رکھو۔ (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) کچھ پست رکھو۔ پھر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے بلال! میں تمہارے پاس سے گزرا تھا تو تم ملی جلی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی: جی ہاں! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! میں ایک پاکیزہ چیز کو دوسری پاکیزہ چیز سے ملا رہا تھا۔ تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم ہر سورت الگ سے تلاوت کیا کرو۔

4210 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: مَرَرْتُ بِكَ يَا أَبَا بَكْرٍ وَأَنْتَ تُخَافُ بِقِرَاءَتِكَ قَالَ: إِنِّي أَسْمِعُ مَنْ أُنَاجِي قَالَ: وَمَرَرْتُ بِكَ يَا عُمَرُ وَأَنْتَ تَجْهَرُ بِقِرَاءَتِكَ قَالَ: اطْرُدُ الشَّيْطَانَ، وَأَوْقِظُ الْوَسْطَانَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْفِضْ شَيْئًا قَالَ: وَمَرَرْتُ بِكَ يَا بِلَالُ وَأَنْتَ تَقْرَأُ هَذِهِ السُّورَةَ وَمَنْ هَذِهِ السُّورَةَ قَالَ: إِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْلِطُ الطِّيبَ بِالطِّيبِ، فَقَالَ: اقْرَأْ السُّورَةَ عَلَيَّ نَحْوَهَا

*** سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے ابو بکر! میں تمہارے پاس سے گزرا تھا تم پست آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی: میں جس کی بارگاہ میں مناجات کر رہا تھا اسے سنارہا تھا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے عمر! میں تمہارے پاس سے گزرا تھا اور تم بلند آواز سے تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض

کی: میں شیطان کو دور کرنا چاہ رہا تھا اور سوئے ہوئے کو بیدار کرنا چاہ رہا تھا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم کچھ پست رکھو۔ پھر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے بلال! میں تمہارے پاس سے گزرا تھا تم اس سورت کو اس سورت کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں ایک پاکیزہ چیز کو دوسری پاکیزہ چیز کے ساتھ ملا رہا تھا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ہر سورت کو الگ سے تلاوت کرو۔

4211 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: بَاتَتْ عِنْدِي عَمْرَةُ ابْنَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُمْتُ أَصَلِي مِنَ اللَّيْلِ، فَخَافَتْ بِقِرَاءَتِي، فَقَالَتْ: ارْفَعْ صَوْتَكَ، فَقَدْ كَانَ مُعَاذُ الْقَارِءِ، وَأَفْلَحُ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ يُوقِظَانَا مِنَ اللَّيْلِ بِرَفْعِ أَصْوَاتِهِمَا * * ابو بکر بن عمرو بن حزم بیان کرتے ہیں: عمرہ بنت عبدالرحمن نامی خاتون رات کے وقت ہمارے ہاں ٹھہریں میں رات کے وقت اٹھ کر نماز ادا کرنے لگا تو میں نے پست آواز میں تلاوت کی انہوں نے کہا: تم اپنی آواز کو کچھ بلند کرو۔ حضرت معاذ بن عمرو جو قرآن کے عالم تھے اور اہل فلح جو حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ کے غلام تھے وہ بلند آواز کی وجہ سے ہمیں رات کے وقت بیدار کر دیا کرتے تھے۔

4212 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْنَا عَلْقَمَةَ: كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ بِاللَّيْلِ؟ وَكَانَ يَبِيتُ عِنْدَهُ قَالَ: كَانَ يُسْمِعُ آلَ عُتْبَةَ أَخِيهِ، وَهُمْ فِي حُجْرَةٍ بَيْنَ يَدَيْهِ * * ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: ہم نے علقمہ سے سوال کیا: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رات کے وقت کیسے تلاوت کرتے تھے؟ یہ اس موقع کے بارے میں دریافت کیا جب علقمہ رات کے وقت ان کے ہاں ٹھہرے تھے تو علقمہ نے بتایا کہ وہ اپنے بھائی عتبہ کے گھروالوں کو آواز سنایا کرتے تھے اور وہ گھر والے ان کے سامنے موجود حجرے میں ہوتے تھے۔

4213 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: أَنَّ عَبْدِ اللَّهِ، كَانَ يُسْمِعُ قِرَاءَتَهُ أَهْلَ الدَّارِ مِنَ اللَّيْلِ * * علقمہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رات کے وقت تلاوت میں اہل خانہ کو آواز سنایا کرتے تھے۔

4214 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَكَ مِاءٌ دَارِكَ - يَعْنِي - فِي قِرَاءَةِ اللَّيْلِ * * عکرمہ بیان کرتے ہیں: تم اپنے گھر کو جتنا بھرو گے تمہیں اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ ان کی مراد یہ تھی کہ رات کی تلاوت میں جب ایسا کرو گے۔

4215 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ * * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے۔

4216 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ لَهُ، فَكَشَفَ السُّتُورَ وَقَالَ: "أَلَا إِنَّ كَلَّكُمْ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يُؤْذِي بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعَنَّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ - أَوْ قَالَ: فِي الصَّلَاةِ -"

*** حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کیا تو آپ نے لوگوں کو بلند آواز میں تلاوت کرتے ہوئے سنا، آپ اس وقت اپنے خیمہ میں موجود تھے آپ نے پردہ ہٹایا اور فرمایا: ”خبردار! تم میں سے ہر شخص اپنے پروردگار کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے، تو کوئی شخص کسی دوسرے کو اذیت نہ پہنچائے اور تلاوت کرتے ہوئے کوئی شخص دوسرے کے مقابلہ میں آواز زیادہ بلند نہ کرے۔ (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں: نماز میں (کوئی شخص دوسرے سے آواز بلند نہ کرے)۔“

4217 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيُّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قُبَّةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالرَّجُلُ يَوْمَ النَّفْيِ، فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَأْسَهُ وَقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ، فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَنْظُرْ مَا يُنَاجِي بِهِ رَبَّهُ، وَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ

*** ابو حازم جو انصار کے غلام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینہ میں ایک خیمہ میں موجود تھے ایک صاحب کچھ لوگوں کی امامت کر رہے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نکال کر انہیں دیکھا اور جو اللہ کو منظور تھا وہ کہا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا:

”نمازی شخص اپنے پروردگار سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، تو جب کوئی شخص نماز ادا کرے، تو وہ اس بات کا جائزہ لے کہ وہ اپنے پروردگار سے کیسے مناجات کر رہا ہے اور کوئی شخص کسی دوسرے کے مقابلہ میں بلند آواز میں تلاوت نہ کرے۔“

4218 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَمَعَ لَيْلَةَ أَبِي بَكْرٍ فَإِذَا هُوَ يُخَافُ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاتِهِ، وَاسْتَمَعَ عُمَرَ فَإِذَا هُوَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ، وَاسْتَمَعَ بِلَالًا فَإِذَا هُوَ يَأْخُذُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَالَ: اسْتَمَعْتُ إِلَيْكَ يَا أَبِي بَكْرٍ فَإِذَا أَنْتَ تَخْفِضُ صَوْتَكَ

4216- سنن ابی داود - کتاب الصلاة ابواب قیام اللیل - باب فی رفع الصوت بالقراءة فی صلاة اللیل، حدیث: 1148 صحیح ابن خزیمة - جماع ابواب ذکر الوتر وما فیہ من السنن، جماع ابواب صلاة التطوع باللیل - باب الزجر عن الجهر بالقراءة فی الصلاة إذا تآذی بالجهر بعض، حدیث: 1093، المستدرک علی الصحیحین للحاکم - من کتاب صلاة التطوع، حدیث: 1103، السنن الکبریٰ للنسائی - کتاب فضائل القرآن، ذکر قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: " لا یجهر - حدیث: 7828، مسند احمد بن حنبل، مسند ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ - حدیث: 11690، مسند عبد بن حبیب - من مسند ابی سعید الخدری، حدیث: 885

قَالَ: أَخْفِضُ أُنْتَجِي رَبِّي قَالَ: وَاسْتَمَعْتُ إِلَيْكَ يَا عُمَرُ فَإِذَا أَنْتَ تَرَفَعُ صَوْتَكَ قَالَ: انْفِرُ الشَّيْطَانَ، وَأَوْقِظُ النَّاسِمَ قَالَ: وَاسْتَمَعْتُ إِلَيْكَ يَا بِلَالُ وَإِذَا أَنْتَ تَأْخُذُ مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ وَمِنْ هَذِهِ السُّورَةِ قَالَ: أَجْمَعُ الطَّيِّبَ بِالطَّيِّبِ، أَخْلِطُ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ قَالَ: كُلُّ هَذَا حَسَنٌ

* * عطاء بیان کرتے ہیں: ایک رات نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تلاوت کرتے ہوئے سنا جو نماز کے دوران پست آواز میں تلاوت کر رہے تھے آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سنا کہ وہ بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سنا کہ وہ کسی ایک سورت میں سے کچھ حصہ تلاوت کرتے تھے پھر کسی دوسری سورت میں سے کچھ حصہ تلاوت کرتے تھے۔ تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے ابوبکر! میں نے تمہیں سنا تھا تم پست آواز میں تلاوت کر رہے تھے انہوں نے عرض کی: میں اپنے پروردگار سے سرگوشی میں بات کرنے کے لیے اپنی آواز پست رکھتا ہوں۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے عمر! میں نے تمہیں سنا تھا تم بلند آواز میں تلاوت کر رہے تھے انہوں نے عرض کی: میں شیطان کو بھگانا چاہ رہا تھا اور سوئے ہوئے شخص کو بگانا چاہ رہا تھا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے بلال! میں نے تمہاری تلاوت بھی سنی تھی تم کچھ حصہ اس سورت میں سے تلاوت کر رہے تھے کچھ حصہ اس سورت میں سے تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے عرض کی: میں ایک پاکیزہ چیز کو دوسری پاکیزہ چیز کے ساتھ جمع کر رہا تھا اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا رہا تھا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: (تم میں سے) ہر ایک نے اچھا کام کیا ہے۔

بَابُ الرَّجُلِ يَلْتَبِسُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ فِي الصَّلَاةِ

باب: جس شخص کو نماز کے دوران قرآن (کی تلاوت میں) مشابہہ لگ جائے

4219 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: النَّعَاسُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَالنَّعَاسُ فِي الْقِتَالِ أَمَنَةٌ مِنَ اللَّهِ

* * ابورزین بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نماز کے دوران اونگھ آنا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور جنگ کے دوران اونگھ آ جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امن (کی حالت) ہوتی ہے۔

4220 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَيْخِيرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حَالُ الشَّيْطَانِ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَائَتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ، فَإِذَا حَسَسْتَ بِهِ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَانْفُلْ مِنْ عَنِّي سَارِكَ ثَلَاثًا

* * حضرت عثمان بن ابوالعاص ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! شیطان میرے اور میری نماز اور میری تلاوت کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے؟ تو نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”یہ وہ شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے جب تم اسے محسوس کرو تو تم مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو اور اپنے بائیں طرف تین مرتبہ تھوک دو۔“

4221 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَعَجَمَ الْقُرْآنَ عَلَيَّ لِسَانِهِ، فَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ، فَلْيُنْصِرِفْ فَلْيَضْطَجِعْ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”جب کوئی شخص رات کے وقت تلاوت کر رہا ہو اور اس کی زبان پر قرآن کی تلاوت اٹکنے لگے اور اسے یہ پتا نہ چلے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے تو اسے نماز ختم کر کے سو جانا چاہیے۔“

4222 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَنِمْ عَلَيَّ فِرَاشِهِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيَدْعُو عَلَيَّ نَفْسِهِ أَمْ يَدْعُو لَهَا

*** سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”جب کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہو اور اس دوران وہ اونگھنے لگے تو اسے اپنے بستر پر جا کر سو جانا چاہیے کیونکہ اسے یہ پتا ہی نہیں چلے گا کہ وہ اپنے خلاف دعا کر رہا ہے یا اپنے حق میں دعا کر رہا ہے۔“

4222- صحیح البخاری - کتاب الوضوء 'باب الوضوء من النوم - حدیث: 208، صحیح مسلم - کتاب صلاة المسافرين وقصرها' باب امر من نعس في صلاته - حدیث: 1349، صحیح ابن خزيمة - جماع ابواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها 'جماع ابواب الافعال الباحة في الصلاة - باب ذكر الدليل على ان النعاس في الصلاة لا يفسد الصلاة' حدیث: 863، مستخرج ابی عوانة - باب في الصلاة بين الاذان والإقامة في صلاة المغرب وغيره 'بيان إيجاب النوم والاضطجاع إذا نعس المصلي في صلاته إذا استعجم - حدیث: 1774، صحیح ابن حبان - باب الإمامة والجماعة' باب الحدث في الصلاة - ذكر الامر للمتهجد بالليل بالنوم عند غلبته إياه على ورده' حدیث: 2625، موطأ مالك - كتاب صلاة الليل' باب ما جاء في صلاة الليل - حدیث: 259، سنن الدارمی - كتاب الصلاة' باب : كراهية الصلاة للنعاس - حدیث: 1404، سنن ابی داود - كتاب الصلاة' ابواب قيام الليل - باب النعاس في الصلاة' حدیث: 1128، سنن ابن ماجه - كتاب إقامة الصلاة' باب ما جاء في المصلي إذا نعس - حدیث: 1366، السنن للنسائي - سور الهرة' صفة الوضوء - باب النعاس' حدیث: 162، السنن الكبرى للنسائي - ذكر ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه' النعاس - حدیث: 150، مشكل الآثار للطحاوي - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه' حدیث: 2917، السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة' جماع ابواب صلاة التطوع - باب من نعس في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم' حدیث: 4389، مسند احمد بن حنبل - مسند الانصار الملحق المستدرک من مسند الانصار - حدیث السيدة عائشة رضي الله عنها' حدیث: 23760، مسند الحميدي - احاديث عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم' حدیث: 180، المعجم الاوسط للطبراني - بار العين' من بقية من اول اسمه مهم من اسمه موسى - حدیث: 8300

4223 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا تَغَالِبُوا هَذَا اللَّيْلَ؛ فَإِنَّكُمْ لَا تَطِيقُونَهُ، فَإِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُنْصِرْ فَلْيَنْصِرْ عَلَيَّ فَإِنَّهُ أَسْلَمَ لَهُ * * ابواحوص بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم لوگ اس رات پر غلبہ پانے کی کوشش نہ کرو کیونکہ تم اس کی طاقت نہیں رکھو گے جب کسی شخص کو (رات کی نفل) نماز کے دوران اونگھ آجائے تو وہ نماز ختم کر کے اپنے بستر پر سو جائے یہ چیز اس کے لیے زیادہ سلامتی والی ہوگی۔

4224 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ بَنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَوْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ، فَيَغْلِبُهُ عَيْنَاهُ عَنْهَا، إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَهَا، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً تَصَدَّقَ بِهَا اللَّهُ عَلَيْهِ.

* * سوید بن غفلہ بیان کرتے ہیں: حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ یا شاید حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو بھی شخص رات کے وقت کسی بھی گھڑی میں نوافل ادا کرتا ہے اور اس دوران اس کی آنکھ لگ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا اجر نصیب کرتا ہے اور یہ نیند اس کے لیے صدقہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہوتا ہے۔

4225 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

* * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔

بَابُ: كَيْفَ تَكُونُ صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ؟ وَكَيْفَ كَانَتِ الصَّلَاةُ قَبْلَ صَلَاةِ الْخَوْفِ؟

باب: دن اور رات کی (نفل) نماز کیسے ادا کی جائے گی

اور نماز خوف سے پہلے نماز کیسے ادا کی جائے گی؟

4226 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَبِنَهَارٍ أَرْبَعًا ثُمَّ يُسَلِّمُ.

* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے نوافل دو دو کر کے ادا کرتے تھے اور دن کے نوافل چار چار کر کے ادا کرتے تھے اور پھر سلام پھیرتے تھے۔

4227 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

* * نافع کے حوالے سے یہی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں منقول ہے۔

4228 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: بَثُّ عِنْدَ أَنَسِ لَيْلَةً، فَصَلَّى مَثْنَى مَثْنَى ثُمَّ سَلَّمَ

پھر نبی اکرم ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، انہوں نے اذان دی، پھر انہوں نے ظہر کی نماز کے لیے اقامت کہی تو نبی اکرم ﷺ نے اس نماز کو اسی طرح ادا کیا جس طرح آپ اسے اس کے مخصوص وقت میں ادا کرتے تھے، پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے عصر کی نماز کے لیے اقامت کہی تو نبی اکرم ﷺ نے اس نماز کو اسی طرح ادا کیا جس طرح آپ اس کو اس کے مخصوص وقت میں ادا کرتے تھے، پھر آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے مغرب کی نماز کے لیے (اقامت کہی) تو نبی اکرم ﷺ نے اس نماز کو اسی وقت میں اسی طرح ادا کیا جس طرح آپ اس نماز کو اس کے مخصوص وقت میں ادا کرتے تھے، پھر نبی اکرم ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو وہ عشاء (کی اقامت کہنے کے لیے) کھڑے ہوئے، تو نبی اکرم ﷺ نے اس نماز کو اسی طرح ادا کیا، جس طرح آپ اس نماز کو اس کے مخصوص وقت میں ادا کرتے تھے۔

4234 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الظُّهْرِ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ صَلَاةَ الْخَوْفِ قَالَ: فَتَلَهَّفَ الْمُشْرِكُونَ أَنْ لَا يَكُونُوا حَمَلُوا عَلَيْهِ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: فَإِنَّ لَهُمْ صَلَاةً قَبْلَ مَغْرِبَانِ الشَّمْسِ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَقَالُوا: لَوْ صَلَّوْا بَعْدَ لَحَمَلْنَا عَلَيْهِمْ، فَأَرَّضُوا ذَلِكَ، فَنَزَلَتْ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِصَلَاةِ الْعَصْرِ

* * مجاہد بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے اپنے اصحاب کو نماز خوف کا حکم نازل ہونے سے پہلے ظہر کی نماز پڑھائی۔ راوی بیان کرتے ہیں: مشرکین نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ انہوں نے یکبارگی آپ پر حملہ کیوں نہیں کیا! ان میں سے ایک شخص نے کہا: یہ لوگ سورج غروب ہونے کے وقت ایک نماز ادا کرتے ہیں جو ان کے نزدیک ان کی جانوں سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا: اگر یہ لوگ بعد میں نماز ادا کریں گے تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ پھر وہ لوگ گھات میں بیٹھ گئے، اسی دوران نماز خوف کا حکم نازل ہوا، تو نبی اکرم ﷺ نے ان لوگوں کو (پہلی مرتبہ) عصر کی نماز، نماز خوف کے طور پر پڑھائی۔

بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ

باب: نماز خوف کا بیان

4235 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَلَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَمْ يُصَلِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ إِلَّا مَرَّتَيْنِ، مَرَّةً بِدِي الرِّقَاعِ مِنْ أَرْضِ بَنِي مُلَيْمٍ، وَمَرَّةً بِعُسْفَانَ، وَالْمُشْرِكُونَ بَضْجَانًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَالَ: فَصَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ كُلَّهُمْ خَلْفَهُ، وَهُمْ بِعُسْفَانَ، ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَلَّى، فَرَكَعَ بِهِمْ جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ، وَقَامَ الْآخَرُونَ خَلْفَهُ يَحْرُسُونَهُ، فَلَمَّا سَجَدَ بِهِمْ سَجَدَتَيْنِ قَامُوا، وَسَجَدَ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَلْفَهُ، ثُمَّ تَقَدَّمُوا إِلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، وَتَأَخَّرُوا هَؤُلَاءِ، ثُمَّ رَكَعَ بِهِمْ جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ بِالَّذِينَ يَلُونَهُ، وَقَامُوا الْآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا رَفَعُوا رَأَى

وَسَهُمْ مِنَ السَّجْدَةِ سَجْدًا أَوْلَيْكَ، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، وَتَمَّتْ لَهُمْ صَلَاتُهُمْ
 *** مجاہد بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے صرف دو مرتبہ یا شاید ایک مرتبہ نماز خوف ادا کی ہے ایک مرتبہ غزوة
 ذات الرقاع کے موقع پر جو بنو سلیم کی سرزمین پر ادا کی گئی اور ایک مرتبہ عسفان کے مقام پر ادا کی جبکہ مشرکین ضحجان کے مقام پر
 موجود تھے اور مسلمانوں اور قبلہ کے درمیان موجود تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے اپنے تمام اصحاب کی اپنے پیچھے
 صفیں بنالیں یہ لوگ عسفان میں موجود تھے پھر نبی اکرم ﷺ آگے بڑھے آپ نے نماز ادا کی آپ نے ان تمام حضرات کے
 ساتھ رکوع کیا پھر جو لوگ آپ کے قریب تھے وہ سجدہ میں چلے گئے اور دوسرے لوگ پیچھے کھڑے رہے اور ان کی حفاظت کرتے
 رہے جب نبی اکرم ﷺ نے ان لوگوں کے ساتھ دو مرتبہ سجدہ کر لیا تو یہ لوگ کھڑے ہو گئے اور جو لوگ پیچھے موجود تھے وہ سجدہ میں
 چلے گئے پھر وہ لوگ پہلی والی صف کی جگہ آ گئے اور پہلی والی صف کے لوگ پیچھے چلے گئے پھر نبی اکرم ﷺ نے ان سب کے
 ساتھ رکوع کیا لیکن جو لوگ آپ کے قریب کھڑے تھے انہوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا اور دوسرے لوگ کھڑے ہوئے ان کی
 حفاظت کرتے رہے جب نبی اکرم ﷺ اور ان کے ساتھیوں نے سجدہ سے سر اٹھایا تو ان لوگوں نے سجدہ کیا (جو حفاظت کر رہے
 تھے) پھر نبی اکرم ﷺ نے ان سب لوگوں سمیت سلام پھیرا تو یوں ان کی نماز مکمل ہو گئی۔

4236 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ: (إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِكُمْ

الَّذِينَ كَفَرُوا) (النساء: 101): "نَزَلَتْ يَوْمَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ وَالْمُشْرِكُونَ بِضَجْنَانَ،
 فَتَوَافَقُوا، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، رُكُوعُهُمْ وَسُجُودُهُمْ وَقِيَامُهُمْ
 وَاحِدٌ مَعًا جَمِيعًا، فَهَمَّ بِهِمُ الْمُشْرِكُونَ أَنْ يُغِيرُوا عَلَى أُمَّتِهِمْ وَيَقَاتِلُونَهُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ (فَلْتَقُمْ
 طَائِفَةٌ) (النساء: 102)، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَصْرَ، وَصَفَّ أَصْحَابَهُ صَفِّينَ، وَكَبَّرَ بِهِمْ جَمِيعًا،
 فَسَجَدَ الْأَوَّلُونَ بِسُجُودِهِ، وَالْآخِرُونَ قِيَامًا لَمْ يَسْجُدُوا، حَتَّى قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ،
 ثُمَّ كَبَّرَ بِهِمْ وَرَكَعُوا جَمِيعًا، فَتَقَدَّمُوا الصَّفُّ الْآخِرُ، وَاسْتَأَخَرُوا الصَّفُّ الْأَوَّلُ، فَتَعَاقَبُوا السُّجُودَ كَمَا فَعَلُوا
 أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ"

*** مجاہد اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں بیان کرتے ہیں: (ارشاد باری تعالیٰ ہے:)

”اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے وہ تمہیں آزمائش کا شکار کر دیں گے۔“

(مجاہد بیان کرتے ہیں: یہ آیت اُس دن نازل ہوئی جب نبی اکرم ﷺ عسفان میں موجود تھے اور مشرکین ضحجان میں

موجود تھے تو اُس وقت نبی اکرم ﷺ نے اپنے اصحاب کو ظہر کی نماز میں چار رکعات پڑھائیں جن میں آپ کا رکوع آپ کا سجدہ

اور آپ کا قیام ایک جتنا تھا تو مشرکین نے یہ ارادہ کیا کہ مسلمانوں کے ساز و سامان پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ

نے نبی اکرم ﷺ پر یہ آیت نازل کی:

”تو ایک گروہ کھڑا ہو جائے۔“

جب نبی اکرم ﷺ نے عصر کی نماز ادا کی تو آپ نے اپنے اصحاب کی دو صفیں بنا دیں، آپ نے ان سب لوگوں سمیت تکبیر کہی، پھر پہلے والے لوگوں نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا اور دوسرے لوگ کھڑے رہے وہ سجدہ میں نہیں گئے، جب تک نبی اکرم ﷺ اور پہلی صف کے لوگ کھڑے نہیں ہو گئے، پھر نبی اکرم ﷺ نے ان سب لوگوں سمیت تکبیر کہی اور ان سب لوگوں نے اکٹھے رکوع کیا، پھر پیچھے والی صف آگے آگئی اور پہلے والی صف پیچھے چلی گئی تو ان لوگوں نے آگے پیچھے سجدہ کیا جس طرح پہلی مرتبہ میں کیا تھا یوں نبی اکرم ﷺ نے عصر کی دو رکعات ادا کیں۔

4237 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُسْفَانَ قَالَ: فَاسْتَقْبَلَنَا الْمُشْرِكُونَ عَلَيْهِمْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَهُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ فَقَالُوا: قَدْ كَانُوا عَلَى حَالٍ لَوْ أَصْبْنَا غَرَّتْهُمْ فَقَالُوا: تَأْتِي عَلَيْهِمُ الْآنَ صَلَاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ قَالَ: فَنَزَلَ جِبْرِيلُ بِهَذِهِ الْآيَاتِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ (وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ) (النساء: 102) قَالَ: "فَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخَذُوا السِّلَاحَ، فَصَفَّفْنَا خَلْفَهُ صَفَّيْنِ قَالَ: ثُمَّ رَكَعَ فَرَكَعْنَا جَمِيعًا قَالَ: ثُمَّ رَفَعَ فَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ قَالَ: وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا سَجَدُوا وَقَامُوا، جَلَسَ الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا فِي مَكَانِهِمْ، ثُمَّ تَقَدَّمَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافٍ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافٍ هَؤُلَاءِ فَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ فَرَكَعُوا جَمِيعًا، ثُمَّ سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّفِّ الَّذِي يَلِيهِ وَالْآخَرُونَ قِيَامٌ يَحْرُسُونَهُمْ، فَلَمَّا جَلَسُوا جَلَسَ الْآخَرُونَ فَسَجَدُوا، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفَ." قَالَ: فَصَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ، مَرَّةً بِعُسْفَانَ، وَمَرَّةً فِي أَرْضِ بَنِي سُلَيْمٍ.

4248 حضرت ابو عیاش زرقی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ہم عسفان میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: ہمارا سامنا مشرکین سے ہوا جن کے سردار خالد بن ولید تھے، مشرکین ہمارے اور قبلہ کے درمیان موجود تھے۔ نبی اکرم ﷺ نے ظہر کی نماز ادا کی تو مشرکین نے کہا: یہ لوگ ایک ایسی صورت حال میں ہیں کہ اگر ہم ان پر حملہ کر دیں تو مناسب رہے گا۔ ان لوگوں نے کہا: تم ان پر اس وقت حملہ کرنا جب یہ وہ نماز ادا کر رہے ہوں گے جو ان کے نزدیک ان کے بال بچوں اور ان کی اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: تو ظہر اور عصر کے درمیان حضرت جبرائیل نے یہ آیات لے کر نازل ہوئے: "جب تم ان کے درمیان موجود ہو تو تم ان کے لیے نماز قائم کرو۔"

راوی بیان کرتے ہیں: نماز کا وقت ہو گیا تو نبی اکرم ﷺ نے لوگوں کو ہدایت کی، انہوں نے ہتھیار اٹھالئے اور نبی اکرم ﷺ کے پیچھے دو صفیں بنالیں۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھر نبی اکرم ﷺ رکوع میں گئے، تو آپ کے ساتھ ہم سب بھی رکوع میں چلے گئے، پھر نبی اکرم ﷺ نے سر اٹھایا تو ہم سب نے بھی سر اٹھالیا، پھر نبی اکرم ﷺ نے اس صف کے ہمراہ سجدہ کیا جو صف آپ کے قریب موجود تھی جبکہ دوسرے لوگ کھڑے ہوئے ان لوگوں کی حفاظت کرتے رہے، جب ان لوگوں نے سجدہ کر لیا

اور کھڑے ہو گئے تو پیچھے والے لوگ بیٹھے اور انہوں نے اپنی جگہ پر رہتے ہوئے سجدہ کیا پھر پیچھے والے لوگ آگے والی صف کی جگہ آگئے اور آگے والی صف کے لوگ پیچھے والی صف میں چلے گئے۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھر نبی اکرم ﷺ رکوع میں گئے تو آپ کے ساتھ سب لوگ رکوع میں گئے پھر نبی اکرم ﷺ نے رکوع سے سر اٹھایا تو سب لوگوں نے سر اٹھایا پھر نبی اکرم ﷺ نے اُس صف سمیت سجدہ کیا جو آپ کے قریب تھے اور دوسری صف کے لوگ کھڑے رہ کر حفاظت کرتے رہے جب یہ لوگ (پہلی صف کے لوگ) بیٹھے تو دوسری صف کے لوگ بھی بیٹھے اور انہوں نے سجدہ کیا پھر نبی اکرم ﷺ نے ان سب لوگوں سمیت سلام پھیر کر نماز کو ختم کیا۔

راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے یہ (نماز خوف) دو مرتبہ ادا کی ہے ایک مرتبہ عسفان میں اور ایک مرتبہ بنو سلیمین سرزمین میں۔

4238 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ مِثْلَ هَذِهِ الصَّلَاةِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ نَزُولَ جِبْرَائِيلَ قَالَ: وَقَالَ جَابِرٌ: كَمَا يَفْعَلُ أَمْرًاؤُكُمْ هَذِهِ.

*** حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ان لوگوں کو اس کی مانند نماز پڑھائی تھی اب انہوں نے اس روایت میں حضرت جبرائیل کے نازل ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ راوی نقل کرتے ہیں: حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ جس طرح تمہارے آج کل کے حکمران (نماز خوف کو) ادا کرتے ہیں اسی طرح (نبی اکرم ﷺ نے بھی یہ ادا کی تھی)۔

4239 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، مِثْلَ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: نَكَّصَ الصَّفَّ الْمُقَدَّمُ الْقَهْقَرَى حِينَ يَرْفَعُونَ رُءُوسَهُمْ مِنَ السُّجُودِ، وَيَتَقَدَّمُ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فَيَسْجُدُونَ فِي مَصَافٍ الْأَوَّلِينَ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ ہشام کے حوالے سے نبی اکرم ﷺ کے بارے میں منقول ہے تاہم اس میں ان کے یہ الفاظ ہیں: آگے والی صف کے لوگ اٹھنے کے قدموں پیچھے ہٹ گئے اُس وقت جب انہوں نے سجدہ سے سر اٹھایا تھا اور پیچھے والی صف کے لوگ آگے بڑھ گئے اور انہوں نے پہلی صف کی جگہ پر سجدہ کیا۔

4240 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ طَاوُسًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَهُوَ وَالْعَدُوُّ فِي صَحْرَاءٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ الْعَدُوُّ: إِنَّ لَهُمْ صَلَاةَ أُخْرَى هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الْعَصْرَ، فَقَامُوا خَلْفَهُ صَفَيْنِ، فَرَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَعَ الصَّفَّ الْأَوَّلُ وَالصَّفَّ الْأَخْرَ قِيَامًا، ثُمَّ قَامُوا فَارْتَدَّ الصَّفَّ الْأَوَّلُ الْقَهْقَرَى، ثُمَّ قَامُوا إِلَى مَقَامِ الصَّفِّ الْأَخْرَ، فَتَقَدَّمَ الْأَخْرَ حَتَّى قَامُوا فِي مَقَامِهِمْ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَعَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ، فَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَانِ، وَلِكُلِّ صَفٍّ رَكَعَةٌ، ثُمَّ

صَلُّوا عَلَى مَصَافِيهِمْ رَكْعَةً رَكْعَةً

*** عمرو بن مسلم نقل کرتے ہیں: طاؤس نے انہیں بتایا کہ نبی اکرم ﷺ نے ظہر کی نماز میں چار رکعات ادا کیں۔ نبی اکرم ﷺ اور دشمن اُس وقت صحرا میں موجود تھے۔ دشمن نے کہا: ان لوگوں کی ایک اور نماز ہے جو ان کے نزدیک دنیا اور اُس میں موجود سب چیزوں سے زیادہ بہتر ہے۔ جب نبی اکرم ﷺ عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو صحابہ کرام آپ کے پیچھے دو صفوں میں کھڑے ہو گئے جب نبی اکرم ﷺ رکوع میں گئے تو پہلی صف کے لوگ رکوع میں چلے گئے جبکہ دوسری صف کے لوگ کھڑے رہے اُس کے بعد (جب پہلی صف کے لوگ سجدہ کرنے کے بعد) کھڑے ہوئے تو وہ اُلٹے قدموں پیچھے آ گئے اور پیچھے والی صف کی جگہ پر آ کر کھڑے ہو گئے پھر پیچھے والی صف آگے بڑھی اور اُن لوگوں کی جگہ آ کر کھڑی ہو گئی پھر نبی اکرم ﷺ نے رکوع کیا تو پہلی صف والوں نے رکوع کیا یوں نبی اکرم ﷺ کی دو رکعات ہو گئیں اور ہر ایک صف کی ایک رکعت ہوئی۔ پھر اُن لوگوں نے اپنی صف میں رہتے ہوئے ایک ایک رکعت اکیلے (اکیلے) ادا کی۔

4241 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِأَحَدِي الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةَ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةً الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَضَى هَذِهِ رَكْعَةً وَهَذِهِ رَكْعَةً

*** سالم بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے دو میں سے ایک گروہ کو نماز خوف میں ایک رکعت پڑھائی جبکہ دوسرا گروہ دشمن کی طرف رخ کر کے کھڑا رہا پھر اُن لوگوں نے نماز ختم کی اور اپنے ساتھیوں کی جگہ آ کر کھڑے ہو گئے اُن کا رخ دشمن کی طرف تھا اور اُن کے ساتھی آئے تو نبی اکرم ﷺ نے انہیں ایک رکعت پڑھائی پھر نبی اکرم ﷺ نے سلام پھیر دیا پھر اُن لوگوں نے ایک ایک رکعت کی قضاء کی (یعنی اُسے اکیلے طور پر ادا کیا)۔

4242 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَفَّ وَرَاءَهُ طَائِفَةٌ مِنَّا، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، فَرَكَعَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَسَجَدَتَيْنِ يَسْجُدُ مِثْلَ نِصْفِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَفُّوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَعَلُوا ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجَدَتَيْنِ

*** سالم بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ بات نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ یہ (نماز خوف) ادا کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے تکبیر کہی تو آپ کے پیچھے ہم میں سے ایک گروہ نے صف بنالی اور ایک گروہ دشمن کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا۔ نبی اکرم ﷺ نے اُن لوگوں کو ایک رکوع اور دو سجدے (کے ہمراہ

ایک رکعت پڑھائی) آپ نے اس میں اس طرح سجدہ کیا جو صبح کی نماز (کے سجدے) سے نصف ہوتا ہے پھر یہ لوگ مڑ کر چلے گئے اور دشمن کے مد مقابل آگئے اور دوسرا گروہ آگیا، انہوں نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ صف بنالی، پھر ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا، پھر نبی اکرم ﷺ نے سلام پھیر دیا، پھر دونوں گروہوں کا ہر فرد کھڑا ہوا اور اس نے اکیلے ایک رکوع اور دو سجدے کے ہمراہ (ایک ایک رکعت ادا کی)۔

4243 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن جریج، عن ابن طاووس قال: سمعته يُخبر عن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: صَلَّى كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ رَكْعَةً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى كُلُّ رَجُلٍ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً

*** طاووس کے صاحبزادے نماز خوف کے بارے میں نبی اکرم ﷺ کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: تمام لوگوں میں سے ہر ایک شخص نے نبی اکرم ﷺ کے ساتھ ایک رکعت ادا کی اور پھر ہر ایک شخص نے ایک رکعت تنہا ادا کی۔

4244 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن إسرائيل وغيره، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: تقدم طائفة مع الإمام، وطائفة يازاء العدو، فيصلي بهم الإمام ركعة وسجدتين، ثم تذهب الطائفة الذين صلوا مع الإمام فيقومون موقف أصحابهم، ويجيء أولئك فيدخلون في صلاة الإمام، فيصلي بهم ركعة، ثم يسلم الإمام، ثم يقومون فيصلون ركعة مكانهم، ثم ينطلقون فيقومون مكان أصحابهم، ويجيء أولئك فيصلون ركعة

*** حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک گروہ امام کے ساتھ آگے آجائے گا اور ایک گروہ دشمن کے مد مقابل رہے گا، امام ان لوگوں کو ایک رکوع اور دو سجدے کے ساتھ (ایک رکعت) پڑھائے گا، پھر وہ گروہ جس نے امام کے ساتھ نماز ادا کی ہے وہ جائے گا اور اپنے ساتھیوں کی جگہ کھڑا ہو جائے گا اور وہ لوگ آئیں گے اور امام کی نماز میں شامل ہو جائیں گے، امام انہیں بھی ایک رکعت پڑھائے گا، پھر امام سلام پھیر دے گا، پھر یہ لوگ کھڑے ہو کر اپنی جگہ پر ایک رکعت ادا کریں گے، پھر یہ لوگ چلے جائیں گے اور اپنے ساتھیوں کی جگہ پر کھڑے ہو جائیں گے اور وہ لوگ آ کر ایک رکعت ادا کر لیں گے۔

4245 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن الثوري، عن خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فصفت صفا خلفه وصفا موازي العدو قال: وهم في صلاة كلهم قال: فكبروا جميعا، فصلى بالصف الذي يليه ركعة وصفت موازي العدو، ثم ذهب هؤلاء وجاءوا هؤلاء فصلى بهم ركعة، ثم قام هؤلاء الذين صلى بهم الركعة الثانية فصفا مكانهم، ثم ذهب هؤلاء الى مصاف هؤلاء، وجاء هؤلاء الى هؤلاء فقصوا ركعة

*** حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تھے تو آپ نے اپنے پیچھے ایک صف بنوائی اور ایک صف دشمن کے مد مقابل کھڑی ہو گئی۔ راوی بیان کرتے ہیں: یہ سب لوگ نماز کی حالت میں تھے، نبی اکرم ﷺ نے

تکبیر کی اور ان سب لوگوں نے بھی تکبیر کہی پھر نبی اکرم ﷺ نے اپنے پاس موجود صف کو ایک رکعت پڑھائی اور ایک صف دشمن کے مقابل موجود رہی پھر یہ لوگ چلے گئے اور وہ لوگ آگئے تو نبی اکرم ﷺ نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی پھر یہ لوگ کھڑے ہوئے اور نبی اکرم ﷺ نے انہیں دوسری رکعت پڑھائی انہوں نے ان لوگوں کی جگہ صف بنائی پھر یہ لوگ اُس صف کی جگہ چلے گئے اور وہ لوگ ان کی جگہ آگئے تو انہوں نے ایک رکعت مکمل ادا کی۔

4246 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: " يَقُومُ صَفٌّ خَلْفَ الْاِمَامِ

وَصَفٌّ مُوَازِي الْعَدُوِّ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ قَالَ: فَيُصَلِّي الْاِمَامُ بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ هُوَ اِلَى مَصَافٍ هُوَ لَاءِ، وَيَجِيءُ هُوَ لَاءِ فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ يُسَلِّمُ الْاِمَامُ، ثُمَّ يَرْجِعُ هُوَ لَاءِ اِلَى مَصَافٍ هُوَ لَاءِ، وَيَرْجِعُ هُوَ لَاءِ فَيُصَفُّونَ رَكْعَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُ هُوَ لَاءِ اِلَى مَصَافٍ هُوَ لَاءِ، وَيَرْجِعُ هُوَ لَاءِ فَيَقْضُونَ رَكْعَةً، فَيَكُونُ لِلْاِمَامِ رَكْعَتَيْنِ. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ رَكْعَةٌ مَعَ الْاِمَامِ وَرَكْعَةٌ وَحْدَهُ، غَيْرَ اَنَّ الْاَوَّلِينَ يَبْدُءُ وَنَ بِالْقَضَاءِ؛ لِاَنَّهُمْ كَانُوا بَدَّءُ وَاِبِالْصَّلَاةِ، وَلَا يَتَكَلَّمُونَ حَتَّى يَفْرُغُوا مِنْ صَلَاتِهِمْ كُلِّهَا؛ لِاَنَّهُمْ فِي صَلَاةٍ

* * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: ایک صف امام کے پیچھے کھڑی ہوگی اور ایک صف نماز ادا کیے بغیر دشمن کے مقابل کھڑی ہوگی۔ وہ یہ فرماتے ہیں: امام اپنے ساتھ والے لوگوں کو ایک رکعت پڑھائے گا پھر یہ لوگ ان دوسرے لوگوں کی صف کی جگہ چلے جائیں گے اور وہ لوگ آجائیں گے امام انہیں بھی ایک رکعت پڑھائے گا پھر امام سلام پھیر دے گا پھر یہ لوگ دوسرے لوگوں کی جگہ صف میں چلے جائیں گے اور وہ لوگ واپس آئیں گے اور ایک رکعت ادا کریں گے پھر یہ لوگ مڑ کر ان لوگوں کی صف کی جگہ چلے جائیں گے اور وہ لوگ آ کر ایک رکعت کو قضاء کریں گے اور اس طرح امام کی دو رکعات ہوں گی اور دونوں فریقوں میں سے ہر ایک کی ایک رکعت امام کے ساتھ ہوگی اور ایک رکعت تنہا ہوگی البتہ پہلے والے لوگ پہلے قضاء کریں گے (یعنی ایک رکعت تنہا ادا کریں گے) کیونکہ انہوں نے نماز کا آغاز کیا تھا اور جب تک وہ پوری نماز سے فارغ نہیں ہوتے اُس وقت تک کوئی اور کلام نہیں کریں گے کیونکہ وہ اُس وقت تک نماز کی حالت میں شمار ہوں گے۔

4247 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ

خَوَاتِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُومُ الْاِمَامُ فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، وَيَقُومُ صَفٌّ خَلْفَهُ وَصَفٌّ مُوَازِي الْعَدُوِّ، وَقَالَ: فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَةً، فَاِذَا صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً قَامُوا مَكَانَهُمْ، وَالْاِمَامُ قَائِمٌ فَقَصَّوْا رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبُوا اِلَى مَصَافٍ اُولَئِكَ، وَجَاءَ اُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ قَامُوا مَكَانَهُمْ، فَقَصَّوْا رَكْعَةً

* * حضرت سہل بن ابو حمزہ رضی اللہ عنہما جو نبی اکرم ﷺ کے صحابی ہیں وہ بیان کرتے ہیں: نماز خوف میں امام کھڑا ہوگا ایک صف اُس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی اور ایک صف دشمن کے مقابل کھڑی ہو جائے گی امام ان لوگوں کو ایک رکعت پڑھائے گا جب امام انہیں ایک رکعت پڑھا دے گا تو یہ لوگ اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہو جائیں گے اور امام بھی قیام کی حالت میں رہے گا پھر

وہ لوگ اپنی ایک رکعت کو ادا کر لیں گے پھر وہ ان لوگوں کی صف میں چلے جائیں گے (جنہوں نے نماز ادا نہیں کی تھی) اور وہ لوگ آئیں گے امام انہیں ایک رکعت پڑھائے گا پھر یہ لوگ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر ایک رکعت ادا کر لیں گے۔

4248 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي اسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ شَهِدَ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ فِي غَزْوَةِ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ الْخَشَبِ، وَمَعَهُ حُدَيْفَةُ، فَقَالَ سَعِيدٌ: أَيُّكُمْ شَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ فَقَالَ حُدَيْفَةُ: أَنَا، فَأَمَرَهُمْ حُدَيْفَةُ فَلَبَسُوا السِّلَاحَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَاجِكُمْ هَيْجٌ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ الْقِتَالُ قَالَ: فَصَلَّى بِأَحَدِي الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةَ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةً الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ فَقَامُوا مَقَامَ أَوْلِيكَ، وَجَاءَ أَوْلِيكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً أُخْرَى، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ

* * ابواسحاق بیان کرتے ہیں: مجھے اُس شخص نے یہ بات بتائی ہے جو ایک جنگ میں سعید بن العاص کے ساتھ موجود تھا اُس جنگ کو ذات الخشب کہا جاتا ہے۔ سعید بن العاص کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے سعید نے کہا: آپ میں سے کون نماز خوف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: میں! پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم دیا تو انہوں نے ہتھیار پہن لیے پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر تم پر حملہ ہو جاتا ہے تو تمہارے لیے لڑائی میں حصہ لینا حلال ہو جائے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھر امام نے ان دونوں میں سے ایک گروہ کو ایک رکعت پڑھائی اور دوسرا گروہ دشمن کی طرف رخ کر کے کھڑا رہا پھر وہ لوگ واپس آئے اور دوسرے لوگوں کی جگہ آ کر کھڑے ہو گئے اور دوسرے لوگ آئے تو امام نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی پھر امام نے ان سب لوگوں سمیت سلام پھیر دیا۔

4249 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعَثَاءِ، عَنْ أَسْوَدَ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمِ الْحَنْظَلِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ - أَرَاهُ قَالَ: بِطَبْرِسْتَانَ - فَقَالَ: أَيُّكُمْ شَهِدَ صَلَاةَ الْخَوْفِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ حُدَيْفَةُ: أَنَا قَالَ: فَقَامَ صَفٌّ خَلْفَهُ وَصَفٌّ مُوَازِي الْعَدُوِّ قَالَ: فَصَلَّى بِهِمُ الرُّكْعَةَ، ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافٍ هَؤُلَاءِ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ

* * ثعلبہ بن زہدم حنظلی بیان کرتے ہیں: ہم لوگ سعید بن العاص کے ساتھ طبرستان میں تھے انہوں نے دریافت کیا آپ میں سے کون نماز خوف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک ہوا تھا؟ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: میں! راوی بیان کرتے ہیں: پھر ایک صف امام کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور ایک صف دشمن کے مد مقابل کھڑی ہو گئی۔ راوی بیان کرتے ہیں: امام نے ان لوگوں کو ایک رکعت پڑھائی پھر یہ لوگ دوسرے لوگوں کی صف میں چلے گئے اور امام نے دوسرے لوگوں کو ایک رکعت پڑھائی اور پھر انہوں نے نماز ختم کی۔

4250 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الرَّكِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيْلَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهِمْ، فَقَامَ صَفٌّ خَلْفَهُ وَصَفٌّ مُوَازِي الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً قَالَ: ثُمَّ ذَهَبَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافٍ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ

هَذَا لِأَنَّ فَصْلِي بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ

*** قاسم بن حسان نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: میں نے اُن سے نماز خوف کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا: نبی اکرم ﷺ کھڑے ہوئے آپ نے اُن لوگوں کو نماز پڑھائی، ایک صف آپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور ایک صف دشمن کے مد مقابل کھڑی ہو گئی، نبی اکرم ﷺ نے اُن لوگوں کو ایک رکعت پڑھائی، پھر یہ لوگ اُن دوسرے لوگوں کی جگہ چلے گئے اور وہ دوسرے لوگ آگئے، تو نبی اکرم ﷺ نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی، پھر نبی اکرم ﷺ نے نماز ختم کر دی۔

4251 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي جَهْمٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِدِي قَرْدَ، فَصَفَّ صَفًّا خَلْفَهُ وَصَفًّا مُوَازِي الْعُدُوِّ، وَقَالَ: فَصَلَّى بِالصَّفِّ الَّذِي مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ذَهَبَ هَذَا إِلَى مَصَافٍ هَذَا، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَكَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ رَكْعَةٌ

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ذی قرد (کی جنگ) کے موقع پر نماز خوف ادا کی تھی۔ آپ نے اپنے پیچھے ایک صف بنوالی اور ایک صف دشمن کے مد مقابل ہو گئی۔ راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے اپنے ساتھ موجود صف کو ایک رکعت پڑھائی، پھر یہ لوگ دوسری صف والوں کی جگہ چلے گئے اور نبی اکرم ﷺ نے اُن دوسرے لوگوں کو ایک رکعت پڑھائی، پھر آپ نے ان سب لوگوں سمیت سلام پھیر دیا، پھر یہ لوگ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے، تو نبی اکرم ﷺ نے دو رکعات ادا کی تھیں اور دونوں فریقوں میں سے ہر ایک شخص نے ایک رکعت ادا کی تھی۔

4252 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: وَكَيْفَ تَكُونُ مَقْضُورَةً؟ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ رَكْعَةٌ

*** سالم افطس نے سعید بن جبیر کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے سعید سے دریافت کیا: نماز مختصر کب ہوگی؟ سعید نے جواب دیا: جب دونوں فریقوں میں سے ہر ایک شخص ایک رکعت ادا کرے۔

4251 - صحيح البخارى - كتاب الجمعة ابواب صلاة الخوف - باب يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف حديث: 916 صحيح ابن حبان - باب الإمامة والجماعة باب صلاة الخوف - ذكر البيان بان القوم الذين وصفناهم لم يقضوا الركعة التي ركنهم حديث: 2923 المستدرک على الصحيحين للحاكم - كتاب صلاة الخوف حديث: 1178 السنن للنسائي - كتاب صلاة الخوف حديث: 1522 مصنف ابن ابى شيبه - كتاب صلاة التطوع والإمامة وابواب متفرقة في صلاة الخوف كم هي ؟ - حديث: 8147 السنن الكبرى للنسائي - كتاب الصلاة عدد صلاة الخوف وذكر الاختلاف فيه - حديث: 511 شرح معاني الآثار للطحاوي - باب صلاة الخوف ، كيف هي ؟ حديث: 1174 سنن الدارقطني - كتاب العيدين باب صفة صلاة الخوف واقسامها - حديث: 1547 السنن الكبرى للبيهقي - كتاب صلاة الخوف باب العدو يكون وجاه القبلة في صحراء لا يواريهم شيء في - حديث: 5633

4253 - اَقْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: وَكَيْفَ تَكُونُ مَقْصُورَةً؟ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ رَكْعَتَانِ، إِنَّهَا لَيْسَتْ بِقَصْرِ

*** سالم افطس نے سعید بن جبیر کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے سعید سے دریافت کیا: نماز مختصر کب ہوگی؟ یعنی اس سے مراد یہ تھا کہ دونوں فریقوں میں سے ہر ایک فریق دو رکعات ادا کرے گا تو یہ تو نماز مختصر نہیں ہوگی۔

4254 - اَقْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: صَلَاةُ الْخَوْفِ قَالَ: يَقُومُ الْإِمَامُ وَيَقُومُ خَلْفَهُ صَفٌّ، وَصَفٌّ مُوَازِي الْعَدُوِّ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ، فَيُصَلِّي بِالصَّفِّ الَّذِي خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُوَازِي الْعَدُوِّ، وَيَجِيءُ الصَّفُّ الْآخِرُونَ، فَيُصَلُّونَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مَصَافِهِمْ، وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ، وَيَجِيءُ الْأَوَّلُونَ وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ، فَيَرَكْعُونَ وَيَسْجُدُونَ، وَلَا يَقْرَأُونَ، وَيَجْلِسُونَ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَقُومُ بِهِمْ فَيُصَلِّي بِهِمُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مَصَافِهِمْ، وَيَجِيءُ الْآخِرُونَ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً يَمْرُءٌ وَنَ فِيهَا ثُمَّ يَجْلِسُونَ، وَيَتَشَهَّدُونَ، ثُمَّ يَقُومُونَ مَكَانَهُمْ فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً أُخْرَى لَا يَقْرَأُونَ فِيهَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِنْ شَاءَ وَ، وَيَتَشَهَّدُونَ وَيُسَلِّمُونَ

*** سفیان ثوری نماز خوف کے بارے میں یہ فرماتے ہیں: امام کھڑا ہوگا ایک صف اُس کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی اور ایک صف نماز کی حالت میں نہیں ہوگی لیکن دشمن کے مد مقابل ہوگی امام اپنے ساتھ والوں کو ایک رکعت پڑھائے گا پھر وہ لوگ اپنی ایڑیوں کے بل (اٹے پاؤں چلتے ہوئے) پیچھے چلے جائیں گے اور دشمن کے مد مقابل آ کر صف بنالیں گے پھر دوسری صف آئے گی وہ لوگ امام کے ساتھ ایک رکعت ادا کریں گے پھر وہ لوگ اٹھیں گے اور چلتے ہوئے اپنی صف میں چلے جائیں گے امام اس دوران بیٹھا رہے گا پھر پہلی صف کے لوگ آئیں گے اور امام اس دوران بیٹھا ہوا ہوگا وہ لوگ خود ہی رکوع اور سجود ادا کریں گے وہ لوگ اس میں تلاوت نہیں کریں گے پھر وہ امام کے ساتھ بیٹھ جائیں گے پھر امام اُن کے ساتھ کھڑا ہوگا اور انہیں دوسری رکعت پڑھائے گا پھر امام سلام پھیر دے گا پھر یہ لوگ چل کر اپنی صف میں چلے جائیں گے اور دوسرے لوگ آئیں گے وہ ایک رکعت ادا کریں گے جس میں وہ تلاوت بھی کریں گے پھر وہ بیٹھ جائیں گے اور تشہد کے کلمات پڑھیں گے پھر وہ اپنی جگہ کھڑے ہوں گے اور دوسری رکعت ادا کریں گے جس میں وہ تلاوت نہیں کریں گے صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے وہ بھی اگر وہ چاہیں! پھر وہ تشہد پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے۔

بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْمَسَافِقَةِ

باب: تلواروں کے مقابلہ کے وقت نماز ادا کرنا

4255 - اَقْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: (أَنَّ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا) (النساء: 101) قَالَ: قَصْرُهَا فِي الْخَوْفِ وَالْقِتَالِ، الصَّلَاةُ فِي كُلِّ

وَجِهٍ رَاكِبًا وَمَا شِئًا قَالَ: أَمَا صَلَاةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ، وَصَلَاةُ النَّاسِ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، فَلَيْسَ بِقَصْرِ، هُوَ وَفَاؤُهَا. طَاوُسٌ يَقُولُ ذَلِكَ

* * * طاووس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: (ارشاد باری تعالیٰ ہے):

”تم نماز کو مختصر کر لو اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر لوگ تمہیں آزمائش کا شکار کر دیں گے۔“

طاووس فرماتے ہیں: نماز کا یہ اختصار خوف اور جنگ کے عالم میں ہوگا ایسی صورت میں ہر حالت میں نماز ادا کی جاسکتی ہے خواہ آدمی سوار ہو یا پیدل ہو۔ نبی اکرم ﷺ نے ایک مقام پر جو دو رکعت ادا کی تھیں یا لوگ جو سفر کے دوران نماز میں دو رکعت ادا کرتے ہیں وہ قصر نماز نہیں ہے وہ تو مکمل نماز ہے یہ طاووس کی رائے ہے۔

4256 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ لِعَطَاءٍ: الْمُسْلِمُ يَطْلُبُ الْعُدُوَّ عَلَى

آثَرِهِ فَيُصَلِّي وَهُوَ يَطْلُبُهُ مُدْبِرًا عَنِ الْبَيْتِ قَالَ: يُصَلِّي عَلَى دَائِتِهِ كَذَلِكَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ هُوَ يَطْلُبُ وَطَلَبَهُ الْعُدُوُّ فَلْيَقْضِهَا كَذَلِكَ

* * * ابن جریر بیان کرتے ہیں: سلیمان نے عطاء سے کہا: ایک مسلمان دشمن کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے نماز ادا کرتا ہے جبکہ اس کی پیٹھ خانہ کعبہ کی طرف ہوتی ہے؟ تو سلیمان نے دریافت کیا: کیا وہ اپنی سواری پر اسی طرح نماز ادا کرے گا؟ عطاء نے جواب دیا: جی نہیں! جب کوئی مسلمان دشمن کا پیچھا کر رہا ہو یا دشمن اس کا پیچھا کر رہا ہو تو وہ اسے اسی طرح ادا کرے گا۔

4257 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَالِكٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ كَانَ الْخَوْفُ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ - كَأَنَّهُ يَعْنِي الْمُضَارَبَةَ - صَلُّوا رِجَالًا، قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ، أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِينَ الْقِبْلَةَ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا. قَالَ: وَلَا أَدْرِي عَبْدَ اللَّهِ إِلَّا وَقَدْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

* * * حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اگر خوف اس سے زیادہ شدید ہو یعنی لڑائی چل رہی ہو تو لوگ پیدل ہی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر یا سوار رہنے کے عالم میں قبلہ کی طرف رخ کر کے یا قبلہ کی طرف رخ کیے بغیر نماز ادا کریں گے۔ راوی بیان کرتے ہیں: میرے خیال ہے کہ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ تک مرفوع حدیث کے طور پر ہی اسے نقل کیا ہوگا۔

4258 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنْ كَانَ الْخَوْفُ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا حَيْثُ جِهَتُهُمْ

* * * حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اگر خوف اس سے زیادہ شدید ہو تو وہ لوگ کھڑے رہ کر یا سوار ہو کر نماز ادا کریں گے خواہ ان کا رخ کسی بھی سمت میں ہو۔

4259 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا أَظَلَّتْهُمْ الْأَعْدَاءُ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ

أَنْ يُصَلُّوا قَبْلَ آتِي جِهَةٍ كَانُوا رِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا رَكَعَتَيْنِ يَوْمَونَ إِيْمَاءَ. ذَكَرَهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
 ** زہری فرماتے ہیں: جب دشمن مسلمانوں پر حملہ کر چکا ہو تو ان کے لیے یہ بات جائز ہوگی کہ وہ نماز ادا کر لیں خواہ
 ان کا رخ کسی بھی سمت میں ہو خواہ وہ پیدل ہوں یا سوار ہوں وہ دو رکعات ادا کریں گے جو اشارہ کے ذریعہ ادا کریں گے۔

زہری نے یہی روایت سالم کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کی ہے۔

4260 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ

رُكْبَانًا) (البقرة: 239) قَالَ: رَكَعَتَيْنِ يَوْمَءُ بِرَأْسِهِ إِيْمَاءً حَيْثُ كَانَ وَجْهَهُ، قَالَ سُفْيَانُ: رَاكِبًا أَوْ مَاشِيًا

**** ابراہیم نخعی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان:**

”اگر تمہیں اندیشہ ہو تو تم پیادہ یا سوار ہونے کے عالم میں“۔

ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: یہ دو رکعات ادا کی جائیں گی جن میں آدمی سر کے ذریعہ اشارہ کرے خواہ اس کا رخ کسی بھی سمت

میں ہو۔

سفیان نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں: خواہ آدمی سوار ہو یا پیدل ہو۔

4261 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَوْمَءُ بِرَكَعَةٍ

**** حسن بصری فرماتے ہیں: آدمی اشارہ کے ذریعہ ایک رکعت ادا کرے گا۔**

4262 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ: (فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا) (البقرة: 239) قَالَ:

ذَلِكَ عِنْدَ الضَّرَابِ بِالسَّيْفِ، تُصَلِّي رَكَعَةً إِيْمَاءً حَيْثُ كَانَ وَجْهَكَ رَاكِبًا كُنْتَ، أَوْ مَاشِيًا، أَوْ سَاعِيًا

**** قتادہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان:**

”تو وہ پیادہ ہونے یا سوار ہونے کے عالم میں“۔

یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت ہوگا جب تلواروں کے ذریعہ لڑائی چل رہی ہو تو تم اشارہ کے ذریعہ ایک رکعت ادا کرو گے خواہ

تمہارا رخ کسی بھی سمت میں ہو تم سوار ہو یا پیدل ہو یا دوڑ رہے ہو۔

4263 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ: (فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ

رُكْبَانًا) (البقرة: 239) قَالَ: تَجْزِءُ تَكْبِيرَتَانِ حَيْثُ كَانَ تَوَجُّهُهُ

**** ضحاک نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان:**

”اگر تمہیں اندیشہ ہو تو تم پیادہ ہونے یا سوار ہونے کے عالم میں“۔

ضحاک فرماتے ہیں: دو تکبیریں آدمی کے لیے کافی ہوں گی خواہ اس کا رخ کسی بھی سمت میں ہو۔

4264 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا اخْتَلَطُوا فَإِنَّمَا هُوَ الذِّكْرُ

وَالْإِشَارَةُ بِالرَّأْسِ

* * مجاہد فرماتے ہیں: جب (جنگ میں دونوں فریق) گتھم گتھا ہو جائیں تو صرف ذکر ہوگا اور سر کے ذریعہ اشارہ ہوگا۔

4265 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمُسَافِقَةُ فَإِنَّمَا هِيَ رَكْعَةٌ يَوْمَئِذٍ بِهَا إِيمَاءٌ أَيْنَ كَانَ وَجْهَهُ مَاشِيًا أَوْ رَاكِبًا

* * طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: جب تلواروں کے ذریعہ لڑائی ہو رہی ہو تو ایک رکعت ادا کی جائے گی جسے آدمی اشارہ کے ذریعہ ادا کرے گا، خواہ اس کا رخ کسی بھی سمت میں ہو خواہ وہ پیدل ہو یا سوار ہو۔

4266 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: رَكْعَتَانِ يَوْمَئِذٍ بِهِمَا حَيْثُ كَانَ وَجْهَهُ

* * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: دو رکعات اشارہ کے ذریعہ ادا کی جائیں گی، خواہ آدمی کا رخ کسی بھی سمت میں ہو۔

بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

باب: سفر کے دوران نماز ادا کرنا

4267 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَتْهُ، أَنَّ الصَّلَاةَ أَوَّلَ مَا فَرِضَتْ فَرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ اتَّمَّ اللَّهُ الصَّلَاةَ فِي الْحَضَرِ وَأَقْرَبَتِ الرَّكْعَتَانِ عَلَى هَيْئَتِهِمَا فِي السَّفَرِ. " قَالَ: فَقُلْتُ لِعُرْوَةَ: فَمَا كَانَ يَحْمِلُ عَائِشَةَ عَلَى أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ فِي السَّفَرِ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهَا فَرَضَهَا اللَّهُ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ عُرْوَةُ: تَأَوَّلْتُ مِنْ ذَلِكَ مَا تَأَوَّلَ عُثْمَانُ مِنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ بِمَنَى

* * ابن اکرم نے یہ روایت بیان کی ہے۔ یہ عروہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ہیں: نماز پہلے دو رکعت کی شکل میں نازل ہوئی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے حضر میں نماز کو مکمل کر دیا اور سفر کے دوران یہ دو رکعات اپنی اصل صورت پر برقرار رہیں۔

ابن شہاب کہتے ہیں میں نے عروہ سے دریافت کیا: پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سفر کے دوران چار رکعات کیوں ادا کرتی تھیں جبکہ انہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دو رکعات فرض فرمادی ہیں؟ تو عروہ نے جواب دیا: وہ اس حوالے سے وہی تاویل کرتی تھیں جس تاویل کے تحت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ منیٰ میں مکمل نماز ادا کرتے تھے۔

4268 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنَى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعًا. قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَبْلَغَنِي أَنَّ عُثْمَانَ إِنَّمَا صَلَّى أَرْبَعًا؛ لِأَنَّهُ أَرْمَعُ أَنْ يُقِيمَ بَعْدَ الْحَجِّ

* * سالم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ بیان نقل کیا ہے: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں منیٰ میں دو رکعات

ادا کیں، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں بھی دو رکعات ادا کیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں بھی دو رکعات ادا کیں، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت کے ابتدائی دور میں بھی دو رکعات ادا کیں، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں چار رکعات ادا کرنے لگے۔

زہری بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہاں چار رکعات ادا کیا کرتے تھے کیونکہ وہ اس بات کا پختہ ارادہ کرتے تھے کہ وہ حج کے بعد بھی وہاں مقیم رہیں گے۔

4269 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، و ابا بكر، وعمر، و عثمان صدرا من خلافته، كانوا يصلون بمكة وبمنى ركعتين، ثم ان عثمان صلاها ربعا. فبلغ ذلك ابن مسعود، فاسترجع ثم قام فصلى ربعا، فقيل له: استرجعت ثم صليت ربعا؟ قال: الخلاف شر.

*** قتادہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت کے ابتدائی دور میں مکہ میں مکمل نماز ادا کی اور منیٰ میں دو رکعات ادا کی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے عہد خلافت میں مکہ میں اور منیٰ میں دو رکعات ادا کرتے تھے پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چار رکعات ادا کرنے لگے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا، لیکن پھر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے چار رکعات ادا کیں۔ ان سے کہا گیا: آپ نے پہلے انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور اب چار رکعات ادا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا: (خليفة وقت سے) اختلاف کرنا زیادہ بُرا ہے۔

4270 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، اخبرنا معمر، عن ايوب، عن ابن سيرين، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافر من المدينة الى مكة لا يخاف الا الله فيصلى ركعتين.

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف سفر کر رہے تھے آپ کو صرف اللہ تعالیٰ کا خوف تھا لیکن آپ نے پھر بھی دو رکعات ادا کی تھیں۔

4271 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن هشام، عن ابن سيرين، عن ابن عباس مثله

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔

4272 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: قلت: فيما جعل القصر في الخوف وقد امن الناس؟ قال: السنة، قلت: ورخصة؟ قال: نعم.

*** ابن جریج نے عطاء کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: میں نے دریافت کیا: خوف کے عالم میں نماز کو مختصر کیا گیا تھا اب تو لوگ امن کی حالت میں ہیں۔ تو عطاء نے جواب دیا: یہ سنت ہے۔ میں نے دریافت کیا: کیا یہ رخصت ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

4273 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان

يَقْصُرُهَا فِيهَا مَا أَقَامَ - يَعْنِي بِمَكَّةَ - فِي سَفَرِهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ حَتَّى كَانَ بَيْنَ ظَهْرَانِي خِلَافَتِهِ " * * ابن جریج نے عطاء کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: نبی اکرم ﷺ سفر کے دوران جتنا عرصہ (یعنی مکہ میں) مقیم رہتے تھے آپ قصر نماز ادا کرتے تھے (آپ کے بعد) حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اپنی خلافت کے ابتدائی دور تک (اس دوران قصر نماز ہی ادا کرتے رہے)۔

4274 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَمَا قَوْلُهُ: (إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا) (النساء: 101) قَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا خَافُوا الَّذِينَ كَفَرُوا، وَسَنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ رَكْعَتَيْنِ، وَلَيْسَ بِقَصْرِ، وَلَكِنَّهَا وَقَاءٌ

* * عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں: جہاں تک اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا تعلق ہے: "اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر لوگ تمہیں آزمائش کا شکار کر دیں گے"۔

تو عمرو بن دینار فرماتے ہیں: یہ حکم اُس صورت میں تھا جب مسلمانوں کو اُن لوگوں سے خوف ہو جو کافر ہیں، اُس کے بعد نبی اکرم ﷺ نے دو رکعات کو مسنون قرار دیا، یہ قصر نہیں ہے بلکہ یہ پوری ادائیگی ہے۔

4275 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمِيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: إِنَّمَا اللَّهُ قَالَ: (أَنْ تَقْصُرُوا) (النساء: 101) مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا، فَقَدْ آمَنَ النَّاسُ، فَقَالَ عُمَرُ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ بِهَا عَلَيْكُمْ، فَأَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ

* * یعلیٰ بن امیہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا: اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: "یہ کہ تم نماز کو قصر کر دو اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر لوگ تمہیں آزمائش کا شکار کر دیں گے"۔

لیکن اب تو لوگ امن کی حالت میں آچکے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: میں بھی اس بات پر حیران ہوا تھا جس بات پر تم حیران ہوئے ہو، میں نے نبی اکرم ﷺ سے اس بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: یہ وہ صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پر کیا ہے، تو تم اُس کے صدقہ کو قبول کرو۔

4276 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ: نَجِدُ صَلَاةَ الْخَوْفِ وَصَلَاةَ الْحَضَرِ فِي الْقُرْآنِ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بَعَثَ اللَّهُ نَبِيَّهُ وَنَحْنُ أَجْفَى النَّاسِ، فَصَنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

* * امیہ بن عبد اللہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا: ہم قرآن میں نماز خوف اور حضر کی نماز کا ذکر تو پاتے ہیں، لیکن ہمیں مسافر کی نماز کا ذکر نہیں ملتا۔ تو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جب اللہ

تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا تھا اُس وقت ہم سب سے زیادہ بے وفا لوگ تھے تو ہم اسی طرح کرتے ہیں جس طرح نبی اکرم ﷺ نے کیا ہے۔

4277 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ حُمَيْدُ الْحَمِيرِيُّ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنِّي أَسَافِرُ أَفَاقَصْرُ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ أَمْ أُتِمُّهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ بِقَصْرِهَا، وَلَكِنْ تَمَامُهَا، وَسُنَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمِنًا لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، فَصَلَّى اثْنَيْنِ حَتَّى رَجَعَ، ثُمَّ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ، ثُمَّ خَرَجَ عُمَرُ آمِنًا لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ، فَصَلَّى اثْنَيْنِ حَتَّى رَجَعَ، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ عُثْمَانُ ثَلَاثِيَّ امَارَتِهِ أَوْ شَطْرَهَا، ثُمَّ صَلَّىهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ أَخَذَ بِهَا بَنُو أُمَيَّةَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَبَلَغَنِي أَنَّهُ أَوْفَى أَرْبَعًا بِمَنَى قَطُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَاهُ فِي مَسْجِدِ الْخَيْفِ بِمَنَى: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا زِلْتُ أَصَلِّيهِمَا رَكْعَتَيْنِ مُنْذُ رَأَيْتُكَ عَامَ أَوَّلِ صَلَّيْتَهَا رَكْعَتَيْنِ، فَخَشِيَ عُثْمَانُ أَنْ يَظُنَّ جُهَالُ النَّاسِ إِنَّمَا الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنَّمَا كَانَ أَوْفَاهَا بِمَنَى قَطُّ "

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: حمید حمیری نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا، اُس نے کہا: میں جب سفر کر رہا ہوں تو کیا میں سفر کے دوران نماز کو قصر کروں گا یا اسے مکمل ادا کروں گا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ نماز قصر نہیں ہوتی بلکہ یہ مکمل ہوتی ہے اور یہ نبی اکرم ﷺ کی سنت ہے، نبی اکرم ﷺ امن کی حالت میں روانہ ہوئے تھے آپ کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کا خوف نہیں تھا لیکن واپس تشریف لانے تک آپ مسلسل دو رکعات ہی ادا کرتے رہے، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ (سفر پر) روانہ ہوئے انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کا خوف نہیں تھا لیکن وہ واپس آنے تک دو رکعات ادا کرتے رہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ امن کی حالت میں روانہ ہوئے انہیں بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کا خوف نہیں تھا لیکن وہ واپس آنے تک دو رکعات ہی ادا کرتے رہے، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں دو تہائی حصہ میں یا شاید نصف حصہ میں اسی طرح کیا، اُس کے بعد وہ چار رکعات ادا کرنے لگے، بنو امیہ نے پھر اس چیز کو اختیار کر لیا۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ وہ صرف منیٰ میں چار رکعات مکمل ادا کرتے تھے، اُس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ منیٰ میں مسجد خیف میں ایک دیہاتی نے انہیں بلند آواز میں مخاطب کر کے کہا: اے امیر المؤمنین! گزشتہ سال سے جب سے میں نے آپ کو دو رکعات ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اُس کے بعد میں تو مسلسل دو رکعات ہی ادا کر رہا ہوں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ناواقف لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اس نماز میں دو رکعات ہوتی ہیں، اس لیے وہ صرف منیٰ میں یہ نماز مکمل ادا کرتے تھے۔

4278 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: صَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ وَلَيْسَ بِقَصْرِ، عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

* * حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: عید الاضحیٰ کی نماز میں دو رکعات ہوں گی، عید الفطر کی نماز میں دو رکعات ہوں گی، مسافر کی نماز میں دو رکعات ہوں گی جو مکمل ہیں، یہ مختصر نہیں ہیں یہ بات تمہارے نبی کی زبانی ثابت ہے۔

4279 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ قَالَ: لَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: الصَّلَاةُ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ قَالَ: قُلْتُ: فَكَيْفَ تَرَى هَاهُنَا بِمِنَى؟ قَالَ: وَيَحْكُ وَهَلْ سَمِعْتَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، وَآمَنْتُ بِاللَّهِ قَالَ: فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فَصَلِّ إِنْ شِئْتَ أَوْ دَعُ

* * داؤد بن ابوعاصم بیان کرتے ہیں: میری ملاقات حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہوئی، میں نے دریافت کیا: سفر میں نماز (کتنی نماز ادا کی جائی گی)؟ انہوں نے جواب دیا: دو رکعت! میں نے دریافت کیا: تو یہاں منیٰ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے فرمایا: تمہارا ستیاناس ہو! کیا تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کوئی حدیث سنی ہے؟ میں نے جواب دیا: جی ہاں! میں اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہوں! تو انہوں نے کہا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دو دو رکعت ادا کیا کرتے تھے اب تمہاری مرضی ہے اگر انہیں ادا کر لو اور اگر چاہو تو نہ ادا کرو۔

4280 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِشَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: صَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ

* * حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مسافر کی نماز میں دو رکعات ہوتی ہیں۔

4281 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُورِقِ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ كَفَرَ

* * مورق عجلی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے سفر کے دوران نماز کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: یہ دو دو رکعات ہوں گی جو شخص سنت کے برخلاف کرتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔

4282 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ، قَالَا: الْمُسَافِرُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ، إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ مِصْرًا مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يُتِمُّ

* * حسن بصری اور قتادہ فرماتے ہیں: مسافر واپس آنے تک دو رکعات ادا کرتا رہے گا، البتہ اگر وہ مسلمانوں کے کسی شہر میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ نماز کو مکمل ادا کرے گا۔

4283 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي لَيْلَى الْكِنْدِيِّ قَالَ: أَقْبَلَ سُلَيْمَانُ فِي اثْنَيْ عَشَرَ رَاكِبًا - أَوْ ثَلَاثَةَ عَشَرَ - مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالُوا: تَقَدَّمْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنَّا لَا نُوْمِكُمْ، وَلَا نَنْكِحُ نِسَاءَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ هَدَانَا بِكُمْ قَالَ: فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ سَلْمَانُ: مَا لَنَا وَلِلْمَرْبُوعَةِ، إِنَّمَا كَانَ يَكْفِينَا نِصْفُ الْمَرْبُوعَةِ،

وَنَحْنُ إِلَى الرَّخْصَةِ أَحْوَجُ

*** ابو یعلیٰ کندی بیان کرتے ہیں: سلیمان (نامی حکمران) بارہ یا شاید تیرہ صحابہ کرام کے ساتھ آیا جب نماز کا وقت ہوا تو ان لوگوں نے کہا: اے ابو عبد اللہ! آپ آگے بڑھیں! تو اس نے کہا: ہم آپ لوگوں کی امامت نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ کی خواتین کے ساتھ نکاح کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہمیں ہدایت نصیب کی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: تو ان صحابہ کرام میں سے ایک صاحب آگے بڑھے انہوں نے چار رکعات پڑھائیں جب انہوں نے سلام پھیرا تو سلیمان نے کہا: ہمارا اور چار رکعات کا کیا واسطہ! ہمارے لیے تو چار رکعات کا نصف ہی کافی ہے اور ہمیں رخصت کی زیادہ ضرورت ہے۔

4284 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَانَ كَتَبَ إِلَى بَعْضِ عَمَّالِهِ: إِنَّهُ لَا يُصَلِّي

الرَّكْعَتَيْنِ الْمُقِيمِ، وَلَا التَّانِي، وَلَا التَّاجِرُ، إِنَّمَا يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ مَنْ مَعَهُ الزَّادُ وَالْمَزَادُ

*** قتادہ بیان کرتے ہیں: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بعض اہلکاروں کو یہ خط لکھا تھا: مقیم شخص، کھیتی باڑی کرنے والا شخص اور تاجر شخص دو رکعات ادا نہیں کرے گا دو رکعات وہ شخص ادا کرے گا جس کے ساتھ زاد سفر اور مشکیزہ ہو۔

4285 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ قَرَأَ كِتَابَ عُمَانَ

- أَوْ قَرَأَ عَلَيْهِ - أَنَّ عُمَانَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْبَصْرَةِ: أَمَا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَّغَنِي أَنَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ فِي جَشْرَةٍ، أَوْ فِي تِجَارَةٍ، أَوْ يَكُونُ جَابِيًا فَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ، إِنَّمَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ مَنْ كَانَ شَاخِصًا أَوْ بِحَضْرَةِ عَدُوِّ

*** ابو قلابہ بیان کرتے ہیں: مجھے اس شخص نے یہ بات بتائی ہے جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خط پڑھا تھا یا وہ خط اس کے سامنے پڑھا گیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اہل بصرہ کو خط میں لکھا:

”اما بعد! مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ تم میں سے بعض لوگ جب اپنے جانور چرانے کے لیے جاتے ہیں یا تجارت کے سلسلہ میں جاتے ہیں یا جابی ہوتے ہیں تو وہ نماز کو قصر ادا کرتے ہیں قصر نماز وہ شخص ادا کرے گا جو مسافر ہو یا دشمن کے مد مقابل ہو۔“

4286 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ

قَالَ: لَا تُقْصِرُ الصَّلَاةَ إِلَّا فِي حَجِّ أَوْ جِهَادٍ

*** قاسم بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: صرف حج یا جہاد کے موقع پر نماز کو قصر کیا جاسکتا ہے۔

4287 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: " لَا

تَغْتَرُّوا بِتِجَارَاتِكُمْ وَأَجْشَارِكُمْ، وَتُسَافِرُوا إِلَى آخِرِ السَّوَادِ، تَقُولُوا: إِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ، إِنَّمَا الْمُسَافِرُونَ مِنْ أَفْقٍ إِلَى أَفْقٍ "

*** حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: تمہاری تجارت یا مال مویشیوں کو چرنے کے لیے کھلی جگہ لے جانا

تمہیں غلط فہمی کا شکار نہ کرے تم لوگ آبادی کے آخری حصہ تک سفر کرو اور پھر یہ کہو کہ ہم تو مسافر لوگ ہیں، مسافر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک علاقہ سے دوسرے علاقہ کی طرف سفر کرتے ہیں۔

4288 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ، وَحَدِيثُهُ، أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ: لَا يَغْرَكُكُمْ جَشْرُكُمْ وَلَا سَوَادُكُمْ، لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَى سَوَادٍ قَالَ: وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّوَادِ ثَلَاثُونَ فَرَسًا

*** عبد الکریم نے ابن سعید اور حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ ان دونوں حضرات نے اہل کوفہ سے یہ فرمایا: تمہارا جانوروں کو چرنے کے لیے لے جانا یا تمہاری آبادی تمہیں غلط فہمی کا شکار نہ کرے تم آبادی کی آخری حد تک نماز کو قصر نہ کرو۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ان لوگوں اور آبادی کی آخری حد کے درمیان تیس فرسخ کا فاصلہ تھا۔

4289 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَا أَرَى أَنْ تَقْصُرُوا فِي الصَّلَاةِ إِلَّا فِي سَبِيلِ مَنْ سُبِلَ اللَّهُ، وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، كَانَ يَقُولُ: يَقْصُرُ فِي كُلِّ ذَلِكَ قَالَ: وَكَانَ طَاوُسٌ يَسْأَلُهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: أَسَافِرُ لِبَعْضِ حَاجَتِي، أَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟ فَيَسْأَلُهُ، وَقَالَ: إِذَا خَرَجْنَا حُجَّاجًا أَوْ عَمَارًا صَلَّيْنَا رَكَعَتَيْنِ

*** عطاء فرماتے ہیں: میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ تم لوگ صرف اللہ کی راہ میں جہاد کے دوران نماز قصر کرتے ہو حالانکہ تم سے پہلے کے لوگ اس بات کے قائل نہیں تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہر قسم کے سفر میں نماز کو قصر کیا جائے گا۔ طاؤس کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ ایک شخص نے ان سے سوال کیا اُس نے کہا: میں اپنے کسی ذاتی کام کے سلسلہ میں سفر کرتا ہوں تو کیا نماز کو قصر کروں گا؟ وہ خاموش رہے پھر انہوں نے کہا: جب ہم حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو ہم دو رکعات ادا کرتے ہیں۔

4290 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُهُمْ لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: إِنِّي لَا أَحْسَبُ أَنَّ ذَلِكَ كَذَلِكَ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: " مِنْ أَجْلِ أَنَّ إِمَامَ الْمُتَّقِينَ لَمْ يَقْصُرِ الصَّلَاةَ إِلَّا فِي سَبِيلِ مَنْ سُبِلَ اللَّهُ؛ حَجٌّ أَوْ عُمْرَةٌ أَوْ غَزْوَةٌ. وَالْإِنَّمَا بَعْدَهُ أَيُّهُمْ كَانَ يَضْرِبُ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعِي الدُّنْيَا؟ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ خَرَجَ فِي غَيْرِ حَجٍّ وَلَا عُمْرَةٍ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا مَخْرَجُهُ إِلَى الطَّائِفِ، قُلْتُ: فَجَابِرٌ، وَابْنُ عَمْرٍ، وَابْنُ سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ؟ قَالَ: وَلَا أَحَدٌ مِنْهُمْ، قُلْتُ: فَمَا تَرَى؟ قَالَ: قَالَ: أَرَى إِلَّا تَقْصُرَ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ الْخَيْرِ، وَقَدْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَقُولُ هَذَا الْقَوْلَ، يَقْصُرُ فِي كُلِّ ذَلِكَ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز صرف اللہ کی راہ میں (جہاد میں حصہ لیتے ہوئے) قصر کی جاسکتی ہے۔ تو عطاء نے کہا: میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا ہی ہے۔ (ابن جریج کہتے ہیں:) میں نے دریافت کیا: وہ کیوں؟ عطاء نے جواب دیا: اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام پرہیزگاروں کے امام (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) نے صرف اللہ کی راہ

میں (جہاد کے دوران) نماز کو قصر کیا تھا یا حج کے موقع پر کیا تھا یا عمرہ کے موقع پر کیا تھا یا کسی جنگ کے دوران کیا تھا اور آپ کے بعد آنے والے آئمہ نے بھی ایسا ہی کیا ان حضرات میں سے کون شخص کسی دنیاوی فائدے کے حصول کے لیے (سفر کے دوران نماز کو قصر کرتا) تھا۔

(ابن جریج کہتے ہیں:) میں نے کہا: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ حج یا عمرہ کے علاوہ سفر پر نکلتے تھے تو ایسا ہی کرتے تھے۔ عطاء نے جواب دیا: جی نہیں! وہ صرف طائف تک جاتے تھے۔ میں نے دریافت کیا: حضرت جابر، حضرت عبد اللہ بن عمر اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: ان حضرات میں سے بھی کوئی ایسا نہیں کرتا تھا۔ میں نے دریافت کیا: پھر اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ عطاء نے جواب دیا: میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف اللہ کی راہ میں (کیے جانے والے سفر) میں نماز قصر کی جاسکتی ہے جو بھلائی کا راستہ ہو۔

(ابن جریج کہتے ہیں:) پہلے عطاء کی یہ رائے نہیں تھی وہ ہر طرح کے سفر میں نماز کے قصر ہونے کے قائل تھے۔

4291 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جریج قال: أخبرني نافع: أن ابن عمر يقصر إلى مال له بخيبر

يُطَالِعُهُ، فَلَيْسَ الْأَنْ حَجٌّ وَلَا عُمْرَةً، وَلَا غَزْوَةً

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی زمین تک جاتے ہوئے بھی نماز قصر کیا کرتے تھے جو خیبر میں تھی جس کا وہ معائنہ کرنے جاتے تھے اس وقت کوئی حج یا عمرہ یا جنگ نہیں ہوتی تھی۔

4292 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جریج، عن عطاء، أن ابن عباس خرج إلى الطائف يقصر

الصلاة

*** عطاء بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب طائف تشریف لے جاتے تھے تو نماز کو قصر کرتے تھے۔

4293 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن ابن عمر

اشترى شيناً من رجل - أحسبه ناقة - فخرج ينظر إليها فقصر الصلاة، وكان ذلك مسيرة يوم تام أو أربع

كذا، برؤي

*** سالم بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص سے اونٹنی خریدی وہ اس کا جائزہ لینے

کے لیے روانہ ہوئے پھر انہوں نے راستے میں نماز کو قصر کیا حالانکہ یہ مکمل دن کی مسافت کا فاصلہ تھا یا شاید چار برید کا فاصلہ تھا۔

4294 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن مالك، عن نافع، أن ابن عمر خرج إلى خيبر فقصر الصلاة

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خیبر تشریف لے جاتے تھے تو نماز کو قصر کرتے تھے۔

4295 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن مالك، عن نافع، أنه كان يسافر مع ابن عمر البريد فلا يقصر فيه

الصلاة

*** نافع کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک برید کا سفر کرتے تھے تو اس

دوران حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز کو قصر نہیں کرتے تھے۔

بَابُ: فِي كَمْ يَقْصُرُ الصَّلَاةُ

باب: کتنی مسافت (کے سفر میں) نماز کو قصر کیا جائے گا؟

4296 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ أَوْ إِلَى مِثْنَى؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ إِلَى الطَّائِفِ وَالْإِلَى جُدَّةَ، وَلَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ إِلَّا فِي الْيَوْمِ النَّامِ، وَلَا تَقْصُرُ فِيمَا دُونَ الْيَوْمِ، فَإِنْ ذَهَبْتَ إِلَى الطَّائِفِ أَوْ إِلَى جُدَّةَ أَوْ إِلَى قَدْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَرْضِ، إِلَى أَرْضِ لَكَ أَوْ مَاشِيَةٍ فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ، فَإِذَا قَدِمْتَ فَأَوْفِ

* * * عطاء بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا، میں نے کہا: کیا میں عرفہ یا مثنیٰ کی طرف جاتے ہوئے نماز کو قصر کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! لیکن تم طائف کی طرف جاتے ہوئے یا جدہ کی طرف جاتے ہوئے نماز کو قصر کرو گے، تم نماز کو قصر صرف اُس صورت میں کرو گے جب ایک مکمل دن کا سفر ہو ایک دن سے کم کے سفر میں نماز کو قصر نہیں کرو گے، اگر تم طائف جاتے ہو یا جدہ جاتے ہو یا اتنی مسافت کا کوئی اور سفر کرتے ہو خواہ وہ تمہاری اپنی سرزمین ہو یا وہاں تمہارے مال مویشی ہوں، جب تم (اپنے علاقہ میں) واپس آ جاؤ گے، تو نماز کو مکمل ادا کرو گے۔

4297 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: إِلَى مِثْنَى؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ إِلَى جُدَّةَ، وَالْإِلَى عُسْفَانَ وَالْإِلَى الطَّائِفِ، فَإِنْ قَدِمْتَ عَلَى أَهْلِ لَكَ أَوْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَاتِمِّ الصَّلَاةَ

* * * ابن دینار بیان کرتے ہیں: عطاء فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا: کیا میں عرفہ جاتے ہوئے نماز کو قصر کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! میں نے دریافت کیا: مثنیٰ جاتے ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! لیکن تم جدہ یا عسفان یا طائف جاتے ہوئے (نماز کو قصر کرو گے) اگر تم اپنے گھر آ جاتے ہوئے یا اپنے مال مویشیوں میں پہنچ جاتے ہو تو تم نماز کو مکمل ادا کرو گے۔

4298 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَى مِثْنَى؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَالْإِلَى عَرَفَةَ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَالْإِلَى الطَّائِفِ؟ قَالَ: نَعَمْ

* * * یحییٰ بن ابوکثیر بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا، اُس نے کہا: کیا میں مثنیٰ جاتے ہوئے نماز کو قصر کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! اُس نے دریافت کیا: عرفہ جاتے ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! اُس نے دریافت کیا: طائف جاتے ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

4299 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا سَافَرْتَ

يَوْمًا إِلَى الْعِشَاءِ فَاتِمَّ الصَّلَاةَ، فَإِنْ زِدَتْ فَاقْصُرْ

*** مجاہد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کرتے ہیں: جب تم ایک دن یعنی عشاء تک سفر کرو تو تم نماز کو مکمل ادا کرو گے اگر اس سے زیادہ کرو گے تو نماز کو قصر کرو گے۔

4300 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ الْيَوْمِ التَّامِّ

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ أَرْبَعِ كَذَا بُرْدٍ *** سالم بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے ایک مکمل دن کے سفر کے دوران نماز کو قصر کرتے تھے۔ نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما چار برید کی مسافت کے سفر میں نماز کو قصر کرتے تھے۔

4301 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سَافَرَ إِلَى رِيمٍ فَقْصَرَ الصَّلَاةَ، وَهِيَ مَسِيرَةُ ثَلَاثِينَ مِيلًا

قَالَ مَالِكٌ: وَأَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَصَرَ الصَّلَاةَ إِلَى ذَاتِ النَّصْبِ

*** سالم بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ریم کی طرف سفر کیا تو انہوں نے نماز قصر کی یہ تیس میل کے فاصلہ پر تھا۔

امام مالک بیان کرتے ہیں: نافع نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ذات النصب کی طرف جاتے ہوئے نماز قصر کی تھی۔

4302 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ أَدْنَى مَا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ إِلَيْهِ مَا لَهُ يُطَالِعُهُ مِنْ خَيْبَرَ، وَهِيَ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ قَوَاصِدَ، لَمْ يَكُنْ يَقْصُرُ فِيهَا دُونَهُ، " قُلْتُ: وَكَمْ خَيْبَرٌ؟ قَالَ: ثَلَاثُ قَوَاصِدَ، قُلْتُ: فَالطَّائِفُ؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنَ السَّهْلَةِ وَانْفُسٌ قَلِيلًا

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کم از کم اُس سفر کے اندر نماز کو قصر کرتے تھے جس میں وہ خیبر میں موجود اپنی زمینوں کا معائنہ کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تھے اور یہ تین دن کی درمیانی مسافت پر تھا وہ اس سے کم سفر میں نماز قصر نہیں کرتے تھے۔ میں نے دریافت کیا: خیبر کتنے فاصلہ پر تھا؟ انہوں نے کہا: تین قواصد کے فاصلہ پر تھا۔ میں نے دریافت کیا: تو طائف؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں! اُس کا راستہ بھی صاف ہے اور مسافت بھی کم ہے۔

4303 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: سَمِعْتُ سُؤَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ يَقُولُ: إِذَا سَافَرْتَ ثَلَاثًا فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ

*** سوید بن غفله فرماتے ہیں: جب تم تین دن کا سفر کرو گے تو نماز قصر کرو گے۔

4304 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ:

فِي كَمْ تَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟ فَقَالَا: فِي مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ

*** امام عبدالرزاق نے امام ابوحنیفہ کے حوالے سے حمد کا یہ بیان نقل کیا ہے: میں نے ابراہیم نخعی اور سعید بن جبیر سے دریافت کیا: کتنے سفر میں نماز کو قصر کیا جائے گا؟ تو ان دونوں نے جواب دیا: تین دن کی مسافت کے۔

4305 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا كَانَ السَّفَرُ مَسِيرَةَ لَيْلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ، وَبِهِ يَأْخُذُ قَتَادَةُ

*** حسن بصری فرماتے ہیں: جب سفر دوراتوں کی مسافت کا ہو تو یہ خاصا سفر ہوتا ہے تم اس میں نماز کو قصر کرو گے۔
قتادہ بھی اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

4306 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قُلْتُ لَهُ: فِي كَمْ تَقْصُرُ الصَّلَاةَ؟ فَذَكَرَ حَدِيثَ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ كَتَبْنَاهُ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ قَالَ: وَقَوْلُنَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ مَسِيرَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، قُلْتُ: مِنْ أَجْلِ مَا أَخَذْتَ بِهِ؟ قَالَ: قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُسَافِرُ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

*** امام عبدالرزاق سفیان ثوری کے بارے میں نقل کرتے ہیں: میں نے ان سے دریافت کیا: کتنے سفر میں نماز کو قصر کیا جائے گا؟ تو انہوں نے منصور کی مجاہد کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کردہ حدیث کو ذکر کر دیا جسے ہم پہلے نوٹ کر چکے ہیں۔

وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یونس نے حسن بصری کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے وہ یہ فرماتے ہیں: دو دن کی مسافت میں بھی نماز کو قصر کیا جاسکتا ہے۔

وہ یہ کہتے ہیں: ہم نے جو قول اختیار کیا ہے وہ تین دن کی مسافت کا ہے۔ میں نے دریافت کیا: آپ نے کس بنیاد پر حاصل کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے حاصل کیا ہے:
"کوئی بھی عورت اپنے کسی محرم کے بغیر تین دن سے زیادہ کا سفر نہ کرے۔"

4307 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: قَالَ لِي سُؤَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ: إِذَا سَافَرْتَ ثَلَاثًا فَاقْصُرِ الصَّلَاةَ

*** ابراہیم بن عبدالاعلیٰ بیان کرتے ہیں: سوید بن غفلہ نے مجھ سے کہا: جب تم تین دن کا سفر کرو تو نماز کو قصر کر لو۔

4308 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ حُدَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ آتِيَ أَهْلِي بِالْكُوفَةِ، فَأَذِنَ، وَشَرَطَ عَلَيَّ أَنْ لَا أُفِطِرَ وَلَا أُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى أَرْجِعَ إِلَيْهِ

*** ابراہیم تمیمی نے اپنے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے: میں مدائن میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا میں نے ان سے

اجازت لی کہ میں کوفہ میں اپنے گھر والوں کے پاس آ جاؤں تو انہوں نے مجھے اجازت دی اور ساتھ مجھ پر یہ شرط عائد کی کہ میں واپس آنے تک نہ تو کوئی روزہ ترک کروں گا اور نہ ہی دو رکعات ادا کروں گا (بلکہ پوری نماز ادا کروں گا)۔

4309 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يَقْصُرُ الصَّلَاةَ فِي مَسِيرَةِ يَوْمَيْنِ

*** امام عبد الرزاق زہری کے بارے میں نقل کرتے ہیں: وہ فرماتے ہیں: دو دن کی مسافت میں بھی نماز کو قصر کیا جائے

گا۔

4310 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ . قَالَ:

قُلْتُ: أَخْرَجَ إِلَى الْمَدَائِنِ أَوْ إِلَى وَاسِطٍ قَالَ: لَا تُقْصِرُ الصَّلَاةَ

*** عامر بن شقیق بیان کرتے ہیں: میں نے شقیق بن سلمہ سے دریافت کیا، میں نے کہا: میں مدائن کی طرف جاتا ہوں یا

واسط جاتا ہوں۔ تو انہوں نے جواب دیا: تم نماز کو قصر نہ کرو۔

4311 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَيْسَى قَالَ: رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَسِيرُ إِلَى وَاسِطٍ

فَيُقْصِرُ الصَّلَاةَ وَيُفْطِرُ

*** عیسیٰ بیان کرتے ہیں: میں نے عامر شعبی کو دیکھا کہ وہ واسط گئے تو انہوں نے اس دوران نماز قصر کی اور روزہ

ترک کر دیا۔

4312 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَنْ سَلَكَ الشَّيَا حَاجًا أَوْ مُعْتَمِرًا،

وَمَنْ سَلَكَ السَّهْلَةَ مِنْ طَرِيقِ الطَّائِفِ قَصَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: جو شخص حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہوئے ٹیلوں سے گزرتا

ہے اور جو شخص طائف کے راستے میں سیدھے راستے پر چلتا ہے تو کیا وہ بھی قصر کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

4313 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ فَبِتَّ فِي غَيْرِ

أَهْلِكَ فَأَقْصِرْ، فَإِنْ أَتَيْتَ إِلَى أَهْلِكَ فَأَتِمِّمْ

*** عکرمہ بیان کرتے ہیں: جب تم سفر پر روانہ ہو اور اپنے گھر کے علاوہ رات بسر کرو تو تم نماز قصر کرو گے، لیکن اگر تم

گھر واپس آ سکتے ہو تو تم نماز کو مکمل ادا کرو گے۔

4314 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تُقْصِرُ الصَّلَاةَ إِلَى

الْمَدَائِنِ، وَهِيَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ فَرَسًا مِنَ الْكُوفَةِ

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: مدائن تک جاتے ہوئے نماز کو قصر کیا جائے گا یہ کوفہ سے ستائیس فرسخ کے فاصلہ پر موجود

ہے۔

بَابُ: الْمُسَافِرِ مَتَى يَقْصُرُ إِذَا خَرَجَ مُسَافِرًا؟

باب: مسافر شخص جب سفر پر روانہ ہوگا تو وہ نماز قصر کرنا کب سے شروع کرے گا؟

4315 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ خَرَجَ مُسَافِرًا

*** حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم ﷺ کی اقتداء میں مدینہ منورہ میں (ظہر کی نماز میں) چار رکعات ادا کیں اور میں نے ذوالحلیفہ میں آپ کی اقتداء میں عصر کی نماز میں دو رکعات ادا کیں نبی اکرم ﷺ اس وقت سفر پر روانہ ہوئے تھے۔

4316 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

*** حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی اقتداء میں مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز میں چار رکعات ادا کیں پھر نبی اکرم ﷺ روانہ ہوئے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کی اقتداء میں ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز میں دو رکعات ادا کیں۔ نبی اکرم ﷺ مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔

4317 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، مِثْلَهُ

4315- صحیح البخاری - کتاب الجبعة ابواب تقصير الصلاة - باب يقصر إذا خرج من موضعه حدیث: 1053 صحیح مسلم - کتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها - حدیث: 1149 متخرج ابی عوانة - باب فی الصلاة بین الاذان والإقامة فی صلاة المغرب وغیره بیان التوقيت فی قصر الصلاة إذا خرج المسافر من بلده - حدیث: 1907 صحیح ابن حبان - باب الإمامة والجماعة باب الحدث فی الصلاة - ذکر الإباحة للناوی السفر الذی یكون منتهی قصده ثانیة واربعین میلًا حدیث: 2788 سنن الدارمی - کتاب الصلاة باب قصر الصلاة فی السفر - حدیث: 1523 سنن ابی داود - کتاب الصلاة تفریع صلاة السفر - باب متى يقصر المسافر؟ حدیث: 1029 السنن للنسائی - کتاب الصلاة باب عدد صلاة الظهر فی الحضر - حدیث: 468 مصنف ابن ابی شیبة - کتاب صلاة التطوع والامعة وابواب متفرقة فی مسیرة کم يقصر الصلاة - حدیث: 7995 السنن الکبریٰ للنسائی - کتاب الصلاة عدد صلاة عصر فی السفر - حدیث: 346 شرح معانی الآثار للطحاوی - باب صلاة المسافر حدیث: 1550 السنن الکبریٰ للبيهقي - کتاب صلاة جماع ابواب صلاة المسافر والجمع فی السفر - باب لا يقصر الذی یرید السفر حتی یمخرج من بیوت حدیث: 5065 مسند احمد بن حنبل مسند انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ - حدیث: 11867 مسند الشافعی - باب ومن کتاب استقبال القبلة فی الصلاة حدیث: 88 مسند الحبیذی - احادیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث: 1138 مسند ابی یعلیٰ الموصلی - ابو قلابة عبد اللہ بن زید الجریمی حدیث: 2745 المعجم الاوسط للطبرانی - باب العین باب الیم من اسمه - محمّد - حدیث: 6488

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

4318 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن هشيم قال: أخبرني أبو هارون، عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سار فرسخا نزل يقصر الصلاة

*** حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز میں چار رکعات ادا کیں اور ذوالحلیفہ میں عصر کی نماز میں دو رکعات ادا کیں۔

4319 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن داود، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي، أن عليا لما خرج إلى البصرة رأى حصا فقال: لولا هذا الحصى لصلينا ركعتين. فقلت: ما حصا قال: بيت من قصب

*** ابو حرب بن ابواسود دلی بیان کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بصرہ کی طرف جاتے تھے اور انہیں جھونپڑیاں (یعنی شہری آبادی کے آثار) نظر آتے تھے تو وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر یہ آثار نہ ہوتے تو ہم دو رکعات ادا کر لیتے۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے استاد سے دریافت کیا: لفظ حصى کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے جواب دیا: نرکل (کانے) سے بنا ہوا گھر (یعنی جھونپڑی)۔

4320 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني ابن المنكدر، عن انس بن مالك، أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعاً، وصلت معه بذي الحليفة العصر ركعتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد مكة

*** حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز میں چار رکعات ادا کیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو انہوں نے ذوالحلیفہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں عصر کی نماز میں دو رکعت ادا کیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔

4321 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن وقاء بن اياس الأسدي قال: حدثني علي بن ربيعة الأسدي قال: خرجنا مع علي ونحن ننظر إلى الكوفة، فصلى ركعتين ثم رجع فصلى ركعتين، وهو ينظر إلى القرية، فقلنا له: ألا تصلي أربعاً؟ قال: حتى ندخلها

*** علی بن ربیعہ اسدی بیان کرتے ہیں: ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ روانہ ہوئے، ہمیں کوفہ کی آبادی کے نشان نظر آ رہے تھے لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دو رکعات ادا کیں جب وہ واپس تشریف لائے تو انہوں نے پھر دو رکعات ادا کیں، حالانکہ وہ بستی کو دیکھ رہے تھے۔ ہم نے ان سے دریافت کیا: کیا آپ چار رکعات ادا نہیں کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا: جب تک ہم (آبادی کے اندر) داخل نہیں ہوتے (اُس وقت تک قصر نماز ادا کریں گے)۔

4322 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن أبي اسحاق، عن عبد الرحمن بن زيد الفايشي قال:

خَرَجْنَا مَعَ عَلِيِّ إِلَى صِفِينٍ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ بَيْنَ الْقَنْطَرَةِ وَالْجِسْرِ

* * * عبد الرحمن بن زید فاشی بیان کرتے ہیں: ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ صفین کی طرف روانہ ہوئے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمارت (یعنی آبادی) اور پل کے درمیان دو رکعات ادا کیں۔

4323 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ حِينَ يَخْرُجُ مِنْ بُيُوتِ الْمَدِينَةِ، وَيَقْصُرُ إِذَا رَجَعَ حَتَّى يَدْخُلَ بُيُوتَهَا

* * * نافع نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ جب وہ مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر نکل جاتے تھے تو نماز کو قصر کرتے تھے وہ واپس آتے ہوئے بھی نماز کو قصر کرتے تھے جب تک وہ آبادی کے اندر داخل نہیں ہوتے تھے۔

4324 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا خَرَجَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا قَصَرَ الصَّلَاةَ بِدَى الْحُلَيْفَةِ

* * * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حج یا عمرہ کے لیے روانہ ہوتے تھے تو ذوالحلیفہ سے نماز کو قصر کرنا شروع کرتے تھے۔

4325 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثَوْبَانَ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي، وَمَعَ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، وَعَمْرٍو بْنِ مَيْمُونٍ فَقَصَرُوا حِينَ خَرَجُوا مِنَ الْبُيُوتِ

* * * ثوبان بن ابوفاختہ بیان کرتے ہیں: میں اپنے والد اس کے علاوہ علقمہ اسود عمرو بن ميمون کے ہمراہ سفر پر روانہ ہوا، تو یہ حضرات جیسے ہی آبادی سے باہر نکلے انہوں نے نماز کو قصر کرنا شروع کر دی۔

4326 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يَقْصُرُ إِذَا خَلَفَ الْبُيُوتِ

* * * امام عبد الرزاق نے امام ابوحنیفہ کے حوالے سے حماد کے حوالے سے ابراہیم نخعی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ جب وہ آبادی سے باہر نکل جاتے تھے تو نماز کو قصر کرتے تھے۔

4327 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا أَرَدْتَ السَّفَرَ فَجَاوَزْتَ الْجِسْرَ أَوْ الْخَنْدَقَ فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ

* * * قتادہ بیان کرتے ہیں: جب تم سفر کا ارادہ کرو اور تم (دریا پر موجود) پل یا (خشکی پر موجود) خندق پار کر لو تو تم دو رکعات ادا کرو گے۔

4328 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ يَقْصُرُ بِالْحَجَفِ، وَكَانَ الْأَسْوَدُ يَقْصُرُ بِالْقَادِسِيَّةِ إِذَا أَرَادُوا مَكَّةَ

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: علقمہ نجف میں نماز قصر ادا کرتے تھے جبکہ اسود قادیسیہ میں نماز کو قصر کرتے تھے جب وہ مکہ کے لیے روانہ ہوتے تھے۔

4329 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا فَلَمْ يَخْرُجْ مِنْ بُيُوتِ الْقَرْيَةِ حَتَّى حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَإِنْ شَاءَ قَصَرَ، وَإِنْ شَاءَ أَوْفَى، وَمَا سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ
*** ابن جریج نے عطاء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب کوئی شخص حج کے لیے روانہ ہو اور وہ ابھی اپنی آبادی کے گھروں سے باہر نہ نکلا ہو یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو جائے تو اب اگر وہ چاہے تو قصر نماز ادا کرے اور اگر چاہے تو مکمل نماز ادا کرے میں نے اس بارے میں کوئی روایت نہیں سنی ہے۔

4330 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ ذَاهِبًا لِرُجُوعِهِ مِنَ الْقَرْيَةِ حَتَّى حَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَقْصُرْهَا، وَكَذَلِكَ إِذَا دَخَلَ الْقَرْيَةَ مُرَاجِعًا مِنْ سَفَرِهِ ثُمَّ حَانَتِ الصَّلَاةُ فَلْيَقْصُرْهَا حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ
*** سلیمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں: جب کوئی شخص سفر کے لیے اپنے گھر سے نکل کھڑا ہو اور ابھی بستی سے باہر نہ گیا ہو یہاں تک کہ نماز کا وقت ہو جائے تو وہ اس نماز کو قصر ادا کرے گا اسی طرح جب کوئی شخص سفر سے واپسی پر اپنی بستی میں داخل ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو وہ اپنے گھر داخل ہونے سے پہلے تک نماز کو قصر ادا کرے گا۔

4331 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِ
*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب اپنے گھر سے نکلتے تھے تو گھر تک واپس آنے تک نماز کو قصر ادا کرتے تھے۔

بَابُ الرَّجُلِ يَخْرُجُ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ

باب: جو شخص نماز کے وقت میں (سفر پر جانے کے لیے) نکلے

4332 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا خَرَجَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَمَا لَوْ دَخَلَ الْقَرْيَةَ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ صَلَّى أَرْبَعًا
*** سفیان ثوری فرماتے ہیں: جب کوئی شخص نماز کے وقت میں روانہ ہو تو اسے دو رکعات ادا کرنی چاہئیں، جس طرح اگر وہ نماز کے وقت کے دوران اپنی بستی میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ چار رکعات ادا کرے گا۔

4333 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " إِذَا أَقَمْتُ بَارِضٍ عَشْرًا فَأَتِمُّ، فَإِنْ قُلْتُ: أَخْرَجَ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا، فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا أَقَمْتُ شَهْرًا فَأُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

* * امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اپنے والد (امام محمد باقر رضی اللہ عنہ) کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ (یا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ) کا یہ بیان نقل کیا ہے: اگر میں کسی جگہ پر دس دن کے لیے مقیم ہونے کی نیت کر لیتا ہوں تو میں نماز مکمل ادا کروں گا، لیکن اگر میرا یہ حال ہو کہ میں یہ کہوں کہ میں آج چلا جاؤں گا یا کل چلا جاؤں گا تو میں دو رکعات ہی ادا کروں گا، اس طرح میں ایک مہینہ تک بھی ٹھہرا رہوں تو دو رکعات ہی ادا کرتا رہوں گا۔

4334 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلُهُ

* * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اُن کے والد (امام محمد باقر رضی اللہ عنہ) کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ (یا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ) سے منقول ہے۔

4335 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي، عَنْ مَعْمَرٍ - وَهُوَ الصَّوَابُ -

قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكَ عَشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

* * حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں بیس دن مقیم رہے، آپ اس دوران قصر نماز ادا کرتے رہے۔

4336 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ

يَقُولُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ حَتَّى جَاءَ مَكَّةَ فَأَقَامَ بِهَا عَشْرًا يَقْصُرُ حَتَّى رَجَعْنَا

* * حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قصر نماز ادا کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ مکہ تشریف لے آئے، پھر آپ وہاں دس دن مقیم رہے، ہمارے واپس آنے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قصر نماز ادا کرتے رہے۔

4337 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَقَامَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ سَبْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

* * حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں سترہ دن مقیم رہے، اس دوران آپ قصر نماز ادا کرتے رہے۔

4338 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ بِحَيْبَرَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً يَقْصُرُ الصَّلَاةَ

* * حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں چالیس دن مقیم رہے، آپ اس دوران قصر نماز ادا کرتے رہے۔

4339 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَقَامَ بِأَذْرَبِيحَانَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: إِذَا أَرْمَعْتَ إِقَامَةً فَاتِمَّ

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آذربائیجان میں چھ ماہ تک مقیم رہے وہ اس دوران قصر نماز ادا کرتے رہے۔ وہ یہ فرماتے تھے: جب میں رہنے کا پختہ ارادہ کر لوں گا تو نماز مکمل ادا کروں گا۔

4340 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: لَوْ قَدِمْتُ أَرْضًا لَصَلَّيْتُ رَكَعَتَيْنِ مَا لَمْ أَجْمِعْ مُكْثًا، وَإِنْ أَقَمْتُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً.

*** سالم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے: اگر میں کسی علاقہ میں آتا ہوں تو میں دو رکعت ادا کروں جب تک میں وہاں ٹھہرنے کا ارادہ نہیں کر لیتا، خواہ میں وہاں بارہ دن تک مقیم رہوں۔

4341 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں منقول ہے۔

4342 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا أَجْمَعْتَ أَنْ تَقِيمَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً فَاتِمَّ الصَّلَاةَ

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ فرماتے ہیں: جب تم بارہ دن تک کہیں مقیم رہنے کا ارادہ کر لو تو تم مکمل نماز ادا کرو گے۔

4343 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرِّقَانَ، سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ فَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً سَرَّحَ ظَهْرَهُ فَاتِمَّ الصَّلَاةَ

*** مجاہد بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب مکہ تشریف لے جاتے تھے اور وہاں پندرہ دن قیام کا ارادہ کرتے تھے تو وہ اپنے جانور کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور نماز مکمل ادا کرتے تھے۔

4344 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَتَبَ عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ بِأَرْضِ فَارِسَ: إِنَّا مُقِيمُونَ إِلَى الْهِلَالِ، فَكَتَبَ: أَنْ أُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ،

*** ابن سیرین بیان کرتے ہیں: عبید اللہ بن عمر نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو خط لکھا، عبید اللہ اس وقت فارس کی سرزمین پر موجود تھے انہوں نے لکھا کہ ہم پہلی کے چاند تک یہاں مقیم رہیں گے انہوں نے یہ بھی لکھا کہ میں دو رکعت ادا کرتا ہوں۔

4345 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، مِثْلَهُ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ نافع سے منقول ہے۔

4346 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إِذَا أَقَمْتَ بِأَرْضِ أَرْبَعًا

فصل اربعاً.

* * سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں: جب تم کسی جگہ پر چار دن تک مقیم رہو تو رکعات بھی چار ادا کرو۔
4347 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن مالك، عن عطاء بن عبد الله الخراساني، عن ابن المسيب،

مثله

* * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ سعید بن مسیب سے منقول ہے۔

4348 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوري قال: أخبرني داود بن أبي هند، عن ابن المسيب قال:

إذا أزمعت بقيام خمس عشرة ليلة فأتتم

* * سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں: جب تم پندرہ دن تک مقیم رہنے کا ارادہ کرو تو پھر تم نماز کو مکمل ادا کرو۔

4349 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن الحارث قال: قدمنا المدينة

فأرسلت إلى ابن المسيب: إنا مقيمون أياماً بالمدينة أفقصر؟ قال: نعم

* * محمد بن حارث بیان کرتے ہیں: ہم لوگ مدینہ منورہ آئے میں نے سعید بن مسیب کو پیغام بھیجا کہ ہم کچھ دن تک

مدینہ منورہ میں ٹھہریں گے تو کیا ہم قصر نماز ادا کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

4350 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن المسور،

عن سعد قال: كنا معه بالشام شهرين، فكنا نتم وكان يقصر، فقلنا له، فقال: إنا نحن أعلم

* * عبد الرحمن بن مسور نے حضرت سعد بن مسعود کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ ہم ان کے ساتھ شام میں دو ماہ تک

ٹھہرے رہے تو ہم مکمل نماز ادا کرتے رہے اور وہ قصر نماز ادا کرتے رہے ہم نے ان سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں

نے جواب دیا: ہم لوگوں کو زیادہ پتا ہے۔

4351 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: حدثني زكريا بن عمرو، أن سعد بن أبي وقاص وقد

إلى معاوية فأقام عنده شهراً يقصره، أو شهراً رمضان فافطره

* * زکریا بن عمر بیان کرتے ہیں: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وفد کے ہمراہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو وہ

ان کے ہاں ایک ماہ تک ٹھہرے رہے اور اس دوران قصر نماز ادا کرتے رہے (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ بھی ہیں: وہ رمضان

کے مہینہ میں گئے تھے اور انہوں نے روزے نہیں رکھے۔

4352 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال:

كنا معه في بعض بلاد فارس سنتين، وكان لا يجمع، ولا يزيد على ركعتين.

* * حضرت عبد الرحمن بن سمرة رضی اللہ عنہ کے بارے میں حسن نے یہ بات نقل کی ہے: ہم ان کے ساتھ فارس کے کسی

ملاقہ میں دو سال تک مقیم رہے تو وہ جمع نہیں کرتے تھے اور دو رکعت سے زیادہ ادا نہیں کرتے تھے۔

4353 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، مِثْلَهُ
* * * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے۔

4354 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَقَامَ
بِالشَّامِ شَهْرَيْنِ مَعَ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ "
* * * جعفر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ شام میں عبدالملک بن مروان کے ہمراہ دو ماہ تک
مقیم رہے اور اس دوران وہ دو دو رکعت ادا کرتے رہے۔

4355 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ. أَنَّهُ
أَقَامَ بِخَوَارِزْمَ سِتِّينَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ
* * * ابراہیم نخعی نے علقمہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: وہ دو سال تک خوارزم میں مقیم رہے تھے اور اس دوران دو
رکعت ادا کرتے رہے تھے۔

4356 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ قَالَ: كُنَّا مَعَ مَسْرُوقٍ بِالسَّلْسِلَةِ
سِنِينَ - وَهُوَ عَامِلٌ عَلَيْهَا، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْصَرَفَ، وَيَلْتَمِسُ بِذَلِكَ السَّنَةَ
* * * شقیق بیان کرتے ہیں: ہم لوگ مسروق کے ساتھ "سلسلہ" کے مقام پر دو سال تک مقیم رہے وہ وہاں کے گورنر تھے
تو وہ واپس آنے تک ہمیں دو دو رکعت پڑھاتے رہے وہ اس کے ذریعہ سنت پر عمل پیرا ہونا چاہتے تھے۔

4357 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ مَسْرُوقٍ إِلَى
السَّلْسِلَةِ فَقَصَرَ، وَأَقَامَ سِنِينَ يَقْصُرُ " قَالَ: قُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا عَائِشَةَ، مَا يَحْمِلُكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: التَّمَسُّ السَّنَةَ،
وَقَصَرَ حَتَّى رَجَعَ

* * * ابووائل بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ وہ مسروق کے ساتھ "سلسلہ" گئے تو انہوں نے قصر نماز ادا کی وہ وہاں دو سال
تک مقیم رہے اور اس دوران قصر نماز ادا کرتے رہے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے ان سے دریافت کیا: اے ابو عائشہ! آپ نے ایسا
کیوں کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: سنت پر عمل کرنے کے لیے تو وہ واپس آنے تک مسلسل قصر نمازیں ادا کرتے رہے۔

4358 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: " أَقْمْنَا مَعَ وَالٍ - قَالَ: أَحْسَبُهُ
بِسَجِسْتَانَ - سَنَتَيْنِ، وَمَعَنَا رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى انْصَرَفَ "، ثُمَّ
قَالَ: كَذَلِكَ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَفْعَلُ

* * * ابواسحاق بیان کرتے ہیں: ہم ایک والی کے ساتھ سجستان میں دو سال تک مقیم رہے ہمارے ساتھ حضرت عبداللہ
بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد بھی تھے تو وہ واپس آنے تک ہمیں دو دو رکعت پڑھاتے رہے پھر انہوں نے بتایا: حضرت عبداللہ بن
مسعود رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

4359 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَاسِينَ، عَنْ أَبِي اسْحَاقَ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنِّي أَخْرَجُ مُسَافِرًا فَأَقِيمُ سِنِينَ مُكْعَبًا عَدُوًّا فَأَقْصُرُ؟ قَالَ: لَيْسَ بِقَصْرِ وَلَكِنْ تَمَامٌ، فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ

* * * زائدہ بن عمیر بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا: میں مسافر ہونے کے طور پر روانہ ہوتا ہوں اور میں چند برس تک مقیم رہتا ہوں تو کیا میں قصر نماز ادا کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا: یہ قصر نہیں ہوتی، بلکہ پوری ہوتی ہے تم دو دو رکعت ادا کرو گے۔

4360 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَإِنْ أَقَامَ سَنَةً * * * حسن بصری فرماتے ہیں: آدمی دو رکعت ادا کرے گا اگرچہ وہ ایک سال تک مقیم رہے۔

4361 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ زَمَانَ الْحَجَّ قَالَ: قُلْتُ: آتَى إِلَى الْكُوفَةِ وَفِيهَا جَدَّتِي وَأَهْلِي؟ قَالَ: فَقَالَ: أَيُّ الْأَمْصَارِ أَفْضَلُ، أَوْ قَالَ: أَعْظَمُ؟ ثُمَّ أَجَابَنِي، فَقَالَ: أَلَيْسَ الْمَدِينَةُ؟ فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنِّي لَأَتِي الْبَيْتَ الَّذِي وُلِدْتُ فِيهِ - يَعْنِي مَكَّةَ - فَمَا أَزِيدُ عَلَى رَكَعَتَيْنِ. قَالَ الشَّعْبِيُّ: فَكُنْتُ أَقِيمُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ أُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ، أَوْ قَالَ: مَا أَزِيدُ عَلَى رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ.

* * * اسماء بن عبید بیان کرتے ہیں: حج کے زمانہ میں میں نے امام شعبی سے دریافت کیا میں نے کہا: میں کوفہ آتا ہوں وہاں میری دادی اور میری بیوی موجود ہیں۔ انہوں نے فرمایا: کون سا شہر سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) کون سا شہر سب سے زیادہ عظمت والا ہے؟ پھر انہوں نے مجھے جواب دیا اور دریافت کیا: کیا مدینہ منورہ ایسا نہیں ہے؟ میں نے جواب دیا: جی ہاں! تو انہوں نے فرمایا: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اس بارے میں دریافت کیا تھا تو انہوں نے فرمایا: میں اس گھر میں آتا ہوں جہاں میری پیدائش ہوئی تھی۔ ان کی مراد یہ تھی کہ وہ گھر جو مکہ میں ہے تو میں وہاں دو رکعت سے زیادہ ادا نہیں کرتا۔

امام شعبی فرماتے ہیں: اگر میں ایک یا دو سال تک بھی مقیم رہوں تو بھی میں دو رکعت ہی ادا کروں گا (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) میں دو رکعت سے زیادہ ادا نہیں کروں گا۔

4362 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَسْمَاءَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلُهُ * * * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

4363 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَيْسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: مَكَّتْ عِنْدَنَا عَامِرُ الشَّعْبِيُّ بِالنَّهْرَيْنِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَا يَزِيدُ عَلَى رَكَعَتَيْنِ

* * * عیسیٰ بن ابو عزہ بیان کرتے ہیں: عامر شعبی ”نہرین“ کے مقام پر ہمارے ہاں چار ماہ ٹھہرے رہے، لیکن انہوں نے

نے دو رکعت سے زیادہ ادا نہیں کیں۔

4364 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَزِيدَ الرَّشَكِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَجْلَرٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ، فَقَالَ أَيضًا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ؟ قَالَ: أَنْ تَتَّخِذَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُنْدَادًا، فَقَالَ أَيضًا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ؟ فَقَالَ: أُحْرِجُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مُسْلِمًا لَمَّا خَرَجْتَ عَنِّي، فَخَرَجَ الرَّجُلُ، وَغَضِبَ ابْنُ عُمَرَ غَضَبًا شَدِيدًا قَالَ: فَقُمْتُ لَمَّا رَأَيْتُ مِنْ شِدَّةِ غَضَبِهِ لِأَخْرَجَ، فَضَرَبَ بِيَدِي عَلَى رُكْبَتِي فَقَالَ: اجْلِسْ؛ فَإِنِّي أَرَجُو أَنْ لَا تَكُونَ مِنْهُمْ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، آتَى الْمَدِينَةَ طَالِبَ حَاجَةٍ، فَأَقِيمُ بِهَا السَّبْعَةَ الْأَشْهُرَ وَالْثَمَانِيَةَ الْأَشْهُرَ، كَيْفَ أَصَلِّي؟ قَالَ: صَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ

* * ابوجلز بیان کرتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا اسی دوران ایک شخص ان کے پاس آیا اور بولا: اے ابو عبدالرحمن! اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: یہ کہ تم کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود قرار دو۔ اس شخص نے پھر یہ دریافت کیا: اے ابو عبدالرحمن! کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینے سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود بناؤ۔ اس شخص نے پھر یہی دریافت کیا: اے ابو عبدالرحمن! کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینے سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: میں تمہیں اس بات کا پابند کر رہا ہوں کہ تم اگر مسلمان ہو تو میرے پاس سے نہ جانا۔ لیکن وہ چلا گیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما شدید غصہ میں آ گئے۔

راوی کہتے ہیں: جب میں نے ان کے غصہ کی شدت دیکھی تو میں بھی جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تو انہوں نے اپنا ہاتھ میرے گھٹنے پر مارا اور بولے: تم بیٹھ جاؤ! کیونکہ مجھے یہ امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو۔ میں نے کہا: اے ابو عبدالرحمن! میں کسی ذاتی کام کے سلسلہ میں مدینہ منورہ آتا ہوں اور وہاں سات یا آٹھ ماہ تک مقیم رہتا ہوں تو میں کیسے نماز ادا کروں گا؟ انہوں نے جواب دیا: تم دو دو رکعت ادا کرو گے۔

4365 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَيْفَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَصْنَعُ؟ قَالَ: " إِذَا كَانَ صَدَرَ الظُّهْرِ، وَقَالَ: نَحْنُ مَا كُنُونُ، أَتَمَّ الصَّلَاةَ، وَقَالَ: وَإِذَا قَالَ الْيَوْمَ وَغَدًا، فَصَرَ الصَّلَاةَ، وَإِنْ مَكَتَ عَشْرِينَ لَيْلَةً "

* * ابن ابوشیح بیان کرتے ہیں: میں نے سالم بن عبداللہ سے سوال کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما (اس طرح کی صورت حال میں) کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: جب وہ باقاعدہ طور پر مقیم رہنے کا ارادہ کر لیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہم یہاں ٹھہریں گے، تو مکمل نماز ادا کرتے تھے، لیکن جب ان کا یہ ارادہ ہوتا تھا کہ آج چلے جائیں گے یا کل چلے جائیں گے، تو وہ نماز کو قصر کرتے تھے خواہ وہ بیس دن تک وہاں مقیم رہیں۔

4366 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " أَمَّا مَا كُنْتُ أَتَجَهَّزُ بِلَدِّ أَقُولُ

أَخْرَجَ الْآنَ الْآنَ، فَإِنِّي أَقْصِرُ الصَّلَاةَ، فَإِن أَرَمَعْتُ إِقَامَتَهُ فَإِنِّي أَوْفَى"، قُلْتُ: إِنِّي مُقِيمٌ عَشْرًا؟ قَالَ: فَأَوْفِ
 * * * عطاء فرماتے ہیں: اگر میں کسی شہر میں باقاعدہ قیام نہیں کرتا اور یہ کہتا ہوں کہ شاید آج چلا جاؤں گا شاید ابھی چلا
 جاؤں گا تو میں نماز کو قصر کروں گا، لیکن اگر میں مقیم ہونے کا پختہ ارادہ کر لیتا ہوں تو پھر میں مکمل نماز ادا کروں گا۔

راوی کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا: اگر میں دس دن مقیم رہتا ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا: تم مکمل نماز ادا کرو گے۔

4367 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إِذَا وَضَعْتَ رَحْلَكَ

بَارِضٍ فَإِنَّ الصَّلَاةَ

* * * سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں: جب تم اپنا پالان زمین پر رکھ دو تو تم مکمل نماز ادا کرو۔

4368 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قِيلَ لِعَطَاءٍ: إِنْسَانٌ يَسِيرُ فِي الرَّمْلِ قَرِيبًا مِنَ

الشَّهْرِ يَنْتَجِعُ كُلَّ يَوْمٍ، أَيَقْصُرُ؟ قَالَ: لَا، قَوْمٌ يَسِيرُونَ فِي أَمْوَالِهِمْ يُقِيمُونَ بَيْنَ ذَلِكَ

* * * ابن جریر بیان کرتے ہیں: عطاء سے دریافت کیا گیا: ایک شخص (جانوروں کو چارہ کھلانے کے لیے) گھاس پھوس

کی تلاش میں تقریباً ایک ماہ تک ریت میں سفر کرتا رہتا ہے تو کیا وہ نماز کو قصر کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! جو لوگ
 اپنے اموال (یعنی مال مویشیوں) کے سلسلہ میں چلتے ہیں وہ اس دوران مقیم شمار ہوتے ہیں۔

بَابُ مُسَافِرٍ أَمْ مُقِيمٍ

باب: مسافر شخص کا مقیم لوگوں کی امامت کرنا

4369 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بِأَهْلِ

مَكَّةَ الظُّهْرَ، فَسَلَّمَ فِي رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: ائْتُوا صَلَاتِكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ

* * * سالم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ بیان نقل کیا ہے: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل مکہ کو ظہر کی نماز پڑھائی تو دو

رکعت ادا کرنے کے بعد سلام پھیر دیا اور پھر انہوں نے فرمایا: اے اہل مکہ! تم لوگ اپنی نماز کو مکمل کر لو، کیونکہ ہم تو مسافر لوگ
 ہیں۔

4370 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بِأَهْلِ

مَكَّةَ الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: ائْتُوا صَلَاتِكُمْ يَا أَهْلَ مَكَّةَ، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ

* * * حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے (اپنے عہد خلافت میں) اہل مکہ کو ظہر یا شاید عصر

کی نماز پڑھائی تو دو رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، پھر انہوں نے فرمایا: اے اہل مکہ! تم لوگ اپنی نماز مکمل کر لو، کیونکہ ہم مسافر لوگ
 ہیں۔

4371 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بِأَهْلِ مَكَّةَ

رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَهْلَ مَكَّةَ، إِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ، فَاتِمُّوا الصَّلَاةَ

*** زید بن اسلم اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو اہل مکہ کو دو رکعت پڑھائیں اور پھر فرمایا: اے اہل مکہ! ہم مسافر لوگ ہیں، تم لوگ نماز مکمل کر لو۔

4372 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَعُودُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى بِهِمْ ابْنُ عُمَرَ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ التَفَّتَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: اتِمُّوا

*** زہری بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اہل مکہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے پاس تشریف لے گئے وہ اس کی عیادت کرنے کے لیے گئے تھے اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان لوگوں کو دو رکعت پڑھائیں، پھر ان کی طرف رخ کر کے فرمایا: تم لوگ مکمل کر لو۔

4373 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَجَدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَعُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ صَفْوَانَ، فَصَلَّى لَنَا رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقُمْنَا فَاتَمَمْنَا

*** صفوان بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جناب عبداللہ بن صفوان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں دو رکعت پڑھائیں، پھر انہوں نے نماز ختم کر دی، پھر ہم کھڑے ہوئے اور ہم نے باقی رہ جانے والی نماز مکمل کی۔

4374 - اقوال تابعین: عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُسَافِرٍ صَلَّى هَاتَيْنِ فَأَحَدَتْ، فَقَدَّمَ مُسَافِرًا فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا قَالَ: يُعِيدُونَ

*** سفیان ثوری ایسے مسافر شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو ان دو رکعت کو ادا کرنے کے بعد حدیث کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر کسی دوسرے مسافر کو آگے کر دیتا ہے جو ان لوگوں کو چار رکعت پڑھا دیتا ہے تو سفیان ثوری فرماتے ہیں: وہ لوگ اپنی نماز کو ذرا نہیں گے۔

4375 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُسَافِرٍ أَمْ قَوْمًا مُقِيمِينَ فَصَلَّى بِهِمْ أَرْبَعًا قَالَ: لَا يُجْزِيهِمْ يَسْتَقْبِلُونَ، وَقَدْ قَصَرَ هُوَ صَلَاتَهُ

*** سفیان ثوری ایسے مسافر شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو مقیم لوگوں کی امامت کرتے ہوئے انہیں چار رکعت پڑھا دیتا ہے تو سفیان ثوری فرماتے ہیں: یہ ان لوگوں کے لیے جائز نہیں ہوگا، وہ لوگ نئے سرے سے نماز پڑھیں گے، کیونکہ وہ مسافر شخص اپنی نماز کو قصر کے طور پر ادا کرتا ہے۔

4376 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي مُسَافِرٍ يَسْهُو فَيُصَلِّي الظُّهْرَ أَرْبَعًا قَالَ: يَسْجُدُ سَجْدَتِي السَّهْوِ

*** حسن بصری ایسے مسافر کے بارے میں فرماتے ہیں: جو بھول کر ظہر کی نماز میں چار رکعت ادا کر لیتا ہے تو حسن

بھری فرماتے ہیں: وہ دوم تہ سجدہ سہو کرے گا۔

1377 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوري قال: إذا أم مسافرٌ مُقيمٍ فصلَّى بهم ركعةً، ثمَّ أحدث، فقدم رجلاً فاتته ركعةٌ فكان ينبغي له أن لا يقدم إلا من أدرك فقدم هذا، فإنه يصلي بهم بقية صلته، ثمَّ نكص فقدم رجلاً ممن أدرك الصلاة كلها، فسلم ثم يقوم هو فيقضي ما فاتته

*** سفیان ثوری بیان کرتے ہیں: جب مسافر شخص مقيم لوگوں کی امامت کرتے ہوئے انہیں ایک رکعت پڑھائے اور پھر اُسے حدت لاحق ہو جائے اور پھر وہ ایسے شخص کو آگے کر دے جس کی ایک رکعت فوت ہو گئی تھی تو امام کو چاہیے کہ وہ کسی ایسے شخص کو آگے کرے جو شروع سے نماز میں شریک ہوا تھا پھر وہ ان لوگوں کو بقیہ نماز پڑھادے پھر وہ اُسے قدموں پیچھے بٹے گا اور اُس شخص کو آگے کرے گا جو پوری نماز میں شریک رہا تھا پھر وہ سلام پھیر دے گا اور کھڑا ہو کر پہلے گزر جانے والی ایک رکعت کو ادا کر لے گا۔

4378 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوري قال: إذا صلى مسافرٌ بمقيمٍ ركعةً، وخلفه مسافرٌ ومقيمون، فقدم مسافراً، فبدأ للمسافر أن يقيم، فليصل بهم بقية صلاة المسافر، ثم يتأخر فيقدم رجلاً من المسافرين فيسلم بهم، ثم يقوم هو والمقيمون فيتموا بقية صلاتهم بغير إمام

*** سفیان ثوری فرماتے ہیں: جب مسافر شخص مقيم لوگوں کو ایک رکعت پڑھادے اور اُس کے پیچھے ایک مسافر بھی موجود ہو اور چند مقيم لوگ بھی موجود ہوں اور پھر امام مسافر کو آگے کر دے پھر مسافر کو یوں مناسب لگے کہ وہ اُس شہر میں مقيم ہو جائے تو وہ ان لوگوں کو مسافر شخص کی نماز کی طرح بقیہ نماز پڑھائے گا پھر وہ پیچھے ہٹ جائے گا اور مسافر لوگوں میں سے ایک شخص کو آگے کر دے گا جو ان لوگوں کو سلام پھیر دے گا پھر وہ اور دیگر مقيم لوگ کھڑے ہو کر اپنی باقی رہ جانے والی نماز کو امام کے بغیر مکمل کر لیں گے۔

4379 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوري في رجلٍ مكّي يريد الكوفة فسار حتى بلغ بئرٍ المرتفع أو نحوها، ثم بدت له حاجة فرجع قال: يتم الصلاة؛ لأنه لم يبلغ سَفراً يقصر فيه الصلاة

*** سفیان ثوری ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو مکہ کا رہنے والا ہو اور کوفہ جانا چاہتا ہو وہ سفر کرے یہاں تک کہ 'بیرین' نامی بلند مقام تک یا کسی اور جگہ تک پہنچ جائے پھر اُسے کوئی ضرورت پیش آئے اور وہ واپس آجائے تو سفیان ثوری فرماتے ہیں: وہ نماز کو مکمل ادا کرے گا کیونکہ وہ ابھی اتنے سفر تک نہیں پہنچا تھا کہ جس میں وہ نماز کو قصر کرتا۔

4380 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوري قال: إذا كنت في سفرٍ فصليت لك ركعةً، ثمَّ بدا لك أن تقيم بذلك البلد فاتم صلاتك، فإن بدا لك أن تخرج بعدما نويت الإقامة، فعليك أن تتم حتى تخرج من ذلك المضر

*** سفیان ثوری فرماتے ہیں: جب تم سفر کر رہے ہو اور تم ایک رکعت ادا کر چکے ہو پھر تمہیں یہ مناسب لگے کہ تم اُس

شہر میں مقیم ہو جاؤ، تو تم اپنی نماز کو مکمل کرو گے اور اگر تم مقیم ہونے کی نیت کرنے کے بعد یہ ارادہ کر لو کہ تم وہاں سے چلے جاؤ گے، تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم اُس شہر سے نکلنے تک مکمل نماز ادا کرو۔

بَابُ الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ، وَمَنْ نَسِيَ صَلَاةَ الْحَضَرِ فَذَكَرَ فِي السَّفَرِ
باب: مسافر شخص کا مقیم لوگوں کی نماز میں شامل ہونا اور جو شخص حضر کی نماز کو بھول جائے

اور پھر اُسے سفر کے دوران یہ بات یاد آئے

4381 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، قَالَ سُلَيْمَانُ التَّمِيمِيُّ: عَنْ أَبِي مَجَلَزٍ قَالَ: قُلْتُ

لِابْنِ عُمَرَ: أَدْرَكْتُ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْمُقِيمِينَ وَأَنَا مُسَافِرٌ؟ قَالَ: صَلَّى بِصَلَاتِهِمْ

*** ابو مجلز بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا: میں مقیم لوگوں کی نماز میں سے ایک

رکعت پاتا ہوں اور میں اُس وقت مسافر ہوتا ہوں (تو بقیہ نماز کے بارے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟) انہوں نے جواب دیا: تم اُن لوگوں کی نماز کے مطابق نماز ادا کرو۔

4382 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي مُسَافِرٍ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ

الْمُقِيمِينَ فِي الظُّهْرِ قَالَ: يَزِيدُ إِلَيْهَا ثَلَاثًا، وَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

*** حسن بصری مسافر شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو ظہر کی نماز میں مقیم لوگوں کی نماز میں سے ایک رکعت پاتا

ہے، تو حسن بصری فرماتے ہیں: وہ مزید تین رکعت ادا کرے گا، لیکن اگر وہ اُن لوگوں کو (آخری تشہد میں) بیٹھے ہوئے پاتا ہے تو وہ دو رکعت ادا کرے گا۔

4383 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ مَعَ قَوْمٍ

فَصَلِّ بِصَلَاتِهِمْ

*** امام عبدالرزاق نے امام ابوحنیفہ کے حوالے سے حماد کے حوالے سے ابراہیم نخعی کا یہ بیان نقل کیا ہے: جب تم کچھ

لوگوں کے ساتھ نماز میں شامل ہو، تو اُن لوگوں کی نماز کے مطابق نماز ادا کرو۔

4384 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي مُسَافِرٍ يُدْرِكُ مِنْ صَلَاةِ

الْمُقِيمِينَ رَكْعَةً، قَالَ: يُصَلِّي بِصَلَاتِهِمْ، فَإِنْ أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ

*** معمر نے زہری اور قتادہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: وہ مسافر شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو مقیم

لوگوں کی نماز میں سے ایک رکعت پالیتا ہے، تو یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں: وہ اُن لوگوں کی نماز کے مطابق نماز ادا کرے گا، لیکن اگر وہ اُن لوگوں کو (آخری رکعت میں) بیٹھے ہوئے پاتا ہے، تو پھر وہ صرف دو رکعت ادا کرے گا۔

4385 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ،

قَالَ: إِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى رَكَعَتَيْنِ

* * ابراہیم نخعی اور حسن بصری یہ فرماتے ہیں: جب آدمی ان لوگوں کو (آخری قعدہ میں) بیٹھے ہوئے پائے گا تو دو

رکعت ادا کرے گا۔

4386 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، قَالَ: إِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا صَلَّى بِصَلَاتِهِمْ.

* * معمر اور سفیان ثوری یہ فرماتے ہیں: اگر وہ ان لوگوں کو بیٹھے ہوئے پائے گا تو ان کی نماز کے مطابق نماز ادا کرے

گا۔

4387 - اقوال تابعین: عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مِثْلُ قَوْلِ الزُّهْرِيِّ وَقِتَادَةَ

* * ایک روایت کے مطابق عکرمہ کی بھی اس بارے میں وہی رائے ہے جو زہری اور قتادہ کی ہے۔

بَابُ مَنْ نَسِيَ صَلَاةَ الْحَضَرِ، وَالْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

باب: جو شخص حضر کی نماز کو بھول جائے، اور سفر کے دوران دو نمازیں ایک ساتھ ادا کرنا

4388 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ الثَّوْرِيِّ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي الْحَضَرِ فَذَكَرَ فِي السَّفَرِ صَلَّى

أَرْبَعًا، وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي السَّفَرِ ذَكَرَ فِي الْحَضَرِ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ

* * سفیان ثوری فرماتے ہیں: جو حضر کے دوران کسی نماز کو بھول جائے اور پھر سفر کے دوران اُسے یہ یاد آئے تو وہ چار

رکعت ہی ادا کرے گا اور اگر کوئی شخص سفر کے دوران کسی نماز کو بھول جائے اور وہ اُسے حضر کے دوران یاد آئے تو وہ اُس میں دو

رکعت ہی ادا کرے گا۔

4389 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: مَنْ نَسِيَ صَلَاةَ الْحَضَرِ حَتَّى

سَافَرَ يُدَسِّلِيهَا أَرْبَعًا، وَإِنْ نَسِيَ صَلَاةً فِي السَّفَرِ حَتَّى يَأْتِيَ الْحَضَرَ صَلَّى أَرْبَعًا وَقَالَ حَمَادٌ: يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ

وَقَوْلُ الْحَسَنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مَعْمَرٍ: يُتِمُّ حَتَّى لَا يَكُونَ فِي شَكٍّ

* * حسن بصری فرماتے ہیں: جو شخص حضر میں کسی نماز کو بھول جائے پھر وہ سفر پر روانہ ہو جائے تو وہ اُس نماز (کی

قضاء ادا کرتے ہوئے) چار رکعت ادا کرے گا اور اگر کوئی شخص سفر کے دوران کوئی نماز بھول جائے یہاں تک کہ وہ حضر کی حالت

میں آجائے تو وہ چار رکعت ادا کرے گا۔

حماد یہ کہتے ہیں: وہ شخص دو رکعت ادا کرے گا جبکہ حسن بصری کا قول معمر کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے کہ وہ شخص مکمل نماز

ادا کرے گا تا کہ اس بارے میں کوئی شک نہ رہے۔

4390 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَادٍ قَالَ: إِنْ نَسِيَ صَلَاةَ الْحَضَرِ فَذَكَرَ وَهُوَ مُسَافِرٌ

صَلَّى أَرْبَعًا

* * * حماد فرماتے ہیں: اگر کوئی شخص حضر کی نماز کو بھول جائے اور پھر وہ نماز اُسے اُس وقت یاد آئے جب وہ مسافر ہو، وہ چار رکعت ادا کرے گا۔

4391 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جَهَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ قَالَ: يُعِيدُ مَا ذَكَرَ

* * * قتادہ ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو شخص لاعلمی کی وجہ سے مغرب کی نماز میں بھی دو رکعت ادا کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ (سفر سے) واپس آجاتا ہے تو قتادہ فرماتے ہیں: وہ ان نمازوں کو دہرائے گا جو اُسے یاد ہوں گی۔

4392 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَ فِي السَّيْرِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

* * * حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیزی سے سفر کرنا ہوتا تھا تو آپ مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرتے تھے۔

4393 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ.

* * * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔

4394 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مِثْلَهُ

* * * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے۔

4395 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ،

4392-صحیح البخاری - کتاب الجمعة' ابواب تقصير الصلاة - باب يصلي المغرب ثلاثا في السفر' حديث: 1055
صحیح مسلم - کتاب صلاة المسافرين وقصرها' باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر - حديث: 1174' صحیح ابن خزيمة - جلاء ابواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها' جلاء ابواب الفريضة في السفر - باب الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر بذكر خبر' حديث: 911' مستخرج ابى عوانة - باب في الصلاة بين الاذان والإقامة في صلاة المغرب وغيره' بيان إباحة الجمع بين الصلاتين في السفر - حديث: 1915' موطا مالك - كتاب قصر الصلاة في السفر' باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفر - حديث: 332' سنن ابى داود - كتاب الصلاة' تفريع صلاة السفر - باب الجمع بين الصلاتين' حديث: 1034' السنن للنسائي - كتاب المواقيت' الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين المغرب والعشاء - حديث: 591' مصنف ابن ابى شيبه - كتاب صلاة التطوع والإمامة و ابواب متفرقة' من قال: يجمع المسافر بين الصلاتين - حديث: 8102' السنن الكبرى للنسائي - مواقيت الصلوات' الحال التي يجمع فيها المسافر بين الصلاتين - حديث: 1556' سنن الدارقطني - كتاب الصلاة' باب الجمع بين الصلاتين في السفر - حديث: 1270' السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة' جلاء ابواب صلاة المسافرين والجمع في السفر - باب الجمع بين الصلاتين في السفر' حديث: 5135

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ

* * حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ سفر کے دوران ظہر اور عصر کی نمازیں جبکہ مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرتے تھے۔

4396 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ بِنَهَارٍ

* * عکرمہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ سفر کے دوران دن میں ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرتے تھے۔

4397 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي غَزْوَتِهِ إِلَى تَبُوكَ

* * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو آپ ظہر اور عصر کی جبکہ مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرتے تھے۔

4398 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطَّفِيلِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ

* * حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے غزوہ تبوک کے موقع پر ظہر اور عصر کی اور مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی تھیں۔

4399 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الطَّفِيلِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تَبُوكَ قَالَ: فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ: فَأَخَّرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا، ثُمَّ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَاتُونَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَدَا عَيْنِ تَبُوكَ، وَإِنَّكُمْ تَاتُونَهَا بِصُحَى النَّهَارِ، فَمَنْ جَاءَهَا فَلَا يَمَسُّ مِنْ مَائِهَا شَيْئًا حَتَّى آتِيَ قَالَ: فَجِئْنَاهَا وَقَدْ سَبَقَ إِلَيْهَا رَجُلَانِ، وَالْعَيْنُ مِثْلُ الشِّرَاكِ تَبْضُ بِشَيْءٍ مِنْ مَاءٍ، فَسَأَلَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَسَسْتُمَا مِنْ مَائِهَا؟ قَالَا: نَعَمْ قَالَ: فَسَبَّهَمَا وَقَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ غَرَفُوا مِنَ الْعَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ قَلِيلًا حَتَّى اجْتَمَعَ فِي إِيَّاهُ، ثُمَّ غَسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ أَعَادَهُ فِيهَا، فَجَرَتِ الْعَيْنُ بِمَاءٍ كَثِيرٍ، فَاسْتَقَى النَّاسُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوشِكُ يَا مُعَاذُ أَنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاتُكَ، تَرَى مَا هُنَا قَدْ مَلَأَ جِنَانًا

* * حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: وہ لوگ نبی اکرم ﷺ کے ہمراہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے تو نبی

اکرم ﷺ ظہر اور عصر کی جبکہ مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: ایک دن نبی اکرم ﷺ نے نماز کو مؤخر کر دیا، پھر آپ تشریف لائے، آپ نے ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کیں، پھر آپ (اپنے پڑاؤ کی جگہ پر) تشریف لے گئے، پھر آپ تشریف لائے اور آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کیں، پھر آپ نے ارشاد فرمایا: اگر اللہ نے چاہا تو کل تم تبوک کے چشمہ تک پہنچ جاؤ گے اور تم دن چڑھے کے قریب وہاں پہنچو گے، جو شخص وہاں پہنچے وہ اُس کے پانی میں سے اُس وقت تک کچھ حاصل نہ کرے جب تک میں نہیں آجاتا۔ راوی بیان کرتے ہیں: جب ہم وہاں پہنچے تو دو آدمی وہاں پہلے پہنچ چکے تھے وہ پانی کا چشمہ ایک سمت کی مانند تھا، جس میں سے پانی رس رہا تھا، نبی اکرم ﷺ نے ان دونوں سے دریافت کیا: کیا تم دونوں نے اسے مس کیا ہے؟ ان دونوں نے عرض کی: جی ہاں تو نبی اکرم ﷺ نے ان دونوں کو برا کہا، اور جو اللہ کو منظور تھا، وہ ان دونوں کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ پھر لوگوں نے اپنے ہاتھوں کے ذریعہ اُس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی لیا اور اُسے ایک برتن میں جمع کیا، پھر نبی اکرم ﷺ نے اپنا چہرہ مبارک اور دونوں ہاتھ اُس برتن میں دھوئے، پھر اُس پانی کو دوبارہ چشمہ میں ڈال دیا گیا، تو اُس چشمہ میں سے بہت سا پانی جاری ہو گیا، جس کے ذریعہ لوگ سیراب ہو گئے۔ پھر نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”اے معاذ! عنقریب ایسا وقت آئے، اگر تمہاری زندگی طویل ہوئی، تو تم دیکھو گے کہ یہاں باغات بھرے ہوئے ہوں گے (جو اس چشمہ سے سیراب ہوئے ہوں گے)۔“

4400 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ أَمْرَأَتَهُ تَمُوتُ قَالَ: سَارَ حَتَّى أَظْلَمْنَا وَظَنْنَا أَنَّهُ قَدْ نَسِيَ قَالَ: فَجَعَلْنَا نَقُولُ: الصَّلَاةُ، وَهُوَ لَا يُجِيبُنَا، حَتَّى ذَهَبَ نَحْوُ مِنْ رُبْعِ اللَّيْلِ، قَدَرًا مَا يَسِيرُ الْمُثْقَلُونَ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مُزْدَلِفَةَ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَجَّلَهُ الْمَسِيرُ أَوْ أَزْمَعَ بِهِ الْمَسِيرُ جَمَعَ بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ

نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے بتایا کہ ان کی اہلیہ سیدہ صفیہ بنت عبید کا انتقال ہو گیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روانہ ہوئے یہاں تک کہ شام ہو گئی، ہم نے یہ گمان کیا کہ شاید وہ بھول گئے ہیں، تو ہم نے یہ کہنا شروع کیا: جناب! نماز کا وقت ہو گیا ہے! لیکن انہوں نے ہمیں کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ ایک چوتھائی رات کے قریب رخصت ہو گئی، یہ اتنا عرصہ بنتا ہے جتنی دیر میں لوگ ساز و سامان سمیت عرفہ سے مزدلفہ جاتے ہیں، پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سواری سے نیچے اترے، انہوں نے مغرب کی نماز ادا کی، پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے فرمایا: نبی اکرم ﷺ کو جب تیزی سے سفر کرنا مطلوب ہوتا تھا، تو آپ ان دو نمازوں کو ایک ساتھ ادا کرتے تھے، پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے عشاء کی نماز ادا کی۔

4401 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ: جَاءَهُ خَبْرٌ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا وَجِعَةٌ، فَارْتَحَلَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَسْرَعَ

السَّيْرِ، فَسَارَ حَتَّى حَانَتْ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ، فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: الصَّلَاةُ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ، ثُمَّ كَلَّمَهُ آخَرَ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ، وَكَلَّمَهُ آخَرَ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا، ثُمَّ كَلَّمَهُ آخَرَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَعْجَلَ آخِرَ هَذِهِ الصَّلَاةِ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

* * نافع بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دو نمازیں ایک ساتھ ادا کی تھیں۔

راوی بیان کرتے ہیں: انہیں سیدہ صفیہ بخت عبید کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ شدید بیمار ہیں تو عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روانہ ہوئے وہ تیزی سے سفر کرتے رہے یہاں تک کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، ان کے ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے ان سے اس بارے میں بات چیت کی اور کہا کہ جناب! نماز! تو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے کوئی جواب نہیں دیا، پھر ایک اور شخص نے ان سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے اسے بھی کوئی جواب نہیں دیا، پھر ایک اور شخص نے ان سے بات کی تو انہوں نے اسے بھی کوئی جواب نہیں دیا، پھر ایک اور شخص نے ان سے بات کی تو انہوں نے فرمایا: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ جب آپ نے تیزی سے سفر کرنا ہوتا تو آپ اس نماز کو مؤخر کر دیتے تھے یہاں تک کہ دو نمازوں کو ایک ساتھ ادا کرتے تھے۔

4402 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: أَخْبَرَ ابْنُ عُمَرَ

بَوَجَعَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ، فَقِيلَ لَهُ: الصَّلَاةُ، فَسَكَتَ وَآخَرَهَا بَعْدَ ذَهَابِ الشَّفَقِ حَتَّى ذَهَبَ هَوِيُّ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ إِذَا أَجَدَّ بِهِ السَّيْرُ أَوْ أَجَدَّ بِهِ الْمَسِيرُ

* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ان کی اہلیہ کی بیماری کے بارے میں بتایا گیا وہ اس وقت سفر کر رہے تھے انہوں نے مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیا، ان سے کہا گیا: جناب! نماز کا وقت ہو گیا ہے! وہ خاموش رہے انہوں نے شفق رخصت ہو جانے کے بعد تک اس نماز کو مؤخر کیے رکھا، یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ بھی گزر گیا، پھر وہ سواری سے اترے اور انہوں نے مغرب اور عشاء کی نمازیں ادا کیں، پھر انہوں نے بتایا: جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیزی سے سفر کرنا مطلوب ہوتا تھا تو آپ اسی طرح کیا کرتے تھے (یہاں ایک لفظ کے بارے میں راوی کو شک ہے)۔

4403 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي

فِي السَّفَرِ كُلَّ صَلَاةٍ لَوْ قَتَهَا إِلَّا صَلَاةً أُخْبِرَ بِوَجَعَ امْرَأَتِهِ، فَإِنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ، إِذَا جَدَّ بِهِ الْمَسِيرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. فَكَانَ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِمْ: إِلَى الرَّبْعِ مِنَ اللَّيْلِ آخِرَهُمَا جَمِيعًا

* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر کے دوران بھی ہر نماز اس کے مخصوص وقت پر ادا کرتے تھے البتہ اس نماز کا معاملہ مختلف ہوا جب انہیں ان کی اہلیہ کی بیماری کے بارے میں بتایا گیا، اس موقع پر انہوں نے مغرب اور عشاء

کی نمازیں ایک ساتھ ادا کیں جب ان سے اس بارے میں بات کی گئی تو انہوں نے فرمایا: جب نبی اکرم ﷺ کو تیزی سے سفر کرنا مقصود ہوتا تھا تو آپ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے آپ مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرتے تھے۔ بعض راویوں نے اس روایت میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مغرب کی نماز کو ایک چوتھائی رات گزرنے تک مؤخر کر دیا، انہوں نے ان دونوں نمازوں کو اُس وقت تک مؤخر کیا تھا۔

4404 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ؛ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، وَلَيْسَ يَطْلُبُ عَدْوًا وَلَا يَطْلُبُهُ عَدُوٌّ

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ سفر کے دوران دو نمازیں ایک ساتھ ادا کرتے تھے آپ ظہر اور عصر کی نمازیں جبکہ مغرب اور عشاء کی نمازیں (اکٹھی ادا کرتے تھے) حالانکہ آپ کسی دشمن کا پیچھا نہیں کر رہے ہوتے تھے یا کوئی دشمن آپ کا پیچھا نہیں کر رہا ہوتا تھا۔

4405 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَعَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ؟ قُلْنَا: بَلَى قَالَ: كَانَ إِذَا زَاغَتْ لَهُ الشَّمْسُ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ يَرَكِبَ، وَإِذَا لَمْ تَزُغْ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ سَارَ حَتَّى إِذَا حَانَتِ الْعَصْرُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَإِذَا حَانَتْ لَهُ الْمَغْرِبُ وَهُوَ فِي مَنْزِلِهِ جَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ، وَإِذَا لَمْ تَحِنْ لَهُ فِي مَنْزِلِهِ رَكِبَ حَتَّى إِذَا حَانَتِ الْعِشَاءُ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا. قَالَ: وَقَالَ لِي الْمِقْدَامُ: مَا سَمِعْنَا هَذَا مِنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَلَا جَاءَ بِهِ غَيْرُكَ

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: کیا میں تم لوگوں کو سفر کے دوران نبی اکرم ﷺ کی نماز کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کی: جی ہاں! تو انہوں نے فرمایا: جب نبی اکرم ﷺ کی رہائشی جگہ پر ہی سورج ڈھل جاتا تھا تو نبی اکرم ﷺ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ہی ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کر لیتے تھے اور جب آپ کی رہائشی جگہ پر سورج نہیں ڈھلا ہوتا تھا تو آپ روانہ ہو جاتے تھے یہاں تک کہ جب عصر کا وقت ہوتا تھا تو آپ پڑاؤ کرتے تھے اور ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرتے تھے جب آپ کی رہائشی جگہ پر ہی مغرب کا وقت ہو جاتا تو آپ مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کر لیتے تھے اور اگر آپ کی رہائشی جگہ پر مغرب کا وقت نہیں ہوتا تھا تو آپ سوار ہو جاتے تھے یہاں تک کہ جب عشاء کا وقت ہوتا تھا تو سواری سے اترتے تھے اور یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کرتے تھے۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: مقدم نے مجھ سے کہا: ہم نے یہ روایت ابن جریج سے نہیں سنی ہے اور آپ کے علاوہ کسی اور نے بھی ان کے حوالے سے اسے نقل نہیں کیا ہے۔

4406 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ:

اصْطَحَبْتُ اَنَا وَسَعْدُ بْنُ اَبِي وَقَاصٍ مِنَ الْكُوفَةِ اِلَى مَكَّةَ، وَخَرَجْنَا مُوَافِدَيْنِ، فَجَعَلَ سَعْدٌ يَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، يُقَدِّمُ مِنْ هَذِهِ قَلِيلًا، وَيُؤَخِّرُ مِنْ هَذِهِ قَلِيلًا حَتَّى جِنَا مَكَّةَ

* * ابو عثمان نہدی بیان کرتے ہیں: میں اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کوفہ سے مکہ تک کے سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہم وفد کی شکل میں روانہ ہوئے تھے حضرت سعد رضی اللہ عنہما ظہر اور عصر کی نمازیں جبکہ مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرتے تھے وہ ایک نماز کو تھوڑا پہلے ادا کر لیتے تھے اور دوسری کو ذرا تاخیر سے ادا کرتے تھے (وہ اسی طرح نمازیں ادا کرتے رہے) یہاں تک کہ ہم مکہ آ گئے۔

4407 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: خَرَجَ سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ، وَأَسَامَةُ فَكَانَا يَجْمَعَانِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ

* * ابو عثمان بیان کرتے ہیں: حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہما اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہما سفر پر روانہ ہوئے تو یہ دونوں حضرات ظہر اور عصر کی نمازیں جبکہ مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرتے تھے۔

4408 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا نَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي السَّفَرِ

* * حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: ہم لوگ سفر کے دوران ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرتے تھے۔

4409 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ لَيْلَةً خَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ قَالَ: فَكَانَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا يُؤَخِّرُ مِنَ الظُّهْرِ وَيُعَجِّلُ مِنَ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعَانِ، وَيُؤَخِّرُ مِنَ الْمَغْرِبِ وَيُعَجِّلُ مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ يَجْمَعَانِ

* * عطاء بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اُس رات مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی تھیں جب وہ اپنی زمین سے نکلے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں: جب انہوں نے دو نمازیں ادا کی تھیں تو اُس کی صورت یہ تھی کہ انہوں نے ظہر کی نماز کو ذرا تاخیر سے ادا کی تھی اور عصر کی نماز جلدی ادا کر لی تھی اور پھر ان دونوں کو اکٹھے ادا کیا تھا اسی طرح انہوں نے مغرب کو مؤخر کر دیا تھا اور عشاء کی نماز جلدی ادا کر لی تھی اور پھر ان دونوں کو ایک ساتھ ادا کر لیا تھا۔

4410 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّى الْمَرْءُ عِنْدَ وَقْتِ إِحْدَاهُمَا قَالَ: لَا يَضُرُّهُ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر آدمی ان دونوں نمازوں کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے وقت میں ہی ادا کر لے؟ تو انہوں نے جواب دیا: یہ چیز اُسے نقصان نہیں دے گی۔

4411 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جریج، وزمعة بن صالح، عن ابن طاؤس قال: كان طاؤس يجمع بين الصلاتين من الجند حتى يصل مكة، ويصلي بينهما ومعهما ما كان يصلي في الحضر
 * * طاؤس کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں: طاؤس "جند" سے روانہ ہوئے تو مکہ پہنچنے تک دو نمازیں ایک ساتھ ادا کرتے رہے وہ ان دونوں نمازوں کے درمیان اور ان دونوں نمازوں کے ہمراہ وہ (نفل یا سنت) نماز ادا کرتے تھے جو وہ حضر کے دوران ادا کیا کرتے تھے۔

4412 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ابن عباس قال: إذا كان القوم في السفر فلم يتهيا لهم المنزل ساروا حتى بلغوا المنزل وأخروا شيئاً، ثم نزلوا فجمعوا بين الصلاتين، وإذا أبطأوا في المنزل فكذلك

* * حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: جب کچھ لوگ سفر کر رہے ہوں اور ابھی ان کے سامنے پڑاؤ کے لیے کوئی مناسب جگہ نہ آئی ہو تو وہ سفر کرتے رہیں گے جب تک وہ پڑاؤ کی کسی جگہ پر نہیں پہنچ جاتے وہ نماز کو کسی حد تک مؤخر کر دیں گے پھر جب وہ پڑاؤ کریں گے تو دو نمازیں ایک ساتھ ادا کر لیں گے اگر انہیں پڑاؤ کی جگہ پر پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی ہے تو پھر بھی وہ ایسا ہی کریں گے۔

4413 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن قتادة قال: كنت أجيراً لسالم بن عبد الله قال: فیرتحل من المدينة الى مكة، فكان سالم يأمر نساءه يجمعن بين الظهر والعصر، ثم أسير بهم، ويتخلف هو في المنزل، فلا أدري ما يصنع

* * عمرو بن قتادہ بیان کرتے ہیں: میں سالم بن عبد اللہ کا مزدور تھا وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے سالم اپنی خواتین کو یہ ہدایت کرتے تھے کہ وہ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کر لیں پھر میں ان خواتین (کے اونٹوں) کو لے کر چلتا تھا اور سالم پڑاؤ کی جگہ پر پہنچ رہے جاتے تھے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ خود کیا کرتے تھے؟

4414 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن مالك، عن ابن شهاب قال: سألت سالم بن عبد الله: هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟
 * * ابن شہاب بیان کرتے ہیں: میں نے سالم بن عبد اللہ سے سوال کیا: کیا آدمی سفر کے دوران ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کر سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیا تم نے لوگوں کے عرفہ میں نماز ادا کرنے کو نہیں دیکھا ہے؟

4415 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة قال: جاءت امرأة الى طاؤس فقالت: ائسي اكره ابي؛ حملني على أن أجمع بين الصلاتين قال: لا يضرك، أما ترين أن الناس يجمعون بين الهاجرة والعصر بعرفة، والمغرب والعشاء بجمع

* * ابراہیم بن میسرہ بیان کرتے ہیں: ایک خاتون طاؤس کے پاس آئی اور بولی: میرے والد نے مجھے زبردستی اس بات پر مجبور کیا کہ میں دو نمازیں ایک ساتھ ادا کروں؟ تو طاؤس نے کہا: تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ لوگ عرفہ میں ظہر اور عصر کی نمازیں جبکہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرتے ہیں۔

4416 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ اُمِّ ذَرَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ النِّسَاءَ بِالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ

* * ام ذرہ بیان کرتی ہیں: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا خواتین کو سفر کے دوران دو نمازیں ایک ساتھ ادا کرنے کی ہدایت کرتی تھیں۔

4417 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: " سَمِعْتُ اَنَّ الصَّلَاةَ جُمِعَتْ لِقَوْلِهِ: (اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ اِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ) (الإسراء: 78)، فَغَسَقُ اللَّيْلِ: الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ "

* * معمر بیان کرتے ہیں: میں نے یہ بات سن رکھی ہے کہ نمازوں کو جمع کیا جاسکتا ہے اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

"تم سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز قائم کرو۔"

تو یہاں رات کے "غسق" سے مراد مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں۔

4418 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْمٌ لَيْسُوا فِي حَجٍّ، وَلَا عُمْرَةٍ، وَلَا غَزْوَةٍ يَجْمَعُونَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، سُبْحَانَ اللَّهِ اَنَا اطُوفُ هَاهُنَا السَّبْعَ، ثُمَّ اُصَلِّي الْعِشَاءَ اَوِ السَّبْعِينَ * * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کچھ لوگ حج کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں، عمرہ کے لیے نہیں آئے ہوئے ہیں، کسی جنگ میں حصہ نہیں لے رہے ہیں، کیا وہ دو نمازیں ایک ساتھ ادا کر سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! سبحان اللہ! میں (مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد) یہاں طواف کے سات چکر لگاتا ہوں اور پھر عشاء پڑھ لیتا ہوں۔

4419 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اِبْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ اَبِي يَنْزِلُ بِرَاقِبِ الشَّمْسِ حَتَّى يَحْضُرَ الْعَصْرُ

* * طاؤس کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں: میرے والد اتر کر سورج کا جائزہ لیتے تھے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو چکا ہوتا تھا۔

4420 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً قَطُّ اِلَّا لَوْفَتِهَا، اِلَّا اَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِعَرَفَةَ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ.

*** حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ نماز اُس کے مخصوص وقت پر ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے البتہ آپ نے عرفہ میں ظہر اور عصر کی نمازیں جبکہ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی تھیں۔

4421 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن عیینة، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود مثله قال: وصلى الفجر يومئذ قبل وقتها

*** حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے اس میں یہ الفاظ ہیں: وہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس دن فجر کی نماز اپنے معمول کے وقت سے کچھ پہلے ادا کی تھی۔

4422 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن قتادة، عن أبي العالية، أن عمر كتب إلى أبي موسى: وأعلم أن جمعاً بين الصلاتين من الكبائر إلا من عذر

*** ابوالعالیہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط میں لکھا: تم یہ بات جان لو کہ دو نمازیں ایک ساتھ ادا کرنا کبیرہ گناہ ہے البتہ کسی عذر کی وجہ سے ہو تو حکم مختلف ہے۔

4423 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن أيوب و قتادة، عن أبي العالية أنه كان يصلي في السفر كل صلاة لوقتها

*** ابوالعالیہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ سفر کے دوران ہر نماز اُس کے مخصوص وقت پر ادا کرتے تھے۔

4424 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوري، عن حماد، عن الأسود قال: كان ينزل لوقت كل صلاة ولو كان ينزل على حجر

*** اسود کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ ہر نماز کے وقت سواری سے اترتے تھے خواہ انہیں کسی پتھر پر (یا پتھر لی زمین پر) اترنا پڑے۔

4425 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن جابر الجعفي، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه أنه كان يصلي كل صلاة لوقتها في السفر

*** عبدالرحمن بن اسود اپنے والد کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: وہ سفر کے دوران بھی ہر نماز اُس کے مخصوص وقت پر ادا کرتے تھے۔

4426 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن هشام، عن الحسن أنه كان يقول: صلوا كل صلاة لوقتها.

*** حسن بصری یہ فرماتے ہیں: تم ہر نماز اُس کے مخصوص وقت پر ادا کرو۔

4427 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن سمع الحسن يقول مثل ذلك

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حسن بصری سے منقول ہے۔

4428 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن مكحول أنه كره الجمع بين الصلاتين في

السفر

* * * مکحول کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ سفر کے دوران دو نمازیں ایک ساتھ ادا کرنے کو مکروہ قرار دیتے تھے۔

4429 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ: لَا يَجْمَعُونَ فِي السَّفَرِ. وَلَا يُصَلُّونَ اِلَّا رَكَعَتَيْنِ

* * * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: لوگ (یعنی صحابہ کرام) سفر کے دوران دو نمازیں ایک ساتھ ادا نہیں کرتے تھے اور وہ لوگ صرف دو رکعت ہی ادا کرتے تھے۔

4430 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ كَانَ يَنْزِلُ فِي السَّفَرِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ * * * سالم بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”اللہ تعالیٰ عبد اللہ بن رواحہ پر رحم کرے! وہ ایک ایسا شخص ہے جو سفر کے دوران ہر نماز کے وقت اتر جاتا ہے (اور نماز ادا کرتا ہے)۔“

4431 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمِ قَالَ: قُلْتُ: مَا اَبَعَدُ مَا اَخَّرَ ابْنُ عُمَرَ الْمَغْرِبَ؟ قَالَ: مِنْ ذَاتِ الْجَيْشِ اِلَى ذَاتِ السُّفُوقِ، وَبَيْنَهُمَا ثَمَانِيَةٌ اَمْيَالٍ * * * یحییٰ بن سعید نے سالم کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: میں نے ان سے دریافت کیا: حضرت عبد اللہ بن عمرؓ نے مغرب کی نماز کو زیادہ سے زیادہ کتنا موخر کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ذات الجیش کے مقام سے لے کر ”ذات السفوق“ تک ان دونوں کے درمیان آٹھ میل کا فاصلہ ہے۔

4432 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرَبَتْ لَهُ الشَّمْسُ وَهُوَ بِسَرِفٍ، فَلَمْ يُصَلِّ الْمَغْرِبَ حَتَّى دَخَلَ مَكَّةَ. " وَذَكَرَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ اَرْطَاةٍ مِثْلَهُ عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ

* * * حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کے سامنے سورج غروب ہو گیا، آپ اس وقت ”سرف“ کے مقام پر موجود تھے، لیکن آپ نے مغرب کی نماز اس وقت تک ادا نہیں کی جب تک آپ مکہ میں داخل نہیں ہو گئے۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے۔

4433 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَغَيْرِهِ، أَنَّ وَهَبَ بْنَ مُنْبِهٍ كَانَتْ تَغْرُبُ لَهُ الشَّمْسُ وَهُوَ بِقَرْيَةِ الرَّحْبَةِ، فَبَرَكَبُ دَابَّتُهُ حَتَّى يَأْتِيَ مَنْزِلَهُ بِصَنْعَاءَ * * * یحییٰ بن عبد اللہ اور دیگر حضرات نے یہ بات نقل کی ہے: وہب بن منبہ کے سامنے سورج غروب ہو گیا، وہ اس وقت

”رحبہ“ نامی گاؤں میں موجود تھے وہ اپنی سواری پر سوار ہوئے یہاں تک کہ صنعا میں موجود اپنے گھر آ گئے۔

بَابُ جَمْعِ الصَّلَاةِ فِي الْحَضَرِ

باب: حضر کے دوران دو نمازیں ایک ساتھ ادا کرنا

4434 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوَّامَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ سَفَرٍ وَلَا مَطَرٍ. قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَ تَرَاهُ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَاهُ لِلتَّوَسُّعَةِ عَلَى أُمَّتِهِ

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کسی سفر کے بغیر اور بارش نہ ہونے کے عالم میں ظہر اور عصر کی نمازیں جبکہ مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی ہیں۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا: آپ کے خیال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: میں اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے گنجائش دینا چاہتے تھے۔

4435 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ سَفَرٍ وَلَا خَوْفٍ. قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: وَلِمَ تَرَاهُ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کسی سفر کے بغیر اور بارش نہ ہونے کے عالم میں ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی ہیں۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا: آپ کے خیال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: میں اس بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ اپنی امت کو حرج کا شکار نہ کریں۔

4436 - حدیث نبوی: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَقُلْتُ لِأَبِي الشَّعْثَاءِ: إِنِّي لَأُظُنُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ مِنَ الظُّهْرِ قَلِيلًا وَقَدَّمَ مِنَ الْعَصْرِ قَلِيلًا، قَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: وَأَنَا أَظُنُّ ذَلِكَ

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: میں نے مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں آٹھ رکعات ایک ساتھ (یعنی ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ) اور سات رکعات ایک ساتھ (یعنی مغرب و عشاء کی نمازیں ایک ساتھ) ادا کی

تیب۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے ابوالشعثاء سے دریافت کیا: نبی اکرم ﷺ کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز کو کچھ مؤخر کیا ہوگا اور عصر کی نماز کو کچھ جلدی ادا کر لیا ہوگا؟ تو ابوالشعثاء نے جواب دیا: میرا بھی یہی خیال ہے۔

4437 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: جَمَعَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقِيمًا غَيْرَ مُسَافِرٍ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ، فَقَالَ رَجُلٌ لَابْنِ عُمَرَ: لِمَ تَرَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ لَا يُخْرِجُ أُمَّتَهُ إِنْ جَمَعَ رَجُلٌ

* * * حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے مقیم ہونے کی حالت میں جبکہ آپ مسافر نہیں تھے ہمیں ظہر اور عصر اور مغرب کی نمازیں ایک ساتھ پڑھائی تھیں۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا: آپ کے خیال میں نبی اکرم ﷺ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: اس لیے کہ اگر کوئی شخص ان نمازوں کو ایک ساتھ ادا کر لیتا ہے تو آپ اپنی امت کو حرج کا شکار نہ کریں۔

4438 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ الْأَمْرَاءُ إِذَا جَمَعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ: الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي الْمَطَرِ جَمَعَ مَعَهُمْ

* * * حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: جب حکمران بارش کے وقت مغرب اور عشاء کی دو نمازیں ایک ساتھ ادا کریں تو تم بھی ان کے ساتھ انہیں اکٹھا کر لو۔

4439 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجَاءَ بْنَ حَيَوَةَ يَسْأَلُ نَافِعًا: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ مَعَ النَّاسِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِذَا جَمَعُوا فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ

* * * داؤد بن قیس بیان کرتے ہیں: میں نے رجاء بن حیوہ کو نافع سے دریافت کرتے ہوئے سنا: جب حکمران بارش والی رات میں دو نمازیں ایک ساتھ ادا کرتے تھے تو کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی لوگوں کے ساتھ دو نمازیں اکٹھی ادا کر لیتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

4440 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: جَمَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ

* * * صفوان بن سلیم بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ بارش کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ ادا کی تھیں۔

4441 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ، فَيُصَلِّي مَعَهُمْ ابْنُ عُمَرَ لَا يَعْيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ

* * * نافع بیان کرتے ہیں: اہل مدینہ بارش والی رات میں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کرتے تھے حضرت

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی اُن کے ساتھ اس طرح نماز ادا کرتے تھے اور وہ اس حوالے سے اُن پر کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے۔

4442 - اِتْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ جَمَعْتُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي

السَّفَرِ أَيْجُزِي أَنْ لَا اتَّكَلَّمَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأُحِبُّ أَنْ أَفْصَلَ بَيْنَهُمَا

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اسی بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میں سفر کے دوران دو نمازیں ایک ساتھ ادا کر لیتا ہوں؟ تو کیا میرے لیے یہ بات جائز ہوگی کہ میں ان کے درمیان کوئی کلام نہ کروں؟ انہوں نے فرمایا: جہاں تک میرا تعلق ہے تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں ان دونوں کے درمیان (کوئی کلام کر کے یا اپنی جگہ سے منتقل ہو کے) فصل قائم کروں۔

بَابُ النَّافِلَةِ فِي السَّفَرِ

سفر میں نوافل ادا کرنا

4443 - حَدِيثُ نَبِيِّ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَيْسَى بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

صَلَّى ابْنُ عُمَرَ صَلَاةً مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ فِي السَّفَرِ، فَرَأَى بَعْضَهُمْ يُسَبِّحُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا يَصْنَعُونَ؟ قِيلَ لَهُ: يُسَبِّحُونَ قَالَ: لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتَمَمْتُ الصَّلَاةَ، حَجَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ لَا يُسَبِّحُ بِالنَّهَارِ، وَحَجَجْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَ لَا يُسَبِّحُ بِالنَّهَارِ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَكَانَ لَا يُسَبِّحُ بِالنَّهَارِ، وَحَجَجْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَكَانَ لَا يُسَبِّحُ بِالنَّهَارِ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ)

(الأحزاب: 21)

*** عیسیٰ بن عاصم اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سفر کے دوران دن کی کوئی نماز ادا کی، انہوں نے بعض لوگوں کو نوافل ادا کرتے ہوئے دیکھا تو دریافت کیا: یہ لوگ کیا کھ رہے ہیں؟ انہیں بتایا گیا: یہ نوافل ادا کر رہے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اگر میں نے نفل ہی پڑھنے ہوتے تو میں نماز ہی مکمل پڑھ لیتا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں (سفر کے دوران) نوافل ادا نہیں کرتے تھے۔ میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی حج کیا ہے، وہ بھی (سفر کے دوران) دن میں نوافل ادا نہیں کرتے تھے، میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی حج کیا ہے، وہ بھی (سفر کے دوران) دن میں نوافل ادا نہیں کرتے تھے۔

پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ آیت تلاوت کی:

”تمہارے لیے اللہ کے رسول کے طریقہ میں بہترین نمونہ ہے۔“

4444 - آثَارِ صَحَابِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ اسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ ثَوْبَانَ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ

فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

*** ثور بن ابوفاختہ بیان کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ سفر کے دوران (فرض نماز) سے پہلے یا اس کے بعد نفل ادا نہیں کرتے تھے۔

4445 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ، وَكَانَ يَقُولُ: لَوْ تَطَوَّعْتُ لَأَتَمَمْتُ، وَكَانَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ سُبْحَةَ اللَّيْلِ

*** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ سفر کے دوران نفل ادا نہیں کرتے تھے وہ یہ فرماتے تھے: اگر میں نے نفل ہی پڑھنے ہوں تو نماز ہی پوری پڑھ لوں گا البتہ وہ سفر کے دوران رات کے وقت نوافل ادا کیا کرتے تھے۔

4446 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَطَوَّعُ بِاللَّيْلِ، وَلَا يَتَطَوَّعُ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ، وَكَانَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ

*** حضرت عبداللہ بن دینار بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر کے دوران رات کے وقت نوافل ادا کر لیتے تھے لیکن وہ دن کے وقت نوافل ادا نہیں کرتے تھے وہ اپنے اونٹ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر لیتے تھے۔

4447 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ فِي صَلَاةِ النَّهَارِ

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر کے دوران دن کے وقت نوافل ادا نہیں کرتے تھے۔

4448 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَرْكَعُ رَكَعَتِي الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ، وَلَا يَتْرُكُهُمَا فِي الْحَضَرِ

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر کے دوران فجر کی دو رکعت (سنتیں) ادا نہیں کرتے تھے البتہ وہ حضر کے دوران انہیں ترک نہیں کرتے تھے۔

4449 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي رَكَعَتِي الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ، وَلَا يَدْعُهُمَا فِي الْحَضَرِ

*** عبداللہ بن واقد بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر کے دوران فجر کی دو رکعت (سنتیں) ادا نہیں کرتے تھے اور حضر کے دوران وہ ان دونوں کو ترک نہیں کرتے تھے۔

4450 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثَوْبَانَ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ قَالَ: صَحِبْتُ مُجَاهِدًا فِي السَّفَرِ مِرَارًا، فَكَانَ لَا يَتَطَوَّعُ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

*** ثور بن ابوفاختہ بیان کرتے ہیں: میں سفر میں کئی مرتبہ مجاہد کے ساتھ رہا ہوں وہ (فرض نماز سے) پہلے یا بعد میں

کوئی نفل نماز ادا نہیں کرتے تھے۔

4451 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ أَيُّوبَ فَكَانَ لَا يَتَطَوَّعُ فِي الظُّهْرِ وَنَعَسِ بِشَيْءٍ لَا يَزِيدُ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ رَكَعَتَيْنِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الفَجْرِ رَكَعَتَيْنِ، وَبَعْدَ المَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي رَكَعَاتٍ بَعْدَ العِشَاءِ، وَكَانَ يُوتِرُ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ

* * * معمر بیان کرتے ہیں: میں نے ایوب کے ساتھ سفر کیا تو وہ ظہر اور عصر کی نماز میں کوئی نفل ادا نہیں کرتے تھے وہ صرف دو دو رکعت ادا کرتے تھے البتہ وہ فجر سے پہلے کی دو رکعت (سنتیں) ادا کرتے تھے اور مغرب کے بعد کی دو رکعت (سنتیں) ادا کرتے تھے وہ عشاء کے بعد بھی کچھ رکعت ادا کرتے تھے اور سونے سے پہلے وتر ادا کر لیتے تھے۔

4452 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قُلْتُ: إِذَا سَافَرْتُ فَقَصَرْتُ الصَّلَاةَ أَصَلِّي قَبْلَهَا إِنْ شِئْتُ أَوْ بَعْدَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَخَذُ بِالرُّخْصَةِ وَالسُّنَّةِ فَاقْصُرْ، ثُمَّ أَحِبُّ زِيَادَةَ الخَيْرِ فَاتَطَوَّعْ * * * ابن جریر عطاء کے بارے میں نقل کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: جب میں سفر کرتا ہوں تو میں نماز کو قصر کر لیتا ہوں تو اگر میں چاہوں تو اس سے پہلے یا اس کے بعد (کوئی نفل نماز) ادا کر سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں رخصت اور سنت کو اختیار کر کے نماز کو قصر کر لیتا ہوں پھر میں اگر زیادہ بھلائی کو پسند کرتا ہوں تو نوافل بھی ادا کر لیتا ہوں۔

4453 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ كَمَا يَتَطَوَّعُ فِي الحَضَرِ، وَكَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ * * * طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: وہ سفر کے دوران اسی طرح نوافل ادا کرتے تھے جس طرح حضر کے دوران ادا کرتے تھے اور وہ دو نمازیں ایک ساتھ ادا کرتے تھے۔

4454 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يُصَلِّيَانِ فِي السَّفَرِ قَبْلَ المَكْتُوبَةِ وَبَعْدَهَا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَرَأَيْتُ أَنَا الثَّوْرِيَّ يَفْعَلُهُ * * * ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سفر کے دوران فرض نماز سے پہلے اور اس کے بعد بھی نماز ادا کر لیتے تھے۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے سفیان ثوری کو بھی ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

4455 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ اسْرَائِيلَ، عَنْ عَيْسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا * * * عیسیٰ بن ابو عزہ بیان کرتے ہیں: میں نے امام عامر شععی کو سفر کے دوران (فرض نماز سے) پہلے اور بعد میں نوافل ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

4456 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: رَأَيْتُ مَكْحُولًا يَتَطَوَّعُ فِي السَّفَرِ قَبْلَهَا

وَبَعْدَهَا

*** محمد بن راشد بیان کرتے ہیں: میں نے مکحول کو دیکھا ہے کہ وہ سفر کے دوران (فرض نماز سے) پہلے یا بعد میں نوافل ادا نہیں کرتے تھے۔

4457 - احوال تابعین: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَرَأَيْتُ أَنَا الثَّوْرِيَّ يَتَطَوَّعُ قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا

*** امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے سفیان ثوری کو دیکھا ہے کہ وہ (فرض نماز سے) پہلے اور بعد میں نوافل ادا کر لیتے تھے۔

4458 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَا الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَتَطَوَّعُ فِي

السَّفَرِ، وَرَأَيْتُ سَالِمًا لَا يَتَطَوَّعُ

*** ایوب بیان کرتے ہیں: میں نے قاسم بن محمد کو سفر کے دوران نوافل ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے اور میں نے سالم کو نوافل ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

بَابُ مَنْ أَتَمَّ فِي السَّفَرِ

باب: جو شخص سفر کے دوران مکمل نماز ادا کرے

4459 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوفِي الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ إِلَّا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُوفِي الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ وَتَصُومُ قَالَ: وَسَافَرَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْفَى سَعْدُ الصَّلَاةَ وَصَامَ، وَقَصَرَ الْقَوْمُ وَأَفْطَرُوا فَقَالُوا لِسَعْدٍ: كَيْفَ يَفْطَرُونَ وَيَقْصُرُونَ وَأَنْتَ تُتِمُّهَا وَتَصُومُ؟ قَالَ: ذُنُوبَكُمْ أَمْرُكُمْ؛ فَإِنِّي أَعْلَمُ بِشَأْنِي قَالَ: فَلَمْ يُحَرِّمَهُ عَلَيْهِمْ سَعْدٌ وَلَمْ يَنْهَهُمْ عَنْهُ

*** ابن جریج نے عطاء کا یہ بیان نقل کیا ہے: میں نے نبی اکرم ﷺ کے اصحاب میں سے کسی کو بھی سفر کے دوران مکمل نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، صرف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایسا کیا کرتے تھے۔

عطاء فرماتے ہیں: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی سفر کے دوران مکمل نماز ادا کرتی تھیں اور وہ روزہ بھی رکھا کرتی تھیں۔

عطاء بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کے چند صحابہ کرام کے ہمراہ سفر کیا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نماز مکمل ادا کی اور روزہ بھی رکھا، جبکہ باقی لوگوں نے قصر نماز ادا کی اور روزہ نہیں رکھا۔ کچھ لوگوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا: کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ تو روزہ ترک کیے ہوئے ہیں اور نماز بھی قصر پڑھ رہے ہیں جبکہ آپ نماز مکمل پڑھ رہے ہیں اور روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں؟ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم لوگ اپنا معاملہ سنبھالو! مجھے اپنے معاملہ کے بارے میں زیادہ بہتر پتا ہے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے عمل کو حرام قرار نہیں دیا اور ان لوگوں کو ایسا کرنے سے منع بھی نہیں کیا۔

4460 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: قَصْرُهَا، وَكُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلَ الصَّالِحُونَ وَالْأَخْيَارُ

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: آپ کے نزدیک کیا چیز زیادہ پسندیدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا: نماز کو قصر کر کے پڑھنا، ویسے دونوں میں سے ہر ایک طریقہ نیک اور بہترین لوگوں نے اختیار کیا ہے۔

4461 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عُرْوَةَ، عَنِ عَائِشَةَ قَالَ: كَانَتْ تَصُومُ فِي السَّفَرِ وَتُصَلِّي أَرْبَعًا، أَوْ قَالَ: وَتُتِمُّ

*** سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ سفر کے دوران روزہ بھی رکھتی تھیں اور چار رکعت ادا کرتی تھیں۔ (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں: مکمل نماز ادا کرتی تھیں۔)

4462 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ هِشَامٍ، عَنِ عُرْوَةَ، عَنِ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُتِمُّ فِي السَّفَرِ

*** ہشام نے عروہ کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ وہ سفر کے دوران مکمل نماز ادا کرتی تھیں۔

4463 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُحَرَّرٍ، عَنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا فِي السَّفَرِ فَحَسَنٌ، وَمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَحَسَنٌ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُكُمْ عَلَى الزِّيَادَةِ؛ وَلَكِنْ يُعَذِّبُكُمْ عَلَى النُّقْصَانِ

*** سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: جو شخص سفر کے دوران چار رکعت ادا کرتا ہے تو یہ اچھا ہے اور جو شخص دو رکعت ادا کرتا ہے تو یہ بھی اچھا ہے بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ نماز کی وجہ سے تمہیں عذاب نہیں دے گا لیکن کمی کی وجہ سے دے گا۔

4464 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ عَاصِمٍ، عَنِ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: إِنْ صَلَّيْتُ فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا فَقَدْ صَلَّيْتُ مِنْ لَا بَأْسَ بِهِ

*** ابو قلابہ فرماتے ہیں: اگر تم سفر کے دوران چار رکعت ادا کر لیتے ہو تو انہوں نے بھی اس طرح نماز ادا کی ہے جن میں کوئی حرج نہیں ہے۔

4465 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ قَتَادَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فِي سَفَرٍ، فَاتَّمَمْتُ أَنَا وَقَصَرَ هُوَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بَلْ أَتَمَّ هُوَ، وَقَصَرْتَ أَنْتَ

*** قتادہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور بولا: میں اور میرا ایک ساتھی سفر کر رہے تھے میں نے مکمل نماز ادا کی اور اُس نے قصر نماز ادا کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اُس نے مکمل نماز ادا کی ہے اور تم نے نماز میں کمی کی ہے۔

4466 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا أَعَادَ الصَّلَاةَ

قَالَ غَالِبٌ: وَأَخْبَرَنِي ذَلِكَ السَّخْتِيَانِيُّ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَهُ جُمْلَةً الصَّلَاةِ، وَأَنَّهُ فَرَضَ لِلْمُسَافِرِ صَلَاةً، وَلِلْمُقِيمِ صَلَاةً، فَلَا يَنْبَغِي لِلْمُقِيمِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ الْمُقِيمِ

* * حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو شخص سفر کے دوران چار رکعات ادا کرتا ہے وہ نماز کو دہرائے گا۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم نازل کیا، اُس نے مسافر کے لیے ایک قسم کی نماز کو فرض قرار دیا اور مقیم کے لیے ایک قسم کی نماز کو فرض قرار دیا، تو مقیم شخص کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مسافر کی نماز ادا کرے اور مسافر شخص کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ مقیم شخص کی نماز ادا کرے۔

بَابُ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ

باب: سفر کے دوران روزہ رکھنا

4467 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمِ الْأَشْعَرِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ السَّفِينَةِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

* * سیدہ ام درداء رضی اللہ عنہا حضرت کعب بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ جو کشتی میں آنے والے افراد میں سے ایک ہیں، ان کا یہ بیان نقل کرتی ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:
”سفر کے دوران روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔“

4467- صحیحہ ابن خزیمہ - کتاب الصیام: جباہ ابواب الصوم فی السفر - باب ذکر خبر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: 1880 المستدرک عنی الصحیحین للحاکم - کتاب الصوم: واما حدیث شعبۃ - حدیث: 1517 سنن الدارمی - کتاب الصلاة: باب الصوم فی السفر - حدیث: 1712 سنن ابن ماجہ - کتاب الصیام: باب ما جاء فی الإفطار فی السفر - حدیث: 1660 السنن للنسائی - الصیام: باب ما یکره من الصیام فی السفر - حدیث: 2235 مصنف ابن ابی شیبۃ - کتاب الصیام: من کره صیام رمضان فی السفر - حدیث: 8816 السنن الکبریٰ للنسائی - کتاب الصیام: الحث علی السحور - ما یکره من الصیام فی السفر: حدیث: 2530 شرح معانی الآثار للطحاوی - کتاب الصیام: باب الصیام فی السفر - حدیث: 2059 مسند احمد بن حنبل - مسند الانصار: حدیث کعب بن عاصم الأشعری - حدیث: 23076 مسند الشافعی - ومن کتاب اختلاف الحدیث وترك البعاد منها: حدیث: 707 مسند الطیالسی - کعب بن عاصم: حدیث 1425 مسند الحمیدی - حدیث کعب بن عاصم الأشعری رضی اللہ عنہ: حدیث: 834 المعجم الاوسط للطبرانی - باب لباء: من اسه بکر - حدیث: 3326 المعجم الکبیر للطبرانی - باب الفاء: عبد الرحمن بن ابی لیلی - کعب بن عاصم الأشعری: حدیث: 16127

4468 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: كَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: يُفْطِرُ الْمَسَافِرُ إِذَا أَمَعْنَ، وَذَلِكَ

مَسِيرَةً يَوْمَيْنِ

* * زہری فرماتے ہیں: مسافر شخص جب دور جانے کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ روزہ ترک کر دے گا اور یہ دوری دو دن کی مسافت جتنی ہونی چاہیے۔

4469 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شَهَابٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

* * سیدہ ام درداء رضی اللہ عنہا حضرت کعب بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتی ہیں: "سفر کے دوران روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔"

4470 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

* * حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

"سفر کے دوران روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔"

4471 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَكَانَ الْفِطْرُ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ

* * حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: فتح مکہ کے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینہ میں روانہ ہوئے آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا یہاں تک کہ جب آپ "قدید" کے مقام پر پہنچے تو آپ نے روزہ ختم کر دیا۔ زہری بیان کرتے ہیں: (سفر کے دوران) روزہ نہ رکھنا آخری سنت ہے۔

4472 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شَهَابٍ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ. قَالَ: فَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الْآخِرَ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالْآخِرَ مِنْ أَمْرِهِ

* * حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: فتح مکہ کے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینہ میں روانہ ہوئے آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا جب آپ "قدید" کے مقام پر پہنچے تو آپ نے روزہ ختم کر دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں: صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں آخری (معمول شریف) کی پیروی کرتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری طریقہ یہی ہے (کہ آپ سفر کے دوران روزہ نہیں رکھتے تھے)۔

4473 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى مَرَّ بِغَدِيرِ فِي الطَّرِيقِ، وَذَلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ: فَعَطِشَ النَّاسُ وَجَعَلُوا يَمْدُونَ أَعْنَاقَهُمْ وَتَتَوَقُّ أَنْفُسُهُمْ إِلَيْهِ قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَأَمْسَكَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى رَأَاهُ النَّاسُ، ثُمَّ شَرِبَ، فَشَرِبَ النَّاسُ"

* * حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: فتح مکہ کے سال نبی اکرم ﷺ رمضان کے مہینہ میں روانہ ہوئے آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا یہاں تک کہ آپ راستے میں ایک کنویں کے پاس سے گزرے یہ دن چڑھے کی بات ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: لوگوں کو پیاس لگی ہوئی تھی وہ اپنی گردنیں اونچی کر کے نبی اکرم ﷺ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے پیالہ منگوایا جس میں پانی موجود تھا آپ نے کچھ دیر اسے اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھا تاکہ لوگ آپ کو دیکھ لیں پھر آپ نے اُسے پی لیا تو لوگوں نے بھی (پانی) پی لیا۔

4474 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا أَنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَخْرَجِهِ لِلْفَتْحِ بِعُسْفَانَ أَوْ بِالْكَدِيدِ - عَبْدُ الْمَلِكِ شَكَّ - نُوِيَ قَدْحًا، وَهُوَ عَلِيٌّ رَاحِلَتِهِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَجَعَلَتِ الرَّفَاقُ تَمْرُ بِهِ، وَالْقَدْحُ عَلَى يَدِهِ ثُمَّ شَرِبَ، فَبَلَغَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ نَاسًا صَامُوا، فَقَالَ: أَوْلَيْتَكَ الْعَاصُونَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

* * امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اپنے والد (امام محمد باقر رضی اللہ عنہ) کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: جب نبی اکرم ﷺ فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے تو "عسفان" یا شاید "قدید" (یہ شک عبدالملک نامی راوی کو ہے) کے مقام پر ایک پیالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا آپ اُس وقت اپنی سواری پر سوار تھے اور یہ رمضان کے مہینہ کی بات ہے آپ کے ساتھ چلنے والے لوگ آپ کے پاس سے گزرتے رہے وہ پیالہ آپ کے دست مبارک میں رہا پھر نبی اکرم ﷺ نے اُس کا مشروب پی لیا بعد میں آپ کو یہ اطلاع ملی کہ بعض لوگوں نے ابھی بھی روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ نے تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا: "یہ لوگ نافرمان ہیں۔"

4475 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ، وَلَا يَزِيدُ عَلَى رَكْعَتَيْنِ بِالنَّهَارِ، وَكَانَ يُحِبُّ اللَّيْلَ

* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر کے دوران روزہ نہیں رکھتے تھے اور دن کے وقت دو رکعت سے زیادہ ادا نہیں کرتے تھے (یعنی نوافل ادا نہیں کرتے تھے) وہ رات کے وقت نوافل ادا کیا کرتے تھے۔

4476 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ صَامَ فِي السَّفَرِ قَطُّ إِلَّا يَوْمًا وَاحِدًا، فَإِنِّي رَأَيْتُهُ أَفْطَرَ حِينَ أَمْسَى، فَقُلْنَا: كُنْتَ صَائِمًا؟ قَالَ: نَعَمْ، كُنْتُ أَرَى ابْنَ عُمَرَ يَدْخُلُ مَكَّةَ الْيَوْمَ، فَكَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ صِيَامًا وَأَنَا مُفْطِرٌ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ

* * نافع بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کبھی بھی سفر کے دوران روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا

صرف ایک دن ایسا ہوا (کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا) میں نے انہیں دیکھا کہ شام کے وقت انہوں نے افطاری کی۔ ہم نے دریافت کیا: کیا آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آج کے دن میں مکہ پہنچ جاؤں گا اور مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا ہو اور میں نے روزہ نہ رکھا ہوا ہو۔ (راوی کہتے ہیں: یہ رمضان کے مہینہ کی بات ہے۔)

4477 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الصَّلَاةِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفِطْرُ قَالَ: إِنِّي أَقْوَى عَلَى الصَّوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ أَقْوَى أَمْ اللَّهُ؟ إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ بِأَفْطَارِ الصَّائِمِ عَلَى مَرْضَى أُمَّتِي وَمُسَافِرِيهِمْ، أَفِيحِبُّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَى أَحَدِكُمْ بِصَدَقَةٍ تُمْ يَظَلُّ يَرُدُّهَا عَلَيْهِ؟

*** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے نبی اکرم ﷺ سے رمضان کے مہینہ میں سفر کے دوران نماز پڑھنے اور روزہ نہ رکھنے کے بارے میں دریافت کیا تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم روزہ نہ رکھو! اُس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں روزہ رکھنے کی قوت رکھتا ہوں! نبی اکرم ﷺ نے اُس سے فرمایا: تم زیادہ قوت رکھتے ہو؟ یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے میری اُمت کے بیماروں اور اُس کے مسافروں کو روزہ نہ رکھنے (کی رخصت) کا صدقہ دیا ہے تو کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا؟ کہ وہ کسی کو صدقہ دے اور وہ دوسرا شخص اُس کا دیا ہوا صدقہ اُسے واپس کر دے۔

4478 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ: أَنَسٌ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَاجَةٍ، فَوَجَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ادْنُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُسَافِرَ قَدْ وُضِعَ عَنْهُ الصَّوْمُ وَشَطْرُ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ.

*** ابو قلابہ نے بنو عامر سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب جن کا نام ”حضرت انس رضی اللہ عنہ“ تھا اُن کا یہ بیان نقل کیا ہے: جب وہ مدینہ منورہ آئے اور کسی کام کے سلسلہ میں نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو کھانا کھاتے ہوئے پایا، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم بھی آگے آ جاؤ! اُن صاحب نے عرض کی: میں نے روزہ رکھا ہوا ہے! نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: مسافر شخص سے روزہ اور نصف نماز کو معاف کر دیا گیا ہے اور حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت سے (روزہ کو معاف کر دیا گیا ہے)۔

4479 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: أَنَسٌ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ

*** ابو قلابہ نے بنو عامر سے تعلق رکھنے والے ایک صحابی جن کا نام ”حضرت انس رضی اللہ عنہ“ ہے اُن سے یہی روایت نقل کی

ہے (جو ایک اور سند کے ساتھ منقول ہے)۔

4480 - اَقْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَهُ فَاتَاهُ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ فَقَالُوا: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّا نَسَافِرُ فِي الْمَحَامِلِ، وَإِنَّا نَكْفِي، أَفَنُصُومُ؟ قَالَ: لَا قَالُوا: إِنَّا نَقْوَى عَلَى ذَلِكَ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَقْوَى وَخَيْرًا مِنْكُمْ قَالَ: خِيَارُكُمْ الَّذِينَ إِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا الصَّلَاةَ، وَلَمْ يَصُومُوا

* * سعید بن مسیب کے بارے میں عبدالرحمن بن حرملة نے یہ بات بیان کی ہے: ایک مرتبہ میں ان کے پاس موجود تھا اہل جزیرہ سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے: اے ابو محمد! ہم سفر کرتے ہیں تو کیا ہم روزہ رکھیں گے؟ سعید بن مسیب نے جواب دیا: جی نہیں! ان لوگوں نے کہا: ہم اس کی قوت رکھتے ہیں سعید بن مسیب نے کہا: اللہ کے رسول تم سے زیادہ قوت رکھتے تھے اور تم سے زیادہ بہتر تھے اور انہوں نے یہ فرمایا ہے:

”تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جو سفر کرتے ہوئے نماز کو قصر ادا کرتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے ہیں۔“

4481 - حَدِيثُ نَبِيِّ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ حَبِيبٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ رُوَيْمٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خِيَارُ أُمَّتِي مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحَدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَالَّذِينَ إِذَا أَحْسَنُوا اسْتَبَشَرُوا، وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَفْطَرُوا، وَشَرَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ وَلَدُوا فِي النَّعِيمِ وَغَدَّوْا بِهِ، هَمَّتُهُمْ - أَوْ قَالَ مَهَمَّتُهُمْ - لَيْنُ الثِّيَابِ، طَيِّبُ الطَّعَامِ، وَالْفُسُوقُ فِي الْكَلَامِ * * عروہ بن رویم بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے وہی ایک معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں وہ لوگ کہ جب وہ کوئی اچھائی کریں تو خوشخبری حاصل کریں اور جب کوئی بُرائی کریں تو مغفرت طلب کریں جب وہ سفر کریں تو نماز کو قصر کریں اور روزہ کو ترک کر دیں اور میری امت کے بُرے لوگ وہ ہیں جو ناز و نعمت میں پلتے ہیں ان کی خواہشات پوری ہوتی ہیں انہیں عمدہ کھانا نصیب ہوتا ہے اور وہ فضول کلام کرتے ہیں۔“

4482 - آثَارِ صَحَابِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَاسِينَ بْنِ أَبِي سَطَّامٍ، عَنْ صَحَّاحِ بْنِ مُزَاهِمٍ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ: "مَهْمَا عَصَيْتَنِي فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَلَا تَعْصِنِي فِي ثَلَاثٍ: إِذَا خَرَجْتَ مُسَافِرًا فَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِكَ، وَلَا تَصُومَنَّ حَتَّى تَرْجِعَ إِلَى بَيْتِكَ، وَلَا تَدْخُلَ مَكَّةَ إِلَّا بِأَحْرَامٍ"

* * صحاح بن مزاحم بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھ سے فرمایا: تم جس مرضی کام میں میری نافرمانی کرو لیکن تین چیزوں میں میری نافرمانی نہ کرنا جب تم سفر پر روانہ ہو جاؤ تو دو رکعت (یعنی قصر نماز) ادا کرتے رہنا جب تک تم اپنے گھر واپس نہیں آجاتے اور (سفر کے دوران) روزہ ہرگز نہ رکھنا جب تک تم اپنے گھر واپس نہیں آجاتے اور احرام کے

بغیر مکہ (یعنی حرم کی حدود) میں داخل نہ ہونا۔

4483 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ رَجُلًا صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقْضِيَهُ.

*** عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو جس نے رمضان کے مہینہ میں سفر کے دوران روزہ رکھا تھا اُسے یہ ہدایت کی کہ وہ اُس کی قضاء کرے۔

4484 - آثار صحابہ: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ كَلْثُومِ بْنِ جَبْرِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ

مِثْلَهُ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

4485 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ الصَّائِمِ فِي

السَّفَرِ، فَقَالَ: أَمَّا الْمَفْرُوضُ فَلَا، وَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَلَا بَأْسَ

*** یحییٰ بن ربیعہ بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء بن ابی رباح سے سفر کے دوران روزہ رکھنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: جہاں تک فرض روزہ کا تعلق ہے وہ نہیں رکھا جاسکتا، جہاں تک نفلی روزہ کا تعلق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

4486 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَحِبْنَا فَلَا يَصُمْ قَالَ: وَكَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ

*** حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: جو شخص ہمارے ساتھ (سفر کرے) وہ روزہ نہ رکھے۔

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر کے دوران روزہ نہیں رکھتے تھے۔

4487 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ، قَالَا: يُفْطِرُ الْمُسَافِرُ، وَيَقْصُرُ الصَّلَاةَ

*** حسن بصری اور قتادہ بیان کرتے ہیں: مسافر شخص روزہ ترک کر دے گا اور نماز کو قصر کرے گا۔

4488 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ

يَصُومُ يَوْمَ السَّفَرِ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْمُرُ بِسُحُورِهِ فَيَعْمَلُ لَهُ، وَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْفِطْرِ نَزَلَ وَاحْتَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى

يُفْطِرَ قَالَ: فَاصَابَ الرَّجُلُ يَوْمًا جَهْدًا شَدِيدًا مِنَ الْعَطَشِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: لَيْنُ دَخَلْتَ النَّارَ بَعْدَمَا أَرَى لَقَدْ

رَأَيْتُ نَقِيًّا

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک شخص سفر کر رہا تھا جس نے سفر کے دوران روزہ رکھا

ہوا تھا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اُسے سحری کا کھانا تیار کرنے کا حکم دیتے تھے وہ اُن کے لیے یہ کام کرتا تھا اور جب افطار کا وقت

ہوتا تھا اُس وقت وہ نیچے اترتا تھا اور اُس کی وجہ سے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کوڑکنا پڑتا تھا تا کہ وہ افطاری کر لے۔ راوی بیان

کرتے ہیں: ایک دن اُس شخص کو انتہائی شدید پیاس محسوس ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اُس سے فرمایا: تمہاری جو صورت حال مجھے نظر آ رہی ہے، اگر تم جہنم میں داخل ہو گئے تو میں صفائی دیکھوں گا۔

4489 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: دَعَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَسَأَلَهُمَا عَنِ الْمَسَافِرِ فِي رَمَضَانَ: أَيُصُومُ أَمْ يُفْطِرُ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: إِنِّي إِنَّمَا أَخَذْتُ عَنْ عَائِشَةَ، وَقَالَ سَالِمٌ: وَإِنَّمَا أَخَذْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: فَلَمَّا امْتَرَيَا وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، قَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلَّهِمَّ اغْفِرْ أَصُومَهُ فِي الْيُسْرِ، وَأَفْطَرَهُ فِي الْعُسْرِ

* * ایوب بیان کرتے ہیں: عمر بن عبدالعزیز نے سالم بن عبداللہ اور عروہ بن زبیر کو بلایا اور ان دونوں سے مسافر کے رمضان میں روزہ رکھنے کے بارے میں دریافت کیا: کیا وہ روزہ رکھے گا یا روزہ ترک کر دے گا؟ تو عروہ نے کہا: میں نے تو یہ حکم سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے حاصل کیا ہے جبکہ سالم نے یہ کہا ہے کہ میں نے یہ حکم حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حاصل کیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: جب ان دونوں کی بحث شروع ہوئی اور ان دونوں کی آوازیں بلند ہوئیں تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا: اے اللہ! تو مغفرت کر دے! اے اللہ! تو مغفرت کر دے! اگر آسانی ہوئی تو میں روزہ رکھ لوں گا اور اگر آسانی نہ ہوئی تو میں روزہ نہیں رکھوں گا۔

4490 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُقَاتِلِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفْطِرًا وَصَائِمًا وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَافِيًا وَمُتَّعِلًا وَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ قَائِمًا وَقَاعِدًا

* * حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو (سفر کے دوران) روزہ نہ رکھتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور روزہ رکھتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تاپہنے بغیر نماز ادا کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور جو تاپہن کر نماز ادا کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر پیتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور بیٹھ کر بھی پیتے ہوئے دیکھا ہے۔

4491 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ، فَلَا يُعَابُ عَلَى مَنْ صَامَ، وَلَا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ، فَمَنْ صَامَ خَيْرٌ مِمَّنْ أَفْطَرَ.

* * طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران روزہ رکھا بھی ہے اور چھوڑ بھی دیا ہے، تو جو شخص روزہ رکھتا ہے اُس پر اعتراض نہیں کیا جائے گا اور جو شخص روزہ نہیں رکھتا اُس پر بھی اعتراض نہیں کیا جائے گا، لیکن جو شخص روزہ رکھ لیتا ہے وہ اُس سے بہتر شمار ہوگا جس نے روزہ نہیں رکھا۔

4492 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ، وَقَالَ: خُذْ

بِأَيْسَرِهِمَا عَلَيْكَ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة: 185)

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے وہ یہ فرماتے ہیں: تم اُس چیز کو

حاصل کرو جو تمہارے لیے زیادہ آسان ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کا ارادہ کرتا ہے، وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔“

4493 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، وَأَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعَثَاءِ، أَنَّهُمْ خَرَجُوا إِلَى

مَكَّةَ وَمَعَهُمُ الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، فَأَذْرَكَهُمْ هِلَالَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامُوا فِي الطَّرِيقِ قَالَ: وَمَرَرْنَا بِبَنِي مَيْمُونٍ

فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَغْتَسِلُوا

*** امام عبدالرزاق نے اسرائیل بن یونس اور اشعث بن ابوشعث کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: یہ لوگ مکہ کی

طرف جانے کے لیے روانہ ہوئے ان کے ساتھ اسود بن یزید بھی تھے راستے میں رمضان کا پہلی کا چاند نظر آ گیا، تو ان لوگوں نے

راستہ میں روزہ رکھ لیا۔ راوی بیان کرتے ہیں: ہمارا گزرمیمون کے کنویں سے ہوا، تو اسود نے ان لوگوں کو یہ ہدایت کی کہ وہ غسل کر

لیں۔

4494 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: أَهْلَلْنَا

هِلَالَ رَمَضَانَ بِحُلْوَانَ، أَوْ بِالْمَدَائِنِ، وَفِينَا رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَادَى

أَمِيرُهُمْ: مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَصُومَ فَلْيَصُمْ، وَمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَفْطِرَ فَلْيَفْطِرْ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَدْ صَامَ فِي السَّفَرِ وَأَفْطَرَ

*** شقیق بن سلمہ بیان کرتے ہیں: ”حلوان“ یا شاید ”مدائن“ کے مقام پر ہمیں رمضان کا چاند نظر آ گیا، ہمارے

درمیان بعض صحابہ کرام بھی موجود تھے ان لوگوں کے امیر نے اعلان کیا کہ تم میں سے جو شخص روزہ رکھنا چاہتا ہو وہ روزہ رکھ لے اور

تم میں سے جو شخص روزہ نہ رکھنا چاہتا ہو وہ روزہ نہ رکھے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران روزہ رکھا بھی ہے اور روزہ ترک

بھی کیا ہے۔

4495 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَقْبَلْتُ

مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِنْ يَنْبَعٍ قَالَ: فَصَامَ عَلِيٌّ، وَكَانَ عَلِيٌّ رَاكِبًا، وَأَفْطَرْتُ لِأَنِّي كُنْتُ مَاشِيًا، حَتَّى قَدِمْنَا

الْمَدِينَةَ لَيْلًا فَمَرَرْنَا بِدَارِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ قَالَ: فَوَقَفَ عَلِيٌّ يَسْتَمِعُ قِرَاءَتَهُ، ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ: " إِنَّهُ

يَقْرَأُ وَهُوَ فِي سُورَةِ، أَوْ قَالَ: فِي سُورَةِ النَّحْلِ " قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أُخْبِرْتُ أَنَّ بَيْنَ يَنْبَعٍ وَبَيْنَ الْمَدِينَةِ أَرْبَعَةُ أَيَّامٍ

*** حسن بن سعد اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ ”ینبع“ کے مقام سے

آ رہا تھا۔ راوی کہتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ سواری پر سوار تھے میں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا کیونکہ میں پیدل

چل رہا تھا، یہاں تک کہ ہم رات کے وقت مدینہ منورہ پہنچ گئے، ہمارا گزرحضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس سے ہوا تو وہ تلاوت

کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں ٹھہر کر ان کی تلاوت سننے لگے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ سورہ نحل کی تلاوت کر رہے ہیں۔

امام عبد الرزاق بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئی ہے: ”بیع“ نامی جگہ اور ”مدینہ منورہ“ کے درمیان چار دن کی مسافت ہے۔

4496 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة أنها كانت تصوم في

السفر

* * * عروہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ وہ سفر کے دوران روزہ رکھا کرتی تھیں۔

4497 - اقوال تابعين: عبد الرزاق، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: "إنما كره الصوم للمسافر لأن القوم يقولون: ارحلوا له؛ فإنه صائم، واعلّفوا له دابته؛ فإنه صائم"

* * * مجاہد بیان کرتے ہیں: مسافر کے لیے روزہ رکھنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ یہ کہیں گے: اس کا پالان تیار کر دو، کیونکہ اس نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے جانور کو چارہ کھلا دو، کیونکہ اس نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔

4498 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عبد الكريم أبي أمية، عن طاوس، عن ابن عباس قال: "لا نعيب على من صام في السفر، ولا على من أفطر، قال الله: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (الفرقة: 185)"

* * * طاؤس نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ بیان نقل کیا ہے: ہم لوگ اس شخص پر اعتراض نہیں کرتے تھے جو سفر کے دوران روزہ رکھتا تھا اور نہ ہی اس شخص پر اعتراض کرتے تھے جو روزہ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے: ”اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔“

4499 - اقوال تابعين: عبد الرزاق، عن معمر، عن حميد، عن الأعرج قال: سمعت مجاهدًا يقول: خذ بإيسرهما عليك، لم يريد الله إلا اليسر

* * * مجاہد فرماتے ہیں: تم اس چیز کو حاصل کرو جو تمہارے لیے زیادہ آسان ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف آسانی چاہتا ہے۔

4500 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: صام بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، وأفطر بعضهم، فلم يعب بعضهم على بعض قال: أخذ هذا برخصة الله، وأدى هذا فريضة الله

* * * قتادہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب نے سفر کے دوران روزہ رکھا اور بعض نے روزہ نہیں رکھا، تو ان میں سے کسی نے دوسرے پر اعتراض نہیں کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں: ایک گروہ نے اللہ تعالیٰ کی رخصت کو حاصل کیا اور دوسرے گروہ نے اللہ تعالیٰ کے فرض کو ادا کر دیا۔

4501 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَصُومُ يَوْمًا

وَيُفْطِرُ يَوْمًا فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ

*** ہشام بیان کرتے ہیں: ابن سیرین حضر میں اور سفر میں ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔

4502 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أَسْرُدُ الصَّوْمَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ

*** ہشام بن عروہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: ایک شخص نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اُس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں باقاعدگی سے مسلسل روزے رکھتا ہوں اب میں سفر پر جانا چاہتا ہوں؟ تو نبی اکرم ﷺ نے اُس سے فرمایا: اگر تم چاہو تو روزہ رکھ لو اور اگر چاہو تو روزہ نہ رکھو۔

4503 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ حَمْرَةَ الْأَسْلَمِيَّ

سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ

*** ہشام بن عروہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت حمزہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ سے سفر کے دوران روزہ رکھنے کے بارے میں دریافت کیا تو نبی اکرم ﷺ نے اُن سے فرمایا: اگر تم چاہو تو روزہ رکھ لو اور اگر چاہو تو روزہ نہ رکھو۔

بَابُ: مَتَى يُفْطِرُ حِينَ يَخْرُجُ مُسَافِرًا؟

باب: جب آدمی سفر پر روانہ ہوگا، تو روزہ رکھنا کب ترک کرے گا؟

4504 - اقوال تابعین: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا خَرَجَ

الرَّجُلُ مُسَافِرًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ أَصْبَحَ صَائِمًا أَفْطَرَ إِنْ شَاءَ حِينَ يَخْرُجُ

*** امام شعبی بیان کرتے ہیں: جب آدمی رمضان کے مہینہ میں سفر پر روانہ ہو اور اُس نے روزہ رکھ لیا ہو تو اگر وہ چاہے تو جب وہ (اپنے شہر سے باہر) نکل جائے تو روزہ ختم کر دے۔

4505 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا يُفْطِرُ الصَّائِمُ الْيَوْمَ إِلَّا أَنْ

يَشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَإِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَفْطَرَ

*** حسن بصری فرماتے ہیں: روزہ دار شخص اُس دن کا روزہ ختم نہیں کرے گا البتہ اگر اُسے شدید پیاس ہو اور اپنی جان

4502-موطا مالك - كتاب الصيام' باب ما جاء في الصيام في السفر - حديث: 655' المعجم الاوسط للطبراني - باب

الالف' من اسه احمد - حديث: 2100' المعجم الكبير للطبراني - باب من اسه حمزة حمزة بن عمرو الاسنبي - عائشة

رضي الله عنها عن حمزة بن عمرو' حديث: 2896

کے حوالے سے اندیشہ ہو تو اُس دن کا روزہ ختم کر دے گا۔

4506 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يُفْطِرُ ذَلِكَ

الْيَوْمَ

* * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: وہ اُس دن کا روزہ ختم نہیں کرے گا۔

4507 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنِ إِسْحَاقَ، أَنَّ

عَمْرُو بْنَ شَرْحِبِيلَ خَرَجَ مُسَافِرًا نَهَارًا، فَلَمَّا جَاوَزَ الْفُرَاتَ أَمَرَ غُلَامَهُ فَسَقَاهُ فَأَفْطَرَ

* * ابواسحاق بیان کرتے ہیں: عمرو بن شرحبیل دن کے وقت سفر پر روانہ ہوئے جب انہوں نے دریائے فرات کو پار

کیا تو اپنے غلام کو ہدایت کی تو اُس نے انہیں مشروب پلایا یوں انہوں نے روزہ ختم کر دیا۔

بَابُ: هَلْ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الدَّابَّةِ إِلَى الْقِبْلَةِ وَالْيَ غَيْرَهَا، وَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟

باب: کیا فرض نماز سواری پر ادا کر سکتی ہے جب رُخ قبلہ کی طرف ہو یا قبلہ کی طرف نہ ہو

اور یہ نماز کیسے ادا کی جائے گی؟

4508 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ الْمَكْتُوبَةَ عَلَى

الدَّابَّةِ مُقْبِلًا إِلَى الْبَيْتِ، وَلَا مُدْبِرًا عَنْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا أَوْ خَائِفًا، فَلْيُصَلِّ عَلَى دَائِتِهِ مُقْبِلًا إِلَى الْبَيْتِ غَيْرَ

مُدْبِرٍ عَنْهُ

* * عطاء بیان کرتے ہیں: آدمی فرض نماز سواری پر ادا نہیں کر سکتا، خواہ اُس کا رُخ قبلہ کی طرف ہو یا قبلہ کی طرف نہ ہو

البتہ اگر وہ بیمار ہو یا خوف کے عالم میں ہو تو پھر وہ قبلہ کی طرف رُخ کر کے اپنی سواری پر رہتے ہوئے نماز ادا کر لے گا، وہ قبلہ سے

منہ نہیں پھیرے گا۔

4509 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْمٌ مُسَافِرُونَ، أَمَامَهُمْ مَطَرٌ،

يُصَلُّونَ عَلَى دَوَابِّهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءَ وَءَا، قُلْتُ: أَيْمَسْحُونَ بِالتُّرَابِ إِذَا لَمْ يَجِدُوا مَاءً؟ قَالَ: نَعَمْ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کچھ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں انہیں بارش کا سامنا

کرنا پڑتا ہے تو کیا وہ اپنی سواریوں پر نماز ادا کر لیں گے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! اگر وہ چاہیں۔ میں نے دریافت کیا: اگر

انہیں پانی نہیں ملتا تو کیا وہ مٹی کے ذریعہ تیمم کر لیں گے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

4510 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ وَاسْتَقْبَلَ

الْقِبْلَةَ

*** حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز کا ارادہ کرتے تھے تو اپنی سواری سے اترتے تھے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے فرض نماز ادا کرتے تھے۔

4511 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَطْيَبِ، وَالْأَرْضُ فَضْفَاضٌ، صَلَّى بِنَا عَلِيٍّ حِمَارَهُ صَلَاةَ الْعَصْرِ، يَوْمَءُ بَرَأْسِهِ إِيْمَاءً، وَجَعَلَ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرَّكُوعِ

*** انس بن سیرین بیان کرتے ہیں: ایک بارش والے دن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا یہاں تک کہ ہم کچھڑ میں آگئے زمین میں پانی بھرا ہوا تھا تو انہوں نے اپنے گدھے پر سوار رہتے ہوئے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی وہ اپنے سر کے ذریعہ اشارہ کر رہے تھے اور سجدہ میں رکوع کی بہ نسبت سر کو زیادہ جھکاتے تھے۔

4512 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّهُ كَانَ يَسِيرُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ قَالَ: وَحَشِينَا أَنْ تَفُوتَنَا الصَّلَاةَ فَاسْتَخَرْنَا اللَّهَ وَاسْتَقْبَلْنَا الْقِبْلَةَ، فَأَوْمَأْنَا عَلَى دَوَابِّنَا إِيْمَاءً

*** عاصم احوال بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: ایک مرتبہ وہ کچھڑ میں سفر کر رہے تھے اسی دوران فرض نماز کا وقت ہو گیا وہ اُس کچھڑ سے باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ راوی کہتے ہیں: ہمیں یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ہماری نماز رہ نہ جائے تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا، قبلہ کی طرف رخ کیا اور اپنی سواریوں پر سوار رہتے ہوئے اشارہ کے ساتھ نماز ادا کر لی۔

4513 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَبَا الشَّعْثَاءِ يَوْمَءُ فِي الصَّلَاةِ فِي مَاءٍ وَطِينٍ *** عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں: مجھے اُس شخص نے یہ بات بتائی ہے جس نے ابو شعثاء کو کچھڑ میں اشارہ کے ذریعہ نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

4514 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يُصَلُّونَ عَلَى ظُهُورِ دَوَابِّهِمْ حَيْثُ تَوَجَّهُوا غَيْرَ الْفَرِيضَةِ وَالْوَتْرِ *** ابراہیم نخی فرماتے ہیں: پہلے لوگ اپنی سواریوں پر موجود رہتے ہوئے نماز ادا کر لیتے تھے خواہ اُن کا رخ کسی بھی سمت میں ہو اور نماز فرض یا وتر نہ ہو۔

4515 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ إِنْسَانٌ فِي مَاءٍ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ، فَلْيُصَلِّ وَلْيَوْمِءُ بِرَأْسِهِ إِيْمَاءً وَلَا يَسْجُدْ *** عطاء فرماتے ہیں: جب آدمی پانی میں موجود ہو اور وہ اُس میں سے نکل نہ سکتا ہو تو اُسے (اپنی سواری پر سوار رہ کر)

نماز ادا کر لینی چاہیے اور اپنے سر کے ذریعہ اشارہ کے ساتھ ادا کرنی چاہیے سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔

بَابُ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّابَّةِ

باب: سواری پر نفل نماز ادا کرنا

4516 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوبَةَ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

* * * حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ اپنی سواری پر موجود رہتے ہوئے نفل نماز ادا کر لیتے تھے خواہ اُس کا رخ کسی بھی سمت میں ہو، لیکن جب آپ نے فرض نماز ادا کرنا ہوتی تھی تو آپ اپنی سواری سے نیچے اتر کر قبلہ کی طرف رخ کر کے (پھر فرض نماز ادا کرتے تھے)۔

4517 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ فِي كُلِّ جِهَةٍ

* * * عبد اللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم ﷺ کو اپنی سواری کی پشت پر موجود رہ کر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے خواہ اُس کا رخ کسی بھی سمت میں ہو۔

4518 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ. قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا: كَيْفَ كَانَ الْوُتْرُ؟ قَالَ: كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَرُبَّمَا نَزَلَ فَأَوْتَرَ بِالْأَرْضِ

* * * نافع، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: وہ اپنی سواری پر رہتے ہوئے نفل نماز ادا کر لیتے تھے خواہ سواری کا رخ کسی بھی سمت میں ہو۔ اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ نبی اکرم ﷺ بھی ایسا کر لیتے تھے۔

راوی کہتے ہیں: میں نے نافع سے دریافت کیا: وتر کیسے ادا کیے جائیں گے؟ انہوں نے جواب دیا: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی سواری پر وتر ادا کر لیتے تھے، بعض اوقات وہ سواری سے نیچے اتر کر زمین پر وتر ادا کرتے تھے۔

4519 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَسَّارٍ، عَنِ ابْنِ

4519- موطا مالک - کتاب قصر الصلاة في السفر - باب صلاة النافلة في السفر - حديث: 356 سنن ابی داود - کتاب الصلاة - تفريع صلاة السفر - باب التطوع على الراحلة والوتر - حديث: 1050 السنن للنسائي - کتاب المساجد الصلاة على الحمار - حديث: 736 صحيح ابن حبان - باب الإمامة والجماعة - باب الحديث في الصلاة - ذكر الإباحة للمراء ان يصلي على راحلته - حديث: 2552 مستخرج ابی عوانة - باب في الصلاة بين الاذان والإقامة في صلاة المغرب وغيره - بيان إباحة الوتر في السفر على الراحلة حيث ما توجهت به - حديث: 1891 مصنف ابن ابی شعبة - (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارِهِ تَطَوُّعًا، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ
 ** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم ﷺ کو اپنے گدھے پر موجود رہ کر نوافل ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ کا رخ اُس وقت خیبر کی سمت تھا (یعنی قبلہ کی طرف نہیں تھا)۔

4520 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَيَجْعَلُ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ
 ** حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ اپنی سواری پر موجود رہ کر نوافل ادا کر لیتے تھے خواہ اُس کا رخ کسی بھی سمت میں ہو، آپ سجدہ میں رکوع کی بہ نسبت سر کو زیادہ جھکا لیتے تھے۔

4521 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ جِهَةٍ، وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السُّجُودَ مِنَ الرَّكْعَةِ، يَوْمِيءَ أَيَّمَاءَ

** ابو زبیر بیان کرتے ہیں: حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم ﷺ کو اپنی سواری پر موجود رہ کر نوافل ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے، خواہ اُس کا رخ کسی بھی سمت میں ہو، البتہ آپ اشارہ کے ذریعہ نماز ادا کرتے ہوئے رکوع کی بہ نسبت سجدہ میں سر کو زیادہ جھکاتے تھے۔

4522 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَةٍ، فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَيَوْمِيءَ بِرَأْسِهِ أَيَّمَاءَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ، فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ: مَا فَعَلْتَ فِي حَاجَةٍ كَذَا وَكَذَا، إِنِّي كُنْتُ أَصَلِّي

** حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے مجھے کسی کام کے سلسلہ میں بھیجا، جب میں آیا تو نبی اکرم ﷺ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر رہے تھے، آپ اپنی سواری پر موجود رہ کر اشارہ کے ذریعہ نماز ادا کر رہے تھے اور سجدہ میں رکوع کی بہ نسبت سر کو زیادہ جھکا لیتے تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا، تو آپ نے مجھے جواب نہیں دیا، جب آپ نے نماز مکمل کر لی تو آپ نے ارشاد فرمایا: فلاں فلاں کام کا کیا بنا؟ میں نماز ادا کر رہا تھا (اس لیے میں نے تمہارے سلام کا جواب نہیں دیا)۔

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ سے) کتاب صلاة التطوع والإمامة و ابواب متفرقة من كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به -
 حدیث: 8375 السنن الكبرى للنسائي - كتاب المساجد الصلاة على الحمار - حدیث: 804 مسند احمد بن حنبل
 مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - حدیث: 4379 مسند الطيالسي - احاديث النساء - وما اسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رحمه الله عن - وسعيد بن يسار عن ابن عمر حدیث: 1971 مسند ابى يعلى الموصلي - اول مسند ابن عباس
 حدیث: 2575 المعجم الكبير للظهيراني - من اسنه عبد الله وما اسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - سعيد بن يسار حدیث: 13051

(یا)۔

4523 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ فِي سَفَرٍ، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ إِيْمَاءً بِرَأْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ عَلَى شَيْءٍ

*** یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو سفر کے دوران دیکھا کہ وہ اپنے گدھے پر موجود رہ کر نماز ادا کر رہے تھے اور ان کا رخ قبلہ کی طرف نہیں تھا وہ اشارہ کے ذریعہ رکوع اور سجدہ کرتے تھے اور اپنی پیشانی کو کسی چیز پر نہیں رکھتے تھے۔

4524 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ تَطَوُّعًا وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى الشَّامِ

*** یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اپنی سواری پر نوافل ادا کرتے ہوئے دیکھا، ان کا رخ اُس وقت شام کی طرف تھا۔

4525 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ لَا أَكْذِبُ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الدَّابَّةِ فِي السَّفَرِ قَبْلَ وَجْهِهِ

*** عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں: مجھے اُس شخص نے یہ بات بتائی ہے جسے میں جھوٹا قرار نہیں دیتا، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر کے دوران سواری پر نماز ادا کر لیتے تھے خواہ اُس کا رخ کسی بھی سمت میں ہو۔

4526 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ فِي كُلِّ جِهَةٍ

*** طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: وہ اپنی سواری پر نماز ادا کر لیتے تھے خواہ اُس کا رخ کسی بھی سمت میں ہو۔

4527 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ يُصَلِّي الْمَرْءُ عَلَى دَابَّتِهِ مُدْبِرًا إِلَى الشَّامِ وَالْيَمَنِ. قَالَ: قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ فِي سَفَرٍ لِلدُّنْيَا؟ قَالَ: نَعَمْ، يَسْتَفْتِحُ فَيَكْبِرُ ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَسْجُدُ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ

*** عطاء بیان کرتے ہیں: آدمی اپنی سواری پر نماز ادا کر لے گا خواہ اُس کی پشت شام یا یمن کی طرف ہو۔ میں نے دریافت کیا: خواہ یہ سفر دنیاوی مقصد کے لیے ہو؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! آدمی نماز کا آغاز کرتے ہوئے تکبیر کہے گا پھر تلاوت کرے گا پھر رکوع کرے گا پھر سجدہ کرے گا اور پھر تشهد پڑھے گا۔

4528 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: "يُصَلِّي عَلَى الدَّوَابِّ كُلِّهَا:

عَلَى الْبَعِيرِ، وَالْفَرَسِ، وَالْبُغْلَةِ، وَالْحِمَارِ " قَالَ: قُلْتُ: وَعَلَى الْحِمَارِ؟ قَالَ: نَعَمْ
 *** ابن جریج نے عطاء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ آدمی ہر قسم کی سواری پر نماز ادا کر سکتا ہے اونٹ پر، گھوڑے پر، خچر پر،

گدھے پر۔ ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: کیا گدھے پر بھی؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

4529 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: إِذَا رَكَعْتَ وَضَعْتَ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ ثُمَّ رَكَعْتَ فَخَفَضْتَ رَأْسَكَ، ثُمَّ تَجَعَلُ السَّجْدَةَ أَخْفَضَ مِنَ الرَّكَعَةِ، قُلْتُ: كَرُّ كُوعِ الْمَرِيضِ وَسُجُودِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ

*** ابن جریج نے عطاء کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: (وہ فرماتے ہیں:) جب تم رکوع کرو گے تو اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھو گے اور جب تم رکوع کرو گے تو اپنے سر کو کچھ جھکاؤ گے پھر تم سجدہ میں رکوع کی بہ نسبت اپنے سر کو زیادہ جھکاؤ گے۔ میں نے دریافت کیا: کیا یہ بیمار شخص کے رکوع اور سجدہ کی طرح ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

4530 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَجَاءَكُمْ بِذَلِكَ ثَبَّتْ بِالصَّلَاةِ عَلَى الدَّابَّةِ مُدْبِرًا عَنِ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ) (البقرة: 115). قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: ذَكَرَ ذَلِكَ لِيَحْيَى بْنُ جَعْدَةَ فَكَأَدَ يُنْكِرُ، ثُمَّ انْطَلَقَ فَإِذَا هُوَ مُسْتَفَاضٌ بِالْمَدِينَةِ، فَرَجَعَ إِلَيْنَا وَهُوَ يَعْرِفُ ذَلِكَ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا آپ کے پاس اس بارے میں کوئی مستند روایت آئی ہے جو قبلہ کی طرف رخ کیے بغیر سواری پر نماز ادا کرنے کے بارے میں ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! پھر انہوں نے اس موقع پر یہ آیت تلاوت کی:

”مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں تم جس بھی سمت میں رخ کرو گے اللہ تعالیٰ کی ذات اسی طرف ہوگی۔“

ابن جریج بیان کرتے ہیں: اس بات کا تذکرہ یحییٰ بن جعدہ کے سامنے کیا گیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا پھر وہ سفر پر روانہ ہوئے تو ان کا رخ مدینہ منورہ کی طرف تھا جب وہ ہمارے پاس واپس آئے تو وہ اس مسئلہ کو جان چکے تھے۔

4531 - آثار صحابہ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ عَلَى رَأْسِهِ تَطَوُّعًا حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سفر کے دوران اپنی سواری پر نفل نماز ادا کر لیتے تھے خواہ سواری کا رخ کسی بھی سمت میں ہو۔

بَابُ الْوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ

باب: سواری پر وتر ادا کرنا

4532 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوْتِرُ وَأَنَا مُدْبِرٌ عَنِ الْقِبْلَةِ عَلَى

نَافِعٌ قَالَ: نَعَمْ

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا میں اپنی سواری پر رہ کر وتر ادا کر سکتا ہوں جبکہ میرا
سنا تہی کی طرف نہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

4533 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُوتِرُ عَلِيَّ

رَاحِلَتِهِ

* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی سواری پر وتر ادا کر لیتے تھے۔

4534 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُوتِرُ عَلِيَّ رَاحِلَتِهِ،

وَرُبَّمَا أَوْتَرَ بِالْأَرْضِ

* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی سواری پر وتر ادا کر لیتے تھے، بعض اوقات وہ وتر زمین پر ادا
کرتے تھے۔

4535 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَأَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُوتِرُ عَلِيَّ

رَاحِلَتِهِ

* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی سواری پر وتر ادا کر لیتے تھے۔

4536 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: تَخَلَّفَ رَجُلٌ وَنَحْنُ فِي

السَّفَرِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: مَا خَلَّفَكَ؟ قَالَ: أَوْتَرْتُ قَالَ: قَدْ أَوْتَرَ عَلِيٌّ بِعَيْرٍ مَنْ كَانَ خَيْرًا مِنْكَ، رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

* * نافع بیان کرتے ہیں: ایک شخص (قافلہ والوں سے) پیچھے رہ گیا، ہم لوگ اُس وقت سفر کر رہے تھے (جب وہ شخص
آ کر ملا) تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اُس سے دریافت کیا: تم کہاں پیچھے رہ گئے تھے؟ اُس نے جواب دیا: میں (زمین پر اتر
کر) وتر ادا کر رہا تھا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: وہ ہستی جو تم سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اللہ کے رسول انہوں نے اونٹ پر
وتر ادا کیے ہیں۔

4537 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُقَاتِلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلِيَّ ذَاتِيهِ

* * زہری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر وتر ادا کر لیتے تھے۔

4538 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي تَالِبٍ يُوتِرُ عَلِيَّ

ذَاتِيهِ

* * ثوبان بن ابوفاختہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی سواری پر وتر ادا کر لیتے تھے۔

4539 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُوتِرُ بِالْأَرْضِ

*** قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ زین پر وتر ادا کرتے تھے۔

4540 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ إِذَا كَانَ السَّحَرُ فَيَصَلِّي الْوَتْرَ

*** قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی سواری پر وتر ادا کر لیتے تھے جب سحری کا وقت ہوتا تھا وہ اُس وقت وتر ادا کرتے تھے۔

4541 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَرَادَ يُوتِرُ نَزَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَأَوْتَرَ بِالْأَرْضِ

*** سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا جب وتر ادا کرنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اپنی سواری سے نیچے اتر کر زمین پر وتر ادا کرتے تھے۔

بَابُ: هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ يَسُوقُ دَابَّتَهُ؟ وَقَصْرِ الصَّلَاةِ

باب: کیا کوئی شخص جب اپنے جانور کو ہانک کر لے جا رہا ہو تو وہ نماز ادا کر سکتا ہے؟ اور نماز کو قصر کرنا

4542 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُوتِرُ الرَّجُلُ وَهُوَ جَالِسٌ؟ قَالَ: نَعَمْ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا کوئی شخص بیٹھ کر وتر ادا کر سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

4543 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ يَسُوقُ دَابَّتَهُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَائِفًا

قَالَ مَعْمَرٌ: وَحَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يُصَلِّي الْمَرْءُ كَذَلِكَ فَإِذَا أَرَادَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَوْلُ الْحَسَنِ أَعْجَبُ إِلَيَّ

*** متمر بیان کرتے ہیں: میں نے قتادہ سے دریافت کیا: کیا کوئی شخص اُس وقت نماز ادا کر سکتا ہے جب وہ اپنے جانور کو لے کے چل رہا ہو اور اُس کا رخ قبلہ کی طرف نہ ہو؟ تو قتادہ نے جواب دیا: جی نہیں! البتہ اگر وہ خوف کے عالم میں ہو تو حکم مختلف ہوگا۔

معمربیان کرتے ہیں: مجھے اُس شخص نے یہ بات بتائی ہے جس نے حسن بصری کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی اس حالت میں نماز ادا کر لے گا جب وہ رکوع یا سجدہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو قبلہ کی طرف رخ کر لے گا۔ معمربیان کرتے ہیں: حسن بصری کا قول میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔

4544 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: قَوْمٌ فِي سَفِينَةٍ يَقْصُرُونَ؟

قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ يَخَافُوا الْغَرَقَ قَالَ: قُلْتُ: فَمَنْ كَانَ فِيهَا يَعْمَلُ، أَيْقُصِرُ؟ قَالَ: نَعَمْ

* * ابن جریج نے عطاء کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: میں نے اُن سے دریافت کیا: کچھ لوگ کشتی میں سفر کرتے ہیں کیا وہ نماز کو قصر کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! البتہ اگر انہیں ڈوب جانے کا اندیشہ ہو (تو حکم مختلف ہے)۔ ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: اُن میں سے جو لوگ کشتی کو چلا رہے ہوتے ہیں وہ نماز کو قصر کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

4545 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثْتُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ قَصَرَ فِي سَفِينَةٍ

فَصَلَّى فِيهَا جَالِسًا، وَصَلَّى مِنْ مَعَهُ جُلُوسًا

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں مجھے یہ بات بیان گئی ہے کہ وہ کشتی میں سفر کرتے ہوئے نماز کو قصر کرتے تھے اور بیٹھ کر نماز ادا کرتے تھے اُن کے ساتھ موجود افراد بھی بیٹھ کر نماز ادا کرتے تھے۔

4546 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ سِيرِينَ أَخْبَرَهُ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَنَسُ بِنُ

مَالِكٍ فِي السَّفِينَةِ قُعُودًا عَلَى بَسَاطٍ، وَقَصَرَ الصَّلَاةَ

* * انس بن سیرین بیان کرتے ہیں: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ہمیں کشتی میں ایک چٹائی پر بیٹھ کر نماز پڑھائی انہوں نے قصر نماز ادا کی۔

4547 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ قَصَرَ فِي السَّفِينَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ

وَاسِطَ أَتَمَّ الصَّلَاةَ

* * ایوب بیان کرتے ہیں: ابن سیرین نے کشتی میں قصر نماز ادا کی جب وہ ”واسط“ پہنچے تو انہوں نے وہاں مکمل نماز ادا کی۔

4548 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَصَرَ فِي السَّفِينَةِ

* * قتادہ بیان کرتے ہیں: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کشتی میں قصر نماز ادا کی تھی۔

بَابُ الصَّلَاةِ فِي السَّفِينَةِ

باب: کشتی میں نماز ادا کرنا

4549 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُصَلُّونَ فِي السَّفِينَةِ قِيَامًا، إِلَّا أَنْ

يَخَافُوا أَنْ يَغْرُقُوا فَيَصَلُّونَ جُلُوسًا يَتَّبِعُونَ الْقِبْلَةَ حَيْثُمَا زَالَتْ

*** ابن جریج نے عطاء کا یہ قول نقل کیا ہے: لوگ کشتی میں کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے البتہ اگر انہیں ڈوب جانے کا اندیشہ ہو تو حکم مختلف ہے اس صورت میں وہ بیٹھ کر نماز ادا کریں گے وہ کشتی جس بھی سمت میں چل رہی ہو لوگ قبلہ کی طرف رخ کریں گے۔

4550 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ قُرْبَى سَاحِلٍ، أَنْزَلَ

فَأَصَلَّى فِيهِ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ تَحْسِبْ أَصْحَابَكَ فَنَعَمْ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر ساحل میرے قریب ہو تو کیا میں کشتی سے اتر کر ساحل پر نماز ادا کروں؟ انہوں نے جواب دیا: اگر تمہاری وجہ سے تمہارے ساتھیوں کو زکنا نہیں پڑتا تو تم ایسا ہی کرو۔

4551 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: صَلَّى فِي السَّفِينَةِ، وَلَا تَشُقُّ عَلَى أَصْحَابِكَ

*** قتادہ فرماتے ہیں: تم کشتی میں نماز ادا کر لو اور اپنے ساتھیوں کو مشقت کا شکار نہ کرو۔

4552 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ قَائِمًا،

فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا تَتَّبِعُ الْقِبْلَةَ حَيْثُمَا مَالَتْ

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: تم کشتی میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرو اگر تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے تو بیٹھ کر ادا کرو لیکن کشتی کا رخ کسی بھی سمت میں ہو تم قبلہ کی طرف رخ کرو۔

4553 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ إِنْ شِئْتَ قَائِمًا وَإِنْ

شِئْتَ قَاعِدًا، تَسْجُدُ عَلَى قَرَارٍ مِنْهَا أَوْ عَلَى بَسَاطٍ

*** قتادہ فرماتے ہیں: تم کشتی میں نماز ادا کرو اگر تم چاہو تو کھڑے ہو کر ادا کرو اور اگر چاہو تو بیٹھ کر ادا کرو خواہ تم کشتی کے فرش پر نماز ادا کرو خواہ کسی چٹائی پر ادا کرو۔

4554 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى

بِأَصْحَابِهِ فِي السَّفِينَةِ قَاعِدًا عَلَى بَسَاطٍ

*** قتادہ اور عاصم بن سلیمان بیان کرتے ہیں: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کشتی میں ایک چٹائی پر بیٹھ کر اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی۔

4555 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنَّا نَصَلِّي فِي السَّفِينَةِ

قُعُودًا

*** مجاہد بیان کرتے ہیں: ہم لوگ کشتی میں بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں۔

4556 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ مِثْلُ ذَلِكَ

*** اسی کی مانند روایت انس بن سیرین سے منقول ہے۔

4557 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عْتَبَةَ قَالَ: كُنْتُ

مَعَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَرَاهُ ذَكَرَ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي سَفِينَةٍ، فَأَمَّا الَّذِي آمَنَّا قَائِمًا، وَلَوْ شِئْنَا أَنْ نَخْرُجَ لَخَرَجْنَا

*** عبد اللہ بن ابوعتبہ بیان کرتے ہیں: میں حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت ابوسعید خدری، حضرت ابوالدرداء، ابن اللہ

(راوی کتبے ہیں: میرا خیال ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر کیا) میں ان حضرات کے ساتھ ایک کشتی میں موجود تھا تو ان میں سے جن صاحب نے بھی ہماری امامت کی انہوں نے کھڑے ہو کر ہماری امامت کی (صورت حال ایسی تھی) اگر ہم چاہتے تو کشتی سے باہر نکل کر (سائل پر بھی نماز ادا کر سکتے تھے)۔

4558 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يُصَلِّي فِي

السَّفِينَةِ قَائِمًا

*** امام شعبی فرماتے ہیں: آدمی کشتی میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرے گا۔

4559 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ يَحْمِلُ

مَعَهُ لَبَنَةً فِي السَّفِينَةِ لِيَسْجُدَ عَلَيْهَا

*** ابن سیرین بیان کرتے ہیں: مسروق کشتی کے سفر میں اپنے ساتھ اینٹ لے کر جاتے تھے تاکہ اس پر سجدہ کریں۔

4560 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ تَطَوُّعًا، وَيُنْحَرِفُ إِلَى

الْقِبْلَةِ إِذَا انْحَرَفَتْ

*** قتادہ فرماتے ہیں: آدمی کشتی میں نوافل ادا کر سکتا ہے جب کشتی مڑ جائے گی تو وہ اپنا رخ موڑ کر قبلہ کی طرف رکھے

کا۔

4561 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنَ الْبَحْرِ عُرْيَانًا

قَالَ: يُصَلِّي قَاعِدًا

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو سمندر سے برہنہ نکلتا ہے؟ تو

انہوں نے فرمایا: وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے گا۔

4562 - اقوال تابعین: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ آخِرُونَ: إِنْ آمَهُمْ أَحَدُهُمْ فَلْيَقُمْ إِمَامَهُمْ فِي الصَّلَاةِ فِي

الصَّفِّ وَسَطِهِ، وَيَجْعَلُوهُ صَفًّا وَاحِدًا إِنْ شَاءَ وَإِقِيَامًا وَإِنْ شَاءَ وَأَقْعُودًا، وَلْيُغَضِّضْ بَعْضُهُمْ عَنْ بَعْضِ الْبَصَرِ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: دیگر حضرات نے یہ کہا ہے کہ اگر ایسے برہنہ لوگوں میں سے کوئی ایک اُن کی امامت کرتا ہے تو اُن لوگوں کا امام نماز کے دوران صف کے درمیان میں کھڑا ہوگا اور وہ لوگ ایک صف بنائیں گے اگر وہ چاہیں تو کھڑے ہو کر نماز ادا کریں اور اگر چاہیں تو بیٹھ کر نماز ادا کریں، لیکن وہ ایک دوسرے سے نگاہیں جھکا کے رکھیں گے۔

بَابُ صَلَاةِ الْعُرْيَانِ

باب: برہنہ شخص کا نماز ادا کرنا

4563 - اَقْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنَ الْبَحْرِ عُرْيَانًا صَلَّى

جَالِسًا

*** قنادہ فرماتے ہیں: جب آدمی سمندر سے برہنہ حالت میں باہر آئے تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے گا۔

4564 - اَقْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا خَرَجَ نَاسٌ مِنَ الْبَحْرِ عُرَاةً فَأَمَّهُمْ أَحَدُهُمْ صَلَّى قُعُودًا، وَكَانَ إِمَامَهُمْ مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ، وَيُؤْمِنُونَ إِيْمَاءً. قَالَ مَعْمَرٌ: وَإِنْ كَانَ عَلَى أَحَدِهِمْ ثَوْبٌ أَمَّهُمْ قَائِمًا، وَيَقُومُ فِي الصَّفِّ وَهُمْ خَلْفَهُ قُعُودًا صَفًّا وَاحِدًا

*** قنادہ فرماتے ہیں: جب کچھ لوگ سمندر سے برہنہ حالت میں باہر نکلیں اور اُن میں سے کوئی ایک شخص اُن کی امامت کریں تو وہ سب بیٹھ کر نماز ادا کریں گے اُن لوگوں کا امام اُن کے ساتھ صف میں موجود ہوگا وہ اشارہ کے ساتھ نماز ادا کریں گے۔ معمر بیان کرتے ہیں: اگر اُن میں سے کسی ایک شخص کے جسم پر کپڑے موجود ہوں تو وہ کھڑا ہو کر اُن کی امامت کرے گا وہ صف کے درمیان کھڑا ہوگا اور دیگر لوگ اُس کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی صف میں نماز ادا کریں گے۔

4565 - آثَارِ صَحَابِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحَصِينِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ: الَّذِي يُصَلِّي فِي السَّفِينَةِ، وَالَّذِي يُصَلِّي عُرْيَانًا، يُصَلِّي جَالِسًا

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جو شخص کشتی میں نماز ادا کرتا ہے یا جو شخص برہنہ نماز ادا کرتا ہے وہ بیٹھ کر

نماز ادا کرے گا۔

4566 - آثَارِ صَحَابِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ

قَالَ: سُئِلَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ صَلَاةِ الْعُرْيَانِ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ حَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ صَلَّى جَالِسًا، وَإِنْ كَانَ حَيْثُ لَا يَرَاهُ النَّاسُ صَلَّى قَائِمًا

*** ميمون بن مهران بیان کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ سے برہنہ شخص کے نماز پڑھنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو

انہوں نے فرمایا: اگر تو وہ کسی ایسی جگہ پر موجود ہو جہاں لوگ اُسے دیکھ سکتے ہوں تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے گا اور اگر وہ کسی ایسی جگہ ہو جہاں اُسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تو وہ کھڑا ہو کر نماز ادا کرے گا۔

بَابُ وَجُوبِ الْوِتْرِ، هَلْ شَيْءٌ مِنَ التَّطَوُّعِ وَاجِبٌ

باب: وتر کا واجب ہونا، کیا نوافل میں سے کوئی چیز واجب ہے؟

4567 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبُ الْوِتْرِ وَالرَّكْعَتَانِ أَمَامَ

الصُّبْحِ، أَوْ شَيْءٌ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ أَوْ بَعْدَهَا؟ قَالَ: لَا

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا وتر کی نماز اور فجر کی نماز سے پہلے کی دو رکعت (سنتیں) یا (کسی بھی) فرض نماز سے پہلے یا بعد میں ادا کی جانے والی، کوئی بھی نماز واجب ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

4568 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، وَصَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ،

وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوِتْرُ حَقٌّ، وَلَيْسَ كَالْمَغْرِبِ

* * حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”وتر لازم ہیں لیکن یہ مغرب کی طرح نہیں ہیں۔“

4569 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ

قَالَ: الْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

* * حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: وتر لازمی نہیں ہیں جس طرح فرض نماز لازم ہوتی ہے بلکہ یہ سنت ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہے۔

4570 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ الْمُسَيْبِ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ:

”أَوْتَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ تَرَكَتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، وَصَلِّ صَلَاةَ الضُّحَى وَإِنْ تَرَكَتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، وَصَلِّ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَإِنْ تَرَكَتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، وَضَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ تَرَكَتَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، هَذَا كُلُّهُ قَدْ عَرَفْنَا مَا خَلَا الْوِتْرَ قَالَ: بَلَّغْنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ وَتَرُّ بِحُبِّ الْوِتْرِ

* * قتادہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے سعید بن مسیب سے وتر کے بارے میں دریافت کیا تو سعید نے جواب دیا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر ادا کیے ہیں اگر تم انہیں ترک کر دیتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا تم چاشت کی نماز ادا کرو اگر تم اسے ترک کر دیتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا تم ظہر سے پہلے دو رکعت ادا کرو اور اس کے بعد دو رکعت ادا کرو اگر تم ترک کر دیتے ہو تو تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز ادا کی (یا قربانی کی) کیا تو اگر تم اسے ترک کر دیتے ہو تو تم پر کوئی

گناہ نہیں ہوگا۔

راوی کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا: اے ابو محمد! ان سب چیزوں سے تو ہم واقف ہیں، صرف وتر کا معاملہ مختلف ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”بے شک اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔“

4571 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْتِرُوا يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، فَإِنَّ اللَّهَ وَتَرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ: مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَتْ لَكَ وَلَا صَحَابِكَ

*** ابو عبیدہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”اے اہل قرآن! تم وتر ادا کرو! کیونکہ اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔“

ایک دیہاتی نے دریافت کیا: اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: یہ تمہارے لیے یا تمہارے ساتھیوں کے لیے نہیں ہے۔

4572 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ بِالْوِتْرِ وَالْأَضَاحِيِّ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيَّ

*** حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”مجھے وتر ادا کرنے اور قربانی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اس بات کا مجھے پابند نہیں کیا گیا۔“

4573 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَلَكُمْ تَطَوُّعٌ: الضَّحِيَّةُ، وَصَلَاةُ الضُّحَى، وَالْوِتْرُ"

*** عکرمہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”تین چیزیں ایسی ہیں جو مجھ پر فرض ہیں اور تمہارے لیے نفل ہیں: قربانی کرنا، چاشت کی نماز ادا کرنا اور وتر ادا کرنا۔“

4574 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَأَلَ أَبِي بَنْ كَعْبٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ

*** عکرمہ بیان کرتے ہیں: حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ سے وتر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: اہل قرآن پر وتر ادا کرنا لازم ہے۔

4575 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ الْجَمَحِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنِ الْمُخَدَّجِيِّ قَالَ: قِيلَ لِعِبَادَةِ بْنِ

الصَّامِتِ، أَوْ قُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ، فَقَالَ عُبَادَةُ: كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ، فَمَنْ آتَى بِهِنَّ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتَحْقَارًا بِحَقِّهِنَّ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهِنَّ لَيْسَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ، إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ

* * * محدثی بیان کرتے ہیں: حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) میں نے ان سے دریافت کیا: حضرت ابو محمد یہ فرماتے ہیں کہ وتر واجب ہے؟ تو حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضرت ابو محمد نے غلط کہا ہے کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے:

”پانچ نمازیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لازم قرار دیا ہے جو انہیں ادا کرتا ہے اور ان کے حق کو حقیر سمجھتے ہوئے ان میں سے کسی ایک چیز میں کوئی کمی نہیں کرتا، تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات لازم ہے کہ اُسے جنت میں داخل کر دے اور جو شخص انہیں ادا نہیں کرتا، تو اُس شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی عہد نہیں ہے، اگر وہ چاہے گا تو اُس کی مغفرت کر دے گا اور اگر چاہے گا تو اُسے عذاب دے گا۔“

4576 - اَقْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْرَاهِيمَ: فِي ابْنَةِ سِتِّ سِنِينَ أَوْ خَمْسٍ: أَتَأْمُرُهَا بِالْوِتْرِ؟ قَالَ: رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، كَانَ يُقَالُ: الْوِتْرُ عَلَى أَهْلِ الْقُرْآنِ * * * منصور بیان کرتے ہیں: میں نے ابراہیم نخعی سے چھ یا پانچ سال کی بچی کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا آپ اُسے وتر ادا کرنے کا حکم دیں گے؟ انہوں نے جواب دیا: عشاء کے بعد دو رکعت ادا کی جاتی ہیں یہ بات ہی جاتی ہے کہ وتر اہل قرآن پر واجب ہیں۔

4577 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَارِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: قَالَ حَذِيفَةُ بْنُ الْيَمَانِ: لَا وَتْرَ إِلَّا عَلَى مَنْ تَلَا الْقُرْآنَ * * * حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: وتر صرف اُس شخص پر لازم ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔

4578 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَادِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُنْجِبٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا أَحْسَبُ أَنِّي تَرَكَتُ الْوِتْرَ لَيْلَةً، وَلِي حُمْرُ النَّعَمِ * * * حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں کسی رات وتر ترک کر دوں خواہ اس کے بدلے مجھے سرخ اونٹ مل رہے ہوں۔

4579 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ اللَّهُ وَتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا

** حسن بصری روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”بے شک اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے جو شخص وتر ادا نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

4580 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: كان أبو هريرة يقول: إن

اللَّهُ وترٌ يحبُّ الوترَ

قال أيوب، أو غيره: فكان ابن سيرين يستحبُّ الوترَ من كلِّ شيءٍ، حتى إن كان ليأكلُ وترًا

** ابن سيرين بیان کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: بے شک اللہ تعالیٰ وتر ہے اور وہ وتر کو پسند کرتا

ہے۔

ایوب اور دیگر حضرات نے یہ روایت نقل کی ہے: ابن سيرين ہر چیز کو وتر (یعنی طاق تعداد) کو پسند کرتے تھے یہاں تک کہ

وہ کھانے کی چیزیں بھی طاق تعداد میں کھاتے تھے۔

4581 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال حدثني عبد الكريم: أن عليًا كان يحقق الوترَ

** ابن جریج بیان کرتے ہیں: عبد الکرم نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وتر کو لازم قرار دیتے تھے۔

4582 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن المثنى قال: أخبرني عمرو بن شعيب قال: خرج النبي صلى الله

عليه وسلم على أصحابه، فقال: إن الله زادكم صلاةً إلى صلاتكم، فحافظوا عليها، وهي الوترُ وذكره ابن

جريج، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب

** عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ اپنے اصحاب کے پاس تشریف لائے آپ نے ارشاد فرمایا:

”بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری نمازوں کے ساتھ ایک مزید نماز تمہیں عطا کی ہے تم اسے باقاعدگی سے ادا کرو اور وہ

وتر کی نماز ہے۔“

ابن جریج نے بھی یہ روایت اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہے۔

4583 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن مجاهد: واجب الوتر

4579- صحیح ابن خزیمہ - جباع ابواب ذکر الوتر وما فیہ من السنن باب الترغیب فی الوتر واستحبابہ إذ اللہ یحبہ -

حدیث: 999 سنن الدارمی - کتاب الصلاة باب الحث علی الوتر - حدیث: 1594 سنن ابن ماجہ - کتاب إقامة الصلاة

باب ما جاء فی الوتر - حدیث: 1166 مصنف ابن ابی شیبہ - کتاب صلاة التطوع والإمامة وابواب متفرقة من قال:

الوتر علی اهل القرآن - حدیث: 6771 السنن الكبرى للنسائی - کتاب الصلاة الامر بالوتر - حدیث: 434 السنن

الكبرى للبيهقي - کتاب الصلاة جباع ابواب صلاة التطوع - باب ذكر البيان ان لا فرض في اليوم والليله من الصلوات

حدیث: 4138 مسند احمد بن حنبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة مسند الخلفاء الراشدين - مسند علی بن ابی

طالب رضی اللہ عنہ حدیث: 1197 البحر الزخار مسند البزار - وما روى عاصم بن ضمرة حدیث: 606 مسند ابی

يعلى الموصلي - مسند علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حدیث: 562

وَلَمْ يَكْتُبْ .

* * * باہد فرماتے ہیں: وتر واجب ہیں، لیکن یہ فرض نہیں ہیں۔

4584 - اقوال تابعین: وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ

* * * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ مجاہد سے منقول ہے۔

4585 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ الْوِتْرَ، وَيَقُولُ:

مَنْ فَاتَهُ الْوِتْرُ حَتَّى يُصْبِحَ، فَلْيُوتِرْ حِينَ يَذْكُرُ

* * * طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ وہ وتر کو واجب قرار دیتے تھے۔ وہ یہ

فرماتے تھے: جس شخص کی وتر کی نماز رہ جائے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جائے تو جس وقت اُسے وہ نماز یاد آئے اُس وقت وہ وتر

ادا کرے

4586 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: يُقْضَى الْوِتْرُ

* * * طاؤس بیان کرتے ہیں: آدمی وتر کی قضاء کرے گا۔

4587 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْوِتْرُ وَاجِبٌ يُعَادُ إِلَيْهِ

إِذَا نَسِيَ

* * * طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: وتر واجب ہیں، اگر آدمی نہیں بھول جاتا ہے تو انہیں

بعد میں دوبارہ ادا کرے گا۔

4588 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تُصَلِّي الْوِتْرَ وَإِنْ صَلَّيْتَ

الصُّبْحَ قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَمَنْ نَسِيَ الْعِشَاءَ وَصَلَّى الْوِتْرَ بَعْدَ أَنْ غَابَ الشَّفَقُ قَالَ: يُصَلِّي الْعِشَاءَ إِذَا ذَكَرَهَا وَلَا

يُعِيدُ الْوِتْرَ

* * * طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: تم وتر ادا کرو گے، خواہ تم صبح کی نماز ادا کر چکے ہو۔

سفیان ثوری بیان کرتے ہیں: جو شخص عشاء کی نماز بھول جائے اور شفق غروب ہونے کے بعد وتر ادا کر لے تو سفیان ثوری

فرماتے ہیں: وہ عشاء کی نماز اُس وقت ادا کرے گا جب وہ اُسے یاد آئے گی البتہ وہ وتر کو نہیں دہرائے گا۔

بَابُ فَوْتِ الْوِتْرِ

باب: وتر کا فوت ہو جانا

4589 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْتِرُوا قَبْلَ أَنْ تُصْبِحُوا

*** حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:
”صبح (صادق) ہونے سے پہلے وتر ادا کر لو۔“

4590 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى أَصْبَحَ؟ فَقَالَ: سَوْفَ يُوتِرُ الْيَوْمَ الْآخِرَ

*** سعید بن جبیر کے بارے میں یہ بات منقول ہے اُن سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو صبح صادق ہونے تک وتر ادا نہیں کر پاتا تو انہوں نے فرمایا: وہ اگلے دن وتر ادا کر لے گا۔

4591 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ قَالَ: إِلَّا رَفَعَهُ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَهُ الْفَجْرُ، وَلَمْ يُوتِرْ، فَلَا يُوتِرْ لَهُ

*** حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: (راوی کہتے ہیں:) میرے علم کے مطابق انہوں نے یہ مرفوع حدیث کے طور پر نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں:

”جو شخص صبح صادق کا وقت پالے اور اُس نے وتر ادا نہ کیے ہوں تو ایسے شخص کے وتر نہیں ہوتے۔“

4592 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى فَجَرَ الْفَجْرَ؟ قَالَ: قَدْ فَاتَهُ الْوِتْرُ فَلَا يُوتِرُ قِيلَ لَهُ: أَعْلَمُ أَمْ رَأَى؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، فَحَدَّثَ حُمَيْدٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ أَوْ مِينَاءَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا هُمَا رَكَعَتَانِ إِذَا أَلَمَ الْفَجْرُ لَا صَلَاةَ إِلَّا رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ: انْظُرْ، أَضَاءَ الْفَجْرُ؟ فَرَجَعَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: النَّاسُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَوْتَرَ بِرَكَعَةٍ، ثُمَّ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ، وَحَدِيثُ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي تَفْرِيطِ الصَّلَوَاتِ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا جو وتر نہیں کرتا یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ تو عطاء نے فرمایا: اُس کے وتر قضاء ہو گئے ہیں وہ وتر ادا نہیں کرے گا۔ اُن سے دریافت کیا گیا: کیا آپ کے پاس اس بارے میں کوئی علم (یعنی منقول روایت) ہے؟ یا آپ اپنی رائے بیان کر رہے ہیں؟ اُس وقت انہوں نے سلیمان یا میناء کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ بیان نقل کیا:

”یہ دو رکعت ہیں جب صبح صادق ہو جائے گی تو ان دو رکعت کے علاوہ اور کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی (یعنی فجر کی دو سنتوں کے علاوہ اور کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی)۔“

پھر انہوں نے اس کے بعد مجھے بتایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے غلام سے کہا کہ تم اس بات کا جائزہ لو کہ کیا صبح صادق ہو چکی ہے؟ وہ غلام اُن کے پاس واپس آیا اور بولا: لوگ نماز ادا کر رہے ہیں! تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے انہوں نے ایک رکعت وتر ادا کی اور پھر صبح سے پہلے کی دو رکعت (سنتیں ادا کیں)۔

قنادون حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نقل کردہ روایت نماز کا وقت گزر جانے کے بارے میں ہے۔

4593 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ الْفَجْرَ فَلَا وَتِرَ

* * * مغیرہ فرماتے ہیں: جب تم فجر کی نماز ادا کر لو تو پھر وتر ادا نہیں ہوں گے۔

4594 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

أَوْتِرَ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ

* * * حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: تم اس وقت تک وتر ادا کر سکتے ہو جب تک سورج نکل نہیں آتا۔

4595 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ قَالَا: لَا وَتِرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ

* * * حسن بصری اور قتادہ فرماتے ہیں: صبح کی نماز کے بعد وتر ادا نہیں کیے جائیں گے۔

4596 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْتِرَ

بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

* * * عطاء بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صبح صادق ہونے کے بعد بھی وتر ادا کر لیتے تھے۔

4597 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: تُصَلِّي الْوَتِرَ، وَإِنْ صَلَّيْتَ الصُّبْحَ

* * * طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: وہ فرماتے ہیں: تم وتر ادا کرو گے خواہ تم صبح کی نماز ادا کر چکے ہو۔

4598 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ

* * * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ طاؤس کے صاحبزادے کے حوالے سے طاؤس سے منقول ہے۔

4599 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، وَابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَوْتِرَ وَلَوْ

نُصِفَ النَّهَارُ إِذَا نَسِيْتَ

وَذَكَرَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الْوَتِرُ أَشْرَفُ التَّطَوُّعِ، لَا يَصْلُحُ تَرْكُهُ،

وَلَا يُقْضَى

* * * امام شعبی فرماتے ہیں: جب تم وتر ادا کرنا بھول جاؤ تو تم وتر ادا کر لو خواہ نصف النہار کا وقت ہو۔

سفیان ثوری نے امام شعبی کا یہ قول نقل کیا ہے: وتر سب سے زیادہ شرف والی نقلی عبادت ہے، اسے ترک کرنا مناسب نہیں ہے البتہ اس کی قضاء ادا نہیں کی جاسکتی۔

4600 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَادٍ قَالَ: أَوْتِرَ وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ

* * * حماد فرماتے ہیں: تم وتر ادا کرو خواہ سورج نکل چکا ہو۔

4601 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: جَاءَ نَفْرًا إِلَى

أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْوِتْرِ؟ فَقَالَ: لَا وَتَرَ بَعْدَ الْأَذَانِ، فَاتُوا عَلِيًّا فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: لَقَدْ أَغْرَقَ النَّزْعَ، وَأَفْرَطَ فِي الْفُتْيَا، الْوِتْرُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ

*** عاصم بن ضمرہ بیان کرتے ہیں: کچھ لوگ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے ان سے وتر کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اذان کے بعد وتر ادا نہیں کیے جائیں گے۔ پھر وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہیں اس بارے میں بتایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: (ابو موسیٰ اشعری نے) اس بارے میں بہت گہرائی سے کام لیا ہے اور فتویٰ دینے میں افراط سے کام لیا ہے وتر تمہارے اور صبح کی نماز کے درمیان ادا کیے جاسکتے ہیں۔

4602 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: إِنَّ أَبَا مُوسَى يَقُولُ: لَا وَتَرَ بَعْدَ الْأَذَانِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: لَقَدْ أَغْرَقَ النَّزْعَ وَأَفْرَطَ الْفُتْيَا، الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

*** عاصم بن ضمرہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بولا: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں: صبح (فجر کی) اذان ہونے کے بعد وتر ادا نہیں کیے جاسکتے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے فرمایا: انہوں نے اس بارے میں مبالغہ سے کام لیا ہے اور فتویٰ دیتے ہوئے افراط سے کام لیا ہے وتر دو نمازوں (یعنی عشاء اور فجر کی نمازوں) کے درمیان ادا کیے جاسکتے ہیں۔

4603 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: لَا وَتَرَ لِمَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: كَذَبَ أَبُو الدَّرْدَاءِ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ فَيُوتِرُ *** حضرت ابو برداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جس شخص کو صبح صادق کا وقت ہو جائے تو اس کے وتر نہیں ہوتے۔

راوی کہتے ہیں: انہوں نے اس بات کا تذکرہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کیا تو انہوں نے فرمایا: حضرت ابو برداء رضی اللہ عنہ نے غلط بیان کیا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صبح صادق کے وقت وتر ادا کرتے تھے۔

4604 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ

*** حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: وتر دو نمازوں کے درمیان ادا کیے جائیں گے۔

4605 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْتَاءِ، وَأَبِي حُصَيْنٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هَلَالٍ قَالَ: قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ: الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ،

*** حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: وتر دو نمازوں کے درمیان ادا کیے جائیں گے۔

4606 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ هَلَالٍ، عَنِ عَبْدِ

اللَّهِ، مِثْلَ ذَلِكَ

* * ابراہیم نخعی نے اسود بن ہلال کے حوالے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے اس کی مانند روایت کیا ہے۔

4607 حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن عیینة، عن خالد بن ابی کریمہ قال: سمعت معاویة بن قرة يقول: اتى رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: انى لم اوتر حتى اصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما الوتر بالليل، فاعاد عليه فامر ان يوتر

* * معاویہ بن قرہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اُس نے عرض کی: میں نے وتر ادا نہیں کیے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وتر رات میں ادا کیے جاتے ہیں۔ اُس شخص نے دوبارہ آپ کے سامنے یہی بات ذکر کی تو آپ نے اُسے ہدایت کی کہ وہ وتر ادا کر لے۔

4608 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن آدم بن علي قال: سمعت ابن عمر يقول: من أصبح على غير وتر أصبح على رأسه جريراً قدر سبعين ذراعاً

* * آدم بن علی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: جو شخص ایسی حالت میں صبح کرتا ہے کہ اُس نے وتر ادا نہ کیے ہوں، وہ ایسی حالت میں صبح کرتا ہے کہ اُس کے سر پر ستر گز کا جریر ہوتا ہے۔

4609 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن ابی نصرہ قال: احتبس سعد بن ابی وقاص يوماً عن الصلاة، فقيل له: ابطأت على الناس، فقال له: اذركني الصبح قبل ان اوتر فاوترت

* * ابو نصرہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نماز کے وقت تشریف نہیں لائے (بعد میں) اُن سے دریافت کیا گیا کہ جناب! آپ لوگوں کے پاس دیر سے تشریف لائے ہیں تو انہوں نے فرمایا: صبح ہو گئی تھی اور میں نے ابھی وتر ادا نہیں کیے تھے تو میں وتر ادا کر رہا تھا۔

4610 - اقوال تابعين: عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: ربما اوتر وانه يسمع الإقامة

* * عبداللہ بن عامر بن ربیعہ بیان کرتے ہیں: بعض اوقات وہ وتر ادا کرتے تھے اور وہ اُس وقت (فجر کی نماز کی) اقامت سن رہے ہوتے تھے۔

4611 - اقوال تابعين: عبد الرزاق، عن الثوري، عن الزبير بن عدي، عن ابراهيم قال: سألت عبيدة عن الرجل يستيقظ عند الإقامة ولم يوتر قال: يوتر

* * ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: میں نے عبیدہ سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو اقامت کے وقت بیدار ہوتا ہے اور اُس نے ابھی وتر ادا نہیں کیے تو انہوں نے فرمایا: وہ وتر ادا کرے گا۔

4612 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع: ان رجلاً سأل ابن عمر عن الوتر؟

فَقَالَ: بَيْنَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ لَيْلَةً، فَاجَاهَهُ الصُّبْحُ فَأَوْتَرَ

*** نافع بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے وتر کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: ایک مرتبہ ابن عمر رات بھر بیت اللہ کا طواف کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہوگئی تو اس نے پھر وتر ادا کیے۔

4613 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوَيْتْرِ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ *** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں:

”جب صبح صادق ہو جائے تو رات کی ہر (نفل) نماز اور وتر کا وقت رخصت ہو جاتا ہے تو تم لوگ صبح صادق ہونے سے پہلے وتر ادا کر لو۔“

4614 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ عُرْوَةَ، عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ لِي: قَوْمِي فَأَوْتِرِي *** سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نوافل ادا کرتے رہتے تھے جب آپ ان سے فارغ ہوتے تھے تو مجھ سے فرماتے تھے: اٹھو اور وتر ادا کر لو۔

بَابُ: أَيُّ سَاعَةٍ يُسْتَحَبُّ فِيهَا الْوَيْتْرُ

باب: کون سی گھڑی میں وتر ادا کرنا مستحب ہے؟

4615 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ تَذَاكَرَا الْوَيْتَرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَمَا أَنَا فَأَنَا عَلَى وَتْرٍ، فَإِنْ اسْتَيْقَظْتُ صَلَّيْتُ شَفْعًا حَتَّى الصَّبَاحِ، وَقَالَ عُمَرُ: لَكِنِّي أَنَامُ عَلَى شَفْعٍ، ثُمَّ أَوْتِرُ مِنَ السَّحْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ: حَدِرَ هَذَا وَقَالَ لِعُمَرَ: قَوِيَ هَذَا

*** سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وتر کے بارے میں گفتگو ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: میں تو وتر ادا کرنے کے بعد سوتا ہوں اگر میں (رات میں کسی وقت) بیدار ہو جاؤں تو جفت رکعات کی نماز ادا کر لیتا ہوں یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں جفت رکعات ادا کرنے کے بعد سوتا ہوں اور پھر سحری کے وقت وتر ادا کرتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا: اس نے احتیاط کی ہے! اور آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا: اس نے مضبوطی کا مظاہرہ کیا ہے۔

4616 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ وَعُمَرَ آخِرَ اللَّيْلِ، فَسَأَلَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ وَتْرِهِمَا فَأَخْبَرَاهُ؟ فَقَالَ: قَوِيَ هَذَا، وَحَدِرَ هَذَا قَالَ: وَقَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَضْرِبُ لَكُمْ مَثَلَ رَجُلَيْنِ أَخَذَا فِي مَفَازَةِ لَيْلًا، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَا أُرِيدُ أَنْ أَنَامَ حَتَّى أَقْطَعَهَا، وَقَالَ الْآخَرُ: أَنَامُ نَوْمَةً، ثُمَّ أَقُومُ فَأَقْطَعُهَا، فَأَصْبَحَا فِي الْمَنْزِلِ جَمِيعًا

* * زہری بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما نے ان دونوں حضرات سے ان کے وتر ادا کرنے کے بارے میں دریافت کیا ان دونوں نے آپ کو گزارش کی تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس نے مضبوطی کا اظہار کیا ہے اور اس نے احتیاط کا اظہار کیا ہے۔
راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں تمہارے سامنے ایک مثال بیان کرتا ہوں! دو آدمی ایک ویران جگہ پر رات کے وقت ٹھہرے تو ان میں سے ایک نے کہا: میں اس وقت تک نہیں سوؤں گا جب تک اس جگہ سے آگے نہیں چلا جاتا جبکہ دوسرے نے کہا: میں سو جاتا ہوں پھر میں بیدار ہونے کے بعد اس راستہ سے آگے چلا جاؤں گا اور صبح وہ دونوں اپنی منزل پر پہنچ گئے۔

4617 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: مَتَى تَوْتِرُ؟ قَالَ: قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ قَالَ: قَدْ أَخَذْتَ بِالْوُتْقَى وَقَالَ لِعُمَرَ: مَتَى تَوْتِرُ؟ قَالَ: آخِرَ اللَّيْلِ حِينَ أَفْرُغُ مِنْ صَلَاتِي قَالَ: فِعَلُ ذَوِي الْقُوَّةِ فَعَلَتْ

* * محمد بن یوسف بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا: تم کب وتر ادا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی: میں سونے سے پہلے (وتر ادا کر لیتا ہوں)۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم نے مضبوطی کو پکڑا ہے۔ آپ ﷺ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا: تم کب وتر ادا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی: رات کے آخری حصہ میں جب میں اپنی (رات بھر کی نفل) نماز سے فارغ ہوتا ہوں تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: قوت والا شخص جو کام کرتا ہے وہ تم کرتے ہو۔

4618 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَسْتُ بِتَارِكِهِنَّ فِي حَضْرٍ وَلَا سَفَرٍ: نَوْمٍ عَلَى وَتِرٍ، وَصِيَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَكْعَتِي الضُّحَى قَالَ: ثُمَّ أَوْهَمَ الْحَسَنُ بَعْدَ ذَلِكَ فَجَعَلَ مَكَانَ رَكْعَتِي الضُّحَى غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

* * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے مجھے تین چیزوں کی ہدایت کی تھی جنہیں میں حضریا سفر میں کبھی ترک نہیں کرتا: (۱) وتر ادا کرنے کے بعد سونا (۲) ہر مہینے میں تین دن روزے رکھنا (۳) اور چاشت کی دو رکعت۔
اس کے بعد حسن نامی راوی اس روایت کے بارے میں وہم لاحق ہو گیا اور وہ چاشت کی دو رکعت کی بجائے جمعہ کے دن غسل کرنے کا ذکر کرنے لگا۔

4619 - آثارِ سَنَابِلِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كَانَ يُوتِرُ أَوَّلَ اللَّيْلِ يَقُولُ: وَآخِرَهُ وَاسِعَى التَّوَاتُفِ

*** قنادہ بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رات کے ابتدائی حصہ میں وتر ادا کر لیتے تھے وہ یہ فرماتے تھے: (یہاں متن میں ایک مجہول لفظ ہے) اور میں ثواب کے حصول کا طلبگار ہوں۔

4620 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي عمرو الندبي قال: سمعت رافع بن خديج، يسأل عن الوتر؟ فقال: أما أنا فإني أوتر من أول الليل، فإن رزقت شيئاً من آخره صليت ركعتين ركعتين حتى أصبح، أو قال: حتى يدر كني الصبح

*** ابو عمرو ندبی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کو سنا جن سے وتر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: میں تو رات کے ابتدائی حصہ میں ہی وتر ادا کر لیتا ہوں اگر رات کے آخری حصہ میں کچھ (نوافل ادا کرنے کے موقع ملے تو میں صبح صادق ہونے تک دو دو رکعت ادا کرتا ہوں۔ (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں: یہاں تک کہ صبح صادق جاتی ہے۔

4621 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن مالك بن دينار قال: حدثنا خلاس بن عمرو قال: كنت جالسا عند عمار بن ياسر فسأله رجل، فقال: يا أبا اليقظان، كيف تقول في الوتر؟ فقال عمار: أما أنا فأوتر قبل أن أنام، فإن رزقني الله شيئاً صليت شفعاً شفعاً حتى أصبح

*** خلاس بن عمرو بیان کرتے ہیں: میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک شخص نے ان سے سوال کیا اُس نے کہا: اے ابو یقظان! وتر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تو سونے سے پہلے ہی وتر ادا کر لیتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ مجھے نصیب کرے تو میں (رات میں کسی وقت بیدار ہو کر) صبح صادق ہونے تک دو دو رکعت ادا کرتا ہوں۔

4622 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن مالك، وابن زيد بن أسلم، عن زيد بن أسلم، عن أبي مرة مولى عقيل قال: سألت أبا هريرة، فقلت: حدثني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ فسكت، ثم سألته الثانية فسكت، ثم سألته الثالثة، فقال: إن شئت حدثتك عن أبي هريرة أما أنا فأوترها هنا بخمس، ثم أرجع فأرقد، فإن استيقظت صليت شفعاً حتى أصبح

*** ابو مرہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا میں نے کہا: آپ مجھے بتائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وتر ادا کرتے تھے؟ تو وہ خاموش رہے پھر میں نے ان سے دوسری مرتبہ سوال کیا تو وہ پھر خاموش رہے میں نے ان سے تیسری مرتبہ سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: اگر میں چاہوں تو میں تمہیں ابو ہریرہ کے بارے میں بتاتا ہوں! میں یہاں پانچ وتر ادا کرتا ہوں پھر میں واپس جا کر سو جاتا ہوں اگر میں بیدار ہو جاؤں تو صبح صادق ہونے تک جفت رکعات ادا کرتا رہتا ہوں۔

4623 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن الشوري، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفتersh ذراعيه افتراش الكلب

قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَافَ مِنْكُمْ أَنْ لَا يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَلْيُوتِرْ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، وَمَنْ طَمِعَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَيْقِظَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَإِنَّ قِرَاءَةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُورَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ

* * * حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”جب کوئی شخص سجدہ کرنے تو اعتدال سے کرے اور وہ اپنے بازو یوں نہ بچھائے جس طرح کتاب بچھالیتا ہے۔“

راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے:

”تم میں سے جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصہ میں بیدار نہیں ہو سکے گا اُسے رات کے ابتدائی حصہ میں وتر ادا کر لینے چاہئیں اور جس شخص کو یہ امید ہو کہ وہ رات کے آخری حصہ میں بیدار ہو جائے گا تو اُسے رات کے آخری حصہ میں وتر ادا کرنے چاہئیں کیونکہ رات کے آخری حصہ میں کی جانے والی تلاوت میں (فرشتوں کی) حاضری ہوتی ہے اور یہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔“

4624 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي الضُّحَى، عَنِ مَسْرُوقٍ، عَنِ

عَائِشَةَ قَالَتْ: كُلَّ اللَّيْلِ قَدْ أَوْتَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ أَوَّلِهِ وَأَوْسَطِهِ، وَآخِرِهِ، وَانْتَهَى وَتَرَهُ إِلَى السَّحْرِ

* * * سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصہ میں وتر ادا کر لیتے تھے ابتدائی حصہ میں بھی

درمیانی حصہ میں بھی آخری حصہ میں بھی آپ کے وتر ادا کرنے کا آخری وقت سحری ہوتا ہے (یعنی صبح صادق سے کچھ پہلے کا وقت ہوتا تھا)۔

4625 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنِ عَلِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ عِنْدَ

الْأَذَانِ

* * * حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ اذان کے وقت وتر ادا کرتے تھے۔

4626 - حدیث نبوی: وَذَكَرَهُ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ إِسْرَائِيلَ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنِ

عَلِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ

* * * حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ آپ (فجر کی) اذان کے وقت وتر ادا

کرتے تھے۔

4627 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ وَكَانَ

بَيْتَ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ مَتَى كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُوتِرُ؟ قَالَ: كَانَ يُوتِرُ حِينَ يَبْقَى عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ مِثْلُ مَا ذَهَبَ

مِنَ اللَّيْلِ حِينَ صَلَّى الْمَغْرِبَ قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ اللَّيْلِ

*** ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: میں نے علقمہ سے سوال کیا، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں رات بسر کی تھی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کب وتر ادا کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ اُس وقت وتر ادا کرتے تھے جب اتنی رات باقی رہ جاتی تھی جتنی رات اُس وقت گزری ہوتی ہے، جب وہ مغرب کی نماز ادا کرتے تھے۔

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ رات کے وقت بلند آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے۔

4628 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي اسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ

مَتَى تُوتِرِينَ؟ قَالَتْ: بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ قَالَ: وَمَا يُؤَدِّنُونَ حَتَّى يُصْبِحُوا

*** اسود بن یزید بیان کرتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا: آپ کب وتر ادا کرتی ہیں؟ انہوں نے

جواب دیا: (فجر کی) اذان اور اقامت کے درمیان۔ راوی بیان کرتے ہیں: اُس وقت لوگ اذان اُس وقت دیتے تھے جب صبح صادق ہو چکی ہوتی تھی۔

4629 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: وَتْرُ الْأَكْيَاسِ أَوَّلَ

اللَّيْلِ، وَوِتْرُ الْأَقْوِيَاءِ آخِرَ اللَّيْلِ، قُلْتُ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا إِنِ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْأَكْيَاسِ كُنْتُ

*** معمر نے قتادہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ اُن سے وتر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا:

بمجدار لوگوں کے وتر رات کے ابتدائی حصہ میں ہوں گے، طاقتور لوگوں کے وتر رات کے آخری حصہ میں ہوں گے۔ میں نے کہا:

آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا: جہاں تک میرا تعلق ہے اگر مجھ سے ہو سکے تو میں بمجدار لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا۔

4630 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ

السَّلْمِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلِيٌّ حِينَ ثَوَّبَ ابْنُ النَّبَاحِ فَقَالَ: " (وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ) (التكوير: 18)،

نَعَمْ سَاعَةُ الْوِتْرِ هَذِهِ، أَيْنَ السَّائِلُونَ عَنِ الْوِتْرِ؟ "

*** ابو عبد الرحمن سلمی بیان کرتے ہیں: جب ابن نباح (نامی مؤذن) نے ثویب کہی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر تشریف

لائے، انہوں نے یہ آیت پڑھی:

"اور رات کی قسم ہے جب اس کی تاریکی جانے لگے اور صبح کی قسم ہے جب اس کی روشنی آنے لگے۔"

جی ہاں! وتر کا وقت یہی ہے۔ وتر کے بارے میں سوال کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟

4631 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي اسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا

عَلِيٌّ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَقَالَ: " (وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَعَسَ) (التكوير: 17) وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ

السَّائِلُونَ عَنِ الْوِتْرِ؟ نَعَمْ سَاعَةُ الْوِتْرِ هَذِهِ "

*** عبد خیر بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ صبح صادق صادق ہونے کے بعد ہمارے پاس تشریف لائے اور

انہوں نے یہ آیت تلاوت کی:

”اور رات کی قسم ہے جب اس کی تاریکی جانے لگے۔“

پھر انہوں نے اپنے دست مبارک کے ذریعہ مشرق کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: وتر کے بارے میں سوال کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ وتر کے لیے بہترین وقت یہ ہے۔

4632 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوترُ بَعْدَ الْفَجْرِ قَالَ: وَكَانَ أَبِي يُوترُ قَبْلَ الْفَجْرِ

*** ہشام بن عروہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صبح صادق ہو جانے کے بعد وتر ادا کرتے تھے۔ ہشام کہتے ہیں: میرے والد صبح صادق ہونے سے پہلے وتر ادا کرتے تھے۔

بَابُ: كَمِ الْوِتْرِ؟

باب: کتنے وتر ادا کیے جائیں گے؟

4633 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوترَ بِخَمْسٍ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوترَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوترَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِلَّا أَنْ يُومِءَ إِيمَاءً فَلْيَفْعَلْ،

*** حضرت ابویوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: وتر ادا کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے جو شخص پانچ وتر ادا کرنے کو پسند کرے وہ ایسا کر لے جو شخص تین وتر ادا کرنا چاہے وہ ایسا کر لے جو شخص ایک وتر ادا کرنا چاہے وہ ایسا کر لے اور جو شخص صرف اشارہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ ایسا کر لے۔

4634 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَنْ سَمِعَ أَنَسًا يُحَدِّثُ مِثْلَ ذَلِكَ

*** امام عبدالرزاق نے یہی روایت ایک اور سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی نقل کی گئی ہے۔

4635 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: وَتُرُ اللَّيْلِ كَوِتْرِ النَّهَارِ، صَلَاةُ الْمَغْرِبِ ثَلَاثٌ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ

*** عبدالرحمن بن یزید فرماتے ہیں: رات کے وتر دن کے وتر کی طرح ہیں یعنی مغرب کی نماز کی طرح تین رکعات ہوں گی یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔

4636 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسٍ وَبِثُّ عِنْدَهُ قَالَ: فَرَأَيْتَهُ يُصَلِّي مَشْنَى مَشْنَى حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ مِثْلَ الْمَغْرِبِ

*** ثابت بنانی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز ادا کی میں رات کے وقت ان کے ہاں ٹھہر گیا۔ راوی کہتے ہیں: تو میں نے انہیں دو دو رکعت ادا کرتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی نماز کے آخر میں مغرب

کی نماز کی طرح وتر میں تین رکعات ادا کیں۔

4637 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي

عُبَيْدَةَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ فَأَعْلَى

*** ابو عبیدہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تین یا اس سے زیادہ وتر ادا کیا کرتے تھے۔

4638 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْوِتْرُ ثَلَاثٌ

وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَوَاحِدٌ عَشْرَةٌ

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: وتر یا تین ہوں گے یا پانچ ہوں گے یا سات ہوں گے یا نو ہوں گے یا گیارہ ہوں گے۔

4639 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي

وَقَاصٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ الثَّقَفِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ لَمَّا دَفَنَ أَبَا بَكْرٍ وَفَرَّغَ مِنْهُ، وَقَدْ كَانَ صَلَّى صَلَاةَ

الْعِشَاءِ الْآخِرَةَ أَوْتَرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، وَأَوْتَرَ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

*** سعید بن عبید بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا اور اس سے فارغ ہوئے

تو انہوں نے عشاء کی نماز ادا کرتے ہوئے تین رکعت وتر ادا کیے ان کے ساتھ کچھ مسلمانوں نے بھی وتر ادا کیے۔

4640 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَوْتَرَ بِهِنَّ

مِنْ رَكَعَةٍ وَاحِدَةٍ

*** عطاء فرماتے ہیں: تین رکعت وتر ادا کرنا میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ایک رکعت وتر ادا

کروں۔

4641 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ عِكْرِمَةَ

مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: وَقَدْ ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ فَكَانَا يَسْمُرَانِ حَتَّى شَطَرَ اللَّيْلِ فَأَكْثَرَ قَالَ:

فَشَهِدَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ مُعَاوِيَةَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مُعَاوِيَةُ رَكَعَ رَكَعَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ

لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ قَالَ: فَجِئْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَلَا أَضْحَكُ مِنْ مُعَاوِيَةَ صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَوْتَرَ

بِرَكَعَةٍ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا؟ قَالَ: أَصَابَ أَيْ بُنِيَ، لَيْسَ أَحَدٌ مِنَّا أَعْلَمُ مِنْ مُعَاوِيَةَ إِنَّمَا هِيَ وَاحِدَةٌ أَوْ خَمْسٌ أَوْ سَبْعٌ

أَوْ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، يُوتِرُ بِمَا شَاءَ، فَأَخْبَرْتُ عَطَاءً خَبَرَ عُتْبَةَ هَذَا، فَقَالَ: إِنَّمَا سَمِعْنَا أَنَّهُ قَالَ: أَصَابَ، أَوْ لَيْسَ

الْمَغْرِبُ - عَطَاءُ الْقَائِلُ - ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ؟

*** عکرمہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک وفد کے ساتھ شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس

گئے یہ دونوں حضرات بات چیت کرتے رہے یہاں تک کہ نصف رات یا اس سے زیادہ کا حصہ گزر گیا، حضرت عبداللہ بن عباس

رضی اللہ عنہما نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عشاء کی نماز مقصورہ میں نماز ادا کی جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فارغ ہوئے تو انہوں نے وتر

کی ایک رکعت ادا کی انہوں نے مزید کچھ ادا نہیں کیا، میں ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ راوی کہتے ہیں: پھر میں حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے پاس آیا اور میں نے ان سے کہا: کیا مجھے حضرت معاویہؓ پر ہنسی نہیں آنی چاہیے کہ انہوں نے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک رکعت وتر ادا کی ہے مزید کچھ ادا نہیں کیا؟ تو حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے فرمایا: اے میرے بیٹے! انہوں نے ٹھیک کیا ہے، ہم میں سے کوئی بھی شخص حضرت معاویہؓ سے زیادہ علم نہیں رکھتا، وتر ایک ہوتے ہیں یا پانچ ہوتے ہیں یا سات ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں، آدمی جتنے چاہے وتر ادا کر لے۔

راوی کہتے ہیں: میں نے عطاء کو عقبہ کی نقل کردہ اس روایت کے بارے میں بتایا تو انہوں نے جواب دیا: ہم نے یہ سنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے یہ فرمایا تھا: انہوں نے ٹھیک کیا ہے، کیا مغرب کی نماز اس طرح نہیں ہوتی۔ عطاء اس بات کے قائل تھے: وتر میں تین رکعت ہوتی ہیں۔

4642 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جریج قال: سئل عطاء عن ركعة يوتر فيها، قال حسن:

بَلَّغْنِي أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء سے ایک رکعت وتر ادا کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو انہوں نے فرمایا: اچھا ہے! مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ ایک رکعت وتر ادا کرتے تھے۔

4643 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جریج قال: أخبرني أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي

وَقَّاصٍ قَالَ: كَانَ سَعْدٌ يُصَلِّي الْعِشَاءَ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ

* * ابو بکر بن حفص بیان کرتے ہیں: حضرت سعدؓ عشاء کی نماز ادا کرتے تھے اور پھر ایک رکعت وتر ادا کرتے

تھے۔

4644 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، أن سعد بن أبي وقاص، كان يصلي بعدها

رَكْعَةً، ثُمَّ يُوتِرُ بِهَا، ثُمَّ يَنَامُ حَتَّى يَقُومَ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَصَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ الْعِشَاءَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً، فَقُلْتُ حِينَ انْصَرَفَ أَوْهَمْتَ فِي صَلَاتِكَ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: إِنَّكَ صَلَّيْتَ رَكْعَةً قَالَ: إِنَّا نَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلَ الْبَيْتِ

* * زہری بیان کرتے ہیں: حضرت سعد بن ابی وقاصؓ عشاء کی نماز کے بعد ایک رکعت ادا کرتے تھے وہ اسے وتر

کے طور پر ادا کرتے تھے، پھر وہ سو جاتے تھے یہاں تک کہ نصف رات کے وقت اُٹھتے تھے۔

معمر بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کی اقتداء میں عشاء کی نماز ادا کی، جب وہ فرض نماز ادا کر کے فارغ ہوئے تو انہوں نے کھڑے ہو کر ایک رکعت ادا کر لی، جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو میں نے دریافت کیا: کیا آپ کو اپنی نماز کے بارے میں وہم ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! میں نے کہا: آپ نے ایک رکعت ادا کی ہے؟ انہوں نے فرمایا: ہم سب گھروالے ایسا ہی کرتے ہیں۔

4645 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ: أَنَّ

سَعْدًا كَانَ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ

*** ابو عبد الرحمن سلمی بیان کرتے ہیں: حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک وتر ادا کرتے تھے۔

4646 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ شَرْحِبِيلَ

يَقُولُ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَةً أَوْتَرَ بَعْدَهَا

*** محمد بن شرحبیل فرماتے ہیں: میں نے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا انہوں نے عشاء کی نماز ادا کی، اس کے

بعد انہوں نے ایک رکعت ادا کی جسے انہوں نے وتر کے طور پر ادا کیا۔

4647 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ

بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: لِسَعْدٍ: إِنَّكَ تُوتِرُ بِرَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ: نَعَمْ، أَخَفَّفُ عَلَى نَفْسِي، ثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ

مِنْ وَاحِدَةٍ، وَخَمْسٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ ثَلَاثٍ، وَسَبْعٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ

*** اسماعیل بن محمد بن سعد بیان کرتے ہیں: میں نے مصعب بن سعد کو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے یہ کہتے

ہوئے سنا کہ آپ ایک رکعت وتر ادا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں اپنے لیے تخفیف کرتا ہوں، البتہ تین رکعت ادا

کرنا، میرے نزدیک ایک سے زیادہ پسندیدہ ہے اور پانچ رکعت ادا کرنا، تین سے زیادہ پسندیدہ ہے اور سات رکعت ادا کرنا، پانچ

سے زیادہ پسندیدہ ہے۔

4648 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

الْوِتْرُ سَبْعٌ أَوْ خَمْسٌ، الثَّلَاثُ بُتِيرَاءٌ، وَإِنِّي لَا أَكْرَهُ أَنْ تَكُونَ بُتِيرَاءً

*** سعید بن جبیر نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے:

”وتری سات ہوتے ہیں یا پانچ ہوتے ہیں یا تین ہوتے ہیں جو دم کٹے ہوتے ہیں اور مجھے یہ بات ناپسند ہے کہ وہ

دم کٹے ہوئے ہوں۔“

4649 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: ثَلَاثٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدَةٍ، وَسَبْعٌ

أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ خَمْسٍ، وَمَا كَثُرَ فَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ

*** عطاء فرماتے ہیں: تین رکعات ادا کرنا میرے نزدیک ایک سے زیادہ پسندیدہ ہے اور سات رکعات ادا کرنا پانچ

سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو جتنی تعداد زیادہ ہوگی اتنا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوگا۔

4650 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: الْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَثَلَاثٌ وَخَمْسٌ وَسَبْعٌ وَتِسْعٌ وَاحِدِي

عَشْرَةٌ، فَأَعْجَبُهُنَّ إِلَيَّ الثَّلَاثُ

*** سفیان ثوری فرماتے ہیں: وتر میں ایک رکعت ہوتی ہے یا تین ہوتی ہیں یا پانچ ہوتی ہیں یا سات ہوتی ہیں یا نو ہوتی

تیں یا گیارہ ہوتی ہیں اور میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ تین رکعات ہیں۔

4651 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: تَوْتِرُ بِوَاحِدَةٍ؟ قَالَ: أَوْلَيْسَ إِنَّمَا الْوِتْرُ وَاحِدَةٌ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: بَلَى، وَلَكِنْ ثَلَاثٌ أَفْضَلُ قَالَ: فَإِنِّي لَا أَرِيدُ عَلَيْهَا قَالَ: فَغَضِبَ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ سَعْدٌ: اتَّغَضَبُ عَلَيَّ أَنْ أُوتِرَ بِرَكْعَةٍ وَأَنْتَ تَوْتِرُ ثَلَاثَ جَدَّاتٍ، أَفَلَا تَوْتِرُ حَوَاءَ امْرَأَةِ آدَمَ؟ أَخْبَرَنِيهِ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ

* * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا: آپ ایک رکعت وتر ادا کرتے ہیں؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: کیا وتر ایک رکعت نہیں ہوتے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جی ہاں! لیکن تین رکعات ادا کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا: لیکن میں اس سے زیادہ ادا نہیں کرتا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ غصہ میں آگئے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا آپ اس بات پر مجھ پر غصہ کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں ایک رکعت وتر ادا کرتا ہوں! جبکہ آپ خود تین دادیوں (یا نانیوں) کو وارث قرار دیتے ہیں تو آپ حضرت آدم علیہ السلام کی اہلیہ سیدہ حواء رضی اللہ عنہا کو وارث کیوں نہیں قرار دیتے۔

یہ روایت یحییٰ نے سفیان ثوری کے حوالے سے نقل کی ہے۔

4652 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ أَوْتَرَ بَعْدَهَا بِرَكْعَةٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَصَابَ

* * عبید اللہ بن ابویزید بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے عشاء کی نماز ادا کی اس کے بعد انہوں نے ایک رکعت وتر ادا کی میں نے اس بات کا تذکرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کیا تو انہوں نے جواب دیا: انہوں نے (یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے) ٹھیک کیا ہے۔

4653 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُثْمَانَ التَّمِيمِيَّ عَنْ صَلَاةِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخْبَرْتُكَ عَنْ صَلَاةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: قُلْتُ: "لَا غَيْبَنَّ اللَّيْلَةَ النَّفْرَ عَلَى الْحِجْرِ يُرِيدُ الْمَقَامَ قَالَ: فَلَمَّا قُمْتُ إِذَا رَجُلٌ يَزْحَمُنِي مُتَقِنًا قَالَ: فَظَنَرْتُ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ فَتَأَخَّرْتُ عَنْهُ، فَصَلَّى، فَإِذَا هُوَ يَسْجُدُ سُجُودَ الْقُرْآنِ، حَتَّى إِذَا قُلْتُ: هَذَا هُوَ آذَانُ الْفَجْرِ، أَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَهَا ثُمَّ انْطَلَقَ

* * سائب بن یزید بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے عبدالرحمن بن عثمان تیمی سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی نماز کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: اگر تم چاہو تو میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نماز کے بارے میں بتاتا ہوں! اس شخص نے کہا: ٹھیک ہے! تو عبدالرحمن نے بتایا کہ میں نے سوچا کہ آج رات میں حجر اسود کے پاس (یا مقام ابراہیم کے پاس) رات کے وقت ٹھہروں گا (اور نوافل ادا کروں گا) جب میں وہاں کھڑا ہوا تو اسی دوران ایک شخص جس نے سر ڈھانپا ہوا تھا اس

نے مجھے ایک طرف کیا جب میں نے دیکھا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے میں پیچھے ہٹ گیا، انہوں نے نماز ادا کی تو وہ قرآن کے سجدہ تلاوت کرتے رہے یہاں تک کہ میں نے سوچا کہ فجر کی اذان ہونے لگی ہے تو اس وقت انہوں نے ایک رکعت وتر ادا کر لی، انہوں نے مزید کوئی نماز ادا نہیں کی اور پھر تشریف لے گئے۔

4654 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن عیینة، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، عن رجل من قريش قال: كنت أصلي خلف المقام فجاء رجل مقنع فقرا السبع الطوال، ثم ركع ركعتين، ثم انفتل فنظرت، فإذا هو عثمان

*** سائب بن یزید نے قریش کے ایک شخص کا یہ بیان نقل کیا ہے: میں مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کر رہا تھا اس دوران ایک شخص سر پر چادر لیے ہوئے آیا، اس نے سات طویل سورتوں کی تلاوت کی، پھر دو مرتبہ رکوع کیا، پھر وہ چلا گیا۔ میں نے جائزہ لیا تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔

4655 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال رجل: رأيت عثمان ليلة وهو يصلي حتى إذا كان في آخر الليل أوتر فاتبعته لنظر من هو، فإذا هو عثمان

*** ابن سیرین بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے کہا: ایک رات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نماز کا جائزہ لیتا رہا، وہ نماز ادا کرتے رہے یہاں تک کہ رات کے آخری حصہ میں انہوں نے وتر ادا کیے جب میں نے دیکھا کہ یہ کون ہیں؟ تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔

4656 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن عبد الله، عن سمعة، عن الحكم قال: قلت لمقسم: اني أوتر بثلاث، ثم أخرج إلى الصبح خشية أن تفوتني الصلاة، فكره ذلك أن يوتر إلا بخمس أو سبع قلت: عن هذا؟ قال: عن الثقة عن ميمونة، وعائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم

*** حکم بیان کرتے ہیں: میں نے مقسم سے کہا: میں تین رکعت وتر ادا کرتا ہوں، پھر صبح کی نماز کے لیے چلا جاتا ہوں اس اندیشہ کے تحت کہ کہیں وہ نماز مجھ سے رہ نہ جائے۔ تو انہوں نے اس بات کو مکروہ قرار دیا کہ وتر پانچ ادا کیے جائیں یا سات ادا کیے جائیں۔ میں نے کہا: آپ نے یہ بات کس سے روایت کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ایک ثقہ راوی کے حوالے سے سیدہ میمونہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے (روایت کی ہے)۔

4657 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: سأل إنسان عطاء عن أدنى ما يكفي للمسافر قال: ركعة واحدة إن شاء قال: قلت: فالمقيم؟ قال: وركعة تكفيه إن شاء لم يزد عليهما

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے عطاء سے دریافت کیا: مسافر کے لیے کم از کم کتنی رکعات کافی ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا: اگر وہ چاہے تو ایک رکعت۔ میں نے کہا: مقیم کے لیے؟ انہوں نے کہا: ایک رکعت بھی اس کے لیے کفایت کو جائے گی اگر وہ چاہے اور مزید کوئی اور رکعت ادا نہ کرے۔

4658 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَحَدِيفَةُ بْنُ الْيَمَانِ عِنْدَ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، ثُمَّ خَرَجَا مِنْ عِنْدِهِ، فَقَامَا يَتَحَادَثَانِ حَتَّى رَأَيَا تَبَاشِيرَ الْفَجْرِ، فَأَوْتَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِرَكْعَةٍ

* * ابن سیرین بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت حدیفہ بن یمانؓ نے نماز پڑھی اور ولید بن عقبہ کے پاس رات دیر تک بات چیت کرتے رہے پھر یہ دونوں حضرات اُس کے پاس سے اٹھ کر باہر آئے تو یہ دونوں کھڑے ہو کر آپس میں بات چیت کرتے رہے یہاں تک کہ ان دونوں کو صبح صادق کے آثار نظر آ گئے تو ان میں سے ہر ایک نے ایک رکعت وتر ادا کی۔

بَابُ: كَيْفَ التَّسْلِيمِ فِي الْوَتْرِ

باب: وتر میں سلام کیسے پھیرا جائے گا؟

4659 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ أَبِي بْنُ كَعْبٍ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الثَّلَاثَةِ مِثْلَ الْمَغْرِبِ،

* * حسن بصری فرماتے ہیں: حضرت اُبی بن کعبؓ تین رکعت وتر ادا کرتے تھے اور مغرب کی نماز کی طرح تیسری رکعت کے بعد ہی سلام پھیرتے تھے۔

4660 - آثار صحابہ: عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مِثْلَهُ

* * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت اُبی بن کعبؓ کے بارے میں منقول ہے۔

4661 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ أَبِي بْنَ كَعْبٍ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ

* * سائب بن یزید بیان کرتے ہیں: حضرت اُبی بن کعبؓ تین رکعت وتر ادا کرتے تھے۔

4662 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ

* * ثابت بیان کرتے ہیں: حضرت انسؓ تین رکعت وتر ادا کرتے تھے۔

4663 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ مِثْلَ الْمَغْرِبِ

* * ثابت حضرت انسؓ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ وہ مغرب کی نماز کی طرح وتر میں بھی تین رکعت ادا کرتے تھے۔

4664 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفْصَلُ بَيْنَ الْوَتْرِ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ

بِتَسْلِيمٍ؟ قَالَ: كَأَنَّكُمْ أَغْرَابٌ، أَوْلَسْتُ تَسْلِيمُ تَسْلِيمَ الْفِرَاقِ، كُلُّ شَيْءٍ فَهُوَ يَكْفِيكَ، فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ مِائَةَ

رَكْعَةٍ، أَوْ فَلَا تَفْصِلُ بَيْنَ الْوَتْرِ وَبَيْنَ مَا قَبْلَهُ مِنَ الرَّكُوعِ قَالَ: قُلْتُ: وَالْإِمَامُ أَيْضًا كَذَلِكَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟
قَالَ: نَعَمْ

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا وتر اور اس سے پہلے کی نماز کے دوران سلام پھیر کر فصل کیا جائے گا؟ انہوں نے فرمایا: تم دیہاتی لگتے ہو! کیا تم علیحدگی کا سلام نہیں پھیرتے ہو، ہر وہ چیز جو تمہارے لیے کفایت کر جائے گا، اگر تم چاہو تو ایک سو رکعت ادا کر لو، کیا تم وتر سے پہلے کے رکوع کے درمیان فصل نہیں کرو گے میں نے کہا: رمضان کے مہینہ میں امام بھی ایسا ہی کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

4665 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّهُ أَوْتَرَ

بِخَمْسٍ مَا جَلَسَ إِلَّا فِي الْوَتْرِ

* * محمد بن یوسف نے عروہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ وہ پانچ وتر ادا کرتے تھے اور صرف پانچوں رکعت کے بعد بیٹھتے تھے۔

4666 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ رَأَى عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَوْتَرَ

بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ مَا جَلَسَ لِلْمَشْيِ

* * عطاء بیان کرتے ہیں: انہوں نے عروہ بن زبیر کو پانچ یا سات وتر ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ دو رکعت کے بعد بیٹھتے نہیں تھے۔

4667 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ مَا يَقَعُدُ بَيْنَهُنَّ

* * سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ رکعت وتر ادا کرتے تھے آپ ان کے درمیان بیٹھتے نہیں تھے۔

4668 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِبِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ

قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكَلَامٍ وَلَا بِتَسْلِيمٍ

* * سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پانچ یا سات رکعت وتر ادا کرتے تھے آپ ان کے درمیان کلام کر کے یا سلام پھیر کے، فصل نہیں کرتے تھے۔

4669 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَتَعَدُّ

بَيْنَهُنَّ

* * طاؤس کے صاحبزادے نے اپنے والد کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ وہ تین رکعت وتر ادا کرتے تھے جن کے درمیان وہ بیٹھتے نہیں تھے۔

4670 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْمُرُ بِحَاجَتِهِ فِي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ

الْوُتْرِ "

* * * قنادہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وتر سے پہلے کی دو رکعت ادا کرنے کے بعد کسی کام کے سلسلہ میں کوئی ہدایت دیتے تھے۔

4671 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْوُتْرُ مِثْلُ

صَلَاةِ الْمَغْرِبِ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُجْلَسُ إِلَّا فِي الثَّلَاثَةِ

* * * عطاء بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھ سے فرمایا: وتر، مغرب کی نماز کی مانند ہوں گے البتہ ان میں صرف تیسری رکعت کے بعد بیٹھا جائے گا۔

4672 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ،

وَأَبْنَ عُمَرَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ فِيهَا بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَالْوُتْرِ "

* * * قنادہ بیان کرتے ہیں: حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم دو رکعت اور وتر کے درمیان سلام پھیرتے تھے۔

بَابُ آخِرِ صَلَاةِ اللَّيْلِ

باب: رات کی (نفل) نماز کا آخری حصہ

4673 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَهُ وَتَرًا قَبْلَ الصُّبْحِ

* * * حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں:

"جو شخص رات کے وقت نوافل ادا کرے تو اسے صبح صادق ہونے سے پہلے اپنی نماز کے آخر میں وتر ادا کرنے چاہئیں۔"

4674 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ

4674- صحیح البخاری - کتاب الجمعة ابواب الوتر - باب ما جاء في الوتر حدیث: 960 صحیح مسلم - کتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل مثنی مثنی - حدیث: 1279 صحیح ابن خزيمة - جباع ابواب ذکر الوتر وما فيه من السنن باب ذكر الاخبار المنصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان - حدیث: 1000 مستخرج ابی عوانة - باب في الصلاة بين الاذان والإقامة في صلاة المغرب وغيرها باب الخبر المبين ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المصلي - حدیث: 1855 صحیح ابن حبان - باب الإمامة والجماعة باب الحدث في الصلاة - ذكر الامر للمتهجد ان يجعل آخر صلاته ركعة تكون وتره وإن حدیث: 2666 موطا مالك - كتاب صلاة الليل باب الامر بالوتر - حدیث: 269 سنن ابی داود - كتاب الصلاة ابواب قيام الليل - باب صلاة الليل مثنی مثنی حدیث: 1143 سنن ابن (بانی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صلاة اللیل، فقال: مثنی مثنی، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة توتر ما قبلها
 ** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز کے بارے میں دریافت کیا گیا تو
 آپ نے فرمایا: وہ دو دو کر کے ادا کی جائے گی اور جب تمہیں صبح صادق (قرب) ہونے کا اندیشہ ہو تو تم ایک رکعت وتر ادا کرو
 جس کے ذریعے تم پہلی والی پوری نماز کو طاق کر لو گے۔

4675 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوُتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَغْرِبُ وَتُرُ صَلَاةِ النَّهَارِ، فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ قَالَ هِشَامٌ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا
 مِمَّنْ يُؤْخَذُ عَنْهُ يَرَى إِلَّا أَنَّ الْوُتْرَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ لِمَنْ أَطَاقَهُ
 ** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”رات کی (نفل) نماز دو دو کر کے ادا کی جائے گی اور رات کے آخری حصہ میں وتر میں ایک رکعت ادا کی جائے
 گی۔“

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے:

”مغرب کی نماز دن کی نمازوں کے وتر ہیں تو تم رات کی نماز میں بھی وتر ادا کرو۔“

ابن سیرین بیان کرتے ہیں: جس بھی شخص سے استفادہ کیا جاتا ہے، میں نے ایسا کوئی شخص نہیں دیکھا جو اس بات کا قائل نہ
 ہو کہ رات کے آخری حصہ میں وتر ادا کرنا، اس شخص کے لیے زیادہ فضیلت رکھتا ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو۔

4676 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوُتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَتُرُ النَّهَارِ فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ سے) ماجہ - کتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر برکعة - حدیث: 1171 السنن للنسائی - کتاب
 قیام اللیل و تطوع النهار، باب کیف صلاة اللیل - حدیث: 1659، مصنف ابن ابی شیبہ - کتاب صلاة التطوع والإمامة
 وابواب متفرقة، من كان يوتر برکعة - حدیث: 6708، السنن الکبریٰ للنسائی - کتاب الصلاة، کم صلاة النهار -
 حدیث: 468، شرح معانی الآثار للطحاوی - باب الوتر، حدیث: 1040، السنن الکبریٰ للبیہقی - کتاب الصلاة، جماع
 ابواب صلاة التطوع - باب صلاة اللیل مثنی مثنی، حدیث: 4243، مسند احمد بن حنبل، مسند عبد اللہ بن عمر رضی
 اللہ عنہما - حدیث: 4708، مسند الشافعی - ومن کتاب اختلاف مالک والشافعی رضی اللہ عنہما، حدیث: 955، مسند
 الحمیدی - احادیث عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، حدیث: 608، مسند عبد بن حمید - احادیث ابن عمر،
 حدیث: 846، مسند ابی یعلیٰ الموصلی - اول مسند ابن عباس، حدیث: 2565، المعجم الاوسط للطبرانی - باب الالف،
 من اسبه احمد - حدیث: 75، المعجم الکبیر للطبرانی - من اسبه عبد اللہ، ومبا اسند عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما -
 سالم عن ابن عمر، حدیث: 12963

** حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”رات کی نماز دو دو کر کے ادا کی جائے گی اور رات کے آخری حصہ میں وتر میں ایک رکعت ادا کر لی جائے گی۔“

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”مغرب کی نماز دن کے وتر ہیں تو تم رات کی نماز میں بھی وتر ادا کرو۔“

4677 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ

حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَفَتِ الصُّبْحُ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

** حمید بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے نبی اکرم ﷺ سے رات کی نماز کے بارے میں دریافت کیا تو

نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”رات کی نماز میں دو دو رکعت ادا کی جائیں گی اور جب تمہیں صبح صادق قریب ہونے کا اندیشہ ہو تو تم ایک رکعت وتر

ادا کر لو۔“

4678 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى فَإِذَا خَفَتِ الصُّبْحُ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ

** حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”رات کی نماز دو دو کر کے ادا کی جائے گی جب تمہیں صبح صادق قریب ہونے کا اندیشہ ہو تو تم ایک رکعت وتر ادا کر

لو۔“

4679 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ: مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَفَتِ الصُّبْحُ فَأَوْتِرْ

** حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ سے رات کی نماز کے بارے میں دریافت کیا گیا تو

آپ نے ارشاد فرمایا:

”یہ نماز دو دو کر کے ادا کی جائے گی اور جب تمہیں صبح صادق قریب ہونے کا اندیشہ ہو تو ایک رکعت (ادا کر لو)۔“

4680 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، حَتَّى إِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ أَوْتَرَ

بِوَاحِدَةٍ، تُؤْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

** حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ سے رات کی نماز کے بارے میں دریافت کیا گیا تو

آپ نے ارشاد فرمایا:

”کوئی شخص دو دو رکعت ادا کرتا رہے گا یہاں تک کہ جب اُسے صبح صادق قریب ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ ایک رکعت ادا کرے گا جس کے ذریعہ وہ اپنی ادا کی ہوئی نماز کو طاق کر لے گا“۔

4681 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفَتِ الصُّبْحُ، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ * * حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: ”رات کی نماز دو دو کر کے ادا کی جائے گی جب تمہیں صبح صادق قریب ہونے کا اندیشہ ہو تو تم ایک رکعت وتر ادا کر لو“۔

بَابُ: الرَّجُلُ يُوتِرُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَيُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ

باب: جو شخص وتر ادا کرنے کے بعد (سو جائے) اور پھر وہ بیدار ہو کر نوافل ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو

4682 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا نَامَ عَلَى وَتْرٍ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ صَلَّى رَكْعَةً إِلَى وَتْرِهِ فَيَشْفَعُ لَهُ، ثُمَّ أَوْتَرَ بَعْدَ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَلَمْ يُعْجِبِهِ، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ لَيُوتِرُ فِي اللَّيْلَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ * * حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ جب وہ وتر ادا کرنے کے بعد سو جاتے تھے اور پھر رات کے وقت اٹھ کر نماز ادا کرتے تھے تو وہ اپنے وتر کے ساتھ ایک رکعت ادا کر کے اُسے جفت کر لیتے تھے پھر اُس کے بعد وہ اپنی نفل نماز کے آخر میں وتر ادا کرتے تھے۔

زہری بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اس بارے میں اطلاع ملی تو انہیں یہ بات اچھی نہیں لگی انہوں نے فرمایا: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک رات میں تین مرتبہ وتر ادا کرتے ہیں۔

4683 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُوتِرَ الرَّجُلُ ثُمَّ يَنَامَ، فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ شَفَعَ بِرَكْعَةٍ إِلَى وَتْرِهِ، ثُمَّ يُوتِرُ فِي آخِرِ صَلَاتِهِ قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُ ذَلِكَ * * ابن سیرین بیان کرتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی وتر ادا کرنے کے بعد سو جائے جب وہ رات کے وقت بیدار ہوگا تو وہ اپنے وتر کے ساتھ ایک رکعت ادا کر کے جفت نماز کر لے گا پھر وہ اپنی نماز کے آخر میں وتر ادا کرے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں: حسن بصری اسے مکروہ قرار دیتے تھے۔

4684 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنِ حِطَّانِ الرَّقَاشِيِّ، عَنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: إِنْ شِئْتَ إِذَا أَوْتَرْتَ قُمْتَ فَشَفَعْتَ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ أَوْتَرْتَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ بَعْدَ الْوَتْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شِئْتَ أَخَّرْتَ الْوَتْرَ حَتَّى تُوتِرَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

*** حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: اگر تم چاہو تو وتر ادا کر لو پھر جب تم بیدار ہو تو ایک رکعت کے ذریعہ آت جنت کر لو پھر اس کے بعد تم وتر ادا کرو اور اگر تم چاہو تو وتر کے بعد دو رکعت ادا کر لو اور اگر چاہو تو وتر کو مؤخر کر دو یہاں تک کہ رات کے آخری حصہ میں وتر ادا کرو۔

4685 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا أَوْتَرَ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَلَا يَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ وَصَلَّى شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ قَالَ: فَكَانَ عَطَاءٌ يُفْتِي يَقُولُ: إِذَا أَوْتَرَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ بَعْدَ فَانْصَلَ شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: آدمی جب رات کے ابتدائی حصہ میں وتر ادا کر لے گا تو وہ ایک رکعت کے ذریعہ اسے جنت نہیں کرے گا وہ صبح تک جفت رکعات ادا کرتا رہے گا۔

راوی بیان کرتے ہیں: عطاء بھی اس کے مطابق فتویٰ دیتے تھے کہ جب کوئی شخص رات کے ابتدائی حصہ میں وتر ادا کر لے اور پھر (سونے کے بعد) بیدار ہو جائے تو اسے صبح تک جفت رکعات ادا کرنی چاہئیں۔

4686 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ فَصَلِّ شَفْعًا حَتَّى تُصْبِحَ

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جب تم رات کے ابتدائی حصہ میں وتر ادا کر لو تو پھر تم صبح تک جفت رکعات ادا کرو گے۔

4687 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: ذَكَرَ لَهَا الرَّجُلُ يُوتِرُ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ، فَيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ قَالَتْ: ذَلِكَ يَلْعَبُ بِوَتْرِهِ. قَالَ: وَسَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْإِلْتِفَاتِ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَتْ: هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الصَّلَاةِ

*** سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ ان کے سامنے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا گیا جو وتر ادا کرنے کے بعد (سو جاتا ہے) پھر وہ بیدار ہو کر ایک رکعت کے ذریعہ اسے جفت کر لیتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: یہ اپنے وتر کے ساتھ کھیلتا ہے۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نماز کے دوران ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: یہ ایک اچکنا ہے اس طرح شیطان نماز اس کو اچک لیتا ہے۔

4688 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يُوتِرُ مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ قَالَ حَسَنٌ: وَقَدْ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ صَلَاتِهِمُ الْوَتْرَ

*** زبیر بن عدی ابراہیم نخعی کے بارے میں بیان کرتے ہیں: میں نے ان سے دریافت کیا: ایک شخص رات کے وقت وتر ادا کرنے کے بعد (سو جاتا ہے) پھر وہ بیدار ہو کر رات کے وقت نوافل ادا کرنا چاہتا ہے۔ تو ابراہیم نخعی نے فرمایا: یہ اچھا ہے!

پہلے لوگ اس بات کو مستحب قرار دیتے تھے کہ اُن کی (رات کی نفل) نماز کا آخری حصہ وتر ہو۔

4689 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ إِذَا أوترَ مِنَ اللَّيْلِ

صَلَّى شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ

* * * طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ جب وہ رات میں وتر ادا کر لیتے تھے تو

پھر وہ صبح تک جفت رکعات ادا کرتے تھے۔

4690 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ إِذَا أوترَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَشْفَعْ، صَلَّى

شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ

* * * ابن جرّج بیان کرتے ہیں: طاؤس جب رات میں وتر ادا کر لیتے تھے تو پھر وہ اُسے جفت نہیں کرتے تھے وہ تک

جفت رکعات ادا کرتے تھے۔

4691 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ طَاوُسٌ إِذَا أوترَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَشْفَعْ، وَرَبَّمَا

أوترَ أَوْلَاهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَآخِرَهُ مَرَّةً أُخْرَى، ذَكَرَهُ عَنْ أَبِيهِ

* * * ابن جرّج بیان کرتے ہیں: طاؤس جب رات میں وتر ادا کر لیتے تھے تو وہ اُسے جفت نہیں کرتے تھے بعض اوقات

وہ رات کے ابتدائی حصہ میں (وتر) ادا کر لیتے تھے اور بعض اوقات وہ آخری حصہ میں ادا کرتے تھے۔

راوی کہتے ہیں: میرا خیال ہے انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے۔

4692 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَيْسٍ الْأَوْدِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ

مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ عَنْ نَقِصِ الْوِثْرِ؟ فَقَالَ: إِذَا أوترَ، ثُمَّ قُمْتَ مِنَ اللَّيْلِ، فَاشْفَعْ بِرُكْعَةٍ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ

لِعَلْقَمَةَ فَقَالَ: إِنَّ عَمْرًا لَا يَدْرِي إِنَّمَا الْوِثْرُ وَاحِدَةٌ، فَإِذَا أوترَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى شَفْعًا حَتَّى

تُصْبِحَ

* * * ابن قیس اودی بیان کرتے ہیں: میں نے عمرو بن ميمون اودی سے وتر کی کمی کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں

نے فرمایا: جب تم وتر ادا کر لو پھر تم رات میں کسی وقت بیدار ہو تو ایک رکعت کے ذریعہ اُسے جفت کر لو۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں

نے اس بات کا تذکرہ علقمہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا: عمرو کو پتا ہی نہیں ہے! وتر ایک ہی مرتبہ ادا کیے جاتے ہیں جب تم وتر ادا کرو

(اور پھر سو جاؤ) پھر رات میں کسی وقت بیدار ہو جاؤ تو تم صبح صادق ہونے تک جفت رکعات ادا کرو گے۔

4693 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا نَامَ عَلَى وَثْرٍ، ثُمَّ

اسْتَيْقَظَ صَلَّى شَفْعًا حَتَّى يُصْبِحَ، وَحَدِيثُ عَمَّارٍ، وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي بَكْرٍ مِثْلُ هَذَا

* * * معمر نے ایک بزرگ کے حوالے سے مسروق کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ جب وہ وتر ادا کرنے کے بعد

سو جاتے تھے پھر جب وہ بیدار ہوتے تھے تو وہ صبح صادق ہونے تک جفت رکعات ادا کرتے تھے۔

حضرت عمار حضرت رافع بن خدیج، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کے بارے میں بھی اسی کی مانند منقول ہے۔

4694 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن التیمی، عن أبيه، عن أبي مجلز، عن قيس بن عباد قال:
كَانَ إِذَا أوترَ وَعَلَيْهِ لَيْلٌ قَعَدَ يَقْرَأُ حَتَّى يُصْبِحَ

* * قیس بن عباد بیان کرتے ہیں: جب وہ وتر ادا کر لیتے تھے اور انہوں نے ابھی رات میں مزید عبادت کرنی ہوتی تھی تو وہ بیٹھ کر تلاوت کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ صبح صادق ہو جاتی تھی۔

بَابُ مَا يُقْرَأُ فِي الْوِتْرِ، وَكَيْفَ التَّكْبِيرِ فِيهِ

باب: وتر میں کیا تلاوت کیا جائے اور اُس میں تکبیر کیسے کہی جائے؟

4695 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

* * سعید بن عبد الرحمن اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں سورہ الاعلیٰ، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔

4696 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدِ الْيَامِيِّ، عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْهَبِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبِّحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْصَرِفَ مِنَ الْوِتْرِ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فِي الثَّلَاثَةِ

* * سعید بن عبد الرحمن اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں سورہ الاعلیٰ، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز ختم کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو یہ پڑھتے تھے: "سبحان الملك القدوس!"

یہ آپ تین مرتبہ پڑھتے تھے اور تیسری مرتبہ میں اپنی آواز بلند کرتے تھے۔

4697 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عَنْ عَمْرِو بْنِ ذَرٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

* * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منقول ہے۔

4698 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرْتُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4: 4 - مسند احمد بن حنبل - مسند ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ - حدیث: 7498

وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي الثَّلَاثِ رَكَعَاتٍ الْآخِرِ فِي الْأُولَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّلَاثَةِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ "

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں مجھے یہ بات بتائی گئی ہے: (وہ بیان کرتی ہیں): نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں تین رکعات ادا کرتے تھے جن میں سے پہلی رکعت میں آپ سورہ الاعلیٰ کی تلاوت کرتے تھے دوسری رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت کرتے تھے تیسری رکعت میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے تھے۔

4699 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَادَانَ، عَنْ عَلِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ يَأْتِي أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَإِذَا زُلْزِلَتْ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ "

*** زاذان، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ وہ وتر کی نماز میں سورہ القدر، سورہ زلزال اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔

4700 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَغَيْرِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْوُتْرِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (وَأَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ)

*** ابراہیم نخعی کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ اس بات کو مستحب قرار دیتے تھے کہ وتر کی آخری رکعت میں سورہ اخلاص اور آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ کی تلاوت کی جائے۔

4701 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَقْرَأُ فِيهِنَّ مَا شِئْتُ، لَيْسَ فِيهِنَّ شَيْءٌ مَوْفُوتٌ

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: تم ان رکعات میں جو چاہو تلاوت کرو اس بارے میں کوئی چیز متعین نہیں ہے۔

4702 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ وَغَيْرِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَكْبِيرٌ إِذَا فَرَعْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْوُتْرِ، ثُمَّ تَقْنُتُ وَتَرْفَعُ صَوْتَكَ، ثُمَّ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ كَبَّرْتَ

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جب تم وتر کی آخری رکعت میں تلاوت کر کے فارغ ہو گے تو تم تکبیر کہو گے اور پھر تم بلند آواز میں دعائے قنوت پڑھو گے پھر جب تم رکوع میں جانے کا ارادہ کرو گے تو تم تکبیر کہو گے۔

بَابُ صَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ وَوُتْرِهِ

باب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی (نفل) نمازوں اور وتر کا تذکرہ

4703 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: بَلَّغْنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ عَشْرَةِ رَكَعَةٍ، فِيهَا رَكَعَتَانِ أَمَامَ الصُّبْحِ، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يُصَلِّيهِنَّ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي

*** عطاء بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیرہ رکعات وتر سمیت ادا کرتے تھے جن میں

سے دو رکعت آپ صبح کی نماز سے پہلے ادا کرتے تھے۔ (راوی کہتے ہیں:) میں نے دریافت کیا: نبی اکرم ﷺ یہ رکعات کس طرح ادا کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: مجھے نہیں معلوم!

4704 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَإِذَا فَجَرَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ اتَّكَى عَلَى شِقَائِهِ يَمِينٍ حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُهُ لِلصَّلَاةِ

* * سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ﷺ رات کے وقت گیارہ رکعات ادا کرتے تھے جب صبح صادق ہو جاتی تھی تو آپ دو مختصر رکعات ادا کرتے تھے پھر آپ دائیں پہلو کے بل ٹیک لگا کر لیٹ جاتے تھے یہاں تک کہ مؤذن آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو نماز کے لیے بلاتا تھا۔

4705 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَوْلَى لِلْأَنْصَارِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: مَنْ يَتَقَدَّمُ فَيَسْتَقِي لَنَا؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا، وَذَلِكَ مَرَجَعَهُمْ مِنَ الْحَدِيثِ، قَالَ جَابِرٌ: فَوَرَدَتْ آثَاةٌ فَاسْتَقَيْتُ وَمَلَأْتُ الْحَوْضَ، فَوَرَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَسْقِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ، يَا بِي أَنْتَ، فَسَقَى ثُمَّ أَخَذْتُ خِطَامَهُ أَوْ زِمَامَهُ، فَعَمَدْتُ بِهِ إِلَى بَطْحَاءَ نَزَلَ بِهَا فَصَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَأَنَا مَعَهُ إِلَى جَنْبِهِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَلَّىهَا

* * حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کون آگے بڑھ کر ہمیں کچھ پائے گا؟ تو میں نے کہا: میں ایسا کرتا ہوں! یہ ان لوگوں کے حدیبیہ سے واپس آنے کی بات ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں حوض پر آیا میں نے پانی پیا میں نے حوض کو بھر دیا پھر نبی اکرم ﷺ وہاں تشریف لائے نبی اکرم ﷺ نے دریافت کیا: کیا تم نے پانی پی لیا ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں! میرے والد آپ پر قربان ہوں! پھر نبی اکرم ﷺ نے پانی پینا شروع کیا تو میں نے آپ کے جانور کی لگام کو پکڑ لیا میں اُسے میدان کی طرف لے جانا لگا نبی اکرم ﷺ اُس سے نیچے اترے آپ نے تیرہ رکعات ادا کیں یہ عشاء کی نماز کے بعد کی بات ہے میں آپ کے پاس آپ کے پہلو میں موجود رہا۔

راوی بیان کرتے ہیں: میرا خیال ہے انہوں نے یہ بات بھی بیان کی تھی: نبی اکرم ﷺ نے عشاء کی نماز ادا کی تھی اُس کے بعد یہ رکعات (نوافل) ادا کی تھیں۔

4706 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ مَعَهُ عَلَى يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً حَتَّى حَزَرْتُ، قَدَرُ قِيَامِهِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرًا يَا أَيُّهَا الْمُرْمَلُ

* * حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: میں سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر موجود تھا نبی اکرم ﷺ رات کے

وقت نوافل ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے میں آپ کے بائیں طرف آ کر کھڑا ہوا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے دائیں طرف کر لیا، پھر نبی اکرم ﷺ نے تیرہ رکعت ادا کیں یہاں تک کہ میں نے آپ کے قیام کے بارے میں یہ اندازہ لگایا کہ آپ نے ہر ایک رکعت میں تقریباً اتنی تلاوت کی ہے جتنی سورہ مزل ہوتی ہے۔

4707 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، قال: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَلْمَةَ بِنِ كَهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "نِمْتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ، فَاتَى الْحَاجَةَ ثُمَّ جَاءَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَاتَى الْقِرْبَةَ فَاطْلَقَ شِنَاقَهَا، فَتَوَضَّأَ وَضُوءًا بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةً أَنْ يَرَى ابْنِي كُنْتُ أَيْبَغِيهِ يَعْنِي أُرَاقِبُهُ قَالَ: ثُمَّ تَمَّتْ فَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِمَا يَلِي أُذُنِي حَتَّى آدَارَنِي فَكُنْتُ عَنْ يَمِينِهِ، فَتَمَّتْ صَلَاتُهُ إِلَى ثَلَاثِ عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَا الصُّبْحِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ جَاءَ بِلَالٌ فَأَذَنَهُ بِالصَّلَاةِ، فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ"
قال سفيان: فذكر لنا عن ابن عباس أنه ذكر له ذلك فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحفظ قال: وقال بعض الفقهاء: النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه

وزادني يحيى، عن الثوري، قال ابن عباس: فكان في دعائه يقول: اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي سمعي نوراً، وفي لساني نوراً، وفي بصري نوراً، وعن يساري نوراً، وعن فوقي نوراً ومن تحتي نوراً، ومن بين يدي نوراً، ومن خلفي نوراً، وأعظم لي نوراً قال كريب: وسيت عندى في التابوت: وعصبي ومخي ودمي وشعري وبشري وعظامي

* * حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں اپنی خالہ سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کے ہاں رات کے وقت سو گیا، رات میں کسی وقت نبی اکرم ﷺ بیدار ہوئے آپ نے قضائے حاجت کی پھر آپ تشریف لائے آپ نے اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے پھر آپ سوئے پھر رات میں کسی وقت آپ بیدار ہوئے آپ مشکیزہ کے پاس تشریف لائے آپ نے اس کا منہ کھولا اور اس کے ذریعہ درمیانہ درجہ کا وضو کیا جو بہت زیادہ بھی نہیں تھا لیکن مکمل تھا پھر آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگے۔ میں نے یوں ظاہر کیا کہ جیسے میں ابھی اٹھا ہوں مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ نبی اکرم ﷺ یہ محسوس کریں کہ میں آپ کا جائزہ لے رہا تھا پھر میں اٹھا میں نے بھی ویسے ہی کیا جس طرح نبی اکرم ﷺ نے کیا تھا پھر میں آپ کے بائیں طرف کھڑا ہوا تو آپ نے مجھے کان کے پاس سے پکڑ کر پیچھے سے گھما کر اپنے دائیں طرف کر دیا، نبی اکرم ﷺ نے تیرہ رکعت مکمل ادا کیں جس میں صبح (یعنی فجر کی دو سنتیں) بھی شامل تھیں پھر نبی اکرم ﷺ لیٹ گئے اور سو گئے یہاں تک کہ آپ خراٹے لینے لگے پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو نماز کے لیے بلایا، تو نبی اکرم ﷺ اٹھے آپ نے نماز ادا کی اور آپ نے از سر نوہ وضو نہیں کیا۔

سفيان کہتے ہیں: (سلمہ نامی راوی نے) ہمارے سامنے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ بات ذکر کی کہ

انہوں نے یہ چیز ذکر کی ہے پھر انہوں نے یہ کہا کہ نبی اکرم ﷺ حفاظت کرتے تھے (یعنی آپ کا ذہن بیدار ہوتا تھا)۔
انہوں نے یہ بھی کہا ہے: بعض فقہاء نے یہ بات بیان کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی آنکھ سو جاتی تھی لیکن آپ کا قلب مبارک نہیں سوتا تھا۔

سفیان ثوری بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنی دعا میں یہ کہا کرتے تھے:

”اے اللہ! میری دل میں نور کر دے، میری سماعت میں نور کر دے، میری زبان میں نور کر دے، میری بصارت میں نور کر دے، میرے دائیں طرف نور کر دے، میرے بائیں طرف نور کر دے، میرے اوپر نور کر دے، میرے نیچے نور کر دے، میرے سامنے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے لیے نور کو زیادہ کر دے۔“

کریب نامی راوی بیان کرتے ہیں: میرے پاس تابوت میں (تحریری شکل میں ان الفاظ کا بھی ذکر ہے:) میرے پٹھوں میں، میرے گودے میں، میرے خون میں، میرے بالوں میں، میری کھال میں اور میری ہڈیوں میں (نور کر دے)۔“

4708 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: فَاضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَبَاتَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَيْءٍ مُعَلَّقَةٍ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي وَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا، فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ“

* * * حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ وہ اپنی خالہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رات کے وقت ٹھہر گئے۔ وہ بیان کرتے ہیں: میں چوڑائی کی سمت میں لیٹ گیا، نبی اکرم ﷺ اور آپ کی اہلیہ لبائی کی سمت میں لیٹ گئے رات میں کسی وقت جب نصف رات ہو چکی تھی یا اس سے کچھ پہلے یا کچھ بعد کی بات ہے کہ نبی اکرم ﷺ بیدار ہوئے، آپ بیٹھے، آپ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر نیند کے اثرات ختم کیے، پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری دس آیات کی تلاوت کی، پھر نبی اکرم ﷺ لٹکے ہوئے مشکیزہ کی طرف بڑھے، آپ نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگے۔ میں بھی اٹھا، میں نے بھی ویسا ہی کیا جس طرح نبی اکرم ﷺ نے کیا، پھر میں آیا اور نبی اکرم ﷺ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، نبی اکرم ﷺ نے اپنا دست مبارک میرے سر پر رکھا، آپ نے میوے کان کو پکڑ کر اسے ملا، پھر آپ نے دو رکعت ادا کیں، پھر دو رکعت ادا کیں، پھر دو رکعت ادا کیں، پھر وتر ادا کیے، پھر آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ مؤذن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اٹھے، آپ نے دو مختصر رکعت ادا کیں، پھر آپ تشریف لے گئے اور صبح کی نماز پڑھائی۔

4709 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن جریج، عن عبد اللہ بن ابی ملیکہ قال: أخبرنی یعلی بن مملک، انه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت: كان يصلي العشاء الآخرة، ثم يسبح، ثم يصلي بعدها ما شاء من الليل، ثم ينصرف فيرقد مثل ما صلى، ثم يستيقظ من نومه تلك فيصلي مثل ما نام، وصلاته تلك الآخرة تكون إلى الصبح

*** عبد اللہ بن ابوملکہ بیان کرتے ہیں: یعلی بن مملک نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نبی اکرم ﷺ کی رات کی نماز کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا: نبی اکرم ﷺ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد نوافل ادا کرتے تھے پھر اس کے بعد رات میں جب آپ کی مرضی ہوتی نماز ادا کرتے تھے پھر آپ نماز ختم کر کے اتنی ہی دیر تک سوئے رہتے جتنی دیر آپ نماز ادا کرتے رہے تھے آپ کی یہ بعد والی نماز صبح صادق تک جاری رہتی تھی۔

4710 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاؤس، عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبع عشرة ركعة من الليل

*** طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ رات کے وقت سترہ رکعات ادا کرتے تھے۔

4711 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن مالك، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن انه سأل عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة، فقلت: يا رسول الله اتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، عيناى تنامان ولا ينام قلبى

*** ابوسلمہ بن عبدالرحمن بیان کرتے ہیں: انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا: نبی اکرم ﷺ رمضان میں کس طرح نماز ادا کرتے تھے؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: نبی اکرم ﷺ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ میں گیارہ رکعات سے زیادہ ادا نہیں کرتے تھے آپ چار رکعات ادا کرتے تھے تم ان کی خوبصورتی اور طوالت کے بارے میں نہ پوچھو! پھر آپ تین رکعات ادا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا آپ وتر ادا کرنے سے پہلے سونے لگے ہیں؟ تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے عائشہ! میری آنکھیں سو جاتی ہیں، لیکن میرا دل نہیں سوتا ہے۔

4712 - حدیث نبوی: قال مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عبد الله بن قيس بن مخزومة، عن زيد بن خالد الجهني، انه قال: لا رفقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فتوسدت عتبه أو فسطاطه فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى

رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللَّتَيْنِ قَبْنَهُمَا، ثُمَّ أوترَ فِتْلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً "

* * حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: (میں نے سوچا) کہ میں نبی اکرم ﷺ کی نماز کا ضرور جائزہ لوں گا، تو میں نبی اکرم ﷺ کی چوکھٹ کے پاس (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) آپ کے خیمہ کے پاس تکیہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ نبی اکرم ﷺ کھڑے ہوئے، آپ نے دو مختصر رکعات ادا کیں، پھر آپ نے دو طویل رکعات ادا کیں، پھر آپ نے مزید دو رکعات ادا کیں، لیکن یہ پہلے والی دو رکعات سے کچھ کم تھیں، پھر آپ نے وتر ادا کیے، تو یہ تیرہ رکعات ہو گئیں۔

4713 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكْعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا ضَعَفَ أوترَ بِسَبْعِ رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

* * سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ﷺ وتر سمیت نو رکعات ادا کرتے تھے اور دو رکعات آپ بیٹھ کر ادا کرتے تھے، جب آپ کمزور ہو گئے، تو آپ وتر سمیت سات رکعات ادا کرتے تھے اور دو رکعات آپ بیٹھ کر ادا کرتے تھے۔

4714 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى: أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، كَانَ جَارًا لَهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ارْتَحَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيَبِيعَ عَقَارًا لَهُ وَمَا لَا يَجْعَلُهُ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ لِمَنْ يُجَاهِدُ الرُّومَ حَتَّى يَمُوتَ، فَلَقِيَهُ رَهْطٌ مِنْ قَوْمِهِ فَنَهَوْهُ عَنْ ذَلِكَ، وَأَخْبَرُوهُ أَنَّ رَهْطًا مِنْهُمْ سِتَّةَ أَرَادُوا ذَلِكَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ لَهُمْ: أَلَيْسَ لَكُمْ فِي أَسْوَةٍ؟ فَلَمَّا حَدَّثُوهُ بِذَلِكَ رَاجَعَ امْرَأَتَهُ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْنَا أُخْبِرَ أَنَّهُ أتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَأَلَهُ عَنِ الْوَتْرِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوْلَا أُبْنُكَ، أَوْ أَلَا أَدُلُّكَ بِأَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ بِوَتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: مَنْ؟ قَالَ: عَائِشَةُ، فَاتِيهَا فَسَلْهَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ، قَالَ سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ: فَاتَيْتُ حَكِيمَ بْنَ أَلْفَلَحٍ فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا، إِنِّي نَهَيْتُهَا أَنْ تَقُولَ بَيْنَ الشَّيْعَتَيْنِ شَيْئًا فَابْتُ إِلَّا مُضِيًّا فِيهَا، فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ فَجَاءَ مَعِيَ، فَسَلَّمْنَا عَلَيْهَا، فَدَخَلَ فَعَرَفْتُهُ، فَقَالَتْ: أَحَكِيمٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ قَالَ: سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قَالَ: ابْنُ عَامِرٍ قَالَتْ: نِعَمْ الْمَرْءُ كَانَ عَامِرٌ، أُصِيبَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ: فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي سَأَلْتُ عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ: أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ الْقُرْآنَ قَالَ: فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَبَدَأَ لِي، فَقُلْتُ لَهَا: إِنِّي سَأَلْتُ عَنْ قِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: أَمَا تَقْرَأُ هَذِهِ السُّورَةَ يَا أَيُّهَا الْمُزْمَلُ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى قَالَتْ: فَإِنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ الْقِيَامَ فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ حَوْلًا حَتَّى انْتَفَحَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَأَمْسَكَ اللَّهُ خَاتِمَتَهَا اثْنِي عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ التَّخْفِيفَ فِي آخِرِ السُّورَةِ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ إِذْ كَانَ فَرِيضَةً، فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ فَبَدَأَ لِي

فَسَأَلْتُهَا، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أُنِيبُنِي عَنْ وَتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كُنَّا نَعُدُّ لَهُ سِوَاكَهَ وَطَهْوَرَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ، ثُمَّ يَتَسَوَّكُ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لَا يَقْعُدُ فِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ الثَّامِنَةِ، فَيُحَمِّدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ حَتَّى يُصَلِّيَ التَّاسِعَةَ، فَيَقْعُدُ وَيُحَمِّدُ اللَّهَ وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ، فِتْلِكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكَعَةً أَيْ بُنَى فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْ تَرَ بِسَبْعِ صَلَاتِي رَكَعَتَيْنِ وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ فِتْلِكَ تِسْعَ أَيْ بُنَى وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَلَبَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكَعَةً، وَلَا أَعْلَمُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَةٍ، وَلَا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ، وَلَا قَامَ شَهْرًا غَيْرَ رَمَضَانَ قَالَ: فَاتَيْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَنْبَأْتُهُ بِحَدِيثِهَا، فَقَالَ: صَدَقْتَ، أَمَا إِنِّي لَوْ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهَا لَشَافَهْتُهَا بِهِ مُشَافَهَةً، قَالَ حَكِيمُ بْنُ أَفْلَحٍ: أَمَا إِنِّي لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ مَا تَدْخُلُ عَلَيْهَا مَا أَنْبَأْتُكَ بِحَدِيثِهَا

*** زرارہ بن اوفی بیان کرتے ہیں: سعد بن ہشام بن عامر جو ان کے پڑوسی تھے انہوں نے انہیں بتایا کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی پھر وہ مدینہ منورہ چلے گئے تاکہ وہاں موجود اپنی زمین اور جائیداد فروخت کر دیں اور پھر اسے ہتھیار اور گھوڑوں وغیرہ کی خریداری میں استعمال کریں ان لوگوں کے لیے جو رومیوں سے جہاد کر رہے ہیں اور پھر وہ جہاد کرتے ہوئے انتقال کر جائیں۔ ان کی قوم کے کچھ افراد ان سے ملے انہوں نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی قوم کے چھ افراد نے نبی اکرم ﷺ کے زمانہ اقدس میں یہی ارادہ کیا تھا تو نبی اکرم ﷺ نے ان لوگوں کو ایسا کرنے سے منع کیا تھا آپ ﷺ نے ان سے فرمایا تھا: کیا تمہارے لیے میرے طریقہ میں نمونہ نہیں ہے؟ جب ان لوگوں نے سعد بن ہشام کو یہ بات بتائی تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے رجوع کر لیا جب وہ ہمارے پاس آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گئے اور ان سے وتر کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: کیا میں تمہیں اس شخصیت کے بارے میں نہ بتاؤں اور کیا میں تمہاری رہنمائی اس شخصیت کی طرف نہ کروں؟ جو نبی اکرم ﷺ کے وتر کے بارے میں روئے زمین میں سب سے زیادہ علم رکھتی ہے؟ میں نے دریافت کیا: وہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا: سیدہ عائشہ! تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے اس بارے میں دریافت کرو پھر میرے پاس واپس آ کر ان کے جواب کے بارے میں مجھے بتانا۔

سعد بن ہشام کہتے ہیں: میں حکیم بن افلح کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ وہ میرے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں چلیں! انہوں نے کہا: میں ان کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے انہیں منع کیا تھا کہ وہ دونوں گروہوں کے بارے میں کچھ نہ کہیں، لیکن انہوں نے میری بات نہیں مانی اور اس سلسلہ میں اپنا کردار ادا کیا۔ سعد بن ہشام کہتے ہیں: میں نے انہیں قسم دی تو وہ میرے ساتھ آ گئے، ہم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو سلام کیا، جب حکیم بن افلح اندر داخل ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں پہچان لیا، وہ بولیں: تم حکیم ہو! انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا: تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے جواب

دیا: سعد بن ہشام سیدہ عائشہ نے دریافت کیا: ہشام کون؟ انہوں نے جواب دیا: عامر کے صاحبزادے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: عامر بہت اچھے آدمی تھے وہ غزوہ احد کے موقع پر نبی اکرم ﷺ کے ساتھ شرکت کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: اے ام المؤمنین! آپ مجھے نبی اکرم ﷺ کے اخلاق کے بارے میں بتائیے! سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: کیا تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے جواب دیا: جی ہاں! سیدہ عائشہ نے فرمایا: نبی اکرم ﷺ کا اخلاق قرآن کے مطابق تھا۔ راوی کہتے ہیں: پھر میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا تو مجھے خیال آیا میں نے ان سے دریافت کیا: آپ مجھے نبی اکرم ﷺ کے قیام (یعنی رات کے نوافل) کے بارے میں بتائیے! تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا: کیا تم نے یہ سورت نہیں پڑھی ہے: ”اے چادر اوڑھنے والے!“ میں نے جواب دیا: جی ہاں! تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے قیام کو فرض قرار دیا تھا، تو نبی اکرم ﷺ اور آپ کے اصحاب ایک سال تک رات کے وقت قیام کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پاؤں پھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آخری حصہ بارہ ماہ تک نازل نہیں کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں تخفیف سے متعلق حکم نازل کر دیا، تو رات کے وقت کا قیام جو پہلے فرض تھا وہ اب نفل ہو گیا۔

(راوی کہتے ہیں:) میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا لیکن پھر مجھے خیال آیا تو میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا: میں نے کہا: اے ام المؤمنین! آپ مجھے نبی اکرم ﷺ کی وتر کے نماز کے بارے میں بتائیے! تو سیدہ عائشہ نے فرمایا: ہم رات کے وقت نبی اکرم ﷺ کی مسواک اور وضو کا پانی تیار کر کے رکھتے تھے، جب اللہ کو منظور ہوتا تھا اس وقت نبی اکرم ﷺ بیدار ہوتے تھے، پھر آپ مسواک کرتے تھے وضو کرتے تھے، پھر آپ نور رکعت ادا کرتے تھے، جن کے درمیان آپ قعدہ نہیں کرتے تھے، آٹھویں رکعت کے بعد قعدہ کرتے تھے، پھر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے، اُس کا ذکر کرتے تھے، اُس سے دعا مانگتے تھے، پھر آپ کھڑے ہو جاتے تھے، آپ نے سلام نہیں پھیرا، ہوتا تھا یہاں تک کہ آپ نویں رکعت ادا کرنے کے بعد قعدہ میں بیٹھتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے تھے، اُس کا ذکر کرتے تھے، اُس سے دعا مانگتے تھے اور پھر بلند آواز میں سلام پھیرتے تھے، اُس کے بعد آپ بیٹھ کر دو رکعت ادا کرتے تھے جو آپ کے سلام پھیرنے کے بعد ہوتی تھیں، یہ گیارہ رکعات ہو جاتی ہیں، اے میرے بیٹے! جب نبی اکرم ﷺ کی عمر شریف زیادہ ہو گئی اور آپ کا جسم بھاری ہو گیا، تو آپ سات رکعات وتر سمیت ادا کرنے لگے، پھر آپ سلام پھیرنے کے بعد دو رکعت بیٹھ کر ادا کرتے تھے، تو یہ نور رکعت ہو گئیں، اے میرے بیٹے! جب نبی اکرم ﷺ کوئی نماز ادا کرتے تھے، تو آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ اُسے باقاعدگی سے ادا کریں اور نبی اکرم ﷺ جب نیند یا کسی بیماری کی وجہ سے رات کے وقت نوافل ادا نہیں کر پاتے تھے، تو آپ دن کے وقت بارہ رکعات ادا کرتے تھے، میرے علم کے مطابق نبی اکرم ﷺ نے کبھی بھی ایک رات میں (پورا) قرآن نہیں پڑھا اور نہ ہی صبح صادق ہونے تک رات بھر (یعنی ساری رات) کبھی آپ نے نوافل ادا کیے، نہ ہی آپ نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورا مہینہ روزے رکھے۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور انہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی نقل کردہ حدیث کے بارے میں بتایا تو انہوں نے فرمایا: انہوں نے سچ کہا ہے! اگر میں ان کے ہاں جاسکتا ہوتا، تو ان سے براہ راست یہ روایت سن

لیتا۔ حکیم بن افرح نے کہا: اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ آپ اُن کے ہاں آتے جاتے نہیں ہیں، تو میں اُن کی حدیث آپ کو نہ بیان کرتا۔

4715 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ عُمَارَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ

عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعًا فَلَمَّا ثَقُلَ وَأَسَنَّ صَلَّى سَبْعًا

*** سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ﷺ رات کے وقت نو رکعات ادا کرتے تھے جب آپ کا وزن

زیادہ ہو گیا اور عمر شریف زیادہ ہو گئی تو آپ سات رکعات ادا کرتے تھے۔

4716 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: انْقَصِرْ عَلَيَّ وَتِرِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: بَلْ زِيَادَةُ الْخَيْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ

*** ابن جریج نے عطاء کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ میں نے اُن سے دریافت کیا: کیا ہم نبی اکرم ﷺ کے

وتر سے کم کر سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: بھلائی کا زیادہ ہونا میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔

بَابُ الضُّجْعَةِ بَعْدَ الْوَتْرِ، وَبَابُ النَّافِلَةِ مِنَ اللَّيْلِ

باب: وتر ادا کرنے کے بعد لیٹ جانا باب: رات کے وقت نوافل ادا کرنا

4717 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ بَعْدَ

الْوَتْرِ ضُجْعَةً أَوْ نَوْمَةً

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: پہلے لوگ وتر کے بعد لیٹ جانے یا سونے کو پسند کرتے تھے۔

4718 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ أَبِي النَّضْرِ أَوْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ

عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ فَإِنْ كُنْتُ مُسْتَقِظَةً حَدَّثَنِي

وَأَلَّا اضْطَجَعَ

*** سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ﷺ رات کے وقت نماز ادا کرتے تھے جب آپ نے وتر کا ارادہ

کرتے (یعنی جب وتر ادا کر لیتے) تو اگر میں جاگ رہی ہوتی تھی تو آپ میرے ساتھ بات چیت کرتے تھے ورنہ آپ بھی لیٹ

جاتے تھے۔

4719 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، وَرَافِعَ

بْنَ خَدِيجٍ، وَأَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، كَانُوا يَضْطَجِعُونَ عِنْدَ رَكْعَتِي الْفَجْرِ، وَيَأْمُرُونَ بِذَلِكَ "

*** ابن سیرین بیان کرتے ہیں: حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت رافع بن خدیج اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم فجر کی

دورکعت ادا کرنے کے بعد لیٹ جاتے تھے اور یہ لوگ اس کی ہدایت بھی کرتے تھے۔

4720 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ: لَا نَفَعَلُهُ، وَيَقُولُ:

کفی بالتسليم

* * حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے: سلام پھیر دینا کافی ہے۔

4721 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهری، عن عروۃ، عن عائشة قالت: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلع الفجر یصلی رکعتین خفیفین، ثم یضطجع علی شقیہ الایمن حتی یتیبہ المؤذن فیؤذنه بالصلاة

* * سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق ہو جانے کے بعد دو مختصر رکعات ادا کرتے تھے پھر آپ دائیں پہلو کے بل لیٹ جاتے تھے یہاں تک کہ مؤذن آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو نماز کے لیے بلاتا تھا۔

4722 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن جریج قال: اخبرنی من اصدق: ان عائشة قالت: کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا طلع الفجر یصلی رکعتین خفیفین، ثم یضطجع علی شقیہ الایمن حتی یتیبہ المؤذن فیؤذنه بالصلاة، لم یضطجع لیسنة ولكنه کان یداب لیلۃ فیستریح قال: فكان ابن عمر یحصبهم اذا راہم یضطجعون علی ایمانہم

* * سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق ہو جانے کے بعد دو مختصر ادا کرتے تھے پھر آپ دائیں پہلو کے بل لیٹ جاتے تھے یہاں تک کہ مؤذن آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو نماز کے لیے اطلاع دیتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے طور پر نہیں لیٹتے تھے بلکہ آپ رات بھر عبادت کی وجہ سے بعد میں ذرا آرام کر لیتے تھے۔

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب لوگوں کو دائیں پہلو کے بل لیٹے ہوئے دیکھتے تھے تو انہیں کنکریاں مارا کرتے تھے۔

4723 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن معمر، وابن جریج، قالوا: حدثننا ابن شہاب، عن عروۃ، عن عائشة قالت: خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ من جوف اللیل فصلی فی المسجد، فتاب رجال فصلوا معہ بصلاہہ، فلما أصبح تحدّثوا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد خرج فصلی فی المسجد من جوف اللیل، فاجتمع اللیلۃ المقبلۃ اکثر منهم، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جوف اللیل، فاجتمع فصلی فصلوا معہ بصلاہہ، ثم أصبحوا فتحديثوا بذلك، فاجتمع الیہ اللیلۃ الثالثۃ ناسٌ کثیرٌ حتی کثر اهل المسجد قالت: فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من جوف اللیل فصلوا معہ قالت: فلما کان اللیلۃ الرابعۃ اجتمع الناس حتی کاد المسجد یعجز عن اہلہ قالت: فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یخرج قالت: حتی سمعت ناساً منهم یقولون: الصلاة، فلم یخرج الیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلما صلی صلاة الفجر سلم، ثم قام فی الناس فتشهد، ثم قال: اما بعد، فانه لم یخف علی شأنکم اللیلۃ، ولیکنی

خَشِيْتُ أَنْ تَفْرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعَجِزُوا عَنْهَا

*** سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ نصف رات کے قریب تشریف لے گئے، آپ نے مسجد میں نماز ادا کی، کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آپ کے ساتھ آپ کی نماز کی پیروی میں نماز ادا کی، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے یہ بات چیت کی کہ نبی اکرم ﷺ نصف رات کے وقت تشریف لائے تھے اور آپ نے مسجد میں نماز ادا کی تھی، اگلی رات لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، نبی اکرم ﷺ نصف رات کے وقت تشریف لے گئے، لوگ اکٹھے ہوئے، انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی اقتداء کی، آپ کی پیروی میں نماز ادا کی، جب صبح ہوئی تو لوگوں نے اس بارے میں آپس میں بات چیت کی، تو تیسری رات بہت سے لوگ اکٹھے ہو گئے یہاں تک کہ اہل مسجد کی تعداد زیادہ ہو گئی۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ﷺ نصف رات کے وقت تشریف لے گئے، آپ نے نماز ادا کی، لوگوں نے آپ کی پیروی میں نماز ادا کی۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں: جب چوتھی رات آئی تو لوگوں کا اجتماع ہو گیا یہاں تک کہ مسجد بھر گئی۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں: تو نبی اکرم ﷺ (گھر میں) تشریف فرما رہے، آپ ان کے پاس تشریف نہیں لے گئے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں: یہاں تک کہ میں نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا: نماز! لیکن نبی اکرم ﷺ پھر بھی ان لوگوں کے پاس تشریف نہیں لے کر گئے، جب نبی اکرم ﷺ نے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سلام پھیرا تو آپ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے، آپ نے تشہد کے کلمات کہے اور پھر یہ ارشاد فرمایا: اما بعد! گزشتہ رات تمہارا معاملہ مجھ سے مخفی نہیں تھا، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم اسے ادا کرنے سے عاجز ہو جاؤ گے۔

بَابُ الصَّلَاةِ فِيْمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ

باب: مغرب اور عشاء کے درمیان نماز ادا کرنا

4724 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: "بَلَّغْنِي أَنَّهُا نَزَلَتْ (لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ

أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ) (آل عمران: 113) فِيْمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ"

*** منصور بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی:

"اہل کتاب میں سے برابر نہیں ہیں، ایک امت قائم کرنے والی ہے۔"

اس سے مراد یہ ہے: مغرب اور عشاء کے درمیان (نماز ادا کرنے والی ہے)۔

4725 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ الْأَسْوَدِ

بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: نِعَمَ سَاعَةٌ الْغَفْلَةِ فِيْمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ يَعْنِي الصَّلَاةَ

*** اسود بن یزید بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جی ہاں! غفلت کی گھڑی میں جو مغرب اور عشاء

کے درمیان ہوتی ہے (اس میں) نماز ادا کرنا (عمدہ ہے)۔

4726 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ بَدْرِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَلْمَانَ

قَالَ: صَلُّوا فِيمَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فَإِنَّهُ يُخَفَّفُ عَنْ أَحَدِكُمْ مِنْ حِزْبِهِ، وَيَذْهَبُ عَنْهُ مَلْعَاةٌ أَوَّلَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ مَلْعَاةَ أَوَّلِ اللَّيْلِ مَهْدَنَةٌ لِآخِرِهِ

* * حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: تم لوگ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز ادا کرو؛ کیونکہ تم میں سے کسی ایک شخص کے لیے اگر اس معمول کو اختیار کرنا آسان ہو تو اُس سے رات کے ابتدائی حصہ کی لغویات ختم ہو جائیں گی اور رات کے ابتدائی حصہ کی لغویات اُس کے آخری حصہ میں سستی پیدا کر دیتی ہیں۔

4727 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ تَبِيْعٍ قَالَ: مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يُحْسِنُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ وَالرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

* * عطاء نے تبیع کا یہ بیان نقل کیا ہے: جو شخص عشاء کے بعد چار رکعات ادا کرے، جن میں وہ عمدہ طریقہ سے قرأت کرے، رکوع کرے اور سجدہ کرے تو اُسے شب قدر کا سا اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔

4728 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ قَالَ: مَنْ رَكَعَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَ كَالْمُعْتَقِ غَزْوَةً بَعْدَ غَزْوَةٍ

* * حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے شاید "مرفوع" حدیث کے طور پر یہ بات نقل کی ہے: "جو شخص مغرب کے بعد چار رکعات ادا کرتا ہے وہ گویا ایک غزوہ کے بعد دوسرے غزوہ میں حصہ لیتا ہے۔"

4729 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي اسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: رَأَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَجُلًا يُصَلِّي بَعْدَ الْمَغْرِبِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، فَقَالَ لَهُ: أَفَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَإِنَّهُمَا رَكَعَتَانِ أَذْبَارَ السُّجُودِ وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ مَعْمَرٌ

* * عاصم بن ضمرہ بیان کرتے ہیں: حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو مغرب کے بعد چار رکعات ادا کرتے ہوئے دیکھا تو اُس سے دریافت کیا: کیا تمہاری کوئی فرض نماز رہ گئی تھی؟ اُس نے جواب دیا: جی نہیں! تو انہوں نے فرمایا: اس وقت دو رکعات ادا کی جاتی ہیں جو سجود (یعنی فرض نماز) کے بعد ہوتی ہیں۔

معر اس کے مطابق فتویٰ دیتے تھے۔

4730 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي اسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: إِنَّمَا التَّهَجُّدُ بَعْدَ النَّوْمِ

* * عبدالرحمن بن اسود فرماتے ہیں: تہجد سونے کے بعد ہوتی ہے۔

4731 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: رَأَى مُجَاهِدٌ صَلَّى بَعْدَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ: إِنَّمَا هُمَا رَكَعَتَانِ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَمَا رَأَيْتَ طَاوَسًا يَزِيدُ عَلَيَّ رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ؟

* * ابراہیم بن میسرہ بیان کرتے ہیں: مجاہد نے مجھے مغرب کے بعد نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو بولے: یہ دو رکعت

ہوتی ہیں۔

ابراہیم بن میسرہ بیان کرتے ہیں: میں نے طاؤس کو مغرب کے بعد دو رکعت سے زیادہ ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

بَابُ الصَّلَاةِ مِنَ اللَّيْلِ

باب: رات کے وقت نماز ادا کرنا

4732 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: (إِنَّ نَاشِئَةَ

اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ) (المزمل: 6) قَالَ: إِذَا قَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ فَهِيَ نَاشِئَةٌ

قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَقَالَ لَيْثٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ: مَا كَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَهُوَ نَاشِئَةٌ

*** مجاہد اللہ تعالیٰ کے اس فرمان:

”بے شک رات کا جاگنا زیادہ مشکل ہے۔“

مجاہد یہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی رات کے وقت نماز ادا کرے تو یہ ناشئہ ہے۔

سفیان ثوری اور لیث نے مجاہد کا یہ قول نقل کیا ہے: عشاء کے بعد جو وقت ہے وہ ”ناشئہ“ ہے۔

4733 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَا كَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَهُوَ

نَاشِئَةٌ

*** حسن بصری فرماتے ہیں: عشاء کے بعد جو وقت ہے وہ ”ناشئہ“ ہے۔

4734 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ سَلْمَةَ بْنِ وَهْرَامٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

بُوذَوَيْهِ، أَنَّهُمَا سَمِعَا طَاوُسًا قَالَ: مَنْ صَلَّى قَبْلَ الْفَجْرِ رَكَعَتَيْنِ كَانَ مِنَ الْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ

*** طاؤس فرماتے ہیں: جو شخص فجر سے پہلے دو رکعت ادا کرتا ہے اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو سحر کے وقت

دعاے مغفرت کرتے ہیں (جن کا ذکر قرآن میں ہے)۔

4735 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ زُبَيْدٍ، عَنِ مَرْثَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَضْلُ صَلَاةِ اللَّيْلِ

عَلَى صَلَاةِ النَّهَارِ كَفَضْلِ صَدَقَةِ السِّرِّ عَلَى صَدَقَةِ الْعَلَانِيَةِ قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّكَ مَا كُنْتَ فِي صَلَاةٍ كَأَنَّكَ

تَفْرَعُ بَابَ الْمَلِكِ، وَمَنْ قَرَعَ بَابَ الْمَلِكِ يُوْشِكُ أَنْ يُفْتَحَ لَهُ

*** حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رات کی (نفل) نماز کو دن کی (نفل) نماز پر وہی فضیلت حاصل ہے جو پوشیدہ

طور پر صدقہ کرنے کو اعلانیہ طور پر صدقہ کرنے پر حاصل ہے۔

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب تک تم نماز ادا کرتے ہو گویا کہ تم بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہے

ہوتے ہو اور جو شخص بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے تو اس بات کا امکان موجود ہوتا ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے۔

4736 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: فَضِلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ

عَلَى صَلَاةِ النَّهَارِ كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى صَلَاةِ التَّطَوُّعِ

* * ابن شہاب بیان کرتے ہیں: رات کی (نفل) نماز کو دن کی (نفل) نماز پر وہی فضیلت حاصل ہے جو فرض نماز کو

نفل نماز پر حاصل ہے۔

4737 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ،

أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ سَلْمَانَ يَنْظُرُ مَا اجْتِهَادُهُ قَالَ: فَقَامَ يُصَلِّي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَكَانَهُ لَمْ يَرَ الَّذِي كَانَ يَنْظُرُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ

لَهُ فَقَالَ سَلْمَانُ: "حَافِظُوا عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ؛ فَإِنَّهُنَّ كَفَّارَاتٌ لِهَذِهِ الْجَرَاجَاتِ مَا لَمْ تُصَبِّ

الْمَفْتَلَةَ، فَإِذَا صَلَّى النَّاسُ الْعِشَاءَ صَدَرُوا عَلَيَّ ثَلَاثَ مَنَازِلَ: مِنْهُمْ مَنْ عَلِيهِ وَلَا لَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ،

وَمِنْهُمْ مَنْ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، فَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ وَلَا لَهُ فَرَجُلٌ اغْتَمَّ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ وَغَفَلَةَ النَّاسِ فَكَبَّ رَأْسَهُ فِي

الْمَعَاصِي، فَذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ، وَأَمَّا الَّذِي لَهُ وَلَا عَلَيْهِ فَرَجُلٌ اغْتَمَّ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ وَغَفَلَةَ النَّاسِ فَقَامَ يُصَلِّي

فَذَلِكَ لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، وَأَمَّا الَّذِي لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ فَرَجُلٌ صَلَّى وَنَامَ فَذَلِكَ لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ، وَإِيَّاكَ وَالْحَقِّقَةَ،

وَعَلَيْكَ بِالْقُصْدِ وَدَوَامٍ"

* * طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ہاں رات بسر کی تاکہ ان کے اجتہاد

(یعنی رات کے وقت کی عبادت کے اہتمام) کا جائزہ لیں۔ راوی بیان کرتے ہیں: حضرت سلمان رضی اللہ عنہ رات کے آخری حصہ میں

کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ انہیں یہ اندازہ نہیں ہو پایا کہ طارق کا گمان کیا ہے۔ پھر طارق نے اپنا

گمان ان کے سامنے ذکر کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم یہ پانچ نمازیں باقاعدگی سے ادا کرو یہ ان زخموں (یعنی

گناہوں) کا کفارہ ہوں گی جبکہ تم نے کوئی قتل نہ کیا ہو جب لوگ عشاء کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو ان کی تین حیثیتیں ہوتی ہیں ان

میں سے کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ نہ تو اس کے ذمہ کوئی چیز ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے حق میں کوئی چیز ہوتی ہے کچھ لوگ ایسے

ہوتے ہیں جن کے حق میں کوئی چیز ہوتی ہے ان پر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی (یعنی انہیں کسی چیز کا گناہ نہیں ہوتا) اور کچھ وہ لوگ

ہوتے ہیں جنہیں نہ کچھ حاصل ہوتا ہے اور نہ کچھ لازم ہوتا ہے جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جس پر چیز لازم ہوتی ہے اور اسے

حاصل کچھ نہیں ہوتا تو یہ وہ شخص ہے جو رات کی تاریکی اور لوگوں کی غفلت کو غنیمت سمجھتا ہے اور پھر وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ وہ

شخص ہے جسے گناہ حاصل ہوتا ہے اور جسے ثواب نہیں ملتا۔ جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جسے ثواب حاصل ہوتا ہے اور اسے کوئی

گناہ نہیں ہوتا تو یہ وہ شخص ہے جو رات کی تاریکی اور لوگوں کی غفلت کو غنیمت سمجھتا ہے اور اٹھ کر نماز ادا کرتا ہے اس شخص کو ثواب

حاصل ہوتا ہے اسے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جسے نہ کوئی ثواب حاصل ہوتا ہے اور نہ کوئی گناہ لازم ہوتا

ہے تو یہ وہ شخص ہے جو (عشاء کی) نماز ادا کرنے کے بعد سو جاتا ہے یہ ایسا شخص ہے جسے نہ کوئی (مزید) ثواب حاصل ہوتا ہے اور

نہ اسے کوئی گناہ ہوتا ہے۔ تم پر شدت پسندی سے بچنا لازم ہے اور تم پر میانہ روی کے ساتھ باقاعدگی سے (نفل نماز کی عبادت کرنا)

لازم ہے۔

4738 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنِ الْأَعْرَبِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَامَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ فَأَيَّقَظَ امْرَأَتَهُ فَصَلَّيَا رَكَعَتَيْنِ كُتِبَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ

*** حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: جب آدمی رات کے وقت بیدار ہو تو اپنی بیوی کو بھی بیدار کرنے پھر وہ دونوں دو رکعت ادا کریں تو اس رات میں ان دونوں کا نام اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مردوں اور خواتین میں نوٹ کیا جاتا ہے۔

4739 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، لَا أَرَاهُ إِلَّا رَفَعَهُ يَقُولُ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوقِظْ أَهْلَهُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ فَلْيَنْضَحْ وَجْهَهَا بِالْمَاءِ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مرفوع حدیث کے طور پر یہ بات نقل کرتے ہیں:

”جب کوئی شخص رات کے وقت بیدار ہو تو اپنی بیوی کو بھی بیدار کرے، اگر وہ بیدار نہیں ہوتی تو اس کے چہرے پر پانی چھڑکے۔“

4740 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ وَغَيْرِهِ يُرْجَعُونَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللَّهُ: إِنَّ أَحَبَّ عِبَادِي إِلَيَّ الْمُتَحَابُّونَ فِي الدِّينِ يُعْمَرُونَ مَسَاجِدِي، وَيَسْتَغْفِرُونَ بِالْأَسْحَارِ، أُولَئِكَ الَّذِينَ إِذَا ذَكَرْتُ خَلْقِي بِعَذَابٍ ذَكَرْتُهُمْ فَصَرَفْتُ عَذَابِي عَنْ خَلْقِي

*** ایک اور سند کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منقول ہے: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

”میرے بندوں میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندے وہ ہیں جو دین کی خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، میری مساجد کو آباد کرتے ہیں، سحری کے وقت دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب مجھے اپنی مخلوق کو عذاب دینے کا خیال آتا ہے تو پھر ان کا خیال آجاتا ہے تو میں اپنی مخلوق کو عذاب نہیں دیتا۔“

4741 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ فِي قَوْلِهِ: (قُوا أَنْفُسَكُمْ) (التحریم: 6) قَالَ: عَلِمُوا أَنْفُسَكُمْ الْخَيْرَ

*** حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: (ارشاد باری تعالیٰ ہے:)

”تم اپنے آپ کو بچاؤ۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: تم اپنے آپ کو بھلائی کی تعلیم دو۔

4742 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَمَارَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: تَعَوَّدُوا الْخَيْرَ فَإِنَّمَا الْخَيْرُ بِالْعَادَةِ

*** حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: تم بھلائی کی عادت اختیار کرو کیونکہ بھلائی عادت کے ذریعہ ہی ہوتی ہے۔

4743 - ثاویب صحابہ: عبد الرزاق، عن مالك، عن زيد بن اسلم، عن أبيه، أن عمر كان يصلي من الليل ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله، ويقول: الصلاة الصلاة، ويتلو هذه الآية: (وأمر أهلك بالذلة واضطرب عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى) (طه: 132)

*** زید بن اسلم اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے وقت جتنا اللہ کو منظور ہوتا تھا اتنی دیر تک نفل نماز ادا کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ جب رات کا آخری حصہ آتا تھا تو اپنی اہلیہ کو بیدار کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے: نماز! پھر وہ یہ آیت تلاوت کرتے تھے:

”تم اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دو اور اس پر ثابت قدمی اختیار کرو، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے کیونکہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور بہترین انجام پر ہمیں گامی کا ہے۔“

4744 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، من قریش قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليه بعض الضيق في الرزق أمر أهله بالصلاة، ثم قرأ هذه الآية (وأمر أهلك بالصلاة واضطرب عليها) (طه: 132)

*** معمر نے قریش کے ایک فرد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا شخص آتا جسے رزق میں تنگی کی شکایت ہوتی تو آپ اس کے اہل خانہ کو نماز کی ہدایت کرتے تھے پھر آپ یہ آیت تلاوت کرتے تھے:

”تم اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دو اور اس پر ثابت قدمی اختیار کرو۔“

4745 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابان، ذكره عن بعضهم قال: إذا استيقظ الرجل من الليل فذكر الله، وقام فتوضأ وصلى ودعا الله استجاب له

*** ابان نے بعض حضرات کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ جب کوئی شخص رات کے وقت بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور اٹھتا ہے اور وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔

4746 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن زياد بن علقمة، عن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تفتطر قدامه، فقيل له: اليس قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟

*** حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (رات کے وقت نفل) نماز اتنی (زیادہ) ادا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں ورم آلود ہو گئے آپ کی خدمت میں اس بارے میں عرض کی گئی کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے گزشتہ اور آئندہ ذنب کی مغفرت نہیں کر دی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟

4747 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن بعض أصحابه قال: كان النبي صلى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَتَّى تَوَرَّمَ قَدَمَاهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَفْعَلُ هَذَا وَقَدْ تَوَرَّمَ قَدَمَاكَ وَاللَّهُ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟

*** اعمش نے اپنے بعض اصحاب کا یہ بیان نقل کیا ہے: نبی اکرم ﷺ (رات کے وقت اتنے زیادہ نوافل) ادا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں ورم آلود ہو گئے لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں ورم آلود ہو گئے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گزشتہ اور آئندہ ذنب کی مغفرت کر دی ہے! تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں؟

بَابُ مَنْ فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ اللَّيْلِ، مَتَى يَقْضِيهِ؟

باب: جس شخص کی رات کی کچھ (نفل نماز) فوت ہو جائے وہ اُس کی قضاء کب کرے گا؟

4748 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عُرْوَةَ، عَنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ قَالَ: عَنْ جُزْئِهِ مِنَ اللَّيْلِ فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَكَانَ قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ

*** حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو شخص اپنے معمول کے وظیفہ کے وقت سویا رہ جائے یا رات کی (نفل عبادت) کے کسی حصہ کو ادا کیے بغیر سو جائے تو وہ اسے اگر فجر کی نماز اور ظہر کی نماز کے درمیان میں ادا کر لے تو یہ اسی طرح ہوگا جس طرح اُس نے اسے رات کے وقت پڑھا۔

4749 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَجُلًا رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُصَلِّي فِي حِينٍ لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي فِيهِ مِنَ النَّهَارِ، فَقَالَ لَهُ: فَقَالَ: فَاتِنِي مِنَ اللَّيْلِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ: (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا) (الفرقان: 62)

*** حسن بصری بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ایک ایسے وقت میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا جس وقت میں وہ (عام معمول میں) نماز ادا نہیں کرتے تھے اور یہ دن کے وقت کی بات ہے۔ اُس شخص نے اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میری رات کی (کچھ نفل عبادت) رہ گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے:

”اور وہی وہ ذات ہے جس نے رات اور دن کو آگے پیچھے آنے والا بنایا ہے یہ اُس شخص کے لیے ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو یا جو شکر کرنا چاہتا ہو۔“

4750 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ مَنصُورٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُعْجِبُهُمُ الزِّيَادَةُ فِي الْعَمَلِ وَيَكْرَهُونَ النَّقْصَانَ، وَالْأَقْسَامَ دِيمَةً، وَإِذَا فَاتَهُمْ شَيْءٌ مِنَ اللَّيْلِ قَضَوْهُ بِالنَّهَارِ

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: لوگوں کو عمل میں زیادتی پسند ہے اور لوگ نقصان کو ناپسند کرتے ہیں جبکہ کام باقاعدگی ہی سے ہوتے ہیں جب ان کی رات کی کوئی نفل عبادت رہ جاتی تھی تو وہ دن میں اسے قضاء کر لیتے تھے۔

4751 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابَانَ بْنِ أَبِي عِيَّاشٍ، عَنِ زُرَّارَةَ بْنِ اَوْفَى، عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئًا صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَيْ عَشَرَ رَكْعَةً

*** سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کے وقت کوئی نماز ادا نہیں کر پاتے تھے تو آپ دن میں بارہ رکعات ادا کرتے تھے۔

4752 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي الْمَشْرِفِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا فَاتَ رَجُلًا شَيْءٌ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمْ يُصَلِّ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُطِيلَ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ

*** حسن بصری فرماتے ہیں: جب کسی شخص کی رات کی کوئی نفل نماز رہ جائے جسے وہ ادا نہ کر پائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ فجر کی دو رکعت طویل ادا کر لے۔

بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

باب: صبح صادق کے بعد نماز ادا کرنا

4753 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً: " أَتَكْرَهُ الصَّلَاةَ إِذَا انْتَشَرَ الْفَجْرُ عَلَى رَأْسِ الْجِبَالِ إِلَّا رَكْعَتِي الْفَجْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا آپ اس بات کو مکروہ سمجھتے ہیں کہ جب پہاڑوں کی چوٹیوں پر صبح صادق پھیل جائے تو صرف فجر کی دو رکعت ادا کی جائیں (کوئی دوسری نماز ادا نہ کی جائے)؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

4754 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مِينَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ مِينَا، أَوْ سَلِيمِ مَوْلَى سَعِيدٍ قَالَ: وَكِلَاهُمَا - مَا عَلِمْتُ - كَانَ مُصَلِّيًّا قَالَ: فَأَخْبَرَنِي أَحَدُهُمَا قَالَ: قُلْتُ: جَنَّتِ الْمَسْجِدَ بَعْدَ الْفَجْرِ قَالَ: فَجَعَلْتُ أَصَلِّي اتَّابِعُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي لَمْ أَصَلِّ الْبَارِحَةَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَتَرِيدُ أَنْ تُخْبِرَنِي الْآنَ إِنَّمَا هُمَا رَكْعَتَانِ

*** عطاء بیان کرتے ہیں: ابو عبد الرحمن بن میناء کے صاحبزادے یا شاید سعید کے غلام سلیم نے مجھے یہ بات بتائی وہ کہتے ہیں: میں صبح صادق ہونے کے بعد مسجد میں آیا اور نماز ادا کرنے لگا تو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دریافت کیا: یہ کون ہے؟ میں نے کہا: میں نے صبح کی نماز ادا نہیں کی۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اب تم مجھے بتاؤ! یہ دو رکعات

ہوتی ہیں۔

4755 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي رِيَّاحٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا يُكْرِرُ الرُّكُوعَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَيْعِدُنِي اللَّهُ عَلَى الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ

*** سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں: انہوں نے ایک شخص کو صبح صادق ہو جانے کے بعد بکثرت رکوع کرتے ہوئے دیکھا تو اُسے ایسا کرنے سے منع کیا، اُس نے کہا: اے ابو محمد! کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے کی وجہ سے عذاب دے گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! لیکن وہ تمہیں سنت کے برخلاف کرنے کی وجہ سے عذاب دے گا۔

4756 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْبَدَاءِ إِلَّا رَكْعَتِي الْفَجْرِ

*** سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

” (فجر کی) اذان ہو جانے کے بعد صرف فجر کی دو رکعت (سنتیں) ادا کی جائیں گی۔“

4757 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتِي الْفَجْرِ

*** حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

” صبح صادق ہو جانے کے بعد صرف فجر کی دو رکعت (سنتیں) ادا کی جائیں گی۔“

4758 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَا يُبْصِرُ، وَكَانَ يُبْصِرُ لَهُ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ

قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَنْظُرُ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ

*** مجاہد بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی بینائی رخصت ہو چکی تھی تو لوگ انہیں (صبح صادق ہونے کے بارے میں بتاتے تھے) جب صبح صادق ہو جاتی تھی تو وہ دو رکعت ادا کرنے کے بعد بیٹھ جاتے تھے۔

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر جائزہ لیتے تھے جب صبح صادق ہوتی تھی تو وہ دو رکعت ادا کرنے کے بعد بیٹھ جاتے تھے۔

4759 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ لَطَاوُسٍ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ يَسْأَلُ غَلَامَهُ عَنِ الْفَجْرِ فَإِذَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ طَلَعَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ

وَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَلْتَفِتُ، فَإِذَا رَأَى الْفَجْرَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ قَالَ: فَقَالَ لَهُ طَاوُسٌ: اتَّعْقِلْ! إِذَا طَلَعَ

الْفَجْرِ فَصَلِّ مَا شِئْتَ "

* * ابن ابوشیح بیان کرتے ہیں: مجاہد نے طاؤس سے کہا: اے ابو عبد الرحمن! میں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی بینائی رخصت ہو جانے کے بعد انہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنے غلام سے صبح صادق کے بارے میں دریافت کیا جب اس غلام نے انہیں بتایا کہ صبح صادق ہو چکی ہے تو انہوں نے صرف دو رکعت ادا کیں اور پھر بیٹھ گئے (مزید کوئی نفل نماز ادا نہیں کی) اور میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے جب انہوں نے صبح صادق دیکھی تو دو رکعت ادا کیں اور پھر بیٹھ گئے۔

راوی بیان کرتے ہیں: طاؤس نے ان (راوی) سے کہا: کیا تمہاری عقل کام کرتی ہے؟ جب صبح صادق ہو جائے تو تم جتنی چاہو نماز ادا کر سکتے ہو۔

4760 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكَعَتِي الْفَجْرِ

* * حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”صبح صادق ہو جانے کے بعد کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی صرف فجر کی دو رکعت (سنتیں) ادا کی جائیں گی۔“

4761 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: صَلَّى بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا

شِئْتَ

* * حسن بصری بیان کرتے ہیں: صبح صادق ہو جانے کے بعد تم جتنی چاہو نماز ادا کرو۔

4762 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ طَاوُسًا دَخَلَ مَسْجِدَ مِنِّي بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرَ فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فَسَأَلْتُهُ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: صَلَاةٌ مِنَ اللَّيْلِ كُنْتُ أَصَلِّيهَا نَمْتُ عَنْهَا

قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُ عَطَاءً بَعْدَ ذَلِكَ دَخَلَ مَسْجِدَ مِنِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَصَلَّى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ طَاوُسٌ

* * عبد الکریم ابو امیہ بیان کرتے ہیں: میں نے طاؤس کو دیکھا کہ وہ صبح صادق ہو جانے کے بعد منیٰ کی مسجد میں داخل ہوئے انہوں نے آٹھ رکعت ادا کیں۔ میں نے ان سے اس بارے میں دریافت کیا تو وہ بولے: یہ رات کی نماز ہے جو میں ادا کیا کرتا تھا اور (گزشتہ رات) میں اسے ادا کیے بغیر سو گیا۔

راوی نے بیان کیا: اس کے بعد میں نے عطاء کو دیکھا کہ وہ منیٰ کی مسجد میں صبح صادق ہونے کے بعد داخل ہوئے اور انہوں نے آٹھ رکعت ادا کیں۔ میں نے ان سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بھی اسی کی مانند جواب دیا جو طاؤس نے جواب دیا تھا۔

بَابُ مَتَى تَرَكَعُ رَكْعَتَا الْفَجْرِ

باب: فجر کی دو رکعت کب ادا کی جائیں گی؟

4763 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي اسْحَاقَ، عَنِ وَبَرَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَعَادَ رَكْعَتِي

الْفَجْرِ فِي لَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لِأَنَّهُ صَلَّى بِهَا بَلِيلٌ

* * * وبرہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک دن میں تین مرتبہ فجر کی دو رکعت (سنتیں) ڈھرائیں

کیونکہ انہوں نے وہ رات میں (صبح صادق ہونے سے پہلے) ہی ادا کر لی تھیں۔

4764 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ مَتَى كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ تُرْكَعَ تَانِكَ

الرَّكْعَتَانِ؟ فَقَالَ: مَعَ الْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُ وَافْصِلْ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مَا صَلَّيْتَ قَبْلَهُمَا

* * * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کس وقت یہ بات مستحب ہے کہ آپ ان دو رکعت کو

ادا کریں؟ تو انہوں نے جواب دیا: صبح صادق ہونے کے ساتھ ہی یا اس کے بعد میں ان دونوں کے اور ان سے پہلے جو نماز ادا کی

ہے ان کے درمیان فصل کروں گا۔

4765 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُمَا الْفَجْرَانِ فَأَمَّا

الْفَجْرُ الَّذِي يَسْطَعُ فِي السَّمَاءِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَلَا يُحْرَمُ شَيْئًا، وَلَكِنَّ الْفَجْرَ الَّذِي يَنْتَشِرُ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ

فَهُوَ الَّذِي يُحْرَمُ، فَقَالَ عَطَاءٌ: فَأَمَّا إِذَا سَطَعَ سَطُوعًا فِي السَّمَاءِ - وَسَطُوعُهُ أَنْ يَذْهَبَ فِي السَّمَاءِ طَوْلًا فَإِنَّهُ

لَا يُحْرَمُ لَهُ فِي الشَّرَابِ لِصِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ، وَلَا يَفُوتُ لَهُ حَجٌّ، وَلَكِنْ إِذَا انْتَشَرَ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ حُرِّمَ

الشَّرَابُ عَلَى الصَّوْمِ وَقَاتَ لَهُ الْحَجُّ

وَقَالَ عُمَرُ: الْفَجْرُ الَّذِي كَانَهُ ذَهَبُ السَّرْحَانِ يَقُولُ: ذَلِكَ السَّاطِعُ فِي السَّمَاءِ

* * * عطاء بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: صبح صادق دو قسم کی

ہوتی ہے ایک وہ جو آسمان میں پھیلتی ہے وہ کوئی چیز نہیں ہوتی اور یہ کسی چیز کو حرام نہیں کرتی۔ لیکن وہ فجر جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر

پھیل جاتی ہے یہ وہ ہے جو (روزہ دار کے لیے کچھ کھانے پینے کو) حرام قرار دیتی ہے۔

عطاء کہتے ہیں: جہاں تک آسمان میں لمبائی کی سمت میں پھیلنے والی روشنی کا تعلق ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ آسمان میں

لمبائی کی سمت میں پھیلے یہ روزے کے لیے کھانے یا پینے کو حرام قرار نہیں دیتی، نماز کو حرام قرار نہیں دیتی اس کی وجہ سے حج فوت نہیں

ہوتا، لیکن جب یہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھیل جائے تو روزہ رکھنے والے کے لیے پینا حرام ہو جاتا ہے ایسے شخص کا حج فوت ہو

جاتا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک فجر یوں ہوتی ہے جس طرح سانپ کی دم ہو وہ یہ فرماتے ہیں: یہ آسمان میں لمبائی کی

سمت میں پھیلتی ہے۔

4766 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ جِئْتُ الْمَسْجِدَ حِينَ انْتَشَرَ الْفَجْرُ أَطَوَّلُهُمَا أَمْ أَحَدُهُمَا؟ قَالَ: طَوَّلُهُمَا إِنْ شِئْتَ مَا لَمْ يَخْرُجِ الْإِمَامُ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میں مسجد میں آتا ہوں اس وقت جب فجر پھیل چکی ہوتی ہے تو کیا میں ان دو رکعت کو طویل ادا کروں گا یا انہیں مختصر ادا کروں گا؟ انہوں نے فرمایا: اگر تم چاہو تو ان دونوں کو طویل ادا کر لو جب تک امام نہیں آ جاتا۔

4767 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: كَانَا نُخَفِّفَانِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ

*** سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں: صبح کی نماز سے پہلے کی ان دو رکعت کو مختصر ادا کیا جاتا ہے۔

4768 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: الْوَتْرُ مِنَ اللَّيْلِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، وَيُسْتَحَبُّ التَّكْبِيرُ عِنْدَ الْفَجْرِ بِالرَّكْعَتَيْنِ وَهُمَا مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ

*** ابن سیرین بیان کرتے ہیں: وتر رات میں ادا کیے جائیں گے اور یہ بات مستحب ہے کہ رات کے آخری حصہ میں ادا کیے جائیں اور صبح صادق ہونے کے فوراً بعد دو رکعت جلدی ادا کر لینا مستحب ہے یہ دونوں دن کی نماز ہیں۔

4769 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الْيَمَنِ

*** سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ﷺ صبح صادق ہوجانے کے بعد دو مختصر رکعات ادا کرتے تھے پھر آپ اپنے دائیں پہلو کے بل لیٹ جاتے تھے۔

4770 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْيَمَنِ

*** سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ﷺ صبح صادق ہوجانے کے بعد دو مختصر رکعات ادا کرتے تھے پھر آپ ﷺ اپنے دائیں پہلو کے بل لیٹ جاتے تھے۔

4771 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرْتَنِي حَفْصَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

*** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے مجھے یہ بتایا ہے کہ نبی اکرم ﷺ صبح صادق ہوجانے کے بعد دو مختصر رکعات ادا کرتے تھے۔

4772 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتِي الْفَجْرِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

*** حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقامت کے وقت فجر کی دو رکعات (سنتیں) ادا کرتے تھے۔

4773 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: مؤذن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے دو رکعات مختصر ادا کیں پھر آپ تشریف لے گئے اور آپ نے صبح کی نماز پڑھائی۔

4774 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّفُهُمَا - يَعْنِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ -

*** سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو رکعات کو مختصر ادا کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراد فجر کی دو رکعات (سنتیں) تھیں۔

4775 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّهُ كَانَ يَرُكَّعُهُمَا عِنْدَ الْإِقَامَةِ

*** حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ ان دو رکعات کو اقامت کے قریب ادا کرتے تھے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ مِنَ الْفَضْلِ

باب: فجر کی دو رکعات کی فضیلت کے بارے میں جو کچھ منقول ہے

4776 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: "أَوَاجِبَتَانِ رَكْعَتَا الضُّحَىٰ أَوْ الْوَتْرِ أَوْ شَيْءٌ مِنَ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهُنَّ؟ قَالَ: لَا

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا فجر کی دو رکعات یا وتر یا نمازوں سے پہلے یا ان کے بعد ادا کی جانے والی کوئی بھی نفل نماز واجب ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

4777 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَيْءٍ أَسْرَعُ مِنْهُ إِلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَلَا إِلَى غَنِيمَةٍ يَطْلُبُهَا

*** سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو رکعات سے زیادہ تیزی سے اور کوئی نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو (دو رکعات) آپ صبح کی نماز سے پہلے ادا کرتے تھے اور نہ ہی آپ کو کسی غنیمت کو طلب کرتے ہوئے دیکھا۔

4778 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا * * * سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”فجر کی دو رکعات میرے نزدیک دنیا اور اس میں موجود سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔“

4779 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَكْعَتَا الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ هُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

* * * حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”فجر کی دو رکعات میرے نزدیک دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔“

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ دونوں میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب ہیں۔

4780 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ الْقُطَيْبَةِ قَالَ: فَاتَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَأَعْتَقَ رَقَبَةً

* * * مہاجر بن قطیبہ بیان کرتے ہیں: عبداللہ بن ابوربیعہ کی فجر کی دو رکعات رہ گئیں تو انہوں نے ایک غلام آزاد کیا۔

4781 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ لِحُمْرَانَ: يَا حُمْرَانُ، اتَّقِ اللَّهَ، وَلَا تَمُتْ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ فَيُؤَخَذَ مِنْ حَسَنَاتِكَ لَا دِينَارَ ثَمَّ وَلَا دِرْهَمَ، وَلَا تَنْتَفِي مِنْ وَلَدِكَ فَتَفْضَحَهُ فَيَفْضَحَكَ اللَّهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَعَلَيْكَ بِرَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَإِنَّ فِيهِمَا رَغَبَ الدَّهْرِ

* * * ایوب بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حمران سے فرمایا: اے حمران! تم اللہ سے ڈرو! اور تم ایسی

حالت میں نہ مرنا کہ تمہارے ذمہ قرض ہو ورنہ تم سے نیکیاں لے لی جائیں گی، کیونکہ وہاں تو کوئی دینار یا درہم کام نہیں آئے گا اور تم اپنی اولاد کی نفی کر کے اسے رسوائی کا شکار نہ کرنا، ورنہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے قیامت کے دن تمہیں رسوائی کا شکار کرے گا اور تم پر فجر کی دو رکعات (سنتیں) پڑھنا لازم ہے کیونکہ ان دونوں میں زمانے بھر کی رغبت پائی جاتی ہے۔

4782 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِنْ لَمْ تَقْضِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَقُولُ: إِذَا فَاتَتْكَ

* * * امام شعبی فرماتے ہیں: اگر تم فجر کی دو رکعات کی قضاء نہیں کرتے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وہ یہ فرماتے ہیں: یہ اس

وقت ہے جب یہ دونوں رکعات رہ گئی ہوں۔

4783 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ قَالَ: مَنْ

صَلَّى رَكَعَتِي الْفَجْرِ وَصَلَّى الصُّبْحَ فِي جَمَاعَةٍ كُتِبَتْ صَلَاتُهُ يَوْمَئِذٍ فِي صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ، وَكُتِبَ يَوْمَئِذٍ فِي وَفْدِ الْمُتَّقِينَ

*** عروہ بن رویم بیان کرتے ہیں: جو شخص فجر کی دو رکعات ادا کر لے اور پھر صبح کی نماز باجماعت ادا کرے تو اس نماز کو اُس دن رجوع کرنے والوں کی نماز میں نوٹ کیا جاتا ہے اور اُس کو پرہیزگاروں کے وفد میں نوٹ کیا جاتا ہے۔

4784 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ قِيَاضٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا صَلَّى رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ثُمَّ مَاتَ كَانَ قَدْ صَلَّى الْغَدَاةَ

*** زیاد بن قیاض ابو عبد الرحمن سلمی کے بارے میں بیان کرتے ہیں: میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: اگر کوئی شخص فجر کی نماز سے پہلے کی دو رکعات (سنتیں) ادا کر لیتا ہے اور پھر اُس کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ صبح کی نماز ادا کر چکا ہوگا۔

4785 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي اسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ عِنْدَ الْأَذَانِ وَيَرْكَعُ رَكَعَتِي الْفَجْرِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ

*** حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ اذان کے قریب وتر ادا کرتے تھے اور اقامت کے قریب فجر کی دو رکعات (سنتیں) ادا کرتے تھے۔

4786 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَكَعَتَا الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

*** سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: ”فجر کی دو رکعات میرے نزدیک دنیا اور اُس میں موجود سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں۔“

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي رَكَعَتِي الْفَجْرِ

باب: فجر کی دو رکعات میں تلاوت کرنا

4787 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقْرَأَ فِي رَكَعَتِي الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

*** قتادہ بیان کرتے ہیں: یہ بات مستحب ہے کہ فجر کی دو رکعات میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کی جائے۔

4788 - حدیث نبوی: عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَسْرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِرَاءَةَ فِي رَكَعَتِي الْفَجْرِ وَقَرَأَ فِيهِمَا قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ،

*** سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعات میں پست آواز میں تلاوت کرتے تھے آپ ان دو

رکعات میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔

4789 - حدیث نبوی: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامِ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

4790 - حدیث نبوی: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ

عَمْرٍو قَالَ: "رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ أَوْ قَالَ: أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ مَرَّةً - سَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ - يَقْرَأُ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ"

*** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچیس سے زیادہ مرتبہ (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) بیس سے زیادہ مرتبہ فجر کی دو رکعات میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

4791 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَوْ

سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا تَقْرَأُ فِي رَكْعَتِي الْفَجْرِ؟ فَقَالَ: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

*** سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا: آپ فجر کی دو رکعات میں کیا تلاوت کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: سورہ کافرون اور سورہ اخلاص۔

4792 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عَمْرَةَ

تَحَدَّثُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي رَكْعَتِي الْفَجْرِ، فَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ أَمْ لَا؟"

*** سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعات ادا کرتے تھے (آپ اتنی جدی انہیں ادا کر لیتے تھے) کہ میں یہ سوچتی تھی کہ آپ نے ان میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی بھی ہے یا نہیں۔

4793 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: "كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ لِرَكْعَتِي الْفَجْرِ فَأَقُولُ: هَلْ قَرَأَ فِيهِمَا بِأَمِ الْقُرْآنِ أَمْ لَا لِخَفْتِهِ إِيَّاهُمَا؟"

*** سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعات کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو میں یہ سوچتی تھی کہ آپ نے ان میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے یا نہیں کی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو رکعات مختصر ادا کرتے تھے۔

بَابُ الْكَلَامِ عِنْدَ الْفَجْرِ

باب: فجر کے وقت کلام کرنا

4794 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُكْرَهُ الْحَدِيثُ فِي قَبْلِ الصُّبْحِ،

قُلْتُ: أَمِنْ بَيْنِ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: "أَوْ لَا تَسْمَعُهُ يَقُولُ: (وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا) (الإسراء: 78) مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ يُشْهَدُ وَيُحْضَرُ"، قُلْتُ: فَيُخْبِرُ قَبْلَ الْفَجْرِ؟ فَكِرَةٌ ذَلِكَ أَيْضًا

*** عطاء فرماتے ہیں: صبح کی نماز سے پہلے بات چیت کرنا مکروہ ہے۔ میں نے دریافت کیا: کیا نمازوں کے درمیان بھی؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: وہ کیوں؟ انہوں نے جواب دیا: کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا ہے:

"اور فجر کی تلاوت بے شک فجر کی تلاوت میں (فرشتوں کی) حاضری ہوتی ہے۔"

اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں اور حاضر ہوتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا: تو فجر سے پہلے (بات چیت کرنے کے بارے میں) بتائیے! تو انہوں نے اسے بھی مکروہ قرار دیا۔

4795 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: خَرَجَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى قَوْمٍ يَتَحَدَّثُونَ فَنَهَاهُمْ عَنِ الْحَدِيثِ وَقَالَ: إِنَّمَا جِئْتُمْ لِلصَّلَاةِ إِمَّا أَنْ تَصَلُّوا، وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتُوا

*** عطاء بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے پاس تشریف لائے جو آپس میں بات چیت کر رہے تھے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بات چیت کرنے سے منع کیا اور فرمایا: تم لوگ نماز کے لیے آئے ہو یا تو تم نماز ادا کرو یا خاموش رہو۔

4796 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلَيْنِ يَتَكَلَّمَانِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَالَ: يَا هَذَانِ، إِمَّا أَنْ تَصَلِّيَا، وَإِمَّا أَنْ تَسْكُتَا

*** مجاہد بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دو آدمیوں کے پاس سے گزرے وہ صبح صادق ہونے کے بعد بات چیت کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے دو افراد! یا تو تم دونوں نماز ادا کرو یا تم دونوں خاموش رہو۔

4797 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ عَزِيزًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ

*** ابو عبیدہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ بات پسند تھی کہ صبح صادق ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ اور کوئی کلام نہ کیا جائے۔

4798 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ عِنْدَ الْفَجْرِ وَهُمْ مُسْتَبِدُونَ ظُهُورُهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ فَقَالَ: تَأَخَّرُوا عَنِ الْقِبْلَةِ، لَا تَحُولُوا بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ

*** قاسم بن عبدالرحمن اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فجر کے وقت تشریف لائے لوگ اپنی پشت قبلہ کی طرف ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے فرمایا: تم لوگوں نے قبلہ سے منہ موڑا ہوا ہے، تم فرشتوں اور قبلہ کے

درمیان رکاوٹ نہ بنو کیونکہ یہ فرشتوں کی نماز ہے۔

4799 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ فَرَأَى قَوْمًا قَدْ اسْتَنَدُوا ظُهُورَهُمْ إِلَى الْقِبْلَةِ وَاسْتَقْبَلُوا النَّاسَ، فَقَالَ: لَا تَحُولُوا بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَبَيْنَ صَلَاتِهَا، فَإِنَّهَا صَلَاةُ الْمَلَائِكَةِ

*** قاسم بن عبد الرحمن اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فجر کی نماز سے پہلے مسجد میں تشریف لائے تو وہاں آپ نے کچھ لوگوں کو دکھا کہ انہوں نے اپنی پشت قبلہ کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی ہے اور لوگوں کی طرف رخ کیا ہوا ہے تو حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم فرشتوں اور ان کی نماز کے درمیان رکاوٹ نہ بنو کیونکہ یہ فرشتوں کی نماز ہے۔

4800 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ قَتَادَةَ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَكْرَهُ الْكَلَامَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتِي الْفَجْرِ

*** قنادہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب فجر کی دو رکعات ادا کر لیتے تھے تو اس کے بعد کلام کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔

4801 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ خَصِيفِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ آيَةِ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يُجِبْنِي قَالَ: فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: إِنَّهُ لَيَكْرَهُ الْكَلَامَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ، قُلْتُ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِأَهْلِهِ الصَّلَاةَ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ

*** خصیف بیان کرتے ہیں: میں نے سعید بن جبیر سے دو رکعات کے بعد کلام کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ راوی بیان کرتے ہیں: جب انہوں نے نماز ادا کر لی تو انہوں نے فرمایا: دو رکعات کے بعد کلام کرنا مکروہ ہے۔

میں نے دریافت کیا: کیا آدمی اپنی بیوی کو یہ کہہ سکتا ہے: نماز (کا وقت ہو گیا ہے)؟ انہوں نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

4802 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: " إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَيْسَ كُتُبًا وَإِنْ كَانُوا رُكْبَانًا، وَإِنْ لَمْ يَرَوْهُمْ فَلَيْسَ كُتُبًا، وَذَكَرَ أَنَّ ابْنَ الْمُسَيْبِ كَانَ يَقُولُ: أَنَا إِذَا أَحْمَقُ مِنَ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ

*** عثمان بن ابوسلیمان بیان کرتے ہیں: جب صبح صادق ہو جائے تو لوگ خاموش رہیں اگر چہ وہ سوار ہوں اور اگر چہ انہوں نے ان دو رکعات (سنتوں) کو ادا نہ کیا ہو پھر بھی وہ خاموش رہیں گے۔ سعید بن مسیب یہ فرماتے ہیں: میں اس شخص کو احمق قرار دوں گا جو صبح صادق ہو جانے کے بعد کوئی کلام کرتا ہے۔

بَابُ التَّطَوُّعِ قَبْلَ الصَّلَاةِ وَبَعْدَهَا

باب: نماز سے پہلے یا اس کے بعد نوافل ادا کرنا

4803 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسْمِعُهُمْ يَدُ كُرُونِ رَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَبَعْدَهَا وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ، فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ الْأَخْرَةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكَعَةً مِنْهُنَّ رَكَعَتَانِ قَبْلَ الصُّبْحِ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں نے لوگوں کو یہ ذکر کرتے ہوئے سنا ہے کہ ظہر سے پہلے دو رکعات ادا کی جائیں گی اور اس کے بعد بھی دو رکعات ادا کی جائیں گی، مغرب کے بعد دو رکعات ادا کی جائیں گی لیکن عشاء کے بعد کیا ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی اکرم ﷺ عشاء کی نماز کے بعد تیرہ رکعات ادا کرتے تھے جن میں سے دو رکعات آپ صبح کی نماز سے پہلے ادا کرتے تھے۔

4804 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عُبَيْدُ بْنُ عَمِيرٍ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كَمْ الصَّلَوَاتُ؟ قَالَ: خَمْسٌ، فَسَمَّاهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: وَرَمَضَانُ، قَالَ السَّائِلُ: لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ أَبَدًا، ثُمَّ وَلَّى، فَضَحِكُوا مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ يَكُنْ صَادِقًا يَدْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ

*** عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں: ایک شخص نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی: نمازیں کتنی ہیں؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: پانچ! پھر نبی اکرم ﷺ نے ان نمازوں کا نام بتایا، پھر آپ نے فرمایا: رمضان! اس نے عرض کی: میں ان پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ پھر وہ شخص چلا گیا، لوگ اس پر ہنس پڑے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ جنت میں داخل ہوگا۔

عطاء کہتے ہیں: (یعنی) اگر اس نے ان نمازوں کو قائم کیا تو جنت میں داخل ہوگا۔

4805 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: "هَلْ شَيْءٌ مِنَ التَّطَوُّعِ وَاجِبٌ؟"

قَالَ: لَا

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا کوئی نفل نماز واجب بھی ہے؟ انہوں نے جواب

دیا: جی نہیں!

4806 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنِ عَلِيِّ قَالَ: قُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا عَنْ تَطَوُّعِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَمَنْ يُطِيقُهُ؟ قَالَ: قُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا نَطِيقُ مِنْهُ مَا أَطَقْنَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمَهِّلُ، فَإِذَا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَطَلَعَتْ وَكَانَ

مِقْدَارُهَا مِنْ الْعَصْرِ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ يَفْصِلُ فِيهِمَا بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقْرَبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يُمْهَلُ حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الضُّحَى وَكَانَ مِقْدَارُهَا مِنَ الظُّهْرِ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ صَلَّى أَرْبَعًا يَفْصِلُ فِيهَا بِالتَّسْلِيمِ كَمَا فَعَلَ فِي الْأَوَّلِ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَصَلَّى أَرْبَعًا يَفْصِلُ فِيهَا بِتَسْلِيمٍ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقْرَبِينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَ الظُّهْرِ رَكَعَتَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُصَلِّي قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا يَفْصِلُ بِمِثْلِ ذَلِكَ

*** عاصم بن ضمرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں: ہم نے ان سے دریافت کیا: آپ ہمیں نبی اکرم ﷺ کی نفل کی نماز کے بارے میں بتائیے! تو انہوں نے فرمایا: کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ ہم نے ان سے عرض کی: آپ ہمیں بتائیے! ہم اس میں سے جتنی کی طاقت رکھیں گے اُس پر عمل کر لیں گے۔ تو انہوں نے فرمایا: نبی اکرم ﷺ انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کے بعد بلند ہو جاتا تھا اور اُس کی مقدار اس طرح ہوتی تھی، جتنی عصر کے وقت ہوتی ہے تو نبی اکرم ﷺ دو رکعات ادا کرتے تھے آپ ان کے درمیان مقرب فرشتوں، انبیاء کرام اور ان کی پیروی کرنے والے مومنوں اور مسلمانوں پر سلام بھیج کر فصل کرتے تھے پھر آپ ایسے ہی ٹھہرے رہتے تھے یہاں تک کہ دن چڑھ جاتا تھا اور سورج کی مثال مشرق میں اُس طرح ہوتی تھی جس طرح ظہر کے وقت ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم ﷺ چار رکعات ادا کرتے تھے جن کے درمیان آپ سلام پھیرتے تھے جس طرح آپ پہلی نماز میں کرتے تھے جب سورج ڈھل جاتا تھا تو نبی اکرم ﷺ اٹھ کر چار رکعات ادا کرتے تھے جن کے درمیان آپ مقرب فرشتوں، انبیاء کرام اور ان کی پیروی کرنے والے مومن مردوں اور مومنوں اور مسلمانوں پر سلام بھیج کر فصل کرتے تھے پھر آپ ظہر کے بعد دو رکعات ادا کرتے تھے آپ ان میں بھی اسی طرح فصل کرتے تھے پھر آپ عصر سے پہلے چار رکعات ادا کرتے تھے اور اس کی مانند فصل کرتے تھے۔

4807 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: سَأَلْنَا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ تَطَوُّعًا بِالنَّهَارِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تُطِيقُونَ مَا كَانَ يُطِيقُ قَالُوا: عَلِيُّ ذَلِكَ حَدِيثُنَا، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَفْصِلُ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقْرَبِينَ قَالَ: وَيُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ وَقَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا فَهَذِهِ سِتُّ عَشْرَةَ رَكَعَةً

*** عاصم بن ضمرہ بیان کرتے ہیں: ہم نے حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم ﷺ کی دن کی نفل نماز کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: تم لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے، جس کی طاقت نبی اکرم ﷺ رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے عرض کی: ان کے باوجود آپ ہمیں بیان کیجئے! اُس کے بعد راوی نے سفیان ثوری کی نقل کردہ روایت کی مانند روایت ذکر کی ہے البتہ انہوں نے اس میں یہ الفاظ ذکر نہیں کیے کہ مقرب فرشتوں پر سلام بھیج کر فصل کرتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ ظہر سے پہلے چار رکعات اور اُس کے بعد دو رکعات ادا کرتے تھے عصر سے پہلے چار رکعات ادا کرتے تھے تو یہ سولہ رکعات ہو جاتی ہیں۔

4808 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ شَهَابٍ، أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَذَكَرَ لِي - ابْنُ عُمَرَ الْقَائِلُ - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ وَلَمْ أَرَهُ

* * * حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے دو رکعات ادا کرتے تھے اس کے بعد دو رکعات ادا کرتے تھے جمعہ کے بعد دو رکعات ادا کرتے تھے مغرب کے بعد دو رکعات ادا کرتے تھے عشاء کے بعد دو رکعات ادا کرتے تھے۔

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے میرے سامنے یہ بات ذکر کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے پہلے دو رکعات ادا کرتے تھے لیکن میں نے آپ کو (ان رکعات کو ادا کرتے ہوئے) دیکھا نہیں ہے۔

4809 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، فَأَمَّا الْجُمُعَةُ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ فَفِي بَيْتِهِ

* * * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بات بیان کی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے دو رکعات ادا کی ہیں ظہر کے بعد دو رکعات ادا کی ہیں مغرب کے بعد دو رکعات ادا کی ہیں عشاء کے بعد دو رکعات ادا کی ہیں جمعہ کے بعد دو رکعات ادا کی ہیں جہاں تک جمعہ مغرب اور عشاء کی نمازوں کا تعلق ہے تو آپ (ان کے بعد ادا کی جانے والی دو رکعات سنت) گھر میں ادا کرتے تھے۔

4810 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ شَيْئًا حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَيُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ * * * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بات نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی بعد کی دو رکعات اپنے گھر میں ادا کرتے تھے اور آپ جمعہ کے بعد کوئی بھی نفل نماز ادا نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ آپ اپنے گھر میں تشریف لے آتے تھے اور آپ گھر میں یہ دو رکعات ادا کرتے تھے۔

4811 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ كَانَ يُصَلِّيهَا بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ: رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، وَحَدَّثَنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ

* * * حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دس رکعات یاد ہیں جنہیں آپ

رات اور دن میں ادا کرتے تھے دو رکعات ظہر سے پہلے ہیں دو رکعات اس کے بعد ہیں دو رکعات مغرب کے بعد ہیں دو رکعات عشاء کے بعد ہیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق ہو جانے کے بعد دو رکعات ادا کرتے تھے۔

4812 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔

4813 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ أَبِي تَمِيمَةَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الظُّهْرِ رَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكَعَتَيْنِ قَالَ: وَقَالَتْ حَفْصَةُ: وَكَانَ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ إِذَا نَادَى، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ أَحَدٌ

*** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے دو رکعات ظہر کے بعد دو رکعات مغرب کے بعد دو رکعات عشاء کے بعد دو رکعات ادا کی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات بتائی ہے کہ جب مؤذن (فجر کی نماز کے لیے) اذان دے دیتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعات ادا کر لیتے تھے یہ وہ وقت تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی حاضر نہیں ہو سکتا تھا۔

4814 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيْبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنِ رَجُلٍ، عَنِ أَبِي

أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُصَلِّي صَلَاةَ تَدِيمُهَا، فَقَالَ: إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تُفْتَحُ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، فَلَا تُرْتَجَى حَتَّى تُصَلِّيَ الظُّهْرَ، فَأَجِبْ أَنْ يَضَعَدَ لِي إِلَى السَّمَاءِ خَيْرٌ

*** حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے چار رکعات ادا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی: آپ یہ نماز باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا: جب سورج ڈھل جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور یہ اُس وقت تک بند نہیں ہوتے جب تک ظہر کی نماز ادا نہیں کر لی جاتی تو مجھے یہ بات پسند ہے کہ میری طرف سے آسمان کی طرف بھلائی اوپر جائے۔

4815 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: كَانَ تَطَوُّعُ عَبْدِ

اللَّهِ الَّذِي لَا يَنْقُصُ مِنْهُ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ

*** ابو عبیدہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جو بھی نفل نماز ادا کرتے تھے وہ اُس میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے وہ ظہر سے پہلے چار رکعات ادا کرتے تھے اُس کے بعد دو رکعات ادا کرتے تھے مغرب کے بعد دو رکعات ادا کرتے تھے عشاء کے

بعد دو رکعات ادا کرتے تھے اور صبح کی نماز سے پہلے دو رکعات ادا کرتے تھے۔

4816 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ

رَكَعَاتٍ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ

*** معمر بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ظہر سے پہلے چار رکعات اور اس

کے بعد دو رکعات ادا کرتے تھے۔

4817 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي سَبْرَةَ، عَنِ

الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِي عَشْرَةَ غَزْوَةً فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ حِينَ تَزِيغُ الشَّمْسُ فِي حَضَرٍ وَلَا سَفَرٍ

*** حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھارہ غزوات میں شرکت کی ہے

میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی حضر یا سفر کے دوران سورج ڈھلنے کے بعد دو رکعات ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

4818 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحَصِينِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا فَاءَتِ الْأَفْيَاءُ، وَهَبَّتِ الْأَرْوَاحُ فَادْكُرُوا حَوَائِجَكُمْ فَإِنَّهَا سَاعَةُ الْأَوَابِنِ

*** ابوسفیان روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”جب سائے ڈھل جائیں اور ہوائیں چل پڑیں تو تم اس وقت اپنی ضروریات ذکر کرو (یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو)

کیونکہ یہ رجوع کرنے والے لوگوں کی گھڑی ہے۔“

4819 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسَهَّرٍ، عَنْ

خَرَشَةَ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى إِثْرِ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِثْلَهَا

*** خرشہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ فرض نماز کے فوراً بعد اس کی مانند نماز ادا کی

جائے۔

4820 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسَهَّرٍ، عَنْ

خَرَشَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَا تُصَلِّينَ دُبْرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ مِثْلَهَا

*** خرشہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: تم کسی بھی فرض نماز کے فوراً بعد اس کی مانند نماز

ہرگز ادا نہ کرو۔

4821 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إِذَا سَلَّمْتَ فَلَيْسَ

مِثْلَهَا

*** سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں: جب تم سلام پھیر دو گے تو یہ اُس کی مانند نماز نہیں ہوگی۔

4822 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثَوْبِرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ "

*** ثوبیر بن ابوفاختہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ عشاء کی نماز کے بعد دو رکعات ادا کرتے تھے۔

4823 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى إِثْرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْفَجْرَ وَالْعَصْرَ *** عاصم بن ضمیرہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: وہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد دو رکعات ادا کرتے تھے، صرف فجر اور عصر کے بعد ایسا نہیں کرتے تھے۔

4824 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " حَفِظْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: وَحَدَّثَنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ "

*** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات یاد ہے کہ آپ ظہر سے پہلے دو رکعات ادا کرتے تھے اُس کے بعد دو رکعات ادا کرتے تھے جمعہ کے بعد دو رکعات ادا کرتے تھے مغرب کے بعد دو رکعات ادا کرتے تھے عشاء کے بعد دو رکعات ادا کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: سیدہ حفصہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ صبح صادق ہو جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو مختصر رکعات ادا کرتے تھے۔

4825 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُدَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُطْنُ النَّاسِ بَعْدَ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَرَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَقَرَأَ فِيهِنَّ السُّورَتَيْنِ مِنَ الْمِينِ، فَإِذَا تَجَاوَبَ الْمُؤَذِّنُونَ شَدَّ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ *** عبداللہ بن بدیل بیان کرتے ہیں: لوگوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سب سے زیادہ قریبی شخص نے مجھے یہ بات بتائی ہے: انہوں نے سورج ڈھلنے کے بعد کھڑے ہو کر چار رکعات ادا کیں جن میں انہوں نے دو سو آیات والی دو سورتوں کی تلاوت کی اور جب مؤذنون نے ایک دوسرے کو جواب دینا شروع کیا تو انہوں نے اپنے کپڑے لپیٹے اور نماز کے لیے تشریف لے گئے۔

4826 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ

قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فِي بَيْتِهِ يُصَلِّي أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ

*** عون بن عبد اللہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر میں ظہر سے پہلے چار رکعات ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

4827 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَجْزَاةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، أَخِي

جُوَيْرِيَةَ الْخَزَاعِيِّ قَالَ: مَا صَلَاةٌ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ أَفْضَلَ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ
*** جویریہ خزاعی بیان کرتے ہیں: فرض نماز کے بعد کوئی بھی نماز ظہر سے پہلے کی چار رکعات سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتی۔

4828 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عَبْسَةَ بْنِ أَبِي

سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارَ

*** سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

”جو شخص ظہر سے پہلے چار رکعات ادا کرے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام قرار دے دیتا ہے۔“

4829 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ أَشَدَّ مُثَابَرَةً مِنْهُمْ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ
*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کسی بھی چیز پر اتنی شدت سے باقاعدگی اختیار نہیں کرتے تھے جتنے اہتمام کے ساتھ وہ ظہر سے پہلے کی چار رکعات اور فجر سے پہلے کی دو رکعات ادا کرتے تھے۔

4830 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَعُدُّونَ مِنَ السَّنَةِ

أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَهَا قَالَ: وَكَانُوا يَرَكُّونَ قَبْلَ الْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ وَلَا يَعُدُّونَهَا مِنَ السَّنَةِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكَعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكَعَتَيْنِ، وَقَبْلَ الْفَجْرِ رَكَعَتَيْنِ

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: پہلے لوگ یہ چیز سنت شمار کرتے تھے کہ ظہر سے پہلے چار رکعات ادا کی جائیں، ظہر کے بعد دو رکعات ادا کی جائیں۔ ابراہیم بیان کرتے ہیں: پہلے لوگ عصر سے پہلے دو رکعات ادا کرتے تھے لیکن وہ اسے سنت شمار نہیں کرتے تھے، مغرب کے بعد دو رکعات ادا کرتے تھے، عشاء کے بعد دو رکعات ادا کرتے تھے اور فجر سے پہلے دو رکعات ادا کرتے تھے۔

4831 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُسْتَحَبُّ إِذَا فَاتَتْهُ

الْأَرْبَعُ قَبْلَ الظُّهْرِ أَنْ يُصَلِّيَ تِلْكَ الْأَرْبَعِ بَعْدَ الظُّهْرِ
*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: یہ بات مستحب ہے کہ جب ظہر سے پہلے کی چار رکعات رہ گئی ہوں تو آدمی ظہر کے بعد ان

چار رکعات کو ادا کر لے۔

4832 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ بَعْدَ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: لَوْ أَدْرَكَ هَؤُلَاءِ السَّلَفَ الْأَوَّلَ عَلِمُوا أَنَّ غَيْرَ هَذِهِ الصَّلَاةِ خَيْرٌ مِنْهَا صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ إِذَا رَمَضَتِ الْفِصَالُ

*** حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو سورج نکلنے کے بعد نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا: اگر یہ لوگ پہلے والے لوگوں کا زمانہ پالیتے تو انہیں یہ پتا چل جاتا کہ اس نماز کے علاوہ ایک دوسری نماز اس سے زیادہ بہتر ہے وہ رجوع کرنے والوں کی نماز ہے جو اس وقت ادا کی جاتی ہے جب ٹیلے گرم ہو جائیں۔

4833 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولًا وَجِئْتُ أَسْلِمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: بَلَّغْنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ كُتِبَا - أَوْ رُفِعَتَا - فِي عِلِّيْنِ

*** عبدالعزیز بن عمر بیان کرتے ہیں: میں نے مکحول کوسنا، میں انہیں سلام کرنے کے لیے آیا تھا، انہوں نے بتایا: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: "جو شخص مغرب کے بعد کوئی کلام کرنے سے پہلے دو رکعات ادا کر لے تو ان دونوں کو علیین میں نوٹ کیا جاتا ہے (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں: بلند کیا جاتا ہے)۔"

4834 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: "كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَرُكَّعُوا بَعْدَ الْمَغْرِبِ بِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَبَعْدَ الْعِشَاءِ فِي رَكْعَتَيْنِ بِآخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ (آمَنَ الرَّسُولُ) (البقرة: 285) وَبِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقَبْلَ الْفَجْرِ بِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ"

*** عبدالرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں: پہلے لوگ اس بات کو مستحب سمجھتے تھے کہ مغرب کے بعد (دو رکعات ادا کرتے ہوئے) سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور عشاء کی بعد کی دو رکعات میں سورہ بقرہ کی آمن الرسول (سے آخر تک) اور سورہ اخلاص کی تلاوت کریں اور فجر سے پہلے کی دو رکعات میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔

بَابُ التَّطَوُّعِ فِي الْبَيْتِ

باب: گھر میں نوافل ادا کرنا

4835 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ مَنْصُورٍ، عَنِ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَطَوُّعُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ يَزِيدُ عَلَى

تَطَوُّعِهِ عِنْدَ النَّاسِ كَفَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحَدَهُ

*** ضمرہ بن حبیب نے نبی اکرم ﷺ کے اصحاب میں سے ایک شخص کا یہ بیان نقل کیا ہے: آدمی کا اپنے گھر میں نفل ادا کرنا اُس کے لوگوں کی موجودگی میں نفل ادا کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے جس طرح باجماعت نماز ادا کرنا آدمی کے اکیلے نماز ادا کرنے پر فضیلت رکھتا ہے۔

4836 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

4837 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ صَلَاةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، إِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا

*** حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے ہمیں یہ بتایا کہ جب کوئی شخص مسجد میں نماز ادا کر لے تو اُسے اپنی نماز میں سے کچھ حصہ اپنے گھر کے لیے بھی رکھنا چاہیے اُس کی نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اُس کے گھر میں بھلائی رکھ دے گا۔

4838 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صَبِيحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ

قَالَ: كُنَّا نَقْعُدُ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ قِيَامِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ نُثَبِّتُ النَّاسَ عَلَى الْقِرَاءَةِ، فَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَرْجِعَ صَلَاتِنَا رُكْعَتَيْنِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللَّهِ، فَقَالَ: تَحْمِلُونَ النَّاسَ مَا لَا يُحْمِلُهُمُ اللَّهُ، يَرَوْنَكُمْ تَصَلُّونَ فَيَرَوْنَ ذَلِكَ وَاجِبًا عَلَيْهِمْ، إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعْلِينِ فِي الْبُيُوتِ

*** مسروق بیان کرتے ہیں: ہم حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے قیام کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے تھے ہم لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت سکھایا کرتے تھے جب ہم واپس جانے کا ارادہ کرتے تھے تو ہم دو رکعات ادا کرتے تھے۔ اس بات کی اطلاع حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو ملی تو انہوں نے فرمایا: تم نے لوگوں کو ایسی چیز کا پابند کیا ہے جس کا پابند انہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے وہ لوگ تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز ان پر لازم ہے اگر تم نے ایسا ضرور ہی کرنا ہے تو اپنے گھر میں کیا کرو۔

4839 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ، عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ: سَهَيْلٌ، عَنِ

الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: رَأَى قَوْمًا عِنْدَ الْقَبْرِ فَنَهَاهُمْ، وَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَتَّخِذُوا بَيْتِي عَيْدًا، وَلَا تَتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ حَيْثُمَا كُنْتُمْ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي

*** حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو قبر کے پاس دیکھا تو

انہیں منع کیا اور بتایا: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”تم میرے گھر کو عید نہ بنا لینا اور تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لینا، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیج دینا، کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا۔“

4840 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرِبِيِّ، عَنْ نُسَيْرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ الرَّبِيعَ بْنَ خُنَيْمٍ مُتَطَوِّعًا فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ قَطًّا

*** نسیر بن ذعلوق بیان کرتے ہیں: میں نے ربیع بن خنیم کو کبھی بھی قبیلہ کی مسجد میں نفل نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، صرف ایک مرتبہ دیکھا ہے۔

4841 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عِيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: "رَأَيْتُ خِيَارَ أَصْحَابِ عَلِيٍّ: زَاذَانَ، وَمَيْسِرَةَ، وَأَبَا الْبَخْتَرِيِّ، يُؤْتِرُونَ الْمَسْجِدَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ عَلَى أَهْلِيهِمْ، يَعْنِي يُقَوْمُونَ مَعَ النَّاسِ"

*** عطاء بن سائب بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے بہترین افراد زاذان، میسرہ، ابو بختری ان حضرات کو دیکھا ہے کہ وہ رمضان کے مہینہ میں مسجد کو اپنے گھر والوں پر ترجیح دیتے تھے، یعنی لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرتے تھے۔

بَابُ فَضْلِ التَّطَوُّعِ

باب: نفل نماز کی فضیلت

4842 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَمَامَةَ عَنِ النَّافِلَةِ، فَقَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَافِلَةٌ وَلَكُمْ فَضِيلَةٌ

*** ابو غالب بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابولہامہ رضی اللہ عنہ سے نفل نماز کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا: نبی اکرم ﷺ نفل نماز ادا کرتے تھے اور تمہیں فضیلت حاصل ہوگی۔

4843 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ: رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ إِيمَانًا؟ قَالَ: أَحْسَنُهُمْ أَخْلَاقًا قَالَ: فَأَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ قَالَ: فَأَيُّ الْهَجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ هَجَرَ مَا نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ عَقَرَ جَوَادُهُ وَأَهْرِيَقَ دَمَهُ قَالَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جَهْدُ الْمُقِلِّ قَالَ: فَأَيُّ الصَّلَوَاتِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: طَوْلُ الْقُنُوتِ ذِكْرَهُ مَعْمَرٌ عَنْ عَمْرٍو

*** حسن بصری بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کی: یا رسول اللہ! کون سے مومن

ایمان کے اعتبار سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جن کے اخلاق زیادہ اچھے ہوں۔ اُس نے عرض کی: کون سا ایمان زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: صبر اور نرمی۔ اُس نے دریافت کیا: کون سی ہجرت زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو شخص اُس چیز سے لاتعلق ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اُس نے دریافت کیا: کون سا جہاد زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس میں گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیئے جائیں اور خون بہا دیا جائے۔ اُس نے دریافت کیا: کون سا صدقہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: آدمی کا مشقت کر کے (کما کر) تھوڑی چیز کو خرچ کرنا۔ اُس نے دریافت کیا: کون سی نماز زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جس میں قیام طویل ہو۔

معمر نے یہ روایت عمر کے حوالے سے نقل کی ہے۔

4844 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يُحَدِّثُ قَالَ: قِيلَ: أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ عَقَرَ جَوَادُهُ وَأَهْرَبَ دَمَهُ قِيلَ: فَأَيُّ الصَّلَوَاتِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: طُولُ الْقُنُوتِ قِيلَ: فَأَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جَهْدُ الْمُقِلِّ قِيلَ: فَأَيُّ الْهَجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ هَجَرَ مَا نَهَاهُ اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ قِيلَ: فَأَيُّ النَّاسِ أَحْكَمُ؟ قَالَ: الَّذِي يَحْكُمُ لِلنَّاسِ كَمَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ قِيلَ: فَأَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قَالَ: الَّذِي يَجْمَعُ عِلْمَ النَّاسِ إِلَى عِلْمِهِ قَالَ: لَا أَعْلَمُ عُبَيْدًا إِلَّا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*** عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں: میں نے عبید بن عمیر کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے: دریافت کیا گیا: کون سا جہاد زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: جس میں گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیئے جائیں اور خون بہا دیا جائے۔ دریافت کیا گیا: کون سی نماز زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جس میں قیام طویل ہو۔ دریافت کیا گیا: کون سا صدقہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: تنگ دست شخص کا صدقہ کرنا۔ دریافت کیا گیا: کون سی ہجرت زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ انہوں نے فرمایا: جو شخص اُس چیز سے لاتعلق ہو جائے جس سے اللہ اور اُس کے رسول نے منع کیا ہے۔ دریافت کیا گیا: کون سا شخص زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا ہے؟ انہوں نے فرمایا: جو لوگوں کے لیے اسی چیز کا فیصلہ دے جو وہ اپنے لیے فیصلہ دیتا ہے۔ دریافت کیا گیا: کون سا شخص زیادہ علم رکھتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جو لوگوں کے علم کو اپنے علم کے ساتھ جمع کر لے۔

راوی بیان کرتے ہیں: میرے علم کے مطابق عبید نے یہ روایت مرفوع حدیث کے طور پر نقل کی ہے۔

4845 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سُنِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: طُولُ الْقُنُوتِ

*** حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ سے سوال کیا گیا: کون سی نماز زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ آپ نے جواب دیا: جس میں قیام طویل ہو۔

4846 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِثَوْبَانَ: حَدِّثْنِي بِحَدِيثٍ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَنِي بِهِ قَالَ: قُلْتُ لَهُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ

*** ولید بن ہشام نے ایک شخص کا یہ بیان نقل کیا ہے: میں نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا: آپ مجھے کوئی حدیث بیان کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ اُس کے ذریعہ مجھے نفع عطا کرے۔ راوی کہتے ہیں: میں نے تین مرتبہ اُن سے یہ درخواست کی تو انہوں نے فرمایا: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

”جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مرتبہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کی وجہ سے اُس کے ایک درجہ کو بلند کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اُس کی ایک خطا کو مٹا دیتا ہے۔“

4847 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ هَارُونَ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ:

أَخْبَرَنِي حَبِيبُ أَبُو الْقَاسِمِ، ثُمَّ بَكَّا، قَالَهَا ثَلَاثًا وَهُوَ بَيْكِي، ثُمَّ قَالَ الثَّلَاثَةَ: أَخْبَرَنِي حَبِيبُ أَبُو الْقَاسِمِ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، وَكُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ

*** احنف بن قیس نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے فرمایا: میرے محبوب حضرت ابو القاسم رضی اللہ عنہ نے مجھے بتایا پھر وہ رونے لگے انہوں نے تین مرتبہ یہ کلمات استعمال کیے اور پھر رونے لگ جاتے تیسری مرتبہ انہوں نے کہا: میرے محبوب حضرت ابو القاسم رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ بتایا ہے:

”جو بھی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مرتبہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کی وجہ سے اُس کے ایک درجہ کو بلند کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اُس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے اور اس کی وجہ سے اُس کے لیے ایک نیکی نوٹ کر لیتا ہے۔“

4848 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: " إِذَا رَأَى الشَّيْطَانُ

ابْنَ آدَمَ سَاجِدًا قَالَ: يَا وَيْلَهُ، وَيْلٌ لِلشَّيْطَانِ، أَمَرَ اللَّهُ ابْنَ آدَمَ أَنْ يَسْجُدَ وَلَهُ الْجَنَّةُ فَاطَّاعَ، وَأَمَرَنِي أَنْ أَسْجُدَ فَعَصَيْتُ فَلِي النَّارُ

*** حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب شیطان ابن آدم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے: ہائے بربادی! اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جس کے نتیجے میں اُسے جنت مل جائے گی (کیونکہ) اُس نے فرمانبرداری کی اُس نے مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو میں نے نافرمانی کی تو مجھے جہنم ملے گی۔

بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى

باب: چاشت کی نماز

4849 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، بَنُ هَمَّامٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: ثَلَاثٌ

لَا ادْعُنَّ حَتَّى أَلْقَى أَبَا الْقَاسِمِ: أَنْ أَبِيتَ كُلَّ لَيْلَةٍ عَلَى وَتِيرٍ، وَأَنْ أَصُومَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَصَلَاةُ الضُّحَى قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ زِدْتُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، فَقَالَ: فَهُوَ خَيْرٌ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: تین چیزیں ایسی ہیں جنہیں میں کبھی ترک نہیں کروں گا، یہاں تک کہ میں حضرت ابوالقاسم رضی اللہ عنہ سے جا ملوں (یعنی میرا انتقال ہو جائے) ایک یہ کہ میں روزانہ رات کو وتر ادا کروں گا، ایک یہ کہ ہر مہینہ میں تین دن روزے رکھوں گا اور چاشت کی نماز ادا کروں گا۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میں تین دن سے زیادہ روزے رکھ لوں؟ انہوں نے فرمایا: یہ زیادہ بہتر ہے۔

4850 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَسْتُ بِتَارِكِهِنَّ لَا فِي سَفَرٍ وَلَا حَضْرٍ: نَوْمٌ عَلَى وَتْرٍ، وَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةُ الضُّحَى قَالَ: ثُمَّ أَوْهَمَ الْحَسَنُ بَعْدُ؛ فَجَعَلَ مَكَانَ الضُّحَى غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم رضی اللہ عنہ نے مجھے تین چیزوں کی تلقین کی تھی جنہیں میں سفر میں یا حضر میں ترک نہیں کروں گا، وتر ادا کر کے سونا، ہر مہینہ میں تین دن روزے رکھنا اور چاشت کی نماز ادا کرنا۔

قتادہ بیان کرتے ہیں: اس کے بعد حسن نامی راوی اس بارے میں وہم کا شکار ہو گئے اور انہوں نے چاشت کی نماز کی جگہ جمعہ کے دن غسل کرنے کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔

4851 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ اسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "عَهْدَ الَّذِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ أَبَدًا: أَنْ لَا آنَامَ إِلَّا عَلَى وَتْرٍ، وَصَلَاةُ الضُّحَى، وَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ"

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم رضی اللہ عنہ نے تین چیزوں کے بارے میں مجھ سے عہد لیا تھا، میں انہیں کبھی ترک نہیں کروں گا، یہ کہ میں وتر ادا کیے بغیر نہیں سوؤں گا، چاشت کی نماز ادا کروں گا اور ہر مہینہ میں تین دن روزے رکھوں گا۔

4852 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعًا وَسِتًّا وَثَمَانِيًا

*** مجاہد بیان کرتے ہیں: نبی اکرم رضی اللہ عنہ چاشت کے وقت دو یا چار یا چھ یا آٹھ رکعات ادا کرتے تھے۔

4853 - حدیث نبوی: وَمَعْمَرٌ، عَنِ قَتَادَةَ، عَنِ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

4851- الجامع للترمذی ' ابواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب ما جاء في صوم ثلاثة ايام من كل شهر' حديث 724 'مسند احمد بن حنبل' 'مسند ابى هريرة رضى الله عنه - حديث: 7554' المعجم الاوسط للضبراني - باب الف' باب من اسه ابراهيم - حديث: 2683

4853- صحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها' باب استحباب صلاة الضحى - حديث: 1210' مستخرج ابى عوانة - باب في الصلاة بين الاذان والاقامة في صلاة المغرب وغيرها' بيان اثبات صلاة الضحى من فعل رسول الله صلى الله عليه - حديث: 1692' صحيح ابن حبان - باب الإمامة والجماعة' باب الحدث في الصلاة - ذكر (باقى حاشية الكلى ص ١٠٦)

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ

*** سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ﷺ چاشت کی نماز میں چار رکعات ادا کرتے تھے اور اس سے زیادہ جتنا اللہ کو منظور ہوتا تھا (اُتنی زیادہ رکعات ادا کرتے تھے)۔

4854 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي صَلَاةَ الضُّحَى، فَقِيلَ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: صَلَاةُ رَغْبَةٍ، وَرَهْبَةٍ *** حسن بصری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ چاشت کی نماز ادا کرتے تھے آپ سے دریافت کیا گیا: یہ کون سی نماز ہے؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: یہ رغبت اور ڈر کی نماز ہے۔

4855 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي يَوْمِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ أَوْسَعَ مِنْهُ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ سے) إثبات عائشة صلاة الضحى للمصطفى صلى الله عليه وسلم: حديث: 2569 سنن ابن ماجه - كتاب إقامة الصلاة 'باب ما جاء في صلاة الضحى' - حديث: 1377 السنن الكبرى للنسائي - كتاب الصلاة 'عدد صلاة الضحى في الحضر' - حديث: 474 السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة 'ذكر الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدد' - باب ذكر من رواها اربع ركعات' حديث: 4557 مسند احمد بن حنبل - مسند الانصار 'الملحق المستدرک من مسند الانصار' - حديث السيدة عائشة رضي الله عنها' حديث: 24114 مسند الطيالسي - احاديث النساء 'علقمة بن قيس عن عائشة' - معاذة العدوية عن عائشة' حديث: 1663 سند إسحاق بن راهويه - ما يروى 'حديث: 1244 مسند ابى يعلى الموصلى - مسند عائشة' حديث: 4411 الشانل المحمدية للترمذى - باب صلاة الضحى' حديث: 277

4855- صحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها' باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن - حديث: 1235' صحيح ابن خزيمة - جماع ابواب ذكر الوتر وما فيه من السنن' جماع ابواب صلاة التطوع قبل الصلوات المكتوبات وبعدهن - باب ذكر الخبر المفسر للفظة الجميلة التي ذكرتها' حديث: 1118' مستخرج ابى عوانة - باب في الصلاة بين الاذان والإقامة في صلاة المغرب وغيرها' باب ثواب الصلوات السنن التي تصلى مع الصلوات المكتوبات وهي: - حديث: 1671' صحيح ابن حبان - باب الإمامة والجماعة' باب الحدث في الصلاة - ذكر بناء الله جل وعلا بيتا في الجنة لمن صلى في' حديث: 2484' المستدرک على الصحيحين للحاكم - من كتاب صلاة التطوع' حديث: 1106' السنن للنسائي - كتاب قيام الليل وتطوع النهار' باب ثواب من صلى في اليوم والليله اثنتي عشرة ركعة سوى - حديث: 1786' مصنف ابن ابى شيبه - كتاب صلاة التطوع والإمامة وابواب متفرقة' في ثواب من ثابر على اثنتي عشرة ركعة من التطوع - حديث: 5890' السنن الكبرى للنسائي - الامر بالوتر' ثواب من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليله وذكر - حديث: 1444' السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصلاة' جماع ابواب صلاة التطوع - باب من قال: هي ثنتا عشرة ركعة' حديث: 4161' مسند احمد بن حنبل - مسند النساء - حديث ام حبيبة بنت ابى سفيان رضي الله عنها' حديث: 26214' سند إسحاق بن راهويه - ما يروى عن ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم' حديث: 1834' مسند ابى يعلى الموصلى - حديث ام حبيبة بنت ابى سفيان ام المؤمنين' حديث: 6978

*** سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”جو شخص روزانہ بارہ رکعات ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے اور جو شخص مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے زیادہ وسیع (گھر جنت میں) بنا دیتا ہے۔“

4856 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن قتادة، عن ابن المسيب قال: " قال الله: يا ابن آدم، اتعجز ان

تصلي اربع ركعات في اول النهار اكفك اخره "

*** سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے آدم کے بیٹے! کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ تم دن کے

ابتدائی حصہ میں چار رکعات ادا کرو تو میں اس کے آخری حصہ میں تمہارے لیے کفایت کر جاؤں گا۔

4857 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: اخبرنا عطاء، عن ام هانئ بنت ابي طالب انها

دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو في قبة له، فوجدته قد اغتسل بماء كان في
صحفة ابي لاري فيها اثر العجين، ورأيتُه يصلي الضحى

*** سیدہ ام ہانی بنت ابوطالب رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: فتح مکہ کے دن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے خیمہ

میں حاضر ہوئیں تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کے ذریعہ غسل کرتے ہوئے پایا جو ایک بڑے برتن میں تھا جس میں مجھے آٹے کا نشان نظر آ رہا تھا پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کے وقت نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔

4858 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: حدثنا ابن شهاب، عن عبد الله بن الحارث، عن

ام هانئ وكان نازلا عليها ان النبي صلى الله عليه وسلم ستر عليه فاغتسل في الضحى فصلى ثمان ركعات
لا يدري اقيامها اطول ام ركوعها ام سجودها؟

*** سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت غسل کر

رہے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعات ادا کیں جن میں یہ پتا نہیں چلتا تھا کہ کیا ان میں قیام زیادہ طویل ہے رکوع زیادہ طویل ہے یا سجدہ زیادہ طویل ہے۔

4859 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ام هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم

صلى ثمان ركعات في الضحى، قيامهن وركوعهن وسجودهن قريب من السواء "

*** سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کے وقت آٹھ رکعات ادا کیں جن میں قیام رکوع اور

سجدے تقریباً ایک جتنے تھے۔

4860 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن

ام هانئ قالت: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح باعلى مكة فأتته، فجاءه ابو ذر بجفنة فيها
ماء قالت: ابي لاري فيها اثر العجين قال: فسره ابو ذر، فاغتسل، ثم ستر النبي صلى الله عليه وسلم ابا ذر

فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ وَذَلِكَ ضُحَى

* * سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: فتح مکہ کے دن نبی اکرم ﷺ مکہ مکرمہ کے بالائی حصہ میں ٹھہرے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک برتن میں پانی لے کر آئے۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: مجھے اس برتن میں آٹے کا نشان نظر آیا، پھر حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کے لیے پردہ کر لیا، نبی اکرم ﷺ نے غسل کیا، پھر نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے لیے پردہ کیا، انہوں نے غسل کیا، پھر نبی اکرم ﷺ نے آٹھ رکعات ادا کیں، یہ چاشت کے وقت کی بات ہے۔

4861 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَالِكٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ، مَوْلَى عَقِيلٍ، عَنْ أُمِّ هَانَءٍ قَالَتْ: سَمِعْتُهَا تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَقَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْتُ، وَذَلِكَ فِي الضُّحَى فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أُمُّ هَانَءٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: مَرَحِبًا بِأُمَّ هَانَءٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتَلَ فَلَانَ ابْنَ أُمَيَّةَ رَجُلًا قَدْ أَجْرْتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَجْرْنَا مَنْ أَجَارَتْ أُمَّ هَانَءٍ

* * سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: میں فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا، آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کپڑے کے ذریعہ آپ کے لیے پردہ کیا ہوا تھا۔ میں نے سلام کیا یہ چاشت کے وقت کی بات ہے، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: کون ہے؟ میں نے جواب دیا: ام ہانی بنت ابوطالب! نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ام ہانی کو خوش آمدید! جب نبی اکرم ﷺ غسل کر کے فارغ ہوئے تو آپ نے ایک کپڑے کو التحاف کے طور پر لپیٹ کر آٹھ رکعات ادا کیں، جب آپ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے ماں جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ! یہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں بن امیہ کو قتل کر دیں گے اور وہ ایک ایسا شخص ہے جسے میں پناہ دے چکی ہوں۔ تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ام ہانی نے جسے پناہ دی ہے، اسے ہم بھی پناہ دیتے ہیں۔

4862 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الضُّحَى، فَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ بِالْهَوَاجِرِ، أَوْ قَالَ: بِالْهَجِيرِ، وَلَمْ يُصَلِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الضُّحَى قَطُّ إِلَّا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ

1861 - صحیح مسلم - کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضحى - حدیث: 1214 صحیح ابن حبان - باب 'نهاراً' باب الغسل - ذکر البیان بان المغتسل جائز ان یتره عند اغتساله امرأة یكون حدیث: 1204 موطا - کتاب قصر الصلاة فی السفر، باب صلاة الضحى - حدیث: 360 مسند احمد بن حنبل - ومن حدیث ام هانء بنت ابی طالب حدیث: 26789 المعجم الكبير للطبرانی - باب الفاء، ما اسندت ام هانء - ابو مرة مولى عقيل

*** معمر نے زہری کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: میں نے اُن سے چاشت کی نماز کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: نبی اکرم ﷺ کے اصحاب دن چڑھے نماز ادا کیا کرتے تھے لیکن نبی اکرم ﷺ نے چاشت کی نماز کبھی ادا نہیں کی، صرف فتح مکہ کے موقع پر ادا کی تھی، یا آپ ﷺ اس کو اُس وقت ادا کرتے تھے جب آپ کسی سفر سے واپس تشریف لاتے تھے۔

4863 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ الْمَدِينَةَ ضُحَى فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: وَكَانَ إِذَا جَاءَ مِنْ سَفَرٍ فَعَلَ ذَلِكَ

*** عبد الرحمن بن کعب اپنے والد (حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہما) کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ غزوہ تبوک سے مدینہ منورہ چاشت کے وقت واپس تشریف لائے، آپ نے مسجد میں دو رکعات ادا کیں۔ راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تھے تو ایسا ہی کرتے تھے۔

4864 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، وَعَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَقْدُمُ مِنْ سَفَرٍ إِلَّا تَهَارًا فِي الضُّحَى فَإِذَا قَدِمَ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيهِ

*** عبد الرحمن بن عبد اللہ بن کعب اپنے والد عبد اللہ بن کعب کے حوالے سے اُن کے چچا عبید اللہ بن کعب کے حوالے سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہما کا یہ بیان نقل کرتے ہیں:

”نبی اکرم ﷺ سفر سے دن میں تشریف لاتے تھے اور چاشت کے وقت تشریف لاتے تھے جب آپ تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے مسجد میں آتے تھے اور وہاں دو رکعات ادا کرتے تھے پھر وہاں تشریف فرما ہو جاتے تھے۔“

4865 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، كَانَ يُذَكِّرُ لَهُ هَذِهِ الصَّلَاةُ الَّتِي أَحَدَثَ النَّاسُ، فَيَقُولُ: صَلُّوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ عَلَى الصَّلَاةِ

4864- صحیح مسلم - کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر اول قدمه - حدیث: 1206، مستخرج ابی عوانة - مبتدا ابواب مواقيت الصلاة مبتدا ابواب في الساجد وما فيها - بیان إيجاب الركعتين على من يدخل المسجد قبل ان يجلس وعلى حدیث: 970، سنن ابی داود - کتاب الجهاد باب في الصلاة عند القدوم من السفر - حدیث: 2415، السنن الكبرى للنسائي - کتاب السير الوقت الذي يستحب له ان يدخل - حدیث: 8506، مسند احمد بن حنبل - مسند المكيين بقية حدیث كعب بن مالك الانصاري - حدیث: 15495، المعجم سير نصبراني - باب الفاء ما اسند كعب بن مالك - باب حدیث: 15863

*** امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے اس نماز کا ذکر کیا گیا جسے لوگوں نے بعد میں ایجاد کیا ہے تو انہوں نے فرمایا: جہاں تک تم سے ہو سکے تم نماز ادا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نماز ادا کرنے کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا۔

4866 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تُصَلِّي الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ وَتَقُولُ: لَوْ نَشِرَ لِي أَبِي مَا تَرَكَتُهُنَّ "

*** زید بن اسلم بیان کرتے ہیں: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا چاشت کی نماز میں آٹھ رکعات ادا کرتی تھیں اور یہ فرمایا کرتی تھیں: اگر میرے والد کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے تو بھی میں انہیں ترک نہیں کروں گی۔

4867 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، كَانَتْ تَقُولُ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَبِّحُ سُبْحَةَ الضُّحَى قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُسَبِّحُهَا وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتْرُكُ الْعَمَلَ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَنَّ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا خَفَّ عَلَى النَّاسِ

*** سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یہ نماز ادا کیا کرتی تھیں وہ یہ فرماتی تھیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات کسی عمل کو اس اندیشہ کے تحت ترک کر دیتے تھے کہ کہیں لوگ اسے معمول نہ بنالیں اور وہ ان پر لازم نہ ہو جائے آپ اس عمل کو پسند کرتے تھے جو لوگوں کے لیے آسان ہو۔

4868 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ قُتِلَ عُثْمَانُ وَمَا أَحَدٌ يُسَبِّحُهَا وَمَا أَحَدٌ النَّاسُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهَا

*** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس وقت اس نماز کو کوئی ادا نہیں کرتا تھا لوگوں نے بعد میں جو چیزیں ادا کی ہیں ان میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یہ نماز ہے۔

4867 - صحيح البخاری - كتاب الجمعة - ابواب تقصير الصلاة - باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الليل والنوافل - حديث: 1089 - صحيح مسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب استحباب صلاة الضحى - حديث: 1209 - صحيح ابن خزيمة - كتاب الصيام - جماع ابواب صوم التطوع - باب ذكر علة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك حديث: 1955 - مستخرج ابى عوانة - باب فى الصلاة بين الاذان والإقامة فى صلاة المغرب وغيرها بيان ثواب صلاة الضحى - حديث: 1691 - صحيح ابن حبان - كتاب البر والإحسان - باب ما جاء فى الطاعات وثوابها - ذكر العلة التى من أجلها كان يترك صلى الله عليه وسلم حديث: 313 - موطا مالك - كتاب قصر الصلاة فى السفر - باب صلاة الضحى - حديث: 361 - سنن ابى داود - كتاب الصلاة - تفريع صلاة السفر - باب صلاة الضحى - حديث: 1114 - مصنف ابن ابى شيبه - كتاب صلاة التطوع والإمامة و ابواب متفرقة من كان لا يصلى الضحى - حديث: 7666 - السنن الكبرى للنسائي - كتاب الصلاة - عدد صلاة الضحى فى الحضر - حديث: 475 - السنن الكبرى للبيهقى - كتاب الصلاة - ذكر الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فى عدد - باب ذكر الحديث الذى روى فى ترك الرسول صلى الله عليه وسلم حديث: 4569 - مسند احمد بن حنبل - حديث السيدة عائشة رضى الله عنها - حديث: 24035 - سند إسحاق بن راهويه - ما يروى عن عروة بن الزبير - حديث: 712

4869 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَوْ مَعْمَرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: قَدْ أُصِيبَ عُثْمَانُ، وَمَا أَحَدٌ يُسَبِّحُهَا، وَانْهَاهَا لِمَنْ أَحَبَّ مَا أَحَدَتْ النَّاسُ إِلَيَّ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ نَاسٌ: أَوَّلُ مَنْ صَلَّى بِهَا أَهْلُ الْبَوَادِي يَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ إِذَا فَرَّغُوا مِنْ أَسْوَاقِهِمْ

*** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو اُس وقت کوئی بھی یہ نماز ادا نہیں کرتا تھا، لیکن لوگوں نے جو کچھ ایجاد کیا ہے اُس میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز یہ ہے۔

ابن جریر بیان کرتے ہیں: لوگوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ سب سے پہلے نواحی علاقے کے رہنے والے لوگوں نے اس نماز کو پڑھنا شروع کیا تھا، وہ جب اپنے بازار سے فارغ ہو کر مسجد میں آتے تھے (تو یہ نماز ادا کرتے تھے)۔

4870 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "لَمْ يَزَلْ فِي نَفْسِي مِنْ صَلَاةِ الضُّحَى شَيْءٌ حَتَّى قَرَأْتُ: (سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ)"

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: چاشت کی نماز کے بارے میں ہمیشہ میرے ذہن میں الجھن رہی یہاں تک کہ میں نے یہ آیت تلاوت کی:

”ہم نے پہاڑوں کو اُس کے ساتھ مسخر کر دیا تھا جو شام کے وقت اور اشراق کے وقت تسبیح بیان کرتے تھے۔“

4871 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ الْخُرَّاسَانِيَّ، يَقُولُ لَطَاوُسٍ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: "صَلَاةُ الضُّحَى فِي الْقُرْآنِ وَلَكِنْ لَا يَغُوصُ عَلَيْهَا إِلَّا غَائِصٌ، ثُمَّ قَرَأَ: (يُسَبِّحُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ)" قَالَ طَاوُسٌ: وَاللَّهِ مَا صَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى مَاتَ إِلَّا أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”چاشت کی نماز کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن اس کے بارے میں انتہائی غور و فکر کرنے والا شخص ہی مطلع ہو سکتا ہے۔“

پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی:

”وہ شام کے وقت اور اشراق کے وقت تسبیح بیان کرتے تھے۔“

طاووس بیان کرتے ہیں: اللہ کی قسم! حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے انتقال فرمانے تک یہ نماز کبھی ادا نہیں کی، البتہ اگر آپ نے (اُس وقت میں) بیت اللہ کا طواف کیا ہوتا تھا (تو طواف کے بعد والی رکعات اُس وقت میں) ادا کر لیتے تھے۔

4872 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ أَيْضًا أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ صَلَّى الْأَعْرَابُ، إِذَا بَاعَ أَحَدُهُمْ بِضَاعَةً يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيَكْبِرُ وَيَسْجُدُ إِلَّا أَنْ طَاوُسًا يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ الْأَعْرَابِيُّ

*** طاووس فرماتے ہیں: یہ نماز سب سے پہلے دیہاتیوں نے ادا کی تھی، جب اُن میں سے کوئی ایک شخص اپنا سامان

فروخت کر دیتا تھا تو وہ مسجد میں آتا تھا، آ کر تکبیر کہتا تھا اور سجدہ کرتا تھا (یعنی نوافل ادا کرتا تھا)۔

طاؤس نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا تھا اور پھر دیہاتی سجدے میں چلا جاتا تھا۔

4873 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَاةُ

الضُّحَى إِذَا انْقَطَعَتِ الظُّلَالُ

* * * حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: چاشت کی نماز اُس وقت ادا کی جائے گی جب سائے منقطع ہو

جائیں۔

4874 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ بَجِيلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ:

كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لَا يُصَلِّي الضُّحَى وَيُصَلِّي مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ مَعَ عُقْبَةَ مِنَ اللَّيْلِ طَوِيلَةً

* * * امام شعبی بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ چاشت کی نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ وہ ظہر اور عصر کے

درمیان اور رات کے ابتدائی حصہ میں طویل نماز ادا کرتے تھے۔

4875 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمِّهِ قَيْسِ بْنِ

عَبْدٍ قَالَ: اخْتَلَفْتُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ سَنَةً فَمَا رَأَيْتُهُ مُصَلِّيًا صَلَاةَ الضُّحَى وَلَا صَائِمًا يَوْمًا مِنْ غَيْرِ

رَمَضَانَ قَالَ: فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ أُتِيَ فَقِيلَ لَهُ: هَذَا رَسُولُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَطْفِنُوا الْمِصْبَاحَ،

فَدَخَلَ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْأَمِيرَ يَقُولُ لَكَ: اتْرُكْ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَقُولُ قَالَ: وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: هَذِهِ الْكَلِمَاتُ؟

قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يُرِدُّ دُهْنَ قَالَ: قَوْلُكَ: كُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ قَالَ: إِنِّي لَنْ اتْرُكُهَا قَالَ: فَإِنَّهُ يَقُولُ لَكَ: فَاحْرُجْ قَالَ:

فَأِنِّي خَارِجٌ قَالَ: فَخَرَجَ إِلَى الْمَدِينَةِ

* * * قیس بن عبد بیان کرتے ہیں: میں ایک سال تک حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہاں آتا جاتا رہا، میں نے

انہیں کبھی بھی چاشت کی نماز ادا کرتے ہوئے اور رمضان کے علاوہ کسی اور دن میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ راوی بیان

کرتے ہیں: ایک مرتبہ ہم رات کے وقت اُن کے پاس موجود تھے انہیں کہا گیا: ولید کا قاصد آیا ہے۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے

فرمایا: چراغ کو بجھا دو۔ وہ قاصد اندر آیا اُس نے حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے کہا: امیر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کلمات کو کہنا

ترک کر دیں جو آپ کہتے ہیں۔ انہوں نے دریافت کیا: کون سے کلمات؟ اُس نے جواب دیا: یہ کلمات۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ

مسلسل سوال دہراتے رہے تو اُس نے جواب دیا: آپ کا یہ کہنا کہ ہر نئی ایجاد شدہ چیز بدعت ہوتی ہے۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے

فرمایا: میں انہیں ترک نہیں کروں گا۔ قاصد نے کہا: پھر امیر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ حضرت

عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھر وہ وہاں سے مدینہ منورہ چلے گئے۔

4876 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ رَجُلٍ، عَنِ شُعْبَةَ، عَنِ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ جَدِّهِ، عَنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ صَلَّاهَا

** سعد بن ابراہیم اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا بیان نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا: میں نے کبھی انہیں یہ نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

4877 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن عبد الرحمن بن زید بن أسلم، عن أبيه، عن سالم بن عبد الله قال:
قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: مَا لِي لَا أَرَاكَ تُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَ: لَمْ أَر رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا
** سالم بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا: کیا وجہ ہے کہ میں نے آپ کو چاشت کی نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے نبی اکرم ﷺ کو یہ نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

4878 - اقوال تابعين: عبد الرزاق، عن أبيه، عن خلاد بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبيرة، ومجاهد قالوا: " مَنْ صَلَّى الضُّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ كُتِبَ مِنَ الْأَوَابِينَ (أَنَّهُ كَانَ لِلأَوَابِينَ غُفُورًا)
** سعید بن جبیر اور مجاہد بیان کرتے ہیں: جو شخص چاشت کے وقت آٹھ رکعات ادا کر لیتا ہے اُس کا نام "اوابین" میں نوٹ کر لیا جاتا ہے (جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے):
"بے شک وہ اوابین کی مغفرت کرنے والا ہے۔"

4879 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن اسماعيل، عن الشعبي قال: سَمِعْتُ ابْنَ عَمْرٍو يَقُولُ:
مَا صَلَّيْتُ الضُّحَى مُنْذُ اسَلَّمْتُ

** امام شعبی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے:
"جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں نے کبھی چاشت کی نماز ادا نہیں کی۔"

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَرَاءَ الْإِمَامِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ

باب: آدمی کا امام کے پیچھے مسجد سے باہر موجود رہ کر نماز ادا کرنا

4880 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن التيمي، عن أبيه، عن نعيم بن أبي هند، عن عمر بن الخطاب أنه قال في الرجل يصلي بصلاة الإمام قال: إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ أَوْ طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ فَلَا يَأْتُمُ بِهِ
** نعيم بن ابو ہند نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے کہ انہوں نے ایسے شخص کے بارے میں جو امام کی نماز کی اقتداء میں نماز ادا کرتا ہے اُس کے بارے میں یہ فرمایا ہے: جب اُن دونوں (امام اور مقتدی) کے درمیان نہر ہو یا راستہ ہو یا دیوار ہو تو مقتدی امام کی پیروی نہ کرے۔

4881 - اقوال تابعين: عبد الرزاق، عن إسراييل بن يونس، عن عيسى قال: سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، عَنِ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا

* * عیسیٰ بیان کرتے ہیں: میں نے عامر شععی سے ایسی خاتون کے بارے میں دریافت کیا جو کسی امام کی نماز کی پیروی میں نماز ادا کرتی ہے اور ان دونوں کے درمیان راستہ موجود ہوتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: اُس عورت کو اس بات کا حق نہیں ہے۔

4882 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ الْمُجَالِدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ قَالَ: حَسَنٌ، مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ نِسَاءٌ

* * ابراہیم نخعی ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو کسی امام کی پیروی میں نماز ادا کرتا ہے اور ان دونوں (امام اور مقتدی) کے درمیان کوئی دیوار موجود ہے؟ تو ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: یہ اچھا ہے جبکہ ان دونوں کے درمیان کوئی راستہ یا خواتین موجود نہ ہوں۔

4883 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تُصَلِّي بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي بَيْتِهَا وَهِيَ فِي الْمَسْجِدِ

* * قاسم بن محمد نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہ کر امام کی اقتداء میں نماز ادا کر لیتی تھیں حالانکہ امام مسجد میں موجود ہوتا تھا۔

4884 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مَجَلَزٍ قَالَ: تُصَلِّي الْمَرْأَةُ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ أَوْ جِدَارٌ بَعْدَ أَنْ تَسْمَعَ التَّكْبِيرَ فَلَا بَأْسَ

* * ابوجلز بیان کرتے ہیں: عورت امام کی نماز کی پیروی میں نماز ادا کر سکتی ہے اگرچہ ان دونوں کے درمیان کوئی راستہ یا دیوار موجود ہو بشرطیکہ عورت تکبیر کی آواز سن سکتی ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

4885 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: جِئْتُ أَنَا، وَأَبِي مَرَّةً، فَوَجَدْنَا الْمَسْجِدَ قَدْ اِمْتَلَأَ، فَصَلَّيْنَا بِصَلَاةِ الْإِمَامِ فِي دَارٍ عِنْدَ الْمَسْجِدِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ

* * ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں اور میرے والد آئے تو ہم نے مسجد کو پایا کہ وہ بھر چکی ہے تو ہم نے مسجد کے قریب ایک گھر میں امام کی اقتداء میں نماز ادا کی حالانکہ اُس گھر اور مسجد کے درمیان راستہ موجود تھا۔

886 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: صَلَّيْنَا فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

* * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ ہشام بن عروہ سے منقول ہے تاہم اُس میں یہ الفاظ ہیں: ہم نے حمید بن عبد الرحمن کے گھر میں نماز ادا کی۔

4887 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِصَلَاةِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ

وَبَيْنَهُمَا طَرِيقٌ

*** صالح بن ابراہیم بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے حمید بن عبدالرحمن کے گھر میں ولید بن عبدالملک کی اقتداء میں جمعہ کی نماز ادا کی جبکہ ان دونوں (یعنی مسجد اور گھر) کے درمیان راستہ موجود تھا۔

4888 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوَّامَةِ: اَنَّهُ رَأَى اَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّي عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ بِصَلَاةِ الْاِمَامِ وَهُوَ تَحْتَهُ

*** صالح جو توامہ کے غلام ہیں وہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو امام کی نماز کی اقتداء میں مسجد کی چھت پر نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے جبکہ امام نیچے موجود تھا۔

بَابُ الْاِسْتِسْقَاءِ

باب: استسقاء کا بیان

4889 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِيهِ قَالَ: خَرَجَ

4889- صحیح البخاری - کتاب الجمعة ابواب الاستسقاء - باب تحويل الرداء في الاستسقاء ' حدیث: 980' صحیح مسلم - کتاب صلاة الاستسقاء ' حدیث: 1534' صحیح ابن خزيمة - جباع ابواب ذكر الوتر وما فيه من السنن جباع ابواب صلاة الاستسقاء وما فيها من السنن - باب الخروج إلى البصلي للاستسقاء ' حدیث: 1320' مستخرج ابی عوانة - کتاب الاستسقاء ' حدیث: 1983' صحیح ابن حبان - باب الإمامة والجماعة' باب صلاة الاستسقاء - ذكر البيان بان صلاة الاستسقاء يجب ان يجهر فيها بالقراءة ' حدیث: 2917' المستدرک علی الصحیحین للحاکم - کتاب الاستسقاء ' حدیث: 1153' موطا مالك - کتاب الاستسقاء ' باب العمل في الاستسقاء - حدیث: 449' سنن الدارمی - کتاب الصلاة باب في صلاة الاستسقاء - حدیث: 1547' سنن ابی داود - کتاب الصلاة' تفریع ابواب الجمعة - جباع ابواب صلاة الاستسقاء وتفریعها' حدیث: 994' سنن ابن ماجه - کتاب إقامة الصلاة' باب ما جاء في صلاة الاستسقاء - حدیث: 1263' الجامع للترمذی - ابواب الجمعة' ابواب السفر - باب ما جاء في صلاة الاستسقاء ' حدیث: 541' السنن للنسائی - کتاب الاستسقاء ' خروج الإمام إلى البصلي للاستسقاء - حدیث: 1495' مصنف ابن ابی شيبه - کتاب صلاح التطوع والإمامة وابواب متفرقة من كان يصلي صلاة الاستسقاء - حدیث: 8212' السنن الكبرى للنسائی - کتاب الصلاة' عدد صلاة الأستسقاء - حدیث: 495' شرح معانی الآثار للطحاوی - باب الاستسقاء كيف هو , وهل فيه صلاة ام لا ' حدیث: 1196' سنن الدارقطنی - کتاب الاستسقاء ' حدیث: 1570' السنن الكبرى للبيهقي - کتاب صلاة الاستسقاء ' باب الإمام يخرج إلى البصلي إذا اراد ان يستسقي بصلاة - حدیث: 6002' مسند احمد بن حنبل - مسند البدينين' حدیث عبد الله بن زيد بن عاصم البازنی وكانت له صحبة - حدیث: 16139' مسند الشافعی - کتاب العیدین' حدیث: 328' مسند الطيالسی - وعبد الله بن زيد بن عاصم الانصاری' حدیث: 1181' مسند الحمیدی - احادیث عبد الله بن زيد الانصاری رضی الله عنه الذي ارى' حدیث: 407' المعجم الاوسط للطبرانی - باب الالف' من اسمه احمد - حدیث: 133' المعجم الصغير للطبرانی - من اسمه يسر' حدیث: 1184

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ يَسْتَسْقَى فَصَلَّى بِهِمْ رَكَعَتَيْنِ جَهْرًا بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا، وَحَوْلَ رِذَاءَةٍ
وَدَعَا وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ

*** عباد بن تمیم اپنے چچا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ لوگوں کو ساتھ لے کر بارش کے نزول کی (نماز ادا کرنے) کے لیے تشریف لے گئے آپ نے لوگوں کو دو رکعات پڑھائیں جن میں آپ نے بلند آواز میں قرأت کی پھر آپ نے اپنی چادر کو پلٹ دیا آپ نے دعا کی اور قبلہ کی طرف رخ رکھا۔

4890 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَحَوْلَ رِذَاءَةٍ

*** عباد بن تمیم اپنے چچا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے بارش کی دعا کرتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ کیا اور اپنی چادر کو پلٹ دیا۔

4891 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوَّامَةِ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: اسْتَمَطَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِالْمُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ

*** حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے بارش کے نزول کے لیے عید گاہ میں دو رکعات نماز ادا کی۔

4892 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَضْحَكُ مِنْكُمْ أَزْلِينَ بِقُرْبِ الْغَيْثِ مِنْكُمْ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَاهِلَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَوِ إِنَّ رَبَّنَا لَيَضْحَكُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَوَاللَّهِ، لَا عِدْمَنَا الْخَيْرَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ

*** اسماعیل بن امیہ نبی اکرم ﷺ تک مرفوع حدیث کے طور پر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”بے شک اللہ تعالیٰ تم لوگوں کی اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ تم بادل کے اپنے قریب آنے پر مایوس ہوتے ہو۔“

تو بابلہ قبیلہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا ہمارا پروردگار بھی ہنستا ہے؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جی ہاں! اللہ کی قسم! ایسے پروردگار سے ہم بھلائی سے محروم نہیں رہیں گے جو ہنستا بھی ہے۔

4893 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: أَرْسَلَنِي أَمِيرٌ مِنَ الْأَمْرَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْتِسْقَاءِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَوَاضِعًا مُتَضَرِّعًا مُتَذَلِّلًا فَحَطَبَ، وَلَمْ يَحْطَبْ كَحُطْبَتِكُمْ هَذِهِ، فَدَعَا وَصَلَّى كَمَا يُصَلِّي فِي الْعِيدِ رَكَعَتَيْنِ، قَالَ سُفْيَانُ: فَقُلْتُ: أَقْبَلَ الْخُطْبَةَ صَلَّى أَمْ بَعْدَهَا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي

*** اسحاق بن عبد اللہ کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: ایک امیر نے مجھے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس بھیجا تا کہ میں اُن سے نمازِ استسقاء کے بارے میں دریافت کروں تو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اضع کے عالم میں گریہ وزاری کرتے ہوئے تشریف لے گئے، آپ نے خطبہ دیا، لیکن یہ اُس طرح کا خطبہ نہیں تھا جس طرح تم لوگ دیتے ہو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور نماز ادا کی جس طرح آپ عید کی نماز میں دو رکعات ادا کرتے تھے۔ سفیان بیان کرتے ہیں: (میں نے اپنے استاد سے) دریافت کیا: کیا آپ نے خطبہ سے پہلے نماز ادا کی تھی؟ یا اُس کے بعد ادا کی تھی؟ انہوں نے جواب دیا: مجھے نہیں معلوم!

4894 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنْ اسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَظُنُّ اَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْاَضْحَى وَالْاِسْتِسْقَاءِ سَبْعًا فِي الْاُولَى وَخَمْسًا فِي الْاٰخِرَةِ

*** حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ آپ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور استسقاء کی نماز میں پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں کہا کرتے تھے۔

4895 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: " كَانَ عَلِيٌّ يُكَبِّرُ فِي الْفِطْرِ وَالْاَضْحَى وَالْاِسْتِسْقَاءِ سَبْعًا فِي الْاُولَى، وَخَمْسًا فِي الْاٰخِرَى، وَيُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ، وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ

*** امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اپنے والد (امام محمد باقر رضی اللہ عنہ) کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ عید الفطر، عید الاضحیٰ

4893- سنن ابی داود - کتاب الصلاة، تفریع ابواب الجمعة - جباع ابواب صلاة الاستسقاء وتفریعها، حدیث: 997، سنن ابن ماجه - کتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء فی صلاة الاستسقاء - حدیث: 1262، صحیح ابن خزيمة - جباع ابواب ذکر البوتر وما فيه من السنن، جباع ابواب صلاة الاستسقاء وما فيها من السنن - باب التواضع والتبذل والتخشع والتضرع عند الخروج إلى الاستسقاء، حدیث: 1319، صحیح ابن حبان - باب الإمامة والجماعة، باب صلاة الاستسقاء - ذکر البیان بان صلاة الاستسقاء يجب ان تكون مثل صلاة العید، حدیث: 2914، مستخرج ابی عوانة - کتاب الاستسقاء زیادات فی الاستسقاء - حدیث: 2029، المستدرک علی الصحیحین للحاکم - کتاب الاستسقاء، حدیث: 1150، الجامع للترمذی - باب ما جاء فی صلاة الاستسقاء، حدیث: 543، السنن للنسائی - کتاب الاستسقاء، باب الحال التي يستحب للإمام ان يكون عليها إذا خرج - حدیث: 1496، مصنف ابن ابی شیبة - کتاب صلاة التطوع والإمامة و ابواب متفرقة، من كان یصلی صلاة الاستسقاء - حدیث: 8207، السنن الکبریٰ للنسائی - کتاب الاستسقاء، الخروج إلى المصلی للاستسقاء - حدیث: 1788، شرح معانی الآثار للطحاوی - باب الاستسقاء کیف هو، وهل فيه صلاة ام لا؟، حدیث: 1202، سنن الدارقطنی - کتاب الاستسقاء، حدیث: 1576، السنن الکبریٰ للبيهقي - کتاب صلاة الاستسقاء، باب الإمام یخرج متبذلاً متواضعاً متضرعاً - حدیث: 6003، مسند احمد بن حنبل، مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب - حدیث: 2348، المعجم الکبیر للطبرانی - من اسمه عبد الله، وما اسند عبد الله بن عباس رضی الله عنهما - کنانة عن ابن عباس، حدیث: 10623

اور نماز استسقاء میں پہلی رکعت میں سات اور دوسری میں پانچ تکبیریں کہا کرتے تھے۔ وہ خطبہ دینے سے پہلے نماز ادا کرتے تھے اور بلند آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ وہ بیان کرتے تھے: نبی اکرم ﷺ، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

4896 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: سُنَّةُ الْإِسْتِسْقَاءِ كَسُنَّةِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي التَّكْبِيرِ

* * سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں: تکبیر کہنے کے حوالے سے نماز استسقاء ادا کرنے کا طریقہ وہی ہے جو عید الفطر کی نماز اور عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ ہے۔

4897 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اسْتَسْقَى حَوْلَ رِذَاءِ هُ الْأَيْمَنِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْسَرِ، وَالْأَيْسَرِ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے جب بارش کے نزول کے لیے دعا کی تو آپ نے اپنی چادر کو الٹا دیا، آپ نے دائیں حصہ کو بائیں طرف کر دیا اور بائیں حصہ کو دائیں طرف کر دیا، پھر آپ نے قبلہ کی طرف رخ کیا، پھر آپ منبر سے نیچے اترے اور آپ نے دو رکعت نماز ادا کی۔

4898 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِذْ هُوَ عَامِلٌ عَلَى الْمَدِينَةِ اسْتَسْقَى عَلَى الْمِنْبَرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى

* * عبدالرحمن بن حارث بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ وہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس موجود تھے جو ان دنوں مدینہ منورہ کے گورنر تھے، انہوں نے منبر پر بارش کے نزول کی دعا کی، پھر وہ منبر سے نیچے اترے اور انہوں نے نماز ادا کی۔

4899 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي اسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، "خَرَجَ يَسْتَسْقَى بِالنَّاسِ، فَخَطَبَ، ثُمَّ صَلَّى بِغَيْرِ آذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ قَالَ: وَفِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْبِرَاءُ بِنُ عَازِبٍ وَزَيْدُ بْنُ أَرْقَمٍ"

* * عبداللہ بن یزید خطمی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما لوگوں کے لیے بارش کے نزول کی دعا کرنے کے لیے تشریف لے گئے، انہوں نے خطبہ دیا پھر کسی اذان اور اقامت کے بغیر نماز ادا کی۔ راوی بیان کرتے ہیں: لوگوں میں ان دنوں حضرت براء بن عازب اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔

4900 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكَعَتِي الْإِسْتِسْقَاءِ: وَالشَّمْسُ وَضَحَاهَا، وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى

* * حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: نماز استسقاء کی دو رکعت میں سورہ واكشس اور سورہ واللیل کی تلاوت کی

جائے گی۔

4901 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى عَطَاءً: أَفِي الْإِسْتِسْقَاءِ صَلَاةٌ؟ فَلَمْ يُفَرِّقْ لَهُ عَمَّنْ مَضَى شَيْئًا، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَذَكَرَ لَنَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ بِالنَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى وَدَعَا وَاسْتَغْفَرَ ثُمَّ نَزَلَ فَانْقَلَبَ وَلَمْ يُصَلِّ

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: سلیمان بن موسیٰ نے عطاء سے سوال کیا: کیا بارش کے نزول کے لیے نماز ادا کی جائے گی؟ سلیمان بیان کرتے ہیں: انہوں نے ہمارے سامنے یہ بات ذکر کی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کو ساتھ لے کر عید گاہ تشریف لے گئے، انہوں نے دعا مانگی، دعائے مغفرت کی، پھر وہ منبر سے نیچے اترے اور واپس چلے گئے، انہوں نے نماز ادا نہیں کی۔

4902 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ، فَمَا زَادَ عَلَى الْإِسْتِغْفَارِ حَتَّى رَجَعَ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا رَأَيْنَاكَ اسْتَسْقَيْتَ قَالَ: "لَقَدْ طَلَبْتُ الْمَطْرَ بِمَجَادِيحِ السَّمَاءِ الَّتِي تُسْتَنْزَلُ بِهَا الْمَطْرُ: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا) (نوح: 11) وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَنْبِيئَ (اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ) (هود: 52)"

*** امام شعبی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں کو ساتھ لے کر بارش کے نزول کی دعا کرنے کے لیے گئے، انہوں نے صرف دعائے مغفرت کی اور مزید کچھ نہیں کیا اور واپس آ گئے۔ لوگوں نے کہا: اے امیر المؤمنین! ہم نے آپ کو بارش کے نزول کی دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا! تو انہوں نے جواب دیا: میں نے آسمان کے ان ستاروں سے بارش مانگی ہے، جن کی وجہ سے بارش نازل ہوتی ہے۔ (ارشاد باری تعالیٰ ہے:)

”تم لوگ اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو کیونکہ وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا ہے، تو وہ تم پر موسلا دھار بارش نازل کرے گا، اور اموال اور بال بچوں کے ذریعہ تمہاری مدد کرے گا۔“

(ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:)

”تم اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کرو اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل کرے گا اور تمہاری قوت میں مزید اضافہ کر دے گا۔“

4903 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ: "إِنِّي كَتَبْتُ إِلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ أَنْ يَخْرُجُوا يَوْمَ كَذَا مِنْ شَهْرِ كَذَا لِيَسْتَسْقُوا، وَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَصُومَ وَيَتَصَدَّقَ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) (الأعلى: 15) وَقُولُوا كَمَا قَالَ أَبُوكُمْ (رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (الأعراف: 23)

وَقُولُوا كَمَا قَالَ نُوحٌ: (إِلَّا تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي أَكُنُ مِنَ الْخَاسِرِينَ) (هود: 47) وَقُولُوا كَمَا قَالَ مُوسَى: (إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (القصص: 16) وَقُولُوا كَمَا قَالَ يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ) (الانبیاء: 87) "

*** جعفر بن برقان بیان کرتے ہیں: عمر بن عبدالعزیز نے میمون بن مہران کو خط میں لکھا کہ میں نے تمام علاقے کے لوگوں کو یہ خط میں لکھا ہے کہ وہ فلاں مہینہ کے فلاں دن نکلیں تاکہ بارش کے نزول کی دعا کریں اور جو شخص روزہ رکھ سکتا ہو اور صدقہ کر سکتا ہو اسے ایسا کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

"وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا اور اپنے پروردگار کے اسم کا ذکر کرتے ہوئے نماز ادا کی۔"

تم لوگ اسی طرح کہو جس طرح تمہارے اجداد نے کہا تھا: (جس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں ہے):

"اے ہمارے پروردگار! ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے اگر تو نے ہماری مغفرت نہ کی اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔"

اور تم لوگ اسی طرح کہو جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا: (جس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں ہے):

"اگر تو نے میری مغفرت نہ کی اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔"

اور تم لوگ اسی طرح کہو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا: (جس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں ہے):

"میں نے اپنے اوپر ظلم کیا تو میری مغفرت کر دے تو پروردگار نے اس کی مغفرت کر دی بے شک وہ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔"

اور تم لوگ اسی طرح کہو جس طرح حضرت یونس علیہ السلام نے کہا تھا: (جس کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں ہے):

"تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے تو ہر عیب سے پاک ہے بے شک میں ہی ظالموں میں سے ایک ہوں۔"

4904 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضَمِيرَةَ، عَنْ أَبِيهِ،

عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ: إِذَا خَرَجْتُمْ فَأَحْمَدُوا اللَّهَ وَأَثْنُوا عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلُّوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَغْفِرُوا فَإِنَّ الْإِسْتِسْقَاءَ الْإِسْتِغْفَارُ قَالَ: وَقَالَ عَلِيُّ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَوْلَ رِذَاءٍ وَهُوَ قَائِمٌ حِينَ أَرَادَ أَنْ يَدْعُو

*** حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے بارش کی دعا مانگنے کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب تم لوگ نکلو تو تم اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرو اور اس کی ایسی ثناء بیان کرو جس کا وہ لائق ہے تم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور مغفرت طلب کرو کیونکہ بارش کی دعا مانگنے کا مطلب مغفرت طلب کرنا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی حالت میں جب دعا کرنے کا ارادہ کیا تھا تو آپ نے اپنی چادر کو پلٹا دیا تھا۔

4905 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا بَيْنَا

هُوَ يَسْقِي زَرْعًا اِذْ رَأَى عَنَانَةً تَرْهَبُ فِيهَا صَوْتُ: اَنْ اسْقِ اَرْضَ فُلَانٍ ، فَاتَّبَعَ الصَّوْتَ حَتَّى اَنْتَهَى اِلَى الْاَرْضِ
الَّتِي سُمِّيَتْ ، فَسَالَ صَاحِبَهَا: مَا عَمَلُكَ فِيهَا؟ فَقَالَ: اِنِّي اُعِيدُ فِيهَا ثَلَاثًا، وَاتَّصَدَّقُ بِثَلَاثٍ، وَاحْتَبِسُ لِاهْلِي
ثَلَاثًا،

*** حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ایک شخص اپنے کھیت کو پانی دے رہا تھا اسی دوران اُس نے ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا جس میں گرگراہٹ ہوئی اور اُس میں سے یہ آواز آئی کہ تم فلاں شخص کی زمین کو سیراب کرو تو وہ اُس آواز کی پیروی کرتا ہوا اُس زمین تک پہنچ گیا جس کا نام لیا گیا تھا۔ اُس نے زمین کے مالک سے دریافت کیا: تم اس زمین میں کیا کرتے ہو؟ اُس نے جواب دیا: میں اس کی پیداوار کا ایک تہائی حصہ دوبارہ اس زمین پر لگا دیتا ہوں ایک تہائی حصہ صدقہ کر دیتا ہوں اور ایک تہائی حصہ اپنے اہل خانہ کے لیے روک لیتا ہوں۔

4906 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنِ النَّخَعِيِّ، عَنِ مَسْرُوقٍ اَنَّ

ابن مسعود، كَانَ يَبْعَثُهُ اِلَى اَرْضِهِ فَيَأْمُرُهُ اَنْ يَفْعَلَ فِيهَا كَذَلِكَ

*** مسروق بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ انہیں اپنی زمین کی طرف بھیجتے تھے اور انہیں یہ ہدایت

کرتے تھے کہ وہ اُس زمین میں بھی اسی طرح کریں۔

4907 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ اَبِي ثَابِتٍ اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللّٰهُمَّ اَعِنِّي عَلٰى مُضْرٍ بِالسَّنَةِ فَجَاءَهُ مُضْرِيٌّ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللّٰهِ، وَاللّٰهُ مَا يَخْطُرُ لَنَا

جَمَلٌ، وَلَا يُتَزَوَّدُ لَنَا رَاعٌ، فَاَعَادَ فِي قَوْلِهِ، فَاَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ مَكَتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ، ثُمَّ دَعَا الْمُضْرِيَّ فَقَالَ: قُلْتَ

مَاذَا؟ فَاَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللّٰهُمَّ دَعْوَتُكَ فَاسْتَجِبْتَ لِي، وَسَأَلْتُكَ فَاَعْطَيْتَنِي، اللّٰهُمَّ

اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيثًا، مَرِيْنًا، مَرِيْعًا مُّطْبِقًا، عَاجِلًا غَيْرَ رَائِيْثٍ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍ، فَمَا كَانَ عَشِيًّا حَتَّى اُلْبَسَتِ السَّمَاءُ

السَّحَابَ وَامْطَرَتْ، فَمَا اَتَى اَحَدٌ مِنْ وَجْهِ اِلَّا خَبَرَ بِالْمَطَرِ، قُلْنَا لَهُ: فَمَا يَخْطُرُ؟ قَالَ: يَهْدِرُ

*** حبیب بن ابوثابت بیان کرتے ہیں: اُن تک یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی:

”اے اللہ! مضر قبیلہ کے خلاف قحط سالی کے ذریعہ میری مدد کر۔“

مضر قبیلہ سے تعلق رکھنے والا ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اُس نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! اللہ کی

قسم! اب ہمارا کوئی اونٹ بچنے والا نہیں ہے اور ہمارے کسی چرواہے کے ساتھ کوئی زادراہ نہیں ہوگا۔ اُس شخص نے اپنی بات دہرائی

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اُس سے منہ پھیر لیا، پھر جتنا اللہ کو منظور تھا اتنا وقت گزر گیا، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مضر قبیلہ سے تعلق رکھنے

والے اُس شخص کو بلایا اور دریافت کیا: تم نے کیا کہا تھا؟ اُس نے اپنی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دہرائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

دعا کی:

”اے اللہ! میں نے تجھ سے دعا کی تھی تو نے میری دعا کو مستجاب کیا، میں نے تجھ سے مانگا تھا تو نے مجھے عطا کر دیا“

اب تو ہمیں ایسے بادل کے ذریعہ سیراب کر جو برسے والا ہو سیراب کر دینے والا ہو ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہو جلدی آنے والا ہو دیر سے آنے والا نہ ہو نفع دینے والا ہو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔
(راوی بیان کرتے ہیں:) ابھی شام نہیں ہوئی تھی کہ آسمان بادلوں سے بھر گیا اور بارش شروع ہو گئی، جس بھی سمت سے جو بھی شخص آیا اس نے بارش کے بارے میں ہی اطلاع دی۔

راوی بیان کرتے ہیں: ہم نے اپنے استاد سے دریافت کیا: لفظ **خَطِرًا** کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: (اونٹ کا) بڑبڑانا۔

4908 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ مُضَرَ قَدْ هَلَكَتْ، فَاسْتَسْقِ اللَّهَ لَهُمْ، أَوْ قَالَ ادْعُ لَهُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَرِينًا هَنِينًا، مَرِيْعًا، طَبَقًا، عَاجِلًا غَيْرَ رَائِيثٍ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍ قَالَ: فَمَا مَكَّنُوا إِلَّا جُمُعَةً حَتَّى أَحْيَا النَّاسَ

* * * **اعمش** بیان کرتے ہیں: ایک شخص نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اُس نے عرض کی: یا رسول اللہ! مضر قبیلہ کے لوگ ہلاک ہو رہے ہیں! آپ اللہ تعالیٰ سے اُن کے لیے بارش کے نزول کی دعا کیجئے۔ (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) آپ اُن کے حق میں دعا کیجئے! تو اُس موقع پر نبی اکرم ﷺ نے یہ دعا کی:

”اے اللہ! تو ہمیں ایسے بادل کے ذریعہ سیراب کر جو بھرا ہوا ہو سیراب کرنے والا ہو اوپر نیچے ہو جلدی آنے والا ہو تاخیر سے آنے والا نہ ہو نفع دینے والا ہو نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔“

راوی بیان کرتے ہیں: ابھی ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ لوگوں میں ہریالی آ گئی۔

4909 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعَوْتُ عَلَى مُضَرَ بِالسَّنَةِ فَمَا يَعْطُ لَهُمْ بَعِيرٌ، وَمَا يَصِيحُ لَهُمْ صَبِيٌّ قَالَ: فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مَرِيْعًا، مُبَارَكًا مَرِينًا، نَافِعًا طَبَقًا، عَاجِلًا غَيْرَ رَائِيثٍ قَالَ: فَمَا مَضَى ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى مُطِرُوا، أَوْ مَا مَضَتْ سَابِعَةٌ حَتَّى أَعْطَنَ النَّاسُ بِالْعُشْبِ

* * * **سالم بن ابوالجعد** بیان کرتے ہیں: ایک شخص نبی اکرم ﷺ کے سامنے کھڑا ہوا، اُس نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ نے مضر قبیلہ کے خلاف قحط سالی کی دعا کی تھی! اب اُن کا کوئی اونٹ نہیں بچا اور کوئی بچہ رونے والا نہیں بچا (یعنی سب مرنے کے قریب ہیں)۔ راوی بیان کرتے ہیں: تو نبی اکرم ﷺ منبر پر کھڑے ہوئے، آپ نے دعا کی:

”اے اللہ! ہمیں ایسے بادل کے ذریعہ سیراب کر دے جو سیراب کرنے والا ہو برکت والا ہو نفع دینے والا ہو اوپر نیچے ہو اوپر نیچے ہو جلدی آنے والا ہو تاخیر سے آنے والا نہ ہو۔“

راوی بیان کرتے ہیں: ابھی وہ دن نہیں گزرا تھا کہ بارش شروع ہوگئی اور تقریباً ایک ہفتہ تک مسلسل ہوتی رہی یہاں تک کہ لوگوں کے کھیت سیراب ہو گئے۔

4910 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ اسْتَسْقَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فَمِطَرَ النَّاسُ ثَلَاثًا أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ لَمْ يُقْلِعْ عَنْهُمْ قَالَ: فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبِحَيْطَانُ، وَتَقَطَّعَتِ الرُّكْبَانُ، وَخَشِينَا الْغَرَقَ قَالَ: فَدَعَا فَقَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا قَالَ: فَرَأَيْتُ السَّحَابَ انْصَدَعَ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى كَانَتْ مِنْهُ مِثْلُ الطُّوقِ، وَمَا حَوْلَهُ مُظْلِمٌ أَعْلَمُ أَنَّهُ مَمْطُورٌ

*** حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے نزول کی دعا کی تو تین دن تک (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) جتنا اللہ کو منظور تھا اتنی دیر تک بارش ہوتی رہی اور وہ بارش ختم نہیں ہوئی۔ تو عرض کی گئی: یا رسول اللہ! دیواریں گرنے لگی ہیں، مسافروں کے لیے سفر ممکن نہیں رہا اور ہمیں ڈوبنے کا اندیشہ ہو چلا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے کہا: اے اللہ! ہمارے آس پاس ہو، ہم پر نہ ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں: تو میں نے بادل کو دیکھا کہ وہ مدینہ منورہ سے چھٹ گیا یہاں تک کہ مدینہ منورہ پر اس کی مثال طوق کی مانند ہوگئی اور آس پاس کے جتنے بھی علاقے تھے جن سے میں واقف تھا وہاں ہر جگہ بارش ہوئی۔

4911 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثْتُ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: حَضَرْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَاهُ رَجُلٌ فَاشْتَكَى إِلَيْهِ الْجَدْبَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَاسْتَسْقَى، وَلَمْ يَذْكُرْ كَلَامَهُ، فَالْتَبَسَتِ السَّمَاءُ سَحَابًا فَامْطَرَ حَتَّى الْجُمُعَةِ الْمُقْبِلَةِ، فَقِيلَ لَهُ: أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ، غَرِقْنَا، وَهَلَكَتِ الْمَاشِيَةُ، وَلَا يَخْرُجُ الْمُسَافِرُ، فَضَحِكَ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا قَالَ فَرَأَيْتَهُ حِينَ يَنْجَابُ السَّحَابُ عَنِ الْمَدِينَةِ وَيَتَفَرَّقُ، حَتَّى آتَانَا مِنْهُ لَفِي جَوَابَةٍ

*** حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا، ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے قحط سالی کی شکایت کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے نزول کی دعا کی (یہاں راوی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا ذکر نہیں کیا)۔ راوی بیان کرتے ہیں: تو آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش شروع ہوگئی یہاں تک کہ جب اگلا جمعہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی: یا رسول اللہ! ہم ڈوبنے والے ہیں، مال مویشی ہلاکت کا شکار ہو رہے ہیں، مسافر باہر نہیں جاسکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: اے اللہ! ہمارے آس پاس ہو، ہم پر نہ ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں: تو میں نے دیکھا کہ مدینہ منورہ سے بادل چھٹ گیا اور ادھر ادھر ہو گیا یہاں تک کہ مجھے یوں لگا جیسے میں خالی جگہ میں ہوں۔

4912 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، أَحْسَبُهُ ذَكَرَهُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَسْقَى يَقُولُ: اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ، وَأَنْشُرْ

رَحْمَتِكَ، وَأَحْيِي بَلَدَكَ الْمَيِّتَ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا اشْتَدَّ الْمَطَرُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ، جَنِّهَا بُيُوتَ لَمَدَرٍ، اللَّهُمَّ عَلَى ظُهُورِ الْأَكَامِ وَبُطُونِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ

*** عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے بارش کے نزول کی دعا کرتے ہوئے یہ کہا:

”اے اللہ! اپنے بندوں اور جانوروں کو سیراب کر دے اپنے رحمت کو پھیلا دے اپنی مردہ علاقوں کو زندگی دیدے۔“

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جب بارش شدید ہو گئی تو انہوں نے یہ دعا کی:

”اے اللہ! اسے گھروں سے پرے کر دے! اے اللہ! پہاڑوں کی چوٹیوں اور نشیبی وادیوں پر اور جنگلات میں بارش نازل ہو۔“

4913 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ، اسْتَسْقَى بِالمُصَلَّى، فَقَالَ لِلْعَبَّاسِ: قُمْ فَاسْتَسْقِ، فَقَامَ الْعَبَّاسُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ عِنْدَكَ سَحَابًا، وَإِنَّ عِنْدَكَ مَاءً فَانْشُرِ السَّحَابَ، ثُمَّ أَنْزِلْ فِيهِ الْمَاءَ، ثُمَّ أَنْزِلْهُ عَلَيْنَا، فَاشْدُدْ بِهِ الْأَصْلَ، وَأَطْلُ بِهِ الزَّرْعَ، وَأِدْرِ بِهِ الصَّرْعَ، اللَّهُمَّ شَفِّعْنَا فِي أَنْفُسِنَا وَأَهْلِينَا، اللَّهُمَّ إِنَّا شَفَعْنَا إِلَيْكَ عَمَّنْ لَا مَنْطِقَ لَهُ عَنْ بَهَائِمِنَا وَأَنْعَامِنَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا سَقِيًّا وَادِعَةً بِاللَّغَةِ، طَبَقًا، عَامًّا، مُحْيِيًّا، اللَّهُمَّ لَا نَرْغَبُ إِلَّا إِلَيْكَ وَحَدَّكَ لَا شَرِيكَ لَكَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَشْكُو إِلَيْكَ سَعْبَ كُلِّ سَاعِبٍ، وَغُرْمَ كُلِّ غَارِمٍ، وَجُوعَ كُلِّ جَائِعٍ، وَعُرَى كُلِّ عَارٍ، وَخَوْفَ كُلِّ خَائِفٍ فِي دُعَاءِ لَهُ

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عید گاہ میں بارش کے نزول کی دعا کی انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا: آپ انھیں اور آپ بارش کے نزول کی دعا کریں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے یہ دعا کی:

”اے اللہ! تیرے پاس بادل ہیں تیرے پاس پانی ہے، تو بادلوں کو پھیلا دے اور اس میں پانی ڈال دے اور اس پانی کو ہم پر نازل کر دے اور اس کے ذریعہ اصل (جز) کو مضبوط کر دے اور کھیت کو طویل کر دے (جانوروں کے) تھنوں کو وزنی کر دے اے اللہ! ہماری اپنی جانوں اور ہمارے گھروالوں کے بارے میں ہماری شفاعت کو قبول کر لے اے اللہ! ہم تیری بارگاہ میں ان لوگوں کی طرف سے بھی شفاعت لے کر حاضر ہوئے ہیں جن کو گویائی کی قوت نہیں ہے، جن کا تعلق جانوروں اور مویشیوں سے ہے اے اللہ! ہمیں اس طرح سے سیراب کر دے جو بھر پور ہو، تہہ در تہہ ہو، عمومی ہو، زندگی دینے والی ہو، ہو ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہو، عمومی ہو اور زندگی دینے والا ہو اے اللہ! ہم صرف تیری ہی بارگاہ میں رغبت رکھتے ہیں، صرف تو ہی ایک معبود ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے اے اللہ! ہم تیری بارگاہ میں ہر قحط زدہ کے قحط، ہر قرض خواہ کے قرض کی ہر بھوک کے کی بھوک کی ہر برہنہ شخص کی برہنگی کی اور ہر خوفزدہ شخص کے خوف کی شکایت کرتے ہیں اس دعا میں جو اس کے لیے ہو۔“

4914 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن اسماعيل أبي المقدم، عن عبد الله بن عبيد بن عمير
قال: أصاب الناس سنة، وكان رجل في بادية، فخرج فصلى بأصحابه ركعتين واستسقى ثم نام، فرأى في
المنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه، وقال: أقرء عمر السلام، وأخبره أن الله قد استجاب لكم
وكان عمر قد خرج فاستسقى أيضا، وأمره فليوف العهد، وليشد العقد قال: فانطلق الرجل حتى أتى عمر،
فقال: استاذنوا لرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فسمعه عمر، فقال: من هذا المفترى على
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الرجل: لا تعجل علي يا أمير المؤمنين، فأخبره الخبر فبكى عمر
**** عبد الله بن عبيد بن عمير بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ لوگوں کو قحط سالی لاحق ہو گئی، ایک شخص آبادی سے باہر رہا تھا**
وہ نکلا، اُس نے اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھائی، پھر بارش کے نزول کی دعا کی، پھر وہ سو گیا۔ تو اُس نے خواب میں دیکھا کہ نبی
اکرم ﷺ اُس کے پاس تشریف لائے ہیں اور ارشاد فرمایا: تم عمر کو سلام کہنا اور اُسے یہ بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا
ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی نکلے تھے اور انہوں نے بھی بارش کے لیے دعا کی تھی۔ (نبی اکرم ﷺ نے اُس
سے فرمایا:) تم اُس سے یہ کہنا کہ وہ عہد کو پورا کرے اور ہاتھ کو مضبوطی سے باندھ کے رکھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: وہ شخص آیا اور
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا: اللہ کے رسول کے قاصد کے لیے اندر آنے کی اجازت طلب کرو۔ جب حضرت
عمر رضی اللہ عنہ نے اُس کی آواز سنی تو بولے: یہ کون شخص ہے جو نبی اکرم ﷺ کی طرف جھوٹی بات منسوب کر رہا ہے۔ تو اُس شخص نے کہا:
اے امیر المؤمنین! آپ میرے خلاف جلد بازی میں فیصلہ نہ دیں! پھر اُس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ساری صورت حال بتائی تو
حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔

4915 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر قال: دعا رسول
الله صلى الله عليه وسلم لقوم أن يمطروا فلم يمطروا، فقال: إني دعوت لكم وفي نفسي عليكم شيء فلم
تمطروا، ولكن الآن تمطروا، فدعا لهم فمطروا

**** امام محمد باقر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے لوگوں کے لیے دعا کی کہ ان پر بارش نازل ہو لیکن ان پر**
بارش نازل نہیں ہوئی۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں نے تمہارے لیے دعا تو کی ہے لیکن میرے ذہن میں تمہارے حوالے سے
کچھ الجھن ہے، اسی وجہ سے تم پر بارش نازل نہیں ہوئی، لیکن اب تم لوگوں پر بارش نازل ہوگی۔ پھر نبی اکرم ﷺ نے ان لوگوں
کے لیے دعا کی تو ان پر بارش نازل ہوئی۔

4916 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن شهر بن حوشب، أن عيسى ابن مريم
خرج يستسقى، فخرج بالناس، ثم قال لهم: من كان منكم أذنب ذنبا فليرجع قال: فجعل الناس يرجعون
حتى لم يبق إلا رجل أعور، فقال له عيسى: فادع وأنا أو من قال: فدعا وأمن عيسى فسقاهم الله
**** شہر بن حوشب بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارش کے نزول کی دعا کرنے کے لیے نکلے،**

لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے گئے پھر انہوں نے لوگوں سے فرمایا: اگر تم میں سے کسی شخص نے کسی گناہ کا ارتکاب کیا ہو وہ واپس چلا جائے۔ تو لوگ واپس جانا شروع ہو گئے یہاں تک کہ وہاں صرف ایک کا شخص باقی رہ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا: تم دعا کرو! میں آمین کہوں گا۔ راوی کہتے ہیں: تو اس شخص نے دعا کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آمین کہی تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو سیراب کیا۔

4917 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُيَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَى أَحَدَكُمْ الْبُرْقَ أَوْ الْوَدْقَ فَلَا يَشْرُ إِلَيْهِ، وَلِيَصِفَ أَوْ لِيَنْعَثَ

* * * عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”جب کوئی شخص بجلی یا بارش دیکھے تو اس کی طرف اشارہ نہ کرے اسے چاہیے کہ اس کی صفت بیان کر دے یا اس کا حلیہ بیان کر دے۔“

4918 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُشَارَ إِلَى الْمَطْرِ

* * * ابن جریج بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ بارش کی طرف اشارہ کیا جائے۔

4919 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ: أَيُّ تَبْنِينَ؟ قَالُوا: وَادٍ مِنْ أَوْدِيَةِ الْيَمَنِ قَالَ: هَذِهِ سَحَابَةٌ يُؤْمَرُ بِهَا إِلَى تَبْنِينَ، كَيْفَ يَفْعَلُ بِهَا صَاحِبُهَا فِيهَا؟ فَقَالُوا: يَقْسِمُ ثَمْرَهُ ثَلَاثًا: ثُلُثٌ لَهُ وَوَلَاهِلِهِ، وَثُلُثٌ لِمَنْ يَصَدَّقْتَهُ، وَثُلُثٌ يُعِيدُ فِيهَا قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

* * * عطاء بیان کرتے ہیں: ایک دن نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”تبنین“ نامی جگہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا: یہ یمن کی ایک وادی ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اس بادل کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ ”تبنین“ جائے (پھر آپ نے دریافت کیا: اس جگہ کا مالک اس جگہ میں کیا کام کرتا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ وہ اپنے پھلوں کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک حصہ اپنے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے رکھتا ہے، ایک حصہ صدقہ کرنے کے لیے رکھتا ہے اور ایک حصہ واپس اس زمین میں لگا دیتا ہے۔ تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: یہ سب اللہ کی راہ میں شمار ہوگا۔

4920 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، وَعَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "السُّكُوتُ فِي ثَلَاثِ مَوَاطِنَ: فِي الْجُمُعَةِ، وَالْإِسْتِسْقَاءِ، وَالْعِيدَيْنِ" وَذِكْرُهُ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ سَلْمَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

* * حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: تین مواقع پر خاموش اختیار کی جائے گی: جمعہ میں، استسقا، میں اور عیدین میں۔

یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔

4921 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهری، ان سلیمان بن داود خرج هو واصحابه يستسقون، فرأى نملة قائمة رافعة إحدى قوائمها تستسقى، فقال لأصحابه: ارجعوا فقد سقيتم، ان هذه النملة استسقت فاستجيب لها

* * زہری بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے ساتھی بارش کے نزول کی دعا کرنے کے لیے نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک چیونٹی کو دیکھا کہ اُس نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا ہوا ہے اور بارش کے نزول کی دعا کر رہی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا: تم لوگ واپس چلے جاؤ کیونکہ تم پر بارش ہوگی اس چیونٹی نے بارش کے نزول کی دعا کی ہے تو اس کی دعا مستجاب ہوگی۔

بَابُ الْآيَاتِ

باب: نشانیوں کا بیان

4922 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهری، عن عروة، عن عائشة قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهو دون قراءة تيه الأولى، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون ركوعه الأول، ثم رفع رأسه فسجد سجدتين، ثم قام ففعل في الركعة الثانية مثل ذلك، ثم انصرف فقال: ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحدٍ ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا للصلاة قال معمر، وأخبرني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مثل هذا

4922- صحیح البخاری - کتاب الجمعة ابواب الكسوف - باب الصدقة في الكسوف حدیث: 1010 صحیح مسلم - کتاب الكسوف باب صلاة الكسوف حدیث: 1547 صحیح ابن خزيمة - جہا ابواب ذکر الوتر وما فيه من السنن جہا ابواب صلاة الكسوف - باب الجهر بالقراءة من صلاة كسوف الشمس حدیث: 1297 مستخرج ابی عوانة - باب في الصلاة بين الاذان والإقامة في صلاة المغرب وغيرها ذكر وجوب ذكر الله واستغفاره عند الكسوف - حدیث: 1958 صحیح ابن حبان - باب الإمامة والجماعة باب صلاة الكسوف - ذكر البيان بان من صلى صلاة الكسوف التي ذكرناها حدیث: 2891 المستدرک علی الصحیحین للحاکم - کتاب الكسوف حدیث: 1168 موطا مالك - کتاب صلاة الكسوف باب العمل في صلاة الكسوف - حدیث: 445 سنن ابی داود - کتاب الصلاة تفريع ابواب الجمعة - باب صلاة الكسوف حدیث: 1008 سنن ابن ماجه - کتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في صلاة الكسوف - حدیث: 1259 سنن النسائي - کتاب الكسوف باب الصفوف في صلاة الكسوف - حدیث: 1456

وَزَادَ قَالَ: فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَتَصَدَّقُوا وَصَلُّوا

* * سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں سورج گرہن ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے آپ نے لوگوں کی نماز پڑھاتے ہوئے طویل قرأت کی، پھر آپ رکوع میں چلے گئے تو طویل رکوع کیا، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا اور طویل قرأت کی لیکن یہ آپ کی پہلی قرأت سے کم تھی، پھر آپ نے رکوع کیا تو طویل رکوع کیا لیکن یہ آپ کے پہلے والے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے سر اٹھایا اور دو مرتبہ سجدہ کیا، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے دوسری رکعت بھی اس کی مانند ادا کی، پھر آپ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا:

”بے شک سورج اور چاند کسی شخص کے مرنے یا کسی کی زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے ہیں بلکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جب تم انہیں (گرہن کی حالت میں) دیکھو تو نماز کی طرف لپکو۔“
معمر نے یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ نقل کی ہے، تاہم اس میں یہ الفاظ زائد ہیں:
”جب تم انہیں (گرہن کی حالت میں) دیکھو تو صدقہ و خیرات کرو اور نماز ادا کرو۔“

4923 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِطِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَصَلَّى بِهِمْ، فَقَامَ فَرَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَامَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الثَّانِيَةِ إِلَّا أَنَّ قِيَامَهَا وَرُكُوعَهَا دُونَ الْأَوَّلِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكَعْتَيْنِ * * سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، پھر آپ کھڑے ہوئے آپ رکوع میں چلے گئے، پھر آپ نے سر اٹھایا اور قیام کیا لیکن یہ پہلے والے قیام سے کم تھا، پھر آپ رکوع میں گئے، پھر آپ نے اپنا سر اٹھایا پھر آپ سجدہ میں چلے گئے، پھر آپ کھڑے ہوئے تو آپ نے دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کی، لیکن دو رکعات میں سے ہر رکعت میں آپ کا بعد والا قیام اور رکوع پہلے والے سے کم تھا۔

4924 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَ نَبِيُّ يَهُودِيَّةٍ، فَقَالَتْ: أَعَادَكَ اللَّهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَتْ: فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُنْعَذِبُ فِي قُبُورِنَا؟ قَالَ: كَذَبَتْ يَهُودٌ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ ذَاتَ يَوْمٍ مَرَكَبًا فَخَسَفَتِ الشَّمْسُ قَالَتْ: فَخَرَجْتُ مَعَ نِسْوَةٍ فَكُنَّا بَيْنَ الْحَجَرِ إِذْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَرَكَبِهِ فَاتَى مُصَلَّاهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا فَطَوَّلَ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا فَطَوَّلَ رُكُوعَهُ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ أَدْنَى مِنْ قِيَامِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ أَدْنَى مِنْ رُكُوعِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلًا، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ أَدْنَى مِنْ قِيَامِهِ الْأَوَّلِ فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ فِي الْأُولَى، ثُمَّ جَلَسَ. قَالَتْ: ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَسْتَعِيدُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

* * سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: ایک یہودی عورت میرے پاس آئی اور بولی: اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب سے

بچائے! سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ﷺ گھر تشریف لائے تو میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا ہمیں قبروں میں عذاب دیا جائے گا؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: یہود جھوٹ بولتے ہیں! ایک دن نبی اکرم ﷺ سواری پر سوار ہو کر گئے تو اسی دوران سورج گرہن ہو گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: میں کچھ خواتین کے ساتھ باہر نکلی، ابھی ہم پتھروں کے درمیان ہی تھے کہ اسی دوران نبی اکرم ﷺ اپنی سواری پر سوار تشریف لے آئے، آپ جائے نماز پر آئے اور آپ نے طویل قیام کیا، آپ نے اُسے طول دیا، پھر آپ نے طویل رکوع کیا، آپ نے اپنے رکوع کو بھی طول دیا، پھر آپ نے سر اٹھایا اور طویل قیام کیا لیکن یہ آپ کے پہلے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے طویل رکوع کیا لیکن یہ آپ کے پہلے والے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے سر اٹھایا اور پھر آپ نے طویل سجدہ کیا، پھر آپ نے طویل قیام کیا لیکن یہ آپ کے پہلے والے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے اسی طرح کیا جس طرح آپ نے پہلی رکعت میں کیا تھا، پھر آپ تشریف فرما ہوئے۔

سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں: تو میں نے نبی اکرم ﷺ کو قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے سنا۔

4925 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
خَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فَصَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَكِنْ قِيَامَهُ فِيهَا دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ وَرُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ دُونَ مَا صَنَعَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ وَتَجَلَّى الشَّمْسُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا مِنْ مَقَامِكَ هَذَا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعَّكْتَ قَالَ: إِنِّي أُرَيْتُ الْجَنَّةَ - أَوْ رَأَيْتُ الْجَنَّةَ - فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنُقُودًا، وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَا كَلْتُمْ مِنْهَا مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا، وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ مَنْظَرًا قَطُّ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ قِيلَ: لِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: بِكُفْرِهِنَّ قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: "يَكْفُرْنَ الْعَسِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، وَلَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ"

*** حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: (نبی اکرم ﷺ کے زمانہ اقدس میں) سورج گرہن ہو گیا تو نبی اکرم ﷺ نے نماز ادا کی، آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز ادا کی، نبی اکرم ﷺ نے طویل قیام کیا جتنی دیر میں تقریباً سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے، پھر آپ نے طویل رکوع کیا، پھر آپ نے سر اٹھایا اور طویل قیام کیا لیکن یہ پہلے والے قیام سے کم تھا، پھر آپ نے رکوع کیا لیکن یہ پہلے والے رکوع سے کم تھا، پھر آپ نے سجدہ کیا، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے دوسری رکعت بھی اسی کی مانند ادا کی، لیکن اس میں آپ کا قیام پہلے والے قیام سے کم تھا اور آپ کا رکوع اور سجدہ اُس سے کم تھا جو آپ نے پہلی رکعت میں کیا تھا، جب آپ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ پھر نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، یہ کسی شخص کے مرنے یا زندہ ہونے کی وجہ سے گرہن نہیں

ہوتے ہیں جب تم انہیں (گرہن کی حالت میں) دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔

لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ سے کسی چیز کو پکڑنے کے لیے ہاتھ کو بڑھایا لیکن پھر آپ پیچھے ہو گئے۔ تو نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھے جنت دکھائی گئی۔ (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) میں نے جنت کو دیکھا تو میں نے اس میں سے انگوروں کا ایک گچھا پکڑنا چاہا، اگر میں اسے پکڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس میں سے کھاتے رہتے پھر میں نے جہنم کو دیکھا، میں نے آج کی طرح کا (خونفاک) منظر کبھی نہیں دیکھا، میں نے دیکھا کہ اہل جہنم میں اکثریت خواتین کی ہے۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ! اس کی وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ان خواتین کا کفر۔ عرض کی گئی: کیا وہ اللہ تعالیٰ کا کفر کرتی ہیں؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان کا انکار کرتی ہیں، اگر تم ان میں سے کسی ایک خاتون کے ساتھ ایک طویل عرصہ تک اچھائی کرتے رہو اور پھر اس عورت کو تمہاری طرف سے کوئی ناگوار چیز دیکھنی پڑے تو وہ یہی کہے گی کہ مجھے تمہاری طرف سے کبھی کوئی بھلائی دیکھنے کو نہیں ملی۔

4926 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مَنْ أَصْدَقُ، - فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يُرِيدُ عَائِشَةَ - أَنَّهَا قَالَتْ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ بِالنَّاسِ قِيَامًا شَدِيدًا، يَقُومُ بِالنَّاسِ ثُمَّ يَرُكَعُ، وَيَقُومُ ثُمَّ يَرُكَعُ، وَيَقُومُ ثُمَّ يَرُكَعُ، فَرُكْعَ رُكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رُكْعَةٍ ثَلَاثُ رُكْعَاتٍ، يَرُكَعُ الثَّلَاثَةَ ثُمَّ يَسْجُدُ، فَلَمْ يَنْصَرِفْ حَتَّى تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، وَحَتَّى أَنْ رَجُلًا يَوْمِنِدٍ لِيُغْشَى عَلَيْهِمْ، حَتَّى أَنْ سَجَالَ الْمَاءُ لِيَصُبَّ عَلَيْهِمْ مِمَّا قَامَ بِهِمْ، وَيَقُولُ إِذَا رُكِعَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَإِذَا رَفَعَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ قَامَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُخَوِّفُكُمْ بِهِمَا، فَإِذَا كَسَفَهُمَا فَافْرَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ حَتَّى يَنْجَلِيَ وَزَيْدٌ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذِهِ الْخُطْبَةِ: وَلَكِنَّهُ رُبَّمَا مَاتَ الْخِيَارُ بِأَطْرَافٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَذَاعَتْ بِذَلِكَ الْجِنَّةُ فَكَانَ لِذَلِكَ الْقَتْرُ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي عُيُبُ عُبَيْدٍ يَقُولُ: قَالَ: عُرِضَتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ فَتَأَخَّرَ عَنْ مُصَلَّاهُ وَرَأَاهُ حَتَّى أَنَّ النَّاسَ لَيُرَكَّبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ وَأَنَا، أَيُّ رَبِّ وَأَنَا، ثُمَّ عَادَ يَسِيرُ حَتَّى رَجَعَ فِي مُصَلَّاهُ فَرَأَى إِذْ عُرِضَتْ عَلَيْهِ النَّارُ أَبَا حُرَازَةَ عَمْرَو بْنَ لُحَيْ فِي النَّارِ يَجْرُ قَصْبَهُ قَالَ: وَكَانُوا زَعَمُوا يَسْرِقُ الْحَاجَّ بِمَحْجَنِ لَهُ، وَيَقُولُ: أَيُّ رَبِّ لَا أَسْرِقُ إِنَّمَا يَسْرِقُ مَحْجِنِي قَالَ: وَصَاحِبَةُ الْهَرَّةِ امْرَأَةٌ رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعَمْهَا وَلَمْ تُرْسَلْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا فَتَأْكُلُ وَتَشْرَبُ حَتَّى مَاتَتْ هَزَالًا، وَإِذَا رَجَعَ عُرِضَتْ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ فَذَهَبَ يَمْشِي حَتَّى رَجَعَ فِي مُصَلَّاهُ، ثُمَّ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ أَخُذَ مِنْهَا فُطْفًا لِأُرِيكُمْوهُ فَلَمْ يَقْدِرْ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ الْحَسَنُ: فَرَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمِنِدٍ حَتَّى أَنَّهُ يَجْرُ رِدَاءَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: إِذَا عُرِضَتْ الْجَنَّةُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَيَعْنِي الْقَتْرَةَ: الْحُسْرَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي الْقَمَرِ، وَالَّذِي يَجْرُ قَصْبَهُ يَعْنِي: حَشَاهُ

*** عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں: مجھے اُس شخصیت نے یہ بات بتائی ہے جسے میں سچا قرار دیتا ہوں۔ (راوی بیان کرتے ہیں:) میرا خیال ہے اُن کی مراد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھی وہ فرماتی ہیں: نبی اکرم ﷺ کے زمانہ اقدس میں سورج گرہن ہو گیا تو نبی اکرم ﷺ نے طویل قیام والی نماز لوگوں کو پڑھائی، آپ نے لوگوں کے ساتھ قیام کیا، پھر آپ رکوع میں گئے، پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے رکوع کیا، پھر آپ کھڑے ہو گئے، پھر آپ نے رکوع کیا، نبی اکرم ﷺ نے دو رکعات ادا کیں جن میں سے ہر ایک رکعت میں تین مرتبہ رکوع کیا، تیسری مرتبہ رکوع کرنے کے بعد آپ سجدہ میں چلے گئے، نبی اکرم ﷺ کے نماز ختم کرنے سے پہلے سورج روشن ہو گیا، لوگوں کا یہ عالم ہو گیا کہ بعض لوگوں پر بے ہوشی طاری ہونے لگی یہاں تک کہ اُن پر پانی کے ڈول ڈالے گئے، یہ اُن کے طویل قیام کی وجہ سے تھا۔ نبی اکرم ﷺ جب رکوع میں جاتے تھے تو اللہ اکبر کہتے تھے اور جب سر کو اٹھاتے تھے تو سمع اللہ من حمدہ پڑھتے تھے، پھر آپ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرتے تھے (نماز سے فارغ ہونے کے بعد) آپ نے ارشاد فرمایا:

”بے شک سورج اور چاند کسی شخص کے مرنے یا زندہ ہونے کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں جن کے ذریعہ وہ تمہیں خوف دلاتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو گرہن کر دے تو تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کی پناہ میں آؤ جب تک یہ روشن نہیں ہو جاتے۔“

خطبہ کے ان الفاظ میں عطاء نامی راوی کے علاوہ لوگوں نے یہ الفاظ زائد نقل کیے ہیں:

”بعض اوقات زمین کے دو دروازے گوشوں میں نیک لوگ انتقال کر جاتے ہیں تو جنات اُن کی فوتگی کی اطلاع کو پھیلا دیتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ گردوغبار ہوتا ہے۔“

راوی بیان کرتے ہیں: عبید بن عمیر کے علاوہ راوی نے یہ بات نقل کی ہے:

”(اُس موقع پر) نبی اکرم ﷺ کے سامنے جنت اور جہنم کو پیش کیا گیا، اُس وقت نبی اکرم ﷺ نماز ادا کر رہے تھے یہ اُس دن کی بات ہے جب سورج گرہن ہوا تھا۔ (نماز کے دوران) نبی اکرم ﷺ اپنی جائے نماز سے پیچھے کی طرف ہٹے یہاں تک کہ لوگ ایک دوسرے پر آ گئے، نبی اکرم ﷺ اُس وقت یہ کہہ رہے تھے: اے میرے پروردگار! میں ہوں! اے میرے پروردگار! میں ہوں! پھر نبی اکرم ﷺ چلتے ہوئے اپنے جائے نماز پر تشریف لے آئے، اُس وقت نبی اکرم ﷺ نے یہ دیکھا تھا کہ آپ کے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا اور خزاعہ قبیلہ کا جد امجد ”عمرو بن لُحی“ جہنم میں اپنی انتزیاں گھسیٹ رہا تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں: لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی لائچی کے ذریعہ حاجیوں کا سامان چوری کرتا تھا، اور یہ کہتا تھا: پروردگار کی قسم ہے! میں نے چوری نہیں کی، میری اس لائچی نے چوری کی ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے بلی کی مالک عورت کو بھی دیکھا، اس عورت نے بلی کو باندھ دیا تھا وہ اُسے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتی تھی اور اُسے چھوڑتی بھی نہیں تھی، وہ اُسے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں دیتی تھی کہ وہ خود ہی کچھ کھانی لیتی، یہاں تک کہ وہ بلی اسی عالم میں مر گئی۔ جب نبی اکرم ﷺ اپنی جگہ پر واپس تشریف لائے تو آپ کے سامنے جنت کو پیش کیا گیا، آپ آگے کی طرف بڑھے، پھر آپ واپس اپنی جائے نماز پر آ گئے، بعد میں آپ نے بتایا: میں نے ارادہ کیا کہ

جنت میں سے انگوروں کی ایک ٹہنی حاصل کر لوں تاکہ یہ میں تمہیں دکھاؤں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔

ابن جریر نقل کرتے ہیں: حسن بصری نے یہ بات بیان کی ہے: اُس دن نبی اکرم ﷺ گھبراہٹ کے عالم میں اپنی چادر بوجھتے ہوئے تشریف لائے تھے۔

امام عبد الرزاق بیان کرتے ہیں: روایت کے لفظ ”اذاعت“ سے مراد یہ ہے کہ جنات ایک دوسرے کو اس کی اطلاع دیتے ہیں اور قترہ سے مراد وہ سرخی ہے جو چاند میں آجاتی ہے اور ”قصب“ کو گھسیٹنے سے مراد انتریاں گھسینا ہے۔

4927 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَأَخَذَ دِرْعًا فَلَبَسَهُ حَتَّى أُدْرِكَ بَرْدَانِهِ، فَقَامَ بِالنَّاسِ قِيَامًا طَوِيلًا يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ، فَلَوْ جَاءَ إِنْسَانٌ بَعْدَمَا رَكَعَ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ أَنَّهُ رَكَعَ شَيْئًا مَا حَدَّثَ نَفْسَهُ أَنَّهُ رَكَعَ مِنْ طُولِ الْقِيَامِ قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ أَكْبَرُ وَالْيَ الْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ أَسْقَمُ مِنِّي قَائِمَةً فَأَقُولُ: أَنَا أَحَقُّ أَنْ أَصْبِرَ عَلَى طُولِ الْقِيَامِ مِنْكَ

* * سیدہ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: جس دن سورج گرہن ہوا، نبی اکرم ﷺ تشریف لے گئے، آپ نے اپنی قمیص لے کر اسے پہنا، یہاں تک کہ آپ کی چادر ڈھلک رہی تھی، پھر آپ نے لوگوں کو طویل قیام والی نماز پڑھائی، پھر آپ رکوع میں گئے، اگر آپ کے رکوع میں جانے کے بعد کوئی شخص آتا تو اسے یہ پتا نہیں چلنا تھا کہ آپ نے رکوع بھی کیا ہے، آپ کے طویل قیام کی وجہ سے اسے یہ محسوس ہی نہیں ہونا تھا کہ آپ نے رکوع بھی کیا ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: میں نے اُس عورت کی طرف دیکھنا شروع کیا جو عمر میں مجھ سے بڑی تھی اور اُس عورت کی طرف دیکھنا شروع کیا، جو مجھ سے کمزور تھی کہ وہ کھڑی ہوئی ہیں تو میں نے سوچا کہ میں اس طویل قیام کو برداشت کرنے کی تم سے زیادہ حق دار ہوں۔

4928 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ بَكَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى فِي الْكُسُوفِ الْحَمْدُ وَالْبَقْرَةَ وَفِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدُ وَآلِ عِمْرَانَ * * سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نماز کسوف کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ جبکہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کی تھی۔

4929 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَاصِمِ الْأَحْوَالِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى فِي الزَّلْزَلَةِ بِالْبَصْرَةِ فَأَطَالَ الْقُنُوتَ ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَأَطَالَ الْقُنُوتَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ صَلَّى الثَّانِيَةَ كَذَلِكَ، فَصَارَتْ صَلَاتُهُ ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاةُ الْآيَاتِ، وَقَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِالْبَقْرَةِ وَفِي الْآخِرَةِ بِآلِ عِمْرَانَ

* * عبد اللہ بن حارث نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ اس میں

زلزلہ آنے پر انہوں نے نماز ادا کرتے ہوئے طویل قیام کیا، پھر وہ رکوع میں گئے، پھر انہوں نے سر کو اٹھایا اور طویل قیام کیا، پھر وہ رکوع میں گئے، پھر وہ رکوع میں گئے، پھر وہ سجدہ میں گئے، پھر انہوں نے دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کی تو ان کی نماز میں تین رکوع اور چار سجدے ہو گئے، انہوں نے بتایا کہ نشانیوں کے ظہور پذیر ہونے پر اسی طرح نماز ادا کی جاتی ہے۔

معمر بیان کرتے ہیں: ہمارے بعض اصحاب نے ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی تلاوت کی تھی۔

4930 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: صَلَّى حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ بِأَصْحَابِهِ مِثْلَ صَلَاةِ

ابن عباسٍ فِي الْآيَاتِ

* * * قنادہ بیان کرتے ہیں: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے مدائن میں اپنے ساتھیوں کو اسی طرح نماز پڑھائی تھی جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے پڑھائی تھی، یہ نشانیوں کے نمودار ہونے کے موقع پر تھی۔

4931 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، أَوْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى فِي الزَّلْزَلَةِ بِالْبَصْرَةِ - فَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ رَكَعَ فِي رَكْعَتَيْنِ سِتِّ رَكَعَاتٍ، ثَلَاثٌ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ "، وَاخْتَلَفَا - فَقَالَ عَاصِمٌ: قَرَأَ مَا بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ خَالِدٌ: قَرَأَ فِي الْأُولَى مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا ثَمَّ عَادَ بَعْدُ

* * * عبداللہ بن حارث نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ بصرہ میں زلزلہ آنے پر انہوں نے نماز پڑھائی تو انہوں نے دو رکعات میں چھ مرتبہ رکوع کیا، ہر ایک رکعت میں تین مرتبہ رکوع کیا۔ (یہ الفاظ نقل کرنے میں دونوں راوی متفق ہیں، اس کے بعد دونوں راویوں نے اختلاف کیا ہے) عاصم نامی راوی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دو رکوع کے درمیان قرأت کی تھی، جبکہ خالد نامی راوی کہتے ہیں: انہوں نے ہر رکعت کے آغاز میں تلاوت کی تھی۔

4932 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ حِينَ صَلَّى بِهِمْ قَالَ: هَكَذَا صَلَاةُ الْآيَاتِ

* * * عبداللہ بن حارث نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ جب انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی تو یہ فرمایا: یہ نشانیوں کے ظہور کے وقت ادا کی جانے والی نماز ہے۔

4933 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ بَكَّارٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ

جَبْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَفِي الْأُخْرَى بِآلِ عِمْرَانَ، وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

* * * سعید بن جبیر نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے پہلی رکعت میں

سورہ بقرہ جبکہ دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی تلاوت کی تھی۔

معمر نے بھی یہ بات حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں نقل کی ہے۔

4934 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُسًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى عَلَى ظَهْرِ صُفَّةٍ زَمَزَمَ رَكْعَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ أَرْبَعُ رَكْعَاتٍ "

*** سلیمان احوال نے طاؤس کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے زمزم کے چبوترے پر دو رکعت ادا کیں جن میں سے ہر ایک رکعت میں چار مرتبہ رکوع کیا۔

4935 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ أَنَّهُ صَلَّى لِكُسُوفِ الشَّمْسِ، فَقَرَأَ ثَمَّ رَكْعَ أَرْبَعِ رَكْعَاتٍ فِي نَحْوِ سَجْدَةٍ، إِلَّا أَنَّهُ لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَرَأَ ثَمَّ سَجْدَةً ثُمَّ قَامَ فَفَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى "

*** سفیان ثوری نے حبیب بن ابوثابت کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی انہوں نے تلاوت کی پھر اس کے بعد چار مرتبہ رکوع کیا جو سجدہ کرنے سے پہلے تھا البتہ جب وہ رکوع سے سر اٹھاتے تھے تو تلاوت کرتے تھے اور پھر سجدہ میں جاتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے انہوں نے دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا جس طرح پہلی رکعت میں کیا تھا۔

4936 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ حَنْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ أَمَّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ قَالَ: " فَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ، فَقَامَ فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ قَامَ فَدَعَا: ثُمَّ رَكَعَ أَرْبَعِ رَكْعَاتٍ فِي سَجْدَةٍ يَدْعُو فِيهِنَّ بَعْدَ الرُّكُوعِ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الثَّانِيَةِ مِثْلَ ذَلِكَ "، قَالَ سُفْيَانُ: وَسَمِعْتُهُمْ يَحْزِرُونَ قِيَامَ عَلِيٍّ فِي الْقِرَاءَةِ قَدْرَ الرُّومِ أَوْ يَأْسِينَ أَوْ الْعَنْكَبُوتِ "

*** حنش نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے سورج گرہن کی نماز میں مسجد میں لوگوں کی امامت کی۔ راوی بیان کرتے ہیں: انہوں نے بلند آواز میں تلاوت کی انہوں نے کھڑے ہو کر تلاوت کی پھر وہ رکوع میں گئے پھر وہ کھڑے ہو گئے پھر انہوں نے دعا کی انہوں نے سجدہ کرنے سے پہلے چار مرتبہ رکوع کیا ہر مرتبہ رکوع کرنے کے بعد وہ دعائیں کہتے تھے پھر انہوں نے دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کی۔

سفیان کہتے ہیں: میں نے لوگوں کو یہ بات ذکر کرتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قیام کی حالت میں تلاوت کا اندازہ لگایا کہ وہ سورہ روم یا سورہ یسین یا سورہ عنکبوت کی تلاوت جتنا تھا۔

4937 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الصَّلَاةُ لِكُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ رَكْعَتَيْنِ نَحْوًا مِنْ صَلَاتِنَا "

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: سورج گرہن یا چاند گرہن کی نماز میں ہماری عام نماز کی طرح دو رکعت ادا کی جائیں گی۔

4938 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ يَوْمَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُهُ، فَقَامَ بِالنَّاسِ فَقِيلَ: لَا يَرْكَعُ وَرَكَعَ، فَقِيلَ: لَا يَرْفَعُ وَرَفَعَ، فَقِيلَ: لَا يَسْجُدُ وَسَجَدَ، فَقِيلَ: لَا يَرْفَعُ وَجَلَسَ، فَقِيلَ: لَا يَسْجُدُ وَسَجَدَ، فَقِيلَ: لَا يَرْفَعُ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ وَتَجَلَّتِ الشَّمْسُ "

*** حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: جس دن نبی اکرم ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اُس وقت سورج گرہن ہو گیا تھا تو نبی اکرم ﷺ نے لوگوں کو نماز پڑھائی آپ نے لوگوں کو قیام کروایا جو اتنا طویل تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید آپ رکوع میں نہیں جائیں گے، لیکن آپ رکوع میں چلے گئے تو یوں محسوس ہوا کہ آپ رکوع سے سر نہیں اٹھائیں گے آپ نے سر اٹھالیا تو یوں محسوس ہوا جیسے آپ سجدہ میں نہیں جائیں گے پھر آپ سجدہ میں چلے گئے تو یوں محسوس ہوا کہ سجدہ سے اٹھیں گے نہیں پھر آپ بیٹھ گئے تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے آپ سجدہ میں نہیں جائیں گے پھر آپ نے سجدہ کیا تو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اب آپ سجدہ سے سر نہیں اٹھائیں گے پھر نبی اکرم ﷺ نے دوسری رکعت بھی اسی طرح ادا کی تو سورج روشن ہو چکا تھا۔

4939 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي زَكْرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَسَفَتِ الشَّمْسُ وَالْمَغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ عَلَى الْكُوفَةِ، فَقَامَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ فَكُنْتُ حَيْثُ لَا أَسْمَعُ، فَحَزَرْتُ قَدْرَ سُورَةِ مِنَ الْمَائَتَيْنِ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَرَأَ، ثُمَّ رَكَعَ، ثُمَّ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَرَكَعَ وَسَجَدَ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ فَقَرَأَ قِرَاءَةً خَفِيفَةً، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ

*** امام شعبی بیان کرتے ہیں: سورج گرہن ہو گیا، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ان دنوں کوفہ کے گورنر تھے انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی، میں ایسی جگہ موجود تھا جہاں مجھے ان کی تلاوت کی آواز نہیں آرہی تھی لیکن میں نے اندازہ لگایا کہ انہوں نے تقریباً دو سو آیات والی سورت کی تلاوت کی ہوگی، پھر وہ رکوع میں چلے گئے پھر انہوں نے سر اٹھایا اور تلاوت کی پھر رکوع میں چلے گئے پھر سورج روشن ہو گیا، وہ پھر رکوع میں گئے پھر انہوں نے سجدہ کیا، پھر وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے اُس میں مختصر قرأت کی پھر رکوع کیا اور سجدہ کیا۔

4940 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْشَانٌ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِذَا كَسَفَ الْقَمَرَ أَصَلَّى كَمَا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَسَفَتِ الشَّمْسُ قَالَ: نَعَمْ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةً جَامِعَةً *** ابن جریر بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے عطاء سے کہا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر چاند گرہن ہو جائے تو کیا میں اسی طرح نماز ادا کروں گا جس طرح نبی اکرم ﷺ نے سورج گرہن کے موقع پر ادا کی تھی؟ عطاء نے جواب دیا: جی ہاں! البتہ نماز باجماعت ہوگی، تو حکم مختلف ہوگا۔

4941 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ: "كَسَفَ الْقَمَرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: سِحْرَ الْقَمَرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ) (القمر: 1) إِلَى (مُسْتَمِرًّا) (القمر: 2)

*** علمہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کے زمانہ اقدس میں چاند گرہن ہو گیا تو لوگوں نے کہا: چاند پر جادو ہو گیا ہے! تو نبی اکرم ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی:

”قیامت قریب آگئی ہے اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا ہے“۔ یہ آیت یہاں تک ہے: ”مستمر“۔

4942 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الْآيَةِ تَكُونُ بَعْدَ الْعَصْرِ؟ قَالَ:

الدُّعَاءُ وَكَيْسَ فِيهَا صَلَاةٌ بَعْدَ الْعَصْرِ، قُلْتُ: عَمَّنْ تُحَدِّثُ؟ قَالَ: كَذَلِكَ كَانُوا يَصْنَعُونَ

*** معمر بیان کرتے ہیں: میں نے زہری سے ایسی نشانی کے بارے میں دریافت کیا جو عصر کے بعد ظہور پذیر ہوتی ہے (تو عصر کے بعد تو کوئی نماز ادا نہیں کی جاسکتی)۔ انہوں نے جواب دیا: دعا مانگی جائے گی کیونکہ عصر کے بعد نماز ادا نہیں کی جاتی۔ میں نے دریافت کیا: یہ آپ کس کے حوالے سے بات بیان کر رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: پہلے لوگ اسی طرح کیا کرتے تھے۔

4943 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا

يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا تَجَلَّى لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ خَضَعَ لَهُ

*** ابو قلابہ بیان کرتے ہیں: بے شک سورج اور چاند کسی کے مرنے یا زندہ ہونے کی وجہ سے گرہن نہیں ہوتے ہیں؛ لیکن ہمارا پروردگار تبارک و تعالیٰ جب اپنی مخلوق میں سے کسی کے سامنے تجلی ظاہر کرتا ہے تو وہ چیز اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔

4944 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كُلَّمَا رَكَعَ رَكْعَةً وَرَفَعَ رَأْسَهُ أَرْسَلَ رَجُلًا يَنْظُرُ هَلْ تَجَلَّتْ

*** ابو قلابہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے جب بھی رکوع کرنے کے بعد سر کو اٹھایا تو ایک شخص کو بھیجا کہ وہ اس بات کا جائزہ لے کہ کیا سورج روشن ہو چکا ہے!

بَابُ الْقُنُوتِ

باب: قنوت کا بیان

4945 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيَّ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: مِنْ أَيْنَ أَخَذَ النَّاسُ

الْقُنُوتَ؟ وَتَعَجَّبَ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامًا ثُمَّ تَرَكَ ذَلِكَ

*** زہری فرماتے ہیں: لوگوں نے قنوت کو کہاں سے حاصل کر لیا ہے؟ وہ حیرانگی کا اظہار کرتے تھے اور یہ کہتے تھے: نبی اکرم ﷺ نے تو چند دن تک قنوت نازلہ پڑھی تھی اور پھر اسے ترک کر دیا تھا۔

4946 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَهُمْ لَا يَقْنُتُونَ
 * * زہری فرماتے ہیں: جب نبی اکرم ﷺ کا وصال ہوا جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو یہ حضرات قنوت نازل نہیں پڑھتے تھے۔

4947 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ: أَنَّهُمَا، قَالَا: صَلَّى بِنَا عُمَرَ زَمَانًا لَمْ يَقْنُتْ
 * * علقمہ اور اسود بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں ایک زمانے تک نماز پڑھائی لیکن انہوں نے قنوت نازل نہیں پڑھی۔

4948 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، وَعَمْرٍو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ، قَالَا: صَلَّيْنَا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ
 * * اسود بن یزید اور عمرو بن میمون اودی بیان کرتے ہیں: ہم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں فجر کی نماز ادا کی تو انہوں نے قنوت نازل نہیں پڑھی۔

4949 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
 * * علقمہ بن قیس بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں قنوت نازل نہیں پڑھتے تھے۔

4950 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَلَا فِي الْوُتْرِ أَيْضًا
 * * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما صبح کی نماز میں قنوت نازل نہیں پڑھتے تھے وہ وتر کی نماز میں بھی نہیں پڑھتے تھے۔

4951 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُثْمَانَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرًا وَبْنَ مَيْمُونٍ يَقُولُ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَلَمْ يَقْنُتْ فِيهَا
 * * عمرو بن میمون بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں فجر کی نماز ادا کی تو انہوں نے اس میں قنوت نازل نہیں پڑھی۔

4952 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ
 * * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فجر کی نماز میں قنوت نازل نہیں پڑھتے تھے۔

4953 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: سَعِيدُ بْنُ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ صَلَّى الْغَدَاةَ فَلَمْ يَقْنُتْ

وَقَالَ ابْنُ الْمُجَالِدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، قَالَا: مَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا إِذَا حَارَبَ، فَإِنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهِنَّ وَلَا قَنَتَ أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ حَتَّى مَاتُوا، حَتَّى لَا قَنَتَ عَلِيٌّ حَتَّى حَارَبَ أَهْلَ الشَّامِ، فَكَانَ يَقْنُتُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهِنَّ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ يَقْنُتُ أَيْضًا فَيَدْعُو كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ

* * * حصین نے ایک شخص کے حوالے سے جن کا نام میرے خیال میں سعید بن عبد الرحمن ہے، اُن کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے صبح کی نماز ادا کی تو انہوں نے قنوت نازل نہیں پڑھی۔

علقمہ اور اسود بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی نماز میں قنوت نازل نہیں پڑھی، اسوائے اُس صورت میں جب آپ کسی جنگ میں حصہ لیتے تھے، اُس موقع پر آپ تمام نمازوں میں قنوت نازل پڑھتے تھے۔

اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال تک قنوت نازل نہیں پڑھی، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی قنوت نازل نہیں پڑھی، لیکن جب انہوں نے اہل شام کے ساتھ جنگ کی تو وہ تمام نمازوں میں قنوت نازل پڑھتے تھے، اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی قنوت نازل پڑھتے تھے، ان دونوں میں سے ہر ایک دوسرے فریق کے خلاف دعا کرتا تھا۔

4954 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِبِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الشَّعَثَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْقُنُوتِ فِي الْفَجْرِ، فَقَالَ: مَا شَعُرْتُ أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ

* * * ابو شعثاء بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے فجر کی نماز میں قنوت نازل پڑھنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص ایسا کرتا ہوگا۔

4955 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ: هَلْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ أَحَدَثَهُ النَّاسُ بَعْدُ

* * * ابن ابوشیح بیان کرتے ہیں: میں نے سالم بن عبد اللہ سے سوال کیا: کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صبح کی نماز میں قنوت نازل پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! یہ ایک ایسی چیز ہے جسے لوگوں نے بعد میں ایجاد کیا ہے۔

4956 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صَبِيحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَمْ يَكُنْ عُمَرُ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ

* * * سعید بن جبیر فرماتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ صبح کی نماز میں قنوت نازل نہیں پڑھتے تھے۔

4957 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ بِالْخَيْفِ يَقُولَانِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْنُتُ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَفِي الْوُتْرِ

بِاللَّيْلِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَفِي شَرِّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَذُلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: مجھے اُس شخص نے یہ بات بتائی ہے جس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اور حضرت محمد بن علی رضی اللہ عنہما کو خیف میں یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم ﷺ صبح کی نماز میں اور رات کے وقت وتر کی نماز میں ان کلمات کے ذریعہ دعائے قنوت پڑھتے تھے:

”اے اللہ! جنہیں تُو نے ہدایت دی ہے اُن میں مجھے بھی ہدایت دے اور جنہیں تُو نے عافیت عطا کی ہے اُن میں مجھے بھی عافیت عطا کر جن کا تُو والی بنا ہے اُن میں میرا بھی والی بن جا جو کچھ تُو نے مجھے عطا کیا ہے اُس میں میرے لیے برکت رکھ دے اور تُو نے جو فیصلہ دیا ہے اُس کے شر سے مجھے بچالے بے شک تُو فیصلہ دیتا ہے تیرے خلاف فیصلہ نہیں دیا جاسکتا جس کا تُو نگران ہو وہ ذلت حاصل نہیں کرتا اے ہمارے پروردگار! تُو برکت والا ہے اور بلند و برتر ہے۔“

4958 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نَسِيرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ

فَقَنَّتْ قَبْلَ الرَّكْعَةِ

*** نسیر بن ذعلوق بیان کرتے ہیں: میں نے ربیع بن خثیم کے پیچھے نماز ادا کی تو انہوں نے رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی۔

4959 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُخَارِقِ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شَهَابٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، صَلَّى الصُّبْحَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَنَّتْ، ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ يَرْكَعُ

*** طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صبح کی نماز ادا کی جب وہ قرأت کر کے فارغ ہوئے تو انہوں نے دعائے قنوت پڑھی پھر جب وہ رکوع میں لگے تو انہوں نے تکبیر کہی۔

4960 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، كَبَّرَ حِينَ قَنَّتْ فِي الْفَجْرِ ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ يَرْكَعُ

*** ابو عبد الرحمن سلمی بیان کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ جب فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنے لگتے تھے تو پہلے تکبیر کہتے تھے پھر جب وہ رکوع میں لگتے تھے تو پھر تکبیر کہتے تھے۔

4961 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّهُ قَنَّتْ فِي الْفَجْرِ فَكَبَّرَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقُنُوتِ

*** ابو جہم حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی اُس وقت جب وہ قرأت کر کے فارغ ہوئے تو انہوں نے تکبیر کہی پھر انہوں نے اُس وقت تکبیر کہی جب وہ دعائے قنوت پڑھ کر

فارغ ہوئے۔

4962 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابی جعفر، عن قتادة قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وأبو بكر وعمر بعد الركوع، فلما كان عثمان قنت قبل الركوع لأن يدرك الناس الركعة * * * قتاده بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی ہے جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو وہ رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھنے لگے تاکہ لوگ رکعت میں شریک ہو جائیں۔

4963 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابی جعفر، عن عاصم، عن انس قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب، وكان قنوته قبل ذلك وبعده قبل الركوع

* * * حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے صبح کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی جس میں آپ نے عربوں کے بعض قبائل کے خلاف دعائے ضرر کی اس موقع سے پہلے یا اس کے بعد آپ ﷺ کی دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہوتی تھی۔

4964 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابی جعفر، عن الربيع بن أنس، عن انس بن مالك قال: ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا * * * حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ مسلسل فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ دنیا سے تشریف لے گئے۔

4965 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن عثمان بن مطر، قال حدثني حنظلة، أنه سمع أنسا يقول: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر بعد الركوع

* * * حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔

4966 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابی جعفر، عن حميد، عن انس قال: قلت له: كيف كنتم تقننون قال: كل ذلك قبل الركوع وبعده

* * * حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں حمید نے یہ بات نقل کی ہے: میں نے ان سے دریافت کیا: آپ لوگ دعائے قنوت کب پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: دونوں طرح پڑھ لیتے تھے رکوع سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی۔

4967 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمّر، عن ابی اسحاق، عن علقمة، والأسود، أن ابن مسعود كان لا يقنت في صلاة الغداة

* * * ماتمہ اور اسود بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صبح کی نماز میں قنوت نازلہ نہیں پڑھتے تھے۔

4968 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ الصُّبْحَ فَقَنَتَ بَعْدَ الرَّكُوعِ قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُشْنِي عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ أَيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخَافُ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِينَ مُلْحَقٌ، اللَّهُمَّ عَذِبِ الْكُفْرَةِ، وَآلِقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبَ، وَخَالَفِ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، اللَّهُمَّ عَذِبِ الْكُفْرَةِ أَهْلَ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، وَيُكْذِبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَآلِفِ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَةَ، وَتَبَتَّهُمْ عَلَى مِلَّةِ نَبِيِّكَ، وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يُؤْفُوا بِالْعَهْدِ الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ، وَأَنْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، إِلَهَ الْحَقِّ، وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَلَوْ كُنْتُ إِمَامًا قُلْتُ هَذَا الْقَوْلَ، ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ

*** ابورافع بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پیچھے صبح کی نماز ادا کی تو انہوں نے رکوع کے بعد

قوت نازلہ پڑھی میں نے انہیں یہ پڑھتے ہوئے سنا:

”اے اللہ! بے شک ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تیرا کفر نہیں کرتے، ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور جو شخص تیری نافرمانی کرتا ہے اُس سے لا تعلق ہو جاتے ہیں اور اُسے چھوڑ دیتے ہیں اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی لیے نماز ادا کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری رحمت کے امیدوار ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں تک پہنچ جائے گا اے اللہ! کافروں کو عذاب دے! اُن کے دلوں میں رعب ڈال دے اُن کی بات کے درمیان اختلاف پیدا کر دے اُن پر اپنی سزا اور اپنا عذاب نازل کر دے اے اللہ! کافروں کو عذاب دے یعنی اہل کتاب کو جو تیرے راستے سے روکتے ہیں اور تیرے رسولوں کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، تیرے دوستوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اے اللہ! تو مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی مغفرت کر دے اُن کے اندر بہتری ڈال دے اُن کے دلوں میں اُلفت پیدا کر دے اُن کے دلوں میں ایمان اور حکمت رکھ دے انہیں اپنے نبی کے دین پر ثابت قدم رکھ اور انہیں یہ چیز عطا کر دے کہ وہ اُس عہد کو پورا کرے جو عہد تو نے اُن سے لیا ہے اور تو اپنے اور اُن کے دشمنوں کے خلاف اُن کی مدد فرما اور ہمیں اُن میں شامل کر دے۔“

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: اگر میں امام ہوں تو پہلے یہ کلمات پڑھوں گا، پھر یہ دعائیں مانگوں گا:

”اے اللہ! تو مجھے اُن لوگوں میں ہدایت عطا کر دے جنہیں تو نے ہدایت عطا کی ہے۔“

4969 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، يَأْتِرُ عَنْ

عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي الْقُنُوتِ: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ.

وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَأَنْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، اللَّهُمَّ الْعَنْ كُفْرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُكْذِبُونَ رُسُلَكَ وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ، اللَّهُمَّ خَالَفْ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَزَلْزِلْ أَقْدَامَهُمْ، وَأَنْزِلْ بِهِمْ بِأَسْكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ إِنَّا، نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُشِيرُ عَلَيْكَ وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ إِنَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخَافُ عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحَقٌ قَالَ: وَسَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ يَهُونَ الْقُنُوتُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الصُّبْحِ، وَذَكَرَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّهُمَا سُورَتَانِ مِنَ الْقُرْآنِ فِي مُصْحَفِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَّهُ يُوتَرُ بِهِمَا كُلَّ لَيْلَةٍ، وَذَكَرَ أَنَّهُ يَجْهَرُ بِالْقُنُوتِ فِي الصُّبْحِ، قُلْتُ: فَإِنَّكَ تَكْرَهُ الْإِسْتِغْفَارَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَهَذَا عَمْرٌ قَدْ اسْتَغْفَرَ قَالَ: قَدْ فَرَعْتُ، هُوَ فِي الدُّعَاءِ فِي آخِرِهَا

* * * عبید بن عمیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ وہ دعائے قنوت میں یہ پڑھا کرتے تھے:

”اے اللہ! مومن مردوں اور مومن عورتوں، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی مغفرت کر دے، اُن کے دلوں کے اندر اُلقت قائم کر دے، اُن کے درمیان صلح رکھ دے، اپنے اور اُن کے دشمنوں کے خلاف اُن کی مدد کر، اے اللہ! اہل کتاب کافروں پر لعنت کر دے جنہوں نے تیرے رسولوں کو جھوٹا قرار دیا اور تیرے دوستوں کے ساتھ جنگ کی، اے اللہ! اُن کے کلمہ کے درمیان اختلاف پیدا کر دے، اُن کے قدموں کو لڑکھڑا دے، اُن پر اپنا وہ عذاب نازل کر جسے تُو مجرم قوم سے لوٹاتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے! اے اللہ! ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا کفر نہیں کرتے ہیں، جو تیری نافرمانی کرتا ہے اُس سے لاتعلق ہو جاتے ہیں اور ہم اُسے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے! اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی لیے نماز ادا کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، تیری ہی طرف دوڑ کر آتے ہیں اور تیری فرمانبرداری کرتے ہیں، تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کافروں تک پہنچ جائے گا۔“

عبید بن عمیر فرماتے ہیں: دعائے قنوت صبح کی نماز کے آخری رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی۔ یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ اُن تک یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مصحف میں یہ دونوں دعائیں قرآن کی دو سورتیں تھیں اور وہ ہر رات میں وتر کی نماز میں ان دونوں کو پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی ذکر کی گئی ہے کہ صبح کی نماز میں دعائے قنوت کو بلند آواز میں پڑھا جائے گا۔ میں نے دریافت کیا: آپ فرض نماز میں دعائے مغفرت کرنے کو مکروہ قرار دیتے ہیں جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو دعائے مغفرت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا: وہ فارغ ہو چکے ہوتے تھے وہ آخر میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔

4970 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوَرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِي بِنِ

كَعْبٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ فَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعْبُدُكَ، وَنَسْجُدُكَ، وَنَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَخْشَى عَذَابَكَ، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحَقٌ

* * حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ (دعاے قنوت میں) یہ پڑھا کرتے تھے: ”اے اللہ! بے شک ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا انکار نہیں کرتے ہیں، جو تیری نافرمانی کرتا ہے اُس سے لا تعلق ہو جاتے ہیں اور اُسے ترک کر دیتے ہیں اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، تیری ہی طرف آتے ہیں اور تیری فرمانبرداری کرتے ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں اور تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں، بے شک تیرا عذاب کفار تک پہنچ جائے گا۔“

4971 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُبَارِكِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ قَدْرَ مِائَةِ آيَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ

* * ابو عثمان نہدی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ صبح کی نماز میں قنوت نازل اتنی پڑھتے تھے جو قرآن کی ایک سو آیات جتنی ہوتی تھی۔

4972 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ بِسُورَتَيْنِ

* * حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں دو سورتوں جتنی قنوت نازل پڑھتے تھے۔

4973 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عَوْفِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو رَجَاءٍ الْهَطَارِدِيُّ قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنِ عَبَّاسٍ صَلَاةَ الْغَدَاةِ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْبَصْرَةِ، فَقَنَّتْ قَبْلَ الرُّكُوعِ

* * ابورجاء عطاردی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بصرہ کے عہد گورنری میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی تو انہوں نے رکوع سے پہلے قنوت نازل پڑھی۔

4974 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْنُتُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وَفِي الْوُتْرِ قَبْلَ الرُّكُوعِ " قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَوْفٌ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ

* * عبداللہ بن حبیب بیان کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ صبح کی نماز میں رکوع سے پہلے قنوت نازل پڑھتے تھے اور وتر کی نماز میں بھی رکوع سے پہلے پڑھتے تھے۔

راوی بیان کرتے ہیں: عوف نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رکوع سے پہلے قنوت نازلہ پڑھتے تھے۔

4975 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي

لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ

*** عمرو بن مرہ بیان کرتے ہیں: میں نے عبدالرحمن بن ابولیلیٰ کو حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ

روایت نقل کرتے ہوئے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے تھے۔

4976 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ أَنَّ

عَلِيًّا، قَنَتَ فِي الْمَغْرِبِ فَدَعَا عَلَى نَاسٍ وَعَلَى أَشْيَاعِهِمْ، وَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ

*** عبداللہ بن معقل بیان کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ مغرب کی نماز میں قنوت پڑھتے تھے وہ کچھ لوگوں اور ان کے

ساتھیوں کے خلاف دعائے ضرر کرتے تھے وہ رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے۔

4977 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ قَالَ: رَأَيْتَ الْحَسَنَ

لَقِيَ أَبَا رَافِعٍ الصَّانِعَ، فَقَالَ: إِنِّي بَيْنَهُمَا، فَقَالَ الْحَسَنُ: الْقُنُوتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: لَا بَعْدَ الرُّكُوعِ،

فَعَلْنَا مَعَ عُمَرَ، فَقَالَ الْحَسَنُ: كَمْ؟ قَالَ: شَهْرَيْنِ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ: بَلْ سَتَيْنِ قَالَ: وَأَشَارَ عَبْدُ الْكَرِيمِ بِإِصْبَعِهِ

يَعْنِي فِي الصُّبْحِ

*** عبدالکریم بن ابو مخارق بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت حسن کو دیکھا کہ ان کی ملاقات ابو رافع صانع سے ہوئی تو

انہوں نے کہا: میں ان دونوں کے درمیان ہوں! تو حسن نے کہا: قنوت رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی۔ ابو رافع نے کہا:

4978 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

الْأَسْوَدِ الْكَاهِلِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْنُتُ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَجْرِ، غَيْرَ أَنَّهُ يُقَدِّمُ الْآخِرَةَ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

نَعْبُدُ، وَوَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخَافُ عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ

مُلْحَقٌ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَهْدِيكَ، وَنُشْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ، وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَخْلَعُ

وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ

قَالَ الْحَكَمُ: وَأَخْبَرَنِي طَاوُسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَنَتَ عُمَرُ قَبْلَ الرَّكْعَةِ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ، إِلَّا

أَنَّ قَدَّمَ الَّتِي آخَرَ عَلِيٌّ، وَآخَرَ الَّتِي قَدَّمَ عَلِيٌّ، وَالْقَوْلُ سَوَاءٌ

*** عبدالرحمن بن اسود کا بلی بیان کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں یہ دو سورتیں تلاوت کیا کرتے ہیں تاہم یہ

ملاقات کے دو دوسرے والی کو پہلے پڑھتے تھے پھر وہ یہ دعا پڑھتے تھے:

”اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تیری ہی طرف آتے

ہیں، تیری فرمانبرداری کرتے ہیں، ہم تیری رحمت کی امید رکھتے اور تیرے عذاب سے ڈرنے ہیں، بیشک تیرا عذاب

کافروں تک پہنچ جائے گا اے اللہ! ہم تجھ سے مدد طلب کرتے اور ہم تجھ سے ہدایت مانگتے ہیں اور ہر طرح کی بھلائی کے حوالے سے تیری تعریف کرتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، ہم تیری ناشکری نہیں کرتے، ہم تجھ پر ایمان رکھنے ہیں اور جو تیری نافرمانی کرے ہم اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔“

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ رکوع سے پہلے ان دو سورتوں کی تلاوت کرتے تھے البتہ وہ اسے پہلے پڑھتے تھے جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ بعد میں پڑھتے تھے اور اسے بعد میں اسے پڑھتے تھے جسے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلے پڑھتے تھے۔ الفاظ ایک سے ہیں۔

4979 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُخَارِقِ قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شَهَابٍ يَقُولُ: قَنَتَ عُمَرُ قَالَ: فَأَخْبَرَنِي أَصْحَابُنَا عَنِ الْمُخَارِقِ، عَنِ طَارِقِ أَنَّهُ كَبَّرَ حِينَ قَنَتَ، يَقُولُ حِينَ فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ كَبَّرَ حِينَ خَرَّ

*** طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دعائے قنوت پڑھی۔

طارق نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ جب انہوں نے دعائے قنوت پڑھی تو پہلے تکبیر کہی، پھر جب وہ تلاوت سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اُس وقت تکبیر کہی اور جب وہ (رکوع میں جانے کے لیے) جھکے تو اُس وقت تکبیر کہی۔

4980 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ سَعِيدٍ، عَنِ قَتَادَةَ، عَنِ أَبِي رَافِعٍ، وَابِي قَتَادَةَ، قَالَا: " صَلَّيْنَا خَلْفَ عُمَرَ الْفَجْرَ فَقَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، قَالَ أَحَدُهُمَا: رَفَعَ يَدَهُ، " وَقَالَ الْآخَرُ: لَمْ يَرْفَعْ يَدَهُ

*** ابورافع اور ابوقتادہ بیان کرتے ہیں: ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی تو انہوں نے رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی۔ اُن میں سے ایک صاحب نے یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ بلند کیے تھے جبکہ دوسرے صاحب نے یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ نہیں اٹھائے تھے۔

4981 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقْنَتُ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ بَعْدَمَا يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، فَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَلْعَنُ الْكَافِرِينَ "، وَيَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ

*** ابوسلمہ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ وہ ظہر کی نماز، عشاء کی نماز اور صبح کی نماز کی آخری رکعت میں سمع اللہ لمن حمدہ پڑھنے کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تھے جس میں وہ اہل ایمان کے لیے دعا کرتے تھے اور کافروں پر لعنت کرتے تھے۔ وہ یہ بات ذکر کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

4982 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ يَقُولُ: الْقُنُوتُ فِي الْوُتْرِ وَالصُّبْحِ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ

يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ الْجِدَّ، إِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكَفَّارِ مُلْحَقٌ، اللَّهُمَّ عَذِبِ الْكُفْرَةِ وَالْمُشْرِكِينَ، وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وَخَالَفَ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، اللَّهُمَّ عَذِبِ كُفْرَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ وَيَكْذِبُونَ رُسُلَكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، اللَّهُمَّ أَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَةَ، وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يَشْكُرُوا نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ، وَأَنْ يُؤْفُوا بِعَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ، وَتَوْفَقَهُمْ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ، وَأَنْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ إِلَهَ الْحَقِّ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمْ

كَانَ يَقُولُ هَذَا، ثُمَّ يَخْرُ سَاجِدًا، وَكَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ بَعْضُ مَنْ يَسْأَلُهُ يَقُولُ: يَا أَبَا سَعِيدٍ أَيْزِيدُ عَلَى هَذَا شَيْئًا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالِدُعَاءِ، وَالتَّسْبِيحِ، وَالتَّكْبِيرِ، فَيَقُولُ: " لَا أَنْهَاكُمْ، وَلَكِنِّي سَمِعْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزِيدُونَ عَلَى هَذَا شَيْئًا، وَيَغْضَبُ إِذَا أَرَادُوهُ عَلَى الزِّيَادَةِ

* * حسن بصری فرماتے ہیں: وتر اور صبح کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جائے گی جس کے الفاظ یہ ہیں:

"اے اللہ! بے شک ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تیری تعریف بر بھلائی کے حوالے سے کرتے ہیں، ہم تیرا انکار نہیں کرتے ہیں، ہم تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، جو تیری نافرمانی کرتا ہے ہم اس سے لاتعلق ہو جاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں، اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی لیے نماز ادا کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، تیری ہی طرف آتے ہیں، تیری فرمانبرداری کرتے ہیں، تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، بے شک تیرا زبردست عذاب کافروں تک پہنچ جائے گا، اے اللہ! کافروں اور مشرکین کو عذاب دے اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دے اور ان کے اتفاق کے درمیان اختلاف پیدا کر دے، ان پر اپنی سزا اور اپنا عذاب نازل کر دے، اے اللہ! اہل کتاب کافروں پر عذاب نازل کر دے جو تیرے راستے سے روکتے ہیں، تیرے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں، اے اللہ! مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی مغفرت کر دے، اے اللہ! ان کے درمیان اتفاق پیدا کر دے، ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دے، ان کے دلوں میں ایمان اور حکمت کو رکھ دے اور انہیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ وہ تیری نعمت کا شکر ادا کریں جو نعمت تُو نے ان پر کی ہے، اور وہ اس عہد کو پورا کریں جو عہد تُو نے ان سے لیا ہے اور تُو انہیں اپنے رسول کے دین پر موت دینا اور اپنے اور ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کرنا، اے حقیقی معبود! تُو ہمیں ان میں شامل رکھنا۔"

حضرت عمر رضی اللہ عنہما دعا پڑھنے کے بعد سجدہ میں چلے جاتے تھے وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں پڑھتے تھے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے تھے۔

راوی بیان کرتے ہیں: کسی شخص نے اُن سے یہ سوال کیا: اے ابوسعید! کیا ان کلمات میں نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجنے کا اضافہ کیا جاسکتا ہے یا کوئی اور دعا کی جاسکتی ہے یا سبحان اللہ پڑھی جاسکتی ہے یا اللہ اکبر پڑھا جاسکتا ہے؟ تو حسن بصری نے جواب دیا: میں تم لوگوں کو اس سے منع نہیں کرتا لیکن میں نے نبی اکرم ﷺ کے اصحاب سے سنا ہے کہ وہ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں پڑھتے تھے اور جو شخص زیادہ پڑھنے کا ارادہ کرتا تھا اُس پر ناراضگی کا اظہار کرتے تھے۔

4983 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " اِنَّمَا الْقُنُوتُ طَاعَةٌ لِلَّهِ وَكَانَ يَقْنُتُ بِأَرْبَعِ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْبَقْرَةِ، ثُمَّ (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) هَذِهِ الْآيَةُ (اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ) (البقرة: 255) وَهَذِهِ الْآيَةُ (لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ) حَتَّى يَخْتِمَ الْبَقْرَةَ، ثُمَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ثُمَّ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعْبُدُكَ، وَنُصَلِّي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَحْشَى عَذَابَكَ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ: وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُشِيْ عَلَيْكَ فَلَا نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَكْفُرُكَ، وَذَكَرُوا أَنَّهَا سُوْرَتَانِ مِنَ الْبَقْرَةِ، وَأَنَّ مَوْضِعَهُمَا بَعْدَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ " قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُهُمَا أَبِي فِي الصُّبْحِ، وَكَانَ لَا يَجْهَرُ بِهِ، وَكَانَ يَقُولُ هُوَ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةَ، فَيَقُولُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْآخِرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ، وَيَقُولُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنَ الْآخِرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ مَا فِي الْبَقْرَةِ، وَيَقُولُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْآخِرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ مَا سِوَى ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ فِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ الْآخِرَةَ، وَكَانَ يُوتِرُ، وَكَانَ يَجْعَلُ الْقِرَاءَةَ فِي الْوَتْرِ

* * * طاووس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں:

”قنوت اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا نام ہے وہ چار آیات کے ذریعہ دعائے قنوت پڑھتے تھے جو سورہ بقرہ کے آغاز کی

آیات ہیں پھر یہ آیت پڑھتے تھے:

”بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں۔“

یہ آیت پڑھتے تھے:

”اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے وہ زندہ اور قیوم ہے۔“

وہ یہ آیت پڑھتے تھے:

”آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے۔“

سے سورہ بقرہ کے اختتام تک پڑھتے تھے پھر وہ سورہ فلق کی پھر سورہ ناس کی تلاوت کرتے تھے۔

پھر یہ پڑھتے تھے:

”اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے نماز ادا کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف

آتے ہیں تیری فرمانبرداری کرتے ہیں تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں بے شک تیرا عذاب کافروں تک پہنچ جائے گا اے اللہ! ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں تیرا کفر نہیں کرتے ہیں تجھ پر ایمان رکھتے ہیں جو تیرا کفر کرتا ہے اس سے لا تعلق ہوتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔

لوگوں نے یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ یہ دونوں سورہ بقرہ سے تعلق رکھنے والی سورتیں ہیں اور ان دونوں کا مقام سورہ اخلاص کے بعد ہے۔

طاؤس کے صاحبزادے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صبح کی نماز میں ان دونوں کو پڑھا کرتے تھے وہ بلند آواز میں انہیں نہیں پڑھتے تھے وہ ظہر اور عشاء کی نماز میں انہیں پڑھتے تھے وہ ظہر اور عشاء کی آخری دو رکعت میں انہیں پڑھتے تھے اور وہ ظہر کی دو میں سے پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھتے تھے اور ظہر کی آخری دو رکعت میں سے دوسری رکعت میں اس کے علاوہ کی تلاوت کرتے تھے۔ اسی طرح عصر اور عشاء کی نماز میں کرتے تھے پھر وہ وتر ادا کرتے تھے اور وہ وتر کی نماز میں تلاوت کرتے تھے۔

4984 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: مِثْلَ مَنْ كُنْتُ يَوْمَ مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا تَعْقِلُ عَنْهُ؟ قَالَ: عَقَلْتُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ يَوْمًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: دَعُ مَا يَرِيكَ إِلَى مَا لَا يَرِيكَ، فَإِنَّ الشَّرَّ يَرِيكَ، وَإِنَّ الْحَيْرَ طَمَائِنَةً، وَعَقَلْتُ مِنْهُ أَنِّي مَرَرْتُ يَوْمًا بَيْنَ يَدَيْهِ فِي جُرْنٍ مِنْ جُرْنِ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَأَخَذْتُ تَمْرَةً وَطَرَحْتُهَا فِي فِئٍ، فَأَخَذَ بِقَفَايَ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي فِئٍ فَانْتَزَعَهَا بَلْعًا بِهَا، ثُمَّ طَرَحَهَا فِي الْجُرْنِ، فَقَالَ أَصْحَابُهُ: لَوْ تَرَكَتِ الْغَلَامَ فَآكَلَهَا، فَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لِي لِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَعَلَّمَنِي كَلِمَاتٍ أَدْعُو بِهِنَّ فِي آخِرِ الْقُنُوتِ: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَلِّغْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَفِي شَرِّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، وَإِنَّهُ لَا يَدُلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ قَالَ أَبُو الْحَوْرَاءِ: فَدَخَلْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَهُوَ مَحْضُورٌ فَحَدَّثْتُهُ بِهَا عَنِ الْحَسَنِ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ: إِنَّهُنَّ كَلِمَاتٌ عَلِمْنَاهُنَّ نَدْعُو بِهِنَّ فِي الْقُنُوتِ، ثُمَّ ذَكَرَ هَذَا الدُّعَاءَ مِثْلَ حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ

*** ابو حوراء بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا: جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اس وقت آپ کی جتنی عمر تھی اس حوالے سے تو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد نہیں ہوگی۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: مجھے یہ بات یاد ہے کہ ایک شخص ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں مبتلا کرتی ہے اور اس چیز کو اختیار کر لو جو تمہیں شک میں مبتلا نہیں کرتی ہے کیونکہ بُرائی تمہیں شک میں مبتلا کرے گی اور بھلائی اطمینان کا نام ہے۔ (حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے یہ بھی

بتایا: مجھے نبی اکرم ﷺ کے بارے میں یہ بات بھی یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں نبی اکرم ﷺ کے آگے سے گزرا تو نبی اکرم ﷺ کے آگے صدقہ کی کھجوریں پڑی ہوئی تھیں، میں نے ان میں سے ایک کھجور پکڑی اور اپنے منہ میں ڈال لی تو نبی اکرم ﷺ میرے منہ کو پکڑا اور اپنا ہاتھ میرے منہ میں ڈالا اور میرے منہ میں سے اس کھجور کو نکال کر پھر واپس اس میں ڈال دیا۔ نبی اکرم ﷺ کے اصحاب نے عرض کی: اگر آپ اس بچے کو یہ کھانے دیتے تو یہ مناسب ہوتا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔

حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بتایا کہ نبی اکرم ﷺ نے مجھے کچھ کلمات کی تعلیم دی تھی جنہیں میں قنوت کے آخر میں پڑھتا ہوں (وہ کلمات یہ ہیں):

”اے اللہ! جنہیں تُو نے ہدایت نصیب کی ہے اُن میں ہمیں بھی ہدایت نصیب کر، جنہیں تُو نے عافیت عطا کی ہے اُن میں ہمیں بھی عافیت عطا کر، جن کا تُو نگران بنا ہے اُن میں ہمارا بھی نگران بن جا، تُو نے جو کچھ عطا کیا ہے اُس میں میرے لیے برکت رکھ دے اور جو تُو نے فیصلہ دیا ہے اُس کے شر سے مجھے بچالے، بے شک تُو فیصلہ دیتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ نہیں دیا جاتا، جس کا تُو ولی وارث ہو وہ رسوا نہیں ہوتا، اے ہمارے پروردگار! تُو برکت والا ہے اور بلند و برتر ہے۔“

ابو حوراء بیان کرتے ہیں: میں امام باقر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ اُس وقت محصور ہو چکے تھے، میں نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے انہیں یہ حدیث بیان کی تو امام باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ وہ کلمات ہیں جن کی تعلیم ہمیں دی گئی ہے اور ہم دعائے قنوت میں انہیں پڑھتے ہیں، پھر انہوں نے یہی دعا ذکر کی جس طرح حسن بن عمارہ نے یہ دعا ذکر کی ہے۔

4985 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الْقُنُوتِ

*** حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے انہیں یہ تعلیم دی تھی کہ دعائے قنوت میں یہ کلمات پڑھیں۔

4986 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ عُمَرَ، قَنَّتَ بَعْدَ الرَّكُوعِ، وَأَنَّ عُمَانَ قَنَّتَ قَبْلَ الرَّكُوعِ؛ لِأَنَّ يُدْرِكُ النَّاسُ الرَّكْعَةَ

*** حسن بصری بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تھے جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے تاکہ زیادہ لوگ اُس رکعت میں شریک ہو جائیں۔

4987 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ فَاتَتْهُ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةٌ فَصَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً وَقَنَّتَ مَعَهُ قَالَ: فَإِذَا قَضَى الرَّكْعَةَ الْآخِرَةَ قَنَّتَ أَيضًا، قَالَ مَعْمَرٌ وَقَالَ قَتَادَةُ: لَا يَقْنُتُ، قَالَ مَعْمَرٌ: إِنْ قَنَّتَ فَحَسَنٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْنُتْ فَلَا بَأْسَ

*** معمر بیان کرتے ہیں: حسن بصری نے ایسے شخص کے بارے میں یہ فرمایا ہے جس کی صبح کی نماز کی ایک رکعت رہ جاتی ہے اور وہ امام کے ساتھ ایک رکعت ادا کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ دعائے قنوت پڑھ لیتا ہے۔ تو حسن بصری فرماتے ہیں: جب وہ دوسری رکعت کی قضاء کرے گا تو پھر دعائے قنوت پڑھے گا۔

معمر بیان کرتے ہیں: قتادہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ وہ دوبارہ دعائے قنوت نہیں پڑھے گا۔ معمر کہتے ہیں: اگر وہ پڑھ لے گا تو اچھی بات ہے اگر نہیں پڑھے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

4988 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ عُبَيْدَةَ فَقَنَّتْ

فِي الْفَجْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ

*** نعمان بن قیس بیان کرتے ہیں: میں نے عبیدہ کی اقتداء میں نماز ادا کی تو انہوں نے فجر کی نماز میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی۔

4989 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: يَقُولُ آخِرُونَ فِي الْقُنُوتِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ

الرَّحِيمِ، اللَّهُمَّ لَكَ نُصَلِّيُ وَلَكَ نَسْجُدُ، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، وَلَكَ نُصَلِّيُ وَنَسْجُدُ، وَإِيَّاكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخَافُ عَذَابَكَ الْجَدِّ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ، وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ أَسْلَمْنَا نَفُوسَنَا إِلَيْكَ، وَصَلَّيْنَا وَجُوهَنَا إِلَيْكَ، وَالْجَنَانَا ظُهُورَنَا إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنَهُمْ، وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَاجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَالْحِكْمَةَ، وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يُوَفُوا بِعَهْدِكَ الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ، وَتَوْفُقَهُمْ عَلَى مِلَّةِ نَبِيِّكَ، وَأَنْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَعَدُوِّهِمْ، إِلَهَ الْحَقِّ، اللَّهُمَّ عَذِّبِ الْكُفْرَةَ، وَأَلْقِ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ وَخَالَفَ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ، وَأَنْزِلْ عَلَيْهِمْ رِجْزَكَ وَعَذَابَكَ، اللَّهُمَّ عَذِّبِ كُفْرَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ يُكْذِبُونَ رُسُلَكَ، وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْحَمْ عَنَّا

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: دوسرے لوگوں نے دعائے قنوت کے یہ کلمات نقل کیے ہیں:

”اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے! اے اللہ! ہم تیرے ہی لیے نماز ادا کرتے ہیں اور تیرے لیے سجدہ کرتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں تیرے ہی لیے نماز ادا کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تیری ہی طرف دوڑ کر آتے ہیں تیری فرمانبرداری کرتے ہیں تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں بے شک تیرا عذاب کافروں تک پہنچ جائے گا! اے اللہ! ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں تیرا کفر نہیں کرتے ہیں تجھ پر ایمان رکھتے ہیں جو شخص تیری نافرمانی کرتا ہے اس سے لاشعور ہو جاتا ہے اور اسے چھوڑ دیتے ہیں! اے اللہ! تو ہماری جانوں کو اپنی طرف

سے سلامتی عطا فرما اور ہمارے چہروں کو اپنی طرف پھیر دے، ہماری پشتوں کو اپنی طرف سے پناہ نصیب فرما جو تیری بارگاہ میں رغبت رکھتے ہوئے اور تیری بارگاہ سے ڈرتے ہوئے ہو تیرے مقابلہ میں تیرے علاوہ اور کوئی جائے پناہ اور جائے نجات نہیں ہے، میں تیری اُس کتاب پر ایمان لایا جسے تُو نے نازل کیا ہے اور تیرے اُس رسول پر ایمان لایا جسے تُو نے مبعوث کیا ہے، اے اللہ! مؤمن مردوں، مؤمن عورتوں، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی مغفرت کر دے، اُن کے درمیان اتفاق پیدا کر دے، اُن کے دلوں میں اُلفت پیدا کر دے، اُن کے دلوں میں ایمان اور حکمت رکھ دے، انہیں اس بات کی توفیق نصیب فرما کہ وہ اُس عہد کو پورا کریں جو عہد تُو نے اُن سے لیا تھا اور انہیں اپنے نبی کے دین پر موت نصیب کرنا اور تُو اپنے اور اُن کے دشمنوں کے خلاف اُن کی مدد کرنا، اے حقیقی معبود! اے اللہ! تُو کافروں کو عذاب دے اور اُن کے دلوں میں رعب ڈال دے اور اُن کے اتفاق کے درمیان اختلاف پیدا کر دے، اُن پر اپنی سزا اور اپنا عذاب نازل کر دے، اے اللہ! اہل کتاب کافروں پر عذاب نازل کر جنہوں نے تیرے رسولوں کو جھوٹا قرار دیا، وہ تیرے راستے سے روکتے ہیں، اے اللہ! تُو ہماری مغفرت فرما دے، ہم پر رحم فرما دے اور ہم سے راضی ہو جا۔

4990 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَبِي بَنَ كَعْبٍ، قَنَّتَ فِي الْوُتْرِ بَعْدَ الرَّكُوعِ

* * ابن سیرین بیان کرتے ہیں: حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ وتر میں رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھتے تھے۔

4991 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا فِي الْوُتْرِ

* * نخعی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پورا سال وتر میں دعائے قنوت پڑھتے تھے۔

4992 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَنَّتَ فِي الْوُتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ

* * علقمہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے۔

4993 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْقُنُوتُ فِي الْوُتْرِ مِنَ السَّنَةِ كُلِّهَا قَبْلَ الرَّكْعَةِ

* * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: پورا سال وتر کی نماز میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی جائے گی۔

4994 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ كَانَا يَقْنُتَانِ فِي الْوُتْرِ قَبْلَ الرَّكْعَةِ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: يُكَبِّرُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَيْضًا إِذَا خَرَّ، وَبِهِ نَأْخُذُ

*** ہشام نقل کرتے ہیں: حسن بصری اور ابن سیرین وتر کی نماز میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے تھے۔
امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: جب آدمی رکوع سے سر اٹھائے گا تو تکبیر کہے گا، پھر جب وہ جھکے گا تو دوبارہ تکبیر کہے گا، ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

4995 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا قُنُوتَ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا إِلَّا فِي النِّصْفِ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ مَعْمَرٌ: وَإِنِّي لَأَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا إِلَّا النِّصْفَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ، فَإِنِّي لَا أَقْنُتُهُ، وَكَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ الْحَسَنُ، وَذَكَرَهُ عَنْهُ قَتَادَةُ وَغَيْرُهُ

*** زہری بیان کرتے ہیں: پورے سال میں دعائے قنوت نہیں پڑھی جائے گی، صرف رمضان کے آخری نصف حصہ میں پڑھی جائے گی۔

معبر بیان کرتے ہیں: میں تو پورا سال دعائے قنوت پڑھتا ہوں، البتہ رمضان کے ابتدائی نصف حصہ میں نہیں پڑھتا، میں اس حصہ میں دعائے قنوت نہیں پڑھتا، حسن بصری بھی اسی طرح کیا کرتے تھے، قتادہ اور دیگر حضرات نے ان کے بارے میں یہی بات ذکر کی ہے۔

4996 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ السَّنَةَ كُلَّهَا فِي الْوَتْرِ إِلَّا النِّصْفَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ " قَالَ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ لَا يَقْنُتُ مِنَ السَّنَةِ شَيْئًا إِلَّا النِّصْفَ الْآخِرَ مِنْ رَمَضَانَ
*** حسن بصری کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ پورا سال وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھتے تھے، البتہ رمضان کے پہلے نصف حصہ میں وہ دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے۔

راوی بیان کرتے ہیں: ابن سیرین پورا سال دعائے قنوت نہیں پڑھتے تھے، صرف رمضان کے آخری نصف حصہ میں پڑھتے تھے۔

4997 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقُولَ فِي قُنُوتِ الْوَتْرِ بِهَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ، وَنَسْتَغْفِرُكَ، وَنُثْنِي عَلَيْكَ، وَلَا نَكْفُرُكَ، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعْبُدُكَ، وَلَكَ نَصَلِي وَنَسْجُدُ، وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَخْفِدُ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ، وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَافِرِينَ مُلْحَقٌ "

*** ابراہیم نخعی کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ اس بات کو مستحب قرار دیتے تھے کہ وتر کی نماز میں ان دو کلمات کے ذریعہ دعائے قنوت پڑھی جائے:

”اے اللہ! ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا کفر نہیں کرتے ہیں، جو تیری نافرمانی کرتا ہے اس سے لاتعلق ہو جاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں، اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی لیے نماز ادا کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، تیری ہی طرف دوڑ کر آتے ہیں، تیری

فرمانبرداری کرتے ہیں تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرا عذاب کافروں تک پہنچ جائے گا۔

4998 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمْ تَكُنْ تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الْوُتْرِ فِي

رَمَضَانَ

*** زہری فرماتے ہیں: رمضان میں وتر کی نماز میں رفع یدین نہیں کیا جائے گا۔

4999 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: لَمْ تَكُنْ تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي الْوُتْرِ

فِي رَمَضَانَ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: ابن شہاب نے یہ بات نقل کی ہے: رمضان میں وتر کی نماز میں دونوں ہاتھ بلند نہیں

کیے جائیں گے۔

5000 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: دُعَاءُ أَهْلِ مَكَّةَ بَعْدَ مَا يَفْزَعُونَ مِنْ

الْوُتْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: بِدَعَاةٍ قَالَ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وَمَا يُصْنَعُ ذَلِكَ بِمَكَّةَ حَتَّى أُحَدِّثَ حَدِيثًا

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: رمضان کے مہینہ میں اہل مکہ جب وتر سے فارغ

ہوتے ہیں تو وہ جو دعا کرتے ہیں (اُس کا حکم کیا ہے؟) عطاء نے جواب دیا: یہ بدعت ہے! میں نے لوگوں کو پایا ہے کہ وہ یہ کام

نہیں کرتے تھے جو مکہ میں کیا جاتا ہے یہاں تک کہ یہ کام بعد میں ایجاد کیا گیا۔

5001 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ مَنْصُورٍ، عَنِ مُغِيرَةَ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُكَبِّرُ إِذَا فَرَغَ

مِنَ الْقِرَاءَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْوُتْرِ، ثُمَّ يَقْنُتُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ كَبَّرَ أَيْضًا، قَالَ الْمُغِيرَةُ

عَنِ إِبْرَاهِيمَ: وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الْوُتْرِ قَالَ: الْقِيَامُ فِي الْقُنُوتِ قَدْرُ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَعَنْهُ أَيْضًا، عَنِ إِبْرَاهِيمَ

قَالَ: آتَيْتُ الْأَسْوَدَ وَهُوَ يَشْتَكِي، فَقُمْتُ قَائِمًا وَرَجُلٌ يُسْنِدُهُ، فَأَطَالَ مَخَافَةَ أَنْ يُقْصَرَ عَمَّا كَانَ يَقْنُتُ.

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: آدمی جب وتر کی آخری رکعت میں تلاوت کر کے فارغ ہوگا تو پھر وہ دعائے قنوت پڑھے

گا اور اُسے بلند آواز میں پڑھے گا پھر جب وہ رکوع میں جانے لگے گا تو پھر تکبیر کہے گا۔

مغیرہ نے ابراہیم نخعی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ وہ وتر میں دونوں ہاتھ بلند کرتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں:

دعائے قنوت میں قیام اتنا لمبا ہوگا جتنی دیر میں سورہ انشقاق کی تلاوت کی جاتی ہے۔

ابراہیم نخعی کے بارے میں یہ بات بھی منقول ہے وہ یہ فرماتے ہیں: میں اسود کے پاس آیا وہ بیمار تھا، میں کھڑا ہوا، ایک شخص

نے انہیں ٹیک دی تو انہوں نے اس اندیشہ کے تحت طول دیا کہ کہیں وہ قنوت میں کوئی کمی نہ کر دیں۔

5002 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ مُغِيرَةَ، عَنِ سَمَاكِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ ابراہیم نخعی سے منقول ہے۔

5003 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ بِحِذَاءِ صَدْرِهِ إِذَا دَعَا، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهَا وَجْهَهُ قَالَ: وَرَأَيْتُ مَعْمَرًا يَفْعَلُهُ، فَلَنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: اَتْرَفُ يَدَيْكَ إِذَا دَعَوْتَ فِي الْوُتْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ فِي آخِرِهِ قَلِيلًا

* * زہری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ جب دعا کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھ سینے تک بلند کرتے تھے پھر آپ انہیں اپنے سینے پر پھیر لیتے تھے۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے معمر کو بھی ایسے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

(کتاب کے راوی بیان کرتے ہیں:) ہم نے امام عبدالرزاق سے دریافت کیا: جب آپ وتر کی نماز میں دعا کرتے ہیں تو دونوں ہاتھ بلند کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! آخر میں تھوڑی سی دیر کے لیے بلند کرتا ہوں۔

بَابُ الصَّلَاةِ الَّتِي تُكْفَرُ

باب: وہ نماز جو کفارہ بن جاتی ہے

5004 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: أَلَا أَهْبُ لَكَ؟ أَلَا أَمْنُحُكَ؟ أَلَا أُؤْتِرُكَ؟ أَلَا؟ أَلَا؟ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَقْطَعُ لِي مَاءَ الْبَحْرَيْنِ قَالَ: "تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ وَسُورَةَ، ثُمَّ تَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعَدَّهَا وَاحِدَةً حَتَّى تَعُدَّ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرَكِعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ رَاكِعٌ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ رَافِعٌ، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ سَاجِدٌ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ جَالِسٌ، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ سَاجِدٌ، ثُمَّ تَرْفَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا وَأَنْتَ جَالِسٌ، فَتِلْكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ، وَفِي الثَّلَاثِ الْآخِرِ كَذَلِكَ، فَذَلِكَ ثَلَاثٌ مِائَةٌ مَجْمُوعَةً، وَإِذَا فَرَّقْتَهَا كَانَتْ أَلْفًا وَمِائَتَيْنِ - وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يَقْرَأَ السُّورَةَ الَّتِي بَعْدَ أُمَّ الْقُرْآنِ عِشْرِينَ آيَةً فَصَاعِدًا - تَصْنَعُهُنَّ فِي يَوْمِكَ أَوْ لَيْلَتِكَ، أَوْ جَمْعَتِكَ، أَوْ فِي شَهْرٍ، أَوْ فِي سَنَةٍ، أَوْ فِي عُمْرِكَ، فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ، أَوْ عَدَدَ الْقَطْرِ، أَوْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ، أَوْ عَدَدَ أَيَّامِ الدَّهْرِ لَغَفَرَهَا اللَّهُ لَكَ"

* * حضرت جعفر بن ابوطالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ان سے فرمایا: کیا میں تمہیں کوئی چیز بہ نہ کروں! کیا میں تمہیں کوئی تحفہ نہ دوں! کیا میں تمہیں ترجیحی چیز نہ دوں! کیا میں یہ نہ کروں! کیا میں وہ نہ کروں؟ راوی کہتے ہیں: یہاں تک کہ میں نے یہ گمان کیا کہ شاید نبی اکرم ﷺ بحرین کا پانی مجھے جاگیر کے طور پر دے دیں گے۔ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

"تم چار رکعت ادا کرو جن میں سے ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک سورت کی تلاوت کرو پھر الحمد للہ سبحان اللہ"

اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھو اور تم اسے ایک ایک کر کے گن کے پندرہ مرتبہ پڑھو پھر تم رکوع میں جاؤ اور رکوع کی حالت میں ن کلمات کو دس مرتبہ پڑھو پھر تم اٹھو اور ان کلمات کو بیٹھ کر دس مرتبہ پڑھو پھر تم سجدہ میں جاؤ اور سجدہ کی حالت میں ان کلمات کو دس مرتبہ پڑھو پھر تم اٹھو اور بیٹھ کر ان کلمات کو دس مرتبہ پڑھو تو یہ پچھتر ہو جائیں گے بعد والی تین رکعت بھی اسی طرح ادا کرو تو یہ مجموعی طور پر تین سو کلمات ہو جائیں گے اور جب تم انہیں الگ الگ کرو گے تو یہ کلمات مجموعی طور پر ایک ہزار دو سو (یعنی بارہ سو) ہو جائیں گے۔

(راوی بیان کرتے ہیں:) نبی اکرم ﷺ اس بات کو مستحب سمجھتے تھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت تلاوت کی جائے اُس میں بیس آیات یا اس سے زیادہ کی تلاوت کی جائے۔

(نبی اکرم ﷺ نے یہ بھی فرمایا:) تم یہ نمازرات میں ادا کر لو یا دن میں ادا کر لو یا ہفتہ بعد ادا کر لو یا مہینہ میں ایک مرتبہ ادا کر لو یا سال میں ایک مرتبہ ادا کر لو یا زندگی میں ایک مرتبہ ادا کر لو اگر تمہارے گناہ آسمان کے ستاروں کی تعداد جتنے ہوں یا بارش کے قطروں کی تعداد جتنے ہوں یا ریت کے ذروں کی تعداد جتنے ہوں یا زمانہ کے دنوں کی تعداد جتنے ہوں تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا۔

بَابُ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ

باب: جو شخص نماز کو چھوڑ دیتا ہے

5005 - حدیث نبوی: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ مُتَعَمِّدًا أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ

*** حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”جو شخص جان بوجھ کر عصر کی نماز کو ترک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔“

5006 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ أَنْ يَكْفُرَ إِلَّا أَنْ يَدَعَ صَلَاةَ مَكْتُوبَةً

*** حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”تم میں سے کسی ایک شخص کے اور اُس کے کفر کرنے کے درمیان صرف یہ فرق ہے کہ وہ فرض نماز کو ترک کر دے۔“

5007 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ إِلَّا أَنْ يَتْرُكَ الصَّلَاةَ

*** حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”بندہ اور شرک کے درمیان (فرق) صرف یہ ہے کہ وہ نماز کو ترک کر دے۔“

5008 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ الْكَلَّاعِيِّ، أَنَّ مَكْحُولًا أَخْبَرَهُ مِثْلَهُ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: يَا أَبَا وَهْبٍ مَنْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ

*** مکحول بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”جو شخص جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذمہ اُس سے لاطعلق ہو جاتا ہے۔“

امام عبد الرزاق بیان کرتے ہیں: یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ مکحول کے حوالے سے نبی اکرم ﷺ سے منقول ہے جس

میں یہ الفاظ ہیں: راوی نے اُن سے کہا: اے ابو وہب! جس شخص سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ لاطعلق ہو جائے وہ شخص کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔

5009 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: تَرَكَ الصَّلَاةَ شِرْكًا

*** حضرت جابر رضی اللہ عنہ، نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں:

”نماز کو ترک کرنا شرک ہے۔“

5010 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِأَحَدٍ تَرَكَ الصَّلَاةَ

*** حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے:

”ایسے کسی شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز کو ترک کر دے۔“

5011 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ

قَالَ: "بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى ثَمَانِيَةِ أَشْهُمٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ

الزَّكَاةِ، وَحَجُّ الْبَيْتِ، وَصَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ، وَالْجِهَادِ، وَالْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَقَدْ خَابَ مَنْ

لَا سَهْمَ لَهُ"

*** حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: اسلام کی بنیاد آٹھ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے

علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے مہینہ میں

روزے رکھنا، جہاد کرنا، نیکی کا حکم دینا، بُرائی سے منع کرنا اور ایسا شخص رسوائی کا شکار ہو جاتا ہے (یا برباد ہو جاتا ہے) جس کا کوئی

حصہ نہ ہو۔

5012 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَوَارِيُّ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ شَابٌّ، فَقَالَ: أَلَا تُجَاهِدُ؟ فَسَكَتَ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ عَادَ فَسَكَتَ وَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: "إِنَّ الْإِسْلَامَ بِنِي عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمٍ: إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِتْيَاءِ الزَّكَاةِ لَا تُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَإِنَّ الْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ مِنَ الْعَمَلِ الْحَسَنِ"

*** حواری بن زیاد بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک نوجوان ان کے پاس آیا اور بولا: آپ جہاد میں حصہ کیوں نہیں لیتے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خاموش رہے پھر انہوں نے اس شخص سے منہ پھیر لیا، اس شخص نے اپنا سوال دہرایا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خاموش رہے انہوں نے اس شخص سے منہ پھیر لیا، اس شخص نے ان سے پھر یہ سوال کیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اسلام کی بنیاد چار ستونوں پر ہے: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، تم ان دونوں کے درمیان فرق نہ کرو رمضان کے روزے رکھنا اور جو شخص وہاں تک جانے کی استطاعت رکھتا ہو اس کے لیے بیت اللہ حج کرنا بے شک جہاد اور صدقہ اچھے اعمال میں سے ہیں۔

5013 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، قَالَا لِرَجُلٍ: صَلَّى الصَّلَاةَ الَّتِي افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكَ لَوْ قَتَلَهَا، فَإِنَّ فِي تَفْرِيطِهَا الْهَلَكَةَ

*** ابن سیرین بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص سے فرمایا: تم اس نماز کو اس کے وقت پرادا کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض قرار دی ہے کیونکہ اس کو وقت پرادانہ کرنا ہلاکت ہے۔

5014 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: أَيُّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الْأَعْمَالُ الصَّلَوَاتُ لَوْ قَتَلْتَهُنَّ، وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

*** حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا میں نے عرض کی: کون سا عمل زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اعمال میں (سب سے زیادہ فضیلت والا عمل) نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔

بَابُ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ آذَانٌ وَاقَامَةٌ

باب: کیا خواتین پر آذان دینا اور اقامت کہنا لازم ہے؟

5015 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ عَطَاءٍ قَالَ: تُقِيمُ الْمَرْأَةُ لِنَفْسِهَا إِذَا أَرَادَتْ أَنْ

تُصَلِّيَ

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ طَاوُسٌ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُؤَدِّنُ وَتُقِيمُ

* * * عطاء بیان کرتے ہیں: خاتون اپنے لیے اقامت کہے گی جب وہ نماز ادا کرنے کا ارادہ کرے گی۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں: طاؤس فرماتے ہیں: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اذان بھی دیتی تھیں اور اقامت بھی کہتی تھیں۔

5016 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّمِيمِ، وَابِرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: كَانَتْ

عَائِشَةُ تُؤَدِّنُ وَتُقِيمُ

* * * طاؤس بیان کرتے ہیں: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اذان بھی دیتی تھیں اور اقامت بھی کہتی تھیں۔

5017 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى

النِّسَاءِ إِقَامَةٌ

* * * مجاہد فرماتے ہیں: خواتین پر اقامت کہنا لازم نہیں ہے۔

5018 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا كَانَ مَعَ النِّسَاءِ رَجُلٌ فَلَا يُمْنَعُ

لَهُنَّ أَنْ يُؤَدِّنَ وَأَنْ يُقَدَّ حِينَئِذٍ

* * * عطاء فرماتے ہیں: جب خواتین کے ساتھ ایک مرد موجود ہو تو پھر ان کے لیے اذان دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو

گی اس موقع پر وہ اقامت بھی کہیں گی۔

5019 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ

* * * زہری فرماتے ہیں: خواتین پر اقامت کہنا لازم نہیں ہے۔

5020 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَا: لَيْسَ عَلَى

النِّسَاءِ آذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ

* * * حسن بصری اور سعید بن مسیب فرماتے ہیں: خواتین پر اذان دینا یا اقامت کہنا لازم نہیں ہے۔

5021 - اقوال تابعین: الثَّوْرِيُّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ ابِرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ آذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ، وَذَكَرَهُ

عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ ابِرَاهِيمَ

* * * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: خواتین پر اذان دینا یا اقامت کہنا لازم نہیں ہے۔

عثمان نامی راوی نے بھی یہ روایت اپنی سند کے ساتھ ابراہیم نخعی کے حوالے سے نقل کی ہے۔

5022 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ

آذَانٌ وَلَا إِقَامَةٌ

* * * نافع نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے: خواتین پر اذان دینا یا اقامت کہنا لازم نہیں ہے۔

5023 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ إِقَامَةٌ

*** حسن بصری فرماتے ہیں: خواتین پر اقامت کہنا لازم نہیں ہے۔

5024 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ اَذَانٌ وَلَا اِقَامَةٌ

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: خواتین پر اذان دینا یا اقامت کہنا لازم نہیں ہے۔

5025 - آثار صحابہ: مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلَهُ

*** عکرمہ کے حوالے سے بھی اس کی مانند منقول ہے۔

بَابُ فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مِنَ الشِّيَابِ

باب: عورت کتنے کپڑوں میں نماز ادا کرے گی؟

5026 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ

*** حسن بصری فرماتے ہیں: عورت قمیص اور اوڑھنی میں نماز ادا کرے گی۔

5027 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اُمِّ الْحَسَنِ قَالَتْ: رَأَيْتُ اُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ

*** ام حسن بیان کرتی ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو قمیص اور اوڑھنی میں نماز ادا

کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

5028 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ اُمِّهِ، اَنَّهَا سَأَلَتْ اُمَّ سَلَمَةَ فِي

كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ؟ قَالَتْ: فِي الْخِمَارِ وَالِدِرْعِ السَّبْعِ الَّذِي يُغَيَّبُ ظَهْرَ قَدَمَيْهَا

*** محمد بن ابوبکر اپنی والدہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: انہوں نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا: عورت کتنے کپڑوں

میں نماز ادا کرے گی؟ انہوں نے جواب دیا: اوڑھنی میں اور اتنی لمبی قمیص میں جو اس کے پاؤں کو چھپالے۔

5029 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَمَّنْ سَأَلَ عَائِشَةَ: فِي كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ

مِنَ الشِّيَابِ؟ فَقَالَتْ لَه: سَلْ عَلِيًّا، ثُمَّ ارْجِعْ اِلَيَّ فَاخْبِرْنِي بِالَّذِي يَقُولُ لَكَ قَالَ: فَاتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: فِي

الْخِمَارِ وَالِدِرْعِ السَّبْعِ، فَرَجَعَ اِلَى عَائِشَةَ فَاخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ

*** مکحول نے اس شخص کا یہ بیان نقل کیا ہے: جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ سوال کیا کہ عورت کتنے کپڑوں میں نماز

ادا کرے گی؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس سے فرمایا: تم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کرو اور پھر میرے پاس واپس آ کر مجھے یہ بتانا

جو انہوں نے تمہیں جواب دیا ہوگا۔ راوی کہتے ہیں: پھر وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے دریافت کیا تو حضرت

علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اوڑھنی اور لمبی قمیص میں۔ وہ شخص سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس گیا اور سیدہ عائشہ کو بتایا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے

فرمایا: انہوں نے سچ کہا ہے۔

5030 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّ ثَوْرٍ، عَنْ زَوْجِهَا بِشْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ

عَبَّاسٍ: فِي كَيْفِ تَصَلِّيِ الْمَرْأَةِ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ

* * بشر نامی راوی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا: عورت کتنے کپڑوں میں نماز ادا کرے گی؟ انہوں نے جواب دیا: قمیص اور اوڑھنی میں۔

5031 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرْتَنِي لَيْلَى بِنْتُ سَعْدٍ أَنَّهَا رَأَتْ عَائِشَةَ أُمَّ

الْمُؤْمِنِينَ تَصَلِّي فِي الدَّارِ مُتَوَزَّرَةً، وَدِرْعٌ وَخِمَارٌ كَيْفَ لَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُ ذَلِكَ

* * لیلی بنت سعد بیان کرتی ہیں: انہوں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو گھر میں تہبند قمیص اور چادر میں نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا جو موٹی چادر تھی اس کے علاوہ ان کے جسم پر کوئی اور (اضافی) لباس نہیں تھا۔

5032 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرْتَنِي حُكَيْمَةُ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّتْ فِي دِرْعٍ وَإِزَارٍ تَقْنَعْتُهُ حَتَّى مَسَّ الْأَرْضَ وَلَمْ تَتَزَّرْهُ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا خِمَارٌ

* * امیہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے قمیص اور تہبند میں نماز ادا کی جسے انہوں نے سر سے لے کر پورے جسم تک لپیٹا ہوا تھا وہ زمین کے ساتھ مس ہو رہا تھا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس وقت تہبند نہیں باندھا تھا اور ان کے سر پر (الگ سے) چادر نہیں تھی۔

5033 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَوْ أَخَذَتِ الْمَرْأَةُ ثَوْبًا

فَتَقْنَعَتْ بِهِ حَتَّى لَا يَرَى مِنْ شَعْرِهَا شَيْءٌ أَجْزَأَ عَنْهَا مَكَانَ الْخِمَارِ

* * عکرمہ بیان کرتے ہیں: اگر کوئی عورت بڑا کپڑا لے کر اسے سر پر لے یہاں تک کہ اس کے بالوں میں سے کوئی چیز نظر نہ آئے تو یہ چادر کی جگہ اس کے لیے کفایت کر جائے گا۔

5034 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سُئِلَ عِكْرِمَةُ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ

فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا لَمْ يَكُنْ شَفَافًا

* * یحییٰ بن کثیر بیان کرتے ہیں: عکرمہ سے سوال کیا: کیا کوئی عورت قمیص اور چادر میں نماز ادا کر سکتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! جبکہ وہ باریک نہ ہو۔

5035 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "يَكْفِيهَا دِرْعُهَا إِذَا

كَانَ سَابِعًا، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: مَعَ الْخِمَارِ"

* * ہشام بن عروہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: عورت کے لیے اس کی قمیص کافی ہوگی جبکہ وہ لمبی ہو۔ (راوی)

کہتے ہیں:) میرا خیال ہے انہوں نے ساتھ چادر کا بھی ذکر کیا تھا۔

5036 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِهَا وَخِمَارِهَا وَازَارِهَا، وَأَنْ تَجْعَلَ الْجِلْبَابَ أَحَبُّ إِلَيَّ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ دِرْعُهَا وَخِمَارُهَا رَقِيقًا أَحَدُهُمَا؟ قَالَ: فَالْجِلْبَابُ إِذَا عَلِيَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ الْمَلَائِكَةِ أَنَّهَا مَعَهَا، قُلْتُ: دِرْعُهَا إِلَى الرَّكْبَتَيْنِ قَالَ: لَا حَتَّى يَكُونَ سَابِغًا كَثِيفًا قَالَ: وَلَتَنْزِيرِ الْإِزَارِ وَتَشُدُّ بِهِ عَلَى حَقْوَيْهَا

*** ابن جریر نے عطاء کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: وہ فرماتے ہیں: عورت قمیص، چادر اور تہبند میں نماز ادا کرے گا اور اگر وہ اوپر مزید بڑی چادر لے لیتی ہے تو یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔ میں نے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر اس کی قمیص یا چادر میں سے کوئی ایک چیز باریک ہو؟ انہوں نے فرمایا: تو ایسی صورت میں اس عورت کو بڑی چادر اوپر لینی پڑے گی اور یہ اس کے ساتھ موجود فرشتوں کی وجہ سے ہوگا۔ میں نے دریافت کیا: اگر اس کی قمیص گھٹنوں تک آتی ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! جب تک وہ لمبی اور موٹی نہیں ہوتی، ورنہ پھر عورت کو تہبند لے کر اسے اپنے زیریں جسم پر باندھنا پڑے گا۔

5037 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تَزْهَدَنَّ فِي إِخْفَاءِ الْحَقْوِ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ مَا تَحْتَ الْحَقْوِ خَافِيًا فَهُوَ أَسْتَرٌ، فَإِنْ يَكُ فِيهِ شَيْءٌ فَهُوَ أَخْفَى لَهُ

*** حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: تم اپنے پہلو کو پوشیدہ رکھنے کے معاملہ میں لا تعلقی اختیار نہ کرو کیونکہ اگر پہلو کے نیچے کوئی اور چیز جو پردہ کے لیے ہوتی ہے وہ پہنی ہوگی تو اس سے زیادہ ستر ہو جائے گا

5038 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا جَارِيَةٍ حَاضَتْ فَلَمْ تَخْتَمِرْ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهَا صَلَاةً

*** حسن بصری روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”جو بھی لڑکی حائضہ ہو جائے اور پھر وہ چادر نہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا“۔

5039 - اقوال تابعین: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا تَخْرُجُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مُنْتَطِقَةً، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ:

كَانَ يُقَالُ ذَلِكَ

*** عطاء فرماتے ہیں: عورت چادر لیے بغیر باہر نہیں نکلے گی۔

عمر بن دینار بیان کرتے ہیں: یہ بات کہی جاتی ہے (عورت چادر لیے بغیر باہر نہیں نکلے گی)۔

5040 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا صَلَّتِ الْحُرَّةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ بِغَيْرِ خِمَارٍ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهَا صَلَاةً

* * مجاہد بیان کرتے ہیں: جب آزاد عورت جو بالغ ہو چکی ہو وہ چادر کے بغیر نماز ادا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا۔

5041 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرْتُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ اخْتَمَرَتْ وَاجِبٌ عَلَيْهَا مَا عَلَى امِّهَا

* * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جب عورت حیض والی ہو جائے (یعنی بالغ ہو جائے) تو اس پر چادر لینا واجب ہو جائے گا، یہ اس کی ماں پر لازم نہیں رہے گا۔

5042 - اقوال تابعین: ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: يُقَالُ: إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ يُقْبَلْ لَهَا صَلَاةٌ حَتَّى تَخْتَمِرَ وَتُوَارِيَ رَأْسَهَا

* * سلیمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں: یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب عورت کو حیض آجائے تو اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ چادر نہیں لیتی اور اپنے سر کو ڈھانپ نہیں لیتی۔

5043 - حدیث نبوی: مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بَلَغْنِي أَنَّ امْرَأَةً سَقَطَتْ عَنْ دَابَّتِهَا، فَكَشَفَتْ عَنْهَا ثِيَابَهَا وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرِيبًا مِنْهَا فَأَعْرَضَ عَنْهَا، فَقِيلَ: إِنَّ عَلَيْهَا سَرَاوِيلَ، فَقَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُتَسَرُّوْلَاتِ

* * مجاہد بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت اپنی سواری سے گر گئی، اس کے کپڑے پھیل گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب موجود تھے آپ نے اس سے منہ پھیر لیا، عرض کی گئی: اس نے شلوار پہنی ہوئی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ شلوار پہننے والی عورتوں پر رحم کرے!

5044 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّ لَا تَشْبَهُ بِالرِّجَالِ

* * ابن سیرین کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ عورت جب نماز ادا کرے تو اس کی گردن میں کوئی ہار موجود نہ ہو۔ میں نے دریافت کیا: اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: کیونکہ وہ مردوں کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتی ہے۔

5045 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ قَالَ: كَتَبَتْ أُمُّ الْفَضْلِ ابْنَةُ غَيْلَانَ وَهِيَ ابْنَةُ يَزِيدَ بْنِ الْمُهَلَّبِ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: هَلْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ؟ قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهَا: لَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ إِلَّا وَفِي عُنُقِهَا قِلَادَةٌ قَالَ: وَإِنْ لَمْ تَجِدِ إِلَّا سَيْرًا

* * تیمی کے صاحبزادے نے اپنے والد کے حوالے سے ایک صاحب جن کا نام ابراہیم تھا، ان کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ نبی ان کی صاحبزادی ام فضل نے جو یزید بن مہلب کی صاحبزادی ہیں، اس خاتون نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ کیا

کوئی عورت ایسی حالت میں نماز ادا کر سکتی ہے؟ جبکہ اُس کی گردن میں کوئی ہار نہ ہو؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اُسے جوابی خط میں لکھا: عورت ایسی حالت میں نماز ادا نہ کرے کہ جب اُس کی گردن میں ہار موجود نہ ہو۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا: اگر اُسے صرف تمہ ملتا ہے تو اُسے ہی پہن کر نماز ادا کرے۔

5046 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن عیینة، عن عمرو بن دینار، عن حسن بن محمد قال:
 كانت بالمدينة امرأة يقال لها: شر، واسمها دملمكة، فامرها عمر أن تضع الجلباب
 * * حسن بن محمد بیان کرتے ہیں: مدینہ منورہ میں ایک خاتون تھی جسے شر کہا جاتا تھا، حالانکہ اُس کا نام دملمکہ تھا،
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُسے یہ ہدایت کی تھی کہ وہ بڑی چادر اتار دے۔

5047 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جریج قال: قلت لعطاء: الجارية التي لم تحض وهي تصلی
 قال: حسبها ازارها

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: جس لڑکی کو ابھی حیض نہیں آیا اور وہ نماز ادا کرتی ہے تو انہوں نے جواب دیا: اُس کے لیے تہبند کافی ہے (یعنی سر پر چادر لینے کی ضرورت نہیں ہے)۔

5048 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جریج قال: أخبرني غير واحد، من أهل المدينة: أنه قال:
 ليس على التي لم تحض حمرة ولا جلباب

* * ابن جریج نے کئی حضرات کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: جس لڑکی کو ابھی حیض نہیں آیا، اُس پر دوپٹہ یا بڑی چادر لینا لازم نہیں ہے۔

5049 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن اسماعيل الحنفي، عن أبي زيد، عن عائشة قالت:
 إنما الخمار ما وارى الشعر والبشر

* * سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: خمار (اورٹھنی یا دوپٹہ) وہ ہوتا ہے جو بالوں اور جلد کو چھپا دے۔

5050 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن وهب، مولى أبي أحمد،
 عن أم سلمة " أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر فقال: لية لا ليتين

* * سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، وہ اُس وقت سر پر کپڑا باندھ رہی تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک پیچ رکھنا، دو نہیں۔

5051 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن ابن سيرين، كره أن تصلی المرأة وأذنها
 خارجة من الخمار

* * ابن سیرین کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ جب کوئی عورت نماز ادا کرے تو اُس کے کان دوپٹہ سے باہر ہوں۔

بَابُ الْخِمَارِ

باب: دوپٹہ کا بیان

5052 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا أَدْنَى مَا تَكْفِي الْأَمَةَ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ: نَقُولُ فِيهَا مَا قَالَ عُمَرُ: "أَلْقَتْ فِرْوَتَهَا وَرَاءَ الدَّارِ، فَيَكْفِيهَا إِزَارُهَا وَدِرْعُهَا قَالَ: وَتَجْعَلُ بَعْضَ دِرْعِهَا عَلَى رَأْسِهَا، قُلْتُ: فَكَانَتْ نَاكِحَةً عَبْدًا؟ قَالَ: وَكَذَلِكَ أَمَةٌ عِنْدَ عَبْدِ، قُلْتُ: فَكَانَتْ نَاكِحَةً حُرًّا؟ قَالَ: فَلْتَلْفِ ذَلِكَ مِنْهَا لِتُصَلِّيَ فِي إِزَارِهَا وَدِرْعِهَا وَخِمَارِهَا

* * * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کنیز کے لیے کتنے کپڑے کافی ہوں گے؟ انہوں نے جواب دیا: ہم اس بارے میں وہی کہتے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے کوٹ کو گھر میں رکھ دے گی اور اس کے لیے اس کا تہبند اور قمیص کافی ہوں گے۔ انہوں نے یہ بات بھی بیان کی ہے: وہ اپنی قمیص کا کچھ حصہ اپنے سر پر ڈال لے گی۔ میں نے دریافت کیا: اگر اس نے کسی غلام کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہو؟ انہوں نے جواب دیا: اگر وہ کنیز کسی غلام کے نکاح میں ہو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ میں نے دریافت کیا: اگر اس کنیز نے کسی آزاد شخص کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہو؟ انہوں نے فرمایا: اس صورت میں وہ اپنے سر پر کپڑا لپیٹے گی اور اپنے تہبند میں قمیص میں اور دوپٹہ میں نماز ادا کرے گی۔

5053 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَأْمُرُ الْأَمَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ عَبْدًا أَوْ حُرًّا أَنْ تَخْتِمَرَ قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى عَلَى الْأَمَةِ خِمَارًا إِلَّا أَنْ تَتَزَوَّجَ أَوْ يَطَّأَهَا سَيْدُهَا

* * * معمر نے اس شخص کا بیان نقل کیا ہے: جس نے حسن بصری کو ایک کنیز کو یہ ہدایت دیتے ہوئے سنا کہ وہ چادر لے کر اس کنیز نے کسی غلام کے ساتھ یا کسی آزاد شخص کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں: حسن بصری کے نزدیک کنیز پر سر پر دوپٹہ لینا لازم نہیں ہے البتہ اگر وہ شادی کر لیتی ہے یا اس کا آقا اس کے ساتھ صحبت کرتا ہے (تو اس پر دوپٹہ لینا لازم ہوگا)۔

5054 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دُرَاعَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، أُخْبِرْتُ أَنَّ الْإِمَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ وَبَعْدَهُ كُنَّ لَا يُصَلِّينَ حَتَّى تَجْعَلَ أَحَدَهُنَّ إِزَارَهَا عَلَى رَأْسِهَا مُتَّقِنَةً، أَوْ خِمَارًا أَوْ حِرْقَةً يُغَيَّبُ فِيهَا رَأْسُهَا

* * * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا کوئی عورت دراعہ (مخصوص قسم کی قمیص) میں نماز ادا کر سکتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اور اس کے بعد بھی کنیزیں اس وقت تک نماز ادا نہیں کرتی تھیں جب تک وہ اپنی چادر کا کچھ حصہ سر پر نہیں لیتی تھیں یا سر پر باقاعدہ چادر نہیں لیتی تھیں یا کپڑے کا کوئی ٹکڑا سر پر باندھ نہیں لیتی تھیں۔

5055 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُنَّ الْإِمَاءُ إِذَا صَلَّيْنَ

تَلْقِينَ عَلَى رُءُوسِهِنَّ خِرْقَةً، كَذَلِكَ كُنَّ يَفْعَلْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ:
وَقَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ

*** عطاء فرماتے ہیں: کنیزیں جب نماز ادا کریں گی تو وہ اپنے سر پر کپڑے کا کوئی ٹکڑا باندھ لیں گی۔ نبی اکرم ﷺ کے زمانہ اقدس میں کنیزیں اسی طرح کیا کرتی تھیں۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے سفیان ثوری کو ابن جریج کے حوالے سے اس کی مانند روایت نقل کرتے ہوئے سنا ہے۔

5056 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ شُرَيْحِ قَالَ: تُصَلِّي الْأَمَةُ بِغَيْرِ خِمَارٍ تُصَلِّي كَمَا تَخْرُجُ

*** قاضی شریح بیان کرتے ہیں: کنیز سر پر چادر لیے بغیر نماز ادا کر سکتی ہے جس طرح وہ چادر لیے بغیر گھر سے باہر جا سکتی ہے۔

5057 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتُصَلِّي الْأَمَةُ الَّتِي قَدْ حَاضَتْ بِغَيْرِ خِمَارٍ؟ قَالَ: نَعَمْ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کوئی کنیز جب بالغ ہو چکی ہو تو کیا وہ چادر کے بغیر نماز ادا کر سکتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

5058 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغْنِي عَنْ أَشْيَاحٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ الْخُمَرَ عَلَى الْأَمَاءِ إِذَا حِضْنَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ الْجَلَابِيبُ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: اہل مدینہ کے بعض بزرگوں کے حوالے سے یہ روایت مجھ تک پہنچی ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں: جب کنیزیں بالغ ہو جائیں تو ان پر چادر لینا لازم ہوگا وہ بڑی چادریں نہیں لیں گی جو آزاد عورتوں کی نشانی ہوتی ہیں۔

5059 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى الْأَمَاءَ مِنَ الْجَلَابِيبِ أَنْ يَتَشَبَّهْنَ بِالْحَرَائِرِ "، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ عَقِيلَةَ أَمَةَ

ابن جریج نے عطاء سے روایت کی ہے کہ عطاء نے کہا: "عمر بن خطاب نے عقیلہ کو مارا کیونکہ وہ ایک آزاد عورت کی طرح دکھائی دیتی تھی۔"

*** عطاء بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی کنیز کی اس بات پر پٹائی کی تھی کہ اس نے بڑی چادر لی ہوئی تھی۔

5060 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَجَلَّبُ الْمَرْأَةُ وَلَا خِمَارَ عَلَيْهَا؟

قَالَ: لَا يَصُرُّ

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا کوئی عورت محض بڑی چادر لے گی جبکہ اُس نے چھوٹی چادر نہ لی ہو؟ انہوں نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

5061 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ، رَأَى جَارِيَةً خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ مُتَزَيِّنَةً عَلَيْهَا جِلْبَابٌ، أَوْ مِنْ بَيْتِ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عُمَرُ الْبَيْتَ فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ الْجَارِيَةُ؟ فَقَالُوا: أَمَةٌ لَنَا، أَوْ قَالُوا: أَمَةٌ لِأَلِ فُلَانٍ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ: اتَّخِرْ جُونَ إِمَاءِ كُمْ بِزِينَتِهَا تَفْتِنُونَ النَّاسَ

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک کنیز کو دیکھا جو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے آراستہ ہو کر نکلی اُس نے بڑی چادر لی ہوئی تھی۔ (راوی کوشک ہے) یا شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اُس گھر میں داخل ہوئے اور دریافت کیا: یہ لڑکی کون تھی؟ انہوں نے کہا: ہماری کنیز تھی۔ (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں: انہوں نے کہا: فلاں خاندان کی کنیز تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُن پر غصہ کا اظہار کیا اور بولے: کیا تم اپنی کنیزوں کو اس طرح آراستہ کر کے باہر نکالتے ہو کہ وہ لوگوں کو آزمائش کا شکار کریں۔

5062 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ عُمَرَ رَأَى وَهُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ أَمَةً خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ تَجُوسُ النَّاسَ مُلْتَبِسَةً لِبَاسِ الْحَرَائِرِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ، فَقَالَ: مِنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِكَ تَجُوسُ الرِّجَالِ؟ قَالَتْ: تِلْكَ جَارِيَةٌ، جَارِيَةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: فَمَا يَحْمِلُكَ أَنْ تُلْبِسِي جَارِيَةَ أَخِيكَ لِبَاسِ الْحَرَائِرِ؟ فَقَدْ دَخَلْتُ عَلَيْكَ، وَلَا أَرَاهَا، إِلَّا حُرَّةً فَارَدْتُ أَنْ أُعَاقِبَهَا

*** صفیہ بنت ابوعبید بیان کرتی ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دینے کے دوران ایک کنیز کو دیکھا کہ وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے باہر نکلی اور اُس نے لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروالی کیونکہ اُس نے آزاد عورتوں کا سالباس پہنا ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خطبہ دے کر فارغ ہوئے تو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے، انہوں نے دریافت کیا: وہ عورت کون تھی جو تمہارے ہاں سے نکلی تھی اور مردوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا رہی تھی؟ تو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے کہا: وہ ایک کنیز تھی جو عبدالرحمن کی کنیز تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم نے اپنے بھائی کی کنیز کو آزاد عورتوں کا سالباس کیوں پہنایا؟ جب میں تمہارے ہاں آیا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی آزاد عورت ہے، میں نے تو یہ ارادہ کیا تھا کہ میں اُس پر سختی کا اظہار کروں گا۔

5063 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا صَلَّتْ أَمَةٌ عَيْبَتْ رَأْسَهَا بِخِمَارِهَا، أَوْ خِرْقَةٍ كَذَلِكَ كُنَّ يَصْنَعْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُ، وَكَذَلِكَ رَأَيْتُهُ فِي

کتاب الثوری

*** عطاء فرماتے ہیں: جب کوئی کینز نماز ادا کرے گی، تو وہ چھوٹی چادر یا کپڑے کے ٹکڑے کے ذریعہ اپنے سر کو ڈھانپ لے گی، نبی اکرم ﷺ کے زمانہ اقدس میں اور اس کے بعد کینزیں اسی طرح کیا کرتی تھیں۔
(امام عبدالرزاق فرماتے ہیں: میں نے سفیان ثوری کی کتاب میں اسی طرح روایت دیکھی ہے۔)

5064 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عُمَرَ، ضَرَبَ أُمَّةً لَيْلٍ لَأَنَّ رَأَاهَا مُتَقِنَةً قَالَتْ: أَكْشِفِي رَأْسِي، لَا تَشْبِهِينَ بِالْحَرَائِرِ

*** حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خاندان کی ایک کینز کی اس بات پر پٹائی کی تھی کہ انہوں نے اُسے سر ڈھانپ کر چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا: تم اپنے سر سے کپڑا اتار دو اور آزاد عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو۔

5065 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَنْهَى الْأَمَاءَ أَنْ يَلْبَسْنَ الْجَلَابِيبَ

*** حسن بن محمد بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کینزوں کو اس بات سے منع کرتے تھے کہ وہ بڑی چادریں اوڑھیں۔

بَابُ تَكْبِيرِ الْمَرْأَةِ بِيَدَيْهَا، وَقِيَامِ الْمَرْأَةِ وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا

باب: عورت کا دونوں ہاتھوں کے ساتھ تکبیر کرنا، عورت کا قیام کرنا، اُس کا رکوع کرنا اور اُس کا سجدہ کرنا

5066 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَشِيرُ الْمَرْأَةَ بِيَدَيْهَا كَالرِّجَالِ بِالتَّكْبِيرِ قَالَ: لَا تَرْفَعُ بِذَلِكَ يَدَيْهَا كَالرِّجَالِ، وَأَشَارَ فَخَفَضَ يَدَيْهِ جِدًّا وَجَمَعَهُمَا إِلَيْهِ وَقَالَ: إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هَيْئَةً لَيْسَتْ لِلرِّجَالِ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا عورت بھی تکبیر کہتے ہوئے مردوں کی طرح دونوں ہاتھوں کے ذریعہ اشارہ کرے گی؟ انہوں نے جواب دیا: عورت مردوں کی طرح زیادہ ہاتھ بلند نہیں کرے گی، انہوں نے اشارہ کر کے بتایا اور دونوں ہاتھ خاصے نیچے رکھیں، انہوں نے اُن دونوں کو ملا دیا تھا، انہوں نے یہ فرمایا کہ عورت کی جسامت ایسی ہوتی ہے جو مردوں کی نہیں ہوتی۔

5067 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَجْمَعُ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا فِي قِيَامِهَا مَا اسْتَطَاعَتْ

*** عطاء بیان کرتے ہیں: عورت قیام کے دوران جہاں تک ہو سکے گا دونوں ہاتھ ملا کر رکھے گی۔

5068 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَإِنَّهَا

تَنْضُمُ مَا اسْتَطَاعَتْ، وَلَا تَتَجَافَى لِكَيْ لَا تَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا

*** حسن بصری اور قتادہ فرماتے ہیں: جب عورت سجدہ میں جائے گی تو جہاں تک ہو سکے وہ جسم کو سمیٹ کے رکھے گی اور بازو کھلے نہیں رکھے گی اور اپنی پشت کو اونچا نہیں رکھے گی۔

5069 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَجْتَمِعُ الْمَرْأَةُ إِذَا رَكَعَتْ تَرْفَعُ يَدَيْهَا إِلَى بَطْنِهَا، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ، فَإِذَا سَجَدَتْ فَلْتَضُمُّ يَدَيْهَا إِلَيْهَا، وَتَضُمُّ بَطْنَهَا وَصَدْرَهَا إِلَى فِخْذَيْهَا، وَتَجْتَمِعُ مَا اسْتَطَاعَتْ

*** عطاء فرماتے ہیں: عورت جب رکوع میں جائے گی تو خود کو سمیٹ کے رکھے گی وہ اپنے ہاتھ اپنے پیٹ کی طرف بلند رکھے گی اور جہاں تک ہو سکے گا خود کو سمیٹ کے رکھے گی جب وہ سجدہ میں جائے گی تو دونوں بازو اپنے ساتھ ملا کے رکھے گی وہ اپنے پیٹ اور سینہ کو زانوں کے ساتھ ملا کے رکھے گی اور جہاں تک ہو سکے گا سمٹ کے رہے گی۔

5070 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئًا

*** حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ عورت اپنے سر پر کوئی چیز رکھ کر نماز ادا کرے۔

5071 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَتْ تُؤَمِّرُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَضَعَ ذِرَاعَهَا وَبَطْنَهَا عَلَى فِخْذَيْهَا إِذَا سَجَدَتْ، وَلَا تَتَجَافَى كَمَا يَتَجَافَى الرَّجُلُ، لِكَيْ لَا تَرْفَعَ عَجِيزَتَهَا

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: خواتین کو اس بات کا حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنی کلاسیاں اور اپنا پیٹ زانوں کے ساتھ ملا کے رکھیں جب وہ سجدہ کریں اور وہ اپنی کہنیوں کو یوں کھلانے رکھیں جس طرح مرد کھلا رکھتے ہیں اور وہ اپنی پشت کو اونچا نہ کریں۔

5072 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ اسْرَائِيلَ، عَنِ أَبِي اسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ، وَتُلْصِقْ فِخْذَيْهَا بِبَطْنِهَا

*** حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب عورت سجدہ کرے گی تو وہ سمٹ کے رہے گی اور اپنی زانوں کو اپنے پیٹ کے ساتھ ملا کے رکھے گی۔

5073 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا رَفَعَتْ رَأْسَهَا مِنَ السُّجُودِ فِي غَيْرِ مَثْنَى فَإِنَّهَا لَا تَقْعَى، وَلَكِنَّهَا تَجْلِسُ كَمَا تَجْلِسُ فِي مَثْنَى

*** عطاء فرماتے ہیں: جب عورت سجدہ سے سر اٹھائے گی تو "اقعاء" کے طور پر نہیں بیٹھے گی بلکہ وہ ٹانگیں بچھا کر بیٹھے گی۔

بَابُ جُلُوسِ الْمَرْأَةِ

باب: عورت کے بیٹھنے کا طریقہ

5074 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ إِذَا

جَلَسَتْ فِي مَثْنَى أَوْ أَرْبَعٍ تَرَبَّعَتْ

*** نافع بیان کرتے ہیں: سیدہ صفیہ بنت عبید جب بیٹھی تھیں تو دوزانوں بیٹھتی تھیں یا چارزانوں بیٹھتی تھیں۔

5075 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: جُلُوسُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مُتَوَرِّكَةً

عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ، وَجُلُوسُهَا لِلتَّشْهَدِ مُتَرَبِّعَةً

*** قتادہ بیان کرتے ہیں: دو سجدوں کے درمیان عورت کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ بائیں پہلو کے بل تورک کے

طور پر بیٹھے گی اور جب وہ تشهد میں بیٹھے گی تو چارزانوں بیٹھے گی۔

5076 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: جُلُوسُ الْمَرْأَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ

كَجُلُوسِهَا مَثْنَى

*** عطاء فرماتے ہیں: دو سجدوں کے درمیان عورت کے بیٹھنے کا طریقہ اسی طرح ہوگا جس طرح وہ دوزانوں بیٹھتی ہے۔

5077 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تُؤَمَّرُ الْمَرْأَةُ فِي

الصَّلَاةِ فِي مَثْنَى أَنْ تَضُمَّ فَخِذَيْهَا مِنْ جَانِبِ

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: عورت کو اس بات کی ہدایت کی جائے گی کہ وہ نماز میں دوزانوں بیٹھے اور اپنے زانوں کو

پہلو سے ملا کر رکھے۔

5078 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي مَثْنَى كَيْفَ شَاءَتْ

إِذَا اجْتَمَعَتْ

*** عطاء فرماتے ہیں: عورت دوزانوں ہو کر جیسے چاہے گی بیٹھ سکتی ہے جب تک وہ خود کو سمیٹ کر رکھے۔

5079 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: تَجْلِسُ الْمَرْأَةُ فِي مَثْنَى

كَيْفَ تَيْسَّرَ عَلَيْهَا

*** امام شعبی فرماتے ہیں: عورت دوزانوں جیسے چاہے بیٹھ سکتی ہے جو اس کے لیے آسان ہو۔

بَابُ الْمَرْأَةِ تَوُمُّ النِّسَاءِ

باب: عورت کا خواتین کی امامت کرنا

5080 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: تَوُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَخْرُجَ أَمَامَهُنَّ،

وَلَسِكُنْ تُحَادِي بِهِنَّ فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَالتَّطَوُّعِ قُلْتُ: وَإِنْ كَثُرْنَ حَتَّى يَكُنَّ صَفِيْنِ أَوْ أَكْثَرَ؟ قَالَ: وَأَنْ تَقُومَ وَسَطَهُنَّ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: خاتون عورتوں کی امامت کر سکتی ہے البتہ وہ ان سے آگے کھڑی نہیں ہوگی بلکہ فرض نماز میں دیگر خواتین کے برابر کھڑی ہوگی اور نفل میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ میں نے دریافت کیا: اگر خواتین کی تعداد زیادہ ہو؟ یہاں تک کہ ان کی دو یا دو سے زیادہ صفیں ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا: وہ امام عورت ان کے درمیان کھڑی ہوگی۔

5081 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنِ أَبِيهِ، وَعَطَاءٍ، قَالَ: تَوُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي الْفَرِيضَةِ، وَالتَّطَوُّعِ تَقُومُ وَسَطَهُنَّ

* * مجاہد کے صاحبزادے اپنے والد کا اور عطاء کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: عورت فرض یا نفل نماز میں جب دیگر خواتین کی امامت کرے گی تو ان کے درمیان کھڑی ہوگی۔

5082 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ عَمَّارِ الدَّهْنِيِّ، عَنِ حُجَيْرَةَ بِنْتِ حُصَيْنٍ، قَالَتْ: أَمَّنَّا أُمَّ سَلَمَةَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ قَامَتْ بَيْنَنَا

* * حیرہ بنت حصین بیان کرتی ہیں: سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عصر کی نماز میں ہماری امامت کی تو وہ ہمارے درمیان کھڑی ہوئیں۔

5083 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَوُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ

* * حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: خاتون جب عورتوں کی امامت کرے گی تو وہ ان کے درمیان کھڑی ہوگی۔

5084 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَرْأَةُ بِالنِّسَاءِ فِي رَمَضَانَ، تَقُومُ فِي وَسَطِهِنَّ

* * ابراہیم نخعی اور امام شعبی فرماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت رمضان کے مہینہ میں دیگر خواتین کو نماز پڑھائے وہ ان کے درمیان کھڑی ہوگی۔

5085 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ قَالَ: تَوُمُّ الْمَرْأَةُ النِّسَاءَ فِي رَمَضَانَ وَتَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

* * معمر بیان کرتے ہیں: عورت رمضان میں دیگر خواتین کی امامت کرے گی اور ان کے ساتھ صف میں کھڑی ہوگی۔ معمر بیان کرتے ہیں: مجھے اس شخص نے یہ بات بتائی ہے جس نے عکرمہ کو اس کی مانند بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔

5086 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبِ النَّهْدِيِّ، عَنِ رِبْطَةَ الْحَنْفِيَّةِ أَنَّ

عَائِشَةَ أُمَّتَهُنَّ وَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِي صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ

*** ریٹہ حنفیہ بیان کرتی ہیں: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرض نماز میں اُن کی امامت کی تو وہ اُن خواتین کے درمیان کھڑی ہوئیں۔

5087 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُومُ النِّسَاءَ فِي التَّطَوُّعِ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي الصَّفِّ

*** یحییٰ بن سعید بیان کرتے ہیں: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نفل نماز میں خواتین کی امامت کرتی تھیں، وہ اُن کے ساتھ صف میں کھڑی ہوتی تھیں۔

بَابُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ أَقْرَأَ مِنَ الرِّجَالِ، وَصَلَاةِ الْمَرْأَةِ عَلَيْهَا وَحَاءٌ

باب: جب عورت مردوں سے زیادہ قرأت جانتی ہو اور ایسی عورت کا نماز ادا کرنا جس پر وہ ہو

5088 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ يَوْمٌ، وَتَقُومُ الْمَرْأَةُ مِنْ خَلْفِهِ، وَتُصَلِّي هِيَ بِصَلَاتِهِ

*** عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں: جب کوئی مرد بالکل بھی قرآن نہ پڑھ سکتا ہو تو وہی امامت کرے گا اور عورت اُس کے پیچھے کھڑی ہوگی اور وہ عورت اُس مرد کی نماز کی پیروی میں نماز ادا کرے گی۔

5089 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ لَا يَقْرَأُ مَعَ نِسَاءٍ تَقَدَّمَ، وَقَرَأَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ وَرَائِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ رَكَعَ، وَرَكَعَتْ بِرُكُوعِهِ، وَسَجَدَتْ بِسُجُودِهِ

*** قتادہ فرماتے ہیں: جب کوئی مرد جو تلاوت نہیں کر سکتا وہ خواتین کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو مرد آگے کھڑے ہوگا، خاتون اُس کے پیچھے تلاوت کرے گی جب وہ مرد تکبیر کہہ کے رکوع میں جائے گا تو خاتون اُس کے رکوع کی پیروی میں رکوع میں جائے گی اور اُس کے سجدہ کی پیروی میں سجدہ کرے گی۔

5090 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الشَّعْرِ الَّذِي يُوَصَّلُ فِي الرِّئَاسِ وَالْوَحَا فِي الشَّعْرِ الَّذِي يُجْعَلُ عَلَى الرِّئَاسِ؟ فَإِنْ شَاءَتِ الْمَرْأَةُ وَضَعَتْ عَلَى رَأْسِهَا قَالَ: أَمَّا الْوَصْلُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ قَالَ أَنَسُ حِينَئِذٍ: وَآكَلَ الرَّبَا، وَمُوكَلَّةٌ، وَالشَّاهِدَ، وَالكَاتِبَ، وَالْوَأِشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَالْعَاضِيَةَ، وَالْمُسْتَعْضِيَةَ، قَالَ عَطَاءٌ: قَدْ سَمِعْنَا ذَلِكَ قَالَ: وَكُنَّ نِسَاءُ الْعَرَبِ يَشْمُنَ أَيْدِيَهُنَّ قَالَ: وَأَمَّا هَاتَيْنِ فَهُوَ شَيْءٌ أَحَدُتُمُوهُ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَضَعُهُ الْمَرْأَةُ عِنْدَ الصَّلَاةِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ كُلَّ وَشْمٍ تَزِيدُ بِهِ الْمَرْأَةَ حُسْنًا؟ قَالَ: لَا خَيْرَ فِيهِ، قُلْتُ: وَشْمُهَا شَفَّتِيهَا ثُمَّ تُسَفِّهَا إِثْمًا؟ قَالَ: لَا خَيْرَ فِيهِ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے اُس بال کے بارے میں دریافت کیا جسے بالوں میں مصنوعی طور پر لگایا جاتا ہے اور بال میں وگ کے بارے میں دریافت کیا جو سر پر لگایا جاتا ہے تو اگر عورت چاہے تو اُسے اپنے سر پر رکھ سکتی ہے؟ عطاء نے فرمایا: جہاں تک مصنوعی بال لگانے کا تعلق ہے تو نبی اکرم ﷺ نے مصنوعی بال لگانے والی اور لگوانے والی خواتین پر لعنت کی ہے۔ اس موقع پر حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ نبی اکرم ﷺ نے سود کھانے والے اور اُسے کھلانے والے پر اور گواہ بننے والے پر اور لکھنے والے پر اور جسم گودنے والی عورت اور گدوانے والی عورت اور بہتان لگانے والی اور لگوانے والی عورت پر لعنت کی ہے۔

عطاء کہتے ہیں: ہم نے بھی یہ روایت سنی ہوئی ہے، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ عربوں کی خواتین ہاتھ پر گدوایا کرتی تھیں جہاں تک ان دو قسموں کا تعلق ہے تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں نے بعد میں ایجاد کی ہے یہ نبی اکرم ﷺ کے زمانہ اقدس میں نہیں ہوتی تھی، تاہم عورت نماز کے وقت اُسے اتار دے گی۔ میں نے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ ہر ایسا گودنا جس کے نتیجے میں عورت کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہو (اُس کا حکم کیا ہوگا؟) انہوں نے جواب دیا: اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ میں نے دریافت کیا: اُس کا اپنے ہونٹوں کو گدوا کر اُس پر اٹھ لگالینا؟ انہوں نے فرمایا: اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔

5091 - اَقْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " إِذَا وَضَعَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا

شَعْرًا بَغَيْرِ وَصْلٍ؟ قَالَ: فَلْتَضَعُهُ إِذَا قَامَتْ لِلصَّلَاةِ فَإِنَّهُ مُحَدَّثٌ

* * عطاء فرماتے ہیں: جب کوئی عورت اپنے بالوں کے اندر مصنوعی بال ملائے بغیر صرف بال سر پر رکھتی ہے (یعنی وگ استعمال کرتی ہے) تو عطاء فرماتے ہیں: وہ عورت نماز کے لیے کھڑی ہوگی تو اُسے اتار دے گی کیونکہ یہ ایک نئی ایجاد شدہ چیز ہے۔

5092 - اَقْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ تَضَعَ

الْمَرْأَةُ عَلَى رَأْسِهَا الشَّعْرَ بَغَيْرِ وَصْلٍ

* * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عورت اپنے سر پر ایسے بال رکھ لے جو ساتھ ملے ہوئے نہ ہوں (یعنی وگ استعمال کر لے)۔

5093 - آثَارِ صَحَابِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ: رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْمَدِينَةِ،

وَفِي يَدِهِ قِصَّةٌ، ثُمَّ قَالَ شَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ الْآنَ

* * ہمام بن منبہ بیان کرتے ہیں: میں نے مدینہ منورہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو منبر پر دیکھا، اُن کے ہاتھ میں ایک وگ تھی، پھر انہوں نے کوئی بات ارشاد فرمائی، جو مجھے اب یاد نہیں ہے۔

5094 - آثَارِ صَحَابِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ رَأَى مُعَاوِيَةَ

يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَفِي يَدِهِ قِصَّةٌ مِنْ شَعْرٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ؟ سَمِعْتُ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ وَصْلِ هَذَا، وَقَالَ: إِنَّمَا عُذِّبْتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَتْ، إِنَّمَا

عُدَّتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَتْ نِسَاؤُهُمْ هَذِهِ

*** حمید بن عبدالرحمن بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، اُن کے ہاتھ میں بالوں سے بنی ہوئی وگ تھی، میں نے انہیں یہ فرماتے ہوئے سنا: اے اہل مدینہ! تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے بال لگانے سے منع کرتے ہوئے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: بنی اسرائیل کو اُس وقت عذاب دیا گیا جب اُن لوگوں نے اسے اختیار کیا، بنی اسرائیل کو اُس وقت عذاب دیا گیا جب اُن کی خواتین نے اسے اختیار کیا۔

5095 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، انه سمع معاوية بن ابي سفيان، وفي يده قصة من شعر يقول: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينه عن مثل هذا ويقول: انما عذبت بنو اسرائيل حين اتخذت نساؤهم هذه

*** حمید بن عبدالرحمن بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ کو سنا اُن کے ہاتھ میں بالوں سے بنی ہوئی وگ تھی، انہوں نے یہ فرمایا: میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا جب آپ نے اس چیز کو استعمال کرنے سے منع کیا، آپ نے یہ فرمایا: بنی اسرائیل کو اُس وقت عذاب دیا گیا جب اُن کی خواتین نے اسے استعمال کرنا شروع کیا۔

5096 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: اخبرني ابو الزبير، انه سمع جابر بن عبد الله يقول: زجر النبي صلى الله عليه وسلم، ان تصل المرأة براسها شيئاً

*** حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ عورت اپنے سر میں مصنوعی بال لگائے۔

5097 - حدیث نبوی: اخبرنا عبد الرزاق قال: اخبرنا معمر، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت ابي بكر، ان امرأة من الانصار جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله انا انكحنا جويزية لنا، وكانت مريضة فتمرق راسها افصلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة، والمستوصلة

*** سیدہ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: انصار سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اُس نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم نے اپنی ایک لڑکی کی شادی کی وہ بیمار تھی، اُس کے سر کے بال جھڑ گئے تھے تو کیا ہم اُسے مصنوعی بال لگا دیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مصنوعی بال لگانے والی اور لگوانے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔

5098 - اقوال تابعين: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن سمع الحسن، يكره الوصل بالصوف

*** حسن بصری فرماتے ہیں: اُون کے بال مصنوعی بال لگانے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔

5099 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن رجل، عن عكرمة انه قال: اخبرت ان النبي

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ نِسَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَصَلْنَ أَشْعَارَهُنَّ فَلَعْنَهُنَّ اللَّهُ، وَمَنْعَهُنَّ أَنْ يَدْخُلْنَ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

*** عکرمہ بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: بنی اسرائیل کے خواتین اپنے مصنوعی بال لگایا کرتی تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی اور انہیں اس بات سے منع کر دیا کہ وہ بیت المقدس کے اندر جائیں۔ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مصنوعی بال لگانے اور لگوانے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔

5100 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن الحارث الأعور، عن ابن مسعود قال: أكل الربا، وموكله، وكتابه، وشاهدته إذا علموا به، والواشمة والمستوشمة، ولاوى الصدقة، والمتعدى فيها، ومذمن الخمر، والمرتد أعرابياً بعد هجرته، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة

*** حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: سو دکھانے والے اُسے کھلانے والے اُسے تحریر کرنے والے اُس کے گواہ بننے والے جبکہ وہ اس سے واقف بھی ہوں (ان کے علاوہ) جسم گودنے والی عورت اور گدوانے والی عورت صدقہ دینے میں نال مثل کرنے والا اور اُس میں زیادتی کرنے والا شخص باقاعدگی سے شراب پینے والا شخص اور ایسا دیہاتی جو ہجرت کرنے کے بعد واپس چلا جائے ان سب پر قیامت کے دن نبی اکرم ﷺ کی زبانی لعنت کی جائے گی۔

5101 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة قال: لعن أربع: الواشمة، والواشرة، والنامصة، والواصلة

*** قتادہ فرماتے ہیں: چار خواتین پر لعنت کی گئی ہیں: جسم گودنے والی دانت کے درمیان سوراخ کرنے والی بال اکھیرنے والی اور مصنوعی بال لگانے والی۔

5102 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر قال: سألت الزهري عن الوشم؟ فقال: من زى أهل الجاهلية

*** معمر بیان کرتے ہیں: میں نے زہری سے جسم گودنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: یہ اہل جاہلیت کا معمول ہے۔

5103 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة قال: قال عبد الله: "لعن الله الواشمات، والمستوشمات، والمتفليجات للحسن المغيرات خلق الله قال: فبلغ ذلك امرأة من بني أسيد يقال لها: أم يعقوب، فقالت: يا أبا عبد الرحمن بلغني أنك لعنت كيت وكيت قال: وما لي لا لعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله قالت: إني لأقرأ ما بين السلوخين وما أجده قال: إن كنت قارئة لقد وجدته أما قرأت (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه

فَانْتَهَوْا) (الحشر: 7) قَالَتْ: بَلَى قَالَ: فَإِنَّهُ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: إِنِّي لَا ظَنُّ أَهْلَكَ يَفْعَلُونَ بَعْضَ ذَلِكَ قَالَ: فَادْهَبِي وَانظُرِي قَالَ: "فَدَخَلْتُ فَلَمْ تَرِ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ لَمْ تُجَامِعْنَا، قُلْنَا لِأَبِي بَكْرٍ: مَا النَّامِصَةُ؟ قَالَ: الَّتِي تَنْتِفُ شَعْرَهَا

*** علقمہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”اللہ تعالیٰ نے جسم گودنے والی اور گدوانے والی اور بال اکھیڑنے والی، حسن میں اضافہ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تبدیل کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔“

راوی بیان کرتے ہیں: اس بات کی اطلاع بنو اسید سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کو ملی جس کا نام ام یعقوب تھا، اس نے کہا: اے ابو عبد الرحمن! مجھ یہ بات پتا چلی ہے کہ آپ نے فلاں فلاں عورتوں پر لعنت کی ہے! حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں اُس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور جس کا ذکر اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ اُس عورت نے کہا: میں نے پورا قرآن پڑھا ہوا ہے مجھے تو یہ آیت نہیں ملی۔ تو حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر تم نے واقعی پڑھا، ہوتا تو تمہیں یہ آیت مل جاتی، کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی:

”رسول تمہیں جو کچھ دے اُسے حاصل کر لو اور جس سے منع کرے اُس سے باز آ جاؤ۔“

اُس عورت نے جواب دیا: جی ہاں! تو حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اُس خاتون نے کہا: آپ کی بیوی کے بارے میں میرا یہ خیال ہے کہ وہ بھی ایسا ہی کرتی ہے۔ تو حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم جا کر خود جائزہ لے لو۔ راوی کہتے ہیں: وہ خاتون حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئی لیکن اُسے اپنے مطلب کی کوئی چیز نظر نہیں آئی، حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر میری بیوی اس طرح کرتی ہوتی (جس طرح تم الزام لگا رہی ہو) تو وہ ہمارے ساتھ رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں: ہم نے امام عبد الرزاق سے دریافت کیا: لفظ ”نامصا“ کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: بالوں کو اکھیڑنا۔

5104 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ امْرَأَةِ ابْنِ أَبِي الصَّقْرِ، أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةً؟ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ فِي وَجْهِ شَعْرَاتٍ أَفَانْتَفِهِنَّ اتَّزِينَ بِذَلِكَ لِرِزْوَجِي؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمِطِي عَنْكَ الْأَذَى، وَتَصْنَعِي لِرِزْوَجِكَ كَمَا تَصْنَعِينَ لِلزَّبَارَةِ، وَإِذَا أَمَرَكَ فَلْتَطِيعِيهِ، وَإِذَا أَقْسَمَ عَلَيْكَ فَأَبْرِيهِ، وَلَا تَأْذِنِي فِي بَيْتِهِ لِمَنْ يَكْرَهُ

*** ابو اسحاق نے ابن ابوصقر کی اہلیہ کا یہ بیان نقل کیا ہے: ایک مرتبہ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود تھیں، ایک خاتون نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، اُس نے عرض کی: اے ام المؤمنین! میرے چہرے میں کچھ بال ہیں، تو کیا انہیں اکھیڑ دوں؟ تاکہ میں اپنے شوہر کے لیے آراستہ ہو جاؤں؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: تم اپنے آپ سے گندگی کو صاف کر لو اور اپنے شوہر کے لیے اس طرح تیار رہو، جس طرح کسی سے ملنے کے لیے تیار ہوا جاتا ہے، جب وہ تمہیں کوئی حکم دے تو تم اُس کی

فرمانبرداری کرو جب وہ تمہیں کوئی قسم دے تو تم اُسے پورا کرو اور تم اپنے گھر میں کسی ایسے کو آنے نہ دو جسے وہ ناپسند کرتا ہے۔

بَابُ شُهُودِ النِّسَاءِ الْجَمَاعَةِ

باب: خواتین کا جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہونا

5105 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَنْ تَخْرُجُ مِنَ النِّسَاءِ بِالنَّهَارِ إِذَا سَمِعَتِ الْإِذَانَ أَيَحِقُّ عَلَيْهَا حُضُورُ الصَّلَاةِ؟ قَالَ: إِنْ أَحَبَّتْ أَنْ تَأْتِيَهَا، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَلَا حَرَجَ قُلْتُ: قَوْلُهُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) (الجمعة: 9) أَلَيْسَتْ لِلنِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: لَا

* * ابن جریج عطاء کے بارے میں نقل کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جو عورت دن کے وقت گھر سے باہر نکلتی ہے جب وہ اذان سنتی ہے تو کیا اُس پر یہ لازم ہوگا کہ وہ باجماعت نماز میں شریک ہو؟ انہوں نے جواب دیا: اگر وہ عورت اس بات کی خواہشمند ہو تو باجماعت نماز میں شریک ہو جائے ورنہ نہ ہو اگر نہیں ہوگی تو کوئی حرج بھی نہیں ہوگا۔ میں نے دریافت کیا: اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے کیا مراد ہے:

”اے ایمان والو! جب قیامت کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے۔“

(میں نے دریافت کیا:) کیا اس حوالے سے خواتین بھی مردوں کے ساتھ شامل نہیں ہوں گی؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

5106 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيَحِقُّ عَلَى النِّسَاءِ إِذَا سَمِعْنَ الْإِذَانَ أَنْ يُجِبْنَ كَمَا هُوَ حَقٌّ عَلَى الرِّجَالِ؟ قَالَ: لَا لَعَمْرِي

* * ابن جریج عطاء کے بارے میں نقل کرتے ہیں: میں نے اُن سے دریافت کیا: کیا خواتین پر یہ بات لازم ہے کہ جب وہ اذان سنیں تو اُس کا جواب دیں (یعنی باجماعت نماز میں شریک ہوں) جس طرح یہ مردوں پر لازم ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! میری زندگی کی قسم!

5107 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ أَنْ يُصَلِّيْنَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ قَالَ: فَسَبَّهُ سَبًّا شَدِيدًا وَقَالَ: نَحَدِّثُكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ: إِنَّا لَنَمْنَعُهُنَّ

* * سالم نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے:

”اللہ کی کنیزوں کو اس بات سے نہ روکو کہ وہ مسجد میں نماز ادا کریں۔“

اس پر حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے صاحبزادے نے کہا: ہم تو اُن خواتین کو ضرور روکیں گے۔ تو حضرت عبد اللہ بن عمر نے

اُسے سخت کہتے ہوئے فرمایا: میں تمہیں نبی اکرم ﷺ کے حوالے سے حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم انہیں روکیں گے۔

5108 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ائذِنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ قَالَ ابْنُهُ: وَاللَّهِ لَا نَأْذِنُ لَهُنَّ فَيَتَّخِذْنَ ذَلِكَ دَغْلًا قَالَ: فَعَلَ اللَّهُ بِكَ، تَسْمَعُنِي أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُ أَنْتِ: لَا؟ قَالَ لَيْثٌ فِي حَدِيثِهِ: لِيَخْرُجْنَ تَفْلَاتٍ عَلَيْهِنَّ خُلُقَانٌ شَعَثَاتٍ بَغِيرِ دُهْنٍ

*** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”خواتین کو رات کے وقت مسجد تک جانے کی اجازت دو۔“

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے صاحبزادے نے کہا: اللہ کی قسم! ہم ان خواتین کو اجازت نہیں دیں گے ورنہ وہ اسے مزید خرابی کا ذریعہ بنا لیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ یہ کرے اور وہ کرے! تم نے مجھے سنا کہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے اور تم پھر بھی یہ کہہ رہے ہو کہ جی نہیں! لیث نے اپنی روایت میں یہ الفاظ نقل کیے ہیں: جب وہ خواتین نکلیں تو خوشبو لگائے بغیر نکلیں اور انہوں نے پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے ہوں اور انہوں نے تیل بھی نہ لگایا ہوا ہو۔

5109 - حدیث نبوی: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخُو الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَوْلَاةٍ لَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا تَرْفَعُ رَأْسَهَا حَتَّى تَرْفَعَ رُءُوسَنَا كَرَاهِيَةً أَنْ تَرَيْنَ عَوْرَاتِ الرِّجَالِ لِقَصْرِ أَرْبِهِمْ، وَكَانُوا إِذْ ذَلِكَ يَتَرَدُّونَ هَذِهِ النُّمُرَ

*** سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: میں نے نبی اکرم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

”تم خواتین میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے وہ اپنا سر (رکوع یا سجدہ) سے اُس وقت تک نہ اٹھائے جب تک ہم (مرد) اٹھ نہیں جاتے۔“

نبی اکرم ﷺ نے اس بات کو ناپسند کیا تھا کہ خواتین مردوں میں سے کسی ایک کی شرمگاہ کو دیکھ لیں کیونکہ مردوں کے تہبند چھوٹے ہوتے تھے اور وہ لوگ ان دنوں میں چمڑے بھی استعمال کرتے تھے۔

5110 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابَانَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ: هَلْ كُنَّ النِّسَاءُ يَشْهَدْنَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: إِيهَا اللَّهُ، إِذَا فَلِمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ، وَشَرُّ صُفُوفِ الرِّجَالِ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ

*** ابان بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سوال کیا: کیا خواتین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز باجماعت میں شریک ہوتی تھیں؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! اللہ کی قسم! یہی وجہ ہے ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں ارشاد فرمایا تھا: خواتین کی سب سے بہتر صف سب سے پیچھے والی ہے اور خواتین کی سب سے کم بہتر صف سب سے آگے والی ہے مردوں کی سب سے بہتر صف سب سے آگے والی ہے اور مردوں کی سب سے کم بہتر صف سب سے پیچھے والی ہے۔

5111 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، أن عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل، وكانت تحت عمر بن الخطاب وكانت تشهد الصلاة في المسجد، وكان عمر يقول لها: والله إنك لتعلمين ما أحب هذا، فقالت: والله لا أنتهي حتى تنهاني قال: إني لا أنهاك قالت: فلقد طعن عمر يوم طعن، وإنها لفي المسجد

*** زہری بیان کرتے ہیں: سیدہ عاتکہ بنت زید رضی اللہ عنہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھیں وہ مسجد میں باجماعت نماز میں شریک ہوتی تھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے یہ فرمایا کرتے تھے: اللہ کی قسم! تم یہ بات جانتی ہو کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ تو وہ فرماتی تھیں: اللہ کی قسم! میں اس سے اس وقت تک باز نہیں آؤں گی جب تک آپ مجھے باقاعدہ منع نہیں کرتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہتے تھے: میں تمہیں منع نہیں کرتا۔ وہ خاتون بیان کرتی ہیں: جس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا گیا اس وقت وہ خاتون بھی مسجد میں موجود تھیں۔

5112 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عمرة، عن عائشة قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى النساء اليوم منعهن الخروج

*** سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے زمانہ کی خواتین کو دیکھ لیتے تو انہیں (گھر سے) باہر نکلنے سے منع کر دیتے۔

5113 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذت النساء بعده لمنعهن المساجد، كما منعت نساء بني إسرائيل قال: قلت: أي هنتاه، أو منعت نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم

*** سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ملاحظہ کر لیتے جو آپ کے بعد خواتین نے طہ زمل اختیار کیا ہے تو انہیں مساجد میں جانے سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی خواتین کو منع کر دیا گیا تھا۔ راوی خاتون بنتی ہیں: میں نے کہا: اے اچھی خاتون! کیا بنی اسرائیل کی خواتین کو منع کر دیا گیا تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا: جی ہاں!

5114 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلًا من خشب، يتشرفن للرجال في المساجد فحرم الله عليهن المساجد، وسلط عليهن الحيضة

*** سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: بنی اسرائیل کی خواتین نے لکڑی سے بنی ہوئی ٹانگیں بنوائیں، وہ اس کے ذریعہ مسجد کی طرف جاتے ہوئے مردوں کے سامنے نمایاں ہوتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مسجد جانا حرام قرار دے دیا اور ان پر حیض کو مسلط کر دیا۔

5115 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثورثی، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي معمر، عن ابن مسعود قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعاً، فكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول بهما لخليلها، فالقي عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: أخروهن حيث أحرهن الله، فقلنا لابی بكر: ما القالبين؟ قال: رفيفين من خشب

*** حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: بنی اسرائیل میں مرد اور خواتین اکٹھے نماز ادا کرتے تھے، تو بعض اوقات کوئی عورت اپنی کسی سہیلی کے ساتھ جاتے ہوئے لکڑی کی (اونچی ایرھی والی جوتی) پہن لیتی تھی جس کے ذریعہ وہ اپنی سہیلی سے زیادہ قد آور محسوس ہوتی تھی تو ان خواتین پر حیض کو مسلط کر دیا گیا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ان خواتین کو پیچھے رکھو جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں پیچھے رکھا ہے۔

(کتاب کے راوی بیان کرتے ہیں: ہم نے امام عبدالرزاق سے دریافت کیا: لفظ ”قالبین“ سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: لکڑی کی بنی ہوئی جوتی۔

5116 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاحها فيما سواها ثم قال: إن المرأة إذا خرجت تشوف لها الشيطان

*** حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: عورت کا اپنے گھر میں نماز ادا کرنا، گھر کے علاوہ اور کسی جگہ نماز ادا کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا: جب عورت (گھر سے باہر) نکلتی ہے تو شیطان اُسے جھانک کر دیکھتا ہے۔

5117 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثورثی، عن أبيه، عن أبي عمرو الشيباني قال: جاء رجل، فقال: كان يقال: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاحها في دارها، فقال له أبو عمرو: ولم تطول؟ سمعت رب هذو الدار - يعني ابن مسعود - يحلف في اليمين: ما مصلى لامرأة خير من بيتها، إلا في حج أو عمرة إلا امرأة قد ينست من البعولة فهي في منقلبيها، قيل: ما منقلبيها؟ قال أبو بكر: امرأة عجوز قد تقارب خطوها

*** ابو عمرو شیبانی کے بارے میں یہ بات منقول ہے: ایک شخص آیا اور بولا: یہ بات کہی جاتی ہے کہ عورت کے لیے اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرنا گھر سے باہر نماز ادا کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ابو عمرو نے اُسے جواب دیا: تم اتنا طول کیوں دے رہے ہو میں نے اس گھر کے مالک کو یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اس بات پر قسم اٹھاتے ہوئے سنا ہے: کسی بھی

عورت کے لیے اُس کے گھر (یا کمرے) سے زیادہ اچھی جائے نماز اور کوئی نہیں ہے البتہ حج یا عمرہ کا معاملہ مختلف ہے اور اُس عورت کا معاملہ مختلف ہے جو عمر رسیدہ ہو چکی ہو وہ چھوٹے قدم اٹھاتی ہے۔

امام عبدالرزاق سے دریافت کیا گیا: لفظ ”منقلیہا“ سے مراد کیا ہے؟ امام عبدالرزاق نے جواب دیا: بوڑھی عورت کا (بڑھاپے کی وجہ سے) چھوٹے قدم اٹھانا۔

5118 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ مَا

صَلَّتْ وَاحِدَةً مِنْهُنَّ فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ

* * * اعمش نے ابراہیم نخعی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ اُن کی تین بیویاں تھیں اور اُن میں سے کوئی ایک بھی قبیلہ کی مسجد میں نماز ادا نہیں کرتی تھی۔

5119 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، عَنِ خُرُوجِ النِّسَاءِ؟ فَقَالَ: يَخْرُجْنَ تَفَلَاتٍ

* * * اسماعیل بن امیہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ سے خواتین کے (گھر سے باہر) نکلنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا: جب وہ نکلیں گی تو خوشبو لگائے بغیر ہوں گی۔

5120 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ أَنَسِ قَالَ: يَخْرُجْنَ تَفَلَاتٍ

* * * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”اللہ تعالیٰ کی کنیزوں کو اللہ تعالیٰ کی مساجد میں جانے سے منع نہ کرو اور وہ خواتین جب نکلیں تو خوشبو لگائے بغیر ہوں۔“

5121 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُلْقَمَةَ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا وَهْنًا تَفَلَاتٍ

* * * سالم بن عبد اللہ اپنے والد (حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما) کے حوالے سے نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں: ”جب کسی شخص کی بیوی اُس سے مسجد جانے کے لیے اجازت مانگے تو وہ شخص اُس عورت کو منع نہ کرے۔“

5122 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اسْتَأْذَنْتَ أَحَدَكُمْ أَمْرَاتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ: أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ بِخَبَرٍ مِثْلِ ذَلِكَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ لَهُ نَافِعٌ: مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: إِنَّمَا ذَلِكَ بِاللَّيْلِ

* * * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے جس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضرت

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے غلام نافع نے یہ کہا تھا کہ یہ حکم رات کے بارے میں ہے۔

5123 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوری، عن جابر، عن الشعبي، وعطاء، قالا: لا بأس بان يؤم

الرجل النساء

*** امام شعبی اور عطاء فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مرد خواتین کی امامت کرے۔

5124 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوری، عن هشام بن عروة، ان عمر بن الخطاب، امر سليمان

بن ابي حنمة ان يؤم النساء في مؤخر المسجد في شهر رمضان، قال سفیان: واصحابنا يكرهون ذلك، ويقولون: ارايت ان احدث فمن يقدم؟ ويقولون: التطوع ايسر

*** هشام بن عروہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سلیمان بن ابوشمہ کو یہ حکم دیا کہ وہ رمضان کے مہینہ

میں مسجد کے پیچھے والے حصہ میں خواتین کی امامت کریں۔

سفیان کہتے ہیں: ہمارے اصحاب نے اسے مکروہ قرار دیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس بات کا جائزہ نہیں لیا کہ (اس

طرح کی صورت حال میں) اگر امام کو حدث لاحق ہو جائے تو پھر وہ آگے کسے کرے گا؟ یہ حضرات یہ بھی فرماتے ہیں: نفل نماز ادا کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔

5125 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن محمد بن عمار، عن عمرو الثقفي، عن عرفة ان عليا كان يامر

الناس بالقيام في شهر رمضان، ويجعل للرجال اماما وللنساء اماما قال: فامرني فاممت النساء

*** عرفہ بیان کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو رمضان کے مہینہ میں نوافل ادا کرنے کا حکم دیتے تھے وہ مردوں

کے لیے ایک امام مقرر کرتے تھے اور خواتین کے لیے ایک امام مقرر کرتے تھے۔

راوی بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ انہوں نے مجھے حکم دیا تو میں نے خواتین کی امامت کی۔

باب تزئين المساجد والممر في المسجد

باب: مساجد کو آراستہ کرنا اور مسجد میں سے گزرنا

5126 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، والثوري، عن ايوب، عن عبد الله بن شقيق قال: كانت

المساجد تبنى جمًا، وكانت المدائن تشرَّف

*** عبداللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں: مساجد کو سادہ بنائی جاتی تھیں اور شہروں کو آراستہ کیا جاتا تھا۔

5127 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابي فزارة، عن يزيد بن الاصم، وكان ابن خالة ابن

عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما امرت بتشييد المساجد قال: وقال ابن عباس: اما والله

لتزخر فنها

*** یزید بن اصرم جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے خالہ زاد بھائی ہیں وہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”مجھے مساجد کو آراستہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔“

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اللہ کی قسم! تم ضرور انہیں آراستہ کرو گے۔

5128 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي فَرَاةَ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطْنِيِّ قَالَ: "كَانَ عَلِيٌّ يَمُرُّ

عَلَى مَسْجِدِ لَيْمٍ مُشْرِفٍ، فَيَقُولُ: هَذِهِ بَيْعَةُ التَّيْمِ"

*** مسلم بطین بیان کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ تيم قبیلہ کی آراستہ مسجد سے گزرے تو انہوں نے فرمایا: یہ تيم قبیلہ کا

گر جا گھر ہے۔

5129 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ مَسْجِدُ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنِيًّا بِلَبْنٍ، وَكَانَ أُسْطُوَانَهُ خَشْبًا، وَكَانَ سَقْفُهُ جَرِيدًا، فَقَبِضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَلِيَ أَبُو بَكْرٍ فَلَمْ يُحَرِّكْهُ حَتَّى مَاتَ، ثُمَّ وَلِيَ عُمَرُ فَزَادَ فِيهِ وَجَعَلَ أُسْطُوَانَهُ الْخَشَبَ كَمَا كَانَ،

وَسَقْفَهُ بِالْجَرِيدِ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ زَادَ فِيهِ فَبَنَاهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَسَقْفَهُ بِالسَّاجِ

*** نافع نقل کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اینٹوں سے بنی ہوئی تھی اور

اُس کے ستون لکڑی کے بنے ہوئے تھے اُس کی چھت کھجور کی شاخوں سے بنی ہوئی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے انتقال تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے

اس مسجد میں توسیع کی انہوں نے اس توسیع میں لکڑی کے ستون رہنے دیئے جس طرح پہلے تھے اور اس کی چھت کھجور کی شاخوں کی

رہنے دی لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور انہوں نے اس میں توسیع کی تو انہوں نے نقش و نگار والے پتھروں کے

ذریعہ سے تعمیر کیا اور اس کی چھت ساگوان کی لکڑی کی تھی۔

5130 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ سَمْعَانَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ أُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

أَنْ اتَّخَذَ مَسْجِدًا عَرْشًا كَعَرْشِ مُوسَى يَبْلُغُ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ

*** ابن سمعان بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات وحی کی گئی کہ آپ مسجد کو

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چھپر کی طرح چھپر کے طور پر بنائیں جو ایک بالشت اونچا تھا۔

5131 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:

حَدَّثَنِي بَعْضُ أَشْيَاحِنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَزُخْرَفُ مَسَاجِدُكُمْ كَمَا زُخْرَفَتِ الْيَهُودُ

وَالنَّصَارَى بَيْعَهَا

*** حصین بن عبید اللہ بن یسار بیان کرتے ہیں: ہمارے بعض مشائخ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے

ارشاد فرمایا ہے:

”تمہاری مساجد کو اس طرح آراستہ کیا جائے گا، جس طرح یہود و نصاریٰ اپنے عبادت خانوں کو آراستہ کرتے ہیں۔“

5132 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي

طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: إِذَا حَلَيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ، وَزَخَرْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ فَالدَّبَارُ عَلَيْكُمْ

*** حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: جب تم اپنے مصاحف (یعنی قرآن مجید) پر زیورات لگاؤ اور اپنی مساجد کو آراستہ کرو تو پھر تم پر بربادی نازل ہوگی۔

5133 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، أَيضًا، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ حَوْشِبِ الطَّائِي

قَالَ: مَا أَسَاءَتْ أُمَّةٌ أَعْمَالَهَا إِلَّا زَخَرَتْ مَسَاجِدَهَا، وَمَا هَلَكَتْ أُمَّةٌ قَطُّ إِلَّا مِنْ قِبَلِ عُلَمَائِهَا

*** حوشب طائی فرماتے ہیں: کسی بھی امت کے اعمال اُس وقت تک خراب نہیں ہوتے جب تک وہ مساجد کو آراستہ کرنا نہیں شروع کرتی اور کوئی بھی امت اُس وقت تک ہلاکت کا شکار نہیں ہوتی جب تک یہ ہلاکت اُن کے علماء کی طرف سے نہیں آتی۔

5134 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِنَّ الْقَوْمَ

إِذَا زَيَّنُوا مَسَاجِدَهُمْ فَسَدَّتْ أَعْمَالُهُمْ

*** ابراہیم بن مہاجر بیان کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب لوگ اپنی مساجد کو آراستہ کریں گے تو اُن کے اعمال خراب ہو جائیں گے۔

5135 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، وَغَيْرِهِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ.

أَنَّ أَبِي بَنَ كَعْبٍ، وَابَا الدَّرْدَاءِ، ذَرَعَا الْمَسْجِدَ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالذَّرَاعِ قَالَ: بَلْ عَرِيشُ كَعْرِيشِ مُوسَى، ثُمَّامٌ وَخَشَبَاتٌ، فَالْأَمْرُ أَعْجَلُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَبَلَّغْنَا أَنَّ عَرْشَ مُوسَى إِذَا قَامَ مَسَّ رَأْسَهُ

*** خالد بن معدان بیان کرتے ہیں: حضرت اُبی بن کعب اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہما نے مسجد کی پیمائش کی پھر وہ دونوں اس پیمائش کو ساتھ لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلکہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چھپر کی طرح کا چھپر ہوگا جس میں گھاس اور لکڑی ہوگی اور قیامت نے جلدی ہی آ جانا ہے۔

سفیان ثوری بیان کرتے ہیں: ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چھپر اتنا اونچا تھا کہ جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو اُن کا سر اُس سے جا لگتا تھا۔

5136 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَابُوسَ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

الْمَسْجِدَ فَرَكَعَ رَكْعَةً، فَقِيلَ لَهُ: فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ تَطَوُّعٌ فَمَنْ شَاءَ زَادَ، وَمَنْ شَاءَ نَقَصَ، كَرِهْتُ أَنْ اتَّخِذَهُ طَرِيقًا

* * ابو ظبیان بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے انہوں نے ایک رکعت ادا کی ان سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: یہ نفل نماز ہے جو شخص چاہے وہ زیادہ ادا کر لے اور جو شخص چاہے وہ کم ادا کر لے مجھ پر اچھا نہیں لگا کہ میں اسے راستہ بنا لوں۔

5137 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ فَرَكَعَ فَمَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ وَهُوَ رَاكِعٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ لِلْمَعْرِفَةِ، وَتَتَّخِذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَأَنْ تَغْلُو النِّسَاءُ الْخَيْلَ، وَأَنْ تَرُحِصَ فَلَا تَغْلُو إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَأَنْ يَتَجَرَّدَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ جَمِيعًا

* * عبد الاعلیٰ بیان کرتے ہیں: میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا وہ رکوع میں گئے ایک شخص ان کے پاس سے گزرا وہ اس وقت رکوع کی حالت میں تھے اس شخص نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے فرمایا: اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے! جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو انہوں نے فرمایا: یہ بات کہی جاتی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ایک شخص جان پہچان کے شخص کو ہی سلام کرے گا اور مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا اور خواتین گھوڑوں سے مہنگی ہوں گی اور ہر سستی ہوگی اور قیامت تک کبھی مہنگی نہیں ہوگی اور مرد و عورت برہنہ ہو کر اکٹھے رہیں گے۔

5138 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ عُلُوُّ صَوْتِ الْفَاسِقِ فِي الْمَسَاجِدِ، وَمَطَرٌ وَلَا نَبَاتٌ، وَأَنْ تَتَّخِذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَأَنْ تَظْهَرَ أَوْلَادُ الزُّنَاةِ

* * عطاء بن یسار بیان کرتے ہیں: قیامت کی نشانیوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مساجد میں فاسق لوگوں کی آواز بلند ہوگی بارشیں ہوں گی لیکن پیداوار نہیں ہوگی مساجد کو راستہ بنا لیا جائے گا اور زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد زیادہ ہو جائے گی۔

5139 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ: أَمَا تَكْرَهُ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَا يُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَ: بَلَى

* * ابن تیمیٰ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے حسن بصری سے دریافت کیا: کیا آپ اس بات کو مکروہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آدمی مسجد سے گزرے اور اس میں نماز ادا نہ کرے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

5140 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَوْ غَيْرِهِ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الْمَارُّ بِمَسْجِدٍ فَلَا يَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، وَأَنْ يَبْعَثَ الصَّبِيُّ مِنَ الصَّبِيَّانِ الشَّيْخَ بَرِيدًا بَيْنَ

الْأَفْقَيْنِ، وَأَنْ يَكُونَ السَّلَامُ لِلْمَعْرِفَةِ، وَأَنْ يَكُونَ رُعَاةُ الْغَنَمِ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ فِي بُيُوتِ الْمَدْرِ

*** ابواسحاق یا کسی اور نے یہ بات نقل کی ہے: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: قیامت کی نشانیوں میں یہ بات شامل ہے کہ آدمی مسجد میں سے گزرے گا اور وہاں دو رکعت ادا نہیں کرے گا اور ایک بچہ کسی بزرگ کو دو اُفق کے درمیان ایک برید کے فاصلہ پر بھیج دے گا اور سلام دعا صرف جان پہچان والے شخص کے ساتھ ہوگی اور بکریوں کے چرواہے جن کے پاس مناسب جوتے نہیں ہوتے اور مناسب لباس نہیں ہوتے وہ اینٹوں کے بنے ہوئے گھروں میں رہیں گے۔

5141 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: أُرْسِلَ يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا، فَأَمَرَ أَنْ يُحَدِّثَ قَوْمَهُ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ، وَأَنْ يَضْرِبَ لَهُنَّ أَمْثَالَ، فَأَعَجَبْنَهُ فَاَمْسَكُنَّ لِنَفْسِهِ، فَقِيلَ لِعَيْسَى: أَيْتِ يَحْيَى فَاَمْرُهُ فَلْيَبْلِغِ الْكَلِمَاتِ الَّتِي أَمَرَ بِهِنَّ، وَالْأَفْتِيلُغُهُنَّ أَنْتَ، فَلَمَّا آتَاهُ قَالَ: أَنَا أُبَلِّغُهُنَّ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ: إِنَّ مَثَلَ الشَّرِكِ بِاللَّهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ مَالِهِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِ وَأَعْتَقَهُ، وَقَالَ: إِذْهَبْ فَاَنْطَلِقْ، فَأَصَابَ مَعْرُوفًا فَجَعَلَ مَعْرُوفَهُ، وَنَيْلَهُ لِرَجُلٍ غَيْرِ الَّذِي أَعْتَقَهُ، فَذَلِكَ مَثَلُ الشَّرِكِ بِاللَّهِ، وَالصَّلَاةُ مَثَلُهَا كَمَثَلِ رَجُلٍ آتَى سُلْطَانًا مَهِيْبًا لَا يَرْجُو أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنَ الْكَلَامِ فَآتَاهُ فَاَمَكَّنَهُ يَقُولُ: مَا شَاءَ فَذَلِكَ مَثَلُ الْمُصَلِّي إِذَا كَانَ فِي صَلَاةٍ يُعْطِيهِ اللَّهُ مِنْ دُعَائِهِ مَا أَحَبَّ، وَالزَّكَاةُ مَثَلُهَا كَمَثَلِ رَجُلٍ أَخَذَهُ الْعَدُوُّ، فَقَالَ: اقْتُلُوهُ مَا تَنْتَظِرُونَ بِهِ، فَقَالَ: مَا تَصْنَعُونَ بِقَتْلِي؟ قَالَ بَلْ تَنْجُمُونَ عَلَيَّ نُجُومًا فَاوَدَى إِلَيْكُمْ ثَمَنَ رَقِيَّتِي فَانْجَمُوا عَلَيْهِ نُجُومًا كَلَّمَا آدَى نُجُومًا فَكَمْ مِنْ رِقَّةٍ حَتَّى عَتَقَ، فَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ تُكْفِرُ الْخَطَايَا، وَمَثَلُ الصَّوْمِ كَمَثَلِ رَجُلٍ شَهِدَ الْبَأْسَ فَاخَذَ السِّلَاحَ حَتَّى رَأَى أَنَّهُ لَنْ يَخْلُصَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّوْمِ الصَّوْمِ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ، وَالْقُرْآنُ مَثَلُهُ كَمَثَلِ قَوْمٍ فِي حِصْنٍ حَصِينٍ، لَا يَأْتِيهِمُ الْعَدُوُّ إِلَّا وَجَدَهُمْ حَذِرِينَ كَذَلِكَ، مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ مِنَ الشَّيْطَانِ "

قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ نَحْوًا مِنْ هَذَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَأَنَا أَمْرُكُمْ بِخَمْسٍ: بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهَجْرَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَمَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ الْإِسْلَامَ مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى يُرَاجَعَ، وَمَنْ دَعَا دَعْوَةَ جَاهِلِيَّةٍ فَإِنَّهُ مِنْ جُنَا جَهَنَّمَ " فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِنْ تَسَمَّوْا بِاسْمِ اللَّهِ الَّذِي سَمَّاكُمْ مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ

*** عمارہ بن عبد بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ایک مرتبہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنی قوم کو پانچ کلمات کے بارے میں بتائیں اور ان کے سامنے مثال کے ذریعہ اسے واضح کریں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہ کلمات اچھے لگے انہوں نے یہ اپنے لیے رکھے (لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیے) تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا: آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ وہ ان کلمات کی تبلیغ کریں، جن کے بارے میں انہیں حکم دیا گیا ہے اگر وہ نہیں کرتے تو آپ اس کی تبلیغ کر دیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو حضرت

یحییٰ علیہ السلام نے کہا: میں ان کی تبلیغ کر دیتا ہوں۔

پھر انہوں نے اپنی قوم سے کہا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے کی مثال اس طرح ہے، جیسے کوئی شخص اپنے مال میں سے کسی غلام کو خریدے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اسے آزاد کر دے اور پھر بولے: تم جاؤ! تو غلام چلا جائے، پھر اسے کچھ بھلائی حاصل ہو تو وہ اس بھلائی اور آمدن کو کسی دوسرے شخص کے لیے مقرر کر دے جو اسے آزاد کرنے والے کے علاوہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دینے کی مثال ہے۔

جہاں تک نماز کا تعلق ہے تو اس کی مثال یوں ہے جیسے کوئی شخص کسی ہیبت والے سلطان کے پاس آئے اور وہ یہ امید نہ رکھتا ہو کہ سلطان اسے اپنے ساتھ بات چیت کرنے کا موقع دے گا، لیکن جب وہ سلطان کے پاس آئے تو وہ اسے موقع دیدے اور یہ کہے کہ وہ جو چاہے (کہہ سکتا ہے) تو یہ نمازی کی مثال ہوگی کہ جب وہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یہ حق دیتا ہے کہ وہ جو چاہے دعا کرے۔

زکوٰۃ کی مثال یوں ہے کہ جس طرح کسی شخص کو کوئی دشمن پکڑ لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم اسے قتل کر دو! تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ شخص کہتا ہے: مجھے مار کر تمہیں کیا مل جائے گا، بلکہ تم مجھ پر کوئی ادائیگی طے کر دو، جو میں اپنی جان کے بدلہ میں قسطوں میں تمہیں ادا کرتا رہوں گا، تو وہ لوگ اس کے لیے قسطوں میں ادائیگی مقرر کر دیتے ہیں، وہ شخص جب بھی کوئی قسط ادا کرتا ہے تو اس کو کچھ آزادی نصیب ہو جاتی ہے یہاں تک کہ وہ مکمل آزاد ہو جاتا ہے۔ تو صدقہ کی مثال بھی اسی طرح ہے وہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔

روزے کی مثال ایسے شخص کی طرح ہے جو جنگ میں حصہ لیتا ہے، وہ ہتھیار حاصل کر لیتا ہے لیکن پھر وہ اس بات کا جائزہ لیتا ہے کہ اس کے لیے بچاؤ کی کوئی چیز نہیں ہے تو یہ روزہ کی مثال ہے کیونکہ روزہ جہنم کے لیے ڈھال ہے اور قرآن کی مثال ایسے لوگوں کی مانند ہے جو ایک مضبوط قلعے میں ہوں جن تک دشمن نہ پہنچ سکتا ہو تو یہ قرآن کے عالم کی شیطان کے مقابلہ میں مثال ہے۔ معمر بیان کرتے ہیں: یحییٰ بن ابوکثیر نے یہ روایت بیان کرنے کے بعد یہ بات نقل کی: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: ”میں تمہیں پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں: اطاعت و فرمانبرداری کرنے، ہجرت کرنے، جماعت کے ساتھ رہنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا جو شخص (مسلمانوں کی) جماعت سے ایک بالشت نکلتا ہے تو وہ اپنے سر سے اسلام (کے پٹے) کو اتار دیتا ہے اور جو شخص زمانہ جاہلیت کی طرف بلاتا ہے (یا دعویٰ کرتا ہے) تو وہ شخص جہنم میں جائے گا۔“

ایک صاحب نے عرض کی: یا رسول اللہ! اگرچہ وہ نماز ادا کرتا ہو اور روزہ رکھتا ہو؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جی ہاں! لیکن تم لوگ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نام کے مطابق نام رکھو جو اس نے تمہارا نام مقرر کیا ہے یعنی مسلمان یا مؤمن۔

5142 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُمَرَ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: اَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ

رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ حُدَيْفَةَ: اَنَّهُ قَالَ: خَلَوْتُ يَوْمًا وَاَنَا اُرِيدُ اَنْ اَجْتَهِدَ فِي الشَّاءِ عَلٰى رَبِّي وَالِدَعَاءِ فَاَرْتَجْتُ، فَسَبِعْتُ قَائِلًا يَقُولُ: وَلَا اَرَى اَحَدًا قَلِي: اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ، وَلَكَ الْمُلْكُ كُلُّهُ، وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ،

وَالَيْكَ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ عَلاَنِيَّتُهُ وَسِرُّهُ، أَهْلٌ أَنْ تُحْمَدَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جَمِيعَ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوبِي، وَاعْصِمْنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمْرِي، وَارْزُقْنِي أَعْمَالًا زَاكِيَةً تَرْضَى بِهَا عَنِّي قَالَ: فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: ذَلِكَ مَلِكٌ عَلَّمَكَ الشَّيْءَ عَلَى رَبِّكَ وَالِدُعَاءِ

*** حفص بن میسرہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک شخص کا یہ بیان نقل کیا ہے: وہ فرماتے ہیں: ایک دن میں اکیلا تھا میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے پروردگار کی تعریف کرنے میں خوب اہتمام کروں گا اور خوب اہتمام سے دعا کروں گا۔ تو میں نے کسی شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا لیکن میں نے کسی کو دیکھا نہیں، اُس نے کہا: تم یہ پڑھو:

”اے اللہ! ہر طرح کی حمد تیرے لیے ہی مخصوص ہے اور ہر طرح کی بادشاہی تیرے ہی لیے مخصوص ہے، تیرے دستِ قدرت میں ہر قسم کی بھلائی ہے، معاملہ تیری ہی طرف لوٹتا ہے، ہر معاملہ خواہ وہ اعلانیہ ہو یا پوشیدہ ہو، تو اس بات کا اہل ہے کہ تیری حمد بیان کی جائے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اے اللہ! میرے جتنے بھی گناہ گزر چکے ہیں اُن کے حوالے سے میری مغفرت کر دے اور میری عمر کا جو حصہ باقی ہے اُس میں مجھے (گناہوں سے) محفوظ رکھنا، تو مجھے ایسے پاکیزہ اعمال عطا کر دے جن کے ذریعہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔“

راوی بیان کرتے ہیں: میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ ایک فرشتہ تھا، جس نے تمہیں تمہارے پروردگار کی تعریف کرنے اور اُس سے دعا مانگنے کا طریقہ تعلیم دیا تھا۔

5143 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ: جُفُوفَ الْأَرْضِ طُهُورُهَا،

*** ابو قلابہ بیان کرتے ہیں: زمین کا خشک ہو جانا، ہی اُس کا پاک ہونا ہے اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود

نازل کرے!



کتاب الجمعة

کتاب: جمعہ کے بارے میں روایات

بابِ اَوَّلٍ مِّنْ جَمَعٍ

باب: سب سے پہلے جمعہ کس نے قائم کیا؟

5144 - حدیث نبوی: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ اسْحَاقُ

بْنُ إِسْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ الدَّبْرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: "جَمَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يُقْدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْجُمُعَةُ وَهُمْ الَّذِينَ سَمَوْهَا الْجُمُعَةَ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلْيَهُودِ: يَوْمٌ يَجْتَمِعُونَ فِيهِ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، وَلِلنَّصَارَى أَيْضًا مِثْلُ ذَلِكَ، فَهَلُمَّ فَلْنَجْعَلْ يَوْمًا نَجْتَمِعُ وَنَذْكُرُ اللَّهَ وَنُصَلِّي وَنُشْكِرُهُ فِيهِ، أَوْ كَمَا قَالُوا: فَقَالُوا: يَوْمَ السَّبْتِ لِلْيَهُودِ، وَيَوْمَ الْأَحَدِ لِلنَّصَارَى، فَاجْعَلُوهُ يَوْمَ الْعُرُوبَةِ، وَكَانُوا يُسَمُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْعُرُوبَةِ، فَاجْتَمَعُوا إِلَى اسْعَدِ بْنِ زُرَّارَةَ فَصَلَّى بِهِمْ، يَوْمَئِذٍ وَذَكَرَهُمْ فَسَمَوْهُ الْجُمُعَةَ، حَتَّى اجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَذَبَحَ اسْعَدُ بْنُ زُرَّارَةَ لَهُمْ شَاةً فَتَغَدَّوْا وَتَعَشَّوْا مِنْ شَاةٍ وَاحِدَةٍ، وَذَلِكَ لِقَلْبِهِمْ"، فَأَنْزَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ: (إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) (الجمعة: 9)

* * ابن سیرین بیان کرتے ہیں: اہل مدینہ نے نبی اکرم ﷺ کی تشریف آوری سے پہلے اور جمعہ کا باقاعدہ حکم نازل ہونے سے پہلے جمعہ کی نماز ادا کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ لوگ اسے جمعہ کا نام دیتے تھے انصار نے یہودیوں کے بارے میں کہا کہ ہفتہ میں ایک دن ایسا ہے جس میں یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں یہی بات انہوں نے عیسائیوں کے بارے میں کہی تو آؤ! کیوں نہ ہم بھی ایک دن مخصوص کر لیں جس میں ہم اکٹھے ہوا کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں نماز ادا کیا کریں اور اس نماز میں اُس کا شکر کیا کریں یا جیسے بھی انہوں نے کہا پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہفتہ کا دن یہودیوں کے لیے مخصوص ہے اتوار کا دن عیسائیوں کے لیے مخصوص ہے تو انہوں نے "عروبہ" کے دن کو اپنے لیے مخصوص کر لیا وہ لوگ جمعہ کے دن کو "عروبہ" کا دن کہتے تھے وہ لوگ حضرت اسعد بن زرارة رضی اللہ عنہ کے پاس اکٹھے ہوتے تھے وہ انہیں اُس دن نماز پڑھایا کرتے تھے اور انہیں وعظ و نصیحت کرتے تھے تو ان لوگوں نے اس دن کا نام جمعہ رکھا۔ جب وہ لوگ حضرت اسعد بن زرارة رضی اللہ عنہ کے پاس اکٹھے ہوتے تھے تو حضرت اسعد بن زرارة رضی اللہ عنہ ان کے لیے بکری ذبح کرتے تھے اور ایک ہی بکری کے ذریعہ ان کے صبح اور شام کے کھانے کا انتظام کرتے تھے اس کی

وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کی تعداد کم تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں آیت نازل کی:
”جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر (یعنی نماز) کی طرف جلدی کرو۔“

5145 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَنْ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ زَعَمُوا، قُلْتُ: أَبَامِرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَمَهْ
** ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: سب سے پہلے جمعہ پڑھانے کا آغاز کس نے کیا تھا؟
انہوں نے جواب دیا: لوگ یہ کہتے ہیں کہ بنو عبدالدار سے تعلق رکھنے والے ایک شخص نے کیا تھا۔ میں نے دریافت کیا: کیا نبی اکرم ﷺ کے حکم کے تحت؟ انہوں نے جواب دیا: تو اور کیا!

5146 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرِ بْنِ هَاشِمٍ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ لِيُقْرَأَ بِهِمُ الْقُرْآنَ، فَاسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بِهِمْ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ يَوْمَئِذٍ بِأَمِيرٍ، وَلَكِنَّهُ انْطَلَقَ يُعَلِّمُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ، قَالَ مَعْمَرٌ: فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَقُولُ: حَيْثَمَا كَانَ أَمِيرٌ، فَإِنَّهُ يَعِظُ أَصْحَابَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ

** زہری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اہل مدینہ کی طرف بھیجا تا کہ وہ ان لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں تو انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے یہ اجازت مانگی کہ وہ ان لوگوں کو اکٹھا کر لیا کریں، نبی اکرم ﷺ نے انہیں اجازت دی اس وقت وہ امیر نہیں تھے لیکن اہل مدینہ کی تعلیم و تربیت کے لیے جانے لگے تھے۔
معمر بیان کرتے ہیں: زہری فرماتے ہیں: جہاں بھی امیر موجود ہوگا وہ جمعہ کے دن اپنے ساتھیوں کو وعظ و نصیحت کرے گا اور انہیں دو رکعت پڑھائے گا۔

بَابُ الْإِمَامِ يُجْمَعُ حَيْثُ كَانَ

باب: امام کا جمعہ پڑھانا خواہ وہ جہاں کہیں بھی ہو

5147 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ سَعِيدِ الْمَكِّيِّ أَنَّهُ كَانَ مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ مُتَبَدِّي بِالسُّوَيْدَاءِ، وَهُوَ فِي أَمَارَتِهِ عَلَى الْحِجَازِ قَالَ: " فَحَضَرَتِ الْجُمُعَةُ فَهَيَّنُوا لَهُ مَجْلِسًا مِنَ الْبَطْحَاءِ، ثُمَّ أَذِنَ الْمُؤَذِّنُ لِلصَّلَاةِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَجَلَسَ عَلَى ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، ثُمَّ أَذِنُوا أَذَانًا آخَرَ، ثُمَّ خَطَبَهُمْ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، وَأَعْلَنَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ: إِنَّ الْإِمَامَ يُجْمَعُ حَيْثُ كَانَ

** صالح بن سعد کی بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے جو سویدہ کے مقام پر

ویرانہ میں مقیم تھے یہ ان دنوں کی بات ہے جب وہ حجاز کے گورنر تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: جمعہ کے وقت ہوا تو ان لوگوں نے کھلے میدان میں ان کے لیے محفل مقرر کی، پھر مؤذن نے نماز کے لیے اذان دی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے پاس تشریف لے گئے وہ اس محفل میں تشریف فرما ہوئے، پھر ان لوگوں نے دوسری اذان دی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے انہیں خطبہ دیا، پھر نماز کھڑی ہوئی تو انہوں نے انہیں دو رکعت پڑھائی، جس میں انہوں نے بلند آواز میں قرأت کی جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا: امام جہاں کہیں بھی ہوگا وہ جمعہ پڑھائے گا۔

5148 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ قَالَ: قَدِمَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مَكَّةَ

فِي حَجِّ، أَوْ عُمْرَةٍ فَجَمَعَ بِهِمْ وَهُوَ مُسَافِرٌ

* * * عطاء خراسانی بیان کرتے ہیں: عمر بن عبدالعزیز حج یا عمرہ کے موقع پر مکہ تشریف لائے تو انہوں نے لوگوں کو جمعہ

پڑھایا حالانکہ وہ مسافر تھے۔

5149 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مَسْلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ كَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي فِي

قَرْيَةٍ فِيهَا أَمْوَالٌ كَثِيرٌ، وَأَهْلٌ وَنَاسٌ أَفْجَمِعُ بِهِمْ وَلَسْتُ بِأَمِيرٍ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأَن يُجَمِّعَ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَأَذِنَ لَهُ فَجَمَعَ بِهِمْ وَهُمْ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَى هِشَامٍ حَتَّى يَأْذَنَ لَكَ فَافْعَلْ "

* * * زہری بیان کرتے ہیں: مسلمہ بن عبدالملک نے انہیں خط میں لکھا کہ میں ایک ایسی بستی میں رہتا ہوں جہاں

اموال اور گھر اور لوگ بہت زیادہ ہیں تو کیا میں ان لوگوں کو جمعہ پڑھاؤں حالانکہ میں امیر نہیں ہوں؟ تو انہوں نے جواب میں لکھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت مانگی تھی کہ وہ اہل مدینہ کو اکٹھا کر لیا کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی تھی تو وہ ان لوگوں کو اکٹھا کرتے تھے کیونکہ ان دنوں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اس بارے میں ہشام کو خط لکھو اور وہ تمہیں اجازت دیدے تو پھر ایسا کر لو۔

5150 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: تَوَتَّى الْجُمُعَةَ مِنْ فَرَسَخَيْنِ

* * * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جمعہ کی ادائیگی کے لیے دو فرسخ کے فاصلہ سے بھی آیا جائے گا۔

بَابُ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ شُهُودُ الْجُمُعَةِ

باب: کس شخص پر جمعہ میں شرکت واجب ہوتی ہے؟

5151 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ

كَانُوا يَجْتَمِعُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَذَلِكَ سِتَّةَ أَمْيَالٍ، قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ

فَنَادَا، فَرَسَخَيْنِ

*** زہری بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ ذوالحلیفہ کے رہنے والے لوگ نبی اکرم ﷺ کی اقتداء میں جمعہ میں شریک ہوتے تھے۔

زہری بیان کرتے ہیں: یہ چھ میل کے فاصلہ پر ہے۔ معمر نقل کرتے ہیں: قتادہ یہ فرماتے ہیں: یہ دو فرسخ کے فاصلہ پر ہے۔
5152 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ رَاجِعًا إِلَى أَهْلِهِ

*** قتادہ اور حسن بصری بیان کرتے ہیں: جمعہ کی ادائیگی ہر ایسے شخص پر لازم ہوگی جو (جمعہ ادا کرنے کے بعد) رات ہونے تک اپنے گھر واپس جاسکتا ہو۔

5153 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ: "مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ؟" قَالَ: فَقَالَ: عَشْرَةَ أَمْيَالٍ إِلَى بَرِيدٍ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: جمعہ کے لیے کتنی دور سے آیا جائے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا: دس میل سے لے کر ایک برید تک (کے فاصلہ سے)۔

5154 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَنْزِلُونَ إِلَى الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعَةِ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةٍ

*** ابن شہاب بیان کرتے ہیں: پہلے زمانہ میں لوگ جمعہ کے دن نماز کی ادائیگی کے لیے چار میل یا چھ میل کے فاصلہ سے آیا کرتے تھے۔

5155 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: سِئِلَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ وَأَنَا أَسْمَعُ: مِنْ أَيْنَ تُؤْتَى الْجُمُعَةُ؟ قَالَ: مِنْ مَدَى الصَّوْتِ

*** داؤد بن قیس بیان کرتے ہیں: عمرو بن شعیب سے سوال کیا گیا، میں اس وقت یہ بات سن رہا تھا کہ جمعہ کے لیے کتنے فاصلہ سے آیا جائے گا؟ انہوں نے جواب دیا: جہاں تک (مؤذن کی) آواز جاتی ہے۔

5156 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الْمُسَيْبِ يَسْأَلُهُ: عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ؟ قَالَ: عَلَى مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ

*** عثمان بن محمد کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے سعید بن مسیب کو پیغام بھیج کر ان سے دریافت کیا کہ کس شخص پر جمعہ کی ادائیگی واجب ہوتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جو شخص اذان کی آواز سنتا ہے۔

5157 - آثار صحابہ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَتْ: كَانَ أَبِي يَكُونُ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ، فَكَانَ رُبَّمَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ وَرُبَّمَا لَهُ يَشْهَدُهَا
 *** حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی عائشہ بیان کرتی ہیں: میرے والد مدینہ منورہ سے چھ یا شہید آئے

میل کے فاصلہ پر رہتے تھے تو بعض اوقات مدینہ منورہ میں جمعہ کی نماز میں شریک ہوتے تھے اور بعض اوقات شریک نہیں ہوتے تھے۔

5158 - آثار صحابہ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ قَالَ: كَانَ أَنَسٌ يَكُونُ فِي أَرْضِهِ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَصْرَةِ ثَلَاثَةٌ أَمْيَالٍ، فَيَشْهَدُ الْجُمُعَةَ بِالْبَصْرَةِ * * ثابت بنانی بیان کرتے ہیں: حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنی زمین میں ہوتے تھے اُن کے اور بصرہ کے درمیان تین میل کا فاصلہ تھا تو وہ بصرہ میں جمعہ کی نماز میں شریک ہوتے تھے۔

5159 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَكُونُ بِالْوَهْطِ، فَلَا يَشْهَدُ الْجُمُعَةَ مَعَ النَّاسِ بِالطَّائِفِ، وَأَمَّا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّائِفِ أَرْبَعَةٌ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ * * عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ”وہط“ کے مقام پر موجود ہوتے تھے تو وہ لوگوں کے ساتھ طائف میں جمعہ میں شریک نہیں ہوتے تھے اُن کے اور طائف کے درمیان چار یا شاید تین میل کا فاصلہ تھا۔

5160 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ الْأَسَدِيِّ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَكُونُ عَلَى رَأْسِ خَمْسَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْمَدِينَةِ فَيَجْمَعُ وَيَنْزِلُ * * ابو ہریرہ اسدی بیان کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے پانچ میل کے فاصلہ سے آ کر جمعہ میں شریک ہوتے تھے اور (مدینہ منورہ میں) پڑاؤ کرتے تھے۔

5161 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّ مُعَاوِيَةَ، كَانَ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى شُهُودِ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ بِدِمَشْقَ، فَيَقُولُ: اشْهَدُوا الْجُمُعَةَ يَا أَهْلَ كَذَا، يَا أَهْلَ كَذَا، حَتَّى يَدْعُو أَهْلَ مَاتَرِينَ، وَأَهْلَ فَائِنَ حِينَئِذٍ مِنْ دِمَشْقَ عَلَى أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ مِيلاً، فَيَقُولُ: اشْهَدُوا يَا أَهْلَ فَائِنَ

* * سلیمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دمشق میں منبر پر لوگوں کو جمعہ میں شریک ہونے کی طرف بلایا کرتے تھے وہ فرماتے تھے: اے فلاں علاقہ کے رہنے والو! اے فلاں علاقہ کے رہنے والو! تم لوگ جمعہ میں شریک ہو جاؤ۔ یہاں تک کہ وہ ماترین اور فائین کے رہنے والوں کو بھی بلاتے تھے جو اُس وقت دمشق سے چوبیس میل کے فاصلہ پر تھا۔ وہ یہ فرماتے ہیں: اے فائین کے رہنے والو! تم بھی شریک ہو۔

5162 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لَهَابَةَ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، كَانَ يَقُومُ عَلَى مَنْبَرِهِ فَيَقُولُ: يَا أَهْلَ قُرْدَا، وَيَا أَهْلَ دَامِرَةَ، قَرَيْتَيْنِ مِنْ قُرَى دِمَشْقَ، إِحْدَاهُمَا عَلَى أَرْبَعِ فَرَاسِخَ، وَالْأُخْرَى عَلَى خَمْسَةِ، إِنَّ الْجُمُعَةَ لَرِزْمَتِكُمْ، وَأَنْ لَا جُمُعَةَ إِلَّا مَعَنَا * * عبدہ بن ابولبابہ بیان کرتے ہیں: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنے منبر پر کھڑے ہو کر یہ فرماتے تھے: اے قردہ کے

رہنے والو! اے دامرہ کے رہنے والو! یہ دمشق کے دونو احمی گاؤں ہیں جن میں سے ایک چار فرسخ کے فاصلہ پر ہے اور دوسرا پانچ فرسخ کے فاصلہ پر ہے جمعہ تم پر لازم ہو گیا ہے اور جمعہ صرف ہمارے ساتھ ہی ادا کیا جاسکتا ہے۔

5163 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: بَلَّغْنَا أَنَّ رِجَالًا، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَهِدُوا بَدْرًا، أُصِيبَتْ أَبْصَارُهُمْ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْدَهُ، فَكَانُوا لَا يَتْرُكُونَ شُهُودَ الْجُمُعَةِ، فَلَا نَرَى أَنْ يَتْرُكَ الْجُمُعَةَ مَنْ وَجَدَ إِلَيْهَا سَبِيلًا

*** ابن شہاب بیان کرتے ہیں: ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کے اصحاب میں سے بعض حضرات جنہیں غزوہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل ہے ان کی بینائی نبی اکرم ﷺ کے زمانہ اقدس یا شاید اس کے بعد رخصت ہو گئی تو یہ حضرات جمعہ کو ترک نہیں کرتے تھے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کی ادائیگی کے لیے آسکتا ہو وہ جمعہ ترک نہیں کر سکتا۔

5164 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ) (الجمعة: 9) أَلَيْسَتْ النِّسَاءُ مَعَ الرِّجَالِ؟ قَالَ: لَا، وَسَأَلْنَا عَبْدَ الرَّزَّاقِ: مَنْ آيَن يُسْتَحَبُّ مِنْ أَنْ تَوْتِيَ الْجُمُعَةُ؟ فَقَالَ: مِنْ قَرْيَةِ الرَّحْبَةِ إِلَى صَنْعَاءَ وَمِثْلُ هَذَا وَمَا كَانَ أَبْعَدَ مِنْ ذَلِكَ، فَإِنْ شَاءَ وَاحْضَرُوا وَإِنْ شَاءَ وَالَمْ يَحْضَرُوا

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: (ارشاد باری تعالیٰ ہے:)

”اے ایمان والو! جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے۔“

تو کیا اس میں خواتین مردوں کے ساتھ شریک نہیں ہوں گی؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

(کتاب کے ناقل کہتے ہیں:) ہم نے امام عبدالرزاق سے دریافت کیا: کتنے فاصلہ سے جمعہ میں شریک ہونے کے لیے آنا مستحب ہے؟ انہوں نے جواب دیا: رحبہ نامی گاؤں سے لے کر صنعاء جتنے فاصلہ تک یا اس کی مانند اور جو لوگ اس سے زیادہ دور ہوں وہ اگر چاہیں تو جمعہ میں شریک ہو جائیں اور اگر چاہیں تو شریک نہ ہوں۔

بَابُ مَنْ لَمْ يَشْهَدْ الْجُمُعَةَ

باب: جو شخص جمعہ میں شریک نہیں ہوتا

5165 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنِ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَمِعَ الْأَذَانَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ ثُمَّ لَمْ يَحْضُرْ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِينَ

*** محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان نبی اکرم ﷺ کے اصحاب میں سے ایک صاحب کا بیان نقل کرتے ہیں اور میرے علم

کے مطابق انہوں نے اسے نبی اکرم ﷺ تک مرفوع حدیث کے طور پر نقل کیا ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”جو شخص تین جمعوں تک اذان کی آواز سننے کے باوجود (باجماعت نماز میں) شامل نہیں ہوتا اس کا نام منافقین میں نوٹ کر لیا جاتا ہے۔“

5166 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عَلَى أَحَدِكُمْ أَنْ يَتَّخِذَ الضَّيْعَةَ مِنَ الْعُمْرِ عَلَى رَأْسِ الْمِيلَيْنِ مِنَ الْمَدِينَةِ أَوْ الثَّلَاثَةِ، ثُمَّ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلَا يَشْهَدُهَا، ثُمَّ يَأْتِيَ الْجُمُعَةَ فَلَا يَشْهَدُهَا، فَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.

* * محمد بن عباد بن جعفر روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”جو شخص مدینہ منورہ سے دو یا تین میل کے فاصلہ پر رہائش اختیار کرتا ہے پھر جمعہ کا دن آتا ہے تو وہ اس میں شریک نہیں ہوتا پھر جمعہ کا دن آتا ہے تو وہ اس میں شریک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔“

5167 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

* * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

5168 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِينَاءَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ: لَيْسَتْهُنَّ أَقْوَامٌ عَنْ تَخَلُّفِهِمْ عَنِ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْطَبَعَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَلِيُكْتَبَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، قَالَ مَعْمَرٌ: رُبَّمَا قَالَ: الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ أَحَدِهِمَا

* * حضرت عبداللہ بن میناء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے منبر کی لکڑیوں پر موجود رہتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا:

”یا تو کچھ لوگ جمعہ میں شریک نہ ہونے سے باز آ جائیں گے یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر ضرور مہر لگا دے گا اور ان کا نام غافل لوگوں میں نوٹ کر لے گا۔“

معمر نامی راوی نے بعض اوقات اس روایت کو حکم بن میناء کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے نقل کیا ہے۔

5169 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفُ الْعَبْدِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ أَبِي الْحَسَنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ جُمُعٍ مُتَوَالِيَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُدْرٍ، فَقَدْ نَبَذَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ

* * حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جو شخص کسی عذر کے بغیر مسلسل چار جمعے ترک کر دیتا ہے تو وہ اسلام کو

پس پشت ڈال دیتا ہے۔

5170 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي اسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَّ رَجُلًا أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقُ فَأَحْرِقُ عَلَى قَوْمٍ بِيوتَهُمْ لَا يَشْهَدُونَ الْجُمُعَةَ

*** حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”میں نے یہ ارادہ کیا کہ کسی شخص کو ہدایت کروں وہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور پھر میں جا کر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو جمعہ میں شریک نہیں ہوئے۔“

5171 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: أَمْرُ فِتْيَانِي فَيَجْمَعُونَ حِزْمًا مِنْ حَطَبٍ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، تاہم اس میں یہ الفاظ ہیں:

”میں کچھ نوجوانوں کو حکم دوں وہ لکڑیوں کے گٹھے اکٹھے کریں۔“

5172 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَخَلَّفَ يَوْمًا عَنِ الْجُمُعَةِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: مَنَعَنِي هَذَا الطِّينُ وَالرَّدْغُ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةَ يَقُولُ: لِأَنَّ الْقِيَّ النَّاسَ رَاجِعِينَ مِنَ الْحَجِّ فَقَدْ فَاتَنِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَلْقَاهُمْ رَاجِعِينَ مِنَ الْجُمُعَةِ

*** معمر نے قتادہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ وہ جمعہ کی نماز میں شریک نہیں ہوئے، اُن سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا: میں مٹی اور کچھڑ کی وجہ سے نہیں آسکا۔

معمر کہتے ہیں: قتادہ یہ فرماتے ہیں: میں حج سے واپس جانے والے لوگوں سے ایسے عالم میں ملاقات کروں کہ میرا حج فوت

5170- صحیح مسلم - کتاب المساجد ومواضع الصلاة' باب فضل صلاة الجمعة - حدیث: 1078، صحیح ابن خزیمة - کتاب الجمعة المختصر من المختصر من السند على الشرط الذي ذكرنا' ابواب الصلاة قبل الجمعة - باب التغليظ في التخلف عن شهود الجمعة' حدیث: 1737، مستخرج ابی عوانة - مبتدا كتاب الجمعة' والتشديد في ترك حضورها - حدیث: 2036، صحیح ابن حبان - باب الإمامة والجماعة' فصل في فضل الجماعة - ذكر الخبر المدحض قول من زعم ان العلة في هؤلاء الذين' حدیث: 2122' المستدرک على الصحيحين للحاكم - كتاب الجمعة' واما حدیث حسان بن عطية - حدیث: 1017، مصنف ابن ابی شیبة - كتاب الجمعة' في تفريط الجمعة وتركها - حدیث: 5459، شرح معانی الآثار للطحاوی - باب الصلاة الوسطی ای الصلوات؟' حدیث: 597، مشكل الآثار للطحاوی - باب بیان مشكل ما روى عن عبد الله بن مسعود' حدیث: 5125، مسند احمد بن حنبل' مسند عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ - حدیث: 3635، مسند الطیالسی - ما اسند عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ' حدیث: 310، مسند ابی یعلیٰ البوصلی - مسند عبد الله بن مسعود' حدیث: 5207، المعجم الاوسط للطبرانی - باب السین' من اسمه سهل - حدیث: 3720، المعجم الصغير للطبرانی - من اسمه سهل' حدیث: 480

ہو چکا ہو یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں ان لوگوں کو جمعہ سے واپس جاتے ہوئے ملوں (اور میرا جمعہ رہ گیا ہو)۔

5173 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ يَوْمًا وَاحِدًا لَمْ تَكُنْ لَهُ كَفَّارَةٌ دُونَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

* * حکم بیان کرتے ہیں: جو شخص ایک جمعہ ترک کر دیتا ہے تو قیامت سے پہلے تک اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔

5174 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: لَأَنْ أَشْرَبَ كَأْسًا مِنْ خَمْرٍ أَوْ قَالَ: أَوْ قَبَّةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ تَرْكِ الْجُمُعَةِ مُتَعَمِّدًا

* * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں شراب کا پیالہ پی لوں (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں): اوقیہ پی لوں یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں جان بوجھ کر جمعہ ترک کروں۔

بَابُ الْقُرَى الصَّغَارِ

باب: چھوٹی بستیوں کا حکم

5175 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ

* * حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: صرف جامع شہر کے اندر جمعہ اور تشریق ادا کیے جاسکتے ہیں۔

5176 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَابِرٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ، مِثْلَ ذَلِكَ، وَزَادَ: وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ جَامِعٍ

* * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، تاہم اس میں یہ الفاظ منقول ہے:

”اور صرف کسی جامع مسجد میں اعتکاف کیا جاسکتا ہے۔“

5177 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ وَكَانَ يَعُدُّ الْأَمْصَارَ: الْبَصْرَةَ، وَالْكُوفَةَ، وَالْمَدِينَةَ، وَالْبَحْرَيْنِ، وَمِصْرَ، وَالشَّامَ، وَالْجَزِيرَةَ، وَرُبَّمَا قَالَ: الْيَمَنُ وَالْيَمَامَةُ،

* * حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جمعہ اور تشریق کسی جامع شہر میں ادا کیے جاسکتے ہیں، وہ بصرہ، کوفہ، مدینہ منورہ، بحرین، مصر، شام، جزیرہ کوہ شہر شمار کرتے تھے، بعض اوقات انہوں نے یمن اور یمامہ کا بھی نام لیا ہے۔

5178 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: وَاسِطٌ مِصْرٌ

* * مجاہد فرماتے ہیں: واسط، شہر ہے۔

5179 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا الْقَرْيَةُ الْجَامِعَةُ؟ قَالَ: ذَاتُ الْجَمَاعَةِ، وَالْأَمِيرِ، وَالْقِصَاصِ، وَالذُّورِ الْمُجْتَمِعَةِ غَيْرِ الْمُفْتَرِقَةِ، الْأَخِذِ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ كَهَيْئَةِ جُدَّةٍ قَالَ: وَالْقِصَاصُ قَالَ: فَجُدَّةٌ جَامِعَةٌ وَالطَّائِفُ قَالَ: وَإِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ فَنُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَحَقَّ عَلَيْكَ أَنْ تَشْهَدَهَا إِنْ سَمِعْتَ الْأَذَانَ أَوْ لَمْ تَسْمَعْهُ

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: جامع بستی کون سی ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا: جہاں (مسلمانوں کی) جماعت موجود ہو، امیر ہو، قصاص لیا جاتا ہو، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے گھر اور محلے ہوں جو ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں جیسے جدہ شہر ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہاں قصاص لیا جاسکتا ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جدہ اور طائف شہر ہیں۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم کسی ایسی جامع بستی میں موجود ہو اور وہاں جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم پر لازم ہے کہ تم اس نماز میں شریک ہو، خواہ تم وہ اذان سنتے ہو یا نہیں سنتے ہو۔

5180 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ أَمَرَ أَهْلَ قُبَا، وَأَهْلَ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلَ الْقُرَى الصَّغَارِ حَوْلَهُ، أَنْ لَا تَجْمَعُوا، وَأَنْ تَشْهَدُوا الْجُمُعَةَ بِالْمَدِينَةِ

*** ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے اہل قباء کو اور ذوالحلیفہ کے رہنے والوں کو اور اس کے آس پاس کی چھوٹی بستی کے رہنے والوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم لوگ (اپنے علاقہ میں) جمعہ ادا نہ کرو بلکہ تم مدینہ منورہ میں جمعہ کی نماز میں شریک ہو۔

5181 - اقوال تابعین: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْمِيَاهِ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ أَنْ تَجْمَعُوا، فَقَالَ عَطَاءٌ عِنْدَ ذَلِكَ: فَقَدْ بَلَّغْنَا أَنْ لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ *** ایوب بیان کرتے ہیں: عمر بن عبدالعزیز نے مکہ اور مدینہ کے درمیان موجود چشموں کے پاس کی آبادی کو یہ خط لکھا کہ تم لوگ جمعہ (اپنے علاقہ میں) ادا نہ کرو اس موقع پر عطاء نے یہ کہا کہ ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ جمعہ صرف کسی جامع شہر میں ادا کیا جاسکتا ہے۔

5182 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَّغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بِأَصْحَابِهِ فِي سَفَرٍ، وَخَطَبَهُمْ مُتَوَكِّئًا عَلَى قَوْسٍ *** ابن جریر بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی اکرم ﷺ سفر کے دوران اپنے اصحاب کو جمعہ پڑھایا کرتے تھے آپ کمان کے ساتھ ٹیک لگا کر ان لوگوں کو خطبہ دیتے تھے۔

5183 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْنَا أَنْ لَا جُمُعَةَ إِلَّا فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ

*** عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں: ہم نے یہ بات سن رکھی ہے کہ جمعہ صرف جامع بستی میں ادا کیا جاسکتا ہے۔

5184 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ: إِذَا كَانَ

الْمَسْجِدُ يُجْمَعُ فِيهِ الصَّلَاةُ فَلْتَصَلْ فِيهِ الْجُمُعَةَ

*** عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں: جب مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہو تو وہاں جمعہ ادا کیا جائے گا۔

5185 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى أَهْلَ الْمِيَاهِ بَيْنَ

مَكَّةَ وَالْمَدِينَةَ يُجْمَعُونَ فَلَا يَعْيبُ عَلَيْهِمْ

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مکہ اور مدینہ کے درمیان پانی کے آس پاس کی چھوٹی آبادیوں کو

جمعہ ادا کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور ان پر اعتراض نہیں کرتے تھے۔

5186 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَتْ عَرَفَةُ، وَلَا الظَّهْرَانُ، وَلَا

سَرْفٌ، وَلَا أَهْلُ وَاوَدِنَا هَذِهِ بِجَامِعَةٍ

*** ابن جریج نے عطاء کا یہ قول نقل کیا ہے: عرفہ ظہران سرف اور ہماری یہ وادیاں یہ جامع (شہر) نہیں ہیں۔

5187 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي قَرْيَةٍ غَيْرِ جَامِعَةٍ، فَجَمَعَ

أَهْلُهَا فَإِنْ شِئْتَ تَجْمَعُ مَعَهُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا إِلَّا أَنْ تَسْمَعَ النِّدَاءَ، فَإِنْ جَمَعْتَ مَعَهُمْ فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فِي

رَكَعَتَيْنِ فِرْزِدْ رَكَعَتَيْنِ وَلَا تَقْصِرْ مَعَهُمْ

*** ابن جریج نے عطاء کا یہ قول نقل کیا ہے: جب تم کسی غیر جامع بستی میں موجود ہو اور وہاں کے رہنے والے جمعہ ادا

کریں تو اگر تم چاہو تو ان کے ساتھ جمعہ ادا کر لو اور اگر چاہو تو ادا نہ کرو البتہ اگر تم اذان کی آواز سن لیتے ہو تو حکم مختلف ہوگا جب تم

ان کے ساتھ جمعہ ادا کرو تو جب امام دو رکعات پڑھنے کے بعد سلام پھیرے تو تم مزید دو رکعات پڑھ لو تم ان لوگوں کے ساتھ کی

نہ کرو۔

5188 - اقوال تابعین: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: "سَأَلْتُهُ عَنِ الْقَرْيَةِ غَيْرِ

الْجَامِعَةِ يُجْمَعُونَ وَيُقْصَرُونَ الصَّلَاةَ قَالَ: قُلْتُ: أَجْمَعُ مَعَهُمْ وَأَقْصِرُ قَالَ: نَعَمْ"

*** معمر نے زہری کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ ہم نے ان سے ایسی بستی کے بارے میں دریافت کیا جو جامع

نہ ہو لیکن وہاں کے لوگ جمعہ ادا کرتے ہوں اور نماز کو قصر کرتے ہوں (یعنی جمعہ کی دو رکعات ادا کرتے ہوں) فرض کی چار رکعات

ادا نہ کرتے ہوں) تو میں نے دریافت کیا: کیا میں ان لوگوں کے ساتھ جمعہ ادا کرتے ہوئے نماز کو مختصر ادا کروں گا؟ انہوں نے

جواب دیا: جی ہاں!

5189 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: لَا جُمُعَةَ، وَلَا أَضْحَى،

وَلَا فِطْرًا، إِلَّا مَنْ حَضَرَ الْإِمَامَ

*** سلیمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں: جمعہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز صرف وہاں ادا کی جائے گی جہاں امام موجود ہو۔

5190 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ أَهْلَ الْبَصْرَةِ لَا يَسْعَهُمُ الْمَسْجِدُ الْأَكْبَرُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: لِكُلِّ قَوْمٍ مَسْجِدٌ يُجْمَعُونَ فِيهِ، ثُمَّ يُجْزَأُ ذَلِكَ عَنْهُمْ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَانْكَرَ النَّاسُ ذَلِكَ أَنْ يُجْمَعُوا إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا آپ نے اہل بصرہ کو دیکھا ہے کہ سب سے بڑی مسجد میں وہ سارے پورے نہیں آتے تو پھر وہ کیا کریں گے؟ انہوں نے فرمایا: ہر قوم کی الگ مسجد ہوگی جس میں وہ جمعہ ادا کریں گے یہ چیز ان کے لیے کفایت کر جائے گی۔ ابن جریج بیان کرتے ہیں: لیکن لوگوں نے ان کی یہ بات نہیں مانی اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ صرف بڑی مسجد میں جمعہ ادا کیا جاسکتا ہے۔

بَابُ الْإِمَامِ لَا يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَمَا يُصَلِّي

باب: جب امام جمعہ کے دن خطبہ نہ دے تو وہ کتنی رکعات ادا کرے گا؟

5191 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَجُلٍ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْطُبْ، وَصَلَّى أَرْبَعًا، فَخَطَّأَتْهُ، فَلَمَّا سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ؟ إِذَا هُوَ قَدْ أَصَابَ *** ایوب نے ابن سیرین کا یہ بیان نقل کیا ہے: میں نے ایک شخص کی اقتداء کی جمعہ کی نماز ادا کی، اُس نے خطبہ نہیں دیا تھا، اُس نے چار رکعات ادا کیں۔ میں نے اُسے غلط قرار دیا لیکن جب میں نے اس بارے میں تحقیق کی تو پتا چلا کہ اُس نے ٹھیک کیا ہے۔

5192 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاهِمٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ إِمَامٍ لَمْ يَخْطُبْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: فَقَامَ الضَّحَّاكُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا قَضَى الصَّلَاةَ جَعَلَهُنَّ أَرْبَعًا، قَالَ سُفْيَانُ، وَقَالَ غَيْرُهُ: اسْتَقْبَلَ الصَّلَاةَ أَرْبَعًا، وَلَا يَعْتَدُ بِمَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ

*** زبیر بیان کرتے ہیں: ضحاک بن مزاحم نے جمعہ کے دن امام کی اقتداء میں نماز ادا کی، اس امام نے خطبہ نہیں دیا اور صرف دو رکعات پڑھائیں، راوی کہتے ہیں: تو ضحاک کھڑے ہوئے اور انہوں نے امام کی نماز ختم ہونے کے بعد دو رکعات مزید ادا کیں اور انہوں نے اپنی نماز کو چار رکعات کر لیا۔

سفیان اور دیگر راویوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ آدمی نئے سرے سے چار رکعات ادا کرے گا وہ امام کے ساتھ ادا کی گئی نماز کو شمار نہیں کرے گا۔

5193 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَ لِإِمَامٍ قَرْيَةً غَيْرَ جَامِعَةٍ أَنْ يَخْطُبَ

ثُمَّ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا

*** ابن جریج نے عطاء کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ غیر جامع شہر کی بستی کے امام کے لیے انہوں نے یہ بات مکروہ قرار دی ہے کہ وہ خطبہ دینے کے بعد چار رکعات ادا کرے۔

عطاء یہ فرماتے ہیں: جب جمعہ کے دن امام خطبہ نہیں دے گا تو وہ چار رکعات ادا کرے گا۔

5194 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِذَا لَمْ

يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا

*** ابو معشر، ابراہیم نخعی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: وہ فرماتے ہیں: جب امام جمعہ کے دن خطبہ نہیں دے گا تو وہ

چار رکعات ادا کرے گا۔

5195 - اقوال تابعین: قَالَ سَعِيدٌ وَأَخْبَرَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ عَلَى كُلِّ حَالٍ

*** قتادہ نے حسن بصری کا یہ بیان نقل کیا ہے: ایسا امام ہر حال میں دو رکعات ادا کرے گا۔

بَابُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ

باب: کس شخص پر جمعہ لازم ہوتا ہے؟

5196 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ جُمُعَةٌ

*** ابن جریج نے عطاء کا یہ بیان نقل کیا ہے: خاتون اور غلام پر جمعہ لازم نہیں ہے۔

5197 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ

*** طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: مسافر پر جمعہ لازم نہیں ہے۔

5198 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ، وَكَانَ يَقُولُ: لَيْسَ لِلْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ

*** نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ وہ سفر کے دوران جمعہ کے دن غسل نہیں

کرتے تھے وہ یہ فرماتے تھے: مسافر پر جمعہ لازم نہیں ہے۔

5199 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى

الْمَرْأَةِ، وَلَا عَلَى الْمَمْلُوكِ، وَلَا عَلَى الْمُسَافِرِ، وَلَا عَلَى الصَّبِيِّ جُمُعَةٌ

*** امام شعبی بیان کرتے ہیں: خاتون پر غلام پر مسافر پر اور نابالغ بچے پر جمعہ لازم نہیں ہے۔

5200 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ مَنْ كَانَ عَلَى حَرَامٍ فَرَغِبَ اللَّهُ عَنْهُ فَبَحَوْلَهُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ

أَحْسَنَ مِنْ مُحْسِنٍ مُؤْمِنٍ أَوْ كَافِرٍ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ فِي عَاجِلِ دُنْيَاهُ، أَوْ آجِلِ آخِرَتِهِ، وَمَنْ صَلَّى صَلَاةً
صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرَةَ، وَمَنْ دَعَا لِي دَعْوَةً حُطَّتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ، وَالْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَوْ قَالَ: مَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَالْجُمُعَةُ حَقٌّ عَلَيْهِ إِلَّا عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَرِيضًا، فَمَنْ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ
عَنْهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*** محمد بن کعب قرظی روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”جو شخص حرام پر عمل پیرا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اُسے اس سے بے رغبت کر کے اُسے دوسری چیز کی طرف پھیر دے اور جو
شخص کسی اچھائی کرنے والے شخص کے ساتھ اچھائی کرے خواہ وہ دوسرا شخص مؤمن ہو یا کافر ہو تو اُس شخص کا اجر اللہ
تعالیٰ کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے جو دنیا میں جلدی ملے گا یا آخر کار آخرت میں مل جائے گا اور جو شخص (مجھ پر) ایک
مرتبہ درود بھیجتا ہے اُس پر دس مرتبہ رحمت نازل ہوتی ہے اور جو میرے لیے ایک مرتبہ دعا کرتا ہے اُس کے گناہ مٹا
دیئے جاتے ہیں اور جمعہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔“

(راوی کوشک ہے شاید آپ نے یہ فرمایا:)

”جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو تو اُس پر جمعہ ادا کرنا لازم ہوگا البتہ غلام عورت بچے اور بیمار کا حکم مختلف ہے جو
لوگ دلچسپی کی کسی چیز یا تجارت کی وجہ سے اس میں شریک نہیں ہو پاتے تو اللہ تعالیٰ اُن سے بے نیاز ہے اور اللہ تعالیٰ
بے نیاز ہے اور لائق حمد ہے۔“

5201 - آثار صحابہ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ،

أَنَّهُ رَأَى ابْنَ مَسْعُودٍ يُخْرِجُ النِّسَاءَ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَيَقُولُ: اخْرُجْنَ إِلَى بُيُوتِكُنَّ خَيْرٌ لَكُنَّ

*** ابو عمرو شیبانی بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے مسجد سے خواتین کو

نکال دیا اور فرمایا: تم نکل کر اپنے گھر چلی جاؤ وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہیں۔

5202 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا لَا يُجْمَعُونَ فِي

سَفَرٍ، وَلَا يُصَلُّونَ إِلَّا رَكَعَتَيْنِ

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: پہلے لوگ سفر کے دوران جمعہ ادا نہیں کرتے تھے اور صرف دو رکعات ہی ادا کرتے تھے۔

5203 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى الْمَسَافِرِ جُمُعَةٌ

*** حسن بصری روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”مسافر پر جمعہ لازم نہیں ہے۔“

5204 - اقوال تابعین: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: أَيَّمَا عَبْدٍ كَانَ يُؤَدَى

الْخَرَاجَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ خَرَاجٌ أَوْ شَغَلَهُ عَمَلٌ سَيِّدِهِ فَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهِ

*** قنارہ فرماتے ہیں: جو بھی غلام خراج ادا کرتا ہو اُس پر یہ لازم ہوگا کہ وہ جمعہ میں شریک ہو اور اگر کسی غلام پر خراج کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی یا کسی غلام کے آقا کا کام اُسے مصروف رکھتا ہے تو اُس پر جمعہ کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی۔

5205 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسَافِرِ، يَمُرُّ بِقَرْيَةٍ فَيَنْزِلُ

فِيهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: إِذَا سَمِعَ الْإِذَانَ فَلْيَشْهَدْ الْجُمُعَةَ

*** معمر نے زہری کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: میں نے مسافر شخص کے بارے میں دریافت کیا جو کسی بستی

سے گزرتا ہے اور جمعہ کے دن وہاں پڑاؤ کر لیتا ہے۔ تو زہری نے فرمایا: جب وہ اذان کی آواز سنے گا تو جمعہ میں شریک ہوگا۔

5206 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ:

لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ

*** سعید بن مسیب فرماتے ہیں: مسافر پر جمعہ ادا کرنا لازم نہیں ہے۔

5207 - حدیث نبوی: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ

الْقُرَظِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالْعَبِيدِ جُمُعَةٌ

*** محمد بن کعب قرظی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”خواتین اور غلاموں پر جمعہ لازم نہیں ہے۔“

بَابُ وَقْتِ الْجُمُعَةِ

باب: جمعہ کا وقت

5208 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: "كُلُّ عِيدٍ حِينَ يَشْتَدُّ الضَّحَى:

الْجُمُعَةُ وَالْأَضْحَى وَالْفِطْرُ" كَذَلِكَ بَلَّغْنَا

*** عطاء فرماتے ہیں: ہر عید اُس وقت ادا کی جائے گی جب دن چڑھ چکا ہو جمعہ، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، ہم تک یہی

روایت پہنچی ہے۔

5209 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ: هَجَرْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ عُمَرُ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ وَأَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي آذَانِهِ

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جمعہ کے دن میں جلدی آ گیا جب سورج ڈھلا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ

تشریف لائے وہ منبر پر بیٹھے تو مؤذن نے اذان دینا شروع کی۔

5210 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ

سیدان قال: شهدت الجمعة مع أبي بكرٍ فقضى صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدت الجمعة مع عمرٍ فقضى صلاته وخطبته مع زوال الشمس

*** عبد اللہ بن سیدان بیان کرتے ہیں: میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں جمعہ میں شریک ہوا تو انہوں نے نصف النہار سے پہلے ہی اپنی نماز اور خطبہ کو مکمل کر لیا، پھر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں جمعہ میں شریک ہوا تو انہوں نے سورج ڈھلنے کے ساتھ ہی اپنی نماز اور خطبہ کو مکمل کر لیا۔

5211 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، عن يزيد بن هرم قال: أخبرني ابان بن عثمان قال: كنا نصلي الجمعة مع عثمان فراجع فنقيل

*** ابان بن عثمان فرماتے ہیں: ہم لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں جمعہ ادا کرنے کے بعد واپس آ کر قیلول کرتے تھے۔

5212 - آثار صحابة: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: بلغني أن عثمان، كان يجمع ثم يقيل الناس بعد الصلاة

*** قنادہ بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جمعہ پڑھا لیتے تھے تو لوگ اُس کے بعد قیلول کرتے تھے۔

5213 - اقوال تابعين: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني مصعب بن شيبة بن جبير، أنه سمع عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة، يُحبر الوليد بن عبد الملك قال: كنا نجتمع مع نافع بن عبد الملك في الحجر فقال عطاء: قد بلغنا ذلك

*** مصعب بن شیبہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے عمر بن عبد اللہ کو ولید بن عبد الملک کو یہ بتاتے ہوئے سنا: ہم نافع بن عبد الملک کے ساتھ ”حجر“ میں جمعہ ادا کرتے تھے۔

عطاء بیان کرتے ہیں: ہم تک بھی اس بارے میں روایت پہنچی ہے۔

5214 - آثار صحابة: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن يوسف بن ماهك قال: قدم معاذ بن جبل من الشام فوجد أهل مكة يصلون الجمعة في الحجر، فنهروهم أن يصلوها حتى تفيء الكعبة من وجهها، وذلك الزوال

*** یوسف بن ماہک بیان کرتے ہیں: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ شام سے تشریف لائے تو انہوں نے اہل مکہ کو حطیم کے اندر جمعہ کی نماز ادا کرتے ہوئے پایا تو انہیں اس بات پر ڈانٹا اور یہ کہا کہ وہ اُس وقت نماز ادا کریں کہ جب خانہ کعبہ کا سایہ اُس کے سامنے ہو یہ زوال کے وقت کی بات ہے۔

5215 - اقوال تابعين: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني سعيد بن جعفر، أن أباه أخبره أنه أدرك

عُبَيْدُ بْنُ أَبِي سُوَيْبَانَ يَجْمَعُ بِالنَّاسِ فِي الْحَجْرِ شَدَّ النَّهَارِ قَائِمًا بِالْأَرْضِ لَيْسَ تَحْتَهُ شَيْءٌ

*** سعید بن جعفر اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عتبہ بن ابوسفیان کو حطیم کے اندر لوگوں کو جمع پڑھاتے ہوئے پایا جبکہ دن پوری طرح زمین پر قائم تھا اور ان کے نیچے کوئی چیز (چادر یا چٹائی وغیرہ) نہیں تھی۔

5216 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمِيعِ الْحَنْفِيِّ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: "كُنَّا نَجْمَعُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ثُمَّ نَنْصَرِفُ فَيَكُونُ الْفَيْءُ أَحْيَانًا، وَأَحْيَانًا لَا يَكُونُ لَا نَرَاهُ يَقُولُ: نَرَاهُ أَحْيَانًا، وَأَحْيَانًا لَا نَرَاهُ"

*** ابوزین بیان کرتے ہیں: ہم حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں جمعہ ادا کرتے تھے پھر ہم واپس آتے تھے تو بعض اوقات سایہ ہوتا تھا اور بعض اوقات ہمیں سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں: بعض اوقات ہم اسے دیکھ لیتے تھے اور بعض اوقات ہم اسے نہیں دیکھتے تھے۔

5217 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمِيعِ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ قَالَ: كُنَّا

نَجْمَعُ مَعَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، فَمَا أَذْرَى أَزَالَتِ الشَّمْسُ، أَمْ لَمْ تَزَلْ *** اسماعیل بن سمیع نے ایک شخص کا یہ بیان نقل کیا ہے: ہم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں جمعہ ادا کرتے تھے تو یہ پتا نہیں چلتا تھا کہ کیا سورج ڈھل چکا ہے یا نہیں ڈھلا ہے؟

5218 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا نَوَى الصَّلَاةَ

قَالَ: الْعَزِيمَةُ عِنْدَ التَّذَكُّرَةِ، كَانَ - يَعْنِي إِذَا خَطَبَ - *** مجاہد فرماتے ہیں: جب آدمی نماز کی نیت کرے گا تو وہ یہ کہے گا: نصیحت کے وقت عزیمت اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ خطبہ دے رہا ہو۔

5219 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: إِذَا نُودِيَ

لِلصَّلَاةِ قَالَ: هُوَ الْوَقْتُ *** مسروق فرماتے ہیں: جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو یہی نماز کا وقت ہے۔

5220 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ: كُنَّا نَجْمَعُ

مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَقِيلُ *** زید بن وہب فرماتے ہیں: ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں جمعہ ادا کر کے واپس آنے کے بعد قیلولہ کرتے تھے۔

5221 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ فَضِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ

قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِنَا الْجُمُعَةَ إِذَا سَقَطَ آذُنَى الْفَيْءِ

*** محمد بن کعب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ ہمیں جمعہ کی نماز اُس وقت پڑھاتے تھے جب تھوڑا سا سایہ ڈھل چکا ہوتا تھا۔

5222 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، إِذَا أَدَّنَ الْإِمَامُ الْأَوَّلُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الصِّنَاعَاتُ كُلُّهَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْبَيْعِ

*** عطاء فرماتے ہیں: جب پہلی اذان ہوگی تو ہر طرح کا کام حرام ہو جائے گا اور اس کا حکم بھی خرید و فروخت کی مانند ہو گا۔

5223 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْرِ، عَنِ الصَّحَّاحِ بْنِ مَزَاهِمٍ قَالَ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، حَرُمَ الْبَيْعُ

*** صحاح بن مزاحم بیان کرتے ہیں: جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے جب سورج ڈھل جائے تو پھر خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے۔

5224 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْأَذَانُ الَّذِي يَحْرُمُ فِيهِ الْبَيْعُ الْأَذَانُ عِنْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَارَى أَنْ يَتْرَكَ الْبَيْعَ الْآنَ عِنْدَ الْأَذَانِ الْأَوَّلِ

*** زہری فرماتے ہیں: وہ اذان جس کے ہونے کے وقت خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے یہ وہ اذان ہے جو امام کے آنے کے وقت دی جاتی ہے۔

زہری بیان کرتے ہیں: میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پہلی اذان کے ساتھ ہی خرید و فروخت ترک کر دینی چاہیے۔

5225 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، حَرُمَ الشِّرَاءُ وَالْبَيْعُ

*** قتادہ بیان کرتے ہیں: جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے۔

5226 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ: إِنْ ابْتَاعَ رَجُلٌ بَعْدَ الزَّوَالِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ وَكَانَ يَقُولُ: كُلُّ عَامِلٍ بِيَدِهِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَعْمَلَ

*** عبدالکریم بن ابوامیہ بیان کرتے ہیں: اگر کوئی شخص زوال کے بعد کوئی چیز خریدتا ہے تو یہ بیع فاسد شمار ہوگی۔ وہ یہ فرماتے ہیں: ہاتھ کے ذریعہ کام کرنے والا ہر کارگر جب (جمعہ کے دن) سورج ڈھل جائے تو اُس کے لیے کام کرنا جائز نہیں ہو گا۔

5227 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: خَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَلَقِينِي مُسْلِمُ بْنُ نَوْفَلٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَصَلَّيْتُمْ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ: لَقَدْ صَلَّيْتُمَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَوَضَعَ الْمِنْبَرَ فِي الْحِجْرِ

*** عکرمہ بن خالد بیان کرتے ہیں: جمعہ کے دن میں مسجد سے باہر نکلا تو مسلم بن نوفل کی مجھ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دریافت کیا: کیا تم نے نماز ادا کر لی ہے؟ میں نے جواب دیا: جی نہیں! انہوں نے کہا: میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں یہ نماز ادا کی تھی تو انہوں نے منبر حطیم میں رکھا تھا۔

5228 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِذَا كَانَتْ قَرْيَةٌ غَيْرَ جَامِعَةٍ لَمْ يَنْبَغِ لَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ حَتَّى تَزِيغَ الشَّمْسُ، وَتَرْتَفِعَ فِي الظُّهْرِ حِينَئِذٍ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: جب کوئی بستی جامع نہ ہو تو کیا وہاں کے لوگوں کے لیے جمعہ ادا کرنا جائز ہوگا جب سورج ڈھل جائے اور وہ ظہر میں بھی تھوڑا سا زیادہ وقت ہونے کا انتظار کریں گے۔

5229 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ تَعْلَمُ مِنْ شَيْءٍ يَحْرُمُ إِذَا أُذِنَ بِالأُولَى سِوَى البَيْعِ قَالَ: نَعَمْ، الصِّنَاعَاتُ قُلْتُ: فِكِتَابٌ أَرَادَ انْسَانٌ أَنْ يَكْتُبَهُ حِينَئِذٍ؟ قَالَ: وَلَا شَيْئًا، قُلْتُ: فَمَتَاعٌ أَرَادَ أَنْ يُجَهِّزَهُ؟ قَالَ: وَلَا، قُلْتُ: فَأَرَادَ انْسَانٌ أَنْ يَقِيلَ حِينَئِذٍ قَالَ: فَلَا الرُّقَادُ، وَلَا أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ حِينَئِذٍ إِذَا أُذِنَ بِالأُولَى قُلْتُ: إِذَا أُذِنَ بِالأُولَى وَجَبَ سَاعَتِئِذٍ الرَّوَّاحُ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ: نَعَمْ فَلْيَدْعُ حِينَئِذٍ كُلَّ شَيْءٍ وَالرِّيحُ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا آپ کو کسی ایسی چیز کا علم ہے جو پہلی اذان ہونے کے بعد حرام ہو جائے اور خرید و فروخت کے علاوہ ہو؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! کاریگری کے کام۔ میں نے دریافت کیا: اگر آدمی اس وقت میں کوئی خط لکھنے کا ارادہ رکھتا ہو (تو اس کا کیا حکم ہوگا؟) انہوں نے جواب دیا: کچھ بھی نہیں کیا جاسکتا۔ میں نے دریافت کیا: اگر آدمی کوئی ساز و سامان ٹھیک کر رہا ہو؟ انہوں نے جواب دیا: یہ بھی نہیں! میں نے دریافت کیا: اگر کوئی انسان اس وقت میں قیلولہ کرنا چاہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: ایسے وقت میں سویا نہیں جاسکتا اور اس وقت میں جب پہلی اذان ہو چکی ہو تو آدمی اپنی بیوی کے پاس بھی نہیں جاسکتا۔ میں نے دریافت کیا: کیا پہلی اذان جب ہوتی ہے تو اسی وقت (مسجد کی طرف) جانا لازم ہو جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: کیا اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

”جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے۔“

انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! اس وقت میں آدمی ہر چیز چھوڑ دے گا اور (مسجد کی طرف) چلا جائے گا۔

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

باب: جمعہ کے دن قرأت کرنا

5230 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسِنَّةٌ رَفَعُ الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا جمعہ کے دن بلند آواز میں تلاوت کرنا سنت ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

5231 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جریج قال: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُصَلِّي بِنَا الْجُمُعَةَ فَيَقْرَأُ بِنَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ: فَأَدْرَكْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ حِينَ انْصَرَفَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمِعْتُكَ تَقْرَأُ بِسُورَتَيْنِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ يَقْرَأُ بِهِمَا بِالْكُوفَةِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ بِهِمَا، وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ

*** امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اپنے والد (امام محمد باقر رضی اللہ عنہ) کے حوالے سے عبید اللہ بن ابورافع کا یہ بیان نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہمیں جمعہ کی نماز پڑھایا کرتے تھے وہ ہمیں پہلی رکعت میں سورہ جمعہ کی تلاوت کر کے سنا تے تھے اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون کی تلاوت سنا تے تھے۔ عبید اللہ بیان کرتے ہیں: ایک دن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد ان کے پاس موجود تھا میں نے دریافت کیا: اے ابو ہریرہ! میں آپ کو یہ دو سورتیں تلاوت کرتے ہوئے سنتا ہوں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں (جمعہ کی نماز میں) تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دو کی تلاوت کرتے تھے۔

امام عبدالرزاق نے بھی اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے (یعنی جمعہ کے دن ان دو سورتوں کی تلاوت سنت ہے)۔

5232 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن أبي رافع، أن علياً، كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة، وإذا جاءك المنافقون قال: فذكرت ذلك لأبي هريرة، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك

*** امام جعفر صادق اپنے والد کے حوالے سے ابورافع کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن (جمعہ کی نماز میں) سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کرتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: میں نے اس کا تذکرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کیا تو انہوں نے فرمایا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

5233 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن معمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع بهاتين السورتين في الجمعة بسورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون

*** حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کی نماز میں ان دو سورتوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہوئے سنا ہے: سورہ جمعہ اور سورہ منافقون۔

5234 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن الثوري، عن مخل، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبیر، عن

ابن عباس قال: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْفَجْرِ بِتَنْزِيلِ السَّجْدَةِ، وَهَلْ آتَى عَلَيَّ الْإِنْسَانُ؟ وَكَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَإِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ

* * * حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ تنزیل السجدہ اور سورہ الدھر کی تلاوت کرتے تھے اور آپ جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت کرتے تھے۔

5235 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُتَشِيرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ آتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

* * * حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کی نماز میں سورہ الاعلیٰ اور سورہ الغاشیہ کی تلاوت کرتے تھے۔

5236 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: " كَتَبَ الضَّحَّاكُ بْنُ قَيْسٍ إِلَى النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَسْأَلُهُ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَعَ سُورَةِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: بِهَلْ آتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ "

* * * عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بیان کرتے ہیں: ضحاک بن قیس نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کو خط لکھ کر ان سے دریافت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سورہ جمعہ کے ہمراہ (دوسری رکعت میں) کون سی سورت کی تلاوت کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا: سورہ الغاشیہ کی۔

5237 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

* * * طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سورہ جمعہ کی اور سورہ طلاق کی تلاوت کرتے تھے۔

5238 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرْتُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَفِي صَلَاةِ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْم تَنْزِيلُ وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ

* * * حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ کی اور سورہ الاعلیٰ کی تلاوت کرتے تھے جبکہ جمعہ کے دن صبح کی نماز میں سورہ الم تنزیل اور سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے۔

5239 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْفَجْرِ بِم تَنْزِيلِ السَّجْدَةِ، وَبِ هَلْ آتَى عَلَيَّ

الْإِنْسَانِ"، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ نَأْخُذُ

* * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ الم تنزیل السجدہ اور سورہ دھر کی تلاوت کرتے تھے۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

5240 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ بِِ الْم تَنْزِيلُ وَسُورَةَ مِنَ الْمُفْصَلِ، وَرُبَّمَا قَالَ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ

* * حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ فجر کی نماز میں سورہ الم تنزیل اور مفصل سورتوں سے تعلق رکھنے والی کسی سورت کی تلاوت کرتے تھے (بعض اوقات راوی نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں: اور سورہ دھر کی تلاوت کرتے تھے۔

بَابُ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: نبی اکرم ﷺ کے منبر کا مقام

5241 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْبَرِي عَلَى رَوْضَةٍ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ، فَمَنْ حَلَفَ عِنْدَهُ عَلَى سِوَاكَ اخْضَرَ كَادِبًا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، لِيُبَلِّغَ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ

* * عمر بن عطاء بن ابو خوار بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”میرا منبر جنت کے ایک باغ پر ہے جو شخص اس کے پاس کسی سبز مسواک کے بارے میں بھی جھوٹی قسم اٹھائے گا تو وہ جہنم میں اپنے ٹھکانہ تک پہنچنے کے لیے تیار رہے، موجود لوگ غیر موجود لوگوں تک اس کی تبلیغ کر دیں۔“

5242 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمَّارِ الدَّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ.

5242- صحیح ابن حبان - کتاب الحج، باب - ذکر رجاء نوال الجنان للبراء، حدیث: 3809، السنن للنسائی - کتاب البساجد، فضل مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصلاة فیہ - حدیث: 693، السنن الکبریٰ للنسائی - کتاب المساجد، فضل مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصلاة فیہ - حدیث: 761، مشکل الآثار للطحاوی - باب بیان مشکل ما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: 2411، السنن الکبریٰ للبیہقی - جماع ابواب وقت الحج والعمرة، جماع ابواب الهدی - باب منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: 9667، مسند احمد بن حنبل - مسند الانصار، مسند النساء - حدیث ام سلمة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: 25932، مسند الحمیدی - احادیث ام سلمة زوجة النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: 285، مسند ابی یعلیٰ البوصلی - مسند ام سلمة زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: 6816، المعجم الکبیر للطبرانی - باب الیاء، ما اسندت ام سلمة - عمار الدهنی، حدیث: 19415

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ قَوَائِمَ مِنْبَرِي رَوَاتِبُ فِي الْجَنَّةِ
 * * * سیرہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے:
 ”میرے منبر کے پائے جنت میں گڑے ہوئے ہیں۔“

5243 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ
 عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَيْنَ بَيْتِي وَبَيْنَ مِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ،
 وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي

* * * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کا ایک باغ ہے اور میرا منبر میرے حوض پر ہوگا۔“

5244 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوَّامَةِ أَنَّ بَاقُولَ، مَوْلَى
 الْعَاصِ بْنِ أُمَيَّةَ صَنَعَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْبَرَهُ مِنْ طَرَفَاءِ ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ فَلَمَّا قَدِمَ مُعَاوِيَةَ الْمَدِينَةَ زَادَ
 فِيهِ فَكَسِفَتِ الشَّمْسُ حِينَئِذٍ

* * * صالح جو توامہ کے غلام ہیں وہ بیان کرتے ہیں: عاص بن امیہ کے غلام باقول نے نبی اکرم ﷺ کے لیے آپ کا
 منبر بنکال کی لکڑیوں سے تیار کیا تھا جس میں تین درجے تھے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے اس میں
 اضافہ کیا تو اس دن سورج گرہن ہو گیا۔

5245 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَبَيْتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ
 الْجَنَّةِ

* * * حضرت عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

”میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کی جگہ جنت کا ایک باغ ہے۔“

5243- صحیح البخاری - کتاب الجمعة ابواب تقصير الصلاة - باب فضل ما بين القبر والمنبر حديث: 1153 صحیح
 مسلم - کتاب الحج باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة - حديث: 2544 صحیح ابن حبان - کتاب الحج
 باب - ذكر رجاء نوال النبر المسلم بالطاعة روضة من رياض الجنة إذا حديث: 3810 موطا مالك - کتاب القبلة باب
 ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم - حديث: 464 مصنف ابن ابي شيبة - كتاب الفضائل باب ما اعطى الله
 تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم - حديث: 31021 مشكل الآثار للطحاوي - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله
 صلى الله عليه حديث: 2414 السنن الكبرى للبيهقي - جماع ابواب وقت الحج والعمرة جماع ابواب الهدى - باب في
 الروضة حديث: 9658 مسند احمد بن حنبل مسند ابي هريرة رضي الله عنه - حديث: 7064 مسند الحارث - كتاب
 الحج باب في فضل مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - باب فيما بين القبر والمنبر حديث: 395

بَابُ اعْتِمَادِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْعَصَا

باب: نبی اکرم ﷺ کا عصا کے ساتھ ٹیک لگانا

5246 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: " أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ إِذَا خَطَبَ عَلَى عَصَا؟ قَالَ: نَعَمْ، كَانَ يَعْتَمِدُ عَلَيْهَا اعْتِمَادًا، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اتَّخَذَ عَسِيْبًا مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، يُسَكِّتُ بِهِ النَّاسَ، وَيُشِيرُ بِهِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: يَا مُحَمَّدُ، لِمَ تَكْسِرُ قُرُونَ رَعِيَّتِكَ؟ فَأَلْقَاهُ، فَجَاءَهُ جَبْرِيْلُ وَمِيكَائِيلُ، فَقَالَ مِيكَائِيلُ: إِنَّ رَبَّكَ يُخَيِّرُكَ أَنْ تَكُونَ مَلِكًا نَبِيًّا، أَوْ نَبِيًّا عَبْدًا، فَنظَرَ إِلَى جَبْرِيْلَ، فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ تَوَاضِعَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلْ نَبِيٌّ عَبْدٌ فَقَالَ جَبْرِيْلُ: فَإِنَّكَ سَيِّدٌ وَلِدِ آدَمَ، وَإِنَّكَ أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ، وَأَوَّلُ مَنْ يَشْفَعُ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا نبی اکرم ﷺ جب خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو عصا کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! نبی اکرم ﷺ اُس کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں: عمر بن عطاء نے مجھے یہ بات بتائی ہے: نبی اکرم ﷺ نے کھجور کی ایک شاخ کی چھڑی بنوائی تھی جس کے ذریعہ آپ لوگوں کو خاموش کروایا کرتے تھے اور اُس کے ذریعہ اشارہ بھی کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ اے محمد! تم اپنی رعایا کے سینگوں کو کیوں توڑتے ہو۔ تو نبی اکرم ﷺ نے اُس چھڑی کو رکھ دیا پھر حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہما السلام نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت میکائیل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں عرض کی: آپ کے پروردگار نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ یا تو آپ ایک بادشاہ نبی بن جائیں یا عبد نبی جائیں! نبی اکرم ﷺ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کے ذریعہ اشارہ کیا کہ آپ تواضع اختیار کریں تو نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: میں عبد نبی بننا چاہوں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی: آپ اولادِ آدم کے سردار ہیں اور آپ وہ پہلے شخص ہوں گے جن کے لیے (قیامت کے دن) زمین کوشق کیا جائے گا اور وہ پہلے شخص ہوں گے جو شفاعت کریں گے۔

5247 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلِكٌ فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يُخَيِّرُكَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ نَبِيًّا عَبْدًا، أَوْ نَبِيًّا مَلِكًا، فَنظَرَ إِلَى جَبْرِيْلَ كَأَلْمُسْتَشِيرِ لَهُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ تَوَاضِعَ، فَقَالَ: بَلْ نَبِيٌّ عَبْدٌ فَمَا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ مُتَكِنًا بَعْدَ ذَلِكَ "، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَلَمْ يَأْتِهِ الْمَلِكُ قَبْلَ ذَلِكَ وَلَا بَعْدُ

*** زہری بیان کرتے ہیں: ایک فرشتہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اُس نے عرض کی: آپ کے پروردگار نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ یا تو آپ عبد نبی بن جائیں یا بادشاہ نبی بن جائیں! تو نبی اکرم ﷺ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف مشورہ طلب انداز میں دیکھا تو انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ تواضع اختیار کریں تو نبی اکرم ﷺ نے

نے فرمایا: میں عبد نبی بننا چاہوں گا! اُس کے بعد کبھی بھی نبی اکرم ﷺ کو ٹیک لگا کر کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔

زہری بیان کرتے ہیں: وہ فرشتہ اُس سے پہلے یا اُس کے بعد کبھی نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا۔

5248 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، أخبرني جعفر بن محمد، عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم

كَانَ يَتَخَصَّرُ بِعُرْجُونَ مِنْ بَنَاتِ طَابٍ، قَالَ سُفْيَانُ: وَهُوَ عُرْجُونَ مُسْتَقِيمٌ، وَيَكُونُ فِيهِ عَوْجٌ فَيَقَامُ قَالَ: فَاصَابَ بِذَلِكَ الْعُرْجُونَ سَوَادَةَ بْنَ غَزِيَةَ الْأَنْصَارِيَّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْقَوْدُ، فَقَالَ: نَعَمْ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ مُحْتَاجٌ إِنَّمَا أَرَادَ أَنْ تُعْطِيَهُ شَيْئًا، فَأَمَكَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْقَوْدِ فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، فَرَضَخَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَأَمَّا مَعْمَرٌ فَأَخْبَرَنَا عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: سَوَادَةُ بْنُ عَمْرٍو

* * امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اپنے والد (امام محمد باقر رضی اللہ عنہ) کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کھجور کی ایک شاخ

کے ذریعے ٹیک لگایا کرتے تھے۔ سفیان کہتے ہیں: وہ بالکل سیدھی شاخ تھی اور اُس میں تھوڑا سا بل تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے وہ شاخ حضرت سوادہ بن غزیہ انصاری رضی اللہ عنہ کو ماری تو انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! اس کا بدلہ ہوگا! تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ٹھیک ہے! لوگوں کو یہ بات بہت گراں گزری! انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! یہ شخص محتاج ہے اور یہ چاہتا ہے کہ آپ اُسے کچھ دے دلا کے (فارغ کر دیں) لیکن نبی اکرم ﷺ نے اُسے بدلہ لینے کا موقع دیا تو اُس نے نبی اکرم ﷺ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ نبی اکرم ﷺ نے اُس کے بعد اُسے کچھ عطیات بھی دیئے۔

حسن بصری کے حوالے سے یہ بات منقول ہے: اُس صحابی کا نام حضرت سوادہ بن عمرو رضی اللہ عنہ تھا۔

5249 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن الثوري، عن يونس، عن الحسن قال: أتى النبي صلى الله عليه

وسلم جبريل صلوات الله عليهما أو ملك ومعه النبي صلى الله عليه وسلم فضيب قال: لا تكسر قرون أمك

* * حسن بصری بیان کرتے ہیں: حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے یا شاید کوئی

اور فرشتہ حاضر ہوا نبی اکرم ﷺ کے پاس اُس وقت ایک چھڑی تھی تو اُس فرشتے نے کہا: آپ اپنی امت کے سینگ نہ توڑیں!

5250 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم

اتخذ عسيباً من نخل يسكت به الناس، فأوحى الله إليه: يا محسن لا تكسر قرون أمك، فما ربي العسيب معه بعد

* * حسن بصری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے کھجور کی ایک چھڑی بنوائی ہوئی تھی جس کے ذریعے آپ لوگوں کو

خاموش کروایا کرتے تھے تو نبی اکرم ﷺ کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی۔ اے محمد! تم اپنی امت کے سینگوں کو نہ توڑو۔ اُس کے بعد نبی اکرم ﷺ کے پاس کبھی وہ چھڑی نہیں دیکھی گئی۔

5251 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي جَابِرِ الْبَيَّاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَوَكَّأُ عَلَى عَصَا، وَهُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذْ كَانَ يَخْطُبُ إِلَى الْجِدْعِ، فَلَمَّا صَنَعَ الْمِنْبَرَ قَامَ عَلَيْهِ، وَتَوَكَّأَ عَلَى الْعَصَا أَيْضًا

*** سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ عصا سے ٹیک لگایا کرتے تھے جب آپ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے ہوتے تھے پہلے آپ کھجور کے تنے کے ساتھ لگ کر خطبہ دیتے تھے جب آپ نے منبر بنایا تو آپ اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے پھر بھی آپ عصا کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے۔

5252 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَنَيْسِ السُّلَمِيَّ عَصَا، فَقَالَ: خُذْ هَذِهِ فَتَخَصَّرْ بِهَا وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُخْتَصِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَلِيلٌ قَالَ: فَلَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَيْسٍ دُفِنَتْ تِلْكَ الْعَصَا مَعَهُ

*** سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے حضرت عبداللہ بن انیس سلمی رضی اللہ عنہ کو عصا دے دیا اور فرمایا تم یہ لو اور اس کے ساتھ ٹیک لگایا کرو اور یہ بات یاد رکھنا کہ قیامت کے دن ٹیک لگانے والے لوگ تھوڑے ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں: جب حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ عصا ان کے ساتھ دفن کیا گیا۔

بَابُ الْخُطْبَةِ قَائِمًا

باب: کھڑے ہو کر خطبہ دینا

5253 - حدیث نبوی: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَى جِدْعِ نَخْلَةٍ مَنْصُوبٍ فِي الْمَسْجِدِ فَيَخْطُبُ، حَتَّى يَدَّ لَهُ أَنْ يَتَّخِذَ الْمِنْبَرَ، فَاسْتَشَارَ ذَوِي الرَّأْيِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَرَأَوْا أَنْ يَتَّخِذَهُ، فَاتَّخَذَ مِنْبَرًا، فَلَمَّا جَاءَتِ الْجُمُعَةُ، أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَمْشِي حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا فَقَدَهُ الْجِدْعُ حَنَّ حَيْنًا أَفْرَعَ النَّاسَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَجْلِسِهِ، حَتَّى جَاءَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ فَمَسَحَهُ فَهَذَا فَلَمْ يُسْمَعْ مِنْهُ حَيْنٌ بَعْدَ ذَلِكَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: فَلَوْلَا مَا فَعَلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

*** حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ جمعہ کے دن کھجور کی ایک ٹہنی کے ساتھ لگ کر کھڑے ہوتے تھے جسے مسجد میں گاڑا گیا تھا پھر آپ خطبہ دیتے تھے یہاں تک کہ آپ کو یہ مناسب لگا کہ آپ منبر بنوالیں آپ نے اس بارے میں سمجھدار مسلمانوں سے مشورہ لیا تو ان لوگوں کا خیال تھا کہ آپ منبر بنوالیں تو آپ نے منبر بنوالیا جب جمعہ کا دن آیا تو نبی اکرم ﷺ چلتے ہوئے اس منبر پر تشریف فرما ہوئے جب کھجور کے تنے نے آپ کو غیر موجود پایا تو وہ رونے لگا جس سے لوگ

جھرا گئے تو نبی اکرم ﷺ اپنی جگہ سے اٹھے آپ اُس تنے کے پاس تشریف لائے آپ اُس کے پاس آ کر کھڑے ہوئے آپ نے اُس پر ہاتھ پھیرا تو اُسے سکون آیا اور پھر اُس کے رونے کی آواز آنی بند ہو گئی۔

معمر بیان کرتے ہیں: میں نے ایک صاحب کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ اگر نبی اکرم ﷺ اُس کے ساتھ یہ طرز عمل اختیار نہ کرتے تو وہ قیامت کے دن تک روتا رہتا۔

5254 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ اسْتَسْنَدَ إِلَى جِدْعٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا صُنِعَ لَهُ مَنبَرُهُ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ اضْطَرَبَتْ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَنِينِ النَّاقَةِ حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلَ الْمَسْجِدِ حَتَّى نَزَلَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَنَقَهَا فَسَكَتَتْ "

*** حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ جب خطبہ دیتے تھے تو مسجد کے ستونوں میں سے ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا لیتے تھے جب آپ کا منبر بنا دیا گیا تو آپ اُس پر تشریف فرما ہوئے تو وہ ستون یوں رونے لگا جس طرح کوئی اونٹنی روتی ہے یہاں تک کہ اُس کی آواز اہل مسجد نے سنی تو نبی اکرم ﷺ اپنی جگہ سے نیچے اتر کر اُس کے پاس تشریف لے گئے آپ نے اُسے گلے سے لگایا تو وہ خاموش ہوا۔

5255 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَا فَعَلَ الْجِدْعُ الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ إِلَيْهِ إِذَا خَطَبَ؟ قَالَ: دُفِنَ فِي الْمَسْجِدِ

*** معمر بیان کرتے ہیں: میں نے اہل مدینہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص سے سوال کیا: کھجور کے تنے کا کیا بنا؟ جس کے پاس نبی اکرم ﷺ خطبہ دیتے ہوئے کھڑا ہوا کرتے تھے؟ اُس نے جواب دیا: اُسے مسجد میں دفن کر دیا گیا۔

5256 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَيَخْطُبُ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ قِضًا، وَخُطْبَتُهُ قِضًا، وَيَقْرَأُ آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ عَلَى الْمَنبَرِ

*** حضرت جابر بن سمرة رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ جمعہ کے دن دو خطبوں کے درمیان بیٹھتے تھے پھر آپ خطبہ دیتے تھے آپ کی نماز درمیانی ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا آپ منبر پر قرآن کی کچھ آیات کی تلاوت بھی کرتے تھے۔

5257 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ فَلَا يَتَكَلَّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ خُطْبَةً أُخْرَى فَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ قَاعِدًا فَقَدْ كَذَبَ

*** حضرت جابر بن سمرة رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم ﷺ کو جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہوئے

دیکھا پھر آپ تشریف فرما ہوئے اس دوران آپ نے کوئی کلام نہیں کیا، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے دوسرا خطبہ ارشاد فرمایا جو شخص تمہیں یہ بات بیان کرے کہ نبی اکرم ﷺ بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے تو اُس نے غلط بیانی کی ہوگی۔

5258 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَخْطُبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قِيَامًا، ثُمَّ فَعَلَ ذَلِكَ عُثْمَانُ حَتَّى شَقَّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فَكَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ أَيْضًا فَيَخْطُبُ، فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةَ خَطَبَ الْأُولَى جَالِسًا، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ الْآخِرَةَ قَائِمًا

*** قنادہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم جمعہ کے دن کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے اُس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا کہ جب اُن کے لیے کھڑے ہو کر خطبہ دینا مشکل ہو تو وہ خطبہ کھڑے ہو کر دیتے تھے پھر بیٹھ جاتے تھے پھر دوبارہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو وہ پہلا خطبہ بیٹھ کر دیتے تھے پھر دوسرا خطبہ بیٹھ کر دیتے تھے۔

5259 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَانُوا يَخْطُبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قِيَامًا لَا يَقْعُدُونَ، إِلَّا فِي الْفَصْلِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ "، وَأَوَّلُ مَنْ جَلَسَ مُعَاوِيَةُ، فَلَمَّا كَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ خَطَبَ قَائِمًا، وَضَرَبَ بِرِجْلِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَالَ: " هَذِهِ السُّنَّةُ، فَلَمَّا طَالَ عَلَيْهِ الْأَمْرُ جَلَسَ بَعْدُ

*** سلیمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے یہ حضرات بیٹھ کر خطبہ نہیں دیتے تھے البتہ دو خطبوں کے درمیان فصل پیدا کرنے کے لیے بیٹھ جاتے تھے سب سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیٹھ کر خطبہ دیا جب عبد الملک کا زمانہ آیا تو اُس نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، اُس نے اپنے پاؤں کے ذریعہ منبر پر مارا اور بولا: یہ سنت ہے! لیکن جب اُس کی عمر زیادہ ہو گئی تو وہ بھی بیٹھنے لگ پڑا۔

5260 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: " كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِمًا مَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ، قُلْتُ: بَلَّغَكَ ذَلِكَ مِنْ ثِقَةٍ قَالَ: نَعَمْ مَا شِئْتُ "

*** زہری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ جمعہ کے دن جو خطبہ دیتے تھے وہ کھڑے ہو کر دیتے تھے جس میں آپ دو مرتبہ خطبہ دیتے تھے آپ اُن کے درمیان بیٹھ جاتے تھے۔ معمر بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: کیا یہ روایت کسی ثقہ راوی کے حوالے سے آپ تک پہنچی ہے؟ انہوں نے فرمایا: جی ہاں! جتنا تم چاہتے ہو (اتنا ثقہ راوی ہے)۔

5261 - حدیث نبوی: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مَرَّتَيْنِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ

*** حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ جمعہ کے دن دو مرتبہ خطبہ دیتے تھے جن کے درمیان

آپ بیٹھتے تھے۔

5262 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو قَزَعَةَ قَالَ: أَخَذَ عُثْمَانُ ارْتِعَاشُ فَكَانَ

إِذَا قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَرَاحَ سَاعَةً، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ

* * ابو قزعمہ بیان کرتے ہیں: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ارتعاش محسوس ہوا تو جب وہ منبر پر کھڑے ہوتے تھے تو پہلے کچھ دیر

کے لیے آرام کرتے تھے (یعنی بیٹھ جاتے تھے) پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔

5263 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا اسْتَوَى عَلَى الْمِنْبَرِ يَجْلِسُ، فَإِذَا جَلَسَ أَذِنَ الْمُؤَذِّنُونَ، فَإِذَا سَكَّتُوا قَامَ

يَخْطُبُ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْخُطْبَةِ الْأُولَى جَلَسَ، ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ الْخُطْبَةَ الْآخِرَةَ

* * محمد بن عمر بن علی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جب منبر پر چڑھتے تھے تو آپ بیٹھ جاتے تھے جب

آپ بیٹھ جاتے تھے تو مؤذن اذان دیتا تھا جب مؤذن خاموش ہوتا تھا تو آپ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے جب آپ پہلے خطبہ

سے فارغ ہوتے تھے تو بیٹھ جاتے تھے پھر آپ کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ دیتے تھے۔

5264 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ

مُعَاوِيَةَ اسْتَأْذَنَ النَّاسَ فِي الْجُلُوسِ فِي إِحْدَى الْخُطْبَتَيْنِ، وَقَالَ: إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ، وَقَدْ أَرَدْتُ أَجْلِسُ إِحْدَى

الْخُطْبَتَيْنِ فَجَلَسَ فِي الْخُطْبَةِ الْأُولَى

* * امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اپنے والد (امام محمد باقر رضی اللہ عنہ) کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دو

خطبوں میں سے کسی ایک میں بیٹھنے کی لوگوں سے اجازت مانگی تو انہوں نے کہا: اب میری عمر زیادہ ہو گئی ہے اب میں چاہتا ہوں

کہ دو خطبوں میں سے کسی ایک میں بیٹھ جایا کروں تو وہ پہلے خطبہ میں بیٹھ جایا کرتے تھے۔

5265 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: مَا جَلَسَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنبَرٍ

حَتَّى مَاتَ، مَا كَانَ يَخْطُبُ إِلَّا قَائِمًا، فَكُمْ تُحِبُّونَ أَنْ يُحَسَّ النَّاسُ إِنَّمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو

بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ، يَرْتَفِعُ أَحَدُهُمْ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَيَقُومُ هُوَ قَائِمًا لَا يَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى يَرْتَفِعَ عَلَيْهِ،

وَلَا يَجْلِسُ عَلَيْهِ بَعْدَ حَتَّى يَنْزِلَ، وَإِنَّمَا خُطِبَتُهُ جَمِيعًا، وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنَّمَا كَانُوا يَتَشَهَّدُونَ مَرَّةً وَاحِدَةً الْأُولَى،

وَلَمْ يَكُنْ مَنبَرًا إِلَّا مَنبَرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةَ إِذْ حَجَّ بِمَنبَرِهِ فَتَرَكَهُ فَلَمْ يَزَالُوا يَخْطُبُونَ

عَلَى الْمَنَابِرِ

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرمانے تک کبھی بھی (خطبہ دینے کے دوران) منبر پر تشریف فرما

نہیں ہوئے آپ ہمیشہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے تو تم اس بات کو کتنا پسند کرتے ہو کہ لوگ محسوس کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم ان میں سے کوئی ایک جب منبر پر چڑھتا تھا تو وہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتا تھا وہ

منبر پر بیٹھتا نہیں تھا اور خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد بھی منبر پر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ نیچے آ جاتے تھے اُن کا خطبہ ایک جیسا ہوتا تھا وہ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے ایک مرتبہ وہ پہلے خطبہ میں تشہد کے کلمات پڑھتے تھے اُس وقت صرف نبی اکرم ﷺ کا ہی منبر موجود تھا یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حج کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے اپنا منبر بنوایا اور پہلے والا منبر ترک کر دیا اُس کے بعد لوگ منبر پر بیٹھ کر ہی خطبہ دیتے تھے۔

5266 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَنْ أَوَّلُ مَنْ جَعَلَ فِي الْخُطْبَةِ جُلُوسًا؟ قَالَ: عُثْمَانُ فِي آخِرِ زَمَانِهِ حِينَ كَبِرَ وَأَخَذَتْهُ رِغْدَةٌ، فَكَانَ يَجْلِسُ هُنَيْهَةً ثُمَّ يَقُومُ، قُلْتُ: وَكَانَ يُخْطَبُ إِذَا جَلَسَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: سب سے پہلے بیٹھ کر خطبہ دینے کا آغاز کس نے کیا؟ انہوں نے جواب دیا: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت کے آخری زمانہ میں ایسا کیا، جب اُن کی عمر زیادہ ہو گئی اور اُن کا جسم کپکپانے لگا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتے تھے پھر کھڑے ہوتے تھے۔ میں نے دریافت کیا: جب وہ بیٹھتے تھے تو اس دوران خطبہ دیتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: مجھے نہیں معلوم!

5267 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِي إِلَى الْجُمُعَةِ وَأَنَا غُلَامٌ، فَلَمَّا خَرَجَ عَلَيَّ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، قَالَ أَبِي: أَيُّ عَمْرُو، قُمْ فَانظُرْ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: فَكُنْتُ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَإِذَا هُوَ أَبْيَضُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، عَلَيْهِ إِزَارٌ وَرِدَاءٌ، لَيْسَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ قَالَ فَمَا رَأَيْتُهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى نَزَلَ عَنْهُ، قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: فَهَلْ قُنْتُ؟ قَالَ: لَا

* * ابواسحاق بیان کرتے ہیں: میں اپنے والد کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے گیا، میں کسن لڑکا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے آپ منبر پر چڑھے تو میرے والد نے کہا: اے عمرو! تم اٹھو اور امیر المؤمنین کی زیارت کر لو! راوی کہتے ہیں: میں کھڑا ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے تھے اُن کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے انہوں نے تہ بند باندھا ہوا تھا اور چادر پیشی ہوئی تھی، قمیص نہیں پہنی ہوئی تھی۔ راوی کہتے ہیں: پھر میں نے انہیں منبر پر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، وہ منبر سے نیچے اتر آئے (یعنی خطبہ مکمل کرنے کے بعد نیچے آ گئے)۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے ابواسحاق سے دریافت کیا: کیا انہوں نے دعائے قنوت پڑھی تھی؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

5268 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَخْطُبُ؟ قَالَ: كَانَ يَجْلِسُ فَيَخْطُبُ جَالِسًا، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ أَيضًا، وَكَانَ جُلُوسُهُ أَكْثَرَ ذَلِكَ

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کیسے خطبہ دیتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: وہ پہلے بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے ان

کا بیٹھنے والا حصہ زیادہ ہوتا تھا۔

5269 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ رَأَيْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ حِينَ يَطْلُعُ خَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ مِنْ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يُؤذِنُ سَاعَةَ يَطْلُعُ، فَلَا يَأْتِي خَالِدٌ مَقَامَهُ الَّذِي يَخْطُبُ فِيهِ، إِلَّا وَقَدْ فَرَّغَ أَبُو مَحْذُورَةَ قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ مَنْ مَضَى

*** ابن جریر نے عطاء کا یہ بیان نقل کیا ہے: میں نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب خالد بن سعید بن مخزوم کے دروازہ سے جمعہ کے دن سامنے آتا تو جیسے ہی وہ سامنے آتا تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اذان دے دیتے تھے ابھی خالد اپنی اس جگہ پر نہیں پہنچا ہوتا تھا جہاں بیٹھ کر اُس نے خطبہ دینا تھا کہ اس دوران حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ اذان دے کر فارغ ہو چکے ہوتے تھے۔ وہ یہ فرماتے تھے: پہلے زمانہ کے لوگ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔

5270 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: رَأَيْتُ خَالِدَ بْنَ الْعَاصِ يَخْطُبُ قَائِمًا بِالْأَرْضِ مُسْتِنِدًا إِلَى الْبَيْتِ لَيْسَ بَيْنَ ذَلِكَ جُلُوسٌ، لَا قَبْلُ وَلَا بَعْدُ، خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ، حَتَّى سَقَمَ خَالِدٌ فَكَانَ يَجْلِسُ عَلَى سُلَمٍ قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانُوا يَخْطُبُونَ قِيَامًا بِالْأَرْضِ إِلَّا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنبَرِهِ

*** عطاء بیان کرتے ہیں: میں نے خالد بن العاص کو زمین پر کھڑے ہو کر اور گھر کے ساتھ (یا بیت اللہ کے ساتھ) ٹیک لگا کر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ہے وہ درمیان میں بیٹھتا نہیں تھا نہ پہلے اور نہ بعد میں اور وہ ایک ہی خطبہ دیتا تھا یہاں تک کہ جب خالد بیمار ہو گیا تو وہ میٹھی پر بیٹھ جاتا تھا۔ اُس نے یہ بات بیان کی کہ پہلے لوگ زمین پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے۔

5271 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: "خَطَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَرِيبًا مِنْ سَنَةِ قِيَامًا، ثُمَّ قِيلَ لَهُ: تَطَلَّبُ بِدَمِ عُثْمَانَ وَتُخَالِفُهُ، فَخَطَبَ قَائِمًا وَقَاعِدًا"

*** عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں: حضرت معاویہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ نے تقریباً ایک سال تک کھڑے ہو کر خطبہ دیا پھر اُن سے کہا گیا کہ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے طلبگار ہیں اور اُن کے برخلاف بھی کرتے ہیں۔ تو اُس کے بعد وہ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے۔

بَابُ اسْتِلامِ الْإِمَامِ إِذَا نَزَلَ عَنِ الْمِنْبَرِ

باب: امام جب منبر سے نیچے اترے تو اُس کا استلام کرنا

5272 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَى الْإِمَامَةَ إِذَا نَزَلُوا عَلَى الْمِنْبَرِ اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ قَبْلَ أَنْ يَأْتُوا الْمَقَامَ، أَبْلَغَكَ فِيهِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَسْتَجِبُهُ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا أَنْ اسْتَلَمَ

الرُّكْنِ مَا أَكْثَرَتْ مِنْهُ فَهُوَ خَيْرٌ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں نے حکمرانوں کو دیکھا کہ جب وہ منبر سے نیچے اترتے ہیں تو وہ مقام ابراہیم کے پاس آنے سے پہلے حجر اسود کا استلام کرتے ہیں، تو کیا آپ کو اس بارے میں کوئی روایت پہنچی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! میں نے دریافت کیا: کیا آپ اسے مستحب قرار دیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! البتہ حجر اسود کا جتنا زیادہ استلام کیا جائے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے۔

بَابُ كَمْ تُصَلِّي الْمَرْأَةُ إِذَا شَهِدَتِ الْجُمُعَةَ

باب: جب کوئی خاتون جمعہ کی نماز میں شریک ہو تو وہ کتنی رکعات ادا کرے گی؟

5273 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَمْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي فَزَارَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنْهُمْ قَالَتْ: جَاءَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: إِذَا صَلَّيْتِ مَعَ الْإِمَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلِّيْنَ رَكْعَتَيْنِ، وَإِذَا صَلَّيْتِ فِي بَيْوتِكُنَّ فَصَلِّيْنَ أَرْبَعًا قَالَ سُفْيَانُ: وَالْعَبْدُ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ،

* * ہارون بن عمرو نے بنو فزارہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے حوالے سے ان کے قبیلہ کی ایک خاتون کا یہ بیان نقل کیا ہے: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن ہمارے پاس آتے تھے اور فرماتے تھے: جب تم امام کے ساتھ جمعہ کے دن نماز ادا کر لو تو دو رکعتیں ادا کرو اور جب تم اپنے گھر میں نماز ادا کرو تو چار رکعات ادا کرو۔ سفیان کہتے ہیں: غلام کے لیے بھی یہی حکم ہے۔

5274 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ حُمَيْدِ الْفَزَارِيِّ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنْهُمْ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ قَالَ: وَلَا يَأْتِي عَلَيْكَ عَامٌ، إِلَّا وَهُوَ شَرٌّ مِنَ الَّذِي كَانَ قَبْلَهُ، وَلَمَوْتُ أَهْلِ بَيْتِي أَهْوَنُ عَلَيَّ مَوْتًا مِنْ عَدَدِهِنَّ مِنَ الْجُعْلَانِ، وَلَا تُؤْتُونَ إِلَّا مِنْ قَبْلِ أَمْرَائِكُمْ، وَبِئْسَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَا إِنْ كَذَبْتُ

* * حمید فزاری نے اپنے قبیلہ کی ایک خاتون کے حوالے سے اس کی مانند نقل کیا ہے: جس میں یہ الفاظ زائد ہیں: ”تم پر جو بھی سال آئے گا وہ پہلے والے سے زیادہ برا ہوگا اور میرے اہل خانہ کی موت میرے نزدیک اتنی ہی تعداد میں؟ تنگوں کے مرجانے سے زیادہ ہلکی ہوگی اور تم لوگ حکمرانوں کی طرف سے آؤ گے اور عبداللہ اگر جھوٹ بولے تو وہ بہت برا آدمی ہو“۔

5275 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا شَهِدَتِ النِّسَاءُ الْجُمُعَةَ فَإِنَّهُنَّ يُصَلِّيْنَ رَكْعَتَيْنِ

* * معمر نے قتادہ کا یہ بیان نقل کیا ہے: خواتین جب جمعہ کی نماز میں شریک ہوں گی تو وہ دو رکعات ادا کریں گی۔

5276 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ عَطَاءٍ قَالَ: النِّسَاءُ يُقْضُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَإِنْ كُنَّ فِي الْكِبَاءِ الَّتِي

تَلِي الْمَسْجِدَ

* * * عطاء فرماتے ہیں: خواتین جمعہ کے دن کی قضاء کریں گی اگرچہ وہ اُس روشندان کے نیچے ہوں جو مسجد کے ساتھ

ہوتا ہے۔

5277 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ

* * * ابن جریج بیان کرتے ہیں: ابن شہاب نے یہ بات بیان کی ہے کہ نبی اکرم ﷺ دعا کرتے ہوئے ہاتھ بلند نہیں

کرتے تھے۔

5278 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟

فَقَالَ: حَدَّثْتُ، وَأَوَّلُ مَنْ أَحَدَّثَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ

* * * معمر نے زہری کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ میں نے جمعہ کے دن دونوں ہاتھ بلند کرنے کے بارے میں

دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: یہ بدعت ہے اور اس کا آغاز عبد الملک نے کیا تھا۔

5279 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ عُمَارَةَ بْنِ رُوَيْبَةَ الثَّقَفِيِّ

قَالَ: رَأَى بَشْرَ بْنَ مَرْوَانَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَسَبَّهُ وَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا

يَقُولُ: إِلَّا هَكَذَا وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ السَّبَابِيَةَ

* * * حصین بن عبد الرحمن، حضرت عمارہ بن رویبہ ثقفی رضی اللہ عنہما کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے جمعہ کے دن

بشر بن مروان (نامی گورنر) کو ہاتھ بلند کیے ہوئے دیکھا تو اُسے بُرا کہتے ہوئے فرمایا: میں نے نبی اکرم ﷺ کو دیکھا ہے (کہ

آپ جمعہ کے دن خطبہ دیتے ہوئے) صرف اس طرح اشارہ کرتے تھے۔ حضرت عمارہ رضی اللہ عنہما نے شہادت کی انگلی کے ذریعہ اشارہ

کر کے یہ بات فرمائی۔

5280 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَةَ، عَنِ مَسْرُوقٍ قَالَ:

رَأَيْتُ رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اقْطَعْ أَيْدِيَهُمْ

* * * عبد اللہ بن مرہ نے مسروق کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو جمعہ کے دن اپنے ہاتھ بلند

کیے ہوئے دیکھا، امام اُس وقت خطبہ دے رہا تھا تو انہوں نے فرمایا: اے اللہ! ان کے ہاتھ کاٹ دے۔

بَابُ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ إِذَا صَعِدَ

باب: جب امام (منبر پر) چڑھ جائے تو اُس کا سلام کرنا

5281 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ عَطَاءٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا

صَعِدَ الْمِنْبَرَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

*** عطاء بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ جب منبر پر چڑھتے تھے تو لوگوں کی طرف رخ کرنے کے بعد السلام علیکم

ارشاد فرماتے تھے۔

5282 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُجَالِدًا يُحَدِّثُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ وَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ قَالَ: فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَفْعَلَانِ ذَلِكَ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*** امام شعبی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ جب منبر پر چڑھتے تھے تو لوگوں کی طرف رخ کر کے السلام علیکم ارشاد

فرماتے تھے۔

نبی اکرم ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

بَابُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

باب: منبر پر قرأت کرنا

5283 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ عَنَتْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

*** حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ جمعہ کے دن منبر پر سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت

کرتے تھے۔

5284 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ " أَنَّ عَمَّارَ

بْنَ يَاسِرٍ، قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ ثُمَّ نَزَلَ فَسَجَدَ

*** زربن حبیش بیان کرتے ہیں: حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن منبر پر سورہ انشقاق کی تلاوت کرتے تھے پھر

وہ منبر سے نیچے اتر کر سجدہ تلاوت کرتے تھے۔

5285 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ

قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ قَرَأَ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ، فَقَالَ: قَدْ اقْتَرَبَتِ

السَّاعَةُ، وَقَدْ انْشَقَّ الْقَمَرُ فَالْيَوْمَ الْمِضْمَارُ، وَغَدَا السِّبَاقُ

*** ابو عبد الرحمن سلمی بیان کرتے ہیں: میں نے جمعہ کے دن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو سنا وہ منبر پر موجود تھے انہوں نے

سورہ اقتربت الساعة کی تلاوت کی اور پھر انہوں نے کہا: قیامت قریب آچکی ہے! چاند دو ٹکڑے ہو چکا ہے! آج کا دن مقابلے کا

ہے اور کل منزل تک پہنچنے کا ہوگا۔

5286 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا بَلَغَ السَّجْدَةَ الَّتِي فِيهَا نَزَلَ فَسَجَدَ، فَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ * * * عبد اللہ بن ابوبکر بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے (جمعہ کے دن) منبر پر سورہ اذا السماء انشقت کی تلاوت کی، جب آپ اس آیت پر پہنچے جس میں سجدہ تلاوت ہے تو آپ منبر سے نیچے اترے اور سجدہ تلاوت کیا تو لوگوں نے بھی سجدہ تلاوت کیا۔

بَابُ الْقُنُوتِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

باب: جمعہ کے دن دعائے قنوت پڑھنا

5287 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: لَيْسَ فِي الْجُمُعَةِ قُنُوتٌ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ * * * زہری اور قتادہ فرماتے ہیں: جمعہ کی نماز میں قنوت نہیں ہوگی۔

معمر بیان کرتے ہیں: اس شخص نے مجھے یہ بات بتائی ہے جس نے حسن بصری کو بھی اس کی مانند کہتے ہوئے سنا ہے۔

5288 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْقُنُوتُ فِي رَكْعَتِي الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِالْقُنُوتِ فِي الْمَكْتُوبَةِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ فِي الْجُمُعَةِ قُنُوتٌ * * * ابن جریج عطاء کے بارے میں نقل کرتے ہیں: میں نے ان سے دریافت کیا: کیا جمعہ کی دو رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جائے گی؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے فرض نمازوں میں سے صرف صبح کی نماز میں دعائے قنوت سنی ہے۔ انہوں نے اس بات کا انکار کیا کہ جمعہ کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جائے۔

5289 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: رَفَعَ الْيَدَيْنِ، وَالْقُنُوتُ فِي الْجُمُعَةِ بَدْعَةٌ * * * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جمعہ کی نماز میں دونوں ہاتھ بلند کرنا اور دعائے قنوت پڑھنا بدعت ہے۔

بَابُ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالطِّيبِ وَالسِّوَاكِ

باب: جمعہ کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا اور مسواک استعمال کرنا

5290 - حدیث نبوی: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ * * * حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم ﷺ کو منبر پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: "تم میں سے جو شخص جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے اسے غسل کر لینا چاہیے۔"

5291 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شَهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

* * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔

5292 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، بَيْنَا هُوَ قَائِمٌ يَخُطُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدَخَلَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَادَاهُ عُمَرُ آيَةُ سَاعَةٍ هَذِهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي شِغِلْتُ الْيَوْمَ فَلَمْ أَنْقَلِبْ إِلَى أَهْلِي حَتَّى سَمِعْتُ الْبِدَاءَ فَلَمْ أَرِدْ عَلَى أَنْ تَوَضَّأْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَالْوُضُوءُ أَيْضًا، وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ بِالْغُسْلِ، قَالَ مَعْمَرٌ: الرَّجُلُ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ

* * زہری نے سالم کے حوالے سے اُن کے والد (حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما) کا یہ بیان نقل کیا ہے: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ جمعہ کے دن کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے اسی دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صاحب مسجد میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں بلند آواز میں پکارا: یہ آنے کا کون سا وقت ہے؟ انہوں نے کہا: آج میں مصروف تھا اپنے گھر واپس گیا جیسے ہی میں نے اذان کی آواز سنی تو وضو کر کے فوراً ادھر آ گیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: صرف وضو کرنا بھی غلط ہے آپ یہ بات جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (جمعہ کے دن) غسل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ معمر بیان کرتے ہیں: وہ صاحب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے۔

5293 - آثار صحابہ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: بَيْنَا عُمَرُ يَخُطُّ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا حَبَسَكَ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا زِدْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْبِدَاءَ أَنْ تَوَضَّأْتُ، ثُمَّ أَقْبَلْتُ، فَلَمَّا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ لَهُ: ابْنُ عَبَّاسٍ: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ عَلِمَ أَنَّا قَدْ أَمَرْنَا بِالْغُسْلِ قَالَ: قُلْتُ: الْمُهَاجِرُونَ خَاصَّةً أَمْ النَّاسُ عَامَّةً؟ قَالَ: لَا أَدْرِي

* * ابن سیرین بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما خطبہ دے رہے تھے اسی دوران ایک شخص (مسجد میں) داخل ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: آپ کہاں رہ گئے تھے؟ انہوں نے کہا: اے امیر المؤمنین! جیسے ہی میں نے اذان سنی ہے وضو کر کے فوراً آ گیا ہوں۔ جب نماز ختم ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اُن سے دریافت کیا: امیر المؤمنین! کیا آپ نے وہ بات نہیں سنی جو اُن صاحب نے کہی تھی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: یہ صاحب جانتے ہیں کہ ہمیں (جمعہ کے دن) غسل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: کیا یہ بطور خاص مہاجرین کو حکم ہے یا سب لوگوں کے لیے عمومی طور پر ہے؟ استاد نے جواب دیا: مجھے نہیں معلوم!

5294 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ

عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُثْمَانَ جَاءَ وَعُمَرُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَانْتَحَى عُمَرُ نَاحِيَةَ الرَّجُلِ يَجْلِسُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الذِّكْرِ، فَقَالَ عُثْمَانُ: يَا أَسِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ سَمِعْتُ الْأُولَى فَتَوَضَّأْتُ، وَخَرَجْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ غَلَبْتَ مَا هُوَ بِالْوَضُوءِ

* * * نگرہ جو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام ہیں وہ بیان کرتے ہیں: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ (مسجد میں) آئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دن جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا خطبہ روک کر ان کی طرف رخ کر کے (ان سے تاخیر کا سبب دریافت کیا) حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا: اے امیر المؤمنین! میں نے جیسے ہی پہلی اذان سنی تو میں وضو کر کے گھر سے نکل آیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ یہ بات جانتے ہیں کہ صرف وضو نہیں ہوتا جمعہ کے دن غسل کرنا چاہیے۔

5295 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ قَدْ بَلَغَ الْحُلُمَ أَنْ يَتَطَهَّرَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا لِلَّهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنْبًا فَلْيَغْسِلْ رَأْسَهُ وَجِلْدَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ الثَّوْرِيُّ لِرَجُلٍ: خُذْ مِنْ أَظْفَارِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: الْجُمُعَةُ غَدًا آخُذُهُ، فَقَالَ الثَّوْرِيُّ: خُذْهُ الْآنَ إِنَّ السَّنَةَ لَا تَخْلَفُ

* * * طاؤس بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”ہر مسلمان شخص جو بالغ ہو چکا ہو اس پر یہ بات لازم ہے کہ وہ ہفتہ میں ایک دن اللہ تعالیٰ کے لیے اچھی طرح طہارت حاصل کرے اگر وہ جنبی نہ ہو تو اپنے سر اور جسم کو جمعہ کے دن دھو لے۔“

سفیان ثوری نے ایک شخص سے کہا: تم اپنے ناخن تراش لو! اس شخص نے کہا: جمعہ کل ہے، کل میں ایسا کر لوں گا۔ تو سفیان ثوری نے کہا: تم یہ ابھی تراش لو کیونکہ سنت کو موخر نہیں کیا جاسکتا۔

5296 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَنْ يَسْتَنَّ، وَأَنْ يُصِيبَ مِنْ طَيِّبٍ أَهْلِهِ وَهَذَا أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَى سُفْيَانَ يَقُولُ: وَاجِبٌ هُوَ

* * * عمر بن عبدالعزیز نے ایک صحابی کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے:

”ہر مسلمان پر یہ بات لازم ہے کہ وہ ہفتہ میں ایک دن یعنی جمعہ کے دن غسل کرے وہ دانت صاف کرے اور اپنے گمہ میں موجود خوشبو استعمال کرے۔“

سفیان کے نزدیک زیادہ پسندیدہ قول یہ ہے کہ ایسا کرنا واجب ہے۔

5297 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، وَرُبَّمَا قَالَ: عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

اسی خبر نرہ قال: بَحَقٌّ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، يَغْسِلُ رَأْسَهُ، وَسَائِرَ جَسَدِهِ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہر بالغ پر یہ بات واجب ہے کہ وہ ہفتہ میں ایک مرتبہ غسل کرے وہ سر اور اپنے جسم کو دھوئے۔

5298 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جریج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاووساً يقول: قال أبو هريرة: لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً فيغسل كل شيء منه، ويمس طيباً إن كان لأهله

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ وہ مسلمان ہفتہ میں ایک دن (یعنی جمعہ کے دن) غسل کرے اور اپنے جسم کے ہر حصہ کو دھوئے اور اگر اس کے پاس موجود ہو تو خوشبو لگائے۔

5299 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي ليلى أو عبد الرحمن بن أزي قال: أدرکت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد منهم بدرًا، أو بايع تحت الشجرة إذا كان يوم الجمعة فأراد أحدهم أن يروح اغتسل، كما يغتسل من الجنابة، ولبس صالح ثيابه، ومس طيباً إن كان له

*** ابولیلی یا شاید عبدالرحمن بن ابزی بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو پایا ہے جنہیں غزوہ بدر میں شرکت کا شرف حاصل ہے یا بیعت رضوان میں شرکت کا شرف حاصل ہے (ان کا یہ معمول تھا) کہ جب جمعہ کا دن ہوتا اور ان میں سے کوئی شخص جمعہ کے لیے جانے کا ارادہ کرتا تو وہ پہلے غسل کرتا تھا جس طرح غسل جنابت کیا جاتا ہے پھر وہ عمدہ کپڑے پہنتا تھا اور اگر اس کے پاس موجود ہوتی تھی تو خوشبو لگاتا تھا۔

5300 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن يحيى بن العلاء، عن ابن عجلان، عن محمد بن إبراهيم التيمي قال: من قلم أظفاره يوم الجمعة، وقص شاربه وأسنن، فقد استكمل الجمعة

*** محمد بن ابراہیم تیمی بیان کرتے ہیں: جو شخص جمعہ کے دن اپنے ناخن تراشتا ہے، مونچھیں چھوٹی کرتا ہے اور مسواک کرتا ہے تو وہ جمعہ کو مکمل کر لیتا ہے۔

5301 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني من، لا اتهم، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة من الجمع، وهو على المنبر يقول: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيداً للمسلمين فاغتسلوا فيه من الماء، ومن كان عنده طيب فلا يضروه أن يمس منه، وعليكم بهذا السواك

*** زہری بیان کرتے ہیں: مجھے اُس شخص نے یہ بات بتائی ہے جس پر میں تہمت نہیں لگاتا کہ اُس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے حوالے سے یہ بات سنی ہے کہ ان حضرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ کے دن منبر پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے: ”اے مسلمانوں کے گروہ! بے شک اس دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے تو تم اس دن میں پانی کے ذریعہ غسل کرو اور جس شخص کے پاس خوشبو موجود ہو تو اُسے کوئی نقصان نہیں ہوگا اگر وہ اُس خوشبو میں سے کچھ لگالے

اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے۔“

5302 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُسْأَلُ عَنِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: اغْتَسِلْ، وَإِنْ كَانَ عِنْدَ أَهْلِكَ طِيبٌ فَلَا يَضُرُّكَ أَنْ تُصِيبَ مِنْهُ قَالَ عَطَاءٌ: مِنْ غَيْرِ أَنْ يُؤْتَمَ مَنْ تَرَكَهُ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اتَّكْرَهُ أَنْ تَدَعَهُ يَوْمَئِذٍ إِذَا وَجَدْتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ

*** عطاء بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو سنا جن سے جمعہ کے دن غسل کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: تم غسل کرو اور اگر تمہاری بیوی کے پاس خوشبو موجود ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ اگر تم وہ خوشبو بھی لگا لو۔ عطاء بیان کرتے ہیں: جو شخص اسے ترک کر دیتا ہے اُسے بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ راوی کہتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا آپ اس بات کو مکروہ قرار دیتے ہیں کہ جب آدمی کو جمعہ کے دن خوشبو مل رہی ہو وہ پھر بھی اُسے ترک کر دے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

5303 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: وَيَمَسُّ طِيبًا أَوْ دُهْنًا إِنْ كَانَ لِأَهْلِيهِ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ

*** طاووس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے جمعہ کے دن غسل کرنے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر کیا تو میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا: اگر آدمی کی بیوی کے پاس خوشبو یا تیل موجود ہو تو کیا وہ اُسے بھی لگائے گا؟ انہوں نے جواب دیا: مجھے نہیں معلوم!

5304 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً فَقُلْتُ لَهُ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا میں نے کہا: کیا جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

5305 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: لَا، وَغَضِبَ *** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے جس طرح غسل جنابت کیا جاتا ہے۔ ایک شخص نے اُن سے دریافت کیا: کیا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! اور انہوں نے غصہ کا اظہار بھی کیا۔

5306 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَالِكِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ لَا يَرُوحُ إِلَى الْجُمُعَةِ إِلَّا أَذْهَنَ، وَتَطَيَّبَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرَامًا

*** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جو شخص جمعہ کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے وہ پہلے تیل لگائے اور خوشبو استعمال کرے البتہ اگر اس نے احرام باندھا ہوا ہو (تو خوشبو یا تیل استعمال نہیں کرے گا)۔

5307 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن عیینة، عن صفوان بن سلیم، عن عطاء بن یسار، عن ابی سعید الخدری قال: أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغسل يوم الجمعة على كل محتلم " *** حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ شخص پر لازم قرار دیا ہے۔

5308 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن اسرئیل بن یونس، عن ابراهیم بن عبد الاعلی، عن سوید بن غفلة قال: سمعت عمر بن الخطاب، لشيء يقوله: لانا اذا اعجز ممن لا يغتسل يوم الجمعة *** سوید بن غفلة بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو کسی چیز کے بارے میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس صورت میں تو میں اسے عاجز قرار دوں گا کہ اگر وہ جمعہ کے دن غسل نہ کرے۔

5309 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوری، عن الاعمش، عن مجاهد، عن عبد الله بن عمر قال: " انني لأحب أن اغتسل من خمس: من الحمام، والجنابة، والحجامة، والمواصي، ويوم الجمعة " قال: فذكرت ذلك لابراهيم، فقال: ما كانوا يرون غسلا واجبا الا غسل الجنابة، وكانوا يستحبون غسل يوم الجمعة

*** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں پانچ کاموں کے بعد غسل کروں: حمام (سے باہر آنے کے بعد) جنابت کے بعد، چھینے لگوانے کے بعد، استر استعمال کرنے کے بعد اور جمعہ کے دن۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے اس بات کا تذکرہ ابراہیم نخعی سے کیا تو انہوں نے فرمایا: پہلے لوگ ان میں سے صرف جنابت کے غسل کو لازم قرار دیتے تھے اور وہ لوگ جمعہ کے دن غسل کرنے کو مستحب قرار دیتے تھے۔

5310 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن رجل، من اهل البصرة ان عبد الرحمن بن عبد الله اخبره عن ابی حمید الحمیری قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قلم اظفاره يوم الجمعة اخرج الله منه الداء، وادخل عليه الدواء

*** حضرت ابو حمید حمیری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

"جو شخص جمعہ کے دن ناخن تراشتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے بیماری نکال دیتا ہے اور اس میں دوائی داخل کر دیتا ہے۔"

5311 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو افضل

*** حسن بصری روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”جو شخص جمعہ کے دن وضو کر لیتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو غسل کرتا ہے تو یہ فضیلت رکھتا ہے۔“

5312 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبَانَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنَعَمْتُ، وَمَنْ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ

*** حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”جو شخص جمعہ کے دن وضو کرتا ہے تو یہ کافی ہے اور اچھا ہے، لیکن جو غسل کر لے تو یہ فضیلت رکھتا ہے۔“

5313 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

*** حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما، نبی اکرم ﷺ کے حوالے سے اس کی مانند نقل کرتے ہیں۔

5314 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَغْتَسِلْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

فَلَيْسَتْوَغْلٌ، يَعْنِي يَغْسِلُ مَرَّاقَهُ

*** عکرمہ فرماتے ہیں: جو شخص جمعہ کے دن غسل نہیں کرتا، اسے دھونا چاہیے، یعنی اپنی بغلوں کو دھولینا چاہیے۔

5315 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّمَا

كَانَ النَّاسُ عُمَّالَ أَنْفُسِهِمْ فَقِيلَ: لَوْ اغْتَسَلْتُمْ

*** سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: پہلے لوگ خود کام کاج کیا کرتے تھے تو ان سے کہا گیا: اگر تم لوگ غسل کر لیا

کرو (تو یہ مناسب ہوگا)۔

5316 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ

مَسْعُودٍ قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ

*** حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔

5317 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ فَضِيلِ بْنِ عِيَّاضٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ

لِلْجَنَابَةِ، وَالْجُمُعَةِ، غُسْلًا وَاحِدًا

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جنابت کے لیے اور جمعہ کے لیے ایک ہی طرح غسل کرتے تھے۔

5318 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ثَلَاثَ هُنَّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، الْغُسْلُ، وَالسَّوَاكُ، وَيَمْسُ طَيْبًا إِنْ وَجَدَ

*** ابو سلمہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے: جمعہ کے دن تین کام ہر

مسلمان پر لازم ہیں: غسل کرنا، مسواک کرنا اور اگر میسر ہو تو خوشبو لگانا۔

بَابُ الْغُسْلِ أَوَّلَ النَّهَارِ

باب: دن کے ابتدائی حصہ میں غسل کر لینا

5319 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ لِلرَّجُلِ إِذَا اغْتَسَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ أَحَدَتْ أَنْ يُحْدِثَ غُسْلًا آخَرَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

*** زہری نے قتادہ اور یحییٰ بن ابوکثیر کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ پہلے لوگ آدمی کے لیے یہ بات مستحب سمجھتے تھے کہ وہ جمعہ کے دن دن کے ابتدائی حصہ میں غسل کر لے اور پھر اگر اسے حدث لاحق ہو تو وہ دوبارہ غسل کرے۔ زہری فرماتے ہیں: اس کی دلیل نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان ہے:

”تم میں سے جو شخص جمعہ کے لیے آئے اسے غسل کرنا چاہیے۔“

5320 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُحْدِثَ غُسْلًا يُصَلِّي بِهِ الْجُمُعَةَ

وَقَالَ هِشَامٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَجَزَاهُ لِلْجُمُعَةِ، فَإِنْ أَحَدَتْ فَلْيَتَوَضَّأْ

*** ابن سیرین بیان کرتے ہیں: یہ بات مستحب قرار دی جاتی ہے کہ آدمی نئے سرے سے غسل کرے جس کے ذریعہ وہ جمعہ کی نماز ادا کرے۔

ہشام اور حسن فرماتے ہیں: جب آدمی جمعہ کے دن صبح صادق ہو جانے کے بعد غسل کر لے تو یہ جمعہ کے دن کے غسل کے لیے کفایت کر جائے گا اگر آدمی کو حدث لاحق ہو جاتا ہے تو وہ صرف وضو کر لے۔

5321 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ أَوَّلَ النَّهَارِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الرَّوَّاحِ، ثُمَّ أَحَدَتْ فَإِنَّمَا يَكْفِيهِ الْوُضُوءُ

*** عطاء فرماتے ہیں: جب آدمی جمعہ کے دن (مسجد کی طرف) جانے سے پہلے دن کے ابتدائی حصہ میں غسل کر چکا ہو پھر اسے حدث لاحق ہو جائے تو صرف وضو کرنا اس کے لیے کافی ہوگا۔

5322 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ فَضِيلٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَدْ أَجَزَاهُ عَنْهُ، وَإِنْ أَحَدَتْ تَوَضَّأْ

*** مجاہد فرماتے ہیں: جب آدمی جمعہ کے دن صبح صادق ہو جانے کے بعد غسل کر لے تو یہ اس کی طرف سے کافی ہوگا

اگر اسے حدیث لاحق ہوتا ہے تو وہ وضو کر لے گا۔

5323 - ائوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ بَنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُحَدِّثُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْغُسْلِ فَيَتَوَضَّأُ وَلَا يُعِيدُ الْغُسْلَ

*** سعید بن عبد الرحمن بن ابی لُبَابَةَ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: اگر جمعہ کے دن انہیں غسل کرنے کے بعد حدیث

لاحق ہو جاتا تو وہ وضو کر لیتے تھے وہ غسل کو دہراتے نہیں تھے۔

بَابُ غُسْلِ الْمُسَافِرِ

باب: مسافر کا غسل کرنا

5324 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَغْتَسِلُ فِي

السَّفَرِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

*** حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ سفر کے دوران جمعہ کے دن غسل نہیں کرتے

تھے۔

5325 - ائوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ كَانَ

لَا يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي السَّفَرِ، وَلَا يُصَلِّي الضُّحَى فِي السَّفَرِ

*** علقمہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ سفر کے دوران جمعہ کے دن غسل نہیں کرتے تھے اور سفر کے دوران چاشت کی

نماز ادا نہیں کرتے تھے۔

5326 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُ

مُغْتَسِلًا قَطُّ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

*** سالم نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ میں نے انہیں کبھی بھی سفر کے دوران

جمعہ کے دن غسل کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔

5327 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ الْمُسَيْبِ بْنِ رَافِعٍ،

عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَمَرَنِي فَسَتَرْتُهُ فَاعْتَسَلْتُ،

وَقَالَ: اسْتَرْنِي مِنْ نَحْوِ الْقِبْلَةِ قَالَ: ثُمَّ سَتَرْنِي فَاعْتَسَلْتُ

*** زیاد بن حدیر بیان کرتے ہیں: میں ایک مرتبہ سفر کے دوران حضرت طلحہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا جب جمعہ کا

دن آیا تو انہوں نے مجھے ہدایت کی میں نے ان کے لیے پردہ کیا انہوں نے غسل کیا انہوں نے فرمایا: قبلہ کی سمت کی طرف

ست میرے لیے پردہ تانا۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھر انہوں نے میرے لیے پردہ کیا تو میں نے غسل کیا۔

5328 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ كَانُوا يَغْتَسِلُونَ فِي السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ " قَالَ: لَيْثٌ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يَغْتَسِلُ فِي السَّفَرِ حَيْثُ جِيَءَ بِهِ أَسِيرًا

*** تیمی کے صاحبزادے نے لیث کے حوالے سے طاووس، عطاء اور مجاہد کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ یہ حضرات جمعہ کے دن سفر کے دوران غسل کر لیتے تھے۔

لیث بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے مجھے بتایا ہے کہ سعید بن جبیر سفر کے دوران غسل کرتے تھے جب انہیں قید کر کے لایا گیا تھا۔

بَابُ اللُّبُوسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

باب: جمعہ کے دن (صاف) لباس پہننا

5329 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمَا يَتَّخِذُ أَحَدُكُمْ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ جُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبِي مِهْنَتِهِ قَالَ: وَكَانُوا يَلْبَسُونَ النُّمْرَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فَبِعْتُ نَمْرَةً كَانَتْ لِي، وَاشْتَرَيْتُ مُعَقَّدَةً، يَعْنِي ثِيَابَ الْبَحْرَيْنِ

*** محمد بن یحییٰ بن حبان بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: "کیا کوئی شخص اپنے عام کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ جمعہ کے دن کے لیے دو کپڑے مخصوص نہیں کرتا"۔

راوی بیان کرتے ہیں: پہلے لوگ چمڑے پہن لیتے تھے۔

عبداللہ بن سلام بیان کرتے ہیں: میں نے اپنا چمڑا فروخت کیا اور اس کے ذریعہ معقدہ نامی کپڑا خریدا، یہ بحرین کا کپڑا ہوتا ہے۔

5330 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَأْتُونَ الْجَمَاعَةَ، وَعَلَى أَحَدِهِمُ النَّمْرَةُ وَالنَّمِرَتَانِ، كَانَ يَعْقِدُهُمَا عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ، أَوْ مَا عَلَيْكُمْ إِذَا وَجَدَ أَنْ يَتَّخِذَ ثَوْبَيْنِ لِيَوْمِ جُمُعَتِهِ سِوَى ثَوْبِي مِهْنَتِهِ

*** محمد بن یحییٰ بن حبان بیان کرتے ہیں: پہلے لوگ جماعت میں حصہ لینے کے لیے آتے تھے تو کسی نے ایک چمڑا پہنا ہوا ہوتا تھا، کسی نے دو چمڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے وہ انہیں باندھ لیتے تھے تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم پر کوئی نقصان نہیں ہو گا۔ (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں: تم پر کوئی گناہ نہیں ہو گا کہ اگر کسی شخص کے پاس اپنے عام کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ جمعہ کے دن کے لیے دو کپڑے حاصل کرنے کی سہولت ہو (تو وہ انہیں استعمال کرے)۔

5331 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ فِي كُلِّ يَوْمٍ عِيدٍ بُرْدًا لَهُ، مِنْ حَبْرَةَ

*** امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اپنے والد (امام محمد باقر رضی اللہ عنہ) کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عید کے موقع پر اپنی یمنی چادر پہنا کرتے تھے۔

5332 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سُنَّةُ الْجُمُعَةِ الْغُسْلُ وَالسَّوَاكُ وَالطِّيبُ وَتَلْبَسُ أَنْقَى ثِيَابِكَ

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جمعہ کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا، خوشبو لگانا اور صاف ترین کپڑے پہننا سنت ہے۔

5333 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) (الأعراف: 31) قَالَ: هِيَ الثِّيَابُ قَالَ: وَقَالَ طَاوُسٌ: هِيَ السَّمْلَةُ مِنَ الزَّيْنَةِ *** طَاوُسُ كَمَا جَزَأَ دَعَاؤُ بِنْتِ أَبِيهِ وَالِدِ كَمَا حَوَّلَ سَمْلَةَ فِي نَقْلِ كَرْتِ هِيَ: اللَّهُ تَعَالَى نِي إِرْشَادِ فَرَمَا يَ هِيَ: "ہر مسجد کے قریب اپنی زینت کو اختیار کرو۔"

انہوں نے فرمایا: اس سے مراد کپڑے ہیں۔ طاؤس کہتے ہیں: یہ لباس زینت کا حصہ ہے۔

بَابُ الرَّوَّاحِ فِي الْجُمُعَةِ

باب: جمعہ کے لیے جانا

5334 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِذَا رُحْتُ بُكْرَةَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَدْعُ نِصْفَ النَّهَارِ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الشِّتَاءُ فَلَآ، وَإِنْ كَانَ الصَّيْفُ فَنَعَمْ، حَتَّى يَفِيءَ الْأَفْيَاءُ

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگر میں جمعہ کے دن جلدی چلا جاتا ہوں تو کیا میں نصف النہار کو ترک کر دوں گا؟ انہوں نے فرمایا: اگر سردی کا موسم ہو تو پھر نہیں اور اگر گرمی کا موسم ہو تو جی ہاں! جب تک سایہ نہیں بن جاتا۔

5335 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ صَلَاةٌ كُلُّهَا يَقُولُ: يُصَلِّي نِصْفَ النَّهَارِ لِلَّهِ قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ يَقُولُونَ: صَلَاةٌ إِلَى الْعَصْرِ

*** طاؤس فرماتے ہیں: جمعہ کے دن پورا دن نماز ادا کی جاسکتی ہے وہ یہ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے لیے نصف النہار کے وقت بھی نماز ادا کی جائے گی۔

معمر بیان کرتے ہیں: میں دوسرے لوگوں کو ہمیشہ یہی کہتے ہوئے سنتا آیا ہوں کہ عصر تک (کوئی بھی نفل) نماز ادا کی جاسکتی

ہے۔

5336 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: يَوْمُ الْجُمُعَةِ صَلَاةٌ كُلُّهُ

*** طاؤس فرماتے ہیں: جمعہ کے دن پورا دن نماز ادا کی جاسکتی ہے۔

5337 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: "إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي أَفْضَلَ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ، وَأَقْرَبَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ، وَأَنْجَحَ مَنْ سَأَلَكَ وَطَلَبَ إِلَيْكَ قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ: أَفْضَلُ النَّاسِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَكْثَرُهُمْ صَلَاةً عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"

*** عبید بن ابوبکرہ بیان کرتے ہیں: یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب کوئی شخص جمعہ کے دن مسجد میں آئے تو وہ یہ پڑھے: "اے اللہ! تو مجھے ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا بنا دے جو تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان میں سب سے زیادہ مقرب بنا دے جنہیں تیری بارگاہ میں قرب حاصل ہوتا ہے اور ان میں سب سے زیادہ کامیاب بنا دے جو تجھ سے سوال کرتے ہیں اور تجھ سے طلب کرتے ہیں۔"

راوی بیان کرتے ہیں: یہ بات کہی جاتی ہے کہ جمعہ کے دن سب سے زیادہ فضیلت والا شخص وہ ہوتا ہے جو نبی اکرم ﷺ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے۔

5338 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: أَكْثَرُوا عَلَيَّ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ *** ابو عمران جوئی بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: "جمعہ کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجو۔"

بَابُ الْأَذَانِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

باب: جمعہ کے دن اذان دینا

5339 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَوْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ شَكَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَطَاءٌ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيمَا مَضَى وَاحِدًا قَطُّ ثُمَّ الْإِقَامَةُ، فَكَانَ ذَلِكَ الْأَذَانُ يُؤَدَّنُ بِهِ حِينَ يَطْلُعُ الْإِمَامُ فَلَا يَسْتَوِي الْإِمَامُ قَائِمًا حَيْثُ يَخْطُبُ حَتَّى يَفْرُغَ الْمُؤَدِّنُ أَوْ مَعَ ذَلِكَ، وَذَلِكَ حِينَ يَحْرُمُ الْبَيْعُ، وَذَلِكَ حِينَ يُؤَدَّنُ الْأَوَّلُ، فَأَمَّا الْأَذَانُ الَّذِي يُؤَدَّنُ بِهِ الْأَنْ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَجُلُوسِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَأَوَّلُ مَنْ أَحَدَّثَهُ الْحَجَّاجُ بْنُ يَوْسُفَ

* * عطاء فرماتے ہیں: جمعہ کے دن اذان پہلے زمانہ میں صرف ایک ہوتی تھی پھر اس کے بعد اقامت کہی جاتی ہے اور یہ اذان اس وقت دی جاتی تھی جب امام آجاتا تھا تو امام کے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے یا اس کے ساتھ ہی مؤذن اذان دے کر فارغ ہوتا تھا یہ وہ وقت ہوتا تھا جس میں خرید و فروخت حرام ہو جاتی ہے اور یہ وہ وقت تھا جس میں پہلی اذان دیتا تھا جہاں تک اس اذان کا تعلق ہے جو آج کل امام کے آنے سے اور اس کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے دی جاتی ہے تو یہ باطل ہے اس کا آغاز حجاج بن یوسف نے کیا تھا۔

5340 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: أَوَّلُ مَنْ زَادَ الْأَذَانَ

بِالْمَدِينَةِ عُثْمَانُ، قَالَ عَطَاءٌ: كَلَّا إِنَّمَا كَانَ يَدْعُو النَّاسَ دُعَاءً، وَلَا يُؤَدِّنُ غَيْرَ أَذَانٍ وَاحِدٍ

* * سلیمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں: مدینہ منورہ میں اضافی اذان دینے کا رواج حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔

عطاء بیان کرتے ہیں: وہ صرف لوگوں کو بلایا کرتے تھے ورنہ اذان صرف ایک ہی ہوتی تھی۔

5341 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عُثْمَانَ، أَوَّلَ مَنْ زَادَ

الْأَذَانَ الْأَوَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، لَمَّا كَثُرَ النَّاسُ زَادَهُ، فَكَانَ يُؤَدِّنُ بِهِ عَلَى الزُّورَاءِ قَالَ: وَأَمَّا أَوَّلُ مَنْ زَادَهُ بِبِلَادِنَا فَالْحَجَّاجُ

* * عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن پہلی اذان کا اضافہ کیا جب لوگوں کی تعداد

زیادہ ہو گئی تو انہوں نے اس کا اضافہ کیا یہ اذان زوراء کے مقام پر دی جاتی تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں: ہمارے علاقوں میں اس اذان کا سب سے پہلے آغاز حجاج بن یوسف نے کیا۔

5342 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: "كَانَ الْأَذَانُ فِي يَوْمِ

الْجُمُعَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ أَذَانًا وَاحِدًا حَتَّى يَخْرُجَ الْإِمَامُ، فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ كَثُرَ النَّاسُ فَرَادَ الْأَذَانَ الْأَوَّلَ، وَارَادَ أَنْ يَتَهَيَّأَ النَّاسُ لِلْجُمُعَةِ

* * سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں اور حضرت

عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جمعہ کے دن صرف ایک ہی اذان دی جاتی تھی یہاں تک کہ امام آجاتا تھا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو انہوں نے پہلے والی اذان کا اضافہ کیا انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اس کے ذریعہ لوگوں کو جمعہ کے لیے تیار کر لیں۔

5343 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ مَكْحُولٍ قَالَ: كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَذَانًا وَاحِدًا، حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، ثُمَّ تُقَامُ الصَّلَاةُ بَعْدَ الْخُطْبَةِ

* * مکحول بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جمعہ کے دن ایک ہی اذان دی جاتی تھی جب امام آ

جاتا تھا اور پھر خطبہ کے بعد نماز کھڑی ہو جاتی تھی۔

5344 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ لَا يُؤَذِّنُ لَهُ حَتَّى يَجْلِسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَلَا يُؤَذِّنُ لَهُ إِلَّا أَذَانًا وَاحِدًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ

* * عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ ان کے لیے اذان اُس وقت دی جاتی تھی جب وہ منبر پر بیٹھ جاتے تھے اور ان کے لیے جمعہ کے دن صرف ایک ہی اذان دی جاتی تھی۔

5345 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ جَاءَ وَقَدْ صَلَّى الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: يُقِيمُ الصَّلَاةَ لِأَنَّهُ يُصَلِّي غَيْرَ صَلَاةِ الْإِمَامِ

* * امام عبدالرزاق نے ایسے شخص کے بارے میں سفیان ثوری کا قول نقل کیا ہے جو آتا ہے اور امام جمعہ کے دن نماز ادا کر چکا ہوتا ہے تو سفیان ثوری فرماتے ہیں: وہ نماز کے لیے اقامت کہے گا کیونکہ اُس نے امام کی نماز کے علاوہ نماز ادا کی ہے۔

بَابُ السَّعْيِ إِلَى الصَّلَاةِ

باب: نماز کے لیے تیزی سے جانا

5346 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: فَأَمْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَهِيَ كَقَوْلِهِ: (إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَى) (الليل: 4)، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ يَقُولُ: إِذَا كُنْتَ فِيهَا فَانْتَ فِيهَا يَقُولُ: إِذَا كُنْتَ فِيهَا تَتَهَيَّأُ لَهَا، فَانْتَ تَسْعَى إِلَيْهَا

* * قتادہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تلاوت میں یہ الفاظ ہیں:

”اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ۔“

یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی مانند ہے:

”بے شک تمہاری کوشش مختلف قسم کی ہوتی ہے۔“

معمر بیان کرتے ہیں: میں نے دیگر حضرات کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ تم جس بھی صورت حال میں ہو اور جہاں کہیں بھی ہو تو تم اُس کے لیے تیار ہو جاؤ اور اُس کی طرف تیزی سے جاؤ۔

5347 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُهُ: (فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ) (الجمعة: 9) قَالَ: الذَّهَابُ الْمَشِيُّ

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

”اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف جلدی سے جاؤ۔“

تو عطاء نے فرمایا: اس سے مراد پیدل چل کر جانا ہے۔

5348 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَقَدْ

تُوفِي عُمْرًا، وَمَا يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ الْجُمُعَةِ إِلَّا: فَاْمُضُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

* * * سالم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ سورہ جمعہ میں موجود یہ آیت تلاوت کیا کرتے تھے:

”اللہ کے ذکر کی طرف چلو۔“

5349 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

مَسْعُودٍ: إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَوْ قَرَأْتُهَا فَاسْعَوْا لَسَعَيْتُ حَتَّىٰ يَسْقُطَ رِدَائِي، وَكَانَ يَقْرَأُهَا فَاْمُضُوا

* * * ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو

اللہ کے ذکر کی طرف تیزی سے جاؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر میں اسے یہ تلاوت کرتا کہ تم تیزی سے جاؤ تو میں بھی تیزی سے پدما ہوا جاتا یہاں تک کہ میری چادر گر جاتی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما سے یوں پڑھا کرتے تھے:

”تم لوگ جاؤ۔“

5350 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ حَنْظَلَةَ، عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ

الْخَطَّابِ يَقْرُؤُهَا فَاْمُضُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

* * * سالم بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما اس آیت کو یوں پڑھتے تھے:

”اللہ کے ذکر کی طرف جاؤ۔“

بَابُ جُلُوسِ النَّاسِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ

باب: جب امام آجائے تو لوگوں کا بیٹھنا

5351 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: خُرُوجُ

الْإِمَامِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، كَلَامُهُ يَقْطَعُ الْكَلَامَ

* * * سعید بن مسیب فرماتے ہیں: امام کا آنا نماز کو منقطع کر دے گا اور امام کی گفتگو لوگوں کی بات چیت کو منقطع کر دے

گی۔

5352 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكٍ

الْقُرْظِيُّ قَالَ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَجِيءُ فَيَجْلِسُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ، وَنَحْنُ نَتَحَدَّثُ، فَإِذَا قَضَى الْمُؤَذِّنُ

أَذَانَهُ انْقَطَعَ حَدِيثُنَا

* * * ثعلبہ بن ابومالک قرظی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لاتے تھے اور منبر پر بیٹھ جاتے تھے مؤذن اذان

دیتا تھا، ہم بات چیت کر رہے ہوتے تھے جب مؤذن اذان ختم کرتا تھا تو ہماری بات چیت منقطع ہو جاتی تھی۔

5353 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ كَلَامِ النَّاسِ حِينَ يَنْزِلُ الْإِمَامُ

وَقَبْلَ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَكَانَ إِنْسَانٌ عِنْدَهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ حِينَ يَنْزِلُ مِنَ الْخُطْبَةِ

*** معمر بیان کرتے ہیں: میں نے زہری سے امام کے آنے کے بعد اور نماز سے پہلے لوگوں کے بات چیت کرنے

کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زہری کے پاس موجود ایک شخص نے ان کی اس بات کا انکار کیا تو زہری نے کہا: نبی اکرم ﷺ جب خطبہ دے کر نیچے آتے تھے تو آپ کے ساتھ بات چیت کی جاتی تھی۔

5354 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَطَاءً يَتَكَلَّمُ حِينَ يَنْزِلُ الْإِمَامُ، وَقَبْلَ

الصَّلَاةِ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء کو اس وقت کلام کرتے ہوئے دیکھا ہے جب امام (خطبہ دے کر منبر

سے) نیچے آ جاتا اور ابھی اس نے نماز شروع نہیں کی ہوتی۔

5355 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عُلُقَمَةَ: مَتَى

يُكْرَهُ الْكَلَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ، أَوْ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ شَكَّ قُلْتُ: كَيْفَ تَرَى فِي الرَّجُلِ يَفْرَأُ فِي نَفْسِهِ؟ قَالَ: لَعَلَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّهُ

*** ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: میں نے علقمہ سے دریافت کیا: جمعہ کے دن کلام کرنا کب مکروہ ہوتا ہے؟ انہوں نے

جواب دیا: جب امام خطبہ دے رہا ہو۔ (یہاں پر راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) جب امام آ جائے۔ میں نے دریافت کیا: ایسے شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو دل میں تلاوت کرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا: شاید یہ چیز اسے نقصان نہیں دے گی۔

5356 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْكَلَامِ

بَعْدَ نَزُولِ الْإِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ، وَقَبْلَ الصَّلَاةِ، وَقَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ كَلَّمَ طَاوُسًا بَعْدَ نَزُولِ الْإِمَامِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ فَكَلَّمَهُ

*** طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ وہ امام کے منبر سے نیچے آنے کے بعد

اور نماز ادا کرنے سے پہلے بات چیت کرنے سے منع کرتے تھے وہ یہ فرماتے تھے: ابراہیم بن میسرہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے امام کے منبر سے نیچے آنے کے بعد اور نماز شروع کرنے سے پہلے طاؤس کے ساتھ کلام کیا تھا اور طاؤس نے بھی ان کے ساتھ کلام کیا تھا۔

5357 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّ طَاوُسًا كَلَّمَهُمْ بَعْدَ نَزُولِ

سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

* * ابراہیم بن میسرہ بیان کرتے ہیں: طاؤس نے سلیمان بن عبد الملک کے جمعہ کے دن منبر سے نیچے آنے کے بعد لوگوں کے ساتھ بات چیت کی تھی۔

5358 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَسَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ، تَكَلَّمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ مَا خَرَجَ الْإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ وَهُمَا إِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ وَعُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ

* * عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عباس اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہم جمعہ کے دن امام کے آجانے اور اس کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے بات چیت کر لیتے تھے حالانکہ یہ دونوں حضرات منبر کے پاس موجود ہوتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے۔

5359 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يُسْتَحَبُّ الشُّكُوتُ * * قتادہ فرماتے ہیں: جمعہ کے دن اس وقت کلام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب امام منبر پر بیٹھا ہوا ہو اور مؤذن اذان دے رہا ہو۔ معمر بیان کرتے ہیں: اس شخص نے مجھے یہ بات بتائی ہے جس نے حسن بصری کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ ایسے موقع پر خاموشی ستم ہے۔

5360 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي فَلا تَجْلِسُ حَتَّى يَجْلِسَ الْإِمَامُ قَالَ: قُلْتُ: فَخَرَجَ الْإِمَامُ وَأَنَا أُصَلِّي قَائِمًا، فَهَلْ يَضُرُّنِي أَنْ لَا أَجْلِسَ مَا كَانَ يَمْشِي إِذَا لَمْ يَجْلِسْ وَأَنَا قَائِمٌ؟ قَالَ: لَا

* * عطاء فرماتے ہیں: جب امام جمعہ کے دن آئے اور تم اس وقت نماز ادا کر رہے ہو تو تم اس وقت تک نہ بیٹھو جب تک امام نہ بیٹھے۔ میں نے دریافت کیا: اگر امام آجاتا ہے اور میں اس وقت کھڑا ہو کر نماز ادا کر رہا ہوں تو کیا یہ چیز مجھے نقصان دے گی کہ اگر میں نہیں بیٹھتا جب تک امام چلتا رہتا ہے اور بیٹھتا نہیں ہے میں اس دوران کھڑا رہ سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

5361 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْكَلَامِ وَالْإِمَامُ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَالْمُؤَذِّنُونَ يُؤَذِّنُونَ، لَا يَجِبُ الْإِنْصَاتُ حَتَّى يَتَكَلَّمَ الْإِمَامُ * * عطاء فرماتے ہیں: ایسے موقع پر بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جب امام منبر پر بیٹھا ہوا ہو اور مؤذن اذان دے رہے ہوں خاموشی اس وقت لازم ہوتی ہے جب امام کلام شروع کرتا ہے۔

5362 - اقوال تابعین: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَدْخُلَانِ

الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: يَتَكَلَّمَانِ فِي الْمَسْجِدِ مَا لَمْ يَجْلِسَا

*** زہری اور قتادہ دو ایسے آدمیوں کے بارے میں فرماتے ہیں: جو مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو امام اُس وقت جمعہ کے دن خطبہ دے رہا ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں: یہ دونوں آدمی اُس وقت تک مسجد میں بات چیت رکھ سکتے ہیں جب تک یہ بیٹھتے نہیں ہیں۔

5363 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَهُ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ ابن شہاب سے منقول ہے۔

5364 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ أَبِي أُمَيَّةَ الثَّقَفِيِّ، عَنِ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ

عُمَرَ يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِذَا تَحَيَّنَ خُرُوجَ الْإِمَامِ قَعَدَ قَبْلَ خُرُوجِهِ

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جمعہ کے دن نماز ادا کرتے رہتے تھے جب امام کے آنے کا وقت

ہوتا تھا تو وہ اُس کے آنے سے پہلے ہی بیٹھ جاتے تھے۔

5365 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ، عَنِ

عَلِيِّ قَالَ: "النَّاسُ فِي الْجُمُعَةِ ثَلَاثٌ: رَجُلٌ شَهِدَهَا بِسُكُونٍ، وَوَقَّارٍ، وَأَنْصَاتٍ، وَذَلِكَ الَّذِي يُغْفَرُ لَهُ مَا بَيْنَ

الْجُمُعَتَيْنِ" قَالَ: حَسِبْتُ قَالَ: وَزِيَادَةٌ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ قَالَ: وَشَاهِدٌ شَهِدَهَا بِلُغْوٍ فَذَلِكَ حَظُّهُ مِنْهَا، وَرَجُلٌ صَلَّى

بَعْدَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فَلَيْسَتْ بِسُنَّةٍ، إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ

*** حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”جمعہ کے دن لوگوں کی تین قسمیں ہیں: ایک وہ شخص جو سکون اور وقار اور خاموشی کے ساتھ اس میں شریک ہوتا ہے یہ وہ شخص ہے جس کے دو جمعوں کے درمیان کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے (راوی کہتے ہیں: میرا خیال ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا: مزید تین دنوں کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں: ایک وہ شخص ہے جو لغوکام کے ہمراہ اس میں شریک ہوتا ہے تو جمعہ میں سے اُس کا حصہ صرف وہ لغوکام ہی ہوتا ہے اور ایک وہ شخص ہے جو امام کے آنے کے بعد نماز ادا کرتا ہے تو یہ چیز سنت نہیں ہے اگر وہ چاہے گا تو اُسے عطا کر دے گا اور اگر وہ چاہے گا تو اُسے (اجر و ثواب) نہیں دے گا۔“

5366 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا عَلَا الْمِنْبَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: اجْلِسُوا فَسَمِعَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ، وَهُوَ بِالطَّرِيقِ لَمْ يَدْخُلِ الْمَسْجِدَ فَجَلَسَ فِي بَنِي غَنَمٍ قَالَ: فَلَمَّا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ دَخَلَ

الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا رُحْتَ؟، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

خَيْرًا، زَعَمُوا أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ

*** حضرت ربیعہ بن ابو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ جب جمعہ کے دن منبر پر تشریف فرما ہوتے تھے تو آپ فرماتے تھے: تم لوگ بیٹھ جاؤ! انصار کے ایک شخص نے نبی اکرم ﷺ کا فرمان سنا، وہ راستہ میں تھا، وہ ابھی مسجد میں داخل نہیں ہوا تھا، وہ بنو غنم کے درمیان بیٹھ گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں: جب نماز کھڑی ہوئی تو وہ شخص مسجد کے اندر آیا۔ نبی اکرم ﷺ نے دریافت کیا: کیا تم پہلے نہیں آئے تھے؟ اُس شخص نے آپ کو پوری صورت حال بتائی تو نبی اکرم ﷺ نے اُس سے فرمایا: یہ اچھا ہے!

راوی بیان کرتے ہیں: وہ شخص حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ تھے۔

5367 - حدیث نبوی: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ رَوَاحَةَ، سَمِعَ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالطَّرِيقِ يَقُولُ: اجْلِسُوا فَجَلَسَ فِي الطَّرِيقِ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ: اجْلِسُوا فَجَلَسْتُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَادَكَ اللَّهُ طَاعَةً

*** ایوب بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے راستہ میں نبی اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا: تم لوگ بیٹھ جاؤ! تو وہ راستہ میں ہی بیٹھ گئے، نبی اکرم ﷺ اُن کے پاس سے گزرے، آپ نے اُن سے دریافت کیا: تمہارا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے عرض کی: میں نے آپ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تم لوگ بیٹھ جاؤ، تو میں بیٹھ گیا۔ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ تمہاری اطاعت و فرمانبرداری میں اضافہ کرے!

5368 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بِخُطْبٍ إِذْ قَالَ: اجْلِسُوا فَسَمِعَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ فَجَلَسَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَالَ يَا عَبْدَ اللَّهِ

*** عطاء بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ خطبہ دے رہے تھے اسی دوران آپ نے ارشاد فرمایا: تم لوگ بیٹھ جاؤ! حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی تو مسجد کے دروازہ کے درمیان میں بیٹھ گئے، نبی اکرم ﷺ نے اُن سے فرمایا: اے عبد اللہ! آگے آ جاؤ!

بَابُ مَا أَوْجَبَ الْإِنْصَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

باب: جمعہ کے دن کون سی چیز خاموشی کو لازم کرتی ہے؟

5369 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا أَوْجَبَ الْإِنْصَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟

قَالَ: قَوْلُهُ: (إِذَا قُرِءَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا) (الأعراف: 204) قَالَ: كَذَلِكَ زَعَمُوا فِي الصَّلَاةِ وَفِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ: قُلْتُ: وَالْإِنْصَاتُ لِمَنْ يَسْتَمِعُ الْخُطْبَةَ كَالْإِنْصَاتِ لِمَنْ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: نَعَمْ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کون سی چیز جمعہ کے دن خاموشی کو لازم کرتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان: ”جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اُسے غور سے سنو اور خاموش رہو۔“

انہوں نے بتایا: لوگ نماز کے بارے میں اسی طرح بیان کرتے ہیں اور جمعہ کے دن کے بارے میں بھی اسی طرح بیان کرتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا: کیا خاموشی کا حکم اُس شخص کے لیے ہوگا جو خطبہ کی آواز سنتا ہے جس طرح خاموشی کا حکم اُس شخص کے لیے ہے جو قرآن کی تلاوت سنتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

5370 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اُسْبِحْ وَاهْلِلْ فِي الْجُمُعَةِ، وَاَنَا اَعْقِلُ الْخُطْبَةَ؟ قَالَ: لَا، اِلَّا الشَّيْءَ الْيَسِيرَ، وَاَجْعَلُهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ نَفْسِكَ قَبِيلَ لَه: اَيَذْكُرُ الْاِنْسَانَ اللّٰهَ وَالْاِمَامَ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ اَوْ يَوْمَ الْفِطْرِ وَهُوَ يَعْقِلُ قَوْلَ الْاِمَامِ؟ قَالَ: لَا، كُلُّ ذَلِكَ عِيدٌ، فَلَا تَكَلَّمُوا اِلَّا اَنْ يَذْهَبَ الْاِمَامُ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: میں جمعہ میں تسبیح اور تہلیل پڑھ سکتا ہوں جبکہ مجھے خطبہ کی سمجھ بھی آ رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! البتہ معمولی سی کوئی چیز پڑھ سکتے ہو اور اُسے تم اپنے اور اپنے نفس کے درمیان رکھو گے (یعنی دل میں پڑھو گے)۔ اُن سے دریافت کیا: جب امام عرفہ کے دن یا عید الفطر کے دن خطبہ دے رہا ہو تو کیا اس دوران انسان اللہ کا ذکر کر سکتا ہے جبکہ اُسے امام کی بات سمجھ بھی آ رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! یہ سب عید کے مواقع ہیں، تم اُس وقت تک کلام نہیں کرو گے جب تک امام اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور بات چیت نہیں کرتا۔

5371 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: اِذَا اسْتَسْقَى الْاِمَامُ فَاذْعُ، هُوَ يَأْمُرُكَ

حِينَئِذٍ

*** عطاء فرماتے ہیں: جب امام پانی مانگے تو تم دعا کر لو وہ اس وقت تمہیں حکم دے سکتا ہے۔

5372 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، اَنَّ عَثْمَانَ قَالَ: اَجْرُ الْمُنْصِبِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ، كَأَجْرِ الْمُنْصِبِ الَّذِي يَسْمَعُ الْخُطْبَةَ

*** قتادہ بیان کرتے ہیں: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو شخص خطبہ کی آواز نہیں سنتا اور پھر بھی خاموش رہتا ہے اُسے اسی طرح اجر ملتا ہے جو خطبہ کی آواز سن کر خاموش رہتا ہے۔

5373 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ اَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: اِنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ: قُلْ مَا يَدْعُ اَنْ يَخْطُبَ بِهِ الْاِمَامُ اِذَا قَامَ: اسْتَمِعُوا وَاَنْصِتُوا فَاِنَّ الْمُنْصِبَ الَّذِي لَا يَسْمَعُ مِنَ الْخُطْبَةِ، مِثْلَ مَا لِلْمُسْتَمِعِ الْمُنْصِبِ، فَاِذَا قَامَتِ الصَّلَاةُ فَاَعْدِلُوا الصُّفُوفَ، وَحَادُوا بِالْمَنَاكِبِ، فَاِنَّ اَعْتِدَالَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يُكْتَبُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ، وَكُلَّهُمْ بِتَسْوِيَةٍ

الصفوف، فَيُخْبِرُوهَا أَنَّهَا قَدْ اسْتَوَتْ فَيَكْبِرُ

* * * مابن ابو عامر نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: وہ خطبہ میں یہ فرماتے تھے اور بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ وہ کسی خطبہ میں اسے ترک کرتے تھے جب وہ کھڑے ہوتے تھے تو یہ کہتے تھے: غور سے سنو اور خاموش رہو! کیونکہ ایسا شخص جو خطبہ کی آواز نہیں سنتا اور پھر بھی خاموش رہتا ہے اسے اس شخص کی مانند اجر ملتا ہے جو خطبہ کی آواز سن رہا ہوتا ہے اور خاموش رہتا ہے پھر جب نماز کھڑی ہو تو تم صفیں درست رکھو، کندھے برابر رکھو، کیونکہ صفیں درست رکھنا نماز کی تکمیل کا حصہ ہے پھر وہ اس وقت تک تکبیر نہیں کہتے تھے جب تک لوگ آکر انہیں بتا نہیں دیتے تھے کہ صفیں درست ہو چکی ہے جب لوگ انہیں بتا دیتے تھے کہ صفیں درست ہو چکی ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت تکبیر کہتے تھے۔

5374 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ اِنِّي لَأَقْرَأُ جُزْئِي اِذَا لَمْ اَسْمِعِ

الْحُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

* * * حماد نے ابراہیم نخعی کا یہ بیان نقل کیا ہے: جمعہ کے دن جب میں خطبہ کی آواز نہیں سنتا تو اس وقت میں اپنے جزء (یعنی قرآن مجید کے مخصوص حصہ) کی تلاوت کر لیتا ہوں۔

5375 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ قَالَ: سِئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ التَّسْبِيحِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالْاِمَامِ

يَخْطُبُ قَالَ: " كَانَ يُؤْمَرُ بِالصَّمْتِ قَالَ: قُلْتُ: ذَهَبَ الْاِمَامُ فِي غَيْرِ ذِكْرِ اللّٰهِ فِي الْجُمُعَةِ؟ " قَالَ: تَكَلَّمْتُ اِنْ سِنْتُ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: اِنْ اَحَدْتُمْ اَفَلَا تُحَدِّثُ

* * * معمر بیان کرتے ہیں: زہری سے امام کے خطبہ کے دوران تسبیح پڑھنے یا تکبیر پڑھنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں نے دریافت کیا: اگر امام جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور موضوع چھیڑ دیتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: پھر اگر تم چاہو تو کلام کر سکتے ہو۔

معمر بیان کرتے ہیں: قتادہ نے یہ بات کہی ہے: اگر وہ کوئی نیا کام کرتے ہیں تو تم نیا کام نہ کرو۔

5376 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اِذَا كُنْتُ لَا اَسْمَعُ الْاِمَامَ اَهْلِلْ

وَاكْبِرْ وَاُسَبِّحْ وَاَدْعُو اللّٰهَ وَاَدْعُو لِاهْلِي اَسْمِيهِمْ وَاَسْمِي غَرِيْمِي؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قُلْتُ: وَاِنْ كَانَ الْاِمَامُ لَمْ يَدْعُ؟ قَالَ: نَعَمْ

* * * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: جب میں ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں مجھے امام کی آواز نہیں آرہی تو کیا میں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ وغیرہ پڑھ سکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہوں اور کیا میں اپنے اہل خانہ کا نام لے کر ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں اور اپنے کسی عزیز یا قرض خواہ کا نام لے سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: اگر امام دعا نہیں کرتا؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

5377 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ عَطَاءٍ قَالَ: يَحْرُمُ الْكَلَامُ مَا كَانَ الْاِمَامُ عَلٰى

الْمِنْبَرِ، وَإِنْ ذَهَبَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ ذَكَرَ اللَّهُ

*** عطاء فرماتے ہیں: جب تک امام منبر پر موجود ہے کلام کرنا حرام ہوگا جب وہ وہاں سے چلا جائے گا (یا نیچے اتر آئے گا) تو اللہ کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔

5378 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ: إِذَا كَانَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَا يَدْعُو أَحَدًا بِشَيْءٍ، وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا أَنْ يَذْكُرَ الْإِمَامُ *** ابراہیم بن میسرہ بیان کرتے ہیں: میں نے طاؤس کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جب جمعہ کا دن ہو اور امام منبر پر خطبہ دے رہا ہو تو کوئی بھی شخص کوئی دعا نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے البتہ اگر امام ذکر کرے (تو حکم مختلف ہے)۔

بَابُ الْعَبَثِ وَالْإِمَامِ يَخْطُبُ

باب: امام کے خطبہ کے دوران کوئی فضول حرکت کرنا

5379 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ الْعَبَثَ وَالتَّحْرِيكَ وَالتَّشَاوُبَ قَالَ: وَلَا يَسْتَطِيعُ النَّاسُ إِلَّا ذَلِكَ الْجُمُعَةَ لِطُولِ الْخُطْبَةِ *** عطاء کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ جمعہ کے دن اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ جب امام منبر پر موجود ہو تو کوئی عبث حرکت کی جائے یا حرکت کی جائے یا جماہی لی جائے۔ وہ یہ فرماتے تھے: لوگ اس طرح کی حرکت صرف اُس وقت کرتے ہیں جب جمعہ کے دن طویل خطبہ ہو جائے۔

5380 - اقوال تابعین: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَنْهَى عَنْ تَقْلِيْبِ الْحَصَى، وَعَنْ تَفْقِيْعِ الْأَصَابِعِ فِي الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامِ يَخْطُبُ *** عکرمہ امام کے خطبہ کے دوران کنکریوں کو اُلٹنے پلٹنے اور انگلیوں کو چٹخانے سے منع کرتے تھے۔

5381 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي اسْحَاقَ، عَنْ هَلَالِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ صَوْحَانَ قَالَ: إِذَا آتَيْتَ الْجُمُعَةَ فَأَنْصِتْ، وَلَا تَعْبَثْ بِالْحَصَى، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنْكَ قَرِيْبًا يَتَكَلَّمُ فَاغْمِزْهُ، وَإِنْ كَانَ بَعِيْدًا فَأَشِرْ إِلَيْهِ

*** زید بن صوحان بیان کرتے ہیں: جب تم جمعہ کے لیے آؤ تو خاموش رہو اور کنکریوں کے ساتھ فضول نہ کھیلو اگر کوئی شخص تمہارے قریب موجود ہو اور کلام کر رہا ہو تو تم آنکھ کے ذریعہ اشارہ کرو اور اگر وہ دور ہو تو اُس کو باقاعدہ اشارہ کرو۔

بَابُ يُكَلِّمُ الْإِمَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ الذِّكْرِ

باب: امام کا جمعہ کے دن منبر پر رہتے ہوئے ذکر و اذکار کے علاوہ بات چیت کرنا

5382 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ كَعْبٍ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا قَتَلَ عَبْدُ

اللہ بن عتیک الانصاری وأصحابه سلام بن ابی الحقیق الأعور من یهود دخلوا المسجد والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب یوم الجمعة، فلما رآهم قال: أفلحت الوجوه

* * * حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں: جب حضرت عبداللہ بن عتیک انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے یہودیوں سے تعلق رکھنے والے سلام بن ابی الحقیق "کانی" کو قتل کر دیا تو یہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں ملاحظہ فرمایا تو ارشاد فرمایا: یہ کامیاب چہرے ہیں!

5383 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن عمر قال: وهو على المنبر: "أملکوا العجین فإنه خیر الربعین، أو قال: خیر الطحینین، قال هشام: رأی علیہ حقاً أن یأمرهم بما کان یأمر أهلہ

* * * هشام بن عروہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر ارشاد فرمایا:

"تم لوگ آگ کے مالک بناؤ، کیونکہ یہ بہترین اناج ہے۔" (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) یہ بہترین پسلی ہوئی چیز ہے۔

ہشام کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ذمہ یہ بات لازم سمجھتے تھے کہ وہ لوگوں کو بھی اسی بات کا حکم دیں، جس بات کا حکم وہ اپنے اہل خانہ دیتے تھے۔

5384 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن هشام بن بشیر قال: أخبرني محمد بن قيس أنه سمع موسى بن طلحة يقول: رأيت عثمان جالساً على المنبر يوم الجمعة، والمؤذنون يؤذنون، وهو يسأل الناس عن أسعارهم؟ وأخبارهم؟

* * * محمد بن قیس بیان کرتے ہیں: انہوں نے موسیٰ بن طلحہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا: میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جمعہ کے دن منبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا، مؤذن اذان دے رہے تھے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لوگوں سے قیمتیں دریافت کر رہے تھے اور ان کے حالات دریافت کر رہے تھے۔

5385 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: اكانوا يتوقفون ان يخلطوا الخطبة بشيء إلا بذكر الله تعالى؟ قال: نعم، قلت: اكانوا يتشهدون في الخطب يوم الجمعة؟ قال: نعم، قلت: فلما سئنا الحامدين؟ قال: نقول الحمد لله رب العالمين، قلت: والاستسقاء أو الاستشفاء؟ قال: لا بأس

* * * ابن جریج بیان کرتے ہیں: ان کے عطاء سے دریافت کیا: کیا پہلے لوگ اس بارے میں احتیاط کرتے تھے کہ وہ خطبہ کے ساتھ خلط ملط کر دیں ماسوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: کیا وہ لوگ

جمعہ کے دن خطبہ کے دوران تشہد کے کلمات پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: پھر ہمارا نام حمد کرنے والے کیوں رکھا گیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں نے دریافت کیا: (جمعہ کے خطبے کے دوران) بارش کی دعائیں یا شفاء کی دعائیں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

5386 - اِتْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ قَالَهُ الْإِمَامُ عَلِيُّ

الْمِنْبَرِ، إِنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ، بَيْعٌ، أَوْ ابْتِيَاعٌ، أَوْ مِكْيَالٌ، أَوْ مَوْزُونٌ، فَهُوَ ذِكْرٌ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء فرماتے ہیں: امام منبر پر جو کچھ کہتا ہے اس کے بعد جبکہ اس نے نیکی کا حکم دیا ہو یا

برائی سے منع کیا ہو تو ہر چیز یا تو خرید و فروخت یا ماپنا یا وزن کرنا یہ سب ذکر ہے۔

5387 - حَدِيثُ نَبِيِّ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَدْعُو عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَيُؤَمِّنُ النَّاسَ قَالَ: وَقَدْ قَالَ عَطَاءٌ: هُوَ حَدِيثٌ، وَهُوَ حَسَنٌ

*** ابن شہاب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ جمعہ کے دن منبر پر دعا کرتے تھے اور لوگ آمین کہا کرتے تھے۔ راوی

کہتے ہیں: عطاء نے یہ بات بیان کی ہے: یہ ایک نئی چیز ہے اور اچھی ہے۔

5388 - آثَارِ صَحَابِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي

الصَّعْبَةِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لِرَجُلٍ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: "هَلِ اشْتَرَيْتَ لَنَا؟ وَهَلِ اتَّيْتَنَا

بِهَذَا؟ وَأَشَارَ بِأُصْبَعِهِ مِنْ أَصَابِعِهِ، يَعْنِي حَبًّا

*** ابو صعبہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن منبر پر ایک شخص سے فرمایا: کیا تم ہمارے لیے

خرید لو گے؟ کیا تم ہمارے پاس یہ چیز لے آؤ گے؟ انہوں نے اپنے ہاتھ میں موجود کچھ دانوں کی طرف اشارہ کر کے یہ بات

فرمائی۔

5389 - اِتْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَلَامُ النَّاسِ الْأَمِيرِ، وَهُوَ يَخْطُبُ

يَخْضُهُ بِحَدِيثٍ أَوْ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الذِّكْرِ؟ قَالَ: أَكْرَهُ ذَلِكَ قَالَ: قُلْتُ: فَكَلَامُ النَّاسِ الْإِمَامِ، وَهُوَ عَلَى

الْمِنْبَرِ يُشْنُونَ عَلَيْهِ؟ قَالَ: وَأَكْرَهُهُ، إِنَّمَا الْجُمُعَةُ ذِكْرٌ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: لوگوں کا حاکم وقت سے کلام کرنا جبکہ وہ خطبہ دے رہا

ہو اسے یہ کہنا کہ وہ بطور خاص کسی موضوع پر بات چیت کرے یا ذکر کے حوالے سے کسی چیز کے بارے میں اس سے سوال کرنا

(اس کا حکم کیا ہوگا؟) عطاء نے جواب دیا: میں اسے مکروہ قرار دیتا ہوں۔ میں نے دریافت کیا: لوگوں کا امام کے ساتھ بات چیت

کرنے کا کیا حکم ہوگا جبکہ وہ منبر پر موجود ہو اور لوگ اس کی تعریف کر رہے ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: میں اسے بھی مکروہ قرار

دیتا ہوں کیونکہ جمعہ میں صرف ذکر اذکار (یا وعظ و نصیحت ہوتی ہے)۔

بَابُ اسْتِقْبَالِ النَّاسِ

باب: لوگوں کا رخ کرنا

5390 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ اسْتِقْبَالِ النَّاسِ الْإِمَامَ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: كَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ

*** معمر بیان کرتے ہیں: میں نے زہری سے لوگوں کے جمعہ کے دن امام کی طرف رخ کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: پہلے لوگ ایسا ہی کرتے تھے۔

5391 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

*** حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ جمعہ کے دن امام کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے۔

5392 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

*** امام شععی بیان کرتے ہیں: قاضی شریح جمعہ کے دن امام کی طرف رخ کرتے تھے۔

5393 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اسْتِقْبَالُ النَّاسِ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْقَاصِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا يَدْعُونَ الْبَيْتَ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي حِجْنِدُ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُ جَاءَ عَبِيدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقْضُ هَاهُنَا، وَأَشَارَ إِلَى نَاحِيَةِ بَيْتِي مَخْزُومٍ، وَسَانَ بِنُ يَعْلى أَوْ سَعِيدُ بْنُ يَعْلى مُسْتَقْبِلُ الْبَيْتِ فَدَعَاهُ يَعْلى، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ اسْتَقْبِلِ الذِّكْرَ، فَقَالَ حِجْنِدُ عَبَادُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ: هُوَ سَانَ بِنُ يَعْلى

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: جمعہ کے دن لوگوں کا امام کی طرف رخ کرنا یا مکہ میں واعظ کی طرف رخ کرنا اور بیت اللہ کی طرف رخ نہ کرنا (اس کا کیا حکم ہے؟) انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! پھر اُس وقت انہوں نے یہ بات بیان کی کہ حضرت یعلیٰ بن اُمیہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایک مرتبہ عبید بن عمیر یہاں وعظ کر رہے تھے انہوں نے بنو مخزوم کے ایک کنارے کی طرف اشارہ کر کے یہ بات کہی اور سنان بن یعلیٰ (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں: سعید بن یعلیٰ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے تھے تو یعلیٰ نے انہیں بلایا اور کہا: تم نے ایسا کیوں کیا ہے تم ذکر کی طرف رخ کرو۔

اُس موقع پر عباد بن ابو عباد نامی راوی نے یہ کہا: اُن کا نام سنان بن یعلیٰ تھا۔

5394 - اَقْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَنْ كَانَ حَدْوَ الْمَنْبَرِ، يَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ وَيَدْعُ الْبَيْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: جو شخص منبر کے برابر موجود ہوگا وہ امام کی طرف رخ کرے گا اور بیت اللہ کو ترک کر دے گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! وہ بیت اللہ کی طرف رخ کرے گا۔

5395 - آثَارِ صَحَابِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، وَالنَّاسُ يَسْأَلُونَهُ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقْصُصُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: خَلُّوا بَيْنَنَا، وَبَيْنَ مُذَكِّرِنَا

*** ازرق بن قیس بیان کرتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا لوگ ان سے سوالات کر رہے تھے جبکہ عبید بن عمیر اس وقت وعظ کر رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ہمارے اور ہمیں نصیحت کرنے والے کے درمیان جگہ چھوڑ دو۔

5396 - آثَارِ صَحَابِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَصَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ الْعَصْرَ، ثُمَّ جَلَسَ، وَحَلَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُهُ، وَجَعَلَ ظَهْرَهُ نَحْوَ الْقَاصِ قَالَ: ثُمَّ أَقَاصُ بِالْحَدِيثِ قَالَ: فَرَفَعَ الْقَاصُ يَدَهُ يَدْعُو فَلَمْ يَرْفَعْ ابْنُ عُمَرَ يَدَهُ

*** عبدہ بن ابولبابہ بیان کرتے ہیں: میں مسجد میں داخل ہوا میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ عصر کی نماز ادا کی پھر وہ بیٹھ گئے ان کے ساتھیوں نے ان کے گرد حلقہ بنا لیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی پشت کی طرف ایک قصہ گو شخص (یا واعظ) نے وعظ شروع کیا اس نے بات چیت شروع کی تو اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا تاکہ دعا کرے لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنا ہاتھ بلند نہیں کیا۔

5397 - اَقْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَقَصَّصَ الْقَاصِ هَذَا غَيْرَ خُطْبَةٍ الْإِمَامِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَذْكَرُ اللَّهُ وَأَنَا أَسْمَعُهُ وَأَعْقِلُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَاجْلِسْ مَعَهُ مَا سِئْتِ وَقُمْ إِذَا سِئْتِ وَارْفَعْ صَوْتَكَ بِبَعْضِ الذِّكْرِ، قُلْتُ: فَعَطَسَ إِنْسَانٌ فَحَمِدَهُ، سَمِئْتُهُ؟ قَالَ: أَى لَعْمَرِي قُلْتُ: أَفُنَحِدْتُ أَنَا وَإِنْسَانٌ وَنَحْنُ نَسْمَعُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَنْ تُسَبِّحَ وَتَذْكُرَ أَحَبُّ إِلَيَّ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: یہ وعظ واعظوں کی تقریریں جو امام کے جمعہ کے دن کے خطبہ کے علاوہ ہوتی ہیں کیا اس کے دوران میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہوں؟ جبکہ میں وہ تقریریں بھی رہا ہوں اور وہ بات مجھے سمجھ بھی آرہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! تم اس واعظ کے ساتھ جب تک چاہو بیٹھے رہو جب چاہو اٹھ جاؤ اور ذکر کے دوران تم اپنی آواز بلند بھی کر سکتے ہو۔ میں نے دریافت کیا: ایک شخص کو اس دوران چھینک آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے تو کیا میں اسے جواب دے سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے! میں نے دریافت کیا: جب ہم لوگ اس واعظ کی تقریریں رہے ہوں تو میں اور کوئی اور شخص آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! لیکن اگر

تم صرف تسبیح پڑھو اور ذکر کرو تو یہ چیز میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔

5398 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جریج قال: قلت لعطاء: ابلاغك انه لا يجب الانصات عند الزحف؟ قال: اي لعمرى، انه لو اجب، ثم تلا (اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الا ذبار) (الانفال: 15)، (واذكروا) (الانفال: 45) قال: فوجب الذكر يومئذ قال: ولا حديث يومئذ الا الذكر، قلت: اتجهرون بالذكر؟ قال: نعم

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا آپ تک اس بارے میں کوئی روایت پہنچی ہے کہ لڑائی کے وقت خاموش رہنا واجب نہیں رہتا؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے! یہ بات واجب ہے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی:

”اور جب تمہارا کافروں سے سامنا ہو تو تم پیٹھ نہ پھیر لینا“۔

راوی بیان کرتے ہیں: تو اس موقع پر ذکر کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اس موقع پر ذکر کے علاوہ اور کوئی بات چیت نہیں ہوتی۔ میں نے دریافت کیا: کیا آپ لوگ بلند آواز میں ذکر کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَمَا قَبْلَهَا

باب: خطبہ اور اس کے ماقبل کے درمیان فصل پیدا کرنا

5399 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جریج، عن عطاء قال: اذا خرج الامام يوم الجمعة فافصل بكلام قبل ان يخطب قلت: سلم الامام فرددت عليه ايكون ذلك فصلا؟ قال: ايني احب ان ترید ايضا كلام السلام في القرآن

* * عطاء فرماتے ہیں: جب امام جمعہ کے دن آجائے تو خطبہ دینے سے پہلے کلام کے ذریعہ فصل پیدا کر لے۔ میں نے کہا: امام اگر سلام کرتا ہے اور میں اسے جواب دے دیتا ہوں تو کیا یہ فصل ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا: میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ تم مزید کلام کچھ کرو سلام کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے۔

بَابُ ذِكْرِ الْقِصَاصِ

باب: واعظین کا تذکرہ

5400 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: "اول من قص قصص تميم الدارتي على عهد عمر، استاذنه في كل جمعة مقاما فاذن له، فكان يقوم قال: ثم استزاده مقاما آخر فزاده، فلما كان عثمان استزاده مقاما آخر، فكان يقص في الجمعة ثلاث مرات، قال معمر: "وسمعت غير الزهري يقول: كان عمر اذا مر به وهو يقص امر على حلقه السيف

*** زہری بیان کرتے ہیں: سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے قصہ گوئی شروع کی، انہوں نے ہر جمعہ کے دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اجازت لینی کہ وہ کسی جگہ پر کھڑے ہوں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں اجازت دے دیتے تھے وہ کھڑے ہوتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے: تھوڑی سی جگہ اور دے دیں! اس طرح انہیں اور جگہ مل جاتی تھی۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے تھوڑی سی جگہ اور مانگی تو وہ ہر جمعہ کے دن تین مرتبہ قصہ بیان کرتے تھے۔

معمربیان کرتے ہیں: میں نے زہری کے علاوہ راوی کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب ان کے پاس سے گزرتے تھے اور وہ قصہ بیان کر رہے ہوتے تھے تو وہ (حضرت عمر رضی اللہ عنہ) اپنا ہاتھ اپنی تلوار کے قبضہ پر پھیرتے تھے۔

5401 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم أن ابن عمر، كان يخرج من المسجد فلقاه الرجل، فيقول: ما شأنك يا أبا عبد الرحمن؟ فيقول: أخرجني القاص، قال معمر: قال الزهري: وقد كان ابن المسيب يقرأون السجدة، فلا يسجد، ويقول: إني لم أجلس إليهم

*** سالم بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مسجد سے باہر نکلے تو ایک شخص انہیں ملا اس نے کہا: ابوعبدالرحمن! آپ کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اس قصہ گو نے مجھے باہر نکلوا دیا ہے۔ معمربیان کرتے ہیں: زہری نے یہ بات بیان کی ہے: سعید بن مسیب ان قصہ گو لوگوں کو آیت سجدہ تلاوت کرتے ہوئے سنتے تھے تو سجدہ تلاوت نہیں کرتے تھے وہ یہ فرماتے: میں ان کے لیے نہیں بیٹھا ہوا۔

5402 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن خثيم، عن عبد الله بن عياض قال: دخل عبيد بن عمير على عائشة فسألت: من هذا؟ فقال: أنا عبيد بن عمير قالت: عمير بن قتادة؟ قال: نعم، يا أمناة قالت: أما بلغني أنك تجلس، ويجلس إليك؟ قال: بلى يا أم المؤمنين قالت: فأياك وتقنيط الناس وإهلاكم؟

*** عبداللہ بن عیاض بیان کرتے ہیں: عبید بن عمیر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا: یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا: میں عبید بن عمیر ہوں سیدہ عائشہ نے دریافت کیا: عمیر بن قتادہ! (تمہارے والد ہیں؟) انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! اے امی جان! سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: تمہارے بارے میں مجھے پتا چلا ہے کہ تم بیٹھے ہو (اور تقریر کرتے ہو) اور لوگ تمہارے پاس بیٹھتے ہیں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! اے ام المؤمنین! تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: تم لوگوں کو مایوس کروانے اور انہیں ہلاکت کا شکار کروانے سے بچنا۔

5403 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر قال: أخبرني من سمع الحسن، يقص يقول في قصصه: صدق الذي يقول:

لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَرَا حَ بِمَيِّتٍ ... إِنَّمَا الْمَيِّتُ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ

قَالَ مَعْمَرٌ: وَرَأَيْتُ عَطَاءَ الْخُرَّاسَانِيَّ يَقْصُّ بِالسَّنَنِ

*** معمربیان کرتے ہیں: مجھے اس شخص نے یہ بات بتائی ہے جس نے حسن بصری کو وعظ کے دوران یہ کہتے ہوئے سنا۔

اُس شخص نے سچ کہا ہے جس نے یہ (شعر) کہا ہے:

”ایسا نہیں ہے کہ جو شخص مر جاتا ہے وہ مرنے کی وجہ سے راحت حاصل کر لیتا ہے اصل میں مرنا تو زندوں کا مرنا ہوتا ہے۔“

معمر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء خراسانی کو دیکھا ہے کہ وہ سنتوں کے بارے میں وعظ کیا کرتے تھے۔

5404 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ، لَمْ يَكُنْ يَجْلِسُ مَعَ

الْقَصَاصِ، إِلَّا قَاصُّ الْجَمَاعَةِ

* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما واعظین کے ساتھ نہیں بیٹھا کرتے تھے البتہ جماعت کے واعظ کا

معاملہ مختلف ہے۔

5405 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ وَغَيْرِهِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ

يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ الْقَاصِّ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَرَأَيْتُهُ، يَعْنِي مَعْمَرًا، يَفْعَلُهُ

* * عبید اللہ بن ابویزید اور دیگر حضرات نے یہ بات بیان کی ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا وہ ایک

واعظ کے پاس دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے بیٹھے تھے۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے انہیں یعنی معمر کو دیکھا ہے وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے۔

5406 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عَائِشَةَ، أَرْسَلَتْ إِلَى مَرْوَانَ تَشْكُو السَّائِبَ

وَكَانَ قَاصًّا، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا اسْتَطِيعُ أَنْ أُكَلِّمَ خَادِمِي فَهَاهُ مَرْوَانُ، فَعَادَ فَشَكَّتُهُ أَيْضًا، فَلَقِيَهُ مَرْوَانُ أَيْضًا

فَشَكَّتُهُ، أَوْ قَالَ: لَطَمَهُ

* * زہری بیان کرتے ہیں: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے مروان کو پیغام بھجوایا اور سائب کی شکایت کی جو ایک واعظ تھا سیدہ

عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں اپنے خادم کے ساتھ بھی بات نہیں کر پاتی۔ مروان نے اُس واعظ کو منع کر دیا اُس واعظ

نے دوبارہ تقریر کی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پھر شکایت بھجوائی جب مروان کی اُس واعظ سے ملاقات ہوئی تو اُس نے اُسے مکارا یا

چاٹا سید کیا۔

5407 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا، مَرَّ بِقَاصِّ، فَقَالَ: اتَّعْرِفِ النَّاسِخَ مِنَ

الْمَنْسُوحِ؟ قَالَ: لَا قَالَ: هَلَكْتَ وَأَهْلَكَتَ قَالَ: وَمَرَّ بِآخَرَ قَالَ: مَا كُنَيْتُكَ؟ قَالَ: أَبُو يَحْيَى قَالَ: بَلْ أَنْتَ أَبُو

اغْرِفُورِي

* * معمر بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک واعظ کے پاس سے گزرے تو

دریافت کیا: کیا تم منسوخ کے مقابلہ میں ناسخ کی پہچان رکھتے ہو؟ اُس نے جواب دیا: جی نہیں! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم بھی

ہلاک کا شکار ہو اور دوسروں کو بھی ہلاکت کا شکار کرو گے۔ راوی بیان کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک اور واعظ کے پاس سے

گزرے اور دریافت کیا: تمہاری کنیت کیا ہے؟ اُس نے جواب دیا: ابو یحییٰ! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جی نہیں! بلکہ تم ”ابو اعر فونی“ ہو (یعنی یہ کہنے والے ہو کہ لوگو مجھے پہچانو)۔

5408 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن عیینة، عن بیان، عن قیس بن ابی حازم قال: ذکر لابن مسعود قاصٌ یجلس باللیل ویقول للناس: قولوا: کذا، قولوا: کذا، فقال: اذا رأیتموه فأخبرونی، فأخبروه قال: فجاء عبد الله متقنعا، فقال: من عرفنی فقد عرفنی، ومن لم يعرفنی فانا عبد الله بن مسعود، تعلمون انکم لاهدی من محمد وأصحابه، وانکم لمتعلقون بذنب ضلالة

*** قیس بن ابو حازم بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک واعظ کا ذکر کیا گیا جو رات کے وقت بیٹھ کر لوگوں سے یہ کہتا تھا: تم لوگ کہو تم لوگ یہ کہو تم لوگ وہ کہو۔ تو حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اب جب تمہیں وہ نظر آئے تو مجھے بتانا۔ لوگوں نے حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو بتایا تو حضرت عبد اللہ سر ڈھانپ کر آئے اور دریافت کیا: جو شخص مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے اور جو نہیں جانتا تو میں عبد اللہ بن مسعود ہوں، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سے زیادہ ہدایت پر ہو حالانکہ تم لوگ گمراہی کی دُم کے ساتھ لٹکے ہوئے ہو۔

5409 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن جعفر قال: أخبرنا عطاء بن السائب قال: لا أعلمه إلا عن ابی البختری قال: بلغ عبد الله بن مسعود ان قوما یقعدون من المغرب الى العشاء، یسبحون یقولون: قولوا کذا، قولوا کذا، قال عبد الله: "ان قعدوا فاذنونی بهم، فلما جلسوا آذنه، فانطلق اذ آذنه، فدخل، فجلس معهم، وعلیه برنس فأخذوا فی تسبیحهم فحسر عبد الله عن رأسه البرنس، وقال: انا عبد الله بن مسعود، فسکت القوم، فقال: لقد جنتم ببدعة ظلماء، او لقد فضلتم أصحاب محمد صلی الله علیه وسلم علما" قال: فقال رجل من بنی تمیم: ما جننا ببدعة ظلماء وما فضلنا أصحاب محمد صلی الله علیه وسلم علما، فقال عمرو بن عبدة بن فرقد: استغفر الله یا ابن مسعود، وآتوب الیه قال: فأمرهم ان یتفرقوا، ورأى ابن مسعود حلفتین فی مسجد الکوفة، فقال: "ایتکما کانت قبل صاحبیتها، فقالت احدهما: نحن، قال للآخری: تحولوا الیهم، فجعلها واحدة"

*** عطاء بن سائب نے ابو بختری کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ لوگ مغرب سے عشاء تک بیٹھ کر تسبیح پڑھتے تھے اور وہ کہتے: تم لوگ یہ کہو تم لوگ وہ کہو۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اب جب وہ بیٹھیں گے تو مجھے ان کے بارے میں بتانا۔ جب وہ بیٹھے تو لوگوں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بتایا، جب حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے بتایا تو وہ وہاں تشریف لے گئے ان کے پاس گئے اور ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے، حضرت عبد اللہ بن مسعود نے سر پر ٹوپی لی ہوئی تھی وہ لوگ تسبیح پڑھنے لگے، تو حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سر سے ٹوپی ہٹائی اور بولے: میں عبد اللہ بن مسعود ہوں! تو لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم ایک تاریک بدعت لے کے آئے ہو یا پھر تم علمی طور پر حضرت

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منقول ہے۔

5416 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَدْ لَفَوْتَ "

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

”جب تم نے اپنے ساتھی کو یہ کہا: خاموش ہو جاؤ اور امام اس وقت جمعہ کے دن خطبہ دے رہا ہو تو تم نے لغو حرکت کی۔“

5417 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ الْأَوَّلِ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ عبید اللہ بن عبد اللہ کے حوالے سے منقول ہے۔

5418 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قُلْتَ لِلنَّاسِ أَنْصِتُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهُمْ يَنْطِقُونَ، وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ، فَقَدْ لَفَوْتَ عَلَى نَفْسِكَ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”جمعہ کے دن جب لوگ بات چیت کر رہے ہوں اور تم ان سے یہ کہو: تم لوگ خاموش ہو جاؤ جبکہ امام اس وقت خطبہ دے رہا ہو تو تم نے بذات خود لغو حرکت کی۔“

5419 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا قَالَ: صَهْ، فَقَدْ لَغَا، وَإِذَا لَغَا فَقَدْ قَطَعَ جُمُعَتَهُ "

*** عطاء خراسانی روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”جو شخص یہ کہے: چپ۔ تو اس نے لغو حرکت کی اور جب اس نے لغو حرکت کی تو اس نے اپنا جمعہ منقطع کر لیا۔“

5420 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ الْخُطْبَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ، وَمَنْ لَمْ يَدْرِكِ الْخُطْبَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ، وَمَنْ دَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ، وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ كِفْلَانٍ مِنَ الْأَجْرِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَمِعْ، وَلَمْ يَنْصِتْ، كَانَ عَلَيْهِ كِفْلَانٍ مِنَ الْوِزْرِ وَمَنْ قَالَ: صَهْ، وَالْإِمَامُ يَخُطُبُ، فَقَدْ لَغَا، وَمَنْ لَغَا فَلَا جُمُعَةَ لَهُ، أَوْ قَالَ: فَلَا شَيْءَ لَهُ

*** یحییٰ بن ابوکثیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں: جو شخص خطبہ کو پالے وہ جمعہ کو پالیتا ہے اور جو شخص خطبہ نہ

پالے وہ صرف نماز کو پالتا ہے۔ جو شخص امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور غور سے خطبہ سنے اور خاموش رہے اسے اجر کے دو ڈھیر ملتے ہیں اور جو شخص غور سے نہیں سنتا اور خاموش نہیں رہتا اسے گناہ کے دو ڈھیر ملتے ہیں اور جو شخص کہے: چپ۔ جبکہ امام اس وقت خطبہ

دے رہا ہو تو اس شخص نے لغو حرکت کی۔ اور جس نے لغو حرکت کی اس کا جمعہ نہیں ہوتا۔ (راوی کو شک ہے یا شاید یہ الفاظ ہیں:)
اسے کچھ نہیں ملتا۔

5421 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو، وَغَيْرُهُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ آيَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يَا أَبِیُّ بَنِ كَعْبٍ أَهَكَذَا تَقْرُؤُهَا؟ فَصَمَّتْ عَنْهُ أُبَيٌّ، وَكَانُوا فِي الْجُمُعَةِ، فَلَمَّا فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أُبَيٌّ: لِابْنِ مَسْعُودٍ: لَمْ تُجَمِّعِ الْيَوْمَ، فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ أُبَيٌّ

* * حسن بصری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے (جمعہ کے دن خطبہ کے دوران) جمعہ کے حکم والی آیت تلاوت کی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: اے ابی بن کعب! آپ اسے اسی طرح پڑھتے ہیں؟ تو حضرت ابی جو اب میرے خاموش رہے۔ یہ لوگ جمعہ کی ادائیگی کے لئے (مسجد میں موجود) تھے۔ جب نبی اکرم ﷺ (نماز جمعہ کی ادائیگی سے) فارغ ہوئے تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا: آپ نے آج جمعہ ادا نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا: آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ سے اس بارے میں دریافت کیا: تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ابی نے سچ کہا ہے۔

5422 - اَقْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ تَعْلَمُ مِنْ شَيْءٍ يَقْطَعُ جُمُعَةَ الْإِسْلَامِ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا مِنْ كَلَامٍ، أَوْ تَخْطِي رِقَابِ النَّاسِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ؟ قَالَ: لَا * * ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا آپ کلام کرنے لوگوں کی گردنیں پھلانگیں یا اس کے علاوہ کسی اور ایسے عمل سے واقف ہیں جو فرض جمعہ کو منقطع کر دے اور آدمی پر چار رکعات ادا کرنا لازم ہو جائے تو انہوں نے جواب دیا: جی نہیں۔

5423 - اَقْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُقَالُ: مَنْ تَكَلَّمَ فَكَلَامُهُ حَطُّهُ مِنَ الْجُمُعَةِ يَقُولُ: مِنْ أَجْرِ الْجُمُعَةِ، فَأَمَّا أَنْ يُوقِيَ أَرْبَعًا فَلَا

* * عطاء فرماتے ہیں: یہ بات کہی جاتی ہے جو شخص (جمعہ کے دن خطبے کے دوران) کلام کرتا ہے تو جمعہ میں سے اس کا حصہ یہی ہوتا ہے۔ عطاء فرماتے ہیں: اس سے مراد جمعے کا اجر ہے۔ جہاں تک چار رکعات ادا کرنے کا تعلق ہے تو وہ نہیں ہوگا۔

5424 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ شَرِيحٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِذْ قَرَأَ آيَةَ فَسَمِعَهَا أَبُو ذَرٍّ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: مَتَى أَنْزَلْتَ هَذِهِ الْآيَةَ؟ فَأَنْصَتَ عَنْهُ أُبَيٌّ ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يُنْصِتُ عَنْهُ، حَتَّى إِذَا نَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ أُبَيٌّ: لِأَبِي ذَرٍّ: لَيْسَ لَكَ مِنْ جَمْعِكَ إِلَّا مَا قَدْ مَضَى مِنْهَا، فَسَأَلَ أَبُو ذَرٍّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: صَدَقَ أُبَيٌّ

* * ابو سلمہ بن عبدالرحمن بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے ایک آیت تلاوت کی۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے وہ سنی تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا: یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ تو جواب میں حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ ایسا تین مرتبہ ہوا۔ ہر مرتبہ حضرت اُبی رضی اللہ عنہ خاموش رہے۔ جب نبی اکرم ﷺ منبر سے نیچے تشریف لائے تو حضرت اُبی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے کہا: آپ کے جمعہ میں سے آپ کو صرف وہی اجر ملے گا جو پہلے گزر چکا ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ سے اس بارے میں دریافت کیا تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اُبی نے سچ کہا ہے۔

5425 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا

يَقُولُ: إِنَّهُ لَيَرَى لَعْنًا أَنْ يُشِيرَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِيَدِهِ، أَنْ اسْكُتَ إِذَا تَكَلَّمَ

* * ابراہیم بن میسرہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے طاؤس کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وہ اس چیز کو بھی لغو حرکت شمار کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص کلام کرے تو آدمی اُسے ہاتھ کے ذریعے اشارہ کر کے یہ کہے: تم خاموش ہو جاؤ۔

5426 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ، حَصَبَ رَجُلَيْنِ كَانَا

يَتَكَلَّمَانِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ،

* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دو ایسے آدمیوں کو کنکریاں ماری تھیں جو جمعہ کے دن امام کے خطبے کے دوران بات چیت کر رہے تھے۔

5427 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَالِكِ، عَنِ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرَّجُلَيْنِ

يَتَكَلَّمَانِ

* * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

5428 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَأَى سَائِلًا يَسْأَلُ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَصَبَهُ

* * ایوب بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جمعہ کے دن امام کے خطبہ دینے کے درمیان ایک سائل کو مانتے ہوئے دیکھا تو اُسے کنکریاں ماریں۔

5429 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ نَافِعِ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُشِيرُ إِلَى

رَجُلٍ فِي الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

* * نافع بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ انہوں نے جمعہ کے دن امام کے خطبہ دینے کے دوران ایک آدمی کی طرف اشارہ کیا۔

5430 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ رَأَى سَائِلًا، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

فَأَوْمًا بِيَدِهِ أَنْ اسْكُتَ "

*** حسن بصری کے بارے میں یہ بات منقول ہے۔ انہوں نے امام کے خطبہ دینے کے دوران ایک شخص کو مانگتے ہوئے دیکھا تو اپنے ہاتھ کے ذریعے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ۔

5431 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: رَأَيْتُهُ يُشِيرُ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ وَالْحَجَّاجِ يَخْطُبُ، وَكَانَ يَتَكَلَّمُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ اسْكُتَ

*** مسلم نے عبدالرحمن بن ابولیلی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ میں نے انہیں محمد بن سعد کو اشارہ کرتے ہوئے دیکھا جبکہ حجج اس وقت خطبہ دے رہا تھا اور محمد بن سعد کوئی بات کر رہے تھے تو عبدالرحمن بن ابولیلی نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ تم خاموش ہو جاؤ۔

5432 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ، وَآبَا بُرْدَةَ " يَتَكَلَّمَانِ: وَالْحَجَّاجِ يَخْطُبُ حِينَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْكُذَّابِينَ، وَلَعَنَ اللَّهُ، فَقُلْتُ: اتَّكَلَّمَانِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؟ قَالَا: إِنَّا لَمَ نُوْمَرُ أَنْ نُصِتَ لِهَذَا

*** مجالد بن سعید بیان کرتے ہیں: میں نے عامر شععی اور ابو بردہ کو آپس میں بات چیت کرتے ہوئے دیکھا جبکہ حجج اس وقت خطبہ دے رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا: اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت کرے اور اللہ تعالیٰ لعنت کرے (فلاں قسم کے لوگوں پر) تو میں نے ان دونوں حضرات سے کہا: کیا آپ لوگ امام کے خطبہ کے دوران کلام کر رہے ہیں؟ تو ان دونوں نے جواب دیا: ہمیں اس آدمی کے لیے خاموش رہنے کا حکم نہیں دیا گیا۔

5433 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ يُكَلِّمُ رَجُلًا، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ زَمَنَ الْحَجَّاجِ

*** اسماعیل بن ابو خالد بیان کرتے ہیں: میں نے ابراہیم نخعی کو ایک شخص کے ساتھ کلام کرتے ہوئے سنا جبکہ امام اس وقت جمعہ کے دن خطبہ دے رہا تھا یہ حجج کے زمانہ کی بات ہے۔

5434 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: يَشْرَبُ الرَّجُلُ الْمَاءَ إِذَا عَطَشَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

*** طاؤس بیان کرتے ہیں: جب آدمی کو پیاس لگے گی تو وہ پانی پی لے گا جبکہ امام اس وقت جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو۔

بَابُ الْعُطَاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

باب: جمعہ کے دن چھینک آجانا جبکہ امام اس وقت خطبہ دے رہا ہو

5435 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا عَطَسَ إِنْسَانٌ فِي الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ،

وَأَنْتَ تَسْمَعُهُ، وَتَسْمَعُ الْخُطْبَةَ فَلَا تُشْمِتُهُ، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعْ الْخُطْبَةَ أَيْضًا فَلَا تُشْمِتُهُ

* * * قنادہ بیان کرتے ہیں: جب کسی شخص کو جمعہ کے دن چھینک آجائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے اور تم اس بات کو سن لو اور تم خطبہ بھی سن رہے ہو تو تم اس شخص کو چھینک کا جواب نہ دو؛ لیکن اگر تم خطبہ نہیں سن رہے تو بھی تم اسے چھینک کا جواب دو۔

5436 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا عَطَسَ إِنْسَانٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَنْتَ تَسْمَعُهُ، وَتَسْمَعُ الْخُطْبَةَ، فَشْمِتُهُ فِي نَفْسِكَ، فَإِنْ كُنْتَ لَا تَسْمَعُ الْخُطْبَةَ فَشْمِتُهُ، وَأَسْمِعُهُ

* * * عطاء فرماتے ہیں: جب کسی شخص کو جمعہ کے دن چھینک آجائے اور امام اس وقت خطبہ دے رہا ہو اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے اور تم اسے سن لو اور تم خطبہ بھی سن رہے ہو تو تم دل میں اسے جواب دو اور اگر تم خطبہ نہیں سن رہے تو تم جواب دو اور اس کی آواز اس شخص تک پہنچاؤ۔

5437 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَعْطُسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: فَشْمِتُهُ

* * * ابراہیم نخعی ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن چھینکتا ہے تو ابراہیم فرماتے ہیں: تم اسے جواب دو۔

5438 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَيْسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يُشْمِتُ الْعَاطِسَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

* * * عیسیٰ بن ابوعزہ بیان کرتے ہیں: میں امام عامر شععی کے پاس موجود تھا، انہوں نے چھینکنے والے شخص کو جواب دیا جبکہ امام اس وقت جمعہ کے دن خطبہ دے رہا تھا۔

5439 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى ابْنِ الْمُسَيْبِ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْطُسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ الْجُمُعَةَ أَشْمِتُهُ؟ فَقَالَ: لَا

* * * عبد اللہ بن سعید بن ابوہند بیان کرتے ہیں: میرے والد نے مجھے سعید بن مسیب کے پاس بھیجا تا کہ میں ان سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کروں جسے جمعہ کے دن چھینک آجاتی ہے جبکہ اس وقت امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو تو کیا میں اس شخص کو چھینک کا جواب دوں گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

بَابُ رَدِّ السَّلَامِ فِي الْجُمُعَةِ

باب: جمعہ کے دوران سلام کا جواب دینا

5440 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَى الرَّجُلِ، وَهُوَ

فِي الْخُطْبَةِ، قَالَ: يَرُدُّ عَلَيْهِ وَيُسْمَعُهُ

*** حسن بصری اور قتادہ ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو کسی دوسرے شخص کو سلام کرتا ہے اور دوسرا شخص اُس وقت خطبہ سن رہا ہوتا ہے تو ان دونوں حضرات کا یہ کہنا ہے: کہ وہ شخص اُسے سلام کا جواب دے گا اور اُس تک آواز پہنچائے گا۔

5441 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ اِسْرَائِيلَ، عَنْ عَيْسَى بْنِ اَبِي عَزَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَا يَرُدُّ الرَّجُلُ السَّلَامَ، وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

*** عیسیٰ بن ابوعزہ نے امام شعبی کا یہ قول نقل کیا ہے: آدمی سلام کا جواب نہیں دے گا جب امام جمعہ کے دن خطبہ دے رہا ہو۔

5442 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: يَرُدُّ السَّلَامَ وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ، قَالَ جَابِرٌ: وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: تَرُدُّ السَّلَامَ فِي نَفْسِكَ وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

*** امام شعبی اور سالم بن عبداللہ فرماتے ہیں: امام کے خطبہ کے دوران آدمی سلام کا جواب دے گا۔ جابر روایت کرتے ہیں: قاسم بن محمد نے یہ بات بیان کی ہے کہ تم دل میں سلام کا جواب دو گے۔ امام عبدالرزاق نے بھی اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔

5443 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: اِذَا سَلَّمَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَاِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ الْخُطْبَةَ، فَاَرُدُّ عَلَيْهِ فِي نَفْسِكَ، وَاِنْ كُنْتَ لَا تَسْمَعُ الْخُطْبَةَ فَاَرُدُّ عَلَيْهِ وَاسْمِعُهُ

*** ابن جریج نے عطاء کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جب کوئی شخص جمعہ کے دن سلام کرے اور امام اُس وقت خطبہ دے رہا ہو تو اگر تو تم خطبہ کی آواز سن رہے ہو تو تم دل میں اُسے سلام کا جواب دو اور اگر تم خطبہ کی آواز نہیں سن رہے تو تم اُسے جواب دیتے ہوئے اُس تک آواز پہنچاؤ۔

بَابُ قِرَاءَةِ الصُّحُفِ فِي الْجُمُعَةِ، وَكَانُوا يَقْرَأُونَ قَبْلَ الصَّلَاةِ

باب: جمعہ کے دن قرآن مجید کی تلاوت کرنا لوگ نماز سے پہلے تلاوت کیا کرتے تھے

5444 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: اِذَا قُرِئَتِ الصُّحُفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَا تُكَلِّمُ اَحَدًا، اِنْ اَحَدْتُمْ اَفَلَا تُحَدِّثُ

*** قتادہ فرماتے ہیں: جب جمعہ کے دن قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو تم کسی کے ساتھ بات نہ کرو اگر وہ لوگ بات چیت کرتے ہیں تو تم اس میں حصہ نہ لو۔

5445 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ كَرِهَ قِرَاءَةَ الصُّحُفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: فَاِنْ قُرِئَتْ فَلَا تُكَلِّمُ قَالَ: " وَقِرَاءَةُ الصُّحُفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَدَثٌ اَحَدْتُمْ

*** ابن جریج نے عطاء کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے جمعہ کے دن قرآن مجید کی تلاوت کو مکروہ قرار دیا ہے وہ یہ فرماتے ہیں: اگر اس کی تلاوت کی جائے تو پھر تم کلام نہ کرو۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں: جمعہ کے دن قرآن مجید کی تلاوت کرنا ایک نئی چیز ہے جسے لوگوں نے بعد میں ایجاد کیا ہے۔

5446 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يَتَكَلَّمُ إِذَا قُرِئَتِ

الصُّحُفُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

*** ابن جریج نے ایک شخص کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ جب جمعہ کے دن قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی تھی تو سعید بن جبیر اس دوران کلام کر لیتے تھے۔

5447 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ: إِنْ قُرِئَتِ الصُّحُفُ وَأَنَا عِنْدَ الْمِنْبَرِ،

أَسْمَعُ قِرَاءَتَهَا أُسَبِّحُ، وَأُهَلِّلُ، وَأَذْكُرُ اللَّهَ فِي نَفْسِي، وَأَدْعُو لِأَهْلِي أَسْمِيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ، وَأَقُولُ: اللَّهُمَّ اسْتَعْرِجْ لِي مِنْ غَرِيمِي أَسْمِيهِ بِأَسْمِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: اگر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو اور میں منبر کے پاس موجود ہوں اور میں اس تلاوت کو سن رہا ہوں تو کیا میں دل میں سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ پڑھ سکتا ہوں یا اللہ کا ذکر کر سکتا ہوں یا اپنے اہل خانہ کا نام لے کر ان کے لیے دعا کر سکتا ہوں اور یہ کہہ سکتا ہوں کہ اے اللہ! میرے لیے میرے مقروض سے یہ چیز نکلوادے اور میں مقروض کا نام بھی لے لوں؟ تو انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

(شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام عبد الرزاق نے ابن جریج سے یہ مسئلہ دریافت کیا اور ابن جریج نے جواب دیا: جی ہاں!)

بَابُ الْإِتِّكَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

باب: جمعہ کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو تو کسی چیز سے ٹیک لگانا

5448 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، كَرِهَ أَنْ يَتَّكِيَ الرَّجُلُ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ،

وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ، أَوْ كِبَرٍ، أَوْ سَقَمٍ

*** ابن جریج نے عطاء کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ وہ اس بات کو مکروہ قرار دیتے ہیں کہ جب جمعہ کے دن امام خطبہ دے رہا ہو تو آدمی کسی چیز سے ٹیک لگائے البتہ کسی بیماری کی وجہ سے یا عمر رسیدگی کی وجہ سے یا کمزوری کی وجہ سے ایسا کرنے کا حکم مختلف ہے۔

5449 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا طَوَّلَ الْإِمَامُ

الْخُطْبَةَ، اتَّكَأَ عَلَيَّ

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مجھ سے ٹیک لگایا کرتے تھے جب امام خطبہ طویل کر دیتا تھا۔

5450 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن رجل، من أسلم، عن صالح، مولى التوامة: أن أبا هريرة كان يتكلم عليه يوم الجمعة والإمام يخطب " * * * صالح جو توامہ کے غلام ہیں وہ بیان کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن امام کے خطبہ کے دوران ان کے ساتھ ٹیک لگاتے تھے۔

بَابُ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ الْخُطْبَةَ

باب: جو شخص خطبہ نہیں سنتا

5451 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء، لمن لم يحضر الخطبة فسمعها جمعة، فجلس في الظل، واعتزل المذبح؟ قال: سبحان الله، نعم، وما له لا يكون له جمعة، خرج الى الله لا يريد الا الله قال عطاء: وان دنا منه، فهو احب الي، ان صبر على الشمس فهو خير له * * * ابن جريج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص خطبہ میں شامل نہیں ہوتا، لیکن جمعہ میں شریک ہوتا ہے وہ سایہ میں بیٹھ جاتا ہے اور وعظ و نصیحت کرنے والے شخص سے الگ رہتا ہے۔ تو عطاء نے جواب دیا: سبحان اللہ! جی ہاں! اس کا جمعہ کیوں نہیں ہوگا جبکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف گیا تھا اور اس کی مراد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول تھی۔ عطاء کہتے ہیں: اگر وہ شخص امام کے زیادہ قریب ہو کر بیٹھتا ہے تو یہ چیز میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے خواہ اسے دھوپ برداشت کرنی پڑے یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔

5452 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: "المؤذنون يجلسون في المنار على المسجد، ولا يجلسون مع الناس يقصرون؟ قال: نعم قال: عبد الرزاق: وسألت معمرًا عنه، فقال: يقصرون * * * ابن جريج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگر اذان دینے والے لوگ مسجد کے مینارے پر بیٹھ جاتے ہیں وہ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے تو کیا وہ قصر کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! امام عبد الرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے معمر سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بھی فرمایا: وہ قصر کریں گے (یعنی جمعہ کی دو رکعات ادا کریں گے)۔

بَابُ هَلْ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرِ الْمَسْجِدَ جُمُعَةً؟

باب: جو شخص مسجد میں موجود نہیں ہوتا، کیا اس پر جمعہ لازم ہوگا؟

5453 - آثار صحابہ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي قتادة قال: من لم يصل يوم الجمعة في المسجد فلا جمعة له، قال معمر: فإن اضطر، فإن الحسن كان لا يرى بأساً أن يصلها في الطريق، أو في فناء المسجد حيثما اضطر من ضيق، أو زحام فليصل ركعتين قال:

فَقَوْلٌ لِلْحَسَنِ: " إِنَّهَا أَرْوَاثُ الدَّوَابِّ، فَيَقُولُ: يُصَلِّي

* * حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو شخص مسجد میں جمعہ کی نماز ادا نہیں کرتا اس کا جمعہ نہیں ہوتا۔

معمربیان کرتے ہیں: اگر کوئی شخص اضطراری حالت میں ہو تو حسن بصری کے نزدیک وہ راستہ میں یا مسجد کے صحن میں نماز ادا کر لے خواہ وہ تنگی کی وجہ سے اضطراری حالت میں ہو یا ہجوم کی وجہ سے وہ دو رکعات ادا کر لے گا۔ راوی کہتے ہیں: ہم نے حسن بصری سے کہا: راستہ میں تو جانوروں کی لید بھی ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا: وہ پھر بھی نماز ادا کر لے گا۔

5454 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: جِئْتُ أَنَا وَأَبِي مَرَّةً فَوَجَدْنَا الْمَسْجِدَ قَدْ امْتَلَأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَنَصَلِّي بِصَلَاةِ النَّاسِ فِي بَيْتٍ عِنْدَ الْمَسْجِدِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ " قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

* * ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں اور میرے والد آئے ہم نے مسجد کو پایا کہ وہ جمعہ کے دن بھر چکی تھی تو ہم نے مسجد کے قریب موجود ایک گھر میں لوگوں کے ساتھ نماز ادا کی جبکہ مسجد اور اس گھر کے درمیان راستہ بھی موجود تھا۔ راوی کہتے ہیں: میرا خیال ہے انہوں نے یہ بات بھی بیان کی تھی کہ ہم نے حمید بن عبدالرحمن کے گھر میں نماز ادا کی تھی۔

5455 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُهَيْلٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ رَأَى أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ فِي دَارِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِصَلَاةِ الْإِمَامِ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ * * صالح بن ابراہیم بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے امام کی اقتداء میں حمید بن عبدالرحمن کے گھر میں جمعہ کی نماز ادا کی جبکہ مسجد اور ان کے گھر کے درمیان راستہ موجود تھا۔

بَابُ الْقَوْمِ يَأْتُونَ الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ انْصِرَافِ النَّاسِ

باب: جب کچھ لوگ جمعہ کے دن لوگوں کے نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد میں آئیں

5456 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَزَيْرٌ، فَأَمَنِي، وَفَاتَنِي الْجُمُعَةُ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ: فَعَلَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَرُبَّمَا فَعَلْتَهُ أَنَا وَالْأَعْمَشُ

* * حسن بن عبید اللہ بیان کرتے ہیں: میں نے اور زیر نے نماز ادا کی انہوں نے میری امامت کی میری جمعہ کی نماز فوت ہو گئی تھی میں نے ابراہیم سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے علقمہ اور اسود کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا۔ سفیان کہتے ہیں: بعض اوقات میں اور اعمش بھی ایسا کر لیتے ہیں۔

5457 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا لَمْ يُدْرِكْ قَوْمَ الْجُمُعَةِ، أَنْ يُصَلُّوا الْجَمَاعَةَ وَقَوْلُ سُفْيَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ نَأْخُذُ

*** حسن بصری کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ جب کچھ لوگ جمعہ میں شامل نہ ہو سکے ہوں تو وہ باجماعت نماز ادا کریں جبکہ سفیان کا قول میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔
امام عبدالرزاق کہتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

5458 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلُّوا الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا

*** ابو قلابہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ جمعہ کے دن جماعت کے ساتھ (ظہر کی نماز) ادا کی جائے۔ امام عبدالرزاق نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔

5459 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، أَتَى الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلَقِيَ النَّاسَ مُنْصَرِفِينَ فَدَخَلَ دَارًا فَصَلَّى فِيهَا، فَقِيلَ لَهُ: هَلَا أَتَيْتَ الْمَسْجِدَ؟ قَالَ: إِنَّ مَنْ لَا يَسْتَحِي مِنَ النَّاسِ لَا يَسْتَحِي مِنَ اللَّهِ

*** محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن مسجد میں آئے ان کی لوگوں سے ملاقات ہوئی تو لوگ واپس جا رہے تھے تو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے اور انہوں نے گھر میں نماز ادا کی ان سے دریافت کیا گیا: آپ مسجد کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے جواب دیا: جو شخص لوگوں سے حیا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ سے بھی حیا نہیں کرتا۔

5460 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يَأْمُرُ مَنْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ أَنْ يَمْضِيَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي فِيهِ

*** ایوب نے ابن سیرین کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ جس شخص کا جمعہ فوت ہو جائے وہ اسے یہ حکم دیتے تھے کہ وہ مسجد جائے اور وہاں (ظہر کی نماز) ادا کرے۔

5461 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا لَقِيَ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَدْ انْصَرَفُوا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: تَنَكَّبَ سُنَنَ النَّاسِ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا حَيَاءَ فِيهِ

*** ابن شبرمہ فرماتے ہیں: جو شخص جمعہ کے دن لوگوں سے ملے کہ وہ نماز پڑھ کر واپس آ رہے ہوں تو ایسے شخص کے بارے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا تھا کہ تم لوگوں کے طرف سے الگ ہو رہے ہو؟ کیونکہ جس شخص میں حیا نہیں اس میں کوئی بھلائی نہیں۔

بَابُ مَنْ حَضَرَ الْجُمُعَةَ فَزَحَمَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ يَرْكُعَ مَعَ الْإِمَامِ

باب: جو شخص جمعہ میں موجود ہو اور ہجوم زیادہ ہو اور وہ امام کے ساتھ رکوع نہ کر سکے

5462 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُصَلِّيَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ مِنْ

الرَّحَامِ، فَإِنَّهُ يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ إِذَا زَحَمُوا فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرْكَعَ وَلَا يَسْجُدَ قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَرْكَعُ رَكَعَتَيْنِ فَإِنَّهُ قَدْ دَخَلَ مَعَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ

*** قنادہ فرماتے ہیں: جو شخص جمعہ کے دن ہجوم کی کثرت کی وجہ سے نماز ادا نہ کر سکے تو وہ چار رکعات ادا کرے گا جبکہ وہ ہجوم اتنا زیادہ ہو کہ وہ شخص رکوع اور سجدہ نہ کر سکا ہو۔

معمر بیان کرتے ہیں: مجھے اُس شخص نے یہ بات بتائی ہے جس نے حسن بصری کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایسا شخص دو رکعات ہی ادا کرے گا کیونکہ وہ لوگوں کے ساتھ اُن کی نماز میں شریک ہوا تھا۔

5463 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَاسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ الرَّجُلِ

وَإِنْ شِئْتَ فَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ فَاسْجُدْ وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

*** حسن بصری فرماتے ہیں: اگر تم چاہو تو دوسرے آدمی کی پشت پر سجدہ کر سکتے ہو اور اگر چاہے تو جب امام کھڑا ہو

جائے اُس وقت سجدہ کرو۔ امام عبد الرزاق نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔

5464 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يَسْجُدُ الرَّجُلُ عَلَى ظَهْرِ

الرَّجُلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَكَانًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ

*** طاووس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: آدمی دوسرے آدمی کی پشت پر سجدہ کر لے گا اگر

اُسے سجدہ کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی ہے۔

5465 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ

الرَّحَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ

*** امام شعبی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا: جب جمعہ کے دن ہجوم زیادہ ہو تو کوئی شخص اپنے بھائی کی

پشت پر سجدہ کر لے۔

5466 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ مَنْصُورٍ، عَنِ فُضَيْلٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا

أَدَى أَحَدُكُمْ الْحَرَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَسْجُدْ عَلَى ثَوْبِهِ

*** ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب کسی شخص کو جمعہ کے دن گرمی اذیت دے رہی ہو تو

وہ اپنے کپڑے پر سجدہ کر لے۔

5467 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنِ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا اشْتَدَّ الرَّحَامُ فَاسْجُدْ

عَلَى رِجْلِ الرَّجُلِ، قَالَ سُفْيَانُ: فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَسْجُدَ عَلَى رِجْلِ الرَّجُلِ، فَقُمْ حَتَّى يَقُومَ النَّاسُ، ثُمَّ

سَجَدْتَ

*** مجاہد بیان کرتے ہیں: جب ہجوم زیادہ ہو تو تم کسی شخص کے پاؤں پر سجدہ کر لو۔ سفیان کہتے ہیں: اگر تم کسی شخص کے

پاؤں پر سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو تم کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ جب لوگ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر تم سجدہ کر لینا۔
5468 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوري قال: إذا ازدحم الناس يوم الجمعة فزحم الرجل فلم يركع ولم يسجد، وهو قائم فإذا استمكن فأنما عليه أن يركع، ويسجد، وهو بمنزلة النائيم، وتجزيه قراءة الإمام

*** سفیان ثوری فرماتے ہیں: جب جمعہ کے دن لوگوں کا ہجوم زیادہ ہو اور کوئی شخص ہجوم میں پھنس کر رکوع نہ کر سکے یا سجدہ نہ کر سکے تو وہ کھڑا رہے گا اگر اس کے لیے ممکن ہو تو وہ رکوع اور سجدہ کر لے گا اور اس کی مثال سوئے ہوئے شخص کی طرح ہو گی اور امام کی قرأت اس کے لیے کافی ہوگی۔

5469 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن مسيب بن رافع أن عمر بن الخطاب قال: من اشتد عليه الحر يوم الجمعة في المسجد فليصل على ثوبه، ومن زحمة الناس فليسجد على ظهر أخيه

*** مسیب بن رافع بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ہے: جمعہ کے دن جس شخص کو مسجد میں شدید گرمی لگ رہی ہو وہ اپنے کپڑے پر نماز ادا کرے اور جو شخص لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے پھنسا ہوا ہو وہ اپنے بھائی کی پشت پر سجدہ کر لے۔

بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ الْخُطْبَةُ؟

باب: جس شخص کا خطبہ رہ جائے

5470 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن خصيف الجزري، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها ركعة أخرى

*** سعید بن جبیر، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں: جب کوئی شخص جمعہ کے دن ایک رکعت پالے تو وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت ادا کر لے۔

5471 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر قال: إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها ركعة أخرى، فإن وجدهم جلوساً صلى أربعاً. وبه يأخذ عبد الرزاق.

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جب کوئی شخص جمعہ کے دن ایک رکعت پالے تو وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت ادا کر لے اور اگر وہ ان لوگوں کو بیٹھا ہوا پائے تو چار رکعات ادا کرے۔ امام عبد الرزاق نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔

5472 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر نحوه وبه يأخذ أيضاً.

یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے اور ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے

ہیں۔

5473 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ،

یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔

5474 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ مَنصُورٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ،

یہی روایت بعض دیگر اسناد کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔

5475 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنِ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ

مِثْلَهُ أَيْضًا.

بعض دیگر اسناد کے ساتھ علقمہ اور اسود کے حوالے سے بھی اسی کی مانند منقول ہے۔

5476 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ

الْحَسَنَ، يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

یہی اور قتادہ کے حوالے سے بھی اس کی مانند منقول ہے اور حسن بصری سے بھی اس کی مانند منقول ہے۔

5477 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ

الرَّكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ، وَمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

یہی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں: جو شخص ایک رکعت کو پالیتا ہے وہ جمعہ کو پالیتا ہے اور جو شخص ایک رکعت

کو بھی نہیں پاتا وہ چار رکعات ادا کرے گا۔

5478 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ

5478- صحیح البخاری - کتاب مواقیب الصلاة' باب من ادرك من الصلاة ركعة - حدیث: 564' صحیح مسلم - کتاب الساجد ومواضع الصلاة' باب من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك تلك الصلاة - حدیث: 986' صحیح ابن خزيمة - کتاب الإمامة في الصلاة' جناء ابواب قيام المأمومين خلف الإمام وما فيه من السنن - باب ذكر الوقت الذي فيه المأموم مدركا للركعة إذا ركع إمامه' حدیث: 1502' صحیح ابن حبان - کتاب الصلاة' باب مواقیب الصلاة - ذكر خبر اوهم غير المتبحر في صناعة العلم ان المدرك ركعة' حدیث: 1501' موطا مالك - کتاب وقوت الصلاة' باب من ادرك ركعة من الصلاة - حدیث: 14' سنن الدارمی - کتاب الصلاة' باب من ادرك ركعة من صلاة فقد ادرك - حدیث: 1248' سنن ابی داود - کتاب الصلاة' تفريع ابواب الجمعة - باب من ادرك من الجمعة ركعة' حدیث: 959' سنن ابن ماجه - کتاب إقامة الصلاة' باب ما جاء فيمن ادرك من الجمعة ركعة - حدیث: 1118' السنن للنسائي - کتاب المواقیب' من ادرك ركعة من الصلاة - حدیث: 553' السنن الكبرى للنسائي - مواقیب الصلوات' من ادرك ركعة من الصلاة - حدیث: 1519' مشكل الآثار للطحاوی - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه' حدیث: 1921

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ قَالَ: الزُّهْرِيُّ: فَالْجُمُعَةُ مِنَ الصَّلَاةِ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”جو شخص نماز کی ایک رکعت کو پالے وہ نماز کو پالیتا ہے۔“

زہری فرماتے ہیں: جمعہ بھی ایک نماز ہے۔

5479 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنِ ابْنِ

مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ الْآخِرَةُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

*** حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جس شخص کی دوسری رکعت بھی رہ جائے تو وہ چار رکعات ادا کرے

گا۔

5480 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَادٍ قَالَ: إِذَا أَدْرَكَهُمْ جُلُوسًا فِي آخِرِ الصَّلَاةِ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَقِيلَ لِقَتَادَةَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَاءَ هُمْ جُلُوسًا فِي

آخِرِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: اجْلِسُوا أَدْرَكْتُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَقَالَ قَتَادَةُ: انْفَآى يَقُولُ: أَدْرَكْتُمْ الْآجَرَ

*** حماد فرماتے ہیں: جب آدمی لوگوں کو جمعہ کے دن نماز کے آخر میں قعدہ میں بیٹھے ہوئے پائے تو وہ دو رکعت ادا

کرے گا۔

معمر بیان کرتے ہیں: قتادہ نے یہ بات کہی ہے کہ وہ چار رکعات ادا کرے گا۔ قتادہ سے کہا گیا: ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن

مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں کے پاس آئے وہ نماز کے آخر میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا: تم لوگ بیٹھ جاؤ! اگر

اللہ نے چاہا تو تم نماز کو پاچکے ہو۔ اس پر قتادہ نے کہا: ان کی مراد یہ ہوگی کہ تمہیں اجر مل گیا ہے۔

5481 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَادٍ قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ الْإِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

وَهُوَ جَالِسٌ لَمْ يُسَلِّمْ فَلْيُصَلِّ بِصَلَاتِهِ رَكْعَتَيْنِ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسَافِرِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَالْأَرْبَعُ أَعْجَبُ الْيَنَاءِ لِأَنَّهُ قَدْ

فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ

*** حماد فرماتے ہیں: جب کوئی شخص امام کو جمعہ کے دن بیٹھے ہوئے پائے اور امام نے ابھی سلام نہ پھیرا ہو تو وہ امام کی

اقتداء میں دو رکعت ادا کرے یہ شخص مسافر کے حکم میں ہوگا۔

سفیان ثوری کہتے ہیں: چار رکعات ادا کرنا ہمارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے کیونکہ اس شخص کا جمعہ فوت ہو چکا ہے۔

5482 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: جَاءَ

رَجُلٌ إِلَى عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، فَقَالَ: رَجُلٌ قَدْ فَاتَتْهُ الْجُمُعَةُ كُمْ يُصَلِّي؟ قَالَ عِمْرَانُ: وَلِمَ تَفُوتُهُ الْجُمُعَةُ؟

فَلَمَّا وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ عِمْرَانُ: أَمَا إِنَّهُ لَوْ فَاتَتْنِي الْجُمُعَةُ صَلَّيْتُ أَرْبَعًا

*** ابو نضرہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بولا: ایک شخص کا جمعہ رہ جاتا ہے تو وہ کتنی رکعات ادا کرے گا؟ حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: اُس کا جمعہ کیوں رہ گیا؟ جب وہ شخص چلا گیا تو حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر میرا جمعہ رہ گیا ہوتا تو میں چار رکعات ادا کرتا۔

5483 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن جعفر قال: سمعت أبا غالب يقول: سمعت أبا أمامة، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم الجمعة قامت الملائكة بآبواب المسجد فيكتبون الناس على منازلهم الأول، فإن تأخر رجل منهم عن منزله دعت له الملائكة، يقولون: اللهم إن كان مريضاً فاشفه، اللهم إن كانت له حاجة فاقض له حاجته فلا يزالون كذلك حتى إذا خرج الإمام طويت الصحف ثم ختمت، فمن جاء بعد نزول الإمام فقد أدرك الصلاة ولم يدرك الجمعة

*** ابو غالب بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے نام ان کی آمد کے حساب سے درجہ بدرجہ نوٹ کرتے جاتے ہیں اگر کوئی شخص ان میں سے اپنی جگہ سے پیچھے رہ جاتا ہے تو فرشتے اُس کے لیے دعا کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں: اے اللہ! اگر وہ بیمار ہے تو اُسے شفاء دے! اے اللہ! اگر اُسے کوئی کام ہے تو اُسے پورا کر دے! وہ لوگ اسی طرح دعا کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب امام آتا ہے تو صحیفے لپیٹ دیئے جاتے ہیں اور ان پر مہر لگا دی جاتی ہے جو شخص امام کے آنے کے بعد آتا ہے وہ نماز تو پالیتا ہے لیکن وہ جمعہ کو نہیں پاتا ہے۔

5484 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن عمرو بن راشد، وغيره، عن يحيى بن أبي كثير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك الخطبة فقد أدرك الصلاة

*** یحییٰ بن ابوکثیر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے:

”جو شخص خطبہ کو پالیتا ہے وہ نماز کو پالیتا ہے۔“

5485 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الأوزاعي، عن عمرو بن شعيب قال: سمعته يقول: قال عمرو بن الخطاب: الخطبة موضع الركعتين، من فاتته الخطبة صلى أربعاً

*** عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں: حضرت عمرو بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا ہے:

”خطبہ دو رکعات کی جگہ ہے جس شخص کا خطبہ رہ جائے وہ چار رکعات ادا کرے۔“

5486 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما الذي إذا أدركه الإنسان يوم الجمعة قصر، وألا أوفى الصلاة؟ قال: الخطبة قال: قلت: فلم أجلس حتى نزل الإمام؟ قال: لم يدرك الإمام قال: قلت: فجلست قبل أن ينزل؟ قال: حسبك، قد أدركت

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے کہا: وہ کون سی چیز ہے کہ جسے انسان جمعہ کے دن پالے تو وہ نماز کو

قصر کرے گا (یعنی دو رکعات ہی ادا کرے گا؟) ورنہ پھر وہ مکمل نماز (یعنی ظہر کی چار رکعات) ادا کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا: خطبہ! میں نے کہا: اگر میں اُس وقت نہیں بیٹھتا یہاں تک کہ امام آجاتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: ایسے شخص نے امام کو نہیں پایا۔ میں نے دریافت کیا: اگر میں اُس کے آنے سے پہلے بیٹھ جاتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا: یہ تمہارے لیے کافی ہے تم اسے پا لو گے۔

5487 - اِتْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ اِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: لَمْ اَدْرِكِ الْخُطْبَةَ اِلَّا وَهُوَ فِي الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ؟ قَالَ: قَدْ اَمَرَ اللّٰهُ بِذَلِكَ، فَذَلِكَ مِنَ الذِّكْرِ فَاقْصُرْ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے عطاء سے دریافت کیا: میں خطبہ تک نہیں پہنچ سکا، میں اُس وقت پہنچا جب وہ (یعنی امام) ناپ تول کا ذکر کر رہا تھا تو عطاء نے کہا: اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے اور یہ چیز نصیحت کرنے کے لیے ہے تم اس پر اکتفاء کرو۔

5488 - اِتْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنِ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، قَالَا: فَمَنْ لَمْ يَدْرِكِ الْخُطْبَةَ صَلَّى اَرْبَعًا

*** عطاء اور مجاہد فرماتے ہیں: جو شخص خطبہ کو نہیں پاتا وہ چار رکعات ادا کرے گا۔

5489 - اِتْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ رَعَفَ، وَالْاِمَامُ يَخْطُبُ فَقَامَ فَتَوَضَّأَ فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى صَلَّى الْاِمَامُ وَفَرَّغَ قَالَ: يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَدْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ

*** ابن جریج نے عطاء کا یہ قول نقل کیا ہے: امام کے خطبہ کے دوران جس شخص کی نکسیر پھوٹ پڑے تو وہ شخص کھڑا ہو اور جا کر وضو کرے اور اُس وقت تک واپس نہ آئے جب تک امام نماز پڑھا کر فارغ نہیں ہو جاتا۔ عطاء کہتے ہیں: وہ شخص دو رکعات ادا کرے گا کیونکہ وہ خطبہ میں شریک ہوا تھا۔

5490 - اِتْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ قَتَادَةَ قَالَ: يُصَلِّي اَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: يُصَلِّي اَرْبَعًا، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

*** قتادہ فرماتے ہیں: ایسا شخص چار رکعات ادا کرے گا۔ سفیان ثوری بھی یہ کہتے ہیں: وہ چار رکعات ادا کرے گا۔ امام عبد الرزاق نے بھی اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔

5491 - اِتْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ لَمْ يَشْهَدْ الْخُطْبَةَ وَجَاءَ حِينَ قَامَ الْاِمَامُ فِي الصَّلَاةِ فَاحْدَثَ الْاِمَامُ فَاَرَادَ اَنْ يُقَدِّمَهُ قَالَ: لَا يَتَقَدَّمُ اِلَّا مَنْ شَهِدَ الْخُطْبَةَ، فَاِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى مَعَ الْاِمَامِ بَعْضَ صَلَاتِهِ فَلَا بَأْسَ اَنْ يُقَدِّمَهُ فَلْيُصَلِّ تَمَامَ رَكْعَتَيْنِ، وَالْاِمَامُ الَّذِي اَحْدَثَ، ثُمَّ رَجَعَ فَاِنْ كَانَ قَدْ تَكَلَّمَ صَلَّى اَرْبَعًا، وَاِنْ كَانَ لَمْ يَتَكَلَّمْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَاِنْ قَدَّمَ الْاِمَامُ رَجُلًا لَمْ يَشْهَدْ مَعَ الْاِمَامِ شَيْئًا مِنْ خُطْبَتِهِ وَلَا صَلَاتِهِ صَلَّى اَرْبَعًا

*** سفیان ثوری ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو خطبہ میں شریک نہیں ہوتا اور اُس وقت آتا ہے جب امام

نماز میں کھڑا ہو چکا ہوتا ہے پھر امام کو حدث لاحق ہو جاتا ہے اور وہ اُس شخص کو آگے کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ تو سفیان ثوری فرماتے ہیں: آگے وہ شخص ہو سکتا ہے جو خطبہ میں موجود رہا ہو اگرچہ وہ شخص امام کے ساتھ نماز کے کچھ حصہ میں شریک ہو چکا ہو پھر بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ امام اُسے آگے کر دے پھر وہ دو رکعات پڑھا دے گا اور وہ جسے امام حدث لاحق ہوا تھا اگر وہ آجاتا ہے تو اگر تو اُس نے کلام کیا تھا تو وہ چار رکعات ادا کرے گا اور اگر اُس نے کلام نہیں کیا تھا تو وہ دو رکعات ادا کرے گا اگر امام کسی ایسے شخص کو آگے کر دیتا ہے جو امام کے ساتھ خطبہ یا نماز میں سے کسی میں بھی شریک نہیں ہوا تھا تو وہ چار رکعات ادا کرے گا۔

5492 - اَقْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ أَحْدَثَ

فَانْصَرَفَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، يَتَوَضَّأُ وَيَتِمُّ مَا بَقِيَ، فَإِنْ تَكَلَّمَ صَلَّى أَرْبَعًا

* * سفیان ثوری ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں جو جمعہ کے دن امام کے ساتھ ایک رکعت ادا کرتا ہے پھر اُسے

حدث لاحق ہوتا ہے جب وہ واپس آتا ہے تو اس دوران اُس نے کوئی کلام نہیں کیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! وہ وضو کرے گا اور باقی رہ جانے والی نماز کو مکمل کرے گا، لیکن اگر اُس نے درمیان میں کلام کر لیا تو پھر وہ چار رکعات ادا کرے گا۔

بَابُ قِيَامِ الْمَرْءِ مِنْ عِنْدِ الْمِنْبَرِ وَالْإِمَامِ يَخْطُبُ

باب: جب امام خطبہ دے رہا ہو تو کسی شخص کا منبر کے پاس کھڑے ہونا

5493 - اَقْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كُنْتُ عِنْدَ الْمِنْبَرِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

فَأَسْتَصْرِخْتُ عَلَى وُلْدِي، أَكُنْتُ قَائِمًا إِلَيْهِ وَتَارِكًا الْجُمُعَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَوَلَدٌ وَآخٌ وَابْنُ عَمٍّ؟ قَالَ: لَمْ أَقْمِ إِلَّا فِي خَيْرٍ أَوْ صَلَاةٍ، وَلَمْ تُلْهِنِي عَنِ الْجُمُعَةِ الدُّنْيَا

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: آپ منبر کے پاس موجود ہوں اور امام اُس وقت خطبہ دے اور پھر آپ کو پکار کر کسی بچے کی طرف بلایا جائے تو کیا آپ اُس بچے کی طرف جائیں گے اور جمعہ کو ترک کر دیں گے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: اس بارے میں بچہ کا بھائی کا اور چچا زاد بھائی کا حکم برابر ہے؟ انہوں نے فرمایا: میں صرف بھلائی یا صلہ رحمی کے لیے ہی اٹھوں گا ورنہ دنیا کی کوئی چیز مجھے جمعہ سے غافل نہیں کر سکتی۔

5494 - آثَارِ صَحَابَةٍ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اسْتَصْرَخَ عَلَيَّ سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ

عُمَرَ وَبَنِي نَفِيلٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ لَمْ يُجْمَعِ يَوْمَئِذٍ

* * ایوب بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جمعہ کے دن دن چڑھ جانے کے بعد حضرت سعید بن زید

بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہما کے انتقال کا اعلان سنا تو وہ اُن کے گھر چلے گئے انہوں نے اُس دن جمعہ ادا نہیں کیا۔

5495 - آثَارِ صَحَابَةٍ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُوَيْبِ الْأَسَدِيِّ

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، دُعِيَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ يَمُوتُ وَابْنُ عُمَرَ يَسْتَجِمِرُ قَائِمًا لِلْجُمُعَةِ، فَذَهَبَ إِلَيْهِ وَتَرَكَ

الجمعة.

*** اسماعیل بن عبدالرحمن بن ابوزویب اسدی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے انتقال کی اطلاع ملی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس وقت جمعہ کے لیے جانے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے اور انہوں نے جمعہ ترک کر دیا۔

5496 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن عیینة، عن ابن ابي نجيح، عن اسماعيل بن عبد الرحمن نحوه *** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

5497 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: اخبرني يحيى بن سعيد، عن نافع، ان ابن ع استصرخ على سعيد بن زيد يوم الجمعة بعدما ارتفع الضحى، فاتاه ابن عمر بالعقيق *** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو جمعہ کے دن دن چڑھ جانے کے بعد حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کے انتقال کی اطلاع ملی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے گھر ”عقیق“ چلے گئے۔

باب تخطي رقاب الناس، والإمام يخطب

باب: جب امام خطبہ دے رہا ہو تو لوگوں کی گردنیں پھلانگنا

5498 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، ان رجلا جاء يتخطي رقاب الناس والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وصلاته قال: يا فلان، اجمعت اليوم؟ قال: اما رأيتني يا رسول الله؟ قال: قد رأيتك واذيت وآنيت *** حسن بصری بیان کرتے ہیں: ایک شخص لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت خطبہ دے رہے تھے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ اور نماز مکمل کر لی تو آپ نے فرمایا: اے فلاں! کیا آج تم نے جمعہ ادا نہیں کیا؟ اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا آپ نے مجھے دیکھا نہیں تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے تمہیں دیکھا تھا کہ تم نے اذیت پہنچائی اور تم دیر سے آئے۔

5499 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابراهيم بن يزيد، عن الوليد بن عبد الله، عن جابر بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

*** حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے۔

5500 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن الحسن، وقتادة، قالا: ان رأيت فرجة أمامك، قل: ان يخرج الإمام، فلا بأس ان تأتيها من غير ان تؤذي أحدا

*** حسن بصری اور قتادہ بیان کرتے ہیں: اگر تم اپنے سامنے کشادگی دیکھو اور یہ امام کے آنے سے پہلے کی بات ہو تو

اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم کسی کو اذیت پہنچائے بغیر وہاں تک پہنچ جاؤ۔

5501 - اقول تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ رَأَيْتُ أَمَامِي فَجُوعَةً دُونَهَا النَّاسُ اتَّخَطَّاهُمْ إِلَيْهَا؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَخَلَّلْتَهُمْ إِلَيْهَا تَخَلُّلاً؟ قَالَ: وَكَيْفَ؟ قُلْتُ: كَانَ يَكُونُ الرَّجُلَانِ لَا يَتَمَاسَّانِ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ كُنْتَ لَا تَتَخَطَّى أَحَدًا، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: فَكَانَ إِنْسَانَانِ يَتَمَاسَّانِ رُكْبَتَيْهِمَا فَاتَّخَطَّى رُكْبَتَيْهِمَا؟ قَالَ: لَا

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگر میں اپنے آگے اور لوگوں کے درمیان کشادگی دیکھتا ہوں تو کیا میں لوگوں کو پھلانگ کر وہاں تک جاسکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! میں نے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میں ان لوگوں کے درمیان کوئی خلل ڈال دوں؟ انہوں نے کہا: وہ کیسے؟ میں نے کہا: دو آدمی ہیں جو ایک دوسرے سے مس نہیں ہوئے ہیں (یعنی ان کے درمیان جگہ خالی ہے تو اس میں سے بیچ میں سے گزر سکتا ہوں؟) انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! اگر تم کسی شخص کی گردن نہیں پھلانگتے (تو ایسا کر سکتے ہو)۔ ایک شخص نے ان سے دریافت کیا: دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا میں گھٹنوں کے اوپر سے گزر جاؤں؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

5502 - اقول تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَاتَّخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ جُلُوسًا لَمْ يَخْرُجِ الْإِمَامُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَكَانُوا قِيَامًا يُصَلُّونَ وَلَمْ يَخْرُجِ الْإِمَامُ اتَّخَلَّلَ النَّاسُ؟ قَالَ: إِنْ كُنْتَ لَا تَرْفَعُ أَحَدًا وَلَا تُؤْذِيهِ وَلَا تُصَبِّحُ عَلَى أَحَدٍ فَنِعْمَ، وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَلَا تُؤْذِي أَحَدًا

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا میں ایسے موقع پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی گردن پھلانگ سکتا ہوں جب امام ابھی نہ آیا ہو؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! میں نے دریافت کیا: اگر لوگ کھڑے ہوئے ہوں اور نماز ادا کر رہے ہوں اور امام ابھی نہ آیا ہو تو میں لوگوں کے درمیان میں سے گزر سکتا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: اگر تم کسی کو اٹھاتے نہیں ہو اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہو اور کسی کو تنگ نہیں کرتے تو ٹھیک ہے اور اگر اس میں سے کچھ بھی ہوتا ہے تو تم کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ۔

5503 - اقول تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: الصَّفُّ الْأَوَّلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالصَّفُّ الْمُقَدَّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِثْلَ بَيْتِ اللَّهِ، مَنْ زَحَلَ رَجُلًا مِنْ مَكَانِهِ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ * * کنول فرماتے ہیں: جمعہ کے دن پہلی صف اور اللہ کی راہ میں (جہاد کی) پہلی صف ایک دوسرے کی مانند ہیں۔ جو شخص کسی کو اس کی جگہ سے الگ کرتا ہے تو اس کا اجر اُسے ملے گا۔

5504 - اقول تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُقَيْعٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيْبِ يَقُولُ: لِأَنَّ أَجْمَعَ بِالرُّوحَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ اتَّخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ * * عبدالعزیز بن رقیع بیان کرتے ہیں: انہوں نے سعید بن مسیب کو کہتے ہوئے سنا ہے: میں ”روحاء“ کے مقام پر

جمعہ ادا کر لوں یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے جاؤں۔

5505 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوَّامَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا أَحَبُّ أَنْ

لِي حُمْرَ النَّعَمِ، وَإِنِّي تَرَكْتُ الْجُمُعَةَ، وَلَآنَ أُمْلِيهَا بَظَهْرِ الْحَرَّةِ أَحَبُّ مِنِّي أَنْ اتَّخِطِّي رِقَابَ النَّاسِ إِذَا أَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ جمعہ ترک کرنے کے بدلے میں مجھے سرخ اونٹ

مل جائیں اور میں پتھر لی سرزمین پر اسے ادا کر لوں یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ جب لوگ بیٹھ چکے ہوں تو میں ان کی گردنیں پھلانگوں۔

5506 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

مِثْلَهُ

*** ابن عجلان نے سعید مقبری کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اس کی مانند نقل کیا ہے۔

بَابُ الْإِسْتِذَانِ

باب: اجازت مانگنا

5507 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ مَكْحُولًا، وَأَنَا أَسْمَعُ وَهُوَ جَالِسٌ

مَعَ عَطَاءٍ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ: (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ) (النور: 62) حَتَّى قَوْلِهِ (وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ

جَامِعٍ) (النور: 62) هَذِهِ الْآيَةُ، فَقَالَ مَكْحُولٌ يُعْمَلُ بِهَا الْآنَ، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَذْهَبَ أَحَدٌ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَلَا فِي

الرَّحْفِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ الْإِمَامَ قَالَ: وَكَذَلِكَ فِي أَمْرِ جَامِعٍ، أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ: وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ، فَقَالَ

عَطَاءٌ عِنْدَ ذَلِكَ: قَدْ أَدْرَكْتُ لَعْمَرِي النَّاسَ فِيمَا مَضَى يَسْتَأْذِنُونَ الْإِمَامَ إِذَا قَامُوا وَهُوَ يَخْطُبُ، قُلْتُ: كَيْفَ

رَأَيْتَهُمْ يَسْتَأْذِنُونَ؟ قَالَ: يُشِيرُ الرَّجُلُ بِيَدِهِ، فَأَشَارَ لِي عَطَاءٌ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، قُلْتُ: يُشِيرُ وَلَا يَتَكَلَّمُ؟ قَالَ: نَعَمْ،

قُلْتُ: الْإِمَامُ إِذَا أَدِنَ؟ قَالَ: يُشِيرُ وَلَا يَتَكَلَّمُ، قُلْتُ: وَلَا يَضَعُ الْإِنْسَانُ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ وَلَا عَلَى ثَوْبِهِ؟ قَالَ: لَا

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے مکحول سے سوال کیا میں یہ بات سن رہا تھا اور مکحول اُس وقت عطاء کے

ساتھ بیٹھے ہوئے تھے (اُس شخص نے) اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں دریافت کیا:

”بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں“۔ یہ آیت یہاں تک ہے: ”اور جب وہ لوگ

اُس کے ساتھ کسی جامع معاملہ پر ہوں“۔

تو مکحول نے کہا: اس پر ابھی عمل کیا جاتا ہے مناسب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جمعہ میں شرکت کے لیے یا جنگ میں شرکت کے

لیے اُس وقت تک نہ جائے جب تک امام سے اجازت نہیں لیتا۔ اُس نے دریافت کیا: کیا جمع ہونے والے معاملہ سے مراد یہی

ہے؟ کیا آپ نے انہیں یہ کہتے ہوئے نہیں سنا: (ارشاد باری تعالیٰ ہے):

”اور جب وہ وگ اُس کے ساتھ کسی جامع معاملہ پر ہوں۔“

اس موقع پر عطاء نے یہ کہا: مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے! میں نے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو پایا ہے کہ جب امام کھڑا ہو کر خطبہ دے رہا ہوتا تھا تو وہ امام سے اجازت لیتے تھے۔ میں نے دریافت کیا: آپ نے ان لوگوں کو کیسے اجازت حاصل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ایک شخص اپنے ہاتھ کے ذریعہ اشارہ کرتا تھا۔ پھر عطاء نے اپنے دائیں ہاتھ کے ذریعہ اشارہ کر کے مجھے بتایا۔ میں نے دریافت کیا: کیا وہ اشارہ کرتا تھا؟ کلام نہیں کرتا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: تو کیا امام اجازت دے دیتا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: وہ بھی اشارہ کرتا تھا کلام نہیں کرتا تھا۔ میں نے دریافت کیا: کیا انسان اپنے ناک پر یا کپڑے پر بھی ہاتھ نہیں رکھے گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

5508 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْلِهِ: (وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ)

الْبُورِ 62، قَالَ فِي الْجُمُعَةِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: فِي الْجُمُعَةِ، وَفِي الْغَزْوِ أَيْضًا

* * * زہری نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان:

”اور جب وہ اُس کے ساتھ کسی جامع معاملہ پر ہوں۔“

کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ یہ جمعہ کے بارے میں ہے۔

معمر بیان کرتے ہیں: میں نے قتادہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے: یہ جمعہ کے بارے میں اور جنگ میں حصہ لینے کے بارے میں

ہے۔

5509 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: "كَانَ النَّاسُ

يَسْتَأْذِنُونَ فِي الْجُمُعَةِ، وَيَقُولُونَ: هَكَذَا، يُشِيرُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ، فَلَمَّا كَانَ زِيَادًا كَثُرُوا عَلَيْهِ فَأَغْتَمَّ، فَقَالَ: مَنْ أَمْسَكَ عَلَى أَنْفِهِ فَهُوَ إِذْنُهُ

* * * ابن سیرین بیان کرتے ہیں: پہلے لوگ جمعہ کے دوران اجازت لیا کرتے تھے وہ اشارہ کے ذریعہ اس طرح کرتے تھے یعنی تین انگلیوں کے ذریعہ اشارہ کرتے تھے جب زیاد کا زمانہ آیا اور لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو اُس نے اس حوالے سے پریشان ہو کر یہ کہا: جو شخص اپنی ناک کو پکڑ لے گا تو یہ اُس کے لیے اجازت ہوگی۔

5510 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْكَلْبِيِّ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي

جُمُعَةٍ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ، وَأَعَجَلَهُ شَيْءٌ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ

* * * کلبی بیان کرتے ہیں: پہلے کسی شخص کو جمعہ کے دن کوئی کام ہوتا تھا اور امام اُس وقت خطبہ دے رہا ہوتا تھا اور وہ شخص باہر جانا چاہتا تھا اور اُسے اس بارے میں جلدی ہوتی تھی تو وہ اپنا ہاتھ ناک پر رکھتا تھا اور پھر باہر چلا جاتا تھا۔

5511 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنِ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: (وَإِذَا كَانُوا

مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ (النور: 62) قَالَ: فِي الْغَزْوِ، وَفِي الْجُمُعَةِ، وَإِذْنُ الْإِمَامِ فِي الْجُمُعَةِ أَنْ يُشِيرَ بِيَدِهِ

*** مجاہد نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں ”اور جب وہ اُس کے ساتھ کسی جامع معاملہ پر ہوں“۔ یہ کہا ہے:

یہ جنگ کے بارے میں اور جمعہ کے بارے میں ہے اور جمعہ میں امام کی اجازت یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کے ذریعہ اشارہ کر دے۔

بَابُ الرَّجُلِ يَجِيءُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

باب: آدمی کا ایسے وقت میں آنا جب امام خطبہ دے رہا ہو

5512 - حَدِيثُ نَبِيِّ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعْدٍ الْأَعْمَى، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ

جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَكَعْتَ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَارْكَعْ رَكَعَتَيْنِ

*** ابوسعدا مینانے یہ بات بیان کی ہے: انصار سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جمعہ کے دن آیا، نبی اکرم ﷺ اُس وقت

خطبہ دے رہے تھے، نبی اکرم ﷺ نے دریافت کیا: کیا تم نے رکعات ادا کی ہیں؟ اُس نے عرض کی: جی نہیں! نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم دو رکعات ادا کر لو۔

5513 - حَدِيثُ نَبِيِّ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ

اللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَقَالَ لَهُ: أَرَكَعْتَ رَكَعَتَيْنِ؟ قَالَ: لَا قَالَ: فَارْكَعْ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: لَيْسَتْ تَانِكَ الرَّكَعَتَانِ لِأَحَدٍ إِلَّا لِمُرٍّ قَطَعَ لَهُ الْإِمَامُ خُطْبَتَهُ وَأَمْرَهُ بِذَلِكَ

*** حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: ایک شخص آیا، نبی اکرم ﷺ جمعہ کے دن منبر پر خطبہ دے رہے تھے

نبی اکرم ﷺ نے اُس سے دریافت کیا: کیا تم نے دو رکعات ادا کی ہیں؟ اُس نے جواب دیا: جی نہیں! نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم ادا کر لو۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں کہ ان دو رکعات کو ادا کرنا، صرف اسی شخص کے لیے درست ہوگا، جس کے لیے امام نے اپنا خطبہ منقطع کر کے اُسے انہیں ادا کرنے کا حکم دیا ہو۔

5514 - حَدِيثُ نَبِيِّ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنِ جَابِرٍ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ سُلَيْكٌ مِنْ غَطَفَانَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ قَائِمًا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ

*** حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک صاحب آئے جن کا نام ”سلیک“ تھا، اُن کا تعلق غطفان قبیلہ سے تھا، نبی

اکرم ﷺ کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے، نبی اکرم ﷺ نے اُن سے فرمایا: اے سلیک! تم اٹھو اور دو مختصر رکعات ادا کر لو۔

5515 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: رَأَيْتُهُ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

*** ربيع نے حسن بصری کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: میں نے انہیں دو رکعات ادا کرتے ہوئے دیکھا جبکہ امام اس وقت جمعہ کے دن خطبہ دے رہا تھا۔

5516 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي سَعْدِ الْأَعْمَى

*** حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اس کی مانند روایت منقول ہے جو ابو سعدنا بینا سے منقول ہے۔

5517 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَهَيْكٍ، عَنْ سِمَاكِ الْحَنْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَأَلُوهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ كُلُّهُمْ كَانَ حَسَنًا؟

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات منقول ہے: لوگوں نے ان سے دریافت کیا: جب امام خطبہ دے رہا ہو تو آدمی نماز ادا کرے گا؟ انہوں نے فرمایا: اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر سب لوگ ہی ایسا کرنے لگیں تو کیا یہ اچھی بات ہوگی؟

5518 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَتَى الْمَسْجِدَ فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ لَمْ يَخْرُجْ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَرَجَ لَمْ يُصَلِّ، وَاحْتَبَى، وَاسْتَقْبَلَ الْإِمَامَ، وَلَمْ يَلْتَفِتْ يَمِينًا، وَلَا شِمَالًا

*** قاضی شریح کے بارے میں یہ بات منقول ہے: جب جمعہ کا دن ہوتا اور وہ مسجد آتے تو اگر امام ابھی نہ آیا ہوتا تو وہ دو رکعت ادا کر لیتے اور اگر امام آچکا ہوتا تو وہ دو رکعت ادا نہیں کرتے بلکہ احتباء کے طور پر بیٹھ جاتے تھے امام کی طرف رخ کر لیتے تھے وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے۔

5519 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ قَتَادَةَ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى، أَيُّصَلِّي؟ فَقَالَ: أَمَا أَنَا فَكُنْتُ جَالِسًا

*** معمر بیان کرتے ہیں: میں نے قتادہ سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو اس وقت آتا ہے جب امام جمعہ کے دن خطبہ دے رہا ہوتا ہے اور اس شخص نے ابھی نماز ادا نہیں کی ہوتی تو کیا وہ نماز ادا کرے گا؟ تو قتادہ نے جواب دیا: جہاں تک میرا تعلق ہے میں ایسی صورت حال میں بیٹھ جاؤں گا (اور تحیۃ المسجد کی نماز ادا نہیں کروں گا)۔

5520 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: جِئْتُ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَتُرَكِّعُ؟ قَالَ: أَمَا وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلَمْ أَكُنْ لِأَرْكَعِ

*** ابن جریر نے عطاء کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: میں نے ان سے دریافت کیا: آپ آتے ہیں اور امام

اُس وقت جمعہ کے دن خطبہ دے رہا ہوتا ہے (تو کیا آپ تحیۃ المسجد کی نماز ادا کریں گے؟) انہوں نے جواب دیا: اگر تو امام خطبہ دے رہا ہوگا تو پھر میں ادا نہیں کروں گا۔

بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَبَعْدَهَا

باب: جمعہ سے پہلے یا اس کے بعد نماز ادا کرنا

5521 - اِثْنَا عَشْرًا تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: بَلَّغْنِي أَنْتَ تَرَكَعُ قَبْلَ الْجُمُعَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَمَا بَلَغَكَ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: أَخْبَرْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ عُنْبَسَةَ بِنِ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَكَعَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ آپ جمعہ سے پہلے بارہ رکعات ادا کرتے ہیں آپ تک اس کے بارے میں کیا روایت پہنچی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: سیدہ ام حبیبہ بنت ابوسفیان رضی اللہ عنہا نے (اپنے بھائی) حضرت عنبہ بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ کو یہ بات بتائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: ”جو شخص بارہ رکعات ادا کرے“۔ (اس کے بعد کے الفاظ روایات میں منقول نہیں ہیں۔)

5522 - آثَارِ صَحَابِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ قَالَ: فَيَنْمَازُ قَلِيلًا عَنْ مُصَلَّاهُ فَيُرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَمْشِي أَنْفَسَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ يَرُكَعُ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ

*** عطاء کے بارے میں یہ بات منقول ہے: انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو جمعہ کے بعد نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ عطاء بیان کرتے ہیں: وہ اپنے جائے نماز سے تھوڑا سا ہٹ گئے اور پھر انہوں نے دو رکعت ادا کیں اور پھر وہ کچھ اور پرے چلے گئے اور انہوں نے چار رکعات ادا کیں۔

5523 - آثَارِ صَحَابِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، وَالزُّبَيْرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ، تَقَدَّمَ مِنْ مُصَلَّاهُ قَلِيلًا فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَيْضًا فَرَكَعَ أَرْبَعًا *** عطاء بن ابی رباح بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ جب وہ جمعہ کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو وہ اپنی جائے نماز سے تھوڑا سا آگے ہوئے اور انہوں نے دو رکعات ادا کیں پھر وہ تھوڑا سا اور آگے ہوئے اور انہوں نے چار رکعات ادا کیں۔

5524 - آثَارِ صَحَابِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ، وَبَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: "وَكَانَ عَلِيٌّ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ سِتَّ رَكْعَاتٍ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

*** قتادہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جمعہ سے پہلے چار رکعات ادا کرتے تھے اور اس کے بعد چار

رکعات ادا کرتے تھے۔

ابو اسحاق بیان کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن چھ رکعات ادا کرتے تھے۔

امام عبد الرزاق نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔

5525 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، حَتَّى جَاءَنَا عَلِيٌّ فَأَمَرَنَا أَنْ نُصَلِّيَ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَرْبَعًا.

*** ابو عبد الرحمن سلمی بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم جمعہ سے پہلے چار رکعات ادا کریں اور اس کے بعد چار رکعات ادا کریں یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے اور انہوں نے ہمیں یہ ہدایت کی کہ ہم جمعہ کے دن دو رکعات ادا کریں اور پھر چار رکعات ادا کریں۔

5526 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ

*** نافع، حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن دو رکعت اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے۔

5527 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

*** حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسی کی مانند منقول ہے۔

5528 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ صَلَّى الْجُمُعَةَ، ثُمَّ رَكَعَ عَلَى إِثْرِهَا رَكْعَتَيْنِ فِي الْمَسْجِدِ فَفَنَهَا أَبُو عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: أَمَّا الْإِمَامُ فَلَا، إِذَا صَلَّيْتَ فَأَنْقَلِبْ فَصَلِّ فِي بَيْتِكَ مَا بَدَا لَكَ، إِلَّا أَنْ تَطُوفَ، وَأَمَّا النَّاسُ فَإِنَّهُمْ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ

*** عطاء بیان کرتے ہیں: عمرو بن شعیب نے جمعہ کی نماز ادا کی پھر اس کے بعد انہوں نے مسجد میں دو رکعت ادا کیں تو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور یہ فرمایا: جہاں تک امام کا تعلق ہے تو وہ ایسا نہیں کرے گا جب تم نماز ادا کر لو تو واپس جاؤ اور اپنے گھر میں جتنی چاہو نماز ادا کرو البتہ اگر تم طواف کر کے فارغ ہوتے ہو (تو اس کے بعد دو رکعت مسجد میں ادا کرو گے) جہاں تک لوگوں کا تعلق ہے تو وہ مسجد میں (فرائض کے بعد کی) نماز ادا کر سکتے ہیں۔

5529 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًّا بَعْدَ الْجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”تم میں سے جس شخص نے جمعہ کے دن نماز ادا کرنی ہو تو وہ چار رکعات ادا کرے۔“

5530 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ، صَلَّى مَعَ زِيَادِ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعًا، فَقَالَ النَّاسُ: لَمْ يَعْتَدَ بِصَلَاةِ زِيَادٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عِمْرَانَ، فَقَالَ: لَأَنْ تَخْتَلِفَ الْخَنَاجِرُ فِي جَوْفِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْآخِرَةَ صَلَّى مَعَهُ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ جَلَسَ، وَلَمْ يُصَلِّ شَيْئًا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ

*** محمد بن سیرین یا شاید کسی اور راوی نے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے زیاد کے ساتھ جمعہ کی نماز ادا کی پھر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کے بعد چار رکعت ادا کیں تو کچھ لوگوں نے یہ کہا: انہوں نے زیاد کے ساتھ ادا کی ہوئی اپنی نماز کو کچھ شمار نہیں کیا۔ اس بات کی اطلاع حضرت عمران رضی اللہ عنہ کو ملی تو انہوں نے فرمایا: میرے پیٹ میں خنجر گھونپ دیئے جائیں یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ایسا کروں (یعنی حاکم وقت کے خلاف کروں) جب اگلا جمعہ آیا تو حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے زیاد کی اقتداء میں جمعہ کی نماز ادا کی پھر وہ بیٹھ گئے اور انہوں نے عصر کی نماز ادا کرنے تک اور کوئی نماز ادا نہیں کی۔

5531 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ نَسِيرِ بْنِ ذُعْلُوقٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ: أَقَاضِيَتَانِ رَكَعَتَا الْجُمُعَةِ مِمَّا سِوَاهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ

*** مسلم بن عیاض بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا: کیا جمعہ کی دو رکعت ان کے علاوہ کے لیے کفایت کر جائیں گی؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

5532 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْسَابُ الْإِمَامِ الْمَسْجِدَ، فَلْيُصَلِّ فِيهِ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا؟ قَالَ: نَعَمْ، حَسَنٌ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: امام کا مسجد میں رکنا اور اس میں رات کے وقت یا دن کے وقت (نفل) نماز ادا کرنا؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! یہ اچھا ہے۔

بَابُ فَصْلِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَمَا قَبْلَهَا

باب: جمعہ اور اس سے پہلے کی نماز میں فصل کرنا

5533 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصَلِّهَا بِرَكَعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، حَتَّى تَفْصَلَ بَيْنَهُمَا بِتَحْوِيلٍ أَوْ كَلَامٍ

*** عکرمہ بیان کرتے ہیں: جب تم جمعہ کی نماز ادا کر لو تو اس کے ساتھ دو مختصر رکعات نہ ملاؤ جب تک تم اپنی جگہ سے منتقل ہو کر یا کلام کر کے فصل پیدا نہیں کرتے۔

5534 - اقوال تابعین: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ رَأَاهُ مِنْهُ مُعَاوِيَةَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَهُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ فِي مَقَامِي وَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: لَا تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَتَكَلَّمَ، أَوْ أَنْ تَخْرُجَ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ، وَبِهِ نَأْخُذُ

* * * عمر بن عطاء بن ابو خوار بیان کرتے ہیں: نافع بن جبیر نے انہیں سائب بن یزید کے پاس بھیجا تا کہ ان سے اس چیز کے بارے میں دریافت کریں جو انہوں نے نماز کے بارے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاں دیکھی تھی۔ تو انہوں نے جواب دیا: میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقصورہ میں جمعہ کی نماز ادا کی جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں اپنی جگہ پر کھڑا ہوا میں نے نماز ادا کی جب میں داخل ہوا تو انہوں نے پیغام دے کر مجھے بلوایا اور فرمایا: تم نے جو کیا ہے دوبارہ نہ کرنا جب تم جمعہ کی نماز ادا کرو تو اس کے ساتھ کوئی اور نماز اس وقت تک ادا نہ کرنا جب تک تم کوئی کلام نہیں کرتے یا نکل نہیں جاتے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے۔

(امام عبدالرزاق فرماتے ہیں:) ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

5535 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يُصَلِّي فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّيْتُ فِيهِ الْجُمُعَةَ فَتَهَا عَنْهُ، وَقَالَ: أَلَا أَرَاكَ تُصَلِّي فِي مَقَامِكَ، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ: إِنَّمَا يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلِإِمَامِ يَوْمَ

* * * قتادہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو اسی جگہ نماز ادا کرتے دیکھا جہاں اس نے جمعہ کی نماز ادا کی تھی تو انہوں نے اس شخص کو ایسا کرنے سے منع کیا اور فرمایا: کیا میں تمہیں دیکھ نہیں رہا ہوں کہ تم اپنی اسی جگہ پر نماز ادا کر رہے ہو۔

معمر بیان کرتے ہیں: قتادہ فرماتے ہیں: میں نے اس بات کا تذکرہ سعید بن مسیب سے کیا تو انہوں نے جواب دیا: امام جو امامت کرتا ہے اس کے لیے یہ بات مکروہ قرار دی گئی ہے۔

بَابُ السَّفَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

باب: جمعہ کے دن سفر کرنا

5536 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ ثِيَابُ سَفَرٍ بَعْدَ مَا قَضَى الْجُمُعَةَ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: أَرَدْتُ سَفَرًا فَكْرِهْتُ أَنْ أَخْرُجَ حَتَّى أُصَلِّيَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَمْنَعُكَ السَّفَرَ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُهَا

*** ابن سیرین یا شاید کسی اور شخص نے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص پر سفر کا لباس دیکھا یہ جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد کی بات ہے تو دریافت کیا: تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اُس نے کہا: میں سفر پر جانا چاہ رہا تھا لیکن مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں نماز ادا کرنے سے پہلے نکل جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُس سے فرمایا: بے شک جمعہ تمہیں سفر پر نکلنے سے نہیں روکتا؛ جب تک نماز کا وقت نہیں ہوتا۔

5537 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَبْصَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلًا عَلَيْهِ أَهْبَةُ السَّفَرِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ جُمُعَةٍ، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَخَرَجْتُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَحْبِسُ مُسَافِرًا، فَاخْرُجْ مَا لَمْ يَحِنِ الرَّوَّاحُ

*** اسود بن قیس اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک شخص پر سفر کا لباس کو دیکھ کر (اس بارے میں دریافت کیا) تو اُس شخص نے کہا: آج جمعہ کا دن ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں روانہ ہو چکا ہوتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جمعہ کسی مسافر کو روکتا نہیں ہے، تم روانہ ہو جاتے جبکہ (جمعہ کی نماز کا) وقت نہیں ہوا تھا۔

5538 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: خَرَجَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ بُكْرَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَمْ يَنْتَظِرِ الصَّلَاةَ

*** صالح بن کیسان بیان کرتے ہیں: حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کسی سفر پر جمعہ کے دن صبح کے وقت ہی روانہ ہو گئے، انہوں نے نماز کا انتظار نہیں کیا۔

5539 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

*** عبید اللہ بن عمر نے سالم بن عبد اللہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ وہ جمعہ کے دن مکہ سے روانہ ہو گئے۔

5540 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَافِرًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ ضَحَى قَبْلَ الصَّلَاةِ

*** زہری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سفر پر چاشت کے وقت روانہ ہوئے، یہ نماز سے پہلے کی بات ہے۔

5541 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ: هَلْ يَخْرُجُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَكَرِهَهُ، فَجَعَلْتُ أَحَدَهُ بِالرُّخْصَةِ فِيهِ، فَقَالَ لِي: قَلَّ مَا خَرَجَ رَجُلٌ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، إِلَّا رَأَى مَا كَرِهَ، وَلَوْ نَظَرْتُ فِي ذَلِكَ، وَجَدْتَهُ كَذَلِكَ

*** معمر بیان کرتے ہیں: میں نے یحییٰ بن ابو کثیر سے دریافت کیا: کیا کوئی شخص جمعہ کے دن روانہ ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے اس بات کو مکروہ قرار دیا۔ میں نے انہیں اس بارے میں رخصت کے بارے میں منقول حدیث بیان کرنا شروع کی تو

انہوں نے مجھ سے فرمایا: کم ایسا ہوا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن (جمعہ کی ادائیگی سے پہلے) سفر پر روانہ ہو گیا ہو تو اس نے ناپسندیدہ چیز نہ دیکھی ہو اگر تم خود بھی اس کا جائزہ لو گے تو یہ صورت حال پالو گے۔

5542 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ:

إِذَا سَافَرَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَعَا عَلَيْهِ النَّهَارُ إِلَّا يُعَانَ عَلَى حَاجَتِهِ، وَلَا يُصَاحَبُ فِي سَفَرِهِ، قَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: السَّفَرُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ

* * * حسان بن عطیہ بیان کرتے ہیں: جب کوئی شخص جمعہ کے دن سفر پر روانہ ہو تو دن اس کے خلاف دعائے ضرر کرتا ہے کہ... ہم کے سلسلہ میں اس کی مدد نہ کی جائے اور اس کے سفر میں کوئی اس کا ساتھی نہ بنے۔

سعید بن مسیب کے بارے میں یہ بات منقول ہے وہ فرماتے ہیں: جمعہ کے دن سفر پر نماز کے بعد روانہ ہوا جائے گا۔

5543 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ: أَبْلَغَكَ أَنَّهُ كَانَ، إِذَا أَمْسَى فِي قَرْيَةٍ

جَامِعَةٍ مِنْ لَيْلَةِ الْجُمُعَةِ، فَلَا يَذْهَبُ حَتَّى يُجْمَعَ؟ قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ لِكُرْهٍ، قُلْتُ: فَمِنْ يَوْمِ الْخَمِيسِ؟ قَالَ: لَا، ذَلِكَ النَّهَارُ فَلَا يَضُرُّهُ

* * * ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: کیا آپ تک کوئی روایت پہنچی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی شخص شب جمعہ میں کسی بڑے شہر میں پڑاؤ کر لے تو وہ جمعہ ادا کرنے سے پہلے وہاں سے روانہ نہ ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا: اس بات کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ میں نے دریافت کیا: جمعرات کے دن کے بارے میں کیا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا: یہ مکروہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو دن کی بات ہے اس لیے یہ چیز اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔

5544 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ، عَنْ بَعْضِ بَنِي سَعْدِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ

يَزْعُمُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: كَانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِالْمَدِينَةِ، ثُمَّ يَرْكَبُ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ وَلَا يُجْمَعُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ دُونَ الْبَرِيدِ، أَوْ نَحْوِ مِنْهُ

* * * ابو بکر نامی راوی نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی اولاد میں سے کسی صاحب کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن مدینہ منورہ میں صبح کی نماز ادا کرتے تھے پھر وہ سوار ہو کر عقیق نامی مقام پر موجود اپنے گھر چلے جاتے تھے وہ جمعہ ادا نہیں کرتے تھے حالانکہ ان کے گھر کا فاصلہ ایک برید سے کم تھا یا اس سے قریب تھا۔

بَابُ النَّعَاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

باب: جمعہ کے دن اونگھ آ جانا

5545 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إِذَا نَعَسَ الْإِنْسَانُ

يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَقُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ، ذَلِكَ فَلْيَجْلِسْ مَجْلِسًا غَيْرَهُ، أَوْ لِيَضْرِبْ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ

الشَّيْطَانِ، فَأَشَارَ فَإِذَا هُوَ يَجْمَعُ كَفَّهُ، ثُمَّ يَضْرِبُ مِنَ الْكَفِّ بِأَطْرَافِ الْأَصَابِعِ، وَكَفٌّ بَعْدَ مَقْبُوضِ الْأَطَافِرِ مَجْمُوعٌ

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: عطاء نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے: جب کسی شخص کو جمعہ کے دن اونگھ آ جائے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ جائے اور کسی دوسری جگہ جا کر بیٹھ جائے یا اپنے سر پر تین مرتبہ ہاتھ مارے کیونکہ یہ اونگھ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ پھر انہوں نے اشارہ کر کے بتایا انہوں نے اپنی ہتھیلی کو بند کیا پھر اپنی انگلیوں کے کناروں کو بند کیا اور پھر اس کے بعد بند ناخنوں والی ہتھیلی کے مجموعہ کو (سر پر مار کر دکھایا)۔

5546 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَبِي سَهْمٍ، أَنَّهُ نَعَسَ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ قَالَ: فَأَمَّا أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ، وَأَمَّا أَوْ مَا إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ فَيُؤَخِّرَ مِنْهُ

*** مالک بن ابوسہم کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ ایک مرتبہ انہیں اونگھ آ گئی اس وقت امام خطبہ دے رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے اشارہ کیا کہ تم اپنی اس جگہ سے اٹھ جاؤ اور اس سے کچھ پیچھے ہو جاؤ!

5547 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ كَانَ يُقَالُ: إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ فِي الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَإِنَّهُ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ فَلْيَقُمْ مِنْهُ

*** عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں: یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب کسی شخص کو جمعہ میں اونگھ آ جائے اور امام اس وقت خطبہ دے رہا ہو تو وہ شیطان کے بیٹھنے کی جگہ ہوگی آدمی کو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔

5548 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا نَعَسَ الرَّجُلُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ أَنْ يَقُومَ فَيَجْلِسَ فِي غَيْرِ مَجْلِسِهِ

*** حسن بصری فرماتے ہیں: جب کسی شخص کو جمعہ میں اونگھ آ جائے اور امام اس وقت خطبہ دے رہا ہو تو ایسے شخص کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کسی دوسری جگہ جا کر بیٹھ جائے۔

5549 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنِ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا نَعَسَ الْإِنْسَانُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، خَرَجَ عَنْ مَجْلِسِهِ، فَأَمَّا التَّخَطَّى فَلَا، وَلَكِنْ لِيَتَزَحَّزَحَ، وَلِيُوقِظَهُ مَنْ حَوْلَهُ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

*** طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ جب کسی شخص کو جمعہ کے دن اونگھ آ جائے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ جائے البتہ وہ گردن پھلانگ کر نہیں جائے گا بلکہ ویسے گزر جائے گا اور اپنے آس پاس موجود لوگوں کو بھی بیدار کر دے گا۔

امام عبدالرزاق نے اس کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔

5550 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَحْصِبُ الَّذِينَ يَنَامُونَ،

وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَّغَنِي عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نَعَسَ الْإِنْسَانُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدِهِ ذَلِكَ

* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سونے والے لوگوں کو کنکریاں مارا کرتے تھے جبکہ امام اس وقت خطبہ دے رہا ہوتا تھا۔

ابن سیرین بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”جب جمعہ کے دن کسی شخص کو اونگھ آجائے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ جائے۔“

بَابُ الرَّجُلِ يَحْتَبِي، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

باب: آدمی کا امام کے خطبہ کے دوران احتباء کے طور پر بیٹھنا

5551 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الْمُسَيْبِ يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ

إِلَى جَنْبِ الْمَقْصُورَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

* * زہری بیان کرتے ہیں: میں نے سعید بن مسیب کو جمعہ کے دن مقصورہ کے پہلو میں احتباء کے طور پر بیٹھے ہوئے دیکھا امام اس وقت خطبہ دے رہا تھا۔

5552 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، أَنَّهُ رَأَى الْحَسَنَ يَحْتَبِي يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ

يَخْطُبُ

* * ہشام بن حسان بیان کرتے ہیں: انہوں نے حسن بصری کو جمعہ کے دن احتباء کے طور پر بیٹھے ہوئے دیکھا جبکہ امام اس وقت خطبہ دے رہا تھا۔

5553 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَطَاءَ يَحْتَبِي، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء کو احتباء کے طور پر بیٹھے ہوئے دیکھا جبکہ امام جمعہ کے دن خطبہ دے رہا تھا۔

5554 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ تَوْبَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَبِي يَوْمَ

الْجُمُعَةِ، وَيَسْتَقْبِلُ الْإِمَامَ، وَلَا يَلْتَفِتُ يَمِينًا، وَلَا شِمَالًا

* * امام شععی بیان کرتے ہیں: قاضی شریح جمعہ کے دن احتباء کے طور پر بیٹھے تھے وہ امام کی طرف رخ کر لیتے تھے اور

دائیں اور بائیں توجہ نہیں کرتے تھے۔

5555 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

*** یحییٰ بن ابوکثیر بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے اس بات سے منع کیا ہے کہ آدمی جمعہ کے دن احتباب کے طور پر بیٹھے جبکہ امام اُس وقت خطبہ دے رہا ہو۔

بَابُ عِظَمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

باب: جمعہ کے دن کی عظمت کا بیان

5556 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِيهِ قَضَى اللَّهُ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا خَافَ الْبَرُّ وَالْبَحْرُ وَالْحِجَارَةُ وَالشَّجَرُ، وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ آيَاهُ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ يُحَدِّثُ نَحْوًا مِنْ هَذَا لَا أَعْلَمُهُ، إِلَّا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

*** طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان کرتے ہیں: کوئی بھی دن اللہ کی بارگاہ میں جمعہ سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کا فیصلہ کیا، اسی دن میں قیامت قائم ہوگی جمعہ کے دن جب سورج نکلتا ہے تو خشکی اور سمندر پتھر اور درخت اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے سوائے دو گروہوں کے (یعنی انسانوں اور جنات کے علاوہ ہر چیز) اس بات سے خوفزدہ رہتی ہے (کہ کہیں آج قیامت نہ آجائے) اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جس میں جو مسلمان اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز اُسے عطا کر دیتا ہے۔

معمر بیان کرتے ہیں: عبد اللہ بن محمد نے بھی یہ حدیث اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہے اور اسے مرفوع حدیث کے طور پر نقل کیا ہے۔

5557 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَأْتِرُ حَدِيثًا عَنْ كَعْبٍ، أَوْ بَعْضِهِ: مَا خَلَقَ اللَّهُ يَوْمًا أَعْظَمَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فِيهِ قَضَى خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَمَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا فَرَعَ لِمَطْلِعِهَا الْبَرُّ، وَالْبَحْرُ، وَالْحِجَارَةُ، وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، وَإِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يَسْأَلُ اللَّهُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ

*** طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کعب کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے یا شاید اس کا کچھ حصہ نقل کیا ہے:

”اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن سے زیادہ عظمت والا اور کوئی دن پیدا نہیں کیا، اسی دن میں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کا فیصلہ ہوا، اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، جمعہ کے دن جب سورج نکلتا ہے تو اُس کے طلوع ہونے کے وقت خشکی اور سمندر میں موجود ہر چیز اور پتھر اور اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق خوفزدہ رہتے ہیں (کہ کہیں قیامت نہ آجائے) صرف دو گروہوں کا معاملہ مختلف ہے (یعنی انسان اور جنات خوفزدہ نہیں ہوتے) جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے جو چیز بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز اُسے عطا کر دیتا ہے۔“

5558 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَكَعْبٌ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى فِيهَا خَيْرًا إِلَّا آتَاهُ آيَاهُ

فَقَالَ كَعْبٌ: أَلَا أُحَدِّثُكَ عَنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ كَعْبٌ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَرِغَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْبُرُّ وَالْبَحْرُ، وَالشَّجَرُ وَالشَّرَى، وَالْمَاءُ وَالْخَلَائِقُ، كُلُّهَا إِلَّا ابْنَ آدَمَ وَالشَّيْطَانَ قَالَ: وَتَحَفَّتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ مَنْ جَاءَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَّأُوا صُحُفَهُمْ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ جَاءَ بِحَقِّ اللَّهِ، وَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِ، وَحَقٌّ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ حَالِمٍ يَغْتَسِلُ فِيهِ كَفْسِلِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَلَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ وَلَمْ تَغْرُبْ مِنْ يَوْمٍ أَعْظَمَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَالصَّدَقَةُ فِيهِ أَعْظَمُ مِنْ سَائِرِ الْأَيَّامِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَكَعْبٍ وَآرَى أَنَا إِنْ كَانَ لِأَهْلِهِ طِيبٌ أَنْ يَمَسَّ مِنْهُ يَوْمَئِذٍ

* * * حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ اور حضرت کعب رضی اللہ عنہما ایک جگہ اکٹھے ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں مسلمان شخص اللہ تعالیٰ سے جو بھی بھلائی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز اُسے عطا کر دیتا ہے۔ تو کعب نے کہا: کیا میں آپ کو جمعہ کے دن کے بارے میں نہ بتاؤں! پھر کعب نے بتایا کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو آسمان اور زمین، خشکی اور سمندر، درخت اور گھاس پھوس، پانی اور تمام مخلوقات یہ سب چیزیں، صرف انسانوں اور شیطان کے علاوہ ہر چیز خوفزدہ ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فرشتے مسجد کے دروازوں پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور درجہ بدرجہ پہنچنے آنے والے لوگوں کے نام نوٹ کرتے ہیں، جب امام آ جاتا ہے تو وہ اپنے صحیفے لپیٹ لیتے تھے اُس کے بعد جو شخص آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حق اور اپنے اوپر لازم فرض کی ادائیگی کے لیے آتا ہے ہر بالغ شخص پر یہ بات لازم ہے کہ وہ جمعہ کے دن میں اسی طرح غسل کرے جس طرح غسل جنابت کرتا ہے، سورج کسی بھی ایسے دن پر طلوع یا غروب نہیں ہوتا جو جمعہ کے دن سے زیادہ عظمت والا ہو اور اس دن میں صدقہ کرنا دیگر تمام ایام کی بہ نسبت زیادہ عظمت رکھتا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت کعب رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، البتہ میں اس بات کے قائل ہوں کہ اگر آدمی کے پاس خوشبو موجود ہو تو اس دن وہ خوشبو بھی استعمال کرے۔

5559 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "عُرِضَتْ عَلَيَّ الْآيَاتُ فَرَأَيْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَعَجَبَنِي بِهَاؤُهُ وَنُورُهُ، وَرَأَيْتُ فِيهِ كَهَيْئَةَ نُكْتَةٍ سَوْدَاءَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ فَقِيلَ: فِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ"

* * حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

"میرے سامنے مختلف دن پیش کیے گئے تو میں نے جمعہ کے دن کو دیکھا، اُس کی روشنی اور چمک مجھے اچھی لگی میں نے اُس میں ایک سیاہ نکتے کی مانند کوئی چیز دیکھی تو میں نے دریافت کیا: یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس دن میں قیامت قائم ہوگی۔"

5560 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن الحسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عُرِضَتْ عَلَيَّ الْآيَاتُ وَعُرِضَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي مِرَاةٍ - أَوْ قَالَ: مِثْلَ الْمِرَاةِ - فَرَأَيْتُ فِيهِ نُكْتَةً سَوْدَاءَ، فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ فَقِيلَ: فِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ"

* * حسن بصری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

"میرے سامنے مختلف دن پیش کیے گئے اور میرے سامنے جمعہ کا دن ایک آئینہ میں (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) ایک آئینہ کی مانند پیش کیا گیا، میں نے اُس میں ایک سیاہ نکتہ دیکھا تو میں نے دریافت کیا: یہ کیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ اس دن میں قیامت قائم ہوگی۔"

5561 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، ان النبي صلى الله عليه وسلم، قال لسلمان: أتدرى ما يوم الجمعة؟ فيه جمع أبوك آدم - أي جمعت طينته -

* * اعمش بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا: کیا تم جانتے ہو کہ جمعہ کا دن کیا چیز ہے! اس دن میں تمہارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو جمع کیا گیا (راوی کہتے ہیں: یعنی اُن کے خمیر کو اکٹھا کیا گیا)۔

5562 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني الأغر أبو عبد الله، صاحب أبي هريرة، عن أبي هريرة قال: إذا كان يوم الجمعة جلست الملائكة بابواب المسجد فيكتبون من جاء إلى الجمعة، فإذا خرج الإمام طوت الملائكة الصحف ودخلت تسمع الذكر قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة، ثم كالمهدي بقرّة، فكالمهدي شاة، ثم كالمهدي دجاجة، ثم كالمهدي - حسبته قال - بيضة

* * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ جمعہ کے لیے آنے والے لوگوں کے نام نوٹ کرتے ہیں جب امام آ جاتا ہے تو فرشتے صحیفے لپیٹ لیتے ہیں اور بیٹھ کر خطبہ سننے لگتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

"جمعہ کے لیے جلدی آنے والا شخص ایسے ہے جیسے اونٹ صدقہ کرتا ہے پھر ایسے ہے جیسے گائے صدقہ کرتا ہے پھر

ایسے ہے جیسے بکری صدقہ کرتا ہے پھر ایسے ہے جیسے مرغی صدقہ کرتا ہے پھر ایسے ہے جیسے انڈہ صدقہ کرتا ہے۔
(راوی کہتے ہیں: میرا خیال ہے روایت کے آخر میں یہی الفاظ ہیں)۔

5563 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلَا تَغْرُبُ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا يَفْرَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلَّا هَدَيْنِ الثَّقَلَيْنِ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ، عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ مَلَكَانِ يَكْتُبَانِ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، فَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَقْرَةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ شَاةً، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ طَائِرًا، وَكَرَجُلٍ قَدَّمَ بَيْضَةً، فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ

* * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”سورج کسی بھی ایسے دن پر طلوع یا غروب نہیں ہوتا جو جمعہ کے دن سے زیادہ فضیلت والا ہو اور جمعہ کے دن ہر چوپایہ خوفزدہ ہوتا ہے صرف یہ دو گروہ یعنی انسان اور جنات خوفزدہ نہیں ہوتے (جمعہ کے دن) مسجد کے ہر دروازہ پر دو فرشتے تعینات ہوتے ہیں جو درجہ بدرجہ پہلے آنے والے لوگوں کے نام نوٹ کرتے ہیں تو ایک شخص کی مثال ایسے ہے جیسے وہ اونٹ صدقہ کرے ایک شخص کی مثال یوں ہے جیسے وہ گائے صدقہ کرے ایک شخص کی مثال یوں ہے جیسے وہ بکری صدقہ کرے ایک شخص کی مثال یوں ہے جیسے وہ پرندہ صدقہ کرے ایک شخص کی مثال یوں ہے جیسے وہ انڈہ صدقہ کرے جب امام (منبر پر) بیٹھ جاتا ہے تو صحیفے لپیٹ لیے جاتے ہیں۔“

5564 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَكُتِبُوا النَّاسَ عَلَى قَدْرِ رَوَاحِهِمْ، فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَانْقَطَعَتِ الْفَضَائِلُ، فَمَنْ جَاءَ حِينَئِذٍ فَإِنَّمَا يَأْتِي لِحَقِّ الصَّلَاةِ، فَفَضْلُهُمْ كَفَضْلِ صَاحِبِ الْجَزُورِ عَلَى صَاحِبِ الْبَقْرَةِ وَعَلَى صَاحِبِ الشَّاةِ

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَأَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ قَالَ: "وَكَانَ يُقَالُ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَبْوَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُونَ النَّاسَ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ، فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ أَنْ يَقْعُدَ الْإِمَامُ كُتِبُوا قَلَانٌ مِنَ السَّابِقِينَ، وَقَلَانٌ مِنَ السَّابِقِينَ، فَإِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ طَوَّرُوا صُحُفَهُمْ وَقَعَدُوا مَعَ النَّاسِ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ مَا يَقْعُدُ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ كُتِبَ: فَلَانٌ شَهِدَ الْخُطْبَةَ، فَمَنْ جَاءَ بَعْدَ مَا تُقَامُ الصَّلَاةُ كُتِبَ: فَلَانٌ شَهِدَ الْجُمُعَةَ، فَكَذَلِكَ هُمْ مَنَازِلُ مَا بَيْنَ الْجَزُورِ إِلَى الْبَعُوضَةِ، وَرُبَّمَا غَابَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ يُهَجَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ فَيَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: مَا غَيَّبَ فَلَانًا، فَيَسْئَلُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَيَقُولُونَ: تَعَالَوْا نَدْعُ لَهُ، فَيَقُولُونَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ حَبَسَ فَلَانًا ضَلَالَةً فَاهْدِهِ، أَوْ فَقُرَّ فَاغْنِهِ، أَوْ مَرَضَ فَاشْفِهِ"

* * طاؤس اپنے والد کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں:

”جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ لوگوں کی آمد کے حساب سے ان کے نام نوٹ کرتے ہیں جب امام (منبر پر) بیٹھ جاتا ہے تو صحیفے لپیٹ لیے جاتے ہیں اور فضائل منقطع ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو شخص آتا ہے وہ نماز کے حق کی ادائیگی کے لیے آتا ہے اور ان لوگوں کو اسی طرح فضیلت حاصل ہوتی ہے جس طرح اونٹ والے شخص کو گائے والے شخص پر یا بکری والے شخص پر حاصل ہوتی ہے۔“

ابن جریج بیان کرتے ہیں: ولید نے مجھے یہ بات بتائی ہے: یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب جمعہ کے دن آتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کی آمد کے حساب سے ان کے نام نوٹ کرتے ہیں جو شخص امام کے بیٹھنے سے پہلے آ جاتا ہے تو فرشتے نوٹ کرتے ہیں: فلاں شخص سبقت لے جانے والوں میں ہے! فلاں شخص سبقت لے جانے والوں میں ہے! جب امام بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے صحیفے لپیٹ لیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں امام کے بیٹھنے کے بعد جو شخص آتا ہے تو اس کے لیے یہ نوٹ کیا جاتا ہے کہ فلاں شخص خطبہ میں شریک ہوا! جو شخص نماز کھڑی ہونے کے بعد آتا ہے تو یہ نوٹ کیا جاتا ہے: فلاں شخص جمعہ میں شریک ہوا! تو اسی طرح ان لوگوں کے مراتب ہوتے ہیں جو اونٹ سے لے کر اور چھرتک کے درمیان ہوتے ہیں بعض اوقات کوئی ایسا شخص جو جمعہ کے لیے جلدی آیا کرتا تھا وہ غیر موجود ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں: فلاں شخص کیوں نہیں آیا؟ انہیں یہ بات بہت گراں گزرتی ہے وہ یہ کہتے ہیں: آؤ! ہم اسے کے لیے دعا کریں! پھر وہ یہ کہتے ہیں: اے اللہ! اگر فلاں شخص گمراہی کی وجہ سے نہیں آیا تو تو اسے ہدایت نصیب کر! اگر غربت کی وجہ سے نہیں آیا تو تو اسے خوشحال کر دے! اگر بیماری کی وجہ سے نہیں آیا تو تو اسے شفاء دیدے۔

5565 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن جریج، عن سُمَيِّ، عن أَبِي صَالِحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَاغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ كَمَا يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ غَدَا إِلَى أَوَّلِ سَاعَةٍ فَلَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ الْجَزُورِ، وَأَوَّلُ السَّاعَةِ وَآخِرُهَا سَوَاءٌ، ثُمَّ السَّاعَةُ الثَّانِيَةُ مِثْلُ الثَّوْرِ وَأَوَّلُهَا وَآخِرُهَا سَوَاءٌ، ثُمَّ الثَّلَاثَةُ مِثْلُ الْكَبْشِ الْأَقْرَنِ وَأَوَّلُهَا وَآخِرُهَا سَوَاءٌ، ثُمَّ السَّاعَةُ الرَّابِعَةُ مِثْلُ الدَّجَاجَةِ وَأَوَّلُهَا وَآخِرُهَا سَوَاءٌ، ثُمَّ مِثْلُ الْبَيْضَةِ، فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طُوِيَتِ الصُّحُفُ وَجَاءَتِ الْمَلَائِكَةُ تَسْمَعُ الذِّكْرَ، ثُمَّ غُفِرَ لَهُ إِذَا اسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ وَزِيَادَةٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”جب جمعہ کا دن ہو تو کوئی شخص اسی طرح غسل کرے جس طرح غسل جنابت کرتا ہے پھر وہ ابتدائی گھڑی میں

5565-صحیح البخاری - کتاب الجمعة، باب فضل الجمعة - حدیث: 855، صحیح مسلم - کتاب الجمعة، باب الطیب والسواک يوم الجمعة - حدیث: 1448، صحیح ابن حبان - باب الإمامة والجماعة، باب صلاة الجمعة - ذکر البیان بان هذا الفضل إنما يكون لمن اتى الجمعة مغتسلا، حدیث: 2822، موطا مالك - کتاب الجمعة، باب العمل في غسل يوم الجمعة - حدیث: 224، سنن ابی داود - کتاب الطهارة، باب في الغسل يوم الجمعة - حدیث: 300، السنن للنسائي - کتاب الجمعة، وقت الجمعة - حدیث: 1378، السنن الكبرى للنسائي - کتاب الجمعة، وقت الجمعة - حدیث: 1677

(نماز کی ادائیگی کے لیے) چلا جائے تو اسے اس طرح اجر ملتا ہے جس طرح اونٹ (صدقہ کرنے کا اجر ہوتا ہے) اس کی ابتدائی اور آخری گھڑی برابر ہوتی ہے پھر دوسری گھڑی میں نیل صدقہ کرنے کا سا ثواب ملتا ہے یہ گھڑی کا ابتدائی حصہ اور آخری حصہ برابر ہوتے ہیں پھر تیسری گھڑی میں سینک والے ذبے و صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے اس گھڑی کا ابتدائی اور آخری حصہ برابر ہوتے ہیں پھر چوتھی گھڑی میں مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے اس کا ابتدائی اور آخری حصہ برابر ہوتے ہیں پھر اندھ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے جب امام بیٹھ جاتا ہے تو جب پیٹ پیس جاتے ہیں اور فرشتے آ کر خطبہ سننے لگتے ہیں پھر اس شخص کی مغفرت ہو جاتی ہے جو غور سے خطبہ سنتا ہے اور خاموش رہتا ہے اس دن دو جمعوں کے درمیان کی اور مزید تین دنوں کی (مغفرت ہوتی ہے)۔“

5566 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ الْأَسَدِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ يَوْمَ الْخُسْعَةِ فَعَسَلْ أَحَدُكُمْ رَأْسَهُ، ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ غَدَا وَابْتَكَّرَ، ثُمَّ دَنَا فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا كَسِيرٍ سَنَةٍ وَقِيَامِ سَنَةٍ

* * * حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے:

”جب جمعہ کا دن ہو اور کوئی شخص اپنے سر کو دھوئے اور پھر غسل کرے اور پھر جائے اور جلد کی جائے پھر (ام کے) قریب ہو کر بیٹھے اور غور سے خطبہ سنے اور خاموش رہے تو اسے اس کے اٹھائے ہوئے ہر ایک قدم کے عوض میں ایک سال کے (نفل) روزوں اور قیام کا ثواب ملتا ہے۔“

5567 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ، عَنِ ابْنِ دَارَةَ، مَوْلَى عُثْمَانَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ السَّبْتِ، وَلَا يَوْمَ الْآحَدِ، وَلَا يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، وَلَا يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ، وَلَا يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ، وَلَا يَوْمَ الْخَمِيسِ، ثُمَّ سَكَتَ

* * * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: قیامت ہفتہ کے دن، اتوار کے دن، پیر کے دن، منگل کے دن، بدھ کے دن یا جمعرات کے دن قائم نہیں ہوگی پھر وہ خاموش ہو گئے۔

5568 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ وَقْعَةَ يَقُولُ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَقُومُ الْقِيَامَةُ

* * * عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں: میں نے عبید بن عمرو کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہو گی۔

5569 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ وَقْعَةَ: "ذَلِكَ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَّا خَلَقَ آدَمَ نَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ

فَسَارَ فِيهِ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ أُخْرَى، فَاسْتَوَى جَالِسًا فَعَطَسَ فَالْقَى اللَّهَ عَلَى لِسَانِهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَتْ
السَّلَامَةُ: رَحِمَكَ اللَّهُ

* * عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں: جس دن میں سورج طلوع ہوتا ہے اُس میں سب سے بہتر جمعہ کا دن ہے اسی دن
میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اسی دن میں قیامت قائم ہوگی جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور اُن میں روح
کو پھونکا تو وہ ان میں سرایت کر گئی پھر اُس نے اُن میں دوسری مرتبہ پھونکا تو وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور انہیں چھینک آئی تو اللہ
تعالیٰ نے اُن کی زبان پر الحمد للہ رب العالمین کے کلمات جاری ہوئے تو فرشتوں نے کہا: اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے!

**5570 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ
الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَرَ وَابْتَكَرَ، وَدَنَا
مِنَ الْإِمَامِ فَأَنْصَتَ كَانَ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا صِيَامَ سَنَةٍ وَقِيَامُهَا، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ**

* * حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”جو شخص غسل کرے اور مکمل غسل کرے اور جلدی چلا جائے اور امام کے قریب ہو کر بیٹھے اور خاموش رہے تو اُس کو
اُس کے اٹھائے ہوئے ہر ایک قدم کے عوض میں ایک سال کے (نفلی) روزوں اور نوافل کا ثواب ملتا ہے اور یہ چیز
اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے۔“

بَابُ السَّاعَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

باب: جمعہ کے دن کی مخصوص گھڑی

**5571 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ**
* * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”جمعہ کے دن میں ایک مخصوص گھڑی ہے جس میں کوئی مسلمان اگر نماز ادا کر رہا ہو تو اس دوران وہ اللہ تعالیٰ سے جو
بھی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اُسے عطا کرتا ہے۔“

**5572 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةً - وَأَشَارَ بِكَفِّهِ كَأَنَّهُ يُقَلِّلُهَا - لَا
يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَأَشَارَ إِلَيْنَا كَيْفَ أَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَالصَّقَ أَصَابِعَهُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضٍ وَحَنَاهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَبَضَهَا وَلَمْ يَبْسُطْهَا**

* * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا:

”جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے آپ نے اپنے دست مبارک کے ذریعہ اشارہ کر کے بتایا کہ وہ بہت تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے اس گھڑی میں جو بھی مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز اُسے عطا کر دیتا ہے۔“

راوی کہتے ہیں: پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ہمارے سامنے اشارہ کر کے دکھایا کہ کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا انہوں نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا لیا تھا اور انہیں تھوڑا سا موڑ لیا تھا پھر انہوں نے انہیں بند کیا اور پھر انہیں پھیلا یا نہیں۔

5573 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أنه سمع أبا هريرة يقول: إن في الجمعة ساعة لا يسأل الله فيها مسلم شيئا وهو يصلي إلا أعطاه. قال: ويقول أبو هريرة بيده يقللها. قال عطاء: أيضا عن بعض أهل العلم هي بعد العصر، فقيل له: فلا صلاة بعد العصر قال: لا، ولكنما كان في صلاة لم يقم منه فهو في صلاة.

* * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے کہ جس میں مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگتا ہے جبکہ وہ بندہ اس دوران نماز ادا کر رہا ہو تو اللہ تعالیٰ وہ چیز اُسے عطا کر دیتا ہے۔
راوی بیان کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کے ذریعہ اشارہ کر کے بتایا کہ وہ گھڑی تھوڑی سی دیر کے لیے ہوتی ہے۔

عطاء نے بعض اہل علم کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: یہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے، اُن سے کہا گیا: عصر کے بعد تو کوئی نماز ادا نہیں کی جاتی۔ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! جب تک آدمی اپنے جائے نماز پر موجود ہوتا ہے اور وہاں سے اٹھتا نہیں ہے تو وہ نماز کی حالت میں شمار ہوتا ہے۔

5574 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه، أنه كان يتحرى الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة بعد العصر. قال ابن طاووس: ومات أبي في ساعة كان يُجيبها، مات يوم الجمعة بعد العصر.

* * طاووس کے صاحبزادے اپنے والد کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: وہ اس گھڑی کا اہتمام کیا کرتے تھے جس گھڑی میں دعا جمعہ کے دن قبول ہوتی ہے اور جو عصر کے بعد ہوتی ہے۔

طاووس کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں: میرے والد کا انتقال بھی اسی گھڑی میں ہوا جسے وہ پسند کرتے تھے اُن کا انتقال جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد ہوا۔

5575 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر قال: سألت الزهري عن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء من يوم الجمعة، فقال: ما سمعت فيها بشيء أحدثه إلا، أن كعبًا كان يقول: لو قسم إنسان جمعة

فِي جُمُعٍ آتَى عَلَى تِلْكَ السَّاعَةِ

*** معمر بیان کرتے ہیں: میں نے زہری سے اُس گھڑی کے بارے میں دریافت کیا، جس میں جمعہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا: میں نے اس بارے میں کوئی روایت نہیں سنی ہے، جسے میں بیان کروں، البتہ کعب احبار یہ کہا کرتے تھے: اگر انسان اپنے جمعہ کو مختلف حصوں میں تقسیم کرے، تو وہ اُس گھڑی تک پہنچ سکتا ہے۔

5576 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: " كَانَ رَجُلٌ يَلْتَمِسُ السَّاعَةَ الَّتِي يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَنَعَسَ نَعْسَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأُتِيَ فِي النَّوْمِ، فَقِيلَ: انْتَبِهْ فَإِنَّ هَذِهِ السَّاعَةَ الَّتِي كُنْتَ تَلْتَمِسُ، وَذَلِكَ عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، وَكَانَ الْحَسَنُ بَعْدَ ذَلِكَ يَتَحَرَّاهَا عِنْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ

*** حسن بصری بیان کرتے ہیں: ایک آدمی اُس گھڑی کو تلاش کر رہا تھا، جس میں دعا مستجاب ہوتی ہے اور وہ گھڑی جو جمعہ کے دن میں ہوتی ہے۔ تو جمعہ کے دن اُسے اونگھ آگئی، خواب میں اُس کے پاس کوئی شخص آیا اور اُس سے کہا گیا: تم بیدار ہو جاؤ، کیونکہ یہ وہ گھڑی ہے جسے تم تلاش کر رہے تھے، تو یہ سورج کے ڈھلنے کے وقت کی بات ہے۔ اُس کے بعد حسن بصری سورج کے ڈھلنے کے وقت کا اہتمام کیا کرتے تھے۔

5577 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: السَّاعَةُ الَّتِي تَقُومُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جمعہ کے دن میں موجود مخصوص گھڑی عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک کے درمیان میں ہوتی ہے۔

5578 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّاسُ خَلْفَهُ إِذْ سَنَحَ كَلْبٌ يَمْرُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَخَرَّ الْكَلْبُ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَمْرَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَوَجَّهَ عَلَى الْقَوْمِ وَقَالَ: أَيُّكُمْ دَعَا عَلَى هَذَا الْكَلْبِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا دَعَوْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعَوْتُ عَلَيْهِ فِي سَاعَةٍ يُسْتَجَابُ فِيهَا الدُّعَاءُ

*** عبد اللہ بن ابوظلمہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، لوگ آپ کے پیچھے موجود تھے، اسی دوران ایک کتا اُن لوگوں کے آگے سے گزرنے لگا، پھر اچانک وہ کتا گر اور مر گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور دریافت کیا: تم میں سے کس نے اس کتے کے خلاف دعا کی تھی؟ ایک شخص نے عرض کی: میں نے اس کے خلاف دعا کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے ایک ایسی گھڑی میں اس کے خلاف دعا کی، جس میں دعا مستجاب ہوتی ہے۔

5579 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي: مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ يَقُولُ: كَالنَّهَارِ اثْنَا عَشْرَةَ سَاعَةً، وَالسَّاعَةُ الَّتِي يُذَكَّرُ فِيهَا مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ مَا يُذَكَّرُ آخِرَ سَاعَاتِ النَّهَارِ

قَالَ: وَحَدَّثَنِي مُوسَى أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ: كَيْفَ زَعَمُوا أَنَّهَا هِيَ وَالْإِنْسَانُ لَا يُصَلِّي فِيهَا؟ فَقَالَ الْآخَرُ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: لَا يَزَالُ الْإِنْسَانُ فِي صَلَاةٍ مَا لَمْ يَقُمْ مِنْ مُصَلَّاهُ أَوْ تَحَدَّثَ

* * * موسی بن عقبہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمن کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: میں نے عبداللہ بن سلام کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: دن میں بارہ گھڑیاں ہوتی ہیں اور جمعہ کے دن کے بارے میں جس گھڑی کا ذکر کیا جاتا ہے وہ دن کی آخری گھڑی ہوتی ہے۔

موسی نے یہ بات بیان کی ہے: ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا: لوگ یہ بات کیسے کہتے ہیں کہ یہ گھڑی وہ ہوتی ہے (جو سورج غروب ہونے کے قریب ہو) حالانکہ اُس وقت آدمی نماز ادا کر نہیں کر سکتا۔ تو دوسرے شخص نے کہا: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: آدمی جب تک اپنی جائے نماز سے اٹھتا نہیں ہے یا بات چیت نہیں کرتا اُس وقت تک وہ مسلسل نماز کی حالت میں شمار ہوتا ہے۔

5580 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَحَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ نَحْوَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَسُئِلَ عَنْ تِلْكَ السَّاعَةِ فَقَالَ: خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ بَعْدَ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَخَلَقَهُ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ كُلِّهَا أَحْمَرَهَا وَأَسْوَدَهَا وَطَيَّبَهَا وَخَبِثَهَا، وَلِلذَلِكَ كَانَ فِي وَلَدِهِ الْأَسْوَدُ وَالْأَحْمَرُ وَالطَّيِّبُ وَالْخَبِيثُ، فَاسْجَدَ لَهُ الْمَلَائِكَةُ، وَأَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ، فَلِلَّهِ مَا أَمْسَى ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى عَصَاهُ فَأَخْرَجَهُ مِنْهَا

* * * حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات منقول ہے: اُن سے آپ گھڑی کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام روئے زمین سے (حاصل ہونے والی مٹی کے ذریعہ) پیدا کیا تھا جس میں سرخ بھی تھی سیاہ بھی تھی پاکیزہ بھی تھی خراب بھی تھی یہی وجہ ہے کہ اُن کی اولاد میں سے کوئی سیاہ فام ہوتا ہے کوئی سفید فام ہوتا ہے کوئی پاکیزہ ہوتا ہے کوئی خراب ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے انہیں سجدہ کروایا اور اپنی جنت میں ٹھہرایا تو اُس دن کی شام وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رہے یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال دیا۔

5581 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَمَا عَبَّاسٍ، السَّاعَةُ الَّتِي تُذَكَّرُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ مَرَّاتٍ، خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ فِي آخِرِ سَاعَاتِ الْجُمُعَةِ، فَخَلَقَهُ مِنْ أَدِيمِ الْأَرْضِ كُلِّهَا أَحْمَرَهَا وَأَسْوَدَهَا وَطَيَّبَهَا وَخَبِثَهَا وَحَزَنَهَا وَسَهَّلَهَا، فَلِلذَلِكَ فِي وَلَدِهِ الطَّيِّبُ وَالْخَبِيثُ وَالْأَحْمَرُ وَالْأَسْوَدُ وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ، ثُمَّ نَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ، وَأَسْكَنَهُ جَنَّتَهُ، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَةَ فَسَجَدُوا لَهُ، وَعَهَدَ إِلَيْهِ عَهْدًا فَنَسِيَ الْإِنْسَانَ، فَلِلَّهِ مَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنْ ذَلِكَ

الْيَوْمِ حَتَّىٰ أَخْرَجَهُ مِنْهَا

*** سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا: اے ابو عباس! جمعہ کے دن میں جس گھڑی کا ذکر کیا جاتا ہے (تو وہ کون سی ہے؟) تو انہوں نے جواب دیا: اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے (انہوں نے کئی مرتبہ یہ کلمہ دہرایا پھر فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کی آخری گھڑی میں پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان (کے خمیر کو) تمام روئے زمین سے حاصل ہونے والی مٹی کے ذریعہ پیدا کیا، جس میں سرخ، سیاہ، پاکیزہ، خراب، سخت، نرم (ہر قسم کی) مٹی شامل تھی یہی وجہ ہے کہ ان کی اولاد میں کوئی پاکیزہ ہوتا ہے، کوئی خراب ہوتا ہے، کوئی سفید فام ہوتا ہے، کوئی سیاہ فام ہوتا ہے، کوئی نرم ہوتا ہے، کوئی سخت ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان میں اپنی روح پھونکی اور انہیں اپنی جنت میں ٹھہرایا اور فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے عبدلیا، پھر وہ بھول گئے تو ان کا نام انسان رکھا گیا، اس دن میں سورج غروب ہونے تک وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہاں سے نکال دیا۔

5582 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَّ طَاوُسًا، أَحْبَرَهُ

أَنَّ السَّاعَةَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ الَّتِي تَقُومُ فِيهَا السَّاعَةُ وَالَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهَا آدَمَ، وَالَّتِي لَا يَدْعُو اللَّهُ فِيهَا الْمُسْلِمَ بِدَعْوَةٍ صَالِحَةٍ إِلَّا اسْتَجِيبَ لَهُ مِنْ حِينَ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ إِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ

*** طاؤس بیان کرتے ہیں: جمعہ کے دن میں وہ گھڑی موجود ہے، جس میں قیامت قائم ہوگی اور یہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نازل کیا تھا اور یہ وہ گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی مسلمان جو نیک دعا کرتا ہے تو اس کی وہ دعا مستجاب ہوتی ہے یہ گھڑی سورج کے زرد ہونے سے لے کر سورج غروب ہونے تک رہتی ہے۔

5583 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ وَحَدَّثَنِي، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: انْطَلَقَ

أَبُو هُرَيْرَةَ إِلَى الشَّامِ فَالتَقَى هُوَ وَكَعْبٌ، فَيَحَدِّثُ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَحَدَّثَ كَعْبٌ، عَنِ التَّوْرَةِ حَتَّى مَرَّ بِالسَّاعَةِ الَّتِي فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُ اللَّهُ الْعَبْدَ الْمُسْلِمَ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ فَقَالَ كَعْبٌ: وَلَكِنْ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ السَّنَةِ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لَا، فَقَالَ كَعْبٌ: هَاهُ، صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فِي كُلِّ جُمُعَةٍ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَالتَقَى هُوَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ فَذَكَرَ لَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا قَالَ كَعْبٌ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كَذَبٌ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ قَدْ رَجَعَ

*** ابراہیم بن عبدالرحمن بیان کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ شام تشریف لے گئے وہاں ان کی ملاقات حضرت کعب بن العزہ سے ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے احادیث بیان کیں اور حضرت کعب بن العزہ نے تورات کے بارے میں روایات بیان کیں، یہاں تک کہ ان حضرات کی گفتگو میں اس گھڑی کا بھی ذکر آیا جو جمعہ کے دن میں موجود ہوتی ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے:

”جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز اُسے عطا کر دیتا ہے۔“

کعب نے کہا: یہ سال میں صرف ایک ہی جمعہ میں ہوتی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: جی نہیں! تو کعب نے کہا: جی ہاں! اللہ تعالیٰ اور اُس کے رسول نے ہر جمعہ کے بارے میں یہ فرمایا ہے اور سچ فرمایا ہے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آگے پھر اُن کی اور حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اُن کے سامنے یہ بات ذکر کی جو کعب نے جمعہ کے دن کے بارے میں بیان کی تھی تو حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اُنہوں نے غلط کہا ہے! تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اُنہوں نے رجوع کر لیا تھا۔

5584 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَإِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ فِيهَا خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ آيَاهُ وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ

* * حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے جس میں مسلمان بندہ اللہ تعالیٰ سے جس بھی بھلائی کے بارے میں دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ چیز اُسے عطا کر دیتا ہے اور یہ گھڑی عصر کے بعد ہوتی ہے۔“

5585 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي لَا أَعْلَمُ تِلْكَ السَّاعَةَ، قُلْتُ لَهُ: يَا أَخِي مَا أَنَا بِالرَّجُلِ تَنْفُسُهَا عَلَيْهِ حَدِيثِي بِهَا قَالَ: هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، قُلْتُ: أَوَلَيْسَ قَدْ قُلْتَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَنْ لَا يُصَادِفَهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ فِي صَلَاةٍ وَلَيْسَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ صَلَاةً قَالَ: أَوْلَيْسَتْ قَدْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى ثُمَّ جَلَسَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ لَمْ يَزَلْ فِي صَلَاتِهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ الصَّلَاةُ الْآخَرَى الَّتِي تَلِيهَا قَالَ: وَفِيهَا خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهَا أُهْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ، وَفِيهَا تَيْبَ عَلَيْهِ وَفِيهَا قُبِضَ وَفِيهَا تَقَوْمُ السَّاعَةِ

* * حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: مجھے اُس گھڑی کا علم ہے میں نے اُن سے دریافت کیا: اے میرے بھائی! میں ایسا شخص نہیں ہوں جس سے آپ اس چیز کو چھپائیں آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں! تو اُنہوں نے کہا کہ یہ جمعہ کے دن سورج غروب سے پہلے کی آخری گھڑی ہوتی ہے۔ میں نے کہا: کیا آپ نے یہ بات نہیں کی ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

”اُس گھڑی میں جو بھی مسلمان بندہ نماز ادا کر رہا ہو“

تو اس وقت میں تو نماز ادا نہیں کی جاتی۔ تو اُنہوں نے جواب دیا: کیا ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

”جو شخص نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھ کر نماز کا انتظار کرتا ہے وہ مسلسل نماز کی حالت میں شمار ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اگلی نماز ادا کر لیتا ہے۔“

انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس دن میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن میں انہیں جنت سے اتارا گیا، اسی دن میں ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن میں ان کا انتقال ہوا اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔

5586 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جریج قال: أخبرني داود بن أبي عاصم، عن عبد الله بن يحيى، عن صالح، مولى معاوية قال: قلت لأبي هريرة: زعموا أن ليلة القدر قد رفعت قال: كذب من قال كذلك؟ قلت: فهي في كل شهر رمضان استقبله؟ قال: نعم قال: قلت: هل زعموا أن الساعة في يوم الجمعة لا يدعو فيها مسلم إلا استجيب له قد رفعت؟ قال: كذب من قال، قلت: فهي في كل جمعة استقبلها؟ قال: نعم

*** عبد اللہ بن تحسن بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا: لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب قدر کو اٹھالیا گیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا: جو شخص ایسا کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے۔ میں نے کہا: کیا یہ ہر رمضان کے مہینہ میں ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! میں نے کہا: لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن میں جو گھڑی موجود ہے، جس میں مسلمان دعا کرتا ہے تو وہ دعا مستجاب ہوتی ہے، وہ گھڑی اٹھالی گئی ہے؟ تو انہوں نے کہا: جو شخص یہ کہتا ہے وہ غلط کہتا ہے۔ میں نے کہا: کیا یہ ہر جمعہ میں موجود ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں!

5587 - حدیث نبوی: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا يحيى بن ربيعة قال: سمعت عطاء يقول: سمعت

5587- صحیح البخاری - کتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة - حدیث: 907، صحیح مسلم - کتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة - حدیث: 1451، صحیح ابن خزيمة - کتاب الجمعة المختصر من المختصر من المسند على الشرط الذي ذكرنا، جباع ابواب فضل الجمعة - باب ذكر بعض ما خص به يوم الجمعة من الفضيلة، حدیث: 1629، مستخرج ابی عوانة - مبتدا کتاب الجمعة، باب بيان فضل الجمعة والترغيب في الدعاء والصلاة فيها - حدیث: 2048، صحیح ابن حبان - باب الإمامة والجماعة، باب صلاة الجمعة - ذكر البيان بان الله جل وعلا إنما يستجيب دعاء الداعي في حدیث: 2820، موطا مالك - کتاب الجمعة، باب ما جاء في الساعة التي في يوم الجمعة - حدیث: 238، سنن الدارمی - کتاب الصلاة، باب الساعة التي تذكر في الجمعة - حدیث: 1582، سنن ابن ماجه - کتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الساعة التي ترجى في الجمعة - حدیث: 1133، السنن للنسائي - کتاب الجمعة، ذكر الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة - حدیث: 1421، السنن الكبرى للنسائي - کتاب الجمعة، الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة - حدیث: 1730، مسند احمد بن حنبل، مسند ابی هريرة رضي الله عنه - حدیث: 6992، مسند ابی يعلى الموصلي - مسند ابی هريرة، حدیث: 5918، المعجم الاوسط للطبراني - باب العين، من بقية من اول اسبه ميم من اسبه موسى - حدیث: 8331، المعجم الكبير للطبراني - من اسبه عبد الله، ومما اسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - ابو هريرة، حدیث: 13782

أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ يُصَلِّي أَوْ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ يَدْعُو اللَّهَ فِيهَا بِشَيْءٍ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ

* * عطاء بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے:

”جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے جس میں جو بندہ نماز ادا کر رہا ہو یا نماز کا انتظار کر رہا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس دوران جو بھی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے۔“

بَابُ الْكَفَّارَةِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

باب: جمعہ کے دن کا کفارہ ہونا

5588 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، هَنَّانٍ، سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْجُمُعَةَ إِلَى الْجُمُعَةِ كَفَّارَةٌ، وَالصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتَبَتِ الْكَبَائِرُ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتُكْفِرُ الْجُمُعَةَ إِلَى الْجُمُعَةِ قَالَ: نَعَمْ، وَزِيَادَةٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ * * حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”بے شک ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کے لیے کفارہ بن جاتا ہے اور پانچ نمازیں درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔“

راوی کہتے ہیں: ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک کا کفارہ بنتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جی ہاں! اور مزید تین دنوں کا بھی (کفارہ بنتا ہے)۔

5589 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَدِيعَةَ بْنِ حِدَامٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ، وَلَبَسَ مِنْ صَالِحِ ثِيَابِهِ، وَمَسَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ أَوْ ذَهَبِهِ، ثُمَّ رَاحَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَفْرُقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ وَزِيَادَةٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ * * حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اچھی طرح غسل کرے اور عمدہ لباس پہنے اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے نصیب میں لکھا ہو وہ خوشبو یا تیل لگائے پھر وہ جمعہ کے لیے جائے اور دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہ ڈالے تو اس شخص کے دو جمعوں کے درمیان کی اور مزید تین دن کے (گناہوں کی) مغفرت ہو جاتی ہے۔

5590 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ اسْتَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ اغْتَسَلَ كَمَا يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ،

ثُمَّ مَسَّ مِنْ طَيْبٍ، ثُمَّ لَبَسَ ثَوْبِيهِ، ثُمَّ غَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَفْرُقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَقُومَ الْإِمَامُ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں:

”جو شخص جمعہ کے دن مسواک کرتا ہے، پھر غسل جنابت کی طرح غسل کرتا ہے، پھر خوشبو لگاتا ہے، پھر لباس پہنتا ہے اور پھر مسجد کی طرف جاتا ہے اور دو آدمیوں کے درمیان جدائی نہیں ڈالتا اور امام کے کھڑے ہونے تک کوئی کلام نہیں کرتا، تو اس شخص کے دو جمعوں کے درمیان کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔“

بَابُ إِقَامَةِ الرَّجُلِ أَخَاهُ ثُمَّ يَخْتَلِفُ فِي مَجْلِسِهِ

باب: آدمی کا اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں بیٹھنا

5591 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يَقُمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيُخَالِفُهُ إِلَى مَقْعَدِهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: افْسَحُوا"

*** حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”کوئی شخص اپنے بھائی کو اٹھا کر خود اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، بلکہ اسے یہ کہنا چاہیے: تم لوگ کشادگی اختیار کرو۔“

5592 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقُمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلِفُهُ قُلْتُ أَنَا لَهُ: أَوْفَى يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا، قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُومُ لَهُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلَا يَجْلِسُ فِيهِ

*** حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”کوئی شخص اپنے بھائی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے۔“

ابن جریج کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا: یہ حکم جمعہ کے بارے میں ہے؟ انہوں نے جواب دیا: یہ جمعہ کے بارے میں بھی ہے اور جمعہ کے علاوہ کے بارے میں بھی ہے۔

نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے لیے جب کوئی شخص اٹھتا تھا تو وہ اس کی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے۔

5593 - حدیث نبوی: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقُمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَيَجْلِسُ فِي مَكَانِهِ. فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ لِابْنِ عُمَرَ مِنْ بَيْتِهِ فَلَا يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ.

*** حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے:

”کوئی شخص اپنے بھائی کو اُس کی جگہ سے اٹھا کر خود وہاں نہ بیٹھے۔“

اگر کوئی شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے لیے اپنی جگہ سے اٹھتا تھا تو وہ اُس کی جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے۔

5594 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ. قَالَ: وَلَكِنْ يَقُولُ: افسَحُوا وَتَوَسَّعُوا

*** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نبی اکرم ﷺ سے اس کی مانند منقول ہے تاہم اس روایت میں یہ الفاظ

ہیں: تم لوگ کشادگی اختیار کرو اور گنجائش پیدا کرو۔

بَابُ مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

باب: جو شخص جمعہ کے دن انتقال ہو جائے

5595 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ - أَوْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ - بَرَاءً مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ أَوْ قَالَ: وَقِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ، وَكُتِبَ شَهِيدًا

*** ابن شہاب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے:

”جو شخص شب جمعہ میں (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) جمعہ کے دن انتقال کر جائے وہ قبر کی آزمائش سے بچ

جاتا ہے (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) قبر کی آزمائش سے بچا لیا جاتا ہے اور اُس کا نام شہید کے طور پر نوٹ

کیا جاتا ہے۔“

5596 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ سَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَرَاءً مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ.

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کے حوالے سے منقول ہے جس میں یہ الفاظ ہیں:

”وہ قبر کی آزمائش سے بچ جاتا ہے۔“

5597 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنِ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ مطلب بن عبداللہ بن حنطب کے حوالے سے نبی اکرم ﷺ سے منقول ہے۔

کتابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ

کتاب: عیدین کی نماز کے بارے میں روایات

بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَبَعْدَ الْخُطْبَةِ

باب: امام کے آنے سے پہلے اور خطبہ کے بعد (نفل) نماز ادا کرنا

5598 - اقوال تابعین: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادِ الدَّبَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ قَالَ: إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَصَلِّ.

** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے عید الفطر کے دن امام کے آنے سے پہلے (نفل) نماز ادا کرنے کے

بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: جب سورج طلوع ہو جائے تو تم نماز ادا کر لو۔

5599 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا كَانَ

يُصَلِّي بَيْنَهُمَا

** حسن بن مسلم بیان کرتے ہیں: مجاہدان دونوں (یعنی سورج طلوع ہونے اور عید کی نماز ادا کرنے) کے درمیان نماز

ادا کر لیتے تھے۔

5600 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ أَنَسٌ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَالْحَسَنُ، وَأَخُوهُ

سَعِيدٌ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ يُصَلُّونَ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ وَبَعْدَهُ

** قتادہ بیان کرتے ہیں: حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حسن بصری، ان کے بھائی سعید اور جابر بن زید

امام کے آنے سے پہلے اور اس کے بعد نماز ادا کر لیتے تھے۔

5601 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ وَالْحَسَنَ يُصَلِّيَانِ قَبْلَ

صَلَاةِ الْعِيدِ

** ایوب بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور حسن بصری کو دیکھا ہے کہ وہ عید کی نماز سے پہلے

نماز ادا کر لیتے تھے۔

5602 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَالْحَسَنَ، وَأَخَاهُ

سَعِيدًا، وَجَابِرَ بْنَ زَيْدِ أَبِي الشَّعَثَاءِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ

*** تیمی کے صاحبزادے نے اپنے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے: میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حسن بصری، ان کے بھائی سعید اور جابر بن زید ابو شعثاء کو دیکھا ہے کہ وہ عید کے دن امام کے آنے سے پہلے نماز ادا کر لیتے تھے۔

5603 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَ: صَلَاةُ الْأَضْحَى مِثْلُ صَلَاةِ

الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ

*** زہری اور قتادہ بیان کرتے ہیں: عید الاضحیٰ کی نماز میں بھی عید الفطر کی طرح دو دو رکعت ادا کی جائیں گی۔

5604 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: جَاءَنَا

نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ فَصَلُّوا، وَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ، فَلَمْ يُصَلِّ، فَقَالَ الرَّجُلُ لَابْنِ عُمَرَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلُّوا، وَجِئْتُ فَلَمْ تُصَلِّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِرَادٍ عَلَيَّ عَبْدٍ أَحْسَنًا، أَحْسِبُهُ

*** ازرق بن قیس ایک شخص کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: ہمارے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگ عید کے دن آئے یہ امام کے آنے سے پہلے کی بات ہے تو انہوں نے نماز ادا کی پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے نماز ادا نہیں کی ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے کہا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ دیگر صحابہ کرام آئے تو انہوں نے نماز ادا کی لیکن آپ آئے تو آپ نے نماز ادا نہیں کی۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کی ہوئی نیکی کو مسترد نہیں کرتا میرا تو یہی گمان ہے۔

5605 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَلَاءَ بْنَ زَيْدٍ

يَقُولُ: خَرَجَ عَلَيَّ يَوْمَ عِيدٍ فَوَجَدَ النَّاسَ يُصَلُّونَ قَبْلَ خُرُوجِهِ، فَقِيلَ لَهُ: لَوْ نَهَيْتَهُمْ، فَقَالَ: "مَا أَنَا بِالَّذِي أَنْهَى عَبْدًا أَنْ صَلَّاهَا، وَلَكِنْ سَأُخْبِرُكُمْ بِمَا شَهِدْنَا - أَوْ قَالَ - : بِمَا حَضَرْنَا"

*** علاء بن زید بیان کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ عید کے دن تشریف لائے انہوں نے لوگوں کو اپنی آمد سے پہلے نماز ادا کرتے ہوئے پایا تو ان سے کہا گیا: آپ اگر انہیں منع کر دیں تو یہ مناسب ہوگا۔ انہوں نے فرمایا: میں ایسا بندہ نہیں بنا چاہتا جو نماز ادا کرنے والے بندہ کو (نماز کی ادائیگی سے) روکتا ہے البتہ میں تمہیں اس چیز کے بارے میں بتا دیتا ہوں جس میں ہم موجود تھے۔ (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) جس میں ہم حاضر تھے۔

5606 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، وَحَدِيفَةَ، كَانَا

يُنْهَيَانِ النَّاسَ - أَوْ قَالَ - : يُجْلِسَانِ مَنْ رَأَىاهُ يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ

*** ابن سیرین بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہما لوگوں کو منع کیا کرتے تھے (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) جس شخص کو عید کے دن امام کے آنے سے پہلے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے تھے اسے بٹھا دیا کرتے تھے۔

5607 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي اسْحَاقَ قَالَ: سُئِلَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ، فَقَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلُّونَ قَبْلَهَا قَالَ السَّائِلُ: أَرَأَيْتَ قَدْ صَلَّيْتُ؟ قَالَ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ عَنْ فِعْلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ

* * ابواسحاق بیان کرتے ہیں: علقمہ بن قیس سے عید کے دن امام کے آنے سے پہلے نماز ادا کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا: نبی اکرم ﷺ کے اصحاب اس سے پہلے نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ سائل نے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میں نماز ادا کر لیتا ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا: میں نے تمہیں صحابہ کرام کے طرز عمل کے بارے میں بتا دیا ہے باقی تم بہتر جانتے ہو۔

5608 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، خَرَجْتُ مَعَهُ فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ وَشُرَيْحٌ إِلَى الْجَبَانَةِ نُصَلِّهَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي يَوْمَ الْعِيدِ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَنَهَاهُ عَامِرٌ وَلَمْ يَدْعُهُ يَوْمَ بَعْدَهَا

* * اسماعیل بن ابوخالد نے امام شعبی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: میں عید کے دن ان کے ساتھ نکلا تو انہوں نے نماز عید سے پہلے یا اس کے بعد کوئی (نفل) نماز ادا نہیں کی پھر ایک مرتبہ مسروق اور قاضی شریح کے ساتھ ”جبانہ“ کی طرف گیا تو ہم نے (نماز عید) سے پہلے یا بعد میں کوئی (نفل) نماز ادا نہیں کی۔

اسماعیل بن ابوخالد بیان کرتے ہیں: ایک شخص عید کے دن نماز کے بعد نماز ادا کرنے لگا تو امام شعبی نے اُسے منع کیا اور اُسے نماز عید کے بعد (نفل) نماز ادا نہیں کرنے دی۔

5609 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جَبْرِ كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ خُرُوجِ الْإِمَامِ

* * سعید بن جبیر کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ امام کے آنے سے پہلے (نفل) نماز ادا نہیں کرتے تھے۔

5610 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا لَا يُصَلُّونَ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

* * عبدالکریم بن ابو مخارق بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کے اصحاب اُس وقت تک نماز ادا نہیں کرتے تھے جب تک نبی اکرم ﷺ تشریف نہیں لے آتے تھے (یعنی نبی اکرم ﷺ کے تشریف لانے سے پہلے کوئی نفل نماز ادا نہیں کرتے تھے)۔

5611 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ وَلَا بَعْدَهُمَا شَيْئًا،

*** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ عیدین سے پہلے یا بعد میں کوئی (نفل) نماز ادا نہیں کرتے تھے۔

5612 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جریج، عن موسیٰ بن عقبہ، عن نافع، عن ابن عمر مثله. وزاد قال: كان لا يصلي يومئذ حتى يتحول النهار.

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے منقول ہے، تاہم اس میں یہ بات زائد ہے:

”وہ اُس دن میں دن کے ڈھلنے سے پہلے کوئی اور نماز ادا نہیں کرتے تھے۔“

5613 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن ابن عمر مثله،

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔

5614 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، ومعمّر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مثله. وزاد قال:

كان يصلي الغداة يوم العيد وعليه ثيابه ثم يغدو إلى المصلى

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، جس میں یہ الفاظ زائد ہیں:

”وہ عید کے دن فجر کی نماز ادا کرتے تھے پھر انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے انہی کپڑوں میں عید گاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے۔“

5615 - اقوال تابعين: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: ما علمنا أحداً كان يصلي قبل خروج

الإمام يوم العيد ولا بعده.

*** زہری بیان کرتے ہیں: ہمیں ایسے کسی شخص کا علم نہیں ہے جس نے عید کے دن امام کے آنے سے پہلے یا اُس کے

بعد کوئی (نفل) نماز ادا کی ہو۔

5616 - اقوال تابعين: عبد الرزاق، عن شيخ من أهل الطائف يقال له: عبد الله بن عبد الرحمن قال:

كان عمرو بن شعيب يأمرنا أن لا نصلي قبلها ولا بعدها

*** امام عبدالرزاق نے طائف سے تعلق رکھنے والے ایک بزرگ عبداللہ بن عبدالرحمن کا یہ بیان نقل کیا ہے: عمرو بن

شعیب ہمیں یہ ہدایت کرتے تھے کہ ہم اس (نماز عید) سے پہلے یا بعد میں کوئی (نفل) نماز ادا نہ کریں۔

5617 - حديث نبوي: عبد الرزاق، عن ابن التيمي، وغيره، عن شعبة قال: أبنانا عدي بن ثابت، أنه سمع

سعيد بن جبير يحدث، عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر - أو أضحى -

فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما

*** سعید بن جبیر حضرت عباس رضی اللہ عنہما کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن

تشریف لے گئے آپ نے دو رکعت پڑھائیں، آپ نے ان سے پہلے یا ان کے بعد کوئی (نفل) نماز ادا نہیں کی۔

5618 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي عِيَّاشٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَلَا بَعْدَهَا، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ صَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْأَضْحَى وَلَا بَعْدَهَا شَيْئًا

* * حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی اور نماز ادا نہیں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے یا اس کے بعد کوئی اور نماز ادا نہیں کرتے تھے۔

5619 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ مَنْصُورٍ، عَنِ اِبْرَاهِيمَ، عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: كَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدَيْنِ شَيْئًا وَيُصَلِّي بَعْدَهُمَا أَرْبَعًا

* * علقمہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ عیدین کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز ادا نہیں کرتے تھے البتہ وہ ان کے بعد چار رکعات ادا کرتے تھے۔

5620 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ أَرْبَعًا

* * امام شعبی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عیدین کی نماز کے بعد چار رکعات ادا کرتے تھے۔

5621 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَقَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ أَوْ ثَمَانٍ، وَكَانَ لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا

* * ابن سیرین اور قتادہ نے یہ بات نقل کی ہے: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عید کی نماز کے بعد چار یا آٹھ رکعات ادا کرتے تھے وہ اس سے پہلے کوئی (نفل) نماز ادا نہیں کرتے تھے۔

5622 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنِ عَيْسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ عَامِرًا يُصَلِّي بَعْدَ الْعِيدَيْنِ رَكَعَتَيْنِ

* * عیسیٰ بن ابوعزہ بیان کرتے ہیں: میں نے امام عامر شعبی کو عیدین کی نماز کے بعد دو رکعات ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

5623 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ بَلَغَكَ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ كَانَ يُسَبَّحُ بِهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: إِلَّا بِسْمِ كَثُرَتْ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: نَعَمْ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا آپ تک اس بارے میں کوئی روایت پہنچی ہے کہ عید الفطر کی نماز کے بعد کوئی نفل نماز ادا کی جائے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! میں نے کہا: البتہ (نماز کی) کثرت آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

5624 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

لَا يُصَلِّي قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ وَمَعْمَرًا لَا يُصَلِّيَانِ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی (نفل) نماز ادا نہیں کی جائے گی۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے ابن جریج اور معمر کو دیکھا ہے کہ وہ اس سے پہلے یا اس کے بعد کوئی (نفل) نماز ادا نہیں کرتے تھے۔

5625 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثْتُ حَدِيثًا رُفِعَ إِلَى الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَصْحَابَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُونَ: لَا صَلَاةَ قَبْلَ الْأَضْحَى وَلَا بَعْدَهَا، وَلَا قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَلَا بَعْدَهَا حَتَّى تَرِيغَ الشَّمْسُ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: امام شعبی کے بارے میں یہ بات مجھے بتائی گئی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے

اصحاب کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے یا اس کے بعد کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی اور عید الفطر کی نماز سے پہلے یا اس کے بعد کوئی نماز ادا نہیں کی جائے گی جب تک سورج ڈھل نہیں جاتا۔

5626 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ، قَدْ سَمَاهُ

قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فِي يَوْمِ عِيدِ إِلَى الْجَبَانَةِ فَرَأَى نَاسًا يُصَلُّونَ قَبْلَ صَلَاةِ الْإِمَامِ، فَقَالَ كَالْمُتَعَجِبِ: أَلَا تَرَوْنَ هَؤُلَاءِ يُصَلُّونَ؟ فَقُلْنَا: أَلَا تَنْهَاهُمْ؟ فَقَالَ: أَكْرَهُ أَنْ أَكُونَ كَالَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى قَالَ: ثُمَّ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

*** منہال بن عمرو نے ایک شخص جس کا انہوں نے نام بھی بیان کیا تھا اس کا یہ بیان نقل کیا ہے: ہم لوگ عید کے دن

حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ جبانہ (نامی عید گاہ) کی طرف گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو امام کے نماز ادا کرنے سے پہلے (نفل) نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو آپ نے حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا: کیا تم لوگ دیکھ رہے ہو یہ لوگ نماز ادا کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا: آپ انہیں منع کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا: میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں اس شخص کی مانند ہو جاؤں جو بندہ کو نماز ادا کرنے سے روکتا ہے (جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے)۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خطبہ دینے سے پہلے نماز ادا کی انہوں نے اس نماز سے پہلے یا اس کے بعد کوئی اور (نفل) نماز ادا نہیں کی۔

بَابُ الْأَذَانِ لَهُمَا

باب: ان دونوں کے لیے اذان دینا

5627 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ

اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْأَضْحَى ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ حِينٍ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَنِي قَالَ:

أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ لَا آذَانَ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ حِينَ يَخْرُجُ الْإِمَامُ، وَلَا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ وَلَا إِقَامَةً وَلَا نِدَاءً وَلَا شَيْءَ قَالَ: وَلَا نِدَاءً يَوْمَئِذٍ، وَلَا إِقَامَةً

*** حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن اذان نہیں دی جاتی تھی۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں: بعد میں میں نے اس بارے میں عطاء سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہما نے مجھے یہ بات بتائی ہے: عید الفطر کے دن جب امام آجائے یا امام کے آنے کے بعد عید الفطر کی نماز کے لیے اذان نہیں دی جائے گی نہ اقامت کہی جائیگی نہ اعلان کیا جائے گا نہ کچھ اور کیا جائے گا۔ وہ یہ فرماتے ہیں: اُس دن نہ اعلان کیا جائے گا نہ اقامت کہی جائے گی۔

5628 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ أَوَّلَ مَا بُويعَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَلَا تُؤَذَّنُ لَهَا قَالَ: فَلَمْ يُؤَذَّنْ لَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ يَوْمَئِذٍ وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ: إِنَّمَا الْخُطْبَةُ بَعْدَ الصَّلَاةِ، وَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يُفْعَلُ قَالَ: فَصَلَّى ابْنُ الزُّبَيْرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، فَسَأَلَهُ أَصْحَابُهُ، ابْنُ صَفْوَانَ وَأَصْحَابٌ لَهُ قَالُوا: هَلْ لَا آذَنَتْنَا؟ فَاتَّهَمُوا الصَّلَاةَ يَوْمَئِذٍ، فَلَمَّا سَاءَ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ لَمْ يَعُدْ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِأَمْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ

*** عطاء بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو پیغام بھیجا یہ اُس وقت کی بات ہے جب حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی بیعت کی گئی تھی کہ عید الفطر کے دن نماز کے لیے اذان نہیں دی جاتی تو آپ اس کے لیے اذان نہ دلوائیے گا۔ راوی کہتے ہیں: تو حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے اُس موقع پر نماز عید کے لیے اذان نہیں دلوائی۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بھی پیغام بھیجا تھا کہ خطبہ نماز کے بعد ہوتا ہے اور ایسا ہی کیا جاتا تھا تو حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے خطبہ سے پہلے نماز ادا کی اُن کے ساتھیوں نے اُن سے سوال کیا یعنی ابن صفوان اور اُس کے ساتھیوں نے اُن سے سوال کیا انہوں نے کہا: آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ وہ اُس دن نماز کے وقت اُن کے پاس آئے تھے۔

جب حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے درمیان اختلافات ہوئے اُس کے بعد حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ہدایت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔

5629 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ فَكُلُّهُمْ صَلَّى بِغَيْرِ آذَانَ وَلَا إِقَامَةٍ

*** ابوسعید جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں وہ بیان کرتے ہیں: وہ حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کے ساتھ نماز عید میں شریک ہوئے ہیں یہ تمام حضرات اذان اور اقامت کے بغیر نماز عید ادا کرتے تھے۔

5630 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ اسْرَائِيلَ، عَنِ سِمَاكِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ

عیدِ فصّلیٰ بہم قبل الخُطبةِ بغيرِ اذانٍ ولا اقامةٍ، ثمّ جاء يُقَادُ بِهِ عَلٰی بَعِيرِهِ حَتّٰی خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلٰی بَعِيرِهِ

* * * تاک بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک شخص حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید کی نماز میں شریک ہوا حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دینے سے پہلے اذان اور اقامت کے بغیر ان لوگوں کو نماز پڑھائی پھر ان کے اونٹ کو لایا گیا تو انہوں نے نماز کے بعد اونٹ پر بیٹھ کر خطبہ دیا۔

بَابُ الصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

باب: خطبہ سے پہلے نماز ادا کرنا

5631 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ فَصَلَّى فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَلَمَّا فَرَغَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَزَلَ فَاتَى النِّسَاءَ فَذَكَرَهُنَّ وَهُوَ مُتَكِّئٌ عَلَى بِلَالٍ، وَبِلَالٌ بَاسِطٌ تَوْبَهُ يُلْقِينَ فِيهِ النِّسَاءَ صَدَقَةً. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ يَوْمَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ صَدَقَةٌ يَتَصَدَّقُنَ بِهَا حِينَئِذٍ، تُلْقِي الْمَرْأَةُ فَتَحْتَهَا، وَيُلْقِينَ وَيُلْقِينَ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ حَقًّا عَلَى الْإِمَامِ الْأَنْ حَتَّى يَأْتِيَ النِّسَاءَ حِينَ يَفْرُغُ فَيَذَكَرَهُنَّ؟ قَالَ: أَيْ لَعَمْرِي، إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ عَلَيْهِمْ، وَمَا لَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟

* * * حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کھڑے ہوئے آپ نے خطبہ دینے سے پہلے نماز ادا کی پھر آپ نے لوگوں کو خطبہ دیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو آپ نیچے اترے آپ خواتین کے پاس تشریف لائے آپ نے انہیں وعظ و نصیحت کی آپ اُس وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑے کو پھیلا دیا اور خواتین صدقہ کی چیزیں اُس میں ڈال رہی تھیں۔

ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا یہ صدقہ فطر تھا؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! بلکہ یہ وہ صدقہ ہے جو اُس موقع پر ان خواتین نے کیا تھا انہوں نے اپنی انگوٹھیاں اُس میں ڈالی تھیں اور یہ چیز ڈالی تھی اور وہ چیز ڈالی تھی۔ ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: آپ کی کیا رائے ہے کیا امام پر یہ بات لازم ہے کہ ایسے موقع پر وہ (خطبہ سے فارغ ہونے کے بعد) خواتین کے پاس آئے اور انہیں وعظ و نصیحت کرے؟ عطاء نے جواب دیا: جی ہاں! مجھے اپنی زندگی کی قسم ہے! ان لوگوں پر یہ بات لازم ہے اور وہ لوگ ایسا کیوں نہ کریں!

5632 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كُلَّهُمْ يُصَلِّيهِمَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ قَالَ: نَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَتِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يَجْلِسُ

الرِّجَالُ بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ يَشْفُهُمْ حَتَّى جَاءَ النِّسَاءَ مَعَهُ بِلَالٌ، فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايَعَنَّكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا) (الممتحنة: 12) فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَغَ مِنْهَا: أَنْتَنَ عَلَى ذَلِكَ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَمْ تُجِبْهُ غَيْرُهَا مِنْهُنَّ: نَعَمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ - لَا يَدْرِي حَسَنٌ مَنْ هِيَ - قَالَ: فَتَصَدَّقْنَ، قَالَ: فَبَسَطَ بِلَالٌ ثَوْبَهُ، ثُمَّ قَالَ: هَلُمَّ لَكُنَّ فِدَا لَكُنَّ أَبِي وَأُمِّي، فَجَعَلَنَ يُلْقِينَ الْفَتْحَ وَالْخَوَاتِيمَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ، قُلْنَا لَهُ: مَا الْفَتْحُ؟ قَالَ: خَوَاتِيمٌ مِنْ عِظَامٍ كُنَّ يُلْبَسُنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: میں عید الفطر کے موقع پر نماز عید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی شریک ہوا ہوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی شریک ہوا ہوں، یہ سب حضرات خطبہ دینے سے پہلے نماز ادا کرتے تھے اور پھر اُس کے بعد خطبہ دیتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر آج بھی میری نگاہ میں ہے، آپ اپنے دست مبارک کے ذریعہ اشارہ کر کے لوگوں کو بٹھارہے تھے، پھر آپ ان کے درمیان سے گزرتے ہوئے خواتین کے پاس آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے، آپ نے ارشاد فرمایا: (یعنی آپ نے یہ آیت تلاوت کی:)

”اے نبی! جب تمہارے پاس مؤمن خواتین آئیں، تاکہ تمہاری بیعت کریں، اس بات پر کہ وہ کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرائیں گی۔“

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مکمل تلاوت کی، آپ اسے پڑھ کر فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا: تم خواتین اسی حالت میں رہنا۔ تو ایک خاتون نے عرض کی، اُس کے علاوہ کسی اور نے عرض نہیں کی: جی ہاں! اے اللہ کے نبی! حسن بن مسلم نامی راوی کو یہ نہیں پتا کہ وہ خاتون کون تھیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم خواتین صدقہ کرو! راوی کہتے ہیں: تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑے کو پھیلا لیا، پھر انہوں نے فرمایا: تم لوگ شروع کرو! میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں! تو ان خواتین نے اپنی (ہڈی سے بنی ہوئی) انگوٹھیاں اور دوسری انگوٹھیاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنا شروع کیں۔ راوی کہتے ہیں: ہم نے اپنے استاد سے دریافت کیا: لفتح سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہڈی سے بنی ہوئی انگوٹھیاں جو زمانہ جاہلیت کی خواتین پہنا کرتی تھیں۔

5633 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْعِيدِ، ثُمَّ خَطَبَ فَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمِعِ النِّسَاءَ فَأَتَاهُنَّ فَوَعَّظَهُنَّ، وَقَالَ: تَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي الْخَاتِمَ وَالْخُرْصَ وَالشَّيْءَ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَجَعَلَهُ فِي ثَوْبٍ حَتَّى امْضَاهُ

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: میں عید کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھا، آپ نے نماز عید ادا کی، پھر آپ نے خطبہ دیا، آپ نے یہ محسوس کیا کہ شاید آپ کی آواز خواتین تک نہیں پہنچی ہے تو آپ ان کے پاس آئے اور انہیں وعظ و نصیحت کی اور ارشاد فرمایا: تم لوگ صدقہ کرو! راوی کہتے ہیں: تو خواتین نے اپنی انگوٹھیاں اور بالیاں اور دیگر چیزیں

ذالنا شروع کیں۔ پھر نبی اکرم ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے یہ سب چیزیں ایک کپڑے میں اکٹھی کیں اور پھر نبی اکرم ﷺ تشریف لے گئے۔

5634 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيَّاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَصَلِّي تَيْسَكَ الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، فَيَقُومُ فَيَسْتَقْبِلُ النَّاسَ وَهُمْ جُلُوسٌ حَوْلَهُ فَيَقُولُ: تَصَدَّقُوا، تَصَدَّقُوا فَكَانَ أَكْثَرُ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ بِالسَّخَاتِمِ وَالْقُرْطِ وَالشَّيْءِ، فَإِنْ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَضْرِبَ عَلَى النَّاسِ بَعَثًا ذَكَرَهُ وَلَا أَنْصَرَفَ

* * * حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ عید کے دن یعنی عید الفطر کے دن تشریف لاتے تھے اور صرف یہ دو رکعات ادا کرتے تھے پھر آپ سلام پھیرتے تھے پھر آپ کھڑے ہو کر لوگوں کی طرف رخ کرتے تھے لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نبی اکرم ﷺ یہ فرماتے تھے: تم لوگ صدقہ کرو! تم لوگ صدقہ کرو! تو خواتین زیادہ تر انگوٹھیاں اور بالیاں اور دیگر چیزیں صدقہ کیا کرتی تھیں۔ اگر نبی اکرم ﷺ کو کوئی مہم درپیش ہوتی تھی تو آپ لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرتے تھے ورنہ آپ تشریف لے جاتے تھے۔

5635 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْدَأُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ يَخْطُبُ فَيَكُونُ فِي خُطْبَتِهِ الْأَمْرُ بِالْبُعْثِ وَالسَّرِيَّةِ

* * * حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن خطبہ دینے سے پہلے نماز ادا کرتے تھے پھر آپ خطبہ دیتے تھے اور آپ اپنے خطبہ کے دوران کسی جنگی مہم کو روانہ کرنے کے بارے میں ذکر کیا کرتے تھے۔

5636 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلاَ آذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، أَمَا أَحَدُهُمَا فَيَوْمَ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَعِيدِكُمْ، وَأَمَا الْآخَرُ فَيَوْمُكُمْ تَأْكُلُونَ فِيهِ نُسُكَكُمْ قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عُثْمَانَ وَذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلاَ آذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ، أَمَا أَحَدُهُمَا فَيَوْمَ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَعِيدِكُمْ، وَأَمَا الْآخَرُ فَيَوْمُكُمْ تَأْكُلُونَ فِيهِ نُسُكَكُمْ قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عُثْمَانَ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلاَ آذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ اجْتَمَعَ لَكُمْ عِيدَانِ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَقَدْ آذَنَّا لَهُ فَلْيَرْجِعْ،

وَمَنْ شَاءَ فَلْيَشْهَدْ الصَّلَاةَ قَالَ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيٍّ فَصَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِلاَ اذَانٍ وَلَا اِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ نَهَى أَنْ تَأْكُلُوا نُسُكَكُمْ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَلَا تَأْكُلُوهَا بَعْدَهُ

*** ابو عبید جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں وہ بیان کرتے ہیں: وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز عید میں شریک ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دینے سے پہلے نماز ادا کی جو کسی اذان اور اقامت کے بغیر تھی پھر انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے لوگو! بے شک اللہ کے رسول نے ان دو دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے ان میں سے ایک دن وہ ہے جس میں تم روزہ رکھنا ترک کرتے ہو اور عید الفطر کرتے ہو اور دوسرا دن وہ ہے جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو۔

راوی بیان کرتے ہیں: پھر میں عید کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی شریک ہوا، اُس دن جمعہ بھی تھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خطبہ دینے سے پہلے کسی اذان اور اقامت کے بغیر نماز عید ادا کی پھر انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا ہے ان میں سے ایک دن وہ ہے جس میں تم اپنے روزے رکھنا ترک کرتے ہو اور عید الفطر کرتے ہو اور دوسرا دن وہ ہے جس میں تم اپنی قربانی کا گوشت کھاتے ہو۔“

راوی بیان کرتے ہیں: پھر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہوا، اُس دن جمعہ تھا تو انہوں نے خطبہ دینے سے پہلے نماز ادا کی اور اذان اور اقامت کے بغیر ادا کی پھر انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”اے لوگو! آج کے دن تمہارے لیے دو عیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں، تو تم میں سے نواحی علاقوں کے رہنے والے جو لوگ چاہیں تو ہم انہیں اجازت دیتے ہیں وہ واپس چلے جائیں اور جو چاہے وہ نماز جمعہ میں شریک ہو۔“

راوی بیان کرتے ہیں: پھر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز عید میں شریک ہوا، انہوں نے خطبہ دینے سے پہلے نماز ادا کی جو کسی اذان اور اقامت کے بغیر تھی پھر انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:

”اے لوگو! بے شک اللہ کے رسول نے اس بات سے منع کیا ہے کہ تم لوگ تین دن کے بعد اپنی قربانی کا گوشت کھاؤ، تو تم اس کے بعد اسے نہ کھاؤ۔“

5637 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدِ صَلَّى بِغَيْرِ اذَانٍ وَلَا اِقَامَةٍ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ بِعِيرِهِ حَتَّى خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى بَعِيرِهِ

*** سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ بیان کرتے ہیں: وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عید کے موقع پر موجود تھے انہوں نے اذان اور اقامت کے بغیر نماز ادا کی پھر ان کے اونٹ کو ہانک کر لایا گیا تو انہوں نے نماز کے بعد اپنے اونٹ پر بیٹھ کر خطبہ دیا۔

5638 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَبِي مَرِيَمَ، أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ صَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ رَكِبَ بُخَيْتًا لَهُ فَخَطَبَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ دَفَعَهُ

* * * زیاد بن ابومریم بیان کرتے ہیں: وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہوئے انہوں نے خطبہ سے پہلے نماز ادا کی پھر وہ اپنے بختی اونٹ پر سوار ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دیا جب وہ اس سے فارغ ہوئے تو واپس تشریف لے گئے۔

5639 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ يَوْمَ عِيدِ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا آذَانَ وَلَا إِقَامَةَ، ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عُمَرَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا آذَانَ وَلَا إِقَامَةَ، ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عُثْمَانَ فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ بِلَا آذَانَ وَلَا إِقَامَةَ

* * * وہب بن کیسان ایک شخص کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں عید کے موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہوا تو انہوں نے خطبہ دینے سے پہلے نماز ادا کی جو اذان اور اقامت کے بغیر تھی پھر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہوا تو انہوں نے بھی خطبہ دینے سے پہلے نماز ادا کی جو اذان اور اقامت کے بغیر تھی پھر میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہوا تو انہوں نے بھی خطبہ سے پہلے نماز ادا کی جو اذان اور اقامت کے بغیر تھی۔

بَابُ الْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ

باب: عید کے دن خطبہ کے لیے خاموش رہنا

5640 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيْذُكُرُ اللَّهُ الْإِنْسَانَ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ الْفِطْرِ وَهُوَ يَعْقِلُ قَوْلَ الْإِمَامِ؟ قَالَ: لَا، كُلُّ عِيدٍ فَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهِ

* * * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: جب امام عرفہ کے دن یا عید الفطر کے دن خطبہ دے رہا ہو تو کیا انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے جبکہ اسے امام کی بات سمجھ بھی آ رہی ہو؟ تو عطاء نے جواب دیا: جی نہیں! کسی بھی عید کے موقع پر (خطبہ کے دوران) کلام نہیں کیا جائے گا۔

5641 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "السُّكُوتُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: الْجُمُعَةِ، وَالْعِيدَيْنِ، وَالْإِسْتِسْقَاءِ"

* * * مجاہد نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے: چار مواقع پر خاموشی اختیار کی جائے گی: جمعہ کے دن، دونوں عیدوں کے موقع پر اور نماز استسقاء میں۔

5642 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "وَجِبَ الْإِنْصَاتُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: الْجُمُعَةِ، وَالْفِطْرِ، وَالْأَضْحَى، وَالْإِسْتِسْقَاءِ"

* * * مجاہد نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ بیان نقل کیا ہے:

”چار مواقع پر خاموشی اختیار کرنا واجب ہے: جمعہ میں، عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں (یعنی ان کے خطبہ میں) اور استسقاء میں (دعامانگنے کے دوران)۔“

بَابُ أَوَّلٍ مَنْ خَطَبَ ثُمَّ صَلَّى

باب: سب سے پہلے کس نے پہلے خطبہ دیا اور پھر نماز ادا کی؟

5643 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ تَدْرِي أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ يَوْمَ الْفِطْرِ ثُمَّ صَلَّى؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، أَدْرَكْتُ النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا آپ جانتے ہیں کہ عید الفطر کے دن سب سے پہلے کس نے پہلے خطبہ دیا اور پھر نماز ادا کی؟ انہوں نے جواب دیا: مجھے نہیں معلوم! لیکن میں نے لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے۔

5644 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، لَمَّا رَأَى النَّاسَ يَنْقُصُونَ فَلَمَّا صَلَّى حَبَسَهُمْ فِي الْخُطْبَةِ.

*** حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے یوسف بیان کرتے ہیں: عید الفطر کے دن نماز سے پہلے خطبہ دینے کا آغاز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کیا تھا جب انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی تعداد کم ہے تو انہوں نے خطبہ میں انہیں روک لیا۔

5645 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ يُوسُفَ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ یوسف سے منقول ہے۔ تاہم اس میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا تھا۔

5646 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ شَهَابٍ: أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مُعَاوِيَةُ

*** ابن شہاب بیان کرتے ہیں: نماز سے پہلے خطبہ دینے کا آغاز حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔

5647 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ أَوَّلَ مَنْ خَطَبَ مُعَاوِيَةَ فِي الْعِيدِ أَوْ عُثْمَانَ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ - شَكَ مَعْمَرٌ - قَالَ: وَبَلَغَنِي أَيْضًا أَنَّ عُثْمَانَ فَعَلَ ذَلِكَ، كَانَ لَا يُدْرِكُ غَايِبَهُمُ الصَّلَاةَ، فَبَدَأَ بِالْخُطْبِ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ

*** معمر بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ عید کے دن پہلے خطبہ دینے کا آغاز حضرت معاویہ نے کیا تھا۔

شاید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت کے آخر میں کیا تھا۔

راوی بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت بھی پہنچی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایسا کیا تھا، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو نماز میں غیر موجود پایا تو پہلے خطبہ دے دیا تاکہ لوگ اکٹھے ہو جائیں۔

5648 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن داود بن قیس قال: حَدَّثَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: خَرَجْتُ مَعَ مَرْوَانَ فِي يَوْمِ عِيدِ فِطْرِ - أَوْ أَضْحَى - هُوَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي مَسْعُودٍ حَتَّى أَقْضَيْنَا إِلَى الْمُصَلَّى، فَإِذَا كَثِيرُ بْنُ الصَّلْتِ الْكِنْدِيُّ قَدْ بَنَى لِمَرْوَانَ مِنْبَرًا مِنْ لَبْنٍ وَطِينٍ، فَعَدَلَ مَرْوَانَ إِلَى الْمِنْبَرِ حَتَّى حَاذَى بِهِ فَجَاذَبْتُهُ لِبِدَا بِالصَّلَاةِ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، تَرِكَ مَا تَعْلَمُ، فَقَالَ: كَلَّا وَرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَا تَأْتُونَ بِخَيْرٍ مِمَّا نَعْلَمُ ثُمَّ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ

* * حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں عید الفطر یا شاید عید الاضحیٰ کے موقع پر مروان کے ساتھ (عید گاہ) آیا وہ میرے اور حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کے درمیان تھا یہاں تک کہ جب ہم عید گاہ پہنچے تو وہاں کثیر بن صلت کندی نے مروان کے لیے اینٹوں اور مٹی سے ایک منبر بنوایا تھا مروان منبر کی طرف جانے لگا جب وہ اُس کے قریب پہنچا تو میں نے اُسے کھینچا کہ وہ پہلے نماز ادا کرے تو اُس نے کہا: اے ابوسعید! آپ جو طریقہ جانتے تھے وہ متروک ہو چکا ہے۔ تو حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ نے کہا: ہرگز نہیں! مشرقوں اور مغربوں کے پروردگار کی قسم ہے! انہوں نے یہ کلمات تین مرتبہ کہے اور پھر فرمایا: ہمیں جس کا علم ہے تم اُس سے بہتر طریقہ اختیار نہیں کر سکتے۔ پھر مروان نے پہلے خطبہ دیا۔

5649 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن الثوري، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب قال: أول من قدم الخطبة قبل الصلاة يوم العيد مروان، فقام إليه رجل فقال: يا مروان خالفت السنة، فقال مروان: يا فلان ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى الذي عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليفعله، فإن لم يستطع فليسانه، فإن لم يستطع فليقلبه، وذلك أضعف الإيمان

* * طارق بن شہاب بیان کرتے ہیں: عید کے دن نماز سے پہلے خطبہ دینے کا آغاز مروان نے کیا۔ تو ایک شخص اُس کے سامنے کھڑا ہوا اور بولا: اے مروان! تم سنت کے برخلاف کر رہے ہو! مروان نے کہا: اے فلاں! یہاں وہ طریقہ ترک کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے تو اس نے اپنے ذمہ لازم فرض کو ادا کر دیا ہے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

”تم میں سے جو شخص کوئی منکر چیز دیکھے اور اگر اُسے اپنے ہاتھ کے ذریعہ ختم کر سکتا ہو تو ایسا کر لے اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنی زبان کے ذریعہ (اُس کی مخالفت کرے) اور اگر وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو اپنے دل کے ذریعہ (اُسے بُرا سمجھے) اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔“

بَابُ خُرُوجِ مَنْ مَضَى وَالْخُطْبَةَ وَفِي يَدِهِ عَصَا

باب: جس نے (نماز عید کی ادائیگی کے لیے) جانا ہے اُس کے نکلنے (کا وقت)

اور ہاتھ میں عصا پکڑ کر خطبہ دینا

5650 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جریج قال: قلت لعطاء: متى كان من مضى يخرج أحدهم من بيته يوم الفطر للصلاة؟ فقال: كانوا يخرجون حتى يمتد الضحى فيصلون، ثم يخطبون قليلاً سوية، يقلل خطبتهم؟ قال: لا يحبسون الناس شيئاً قال: ثم ينزلون فيخرج الناس؟ قال: ما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على منبر حتى مات، ما كان يخطب إلا قائماً، فكيف يخشى أن يحبسوا الناس؟ وإنما كانوا يخطبون قياماً لا يجلسون إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يرتقى أحدهم على المنبر فيقوم كما هو قائماً لا يجلس على المنبر حتى يرتقى عليه، ولا يجلس عليه بعدما ينزل؛ وإنما خطبته جميعاً وهو قائم، إنما كانوا يتشهدون مرة واحدة الأولى قال: لم يكن منبراً إلا منبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء معاوية حين حج بالمنبر فتركة قال: فلا يزالون يخطبون على المنابر بعد

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: جس شخص نے نماز عید کے لیے عید الفطر کے دن جانا ہوتا تھا وہ کس وقت نکلتا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا: پہلے لوگ دن چڑھنے کے بعد نکلا کرتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے پھر وہ خطبہ سنتے تھے جو مختصر ہوتا تھا۔ وہ خطبہ مختصر دیا کرتے تھے۔ راوی کہتے ہیں: وہ لوگوں کو روک کر نہیں رکھتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھر وہ لوگ (یعنی حکمران) منبر سے نیچے اترتے تھے تو لوگ چلے جاتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ اپنے وصال تک (عید الفطر کے خطبہ میں) کبھی منبر پر تشریف فرما نہیں ہوئے، آپ ہمیشہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے تو اس بات کا اندیشہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو روک لیں گے، پہلے لوگ کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے وہ بیٹھتے نہیں تھے، نبی اکرم ﷺ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم ان میں سے کوئی ایک منبر پر چڑھتا تھا اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتا تھا، منبر پر بیٹھتا نہیں تھا صرف اُس پر چڑھتا تھا اور اُس سے اترنے کے بعد بھی اُس پر نہیں بیٹھتا تھا، ان کا پورا خطبہ کھڑے ہو کر ہوتا تھا، یہ لوگ ایک مرتبہ آغاز میں شہادت کے کلمات پڑھا کرتے تھے۔

راوی بیان کرتے ہیں: منبر صرف نبی اکرم ﷺ کا منبر ہوتا تھا یہاں تک کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آئے، یعنی جب حج کے موقع پر آئے تو انہوں نے اُس منبر کو ترک کر دیا، اُس کے بعد حکمرانوں نے ہمیشہ منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا۔

5651 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن أبي يحيى، عن أبي الحويرث قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم حين وجهه إلى نجران: أن أخرج الفطر، وذكر الناس، وعجل الأضحى

* ابو حریث بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ عنہ کو جب نجران کی طرف بھیجا تو انہیں خط میں لکھا کہ تم عید الفطر کی نماز کو تاخیر سے ادا کرنا اور لوگوں کو غلط نصیحت کرنا اور عید الاضحیٰ کی نماز جلدی ادا کرنا۔

5652 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ خُطْبَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ

الْجُمُعَةِ كَانَتْ مَرَّتَيْنِ قَائِمًا. قَالَ مَعْمَرٌ: قُلْتُ فَبَلَّغَكَ ذَلِكَ مِنْ ثِقَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا شِئْتُ

* * زہری بیان کرتے ہیں: جمعہ کے دن نبی اکرم ﷺ کا خطبہ دو مرتبہ کھڑے ہو کر ہوتا تھا۔ معمر بیان کرتے ہیں: میں

نے دریافت کیا: کیا کسی ثقہ راوی کے حوالے سے آپ تک یہ روایت پہنچی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! جیسا (ثقلہ راوی) تم چاہتے ہو!

5653 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ

النَّاسُ يَخْطُبُونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ خُطْبَتَيْنِ بَيْنَهُمَا جَلْسَةٌ

* * حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: پہلے لوگ جمعہ کے دن دو خطبے دیتے تھے جن کے درمیان وہ بیٹھتے تھے۔

5654 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ يَسْتَبِدُّ إِلَى جِدْعِ نَخْلَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا صُنِعَ الْمِنْبَرُ فَاسْتَوَى عَلَيْهِ اضْطَرَبَ تِلْكَ السَّارِيَةُ كَحَيِّينِ النَّاقَةِ حَتَّى سَمِعَهَا أَهْلُ الْمَسْجِدِ حَتَّى نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاعْتَقَهَا فَسَكَّتْ

* * حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ جب خطبہ دیتے تھے تو مسجدوں کے ستونوں میں سے

ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا لیتے تھے جب منبر بنایا گیا اور آپ اس پر تشریف فرما ہوئے تو وہ ”تا“ اونٹنی کی طرح رونے لگا یہاں تک کہ اہل مسجد نے اس کی آواز سنی نبی اکرم ﷺ منبر سے نیچے اترے آپ نے اسے گلے لگایا تو وہ خاموش ہوا۔

5655 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي نَجْرٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى يَخْطُبُ عَلَى رَأْسِ الْبَيْتِ بَعْدَ الصَّلَاةِ قَالَ: يَتَشَهَّدُ، ثُمَّ يَقْرَأُ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، يَدْعُو بِدَعَوَاتٍ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ

* * حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نبی اکرم ﷺ نماز کے بعد اپنی سواری

پر بیٹھ کر خطبہ دیتے تھے۔ راوی کہتے ہیں: نبی اکرم ﷺ شہادت کے کلمات پڑھتے تھے پھر آپ قرآن کی کسی سورت کی تلاوت کرتے تھے پھر دعائیں کرتے تھے پھر تشریف لے جاتے تھے۔

5656 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ شَهِدَ الْمُغِيرَةَ بْنَ

شُعْبَةَ فِي يَوْمِ عِيدِ صَلَّى بِغَيْرِ آذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ جَاءَ يُقَادُ بِهِ بِعَيْرِهِ حَتَّى خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ عَلَى بَعِيرِهِ

*** سماک بن حرب بیان کرتے ہیں: وہ عید الفطر کے دن حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہوئے تو انہوں نے اذان اور اقامت کے بغیر نماز ادا کی پھر ان کے اونٹ کو ہانک کر لایا گیا تو انہوں نے نماز کے بعد اپنے اونٹ پر بیٹھ کر خطبہ دیا۔

5657 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الکرم الجزری قال: أخبرنا زياد بن أبي مریم، أنه شهد المغيرة صلى فيه قبل الخطبة، ثم ركب بخيتا له، ثم خطبهم، فلما فرغ دفعه

*** زیاد بن ابومریم بیان کرتے ہیں: وہ حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز میں شریک ہوئے انہوں نے خطبہ دینے سے پہلے نماز ادا کی پھر وہ اپنے بختی اونٹ پر سوار ہوئے اور انہوں نے لوگوں کو خطبہ دیا جب وہ اس سے فارغ ہوئے تو تشریف گئے۔

5658 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن أبي جناب قال: سمعت يزيد بن البراء بن عازب، يحدث عن أبيه قال: لما كان يوم الأضحى أتى النبي صلى الله عليه وسلم البقيع، فناول قوساً فخطب عليه۔ *** يزيد بن براء بن عازب اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: عید الاضحیٰ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تشریف لائے آپ کے سامنے کمان پیش کی گئی تو آپ نے اُس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا۔

5659 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن هشام بن عروة قال: رأيت عبد الله بن الزبير يخطب وفى يده عصا

*** ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا ان کے ہاتھ میں عصا تھا۔

5660 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن معمر قال: بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن له يخرج منبراً ولا لأصحابه في يوم عيد، وأول من أخرج المنبر مروان فقال له رجل: أخرجت المنبر ولم يكن يخرج، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يفعل، وجلس في الخطبة ولم يكن يجلس قال: إن تلك السنة قد تركت

*** معمر بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے لیے اصحاب کے لیے عید کے دن منبر (عید گاہ میں) نہیں لایا جاتا تھا سب سے پہلے مروان نے (عید گاہ میں) منبر رکھوایا ایک شخص نے اُس سے کہا: تم منبر لے آئے ہو! حالانکہ یہ نہیں لایا جاتا اور تم نے نماز سے پہلے خطبہ دے دیا ہے حالانکہ ایسا نہیں کیا جاتا اور تم نے بیٹھ کر خطبہ دیا ہے حالانکہ اس میں بیٹھا نہیں جاتا۔ تو مروان نے کہا: یہ ایک ایسا طریقہ ہے جسے ترک کر دیا گیا ہے۔

5661 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج معه يوم الفطر بعزرة فيركزها في المصلى بين يديه فيصلى إليها

* * حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: عید الفطر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نیزہ لے جایا جاتا ہے اُسے عید گاہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا تھا اور آپ اُس کی طرف رُخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔

5662 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَطَبَ اعْتَمَدَ عَلَى عَصَاهُ اعْتِمَادًا

* * معمر بیان کرتے ہیں: میں نے بعض اہل مدینہ کو یہ بات ذکر کرتے ہوئے سنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے عصا کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے۔

بَابُ الرُّكُوبِ فِي الْعِيدَيْنِ وَفَضْلُ صَلَاةِ الْفِطْرِ

باب: عیدین کے دن سوار ہونا اور عید الفطر کی نماز کی فضیلت

5663 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ رَجُلٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: رَأَيْتُهُ يَأْتِي الْعِيدَ مَاشِيًا

* * حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے: راوی کہتے ہیں: میں نے انہیں عید کے دن پیدل آتے ہوئے دیکھا ہے۔

5664 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يُرَغِّبُهُمْ فِي الْعِيدَيْنِ: مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَأْتِيَهُمَا مَاشِيًا فَلْيَفْعَلْ

* * جعفر بن برقان بیان کرتے ہیں: عمر بن عبدالعزیز نے لوگوں کو خط لکھا جو عیدین کے بارے میں انہیں ترغیب دینے کے بارے میں تھا (اُس میں انہوں نے یہ لکھا: تم میں سے جو شخص پیدل آسکتا ہو وہ ایسا ہی کرے۔

5665 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الرُّكُوبَ فِي الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ

* * ابراہیم نخعی کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ عید اور جمعہ کے دن سوار ہو کر آنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔

5666 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: خُرُوجُ يَوْمِ الْفِطْرِ يَغْدُلُ عُمْرَةً، وَخُرُوجُ يَوْمِ الْأَضْحَى يَغْدُلُ حَجَّةً

* * حضرت محنف بن سلیم، جنہیں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے وہ بیان کرتے ہیں: عید الفطر کے دن جانا عمرہ کرنے کے برابر ہے اور عید الاضحیٰ کے دن جانا حج کرنے کے برابر ہے۔

5667 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مِنَ السَّنَةِ أَنْ تَأْتِيَ الْمُصَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ مَاشِيًا

*** حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: سنت یہ ہے کہ تم عید کے دن پیدل عید گاہ آؤ۔

بَابُ الْخُرُوجِ بِالسَّلَاحِ وَوُجُوبِ الْخُطْبَةِ

باب: ہتھیار لے کر نکلنا اور خطبہ کا واجب ہونا

5668 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جُوَيْرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مَزَاهِمٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ يُخْرَجَ بِالسَّلَاحِ يَوْمَ الْعِيدِ.

*** ضحاک بن مزاحم بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا ہے کہ عید کے دن ہتھیار لے کر نکلا جائے۔

5669 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ جُوَيْرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ مِثْلَهُ، وَزَادَ فِيهِ: إِلَّا أَنْ يَخَافُوا عَدُوًّا فَيُخْرَجُوا

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ ضحاک سے منقول ہے، تاہم اس میں یہ الفاظ ہیں: اگر لوگوں کو دشمن کا خوف ہو پھر وہ (ہتھیاروں سمیت) آئیں گے۔

5670 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَنْتَظِرِ الْخُطْبَةَ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَذْهَبْ. قَالَ: فَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى النَّاسِ حُضُورُ الْخُطْبَةِ يَوْمَئِذٍ

*** عطاء بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں: "جب ہم نماز مکمل کر لیں تو جو شخص چاہے وہ خطبہ کا انتظار کرے اور جو شخص چاہے وہ چلا جائے۔" راوی بیان کرتے ہیں: عطاء یہ فرماتے ہیں: اس موقع پر لوگوں کے لیے خطبہ میں شریک ہونا لازم نہیں ہے۔

بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الْخُطْبَةِ

باب: خطبہ میں تکبیر کہنا

5671 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّهُ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدِ تِسْعًا وَسَبْعًا

*** اسماعیل بن امیہ بیان کرتے ہیں: میں نے سنا ہے کہ وہ عید میں نو اور سات تکبیریں کہا کرتے تھے۔

5672 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: يُكَبِّرُ الْإِمَامُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ تِسْعًا حِينَ يُرِيدُ الْقِيَامَ وَسَبْعًا فِي. عَمَّا لَجْتُهُ عَلَى أَنْ يُفَسِّرَ لِي أَحْسَنَ مِنْ هَذَا فَلَمْ يَسْتَطِعْ - فَظَنَنْتُ أَنَّ قَوْلَهُ -: حِينَ يُرِيدُ الْقِيَامَ

فی الخطبة الاخرة "

* * * عبد اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود فرماتے ہیں: امام عید الفطر میں خطبہ دینے سے پہلے نو مرتبہ تکبیریں کہے گا جب وہ کھڑے ہونے کا ارادہ کرے گا اور سات مرتبہ (دوسری رکعت میں تکبیریں کہے گا)۔

راوی کہتے ہیں: میں نے یہ کوشش کی کہ میرا استاد میرے سامنے اس کی وضاحت کر دے لیکن یہ نہیں ہو سکا تو میں نے یہ گمان کیا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب امام دوسرا خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوگا تو ایسا کرے گا۔

5673 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: السُّنَّةُ التَّكْبِيرُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْعِيدِ، يَبْدَأُ خُطْبَتَهُ الْأُولَى بِتِسْعِ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ، وَيَبْدَأُ الْآخِرَةَ بِسَبْعٍ.

* * * عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ فرماتے ہیں: سنت یہ ہے کہ عید کے دن منبر پر تکبیر کہے جائے پہلے خطبہ میں نو تکبیریں ہی

جائیں جو خطبہ دینے سے پہلے ہوں اور دوسرے خطبہ سے پہلے سات تکبیریں کہی جائیں۔

5674 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ

نَحْوَهُ

* * * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ سے منقول ہے۔

5675 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ: بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ

صَلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

* * * مکحول فرماتے ہیں: ہر دو تکبیروں کے درمیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے گا۔

بَابُ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ

باب: عید کے دن نماز عید میں تکبیر کہنا

5676 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: "التَّكْبِيرُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ ثَلَاثَ

عَشْرَةٍ تَكْبِيرَةً يُكْبِرُ هُنَّ وَهُوَ قَائِمٌ: سَبْعَةٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى: مِنْهُنَّ تَكْبِيرَةٌ لِاصْتِفَاحِ الصَّلَاةِ، وَمِنْهُنَّ تَكْبِيرَةٌ

لِلرَّكْعَةِ، وَمِنْهُنَّ سِتُّ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَمِنْهُنَّ وَاحِدَةٌ بَعْدَهَا، وَفِي الْآخِرَى سِتُّ تَكْبِيرَاتٍ: مِنْهُنَّ تَكْبِيرَةٌ

لِلرَّكْعَةِ، وَمِنْهُنَّ خَمْسٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَوَاحِدَةٌ بَعْدَهَا " قُلْتُ لَهُ: إِنَّ يَوْسُفَ بْنَ مَاهَكَ، أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ

كَانَ لَا يُكْبِرُ إِلَّا أَرْبَعًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ سِوَاكَ يُكْبِرُ هُنَّ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ عَطَاءٌ: إِنَّ الَّذِي

أَحَدَتْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ هُوَ وَاللَّهُ اعْلَمُ مِنَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قُلْتُ: مَنْ؟ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ

* * * عطاء فرماتے ہیں: عید کے دن نماز میں تیرہ تکبیریں کہی جائیں گی آدمی قیام کی حالت میں یہ سب تکبیریں کہے گا

سات تکبیریں پہلی رکعت میں ہوں گی جن میں سے ایک تکبیر نماز کے آغاز کے لیے ہوگی اور ایک تکبیر رکوع میں جانے کے لیے ہوگی ان میں سے چھ تکبیریں تلاوت سے پہلے ہوں گے اور ایک تکبیر تلاوت کے بعد ہوگی جبکہ دوسری رکعت میں چھ تکبیریں کہی جائیں گی جن میں سے ایک تکبیر رکوع کے لیے ہوگی اور پانچ تکبیریں تلاوت سے پہلے ہوں گی اور ایک تکبیر تلاوت کے بعد ہوگی۔

ابن جریج کہتے ہیں: میں نے ان سے کہا: یوسف بن ماہک نے یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے مجھے یہ بتایا ہے کہ ہر رکعت میں چار تکبیریں کہی جائیں گی اور دونوں رکعت میں برابر کی تکبیریں کہی جائیں گی ہم نے یہ بات ان سے سنی ہے۔ تو عطاء نے جواب دیا: میں نے یہ روایت اس شخصیت سے حاصل کی ہے جو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سے زیادہ علم رکھتی ہے! باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے دریافت کیا: وہ شخصیت کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔

5677 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعًا، ثُمَّ قَرَأَ فَكَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ فِي الْأُخْرَى خَمْسًا، ثُمَّ قَرَأَ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ

*** عمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن پہلی رکعت میں سات تکبیریں کہتے تھے پھر آپ تلاوت کرتے تھے پھر آپ رکوع میں جانے والی تکبیر کہتے تھے پھر آپ دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں کہتے تھے پھر تلاوت کرتے تھے پھر تکبیر کہہ کے رکوع میں چلے جاتے تھے۔

5678 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَلِيٌّ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ وَالْإِسْتِسْقَاءِ سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْأُخْرَى، وَيُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ

*** امام جعفر صادق رضی اللہ عنہما اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ عید الاضحیٰ، عید الفطر اور نماز استسقاء میں پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں کہتے تھے وہ خطبہ دینے سے پہلے نماز ادا کرتے تھے اور بلند آواز میں تلاوت کرتے تھے۔

امام باقر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

5679 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كِنَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - أَحْسِبُهُ قَدْ بَلَغَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ سَبْعًا فِي الْأُولَى، وَخَمْسًا فِي الْأُخْرَى

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ آپ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز میں پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں کہا کرتے تھے۔

5680 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ يُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَعًا، وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ.

* * * نافع بیان کرتے ہیں: میں عید کی نماز میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں شریک ہوا تو انہوں نے پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں تلاوت سے پہلے کہی تھیں۔

5681 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ.

* * * یہ روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منقول ہے۔

5682 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ.

* * * یہ روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منقول ہے۔

5683 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: التَّكْبِيرُ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ

الْقِرَاءَةِ سَعًا وَخَمْسًا

* * * زہری فرماتے ہیں: عید کے دن تلاوت سے پہلے سات اور پانچ تکبیریں کہی جائیں گی۔

5684 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ، وَأَبِي الزِّنَادِ، وَعَبْدِ

اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرِهِمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى وَالْإِسْتِسْقَاءِ تَكْبِيرًا وَاحِدًا، سَعًا فِي الْأُولَى وَخَمْسًا فِي الْآخِرَى

* * * ابو بکر بن محمد بن ابو ہریرہ نے ربیعہ ابوزناد اور عبداللہ بن محمد اور دیگر راویوں کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ نبی

آرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر، عید الاضحیٰ اور نماز استسقاء میں ایک ہی جتنی تکبیریں کہتے تھے آپ پہلی رکعت میں سات اور دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں کہتے تھے۔

5685 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ

النَّحْعِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ سَعْدٍ، فِي الْأُولَى خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ بِتَكْبِيرَةِ الرَّكْعَةِ وَبِتَكْبِيرَةِ الْإِسْتِفْتَاكِحِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَى أَرْبَعَةَ تَكْبِيرَاتٍ الرَّكْعَةِ

* * * اسود بن یزید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ وہ پہلی رکعت میں پانچ

تکبیریں کہتے تھے جن میں سے ایک رکوع میں جانے کے لیے اور ایک تکبیر نماز کے آغاز کے لیے ہوتی تھی جبکہ دوسری رکعت میں چار تکبیریں کہتے تھے جن میں سے ایک تکبیر رکوع میں جانے کے لیے ہوتی تھی۔

5686 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ ابْنَ

مَسْعُودٍ "كَانَ يُكَبِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعًا تِسْعًا: أَرْبَعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، ثُمَّ كَبَّرَ فَرَكَعَ، وَفِي الثَّانِيَةِ يَقْرَأُ فَإِذَا فَرَغَ كَبَّرَ أَرْبَعًا، ثُمَّ رَكَعَ"

* * حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ دونوں عیدوں میں نو تکبیریں کہتے تھے چار تکبیریں تلاوت سے پہلے ہوتی تھیں پھر وہ تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے تھے پھر وہ دوسری رکعت میں تلاوت کرتے تھے جب وہ اُس سے فارغ ہوتے تھے تو چار تکبیریں کہتے تھے پھر رکوع میں جاتے تھے۔

5687 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ جَالِسًا وَعِنْدَهُ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ، فَسَأَلَهُمَا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فَجَعَلَ هَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا، وَهَذَا يَقُولُ: سَلْ هَذَا، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: سَلْ هَذَا - لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - فَسَأَلَهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: يُكَبِّرُ أَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيُرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ

* * ابو اسحاق نے علقمہ اور اسود بن یزید کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے ان کے پاس حضرت حذیفہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ سعید بن العاص نے ان سے نماز عید الفطر اور نماز عید الاضحیٰ میں تکبیر کہنے کے بارے میں دریافت کیا تو ان میں سے ہر صاحب نے یہی کہا کہ ان سے پوچھو! دوسرے نے کہا: ان سے پوچھو! تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے سعید سے کہا: تم ان سے پوچھو! یعنی حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھو۔ اُس نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تو حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: امام چار تکبیریں کہے گا پھر تلاوت کرے گا پھر تکبیر کہے گا رکوع میں چلا جائے گا پھر دوسری رکعت میں کھڑا ہو کر تلاوت کرے گا پھر تلاوت کرنے کے بعد چار تکبیریں کہے گا۔

5688 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، ذَكَرَ أَنَّ زِيَادًا، سَأَلَ مَسْرُوقًا عَنِ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ قَالَ: يُكَبِّرُ الْإِمَامُ وَاحِدَةً ثُمَّ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، ثُمَّ يَسْجُدُ، ثُمَّ يَقُومُ فِي الْآخِرَةِ فَيَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَاحِدَةً يَرْكَعُ بِهَا. قَالَ قَتَادَةُ: وَبَلَّغَنِي مِثْلَ هَذَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

* * قتادہ بیان کرتے ہیں: زیاد نے مسروق سے امام کے تکبیر کہنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: امام ایک جتنی تکبیریں کہے گا (پہلی رکعت میں) وہ چار تکبیریں کہے گا پھر تلاوت کرے گا پھر تکبیر کہے گا پھر سجدہ میں جائے گا پھر دوسری رکعت میں تلاوت کرے گا پھر تین تکبیریں کہے گا پھر وہ ایک تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے گا۔

قتادہ بیان کرتے ہیں: حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی اس کی مانند روایت مجھ تک پہنچی ہے۔

5689 - آثار صحابہ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَبَّرَ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ بِالْبَصْرَةِ تِسْعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَالْيَ بَيْنَ الْقِرَاءَتَيْنِ قَالَ: وَشَهِدْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فَعَلَ ذَلِكَ أَيْضًا. فَسَأَلْتُ خَالِدًا كَيْفَ فَعَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ؟ فَفَسَّرَ لَنَا كَمَا صَنَعَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَوَاءً

* * حضرت عبد اللہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ نماز میں شریک ہوا

انہوں نے بصرہ میں عید کی نماز میں نو تکبیریں کہیں۔ انہوں نے دو قراتوں کے درمیان یہ کہی تھیں، راوی کہتے ہیں: میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز میں شرکت کی تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، میں نے خالد سے دریافت کیا: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے کیسے کیا تھا؟ تو انہوں نے ہمارے سامنے وضاحت کی: جس طرح کا طرز عمل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اختیار کیا تھا، جس کا ذکر معمر اور سفیان ثوری کی ابواسحاق سے نقل کردہ روایت میں ہے۔

5690 - اقوال تابعین: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي الْأَضْحَى يَوْمَئِذٍ عَلَى أَهْلِ الْأَفَاقِ سُنَّةٌ مَسْنُونَةٌ فِي شَيْءٍ يَصْنَعُونَهُ؟ قَالَ: صَلَاةٌ وَاحِدَةٌ كَالْفِطْرِ، وَلَا تَجِبُ إِلَّا فِي جَمَاعَتِهَا رَكْعَتَانِ قَطُّ، وَذَبْحٌ إِنْ شَاءَ، وَقَالَ: حَقٌّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَحْضُرُواهَا كَمَا حَقَّ عَلَيْهِمْ حُضُورُ صَلَاةِ الْفِطْرِ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: عید الاضحیٰ کے دن تمام علاقہ کے رہنے والے لوگوں کے لیے کیا طریقہ مسنون ہے، جس پر وہ عمل کریں؟ تو انہوں نے فرمایا: یہ نماز ایک ہی طریقہ سے ادا کی جاتی ہے جس طرح نماز عید الفطر ادا کی جاتی ہے اور اس نماز میں صرف دو رکعت ادا کرنا فرض ہے اور قربانی کی جاتی ہے اگر آدمی چاہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگوں پر یہ بات لازم ہے کہ وہ اس نماز میں شرکت کریں جس طرح ان لوگوں پر یہ بات بھی لازم ہے کہ وہ نماز عید الفطر میں شرکت کریں۔

5691 - اقوال تابعین: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّ فِي الْأَضْحَى، عِنْدَهُمْ مِنَ التَّكْبِيرِ مِثْلَمَا يَكُونُ عِنْدَهُمْ فِي الْفِطْرِ

* * سلیمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں: علماء کے نزدیک عید الاضحیٰ کی نماز میں بھی اتنی ہی تکبیریں کہی جائیں گی جتنی تکبیریں ان کے نزدیک عید الفطر کی نماز میں کہی جائیں گی۔

5692 - اقوال تابعین: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّ فِي الْأَضْحَى عِنْدَهُمْ مَا فِي الْفِطْرِ

* * سلیمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں: علماء کے نزدیک عید الاضحیٰ کی نماز میں بھی اتنی ہی تکبیریں کہی جائیں گی جتنی عید الفطر میں کہی جائیں گی۔

5693 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِنِّي لَا أَكْرَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ التَّكْبِيرِ فِي يَوْمِ الْأَضْحَى مِثْلَمَا فِي يَوْمِ الْفِطْرِ، وَمَا بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ أَحَدٍ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء نے مجھ سے کہا: عید الاضحیٰ کی نماز کی دونوں رکعات میں میں اتنی تکبیروں کو مکروہ قرار نہیں دوں گا، جتنی تکبیریں عید الفطر میں کہی جاتی ہیں اور اس حوالے سے کسی سے بھی مجھ تک یہ روایت نہیں پہنچی ہے۔

5694 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: التَّكْبِيرُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَرْبَعًا، وَفِي الْآخِرَةِ ثَلَاثًا، فَالتَّكْبِيرُ سَبْعٌ سِوَى تَكْبِيرِ الصَّلَاةِ

*** حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: عید کے دن پہلی رکعت میں چار تکبیریں اور دوسری رکعت میں تین تکبیریں کہی جائیں گی تو یہ سات تکبیریں ہوں گی جو نماز کی تکبیروں کے علاوہ ہوں گی۔

5695 - احوال تابعین: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ:

سُنَّةُ الْأَضْحَى سُنَّةُ الْفِطْرِ إِلَّا الذَّبْحَ قَالَ: وَسَوَاءٌ فِي الْخُرُوجِ وَالْخُطْبَةِ وَالتَّكْبِيرِ إِلَّا الذَّبْحَ

*** عبد الکریم فرماتے ہیں: قربانی کے علاوہ عید الاضحیٰ کا طریقہ بھی وہی ہے جو عید الفطر کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں: (نماز کی ادائیگی کے لئے) نکلنے، خطبہ ہونے، تکبیر کہنے کے حوالے سے دونوں کا حکم برابر ہے، صرف قربانی کا معاملہ مختلف ہے۔

بَابُ كَمْ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ

باب: دو تکبیروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا؟

5696 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: يَقُومُ الْإِمَامُ فَيُكَبِّرُ لَا سِتْفَتَاحِ

الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَمُكُّ سَاعَةً يَدْعُو وَيَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ بَلَغَهُمْ قَوْلٌ مَعْلُومٌ وَلَا مِنْ دُعَاءٍ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ يَمُكُّ كَذَلِكَ سَاعَةً يَدْعُو فِي نَفْسِهِ وَيُكَبِّرُ، ثُمَّ كَذَلِكَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ سَاعَةً يَدْعُو وَيَذْكُرُ فِي نَفْسِهِ حَتَّى يُكَبِّرَ سِتًّا بِتَكْبِيرَةِ الْإِسْتِفْتَاكِحِ، ثُمَّ يَقْرَأُ، فَإِذَا خَتَمَ كَبَّرَ السَّابِعَةَ لِلرَّكْعَةِ، ثُمَّ قَامَ فِي الثَّانِيَةِ، فَإِذَا اسْتَوَى قَائِمًا كَبَّرَ ثُمَّ مَكَّتْ سَاعَةً يَدْعُو فِي نَفْسِهِ وَيَذْكُرُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ كَذَلِكَ حَتَّى يُكَبِّرَ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، فَإِذَا خَتَمَ كَبَّرَ السَّادِسَةَ فِتْلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً، كُلُّهُنَّ يُكَبِّرُ الْإِمَامُ وَهُوَ قَائِمٌ. قَالَ ذَلِكَ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا يُحْتَسَبُ فِي ذَلِكَ بِتَكْبِيرَةِ الشُّجُودِ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء نے مجھ سے کہا: امام کھڑا ہو کر نماز کے آغاز کے لیے تکبیر کہے گا، پھر وہ کچھ دیر ٹھہرا رہے گا اور پست آواز میں دعا کرے گا اور ذکر کرے گا، یوں صورت ہوگی کہ لوگوں تک کوئی متعین قول یا اس کی دعا کا کوئی حصہ یا کوئی اور چیز نہ پہنچے (یعنی اس کی آواز نہ جائے) پھر وہ دوسری مرتبہ تکبیر کہے گا، پھر وہ کچھ ٹھہرا رہے گا، اس دوران وہ پست آواز میں دعا کرے گا، پھر وہ تکبیر کہے گا، اسی طرح وہ ہر دو تکبیروں کے درمیان کچھ دیر کے لیے ٹھہر کر دعا کرے گا اور پست آواز میں ذکر کرے گا، یہاں تک کہ تکبیر تحریمہ سمیت جب وہ چھ تکبیریں کہہ دے گا، تو پھر وہ تلاوت شروع کرے گا، جب وہ تلاوت ختم کرے گا، تو رکوع میں جانے کے لیے ساتویں مرتبہ تکبیر کہے گا، پھر وہ دوسری رکعت میں کھڑا ہوگا تو جب وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا تو تکبیر کہے گا، پھر وہ تھوڑی دیر ٹھہرا رہے گا، جس میں وہ پست آواز میں دعا کرے گا اور ذکر کرے گا، پھر وہ دوسری تکبیر کہے گی، پھر اسی طرح وہ پانچ تکبیریں کہے گا جو تلاوت سے پہلے ہوں گی، جب وہ تلاوت ختم کر لے گا تو وہ (رکوع میں جانے کے لیے) چھٹی تکبیر کہے گا، یہ کل تیرہ تکبیریں ہو جائیں گی، امام یہ تمام تکبیریں قیام کی حالت میں کہے گا۔

انہوں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی کہ ان تکبیروں میں سجدہ میں جانے والی تکبیریں شامل نہیں ہوں گی۔

5697 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنْ

غُلَيْثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْأَسْوَدِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ قَدْرُ كَلِمَةٍ"

* * * حاتم اور اسود حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں: دو تکبیروں کے درمیان اتنا فرق ہوگا جتنی دیر میں کوئی کلمہ (پڑھا جاسکے)۔

5698 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ مِنْ تَهْلِيلٍ أَوْ تَسْبِيحٍ أَوْ حَمْدٍ،

يُقَالُ يَوْمَئِذٍ كَمَا يُقَالُ التَّكْبِيرُ، فَحَقُّ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ بَعْدَهَا أَوْ قَبْلَهَا أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي

* * * ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس دن جس طرح تکبیر کہی جاتی ہے اس طرح کیا لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا الحمد للہ بھی کہا جاسکتا ہے؟ اور کیا یہ بات لازم ہوگی کہ یہ کام نماز میں کیا جائے یا اس کے بعد کیا جائے یا اس سے پہلے کیا جائے یا منبر پر کیا جائے؟ تو انہوں نے جواب دیا: اس بارے میں مجھ تک کوئی روایت نہیں پہنچی ہے۔

بَابُ التَّكْبِيرِ بِالْيَدَيْنِ

باب: دونوں ہاتھوں کے ذریعہ تکبیر کہنا (یعنی تکبیر کہتے ہوئے رفع یدین کرنا)

5699 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَرْفَعُ الْإِمَامُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ هَذِهِ

التَّكْبِيرَةَ الزِّيَادَةَ فِي صَلَاةِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَيَرْفَعُ النَّاسُ أَيْضًا

* * * ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: عید الفطر کی نماز میں یہ اضافی تکبیریں کہتے ہوئے امام رفع یدین کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! اور لوگ بھی رفع یدین کریں گے۔

بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ

باب: عید کے دن نماز عید میں تلاوت کرنا

5700 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي الْقِرَاءَةِ فِي

الْعِيدَيْنِ تَسْمِعُ مَنْ يَلِيكَ

* * * حارث نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ عیدین کی نماز میں وہ اپنے پاس موجود لوگ تک آواز بلند پہنچاتے تھے (یعنی بلند آواز میں تلاوت کرتے تھے)۔

5701 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا

يَقُولُ: كَانَ يُقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ " قَالَ: وَلَا أَعْلَمُ إِلَّا ذِكْرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

* * * ابراہیم بن میسرہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے طاؤس کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ عید الفطر کے دن نماز میں سورہ

اقتربت الساعة کی تلاوت کی جاتی تھی۔ راوی کہتے ہیں: میرے علم کے مطابق طاؤس نے یہ بات نبی اکرم ﷺ کے ہوا سے ذکر کی تھی۔

5702 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ قِ وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ

* * طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ عید کے دن نماز عید میں سورۃ ق اور سورۃ اقتربت الساعة کی تلاوت کرتے تھے۔

5703 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُتْبَةَ يَقُولُ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي يَوْمِ عِيدِ فَسَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ: بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ؟ فَقَالَ: بِقَافٍ، وَاقْتَرَبَتِ

* * عبید اللہ بن عتبہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ عید کے دن تشریف لائے تو انہوں نے حضرت ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا: نبی اکرم ﷺ عید کے دن نماز میں کون سی سورت کی تلاوت کرتے تھے؟ ابو واقد نے جواب دیا: سورۃ ق اور سورۃ اقتربت کی۔

5704 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ يَوْمَ الْعِيدِ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ آتَاكَ:

* * عبد الملک بن عمیر بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ عید کے دن نماز عید میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کرتے تھے۔

5705 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الْأُخْرَى بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَهَلْ آتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

* * حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ عیدین میں پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورۃ الاعلیٰ کی اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کرتے تھے۔

5706 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَفِي الْعِيدَيْنِ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَهَلْ آتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

* * حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ جمعہ کے دن اور عیدین کی نمازوں میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کی تلاوت کرتے تھے۔

بَابُ وَجُوبِ صَلَاةِ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى

باب: عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا واجب ہونا

5707 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنِ عَلِيِّ قَالَ: مِنَ السَّنَةِ أَنْ

تَأْتِيَ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْعِيدِ

* * حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ بات سنت ہے کہ تم عید کے دن نماز عید ادا کرنے کے لیے آؤ۔

5708 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوَاجِبَةُ صَلَاةُ يَوْمِ الْفِطْرِ عَلَى النَّاسِ

أَجْمَعِينَ؟ قَالَ: لَا، إِلَّا فِي الْجَمَاعَةِ قَالَ: مَا الْجُمُعَةُ بَأَنْ يُوتَى أَوْجِبُ بِذَلِكَ مِنْهَا إِلَّا فِي الْجَمَاعَةِ فَكَيْفَ فِي الْفِطْرِ؟ قَالَ عَطَاءٌ: لَا يَتِمَّانِ أَرْبَعًا فِي جَمَاعَةٍ وَلَا غَيْرِهَا قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَقُّ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ أَنْ يَحْضُرُوا صَلَاةَ الْفِطْرِ كَمَا حَقَّ عَلَيْهِمْ حُضُورُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ذَلِكَ تَتْرَى وَقَدْ كَانَ لِي مَرَّةً أُخْرَى قَبْلَ هَذِهِ: حَقَّ ذَلِكَ، فَأَمَّا كَحَقِّ الْجُمُعَةِ فَلَا، أَمْرًا بِالْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَعْظَمَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، هُوَ أَعْظَمُ الْأَيَّامِ كُلِّهَا، أَعْظَمُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، وَقَدْ بَلَّغْنَا أَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ لَا بَرٌّ وَلَا بَحْرٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا حَجَرٌ إِلَّا وَهُوَ لَا يَزَالُ يَدْعُو يَوْمَئِذٍ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ إِلَّا الثَّقَلَانِ الْجَنِّ وَالْإِنْسَ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا عید الفطر کے دن نماز عید ادا کرنا سب لوگوں پر

واجب ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! صرف باجماعت ادا کی جاسکتی ہے۔ ابن جریج نے دریافت کیا: پھر کیا وجہ ہے کہ جمعہ میں شریک ہونا اس کے مقابلہ میں زیادہ واجب ہے البتہ جماعت کا حکم مختلف ہے تو عید الفطر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہو گی؟ عطاء کہتے ہیں: وہ جماعت کے ساتھ یا جماعت کے بغیر چار رکعات مکمل ادا نہیں کرے گا! ابن جریج کہتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا بستی کے رہنے والوں پر یہ بات لازم ہے کہ وہ عید الفطر کی نماز میں شریک ہوں جس طرح ان پر یہ لازم ہے کہ وہ جمعہ کے دن (جمعہ کی نماز میں) شریک ہوں؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! ابن جریج نے کہا: یہ تو آپ اب کہہ رہے ہیں! حالانکہ اس سے پہلے وہ یہ بات کہہ چکے تھے کہ یہ بات لازم ہے لیکن یہ جمعہ کی طرح لازم نہیں ہے لوگوں کو جمعہ کی ادائیگی کا حکم دیا گیا ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ جمعہ کے دن سے زیادہ عظیم دن اور کوئی نہیں ہے وہ تمام دنوں میں سب سے زیادہ عظمت والا ہے وہ عرفہ کے دن اور عید الفطر کے دن سے بھی زیادہ عظمت رکھتا ہے اور ہم تک یہ روایت بھی پہنچی ہے کہ خشکی اور سمندر درخت اور پتھر اس (جمعہ کے) دن میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سورج طلوع ہونے کے وقت دعا نہ کرتی ہو (کیونکہ انہیں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں آج قیامت نہ آجائے) صرف دو فریقوں کا معاملہ مختلف ہے جنات اور انسانوں کا۔

5709 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ قَالَ: "مَا رَأَيْتُ الْجُمُعَةَ إِلَّا أَوْجِبَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْفِطْرِ،

يَقُولُونَ: هَذِهِ فَرِيضَةٌ، وَهَذِهِ سُنَّةٌ"

*** معمر فرماتے ہیں: میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمعہ جن لوگوں پر لازم ہوتا ہے ان پر عید الفطر کی نماز بھی واجب ہوتی ہے تاہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ (جمعہ) فرض ہے اور وہ (عید) سنت ہے۔

5710 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَ: صَلَاةُ الْأَضْحَى مِثْلُ صَلَاةِ

الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ

*** زہری اور قتادہ بیان کرتے ہیں: عید الاضحیٰ کی نماز عید الفطر کی طرح ہوتی ہے یہ دونوں دو دو رکعت ادا کی جاتی ہیں۔

بَابُ مَنْ صَلَّى غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ وَمَنْ فَاتَهُ الْعِيدَانِ

باب: جو شخص وضو کیے بغیر یہ نماز ادا کر لے گا یا جس کی عیدین کی نماز فوت ہو جائے

5711 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفِطْرِ غَيْرَ

مُتَوَضِّئٍ فَذَكَرْتُ بَعْدَ مَا فَرَغَ الْإِمَامُ؟ قَالَ: تُعِيدُهَا. وَقَالَ لِي ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میں بے

وضو حالت میں عید الفطر کی نماز ادا کر لیتا ہوں اور امام کے فارغ ہونے کے بعد مجھے یہ بات یاد آتی ہے (کہ میں نے وضو کیا ہی نہیں تھا)؟ تو عطاء نے فرمایا: تم اس نماز کو دہراؤ گے۔ عمرو بن دینار نے بھی مجھے یہی بات کہی تھی۔

5712 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَكْرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا خَشِيتَ فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ

تَفُوتَكَ الصَّلَاةُ وَأَنْتَ حَاقِنٌ قَبْلَ ثُمَّ تَيْمَمُ

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جب تمہیں عیدین کی نماز میں یہ اندیشہ ہو کہ تمہاری نماز رہ جائے گی اور تم اس وقت

پیشاب کو روکے ہوئے ہو تو تم پیشاب کر لو اور پھر تیمم کر کے (نماز ادا کر لو)۔

5713 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ فَاتَهُ

الْعِيدَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا

*** امام شعبی بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جس شخص کی عید کی نماز فوت ہو جائے وہ چار رکعات

ادا کرے۔

5714 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْعِيدِ قَالَ: يُصَلِّي مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ

يَقْضِي الرَّكْعَةَ الَّتِي فَاتَتْهُ، وَيُكَبِّرُ كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ وَلَوْ وَجَدَ الْإِمَامَ يَقْرَأُ كَبْرًا كَمَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ

*** سفیان ثوری ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جس کی عید کی نماز کی ایک رکعت رہ جاتی ہے وہ یہ فرماتے ہیں:

وہ امام کے ساتھ نماز ادا کرے گا پھر اس ایک رکعت کو قضاء کرے گا جو پہلے گزر گئی تھی اور وہ اسی طرح تکبیر کہے گا جس طرح امام نے تکبیر کہی تھی اور اگر وہ امام کو تلاوت کرتے ہوئے پاتا ہے تو اسی طرح تکبیر کہے گا جس طرح امام نے تکبیر کہی تھی۔

5715 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ مَعَ

الْإِمَامِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ تَكْبِيرٌ

* * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جس شخص کی عید کی نماز امام کے ساتھ رہ گئی ہو تو اس پر تکبیر کہنا لازم نہیں ہوگا۔

5716 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْفِطْرِ صَلَّى كَمَا

يُصَلِّي الْإِمَامُ. قَالَ مَعْمَرٌ: إِنْ فَاتَتْ إِنْسَانًا الْخُطْبَةُ أَوْ الصَّلَاةُ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ أَضْحَى ثُمَّ حَضَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ

* * قتادہ فرماتے ہیں: جس شخص کی عید الفطر کے دن نماز عید رہ جائے تو وہ اسے اسی طرح ادا کرے گا جس طرح امام

نے ادا کی تھی۔

معمر بیان کرتے ہیں: اگر کسی شخص کا عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن خطبہ یا نماز عید رہ جائے اور وہ اس کے بعد وہاں آئے تو وہ

دو رکعت ادا کر لے۔

بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ فِي الْقُرَى الصَّغَارِ

باب: چھوٹی بستیوں میں عیدین کی نماز ادا کرنا

5717 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُرَى غَرَبِيَّةٍ، فَذَكَ وَبَنَعَ وَنَحْوَهَا مِنَ الْقُرَى عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ مِنَ الْمَدِينَةِ أَنْ يَجْمَعُوا وَأَنْ يُصَلُّوا الْعِيدَيْنِ

* * زہری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے دور دراز کی بستیوں کی طرف لوگوں کو بھجوایا جیسے فدک ہے، بنیع ہے یا

اس طرح کی دیگر بستیاں ہیں جو مدینہ منورہ سے تین دن کے فاصلہ پر ہیں (نبی اکرم ﷺ نے یہ پیغام بھجوایا) کہ وہ لوگ جمعہ قائم کریں اور وہ لوگ عیدین کی نماز ادا کریں۔

5718 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: كَانَ

أَبُو عِيَاضٍ وَمُجَاهِدٌ مُتَوَارِيَيْنِ زَمَنَ الْحَجَّاجِ، وَكَانَ يَوْمَ فِطْرٍ فَكَلِمَ أَبُو عِيَاضٍ وَدَعَا لَهُمْ وَأَمَّهُمْ بِرَكْعَتَيْنِ. قَالَ: وَأَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ

* * حکم بن عتبہ بیان کرتے ہیں: ابو عیاض اور مجاہد حجج کے زمانہ میں پوشیدہ طور پر رہے تھے عید الفطر کا دن آیا

ابو عیاض سے اس بارے میں بات کی گئی تو انہوں نے لوگوں کو بلوایا اور انہیں دو رکعت پڑھائیں۔

راوی بیان کرتے ہیں: شعبہ نے عکرمہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: وہ بھی یہی رائے رکھتے تھے۔

5719 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا جُمُعَةَ وَلَا

تَشْرِيقَ إِلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: يَعْنِي بِالتَّشْرِيقِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى الْخُرُوجَ إِلَى الْجَبَانَةِ

* * * حارث نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے: جمعہ اور تشریق صرف کسی جامع شہر میں ادا کیے جاسکتے ہیں۔

معمر بیان کرتے ہیں: تشریق سے مراد عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ”جبانہ“ (نامی جگہ کی طرف) جانا ہے (یعنی نماز عید کی ادائیگی کے لیے جانا ہے)۔

5720 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ صَلَاةُ الْأَضْحَى وَلَا

صَلَاةُ الْفِطْرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مِصْرٍ أَوْ قَرْيَةٍ فَيَشْهَدُ مَعَهُمُ الصَّلَاةَ

* * * زہری فرماتے ہیں: مسافر شخص پر عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنا لازم نہیں ہے، البتہ اگر وہ کسی شہر یا بستی میں موجود ہو تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک ہوگا۔

بَابُ خُرُوجِ النِّسَاءِ فِي الصَّلَاةِ

باب: نماز عید کے لیے خواتین کا جانا

5721 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، أَنَّ امْرَأَةً نَدَّتْهَا

قَالَتْ: غَزَا زَوْجِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ غَزْوَةً، فَخَرَجْتُ مَعَهُ فِي خَمْسٍ مِنْهُنَّ، فَكُنَّا نَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى، وَنُدَاوِي الْكَلْمَى، وَأَمْرُنَا فِي الْعِيدَيْنِ أَنْ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ أَنْ يُلْبِسَهَا صَاحِبَتُهَا مَعَهَا مِنْ جِلْبَابِهَا قَالَتْ حَفْصَةُ: " فَقَدِمْتُ عَلَيْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ يَا بِي هُوَ وَأُمِّي أَمْرُنَا أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدَيْنِ الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ وَالْحَيْضَ قَالَتْ: فَأَمَّا الْحَيْضُ فَيَعْتَزِلْنَ الْمُصَلِّي وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ.

* * * حفصہ بنت سیرین بیان کرتی ہیں: ایک خاتون نے انہیں یہ بتایا: میرے شوہر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بارہ غزوات میں شرکت کی ہے جن میں سے پانچ غزوات میں میں بھی شریک ہوئی ہوں، ہم خواتین بیماروں کی دیکھ بھال کرتی تھیں زخمیوں کو دوا دیا کرتی تھیں، عیدین کے موقع پر ہم خواتین کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ جس عورت کے پاس بڑی چادر نہ ہو اس کی پہلی اپنی چادر اسے بھی اوڑھنے کے لیے دیدے اور وہ دونوں ایک چادر میں آجائیں۔

حفصہ بنت سیرین بیان کرتی ہیں: ایک مرتبہ سیدہ ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا ہمارے ہاں آئیں، میں نے ان کے سامنے یہ بات ذکر کی تو انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میرے ماں باپ ان پر قربان ہوں! (یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں!) آپ ہمیں یہ حکم دیتے تھے کہ ہم عیدین کے موقع پر جوان پردہ دار حیض والی خواتین کو بھی ساتھ لے کے جائیں۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے بتایا: جہاں تک حیض والی خواتین کا تعلق ہے تو وہ نماز سے الگ رہتی تھیں، البتہ بھلائی میں اور مسلمانوں کی اجتماعی دعا میں شریک ہوتی تھیں۔

5722 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ مِثْلَهُ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حفصہ بنت سیرین سے منقول ہے۔

5723 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَتْ امْرَأَةٌ

عَلْقَمَةَ جَلِيلَةَ، وَكَانَتْ تَخْرُجُ فِي الْعِيدَيْنِ

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: علقمہ کی اہلیہ بڑی جلیل القدر تھیں، لیکن وہ عیدین کے موقع پر تشریف لے جاتی تھیں۔

5724 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبيدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ لَا يُخْرِجُ نِسَاءً فِي الْعِيدِ

*** عبید اللہ بن عمر نے نافع کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: وہ عید کے موقع پر اپنی خواتین کو (عید گاہ) لے جایا

کرتے تھے۔

بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِيدَيْنِ

باب: عیدین کا اجتماع (یعنی جمعہ کے دن عید ہونا)

5725 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ الْفِطْرِ

فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَلْيَجْمَعُهُمَا فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ قَطُّ حَيْثُ يُصَلِّي صَلَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ هِيَ حَتَّى الْعَصْرِ ثُمَّ أَخْبَرَنِي

عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ: "اجْتَمَعَ يَوْمُ فِطْرِ وَيَوْمُ جُمُعَةٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فِي زَمَانِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: عِيدَانِ

اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَجَمَعَهُمَا جَمِيعًا بِجَعْلِهِمَا وَاحِدًا، وَصَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ بَكْرَةَ صَلَاةِ الْفِطْرِ، ثُمَّ

لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ." قَالَ: فَأَمَّا الْفُقَهَاءُ فَلَمْ يَقُولُوا فِي ذَلِكَ، وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَفْقَهُ فَانْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ.

قَالَ: وَلَقَدْ انْكَرْتُ أَنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ وَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ يَوْمَئِذٍ. قَالَ: حَتَّى بَلَغْنَا بَعْدَ أَنَّ الْعِيدَيْنِ كَانَا إِذَا اجْتَمَعَا

كَذَلِكَ صُلْيَا وَاحِدَةً، وَذَكَرَ ذَلِكَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ أَخْبَرَ أَنَّهُمَا كَانَا يَجْمَعَانِ إِذَا اجْتَمَعَا. قَالَا: إِنَّهُ

وَجَدَهُ فِي كِتَابِ لِعَلِيِّ، زَعَمَ

*** عطاء فرماتے ہیں: اگر جمعہ کا دن اور عید الفطر کا دن ایک ہی دن میں آجائیں تو آدمی ان دونوں نمازوں کو جمع کر

لے گا اور وہ صرف دو رکعت ادا کرے گا، اُس وقت جب وہ نماز عید الفطر ادا کرے گا پھر وہ ایسے ہی رہے گا یہاں تک کہ عصر کا وقت

آجائے۔ اُس موقع پر انہوں نے یہ بات بتائی کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے زمانہ میں عید الفطر اور جمعہ کا دن ایک

ہی دن آگئے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ایک ہی دن میں دو عیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما

نے ان دونوں کو ملایا اور ان دونوں کو ایک ہی قرار دیا، پھر انہوں نے دن کے وقت جمعہ کے دن عید الفطر کی نماز ادا کی اور پھر عصر کی

نماز تک مزید کوئی اور نماز ادا نہیں کی۔

راوی بیان کرتے ہیں: جہاں تک فقہاء کا تعلق ہے تو وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں اور جہاں تک اُس شخص کا تعلق ہے جو سمجھ

بوجھ نہیں رکھتا وہ اس کا انکار کرتا ہے۔

عطاء نے یہ بھی کہا: میں خود اس بات کا انکار کرتا ہوں اور میں اُس دن میں ظہر کی نماز بھی ادا کروں گا۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ بعد میں مجھ تک یہ روایت پہنچی کہ جب دو عیدیں اکٹھی ہو جائیں تو اسی طرح ایک مرتبہ نماز ادا کی جائے گی۔

پھر یہ بات امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ذکر کی گئی کہ انہوں نے یہ بات بتائی ہے: جب دو عیدیں اکٹھی ہو جائیں تو ان دونوں کو جمع کر لیا جائے گا ان دونوں حضرات کا یہ کہنا تھا: یہ بات حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تحریر میں موجود ہے۔

5726 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، فِي جَمْعِ ابْنِ الزُّبَيْرِ بَيْنَهُمَا يَوْمَ جَمَعَ بَيْنَهُمَا قَالَ: سَمِعْنَا ذَلِكَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: أَصَابَ عِيدَانِ اجْتِمَاعًا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ

*** ابو زبیر نے حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے دونوں عیدوں کو ایک ساتھ جمع کرنے کے بارے میں یہ فرمایا ہے: کہ ہم نے یہ بات سن رکھی ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جب دو عیدیں ایک ہی دن میں اکٹھی ہو گئیں تو انہوں نے ٹھیک کیا۔

5727 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُجْزِئُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَنِ

صَاحِبِهِ

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: ان دونوں میں سے ایک (نماز) دوسری کی جگہ کفایت کر جائے گی۔

5728 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ذُكْوَانَ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلِيٍّ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَرٌّ وَجُمُعَةٌ - أَوْ أَضْحَى وَجُمُعَةٌ - قَالَ: فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّكُمْ قَدْ أَصَبْتُمْ ذِكْرًا وَخَيْرًا، وَأَنَا مُجْتَمِعُونَ، مَنْ أَرَادَ أَنْ يُجْمِعَ فَلْيُجْمِعْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ

*** ذکوان بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں دو عیدیں اکٹھی ہو گئیں، یعنی عید الفطر اور جمعہ کا دن یا شاید عید الاضحیٰ اور جمعہ کا دن۔ راوی بیان کرتے ہیں: تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے ارشاد فرمایا: تم نے ذکر بھی کیا اور بھلائی میں بھی شریک ہوئے، ہم جمعہ ادا کریں گے جو شخص جمعہ ادا کرنا چاہتا ہو وہ جمعہ ادا کرے اور جو شخص بیٹھنا چاہتا ہو وہ بیٹھا رہے۔ (یعنی اپنے گھر میں بیٹھا رہے)

5729 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَمَعَ فِي زَمَانِهِ يَوْمَ جُمُعَةٍ وَيَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ جُمُعَةٍ وَأَضْحَى فَصَلَّى بِالنَّاسِ الْعِيدَ الْأَوَّلَ ثُمَّ خَطَبَ فَأَذِنَ لِلْأَنْصَارِ فِي الرَّجُوعِ إِلَى الْعَوَالِي وَتَرَكَ الْجُمُعَةَ، فَلَمْ يَزَلِ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ بَعْدُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَحَدَّثْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَنْ أَبِي صَالِحِ الزِّيَّاتِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَمَعَ فِي زَمَانِهِ يَوْمَ جُمُعَةٍ وَيَوْمَ فِطْرٍ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمٌ قَدْ اجْتَمَعَ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أَحَبَّ فَلْيَنْقَلِبْ،

وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ فَلْيَنْتَظِرْ

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: بعض اہل مدینہ نے مجھے کئی حضرات کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جمعہ کا دن اور عید الفطر کا دن یا شاید جمعہ کا دن اور عید الاضحیٰ کا دن اکٹھے ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عید کی نماز پڑھائی پھر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے انصار کو اس بات کی اجازت دی کہ وہ اپنے نواحی علاقوں کی طرف واپس چلے جائیں اور جمعہ ترک کر دیں اس کے بعد ہمیشہ یہی معمول رہا۔

ابن جریر بیان کرتے ہیں: عمر بن عبدالعزیز اور ابوصالح زیات کے حوالے سے مجھے یہ بات بتائی گئی ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں جمعہ کا دن اور عید الفطر کا دن اکٹھے آ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آج ایک ایسا دن ہے جس میں دو عیدیں اکٹھی ہو گئی ہیں تو جو شخص واپس جانا چاہتا ہو (وہ چلا جائے) اور جو شخص انتظار کرنا چاہتا ہو وہ انتظار کرے۔

5730 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا اجْتَمَعَا وَعَلِيٌّ بِالْكُوفَةِ فَصَلَّى ثُمَّ صَلَّى الْجُمُعَةَ، وَقَالَ حِينَ صَلَّى الْفِطْرَ: مَنْ كَانَ هَاهُنَا فَقَدْ آذِنَا لَهُ كَأَنَّهُ لِمَنْ حَوْلَهُ يُرِيدُ الْجُمُعَةَ

* * امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ یہ دونوں عیدیں ایک دن میں اکٹھی ہو گئیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دنوں کوفہ میں تھے تو انہوں نے پہلے عید کی نماز ادا کی اور پھر جمعہ کی نماز ادا کی جب انہوں نے عید الفطر کی نماز ادا کر لی تو پھر یہ فرمایا: جو بھی شخص یہاں موجود ہے ہم اسے اجازت دیتے ہیں ان کی مراد یہ تھی کہ جو لوگ آس پاس کے علاقوں سے آئے ہوئے ہیں اور جمعہ پڑھنے کا ارادہ رکھتے تھے (وہ اگر جانا چاہیں تو چلے جائیں)۔

5731 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنِ عَلِيِّ قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ فِي يَوْمٍ، فَقَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يُجْمَعَ فَلْيُجْمَعْ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ. قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي يَجْلِسُ فِي بَيْتِهِ

* * حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے: ایک مرتبہ (ان کے عہد خلافت میں) ایک ہی دن میں دو عیدیں اکٹھی ہو گئیں (یعنی جمعہ کے دن عید آ گئی) تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو شخص ان دونوں کو جمع کرنا چاہے وہ ان دونوں کو جمع کر لے (یعنی بعد میں جمعہ کی نماز بھی ادا کرے) اور جو شخص بیٹھا رہنا چاہے وہ بیٹھا رہے۔ سفیان کہتے ہیں: یعنی وہ شخص اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔

5732 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَاجْتَمَعَ فِطْرٌ وَجُمُعَةٌ، فَخَطَبَ عُثْمَانُ النَّاسَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَيْنِ الْعِيدَيْنِ قَدْ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَاحْبَبْ أَنْ يَمُكَّتْ حَتَّى يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ قَدْ آذِنَا لَهُ

* * ابو عبید جو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں وہ بیان کرتے ہیں: میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھا، عید الفطر اور جمعہ کا دن اکٹھا آ گیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نماز کے بعد لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: یہ دونوں عیدیں ایک ہی دن میں اکٹھی ہو گئی ہیں، تو نواحی علاقوں سے تعلق رکھنے والا جو شخص یہ چاہے کہ وہ ٹھہر جائے، تاکہ جمعہ میں شریک ہو، اور جو شخص واپس جانا چاہے تو ہم اسے اجازت دیتے ہیں۔

5733 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ صَلَّى فِي أَوَّلِ النَّهَارِ الْعِيدَ وَصَلَّى فِي آخِرِ النَّهَارِ الْجُمُعَةَ

* * معمر نے اپنے ساتھی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک ہی دن میں دو عیدیں اکٹھی ہو گئیں، تو انہوں نے دن کے ابتدائی حصہ میں عید کی نماز ادا کی اور دن کے آخری حصہ میں جمعہ کی نماز ادا کی۔

بَابُ الْأَكْلِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

باب: نماز سے پہلے کچھ کھانا

5734 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ: إِنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنْ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا يَغْدُوَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ فَلْيَفْعَلْ قَالَ: فَلَمْ أَدْعُ أَنْ أَكُلَ قَبْلَ أَنْ أَغْدُوَ مِنْذُ سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَكُلُ مِنْ طَرَفِ الصَّرِيفَةِ، قُلْنَا لَهُ: مَا الصَّرِيفَةُ؟ قَالَ: حُبْرُ الرَّقَاقِ الْأَكْلَةُ، أَوْ أَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ أَوْ النَّبِيدِ أَوْ الْمَاءِ، قُلْتُ: فَعَلَامَ تُؤْوِلُ هَذَا؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ قَالَ: أَظُنُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانُوا لَا يَخْرُجُونَ حَتَّى يَمْتَدَّ الضُّحَى، فَيَقُولُونَ نَطْعَمُ لِأَنَّ لَا نَعَجَلُ عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ: وَرَبَّمَا غَدَوْتُ وَلَمْ أَذُقْ إِلَّا الْمَاءَ، ابْنُ عَبَّاسٍ الْقَائِلُ

* * عطاء بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: اگر تم نے ہو سکے تو عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھا کر جاؤ۔

وہ (یعنی عطاء) یہ فرماتے ہیں: جب سے میں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی زبانی یہ بات سنی ہے تب سے میں نے کبھی یہ بات ترک نہیں کی کہ نماز عید کے لیے جانے سے پہلے کچھ کھا لو یہاں تک کہ میں صریفہ کا کنارہ کھا لیتا ہوں۔ ہم نے ان سے دریافت کیا: صریفہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: پتلی روٹی ہوتی ہے یا پھر میں دودھ پی لیتا ہوں، نمید پی لیتا ہوں یا پانی لیتا ہوں۔ میں نے دریافت کیا: آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا: میں نے انہیں یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے اور میرا خیال ہے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں صحابہ کرام اس وقت تک (نماز عید کی ادائیگی کے لیے) نہیں جاتے تھے جب تک دن چڑھ نہیں جاتا تھا، وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم کچھ کھا لیتے ہیں، تاکہ ہم نماز کے حوالے سے جلدی نہ کریں۔

وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بعض اوقات میں چلا جاتا ہوں اور میں نے صرف پانی پیا ہوتا ہے۔ (راوی کہتے ہیں:) یہ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔

5735 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: كَانَ يُؤْمَرُ الْإِنْسَانُ أَنْ يَأْكُلَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ الْإِمَامُ إِلَى الْمُصَلَّى. قَالَ مَعْمَرٌ: فَكَانَ الزُّهْرِيُّ يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ، وَلَا يَأْكُلُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَنْحَرُوا

*** سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں: پہلے آدمی کو یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ عید الفطر کے دن امام کے عید گاہ آنے سے پہلے کچھ کھالے۔

معمر بیان کرتے ہیں: زہری عید الفطر کے دن (نماز عید کی ادائیگی کے لیے) جانے سے پہلے کچھ کھا لیتے تھے البتہ وہ قربانی کے دن اُس وقت تک کچھ نہیں کھاتے تھے جب تک لوگ قربانی نہیں کر لیتے تھے۔

5736 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَكَانَ يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ

*** ہشام بن عروہ اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں: وہ عید الفطر کے دن (نماز عید کے لیے) جانے سے پہلے کچھ کھا لیتے تھے۔

5737 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ - أَوْ عَمَّنْ، سَمِعَ عَلِيًّا - أَنَا أَشْكُ - عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ "

*** حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ عید الفطر کے دن اُس وقت تک روانہ نہیں ہوتے تھے جب تک کچھ کھا نہیں لیتے تھے اور وہ ایسا کرنے کا حکم بھی دیتے تھے۔

5738 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَأْكُلُوا يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى

*** امام ابو حنیفہ نے ابراہیم نخعی کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: پہلے لوگ اس بات کو مستحب سمجھتے تھے کہ وہ عید الفطر کے دن عید گاہ کی طرف جانے سے پہلے کچھ کھالیں۔

5739 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَيْسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: "رَأَيْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَوْمَ الْفِطْرِ وَنَحْنُ مَعَهُ، وَاجْتَمَعَ إِلَيْهِ جِيرَانُهُ فَخَرَجَ وَفِي يَدِهِ رَغِيفٌ فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ كِسْرَةً فَآكَلَهَا، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمَسْجِدِ - أَوْ قَالَ: إِلَى الْمُصَلَّى - "

*** عیسیٰ بن ابو عزہ بیان کرتے ہیں: میں نے امام عامر شعبی کو عید الفطر کے دن دیکھا، ہم اُن کے ساتھ تھے اُن کے پڑوسی اُن کے گھر اکٹھے ہوئے وہ باہر آئے تو اُن کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا، اُنہوں نے ہر شخص کو کوئی نہ کوئی ٹکڑا دیا، جسے اُس نے

کھالیا پھر وہ مسجد کی طرف گئے۔ (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) عید گاہ کی طرف گئے۔

5740 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ مِنَ الْمَسْجِدِ قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ أَكَلَ شَيْئًا

* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید الفطر کے دن (عید گاہ کی طرف) مسجد سے ہی روانہ ہو جاتے تھے اور میرے علم کے مطابق انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہوتا تھا۔

5741 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَأْكُلُونَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجُوا

* * حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: پہلے لوگ عید الفطر کے دن (نماز عید کے لیے) نکلنے سے پہلے کچھ کھالیتے تھے۔

5742 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا تَأْكُلُوا قَبْلَ أَنْ تَخْرُجُوا يَوْمَ الْفِطْرِ إِنْ شِئْتُمْ

* * علقمہ اور اسود نے یہ بات نقل کی ہے: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: تم لوگ اگر چاہو تو عید الفطر کے دن نکلنے سے پہلے کچھ نہ کھاؤ۔

5743 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْكُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ " * * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید الفطر کے دن (نماز عید کے لیے جانے سے پہلے) کچھ نہیں کھاتے تھے۔

بَابُ الْإِسْتِنَانِ

باب: مسواک کرنا

5744 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ، أَنَّهُ قَالَ: السِّوَاكُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ

* * سعید بن مسیب فرماتے ہیں: جمعہ کے دن مسواک کرنا سنت ہے۔

5745 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: ذَاكَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَوْمَ نَزُولِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنِ الْمُنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَقَوْلُهُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي نَسِيتُ السِّوَاكَ، فَنَزَلَ فَاسْتَنَّ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمُنْبَرِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَا إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ فِي السِّوَاكِ يَوْمَ الْعِيدِ كَهَيْئَتِهِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ، وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ، أَنَّهُ قَالَ: السِّوَاكُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ

* * ابو بکر بن عبد اللہ بن ابوسبرہ نے اپنے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے: میں عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ اس بارے میں بات چیت کر رہا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب جمعہ کے دن منبر سے نیچے اتر آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا تھا: اے لوگو! میں مسواک کرنا بھول گیا تھا پھر وہ منبر سے نیچے آئے انہوں نے مسواک کی پھر وہ واپس منبر پر گئے۔ تو اس واقعہ کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز نے یہ کہا: عید کے دن مسواک کرنا بھی اسی طرح سنت ہے جس طرح جمعہ کے دن مسواک کرنا سنت ہے۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: سعید بن مسیب یہ فرماتے ہیں: عید کے دن مسواک کرنا سنت ہے۔

5746 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْإِسْتِنَانُ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ؟ قَالَ: "لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ كَانَ يُؤْمَرُ بِهِ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُحْصَى، وَلَكِنَّهُ بَلَّغَنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَوْلَا أَنِ اشُقَّ عَلَيَّ أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ لِكُلِّ صَلَاةٍ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: عید الفطر کے دن مسواک کرنے کا حکم کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اس بارے میں مجھ تک کوئی روایت نہیں پہنچی ہے کہ عید الفطر کے دن مسواک کرنے کا حکم دیا گیا ہو اور اسے عید الفطر کے دن کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہو تاہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ روایت مجھ تک پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”اگر مجھے اپنی امت کے مشقت کا شکار ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔“

بَابُ الْإِغْتِسَالِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ

باب: عید کے دن غسل کرنا

5747 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُو

* * علقمہ بیان کرتے ہیں: عید الفطر کے دن روانگی سے پہلے غسل کیا جائے گا۔

5748 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْإِغْتِسَالِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَقُولُ: لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَكِنَّهُ حَسَنٌ مُسْتَحَبٌّ

* * قتادہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ عید الفطر کے دن غسل کرنے کا حکم دیتے تھے اور یہ فرماتے تھے: یہ واجب نہیں ہے لیکن عمدہ اور مستحب ہے۔

5749 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: الْإِغْتِسَالُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَسَنٌ لِأَنَّهُ يَوْمٌ عِيدٍ،

وَلَسْتُ أَنْ أَدَّعِ أَنْ أَعْتَسِلَ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ قُلْتُ: أَفِيْتَحَرَّى الْغُسْلُ فِيهِ كَمَا يُتَحَرَّى الْغُسْلُ فِي الْجَنَابَةِ؟ قَالَ: لَا
 * * ابن جریج بیان کرتے ہیں: عید الفطر کے دن غسل کرنا اچھی بات ہے، کیونکہ یہ عید کا دن ہے اور میں عید الفطر کے
 دن غسل کرنے کو ترک نہیں کروں گا۔ میں نے دریافت کیا: کیا عید الفطر کے دن بھی اسی طرح اہتمام کے ساتھ غسل کیا جائے گا؟
 جس طرح غسل جنابت اہتمام کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

5750 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ،
 وَنَضْرَةَ قَالُوا: الْغُسْلُ فِي يَوْمِ الْعِيدَيْنِ سُنَّةٌ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيْبِ: كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ
 * * عمرو بن سلیم نے سعید بن مسیب اور نضرہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: لوگ یہ کہتے ہیں: عیدین کے موقع پر
 غسل کرنا سنت ہے، براوی یہ بھی بیان کرتے ہیں: سعید بن مسیب فرماتے ہیں: یہ غسل جنابت کی طرح ہوگا۔

5751 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ
 يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى قَبْلَ أَنْ يَغْدُو
 * * امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اپنے والد (امام محمد باقر رضی اللہ عنہ) کا یہ بیان نقل کیا ہے: حضرت علی رضی اللہ عنہ عید الفطر اور عید الاضحی
 کے دن (نماز عید کے لیے) روانگی سے پہلے غسل کرتے تھے۔

5752 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ
 مِثْلَهُ، وَزَادَ وَيَتَطَيَّبُ
 * * نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں بھی اس کی مانند روایت نقل کی ہے اور یہ الفاظ زائد نقل کیے ہیں:
 وہ خوشبو لگاتے تھے۔

5753 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُو.
 قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَنَا أَفْعَلُهُ
 * * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید الفطر کے دن روانگی سے پہلے غسل کرتے تھے۔
 امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں۔

5754 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اغْتَسَلَ لِلْعِيدِ
 قَطُّ، كَانَ يَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَةَ الْفِطْرِ، ثُمَّ يَغْدُو مِنْهُ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ وَلَا يَأْتِي مَنْزِلَهُ
 * * نافع بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کبھی بھی عید کے لیے غسل کرتے ہوئے نہیں دیکھا وہ
 عید الفطر کی رات مسجد میں گزارتے تھے پھر صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں سے (نماز عید کی ادائیگی کے لیے) روانہ ہو جاتے
 تھے وہ اپنے گھر نہیں آتے تھے۔

5755 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتَبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يُصَلُّونَ

الصَّبْحَ عَلَيْهِمْ تِيَابُهُمْ، ثُمَّ يَغْدُونَ إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ. قَالَ سُفْيَانُ: مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَاحْبُ إِلَى أَنْ يَغْتَسِلَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ

* * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: پہلے لوگ صبح کی نماز جن کپڑوں میں ادا کرتے تھے وہی کپڑے پہن کر عید الفطر کے دن مید گاہ کی طرف چلے جاتے تھے۔

سُفیان کہتے ہیں: جو شخص ایسا کرنا چاہتا ہو تو میرے نزدیک اُس کے لیے زیادہ پسندیدہ بات یہ ہے کہ وہ صبح صادق ہونے سے پہلے غسل کر لے۔

5756 - آثارِ صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنِّي لَأَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ، وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمِنَ الْجَنَابَةِ وَالْإِحْتِلَامِ، وَمِنَ الْحَمَامِ، وَإِذَا احْتَجَمْتُ

* * شیبانی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ میں عید الفطر کے دن عید الاضحیٰ کے دن عرفہ کے دن جمعہ کے دن جنابت کے بعد احتلام کے بعد حمام سے آنے کے بعد اور کھینچنے لگانے کے بعد غسل کروں گا۔

بَابُ مَا تُؤَدَّى بِهِ الزَّكَاةُ مِنَ الْمَكَايِلِ يَوْمَ الْفِطْرِ

باب: عید الفطر کے دن ماپنے کے حوالے سے کتنی زکوٰۃ (یعنی صدقہ فطر) ادا کیا جائے گا؟

5757 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنِّي لِأَحِبُّ أَنْ أُعْطِيَ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِمِكْيَالِ الْيَوْمِ، مِكْيَالٍ نَأْخُذُ بِهِ، وَنَقْتَاتُ بِهِ

* * عطاء بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں صدقہ فطر آج کے پیمانے کے حساب سے ادا کروں وہ پیمانہ جس کے حساب سے ہم وصول کرتے ہیں اور جس کے حساب سے ہم ادا کیگی کرتے ہیں۔

5758 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُعْطَى زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمِدِّ الَّذِي يَقُوتُ بِهِ أَهْلُهُ

* * طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: وہ صدقہ فطر اُس مد کے حساب سے ادا کرتے تھے جس کے ذریعہ وہ اپنے اہل خانہ کو اناج فراہم کرتے تھے۔

5759 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: "قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتُ بِمِصْرٍ غَيْرِ مِصْرِي فَكَانَ مِكْيَالُهُمْ أَكْبَرَ مِنْ مِكْيَالِي فَأُوْدَى الْفِطْرُ بِهِ - أَوْ أُودَى - بِمِكْيَالِ مِصْرِي؟ قَالَ: مَا عَلَيْكَ إِلَّا ذَلِكَ، وَزِيَادَةُ الْخَيْرِ خَيْرٌ قَالَ: كَمْ بَلَغَكَ بَيْنَ الْمِكْيَالِ الْيَوْمِ وَالْمِكْيَالِ الَّذِي كَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ الْمِكْيَالَ أَصْغَرُ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ جب میں اپنے شہر کے بجائے کسی اور شہر میں ہوں اور ان لوگوں کا پیمانہ میرے پیمانہ سے بڑا ہو تو کیا میں ان کے پیمانہ کے مطابق صدقہ فطر ادا کروں گا؟ یا میں اپنے شہر کے پیمانہ کے مطابق صدقہ فطر ادا کروں گا؟ تو انہوں نے جواب دیا: تم پر صرف یہی بات لازم ہے اور بھلائی میں اضافہ بھلائی ہی ہوتی ہے۔ انہوں نے دریافت کیا: آج کے پیمانہ کے درمیان اور وہ پیمانہ جو نبی اکرم ﷺ کے زمانہ اقدس میں ہوتا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ہوتا تھا، اس کے درمیان فرق کے بارے میں آپ تک کیا روایت پہنچی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: مجھے نہیں معلوم! البتہ یہ پتا ہے کہ وہ پیمانہ (ہمارے آج کل کے پیمانے سے) چھوٹا ہوتا تھا۔

5760 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ مَدَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثُ الْمِدِّ الَّتِي جَعَلَهُ مَرْوَانَ بْنُ الْحَكَمِ

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ: "عِنْدَنَا أَرْبَعَةُ أَرْطَالٍ وَنِصْفٌ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ أَنَّهُ كَانَ يُلْقَى زَكَاةَهُ بِالْمِدِّ الَّتِي كَانَ يَأْكُلُ بِهٖ، وَمَدَّةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْخَذُ بِهٖ الصَّدَقَاتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَطْلٌ وَنِصْفٌ"

* * ہشام بن عروہ نے عروہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: نبی اکرم ﷺ کا مد اُس مد کا ایک تہائی ہوتا تھا جسے مروان بن حکم نے (ہمارے زمانہ میں) مقرر کیا ہے۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں: ابو بکر نامی راوی نے مجھے یہ بات بتائی ہے: ہمارے نزدیک چار رطل اور نصف رطل (یعنی ساڑھے چار رطل) ہوگا۔ ابن جریج کہتے ہیں: ہشام بن عروہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے: وہ اپنا صدقہ فطر اُس مد کے حساب سے ادا کرتے ہیں جس کے حساب سے وہ خوراک حاصل کرتے ہیں اور نبی اکرم ﷺ کے زمانہ اقدس کا وہ مد جس کے حساب سے نبی اکرم ﷺ کے زمانہ اقدس میں صدقہ فطر وصول کیا جاتا تھا، وہ ڈیڑھ رطل کا ہوتا تھا۔

بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

باب: صدقہ فطر کا بیان

5761 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "زَكَاةُ

الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وَأُنْثَى: صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، غَنِيِّ وَفَقِيرٍ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ."

قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَّغَنِي، أَنَّ الزُّهْرِيَّ، كَانَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

* * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: صدقہ فطر کی ادائیگی ہر آزاد اور غلام، مذکر اور مؤنث، چھوٹے اور بڑے

نوشحال اور غریب شخص پر ہوگی جو کھجور کا ایک صاع یا گندم کا نصف صاع ہوگا۔

معمربیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے: زہری نے اسے نبی اکرم ﷺ تک مرفوع حدیث کے طور پر نقل کیا ہے۔

5762 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكْرِ وَالْأُنثَى وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ، فَعَدَّلَهُ النَّاسُ بَعْدَ بَمَدَيْنِ مِنْ قَمْحٍ. قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُعْطَى التَّمْرَ

* * * حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے صدقہ فطر کی ادائیگی ہر مذکور اور مؤنث آزاد اور غلام شخص پر مقرر کی ہے جو کھجور کا ایک صاع یا جو کا ایک صاع ہوگا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: بعد میں لوگوں نے گندم کے دو مد کو اس کے برابر قرار دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ بات پسند تھی کہ وہ کھجور کی شکل میں ادائیگی کریں۔

5763 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ حُرٍّ، عَبْدٍ مُسْلِمٍ، صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ. قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي حَدِيثِهِ عَنْ نَافِعٍ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَعَدَّلَهُ النَّاسُ بَعْدَ بَمَدَيْنِ مِنْ بُرِّ.

* * * نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: نبی اکرم ﷺ نے صدقہ فطر کی ادائیگی ہر آزاد اور غلام مسلمان پر لازم قرار دیا ہے خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یہ صدقہ فطر کھجور کا ایک صاع یا جو کا ایک صاع ہوگا۔

5762- صحیح البخاری - کتاب الزکاة ابواب صدقة الفطر - باب فرض صدقة الفطر حدیث: 1442 صحیح مسلم - کتاب الزکاة باب زکاة الفطر علی المسلمین من التمر والشعیر - حدیث: 1688 صحیح ابن خزیمة - کتاب الزکاة جماع ابواب صدقة الفطر فی رمضان - باب ذکر فرض زکاة الفطر حدیث: 2226 صحیح ابن حبان - کتاب الزکاة باب صدقة الفطر - ذکر البیان بان هذه اللفظة " من المسلمین " لم یکن حدیث: 3361 المستدرک علی الصحیحین للحاکم - کتاب الزکاة واما حدیث محمد بن ابی حفصة - حدیث: 1430 موطا مالک - کتاب الزکاة باب مکیلة زکاة الفطر - حدیث: 626 سنن الدارمی - کتاب الصلاة باب فی زکاة الفطر - حدیث: 1665 السنن للنسائی - کتاب الزکاة فرض زکاة رمضان علی المسلمین دون البعاهدین - حدیث: 2469 مصنف ابن ابی شیبة - کتاب الزکاة فرض زکاة رمضان فی صدقة الفطر من قال : نصف صاع بر - حدیث: 10182 السنن الکبریٰ للنسائی - کتاب الزکاة فرض زکاة رمضان - حدیث: 2251 شرح معانی الآثار للطحاوی - کتاب الزکاة باب مقدار صدقة الفطر - حدیث: 2000 مشکل الآثار للطحاوی - باب بیان مشکل ما روی عن قیس بن سعد بن عبادة حدیث: 1894 سنن الدارقطنی - کتاب زکاة الفطر حدیث: 1816 السنن الکبریٰ للبیہقی - کتاب الجنائز جماع ابواب زکاة الفطر - باب من قال : لا یخرج من الحنطة فی صدقة الفطر حدیث: 7251 مسند احمد بن حنبل مسند عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما - حدیث: 4342 مسند الشافعی - ومن کتاب الزکاة من اوله إلا ما کان معادا حدیث: 385

* * عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ روایت مجھ تک پہنچی ہے کہ وہ یہ فرماتے ہیں: صدقہ نظر میں گندم کے دو مد یا کھجور یا جو کا ایک صاع ادا کیا جائے گا۔

5769 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جریج قال: أخبرني عبد الكريم أبو أمية، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة، والأسود، عن ابن مسعود قال: مَدَّانٍ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ
* * حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: گندم کے دو مد ہوں گے یا کھجور یا جو کا ایک صاع ہوگا۔

5770 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، وابن جریج، عن ابن طاووس، عن أبيه، أنه كان يقول: على الحر والعبد مَدَّانٍ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، وَالذَّرَّةُ ضِعْفُ الْقَمْحِ
* * طاووس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: وہ فرماتے ہیں: اس کی ادائیگی ہر آزاد اور غلام شخص پر ہوگی جو گندم کے دو مد ہوں گے یا کھجور کا ایک صاع ہوگا اور ذرہ گندم کا دگنا ہوگا۔

5771 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد قال: كل شيء سوى الحنطة صاع، والحنطة نصف صاع

* * مجاہد فرماتے ہیں: گندم کے علاوہ ہر چیز کا ایک صاع ادا کیا جائے گا جبکہ گندم کا نصف صاع ادا کیا جائے گا۔
5772 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جریج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: صدقة الفطر على كل مسلم صغير وكبير عبد أو حر مَدَّانٍ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ
* * حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: صدقہ فطر کی ادائیگی ہر چھوٹے بڑے مسلمان پر لازم ہے خواہ وہ غلام ہو یا آزاد ہو یہ گندم کے دو مد ہوں گے یا کھجور یا جو کا ایک صاع ہوگا۔

5773 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال: على من جرت عليه نفقتك نصف صاع من بر، أو صاع من تمر
* * حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جس کے خرچ کی ذمہ داری تم پر ہو تو گندم کا نصف صاع یا کھجور کا ایک صاع ادا کرنا ہوگا۔

5774 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن عاصم، عن أبي قلابه قال: أنبأني رجل، أن أبا بكر الصديق، ألحق إليه نصف صاع من بر بين رجلين
* * ابو قلابہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے مجھے بتایا: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے گندم کا نصف صاع دو آدمیوں کو دے دیا تھا۔

5775 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جریج قال: أخبرني أيوب بن موسى، أن نافعاً، أخبره، عن ابن عمر، أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير.

عَبْدُ اللَّهِ فَجَعَلَ النَّاسُ مُدَّيْنِ حِنْطَةً عِدْلَهُ

* * حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر میں کھجور کے ایک صاع یا جو کے ایک صاع کا حکم دیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: لوگوں نے گندم کے دو مد کو اس کے برابر قرار دے دیا۔

5776 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَنْبَأَنِي مَنْ آدَى إِلَى أَبِي

بَكْرٍ، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرِّ بَيْنَ رَجُلَيْنِ

* * ابو قلابہ بیان کرتے ہیں: مجھے اُس شخص نے یہ بات بتائی ہے جس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دو آدمیوں کی طرف سے گندم کے نصف صاع کی ادائیگی کی تھی۔

5777 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ

* * معمر بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صدقہ فطر میں دو مد ادائیگی کرتے

تھے۔

5778 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى كُلِّ اثْنَيْنِ دِرْهَمًا -

يَعْنِي زَكَاةَ الْفِطْرِ - قَالَ مَعْمَرٌ: هَذَا عَلَى حِسَابِ مَا يُعْطَى مِنَ الْكَيْلِ

* * معمر بیان کرتے ہیں: عمر بن عبدالعزیز نے ہر دو آدمیوں پر ایک درہم کی ادائیگی مقرر کی ہے یعنی صدقہ فطر کے طور پر۔ معمر بیان کرتے ہیں: یہ اس حساب سے ہوگا جو ماپنے کے حوالے سے ادائیگی کی جاتی ہے (یعنی اس کی قیمت یہ بنتی ہے)۔

5779 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَّاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي

سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: " كُنَّا نَخْرُجُ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ

الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ،

فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجْهُ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ مُعَاوِيَةُ حَاجًّا - أَوْ مُعْتَمِرًا - فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَكَانَ فِيْمَا كَلَّمَهُمْ بِهِ

أَنْ قَالَ: أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ مُدَّيْنِ. " قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَمَّا أَنَا فَلَا

أَزَالُ أَخْرِجْهُ كَمَا كُنْتُ أَخْرِجْهُ أَبَدًا

* * حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے تو ہم ہر چھوٹے اور

بڑے غلام اور آزاد کی طرف سے صدقہ فطر میں پنیر کا ایک صاع یا کھجور کا ایک صاع یا جو کا ایک صاع یا کشمش کا ایک صاع اد

ا کرتے تھے ہم اسی طرح ادائیگی کرتے رہے یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ (اپنے عہد خلافت میں) حج یا شاید عمرہ کرنے کے

لیے آئے انہوں نے منبر پر بیٹھ کر لوگوں سے اس بارے میں بات چیت کی تو اور اس بات چیت کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا: شام

کی گندم کے دو مد کے بارے میں میری یہ رائے ہے کہ وہ ایک صاع کھجور کے برابر بنتے ہیں۔ تو لوگوں نے دو مد کے قول کو اختیار

کر لیا۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں ہمیشہ اسی طرح ادا کی گئی کرتا رہوں گا جس طرح میں پہلے ادا کرتا رہا ہوں۔

5780 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَّاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: كَانَتْ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، فَلَمَّا جَاءَ مُعَاوِيَةَ جَاءَتْ السَّمْرَاءُ فَرَأَى أَنَّ مَدِينَتَهُ تَعْدِلُ مَدَا

* * حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں صدقہ فطر کھجور کا ایک صاع یا جو کا ایک صاع یا کشمش کا ایک صاع یا پنیر کا ایک صاع ہوتا تھا جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ آئے اور گندم آنے لگی تو انہوں نے دو مد کو ایک مد کے برابر قرار دیا۔

5781 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَخْرُجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، حَتَّى كَانَ مُعَاوِيَةَ وَكَثُرَ بُدُّ الْحِنْطَةِ فَأُخْرِجَتْ

* * حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہم کھجور کا ایک صاع، جو کا ایک صاع یا کشمش کا ایک صاع صدقہ فطر کے طور پر ادا کرتے تھے یہاں تک کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور گندم کی ضرورت زیادہ ہوئی تو اس کی ادا کی گئی کی جانے لگی۔

5782 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ يُلْقَى الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ قَمْحٍ

* * ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں: پہلے یہ حکم دیا جاتا تھا کہ آدمی (نماز عید کی ادا کی گئی کے لیے) جانے سے پہلے کھجور کا ایک صاع یا گندم کا نصف صاع ادا کر دے۔

5783 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي مَجَلَزٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُعْطَى التَّمْرَ

* * ابو مجلز بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس بات کو مستحب سمجھتے تھے کہ وہ کھجور کی ادا کی گئی کریں۔

5784 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَلَادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ بِنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ إِطْعَامِ الْفِطْرِ، فَقَالَا: صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ مَدٌّ مِنْ قَمْحٍ

* * خلاد بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں: میں نے عروہ بن زبیر اور سعید بن جبیر سے صدقہ فطر دینے کے بارے میں

دریافت کیا تو ان دونوں نے جواب دیا: یہ کھجور کا ایک صاع یا جو کا ایک صاع یا گندم کا ایک مد ہوگا۔

5785 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَعْلَبَةَ قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ - أَوْ يَوْمَيْنِ - فَقَالَ: أَذُوا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ قَمْحٍ بَيْنِ اثْنَيْنِ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ

* * * حضرت عبد اللہ بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید النحر سے ایک دن یا دو دن پہلے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: تم لوگ گندم کا ایک صاع، دو آدمیوں کے درمیان یا کھجور کا ایک صاع یا جو کا ایک صاع ادا کرو جو ہر ایک چھوٹے اور بڑے کی طرف سے ہو۔

5786 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ عَلَى مَنْ صَامَ مَدَّانٍ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

قال معمر: وأخبرني من سمع الحسن يقول: لا زكاة إلا على من صام أو صلى * * * سعید بن مسیب فرماتے ہیں: جس شخص نے روزے رکھے ہوں اس پر صدقہ فطر کی ادائیگی میں گندم کے دو مد یا کھجور کا ایک صاع لازم ہوگا۔

معمر بیان کرتے ہیں: اس شخص نے مجھے یہ بتایا ہے جس نے حسن بصری کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: صدقہ فطر کی ادائیگی اس شخص پر لازم ہوتی ہے جو روزہ رکھتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے۔

5787 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ ثَلَاثَةِ أَصْنَافٍ: مِنَ الشَّعِيرِ، وَالْأَقِطِ، وَالتَّمْرِ." قَالَ عِيَاضٌ: قُلْتُ لَهُ: مَا شَأْنُ الْحِنْطَةِ؟ قَالَ: كَثُرَتْ بَعْدُ فَأُخْرِجَتْ عَلَى عَهْدِ مُعَاوِيَةَ

* * * حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ہم صدقہ فطر میں تین قسم کی چیزیں ادا کیا کرتے تھے: جو، پیڑ اور کھجور۔

عیاض بن عبد اللہ نامی راوی بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: پھر یہ گندم کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا: بعد میں جب اس کی کثرت ہو گئی تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں اس کی ادائیگی کی جانے لگی۔

بَابُ هَلْ يُزَكَّى عَلَى الْحَبْلِ

باب: کیا (عورت کے) پیٹ میں موجود بچہ کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا؟

5788 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يُعْطُوا

رَكَاتَةِ الْفِطْرِ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ حَتَّى عَلَى الْحَبْلِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ

* * ابو فلانہ بیان کرتے ہیں: لوگوں کو یہ بات پسند تھی کہ وہ ہر چھوٹے اور بڑے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں یہاں

تک کہ ماں کے پیٹ میں موجود بچہ کی طرف سے بھی ادا کریں۔

5789 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " قُلْتُ لِعَطَاءٍ: جَنِينٌ لَيْسَ يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ

أَرْتَمِي عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا، لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّتُمْ أُمٌّ لَا؟ أَيْخْرُجُ مَيِّتًا أَمْ حَيًّا؟ "

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ماں کے پیٹ میں موجود ایسا بچہ جو ماں کے پیٹ میں

حرکت نہیں کرتا (یعنی حمل ابھی تھوڑے عرصہ کا ہے) تو کیا میں اُس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کروں گا؟ انہوں نے جواب

دیا: جی نہیں! کیونکہ تم یہ نہیں جانتے کہ کیا یہ مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا یہ زندہ باہر آئے گا یا مردہ آئے گا؟

5790 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ رَجُلٍ، عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ

الْحَبْلِ، هَلْ يُرْتَمَى عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ

* * سلیمان بن یسار کے بارے میں یہ بات منقول ہے: ایک شخص نے اُن سے پیٹ میں موجود بچہ کے بارے میں

دریافت کیا کہ کیا اُس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

بَابُ هَلْ يُؤَدِّيهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ

باب: کیا دیہاتی علاقوں کے رہنے والے لوگ بھی اسے ادا کریں گے؟

5791 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا

يَوْمَ الْعِيدِ فَيَوْمَهُمْ أَحَدُهُمْ، وَيُخْرِجُونَ رَكَاتَةَ الْفِطْرِ

* * زہری فرماتے ہیں: دیہاتی علاقوں کے رہنے والوں کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ وہ عید کے دن نکلیں اُن میں

سے کوئی ایک شخص اُن کی امامت کرے اور وہ لوگ صدقہ فطر بھی ادا کریں۔

5792 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ زَمْعَةَ، عَنِ صَالِحٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَطَاءٍ بْنِ يُحْيَى، عَنِ

حَالِهِ أَبِي الْعَبَّاسِ الْمُدَلِّجِيِّ قَالَ: جَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ - أَوْ يَوْمَيْنِ -، فَقَالَ: رَكَاتَةُ

الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مَدَانٍ مِنْ قَمْحٍ، أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ فَلْيُؤَدِّ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ، وَعَنْ وَلَدِهِ، وَعَنْ رَقِيقِهِ قَالَ

أَبُو الْعَبَّاسِ: فَقُلْتُ: وَعَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَلَا كَانُوا مُسْلِمِينَ وَلَا إِخَالَهُمْ - يَعْنِي إِلَّا مُسْلِمِينَ -

* * ابو عباس مدنی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے منبر پر تشریف فرما

ہوئے تو انہوں نے فرمایا: صدقہ فطر کی ادائیگی ہر مسلمان پر لازم ہے جو گندم کے دو مد ہوں گے یا کھجور کا ایک صاع ہوگا ہر شخص

اپنی ذات کی طرف سے اپنی اولاد کی طرف سے اور اپنے غلام کی طرف سے بھی ادائیگی کرے۔

ابو عباس بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: کیا دیہاتی علاقوں کے رہنے والوں پر یہ ادائیگی لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! کیا وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ میں تو انہیں مسلمان ہی سمجھتا ہوں۔

5793 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ رَجُلٍ، عَنِ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ مِثْلَهُ
** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

5794 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَوْدَيْتَنَا مَرَّةً، وَنَخْلَةً، وَعَرَفَةَ عَلَيْهِمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَعِنْدَنَا أَمْ عِنْدَهُمْ؟ قَالَ: بَلْ عِنْدَنَا

** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ہماری چھوٹی آبادیاں جیسے مر نخلہ، عرفہ تو کیا وہ بھی صدقہ فطر کی ادائیگی لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: کیا ہمارے ہاں (ادائیگی لازم) ہوں یا ان کے ہاں ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! بلکہ ہمارے ہاں ہوگی۔

5795 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ ابْنَ الْمُسَيْبِ قَالَ: عَلِيٌّ أَهْلُ الْبَوَادِي: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) (الأعلى: 14)، قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ قَتَادَةُ: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) (الأعلى: 14)، قَالَ: يَعْمَلُ صَالِحٍ

** سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں: چھوٹے علاقوں کے رہنے والوں پر بھی ادائیگی لازم ہوگی (کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے):

”جس شخص نے تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔“

معمر بیان کرتے ہیں: قتادہ نے یہ آیت پڑھی:

”جس شخص نے تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔“

قتادہ فرماتے ہیں: اس سے مراد نیک عمل ہے۔

5796 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: " قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ قَوْلَهُ (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى) (الأعلى: 14) لِلْفِطْرِ؟ قَالَ: هِيَ فِي الصَّدَقَةِ كُلِّهَا

** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے:

”وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے تزکیہ کیا۔“

کیا یہ صدقہ فطر کے بارے میں ہے؟ انہوں نے جواب دیا: یہ ہر قسم کے صدقہ کے بارے میں ہے۔

5797 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَلِيٌّ أَهْلُ الْبَادِيَةِ مِنْ زَكَاةٍ؟ قَالَ: لَا، لَمْ أَسْمَعْ بِهَا إِلَّا عَلَى أَهْلِ الْقَرْيِ

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا دیہاتی علاقوں کے رہنے والوں پر بھی زکوٰۃ (یعنی صدقہ فطر کی ادائیگی) لازم ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! میں نے اس کے بارے میں صرف یہی سنا ہے کہ یہ صرف شہروں کے رہنے والوں پر لازم ہوگی۔

5798 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: هُمُ أَهْلُ الْبَادِيَةِ هُمْ أَنْفُسُهُمْ رِعَاءٌ مَا شَيْئُهُمْ وَعَمَّالُهَا - يَعْنِي أَهْلَ الْعُمُودِ -

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: عطاء نے مجھ سے کہا: دیہاتی علاقوں کے رہنے والے خود ہی اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں خود ہی کام کاج کرتے ہیں۔

5799 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: زَكَاةُ الْفِطْرِ سُنَّةٌ هِيَ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي * * زہری فرماتے ہیں: صدقہ فطر کی ادائیگی دیہاتی علاقوں کے رہنے والوں پر بھی سنت ہے۔

بَابُ وَجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

باب: صدقہ فطر کا واجب ہونا

5800 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: كَانَتْ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي الدَّمِ وَفِي الرَّجْلِ يُوَلَّدُ عَلَى فِرَاشِهِ فَيَدْعِيهِ رَجُلٌ آخَرُ، فَيَقْسِمُونَ عَلَيْهِ خَمْسُونَ يَمِينًا كَقَسَامَةِ الدَّمِ فَيَذْهَبُونَ بِهِ، فَلَمَّا أَنْ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: إِنَّ فَلَانًا ابْنِي وَنَحْنُ مُقْسِمُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ بَعَثَ صَارِحًا يَصْرُخُ فِي أَهْلِ مَكَّةَ: أَلَا إِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ، مُدَّانٍ مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ صَاعٌ مِمَّا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ، أَلَا وَإِنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْأَثْلُبُ - يَعْنِي الْحَجَرَ -، فَأَقْرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَامَةَ الدَّمِ كَمَا كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ

* * عمرو بن شعیب بیان کرتے ہیں: زمانہ جاہلیت میں قسامت خون کے اعتبار سے ہوتی تھی ایک شخص کے ہاں بچہ کی پیدائش ہوتی تھی پھر ایک اور شخص اس کے بارے میں دعویٰ کر دیتا تھا تو وہ لوگ پچاس قسمیں اٹھوایا کرتے تھے جس طرح قتل کے بارے میں قسامت ہوتی ہے اور پھر اسے بچہ کو لے جایا کرتے تھے۔ جب نبی اکرم ﷺ حج کے لیے تشریف لائے تو حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے ان کی خدمت میں عرض کی: کہ فلاں شخص میرا بیٹا ہے اور ہم اس پر قسامت کے لیے تیار ہیں۔ تو نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جی نہیں! بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زنا کرنے والے کو محرومی ملتی ہے۔ پھر نبی اکرم ﷺ نے ایک اعلان کرنے والے کو بھیجا جس نے اہل مکہ کے درمیان یہ اعلان کیا: صدقہ فطر کی ادائیگی حق ہے اور ہر مسلمان پر لازم ہے خواہ وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو آزاد ہو یا غلام ہو نابالغ ہو یا بالغ ہو شہری ہو یا دیہاتی ہو یہ ادائیگی گندم کے دو مد یا اس کے علاوہ کسی بھی اناج

کا ایک صاع ہوگی اور خبردار! بچہ صاحب فراش کا ہوتا ہے اور زنا کرنے والے کو محرومی ملتی ہے۔
(راوی بیان کرتے ہیں:) تو نبی اکرم ﷺ نے قتل کی قسامت کے حکم کو اسی طرح برقرار رکھا جس طرح یہ زمانہ جاہلیت میں تھا۔

5801 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ مَخِيْمِرَةَ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْنَا سَعْدَ بْنَ قَيْسٍ بْنِ عَبَّادَةَ، عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، فَقَالَ: أَمَرْنَا بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الزَّكَاةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكَاةُ لَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحْنُ نَفْعَلُهُ

*** ابوعمار بیان کرتے ہیں: ہم نے حضرت سعد بن قیس بن عباده رضی اللہ عنہ سے صدقہ فطر کے بارے میں دریافت کی انہوں نے جواب دیا: نبی اکرم ﷺ نے زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں ہدایت کی تھی جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہو گیا تو آپ نے نہ ہی ہمیں اس کا حکم دیا اور نہ ہی اس سے منع کیا، لیکن ہم ایسا کرتے ہیں۔

بَابُ مَنْ يُلْقَى عَلَيْهِ الزَّكَاةُ

باب: کن لوگوں کو صدقہ دیا جائے گا؟

5802 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا كَانَ عِنْدَ أَحَدٍ عَيْدٌ يُدَارُونَ فَلَا يَطْرَحَنَّ عَلَيْهِمْ. وَقَالَ الثَّوْرِيُّ

*** ابن جریج نے عطاء کا یہ قول نقل کیا ہے: جب کسی شخص کے پاس ایسے غلام ہوں جو گھمائے جاتے ہوں تو وہ ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا یہ بات سفیان ثوری نے بیان کی ہے۔

5803 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ صَامُوا عِنْدَكَ رَمَضَانَ حَتَّى يَفْطِرُوا فَاطْعَمْتَهُمْ عَنْهُمْ

*** قتادہ فرماتے ہیں: اگر وہ غلام رمضان کے مہینہ میں تمہارے ہاں رہ کر روزے رکھتے ہیں یہاں تک کہ عید الفطر تک تمہارے ہاں کرتے ہیں تو تم ان کی طرف سے کھانا کھلاؤ گے۔

5804 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: اطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ فَإِنَّ طَرَحَ الْعَبْدُ عَنْ نَفْسِهِ كَفَى سَيِّدَهُ، وَإِنْ كَانَ مُكَاتِبًا، فَطَرَحَ عَنْ نَفْسِهِ فَقَدْ كَفَى سَيِّدَهُ، وَإِنْ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ فَلْيَطْرَحْ عَنْهُ سَيِّدُهُ، فَإِنَّهُ عَبْدٌ حَتَّى يُعْتَقَ، فَإِنْ كُنْتَ غَائِبًا يَوْمَ الْفِطْرِ فَإِذَا قَدِمْتَ فَزَكِّ عَنْ نَفْسِكَ، فَإِنْ كَانَ لَكَ عَبْدٌ نَصَارَى لَا يُدَارُونَ فَزَكِّ عَنْهُمْ وَاطْرَحْ عَنْ عَبْدِكَ الْمُسَافِرِ

*** عطاء فرماتے ہیں: تم اپنے غلام کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرو گے اگر غلام اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو یہ اس کے آقا کی طرف سے کفایت کر جائے گا اور اگر کوئی مکاتب غلام ہو اور وہ اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دے تو یہ اس

کے آقا کی طرف سے کفایت کر جائے گا، لیکن اگر وہ خود اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں کرتا تو اس کا آقا اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا، کیونکہ جب تک وہ آزاد نہیں ہوتا اس وقت تک غلام شمار ہوگا، اگر تم عید الفطر کے موقع پر موجود نہیں ہوتے تو جب تم آؤ گے تو اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرو گے اور اگر تمہارے کچھ عیسائی غلام ہوں جو گھمائے نہ جاتے ہوں تو تم ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرو اور تم اپنے مسافر غلام کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرو۔

5805 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ لِابْنِ عُمَرَ مَكَاتِبَانِ فَكَانَ لَا

يُؤَدِي عَنْهُمَا زَكَاةَ الْفِطْرِ.

* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے دو مکاتب غلام تھے تو وہ ان دونوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں کرتے تھے۔

5806 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ مِثْلَهُ

* * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ نافع سے منقول ہے۔

5807 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: لَا يُؤَدِي

الرَّجُلُ مِنْ مَكَاتِبِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِنْ شَاءَ

* * ابوسلمہ بیان کرتے ہیں: آدمی اگر چاہے تو اپنے مکاتب غلام کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہ کرے۔

5808 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ فِي رَقِيقِ نَصَارَى قَالَ: لَا

أَدَارُونَ قَالَ: هُمْ مَالٌ فَلْيُطْرَحْ عَنْهُمْ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: يُدَارُونَ بِالتَّجَارَةِ

* * عبد الکریم جزری نے عیسائی غلاموں کے بارے میں یہ فرمایا ہے: جو گھمائے نہیں جاتے وہ فرماتے ہیں: یہ مال ہیں

ان کی طرف سے ادائیگی کی جائے گی۔

امام عبد الرزاق فرماتے ہیں: اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تجارت کے سلسلہ میں آتے جاتے ہیں۔

5809 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَقَالَ الْحَسَنُ، أَيْضًا قَالَ:

لَا تَطْرَحُ إِلَّا عَلَى مَنْ صَلَّى وَصَامَ

* * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ سعید بن مسیب سے منقول ہے، حسن بصری نے بھی یہی کہا ہے کہ تم صرف اس

کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرو جو نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے۔

5810 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " يُطْعِمُ الرَّجُلُ

عَنْ عِبْدِهِ وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا

* * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: آدمی اپنے غلام کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے گا، خواہ وہ غلام عیسائی ہو۔

5811 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُطْعِمُ

الرَّجُلُ عَنْ عَبْدِهِ، وَإِنْ كَانَ مَجُوسِيًّا

*** عطاء فرماتے ہیں: آدمی اپنے غلام کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے گا، خواہ وہ غلام مجوسی ہو۔

5812 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحَصِينِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يُخْرِجُ الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ مَكَاتِبِهِ، وَعَنْ كُلِّ مَمْلُوكٍ لَهُ، وَإِنْ كَانَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا *** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: آدمی اپنے مکاتب غلام کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے گا اور اپنے ہر غلام کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا، خواہ وہ غلام یہودی ہو یا عیسائی ہو۔

5813 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا نَخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ نَعُولُهَا، وَإِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا *** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم ہر اس شخص کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتے تھے جو ہمارے زیر کفالت ہوتا تھا، خواہ وہ کوئی عیسائی ہو۔

5814 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ كَانَ لِعَبْدِكَ بَنُونَ صِغَارًا أَحْرَارًا فَلَا يَزِيكِي عَنْهُمْ أَبُوهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ *** عطاء فرماتے ہیں: اگر تمہارے کسی غلام کے بچے نابالغ ہوں اور آزاد ہوں تو ان بچوں کا باپ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر ان کی طرف سے صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا۔

5815 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يَطْرَحُ عَنْهُمْ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ *** زہری سے بھی عطاء کے اس قول کی مانند منقول ہے، وہ یہ فرماتے ہیں: وہ غلام ان بچوں کی طرف سے اپنے آقا کی اجازت کے بغیر صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا۔

بَابُ هَلْ يُؤَدِّيهَا الْمُحْتَاجُ

باب: کیا محتاج شخص بھی صدقہ فطر ادا کرے گا؟

5816 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: بَلَّغْنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِيُؤَدَّ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْكُمْ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، حُرًّا أَوْ مَمْلُوكًا، مِسْكِينًا أَوْ غَنِيًّا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، فَأَمَّا مِسْكِينُنَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا أَخَذُوا مِنْهُ، وَأَمَّا غَنِيًّا فَيُوجَدُ

*** عباس بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”تم میں سے ہر ایک شخص اسے ادا کرے گا“ خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو آزاد ہو یا غلام ہو غریب ہو یا خوشحال ہو یہ کس قدر کثرت سے یا کھجور کا ایک صاع ہوگا جہاں تک ہمارے غریبوں کا تعلق ہے تو ان سے جو وصولی ہوئی ہے اس سے زیادہ ان کی طرف واپس آجائے گا اور جہاں تک خوشحال شخص کا تعلق ہے تو اس کے ہاں تو پہلے ہی سنجاش ہے۔“

5817 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ زَكَاةُ

الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ غَنِيٍّ وَفَقِيرٍ

* * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: صدقہ فطر کی ادائیگی ہر خوشحال اور غریب شخص پر لازم ہوگی۔

5818 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: يُلْقِي زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْ

عِيَالِهِ أَيَاخُذُ مِنْهَا إِذَا قَسِمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ كَانَ مُحْتَاجًا

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے عطاء سے کہا: ایک شخص اپنی طرف سے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے

صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو جب وہ صدقہ فطر تقسیم کرے گا تو کیا وہ اس صدقہ فطر میں سے وصولی کر سکتا ہے؟ عطاء نے جواب دیا: جی ہاں! اگر وہ محتاج ہو۔

5819 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْسَانٌ فَقِيرٌ مُحْتَاجٌ وَهُوَ مَدِينٌ

يُلْقِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنْسَانٌ أَيَاخُذُ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص فقیر اور محتاج ہے اور وہ مقروض بھی ہے تو کیا

وہ ادائیگی کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! ابن جریر نے دریافت کیا: کیا کوئی شخص اس میں سے حاصل کر سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں!

5820 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُعْطَى الْمَسْكِينُ زَكَاةُ

الْفِطْرِ وَإِنْ أَخَذَهَا

* * حسن بصری فرماتے ہیں: غریب شخص بھی صدقہ فطر ادا کرے گا اگرچہ وہ بعد میں اسے وصول بھی کر لے۔

5821 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ

الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ

* * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جب غریب شخص عید الفطر کے دن صدقہ فطر وصول کر لے گا تو پھر وہ اپنی طرف سے

ادائیگی نہیں کرے گا۔

5822 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ فَقِيرًا لَا يَجِدُهَا أَيْسَأَلُ حَتَّى

يُؤَدِّيَهَا؟ قَالَ: لَا، لَيْسَتْ إِلَّا عَلَى مَنْ وَجَدَ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: غریب شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جسے صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے کچھ نہیں ملتا تو کیا وہ مانگ کر صدقہ فطر ادا کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! یہ صرف اس پر لازم ہوتا ہے جس کے پاس اس کی ادائیگی کی گنجائش موجود ہو۔

5823 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: اِنْ كَانَ الْفَقِيرُ يَأْخُذُ الزَّكَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ لَمْ يَطْرَحْ عَنْ نَفْسِهِ

* * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: اگر غریب شخص عید الفطر کے موقع پر صدقہ فطر وصول کر لیتا ہے تو پھر وہ اپنی طرف سے اس کی ادائیگی نہیں کرے گا۔

5824 - اقوال تابعین: وَكَعْبٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ اِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ

* * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ ابراہیم نخعی سے منقول ہے۔

بَابُ رَقِيقِ الْمَاشِيَةِ

باب: جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والے غلام کا حکم

5825 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: "سُئِلَ عَطَاءٌ: هَلْ عَلَى غُلَامٍ فِي حَائِطٍ أَوْ مَاشِيَةٍ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قَدْ صَدَّقَ الْمَالَ الَّذِي هُوَ فِيهِ"

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء سے دریافت کیا گیا: کیا ایسے غلام پر صدقہ فطر کی ادائیگی لازم ہوگی جو باغ کی دیکھ بھال کے لیے یا جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس مال کا صدقہ ادا کرنا ہے جس میں وہ موجود ہے۔

5826 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُمِّيَّةُ بِنْتُ أَبِي عَثْمَانَ، عَنِ أُمِّيَّةِ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى ابْنِ عُلْقَمَةَ فِي الْعَبْدِ يَكُونُ فِي الْمَاشِيَةِ وَالْحَائِطِ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْحَائِطَ وَالْمَاشِيَةَ الَّذِي هُوَ فِيهَا إِنَّمَا صَدَّقَتْ بِهِ

* * امیہ بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں: عبد الملک بن مروان نے غلام کے بارے میں ابن علقمہ کو خط لکھا جو غلام جانوروں کی یا باغ کی دیکھ بھال کے لیے ہوتا ہے کہ اس پر صدقہ فطر کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باغ اور وہ جانور جن میں وہ غلام موجود ہے انہی میں سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔

5827 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنِ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُزَيِّجِي - أَوْ قَالَ يَلْقَى - عَنِ عُمَّالِ أَرْضِهِ

* * طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ وہ اپنی زمین پر کام کاج کرنے والوں

کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔

5828 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُؤَدِي زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالْمَدِينَةِ عَنْ رَقِيقِهِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ فِي أَرْضِهِ وَعَنْ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ وَعَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ يَعُولُهُ

* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مدینہ منورہ میں ان لوگوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرتے تھے ان کے جو غلام ان کی زمین پر کام کاج کرتے تھے اور وہ اپنی بیوی کے غلام کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرتے تھے اور وہ اپنے ہرزیر کفالت شخص کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔

5829 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُزْتَمِي عَنْ رَقِيقِهِ الَّذِي فِي أَرْضِهِ وَمَاشِيَتِهِ

* * طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس غلام کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرتے تھے جو ان کی زمین پر کام کرتا تھا یا ان کے جانوروں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔

5830 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: هِيَ عَلَى الرَّعَاءِ

* * حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: یہ چرواہوں پر بھی لازم ہوگا۔

5831 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيْبِ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَقِيقِ الرَّجُلِ فِي مَاشِيَتِهِ فَقَالُوا: لِيُطْعِمَ عَنْهُمْ

* * یزید بن قسیط بیان کرتے ہیں: انہوں نے سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر اور ابوسلمہ بن عبد الرحمن سے آدمی کے ایسے غلام کے بارے میں دریافت کیا جو اس کے جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے ہوتا ہے تو ان حضرات نے جواب دیا: آدمی ایسے غلاموں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرے گا۔

5832 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالَا: لَيْسَ عَلَى عُمَّالِ الْحَرْثِ وَالرِّعَاعِ زَكَاةُ الْفِطْرِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: "هِيَ عَلَى الرَّعَاءِ أَيْ: عَلَى عُمَّالِ الرَّقِيقِ الْمَاشِيَةِ"

* * مکحول بیان کرتے ہیں: حضرت معاذ بن جبل اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: کھیت میں کام کاج کرنے والے اور جانوروں کی دیکھ بھال کرنے والے غلاموں کی طرف سے صدقہ فطر کی ادائیگی لازم نہیں ہوگی۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: چرواہوں پر اس کی ادائیگی لازم ہوگی، یعنی وہ غلام جو جانوروں کی دیکھ بھال کرتے

ہیں۔

5833 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَطْرَحُ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ كُلِّ عَبْدٍ لَهُ حَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ أَوْ فِي مَزْرَعَةٍ حَتَّى لَعَلَّهُ أَنْ يَطْرَحَ، عَنْ سَبْعِينَ - أَوْ سَبْعِينَ - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَعَلَى الْأَعْرَابِ اللَّبَنُ - يَعْنِي فِي الزَّكَاةِ - "

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے ہر غلام کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتے تھے خواہ وہ وہاں موجود ہو یا نہ ہو خواہ وہ کھیت میں ہو یہاں تک کہ وہ ساٹھ یا ستر افراد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: دیہاتیوں پر صدقہ فطر میں دودھ کی ادائیگی لازم ہوگی۔

بَابُ مَتَى تُلْقَى الزَّكَاةُ

باب: صدقہ فطر کب ادا کیا جائے گا؟

5834 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنْ اسْتَطَعْتُمْ فَالْقُوا زَكَاةَكُمْ أَمَامَ الصَّلَاةِ أَوْ بَيْنَ يَدَيْ الصَّلَاةِ - يَعْنِي صَلَاةَ الْفِطْرِ *** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اگر تم سے ہو سکے تو تم نماز عید ادا کرنے سے پہلے یا نماز عید ادا کرنے کے درمیان صدقہ فطر ادا کر دو۔

5835 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى تَأْمُرُ بِطَعَامِكَ؟ قَالَ: اأَغْدُو سَحْرًا فَأْمُرْ بِهِ فَيُخْرَجُ بَعْدِي قَبْلَ الصَّلَاةِ *** ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: آپ اپنے کھانے (یعنی صدقہ فطر کی ادائیگی) کے بارے میں کب ہدایت کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: میں صبح کے وقت جاتا ہوں اور اس کے بارے میں ہدایت کر دیتا ہوں تو نماز عید سے پہلے اسے ادا کر دیا جاتا ہے۔

5836 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهُ يُقَالُ: مُرُّ بِطَعَامِكَ إِذَا خَرَجْتَ لِلصَّلَاةِ فَلْيُنْطَلَقْ بِهِ *** عطاء فرماتے ہیں: ہم نے یہ بات سن رکھی ہے کہ یہ بات کہی جاتی ہے: جب تم نماز کے لیے نکلنے لگو، تو تم کھانے کے بارے میں حکم دے دو کہ وہ ادا کر دیا جائے۔

5837 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْعَثُ صَدَقَةَ رَمَضَانَ حِينَ يَجْلِسُ الَّذِينَ يَقْبِضُونَهَا، وَذَلِكَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ *** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنا صدقہ فطر اس وقت بھجوادیتے تھے جب وہ لوگ آ کر بیٹھنا

شروع ہوتے تھے جنہوں نے اسے وصول کرنا ہوتا تھا اور یہ عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے ہوتا تھا۔

5838 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن عبید اللہ بن عمر، عن نافع قال: إن كان ابن عمر يبعث صدقة

رمضان حين يجلس الدين يقبضونها، وذلك قبل الفطر بيوم أو يومين

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنا صدقہ فطر اس وقت بھجواتے تھے جب وہ لوگ آ کر بیٹھنا

شروع ہوتے تھے جنہوں نے اسے وصول کرنا ہوتا تھا اور یہ عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے ہوتا تھا۔

5839 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن عبید اللہ بن عمر، عن نافع قال: إن كان ابن عمر يخرج زكاة

الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى حين يجلس الذين يقبضونها، وذلك قبل الفطر بيوم أو يومين

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید گاہ کی طرف جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے اس

وقت جب اسے لینے والے لوگ آ کر بیٹھ جاتے تھے اور یہ عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے ہوتا تھا۔

5840 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة قال: كان يؤمر أن

تلقى الزكاة قبل أن يخرج إلى المصلى

*** ابو سلمہ بیان کرتے ہیں: اس بات کا حکم دیا جاتا تھا کہ عید گاہ کی طرف جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا جائے۔

5841 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: لا بأس أن تؤدوا زكاة الفطر قبله بيوم

أو يومين أو بعد الفطر بيوم أو يومين قال: وكان يخرجها هو قبل أن تغدو

*** زہری بیان کرتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ عید الفطر سے ایک یا دو دن پہلے یا عید الفطر سے ایک یا

دو دن بعد صدقہ فطر ادا کریں۔ راوی کہتے ہیں: وہ خود نماز عید کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے۔

5842 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: هل في ذلك حرج إن أخرتها حتى

تكون بعد الفطر؟ قال: لا

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا اس میں کوئی حرج ہوگا کہ اگر میں صدقہ فطر کی

ادائیگی کو مؤخر کر دوں یہاں تک کہ اسے عید الفطر کے بعد ادا کروں؟ تو انہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

5843 - اقوال تابعین: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا عن ابن جريج قال: أخبرني عبید اللہ بن عمر قال:

أذكرت سالم بن عبد الله وغيره من علمائنا وأشياحناء، فلم يكونوا يخرجونها إلا حين تغدو

*** عبید اللہ بن عمر بیان کرتے ہیں: میں نے سالم بن عبد اللہ اور ان کے علاوہ اپنے دیگر علماء اور مشائخ کو پایا ہے کہ یہ

حضرات صدقہ فطر اسی وقت ادا کرتے تھے جب یہ (نماز عید کی ادائیگی کے لیے) روانہ ہوتے تھے۔

5844 - اقوال تابعین: قال عبد الرزاق: وقد سمعته من عبید اللہ بن عمر

*** امام عبد الرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے خود بھی عبید اللہ بن عمر کی زبانی یہ روایت سنی ہے۔

5845 - حدیث نبوی: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى

*** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ لوگوں کے عید گاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے۔

5846 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُخْرِجُوهَا قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى سُنَّةً

*** ابن شہاب بیان کرتے ہیں: اُن تک یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کھڑے ہوئے آپ نے لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ صدقہ فطر عید گاہ کی طرف جانے سے پہلے ادا کر دیں یہ سنت ہے۔

5847 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُلْقُونَ زَكَاتَهُمْ وَيَأْكُلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْمُصَلَّى

*** عکرمہ بیان کرتے ہیں: پہلے لوگ عید گاہ کی طرف جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیتے تھے اور کچھ کھاپی لیتے تھے۔

بَابُ يُلْقَى الزَّكَاةَ إِذَا جَاءَ أَوْ أَنْهَا

باب: صدقہ فطر اُس وقت ادا کرنا جب اُس کا وقت آئے

5848 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سِئِلَ الْحَسَنُ عَنْ زَكَاةِ الْفِطْرِ، فَأَمَرَنَا بِأَخْرَاجِهَا، قِيلَ: فَإِنَّهُمْ يَفْتَضُونَهَا قَالَ: فَلَا تُبَلِّغُوهُمْ إِيَّاهَا وَلَا تَنْعَمُوهُمْ عَيْنًا

*** معمر بیان کرتے ہیں: حسن بصری سے صدقہ فطر کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے ہمیں اس کی ادائیگی کی ہدایت کی۔ اُن سے دریافت کیا گیا: کچھ لوگ اس کا تقاضا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا: تم اُن لوگوں کو یہ نہ دو اور تم اُن لوگوں کو نہ دو۔

5849 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ: أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ، أَخْبَرَهُمَا، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شَرْحِبِيلَ كَانَ يَجْمَعُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ حَيْهَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِلَى الرَّهْبَانِ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ غَيْرُهُ يُعْطِيهَا الْمُسْلِمِينَ

*** عمرو بن شرحبیل کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ اپنے محلہ کی مسجد میں صدقہ فطر جمع کرتے تھے اور پھر اسے راہبوں کو دیدیتے تھے۔ سفیان ثوری کہتے ہیں: دیگر لوگ اسے مسلمانوں کو دیا کرتے تھے۔

5850 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: كَانَ أَيُّوبُ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى جِيرَانِهِ فِي

الأطباق

*** ابن عیینہ بیان کرتے ہیں: ایوب اپنا صدقہ فطر تھال میں رکھ کر اپنے پڑوسیوں کو بھجوادیتے تھے۔

5851 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُرْخِصُ لِلنَّاسِ لَا يَكُونُونَ قَرِيبًا مِنْ

مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ بِالْبَصْرَةِ أَنْ يُعْطُوا زَكَاتَهُمْ زَكَاةَ الْفِطْرِ أَهْلَ الْحَاجَةِ مِنْ أَقَارِبِهِمْ. قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: أَنْتَ فِي مَسْجِدِ الْجَمَاعَةِ؟ قَالَ: إِذَا كَانُوا لَا يُخْزِنُونَهَا فَنَعَمْ، فَإِذَا عَلِمْتُ أَنَّهُمْ يُخْزِنُونَهَا فَسَمْتُهَا فِي جِيرَانِي قُلْنَا لَهُ: فَكَانَ مَعْمَرٌ يَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَسْجِدِ، وَكَانُوا إِذْ ذَلِكَ لَا يُخْزِنُونَهَا

*** قتادہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ ان لوگوں کو یہ رخصت دیتے تھے جو بصرہ میں جامع مسجد کے قریب

نہیں رہتے تھے کہ وہ لوگ اپنا صدقہ فطر اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے ضرور تمند لوگوں کو دے دیں۔

راوی بیان کرتے ہیں: ہم نے امام عبدالرزاق سے دریافت کیا: کیا آپ اپنا صدقہ فطر جامع مسجد میں ادا کرتے ہیں؟

انہوں نے جواب دیا: اگر وہ لوگ اسے خزانہ کے طور پر اکٹھا نہیں کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ وہ لوگ خود اسے جمع کرتے ہیں تو میں اس صدقہ فطر کو اپنے پڑوسیوں میں تقسیم کر دوں گا۔

ہم نے ان سے دریافت کیا: معمر تو اپنا صدقہ فطر مسجد بھجوا دیتے تھے، لیکن وہ لوگ اسے جمع نہیں کرتے تھے۔

بَابُ هَلْ يُصَلِّيَهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ

باب: کیا دیہاتی علاقوں کے رہنے والے لوگ نماز عید ادا کریں گے؟

5852 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ يُسْتَحَبُّ لِأَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنْ يَخْرُجُوا

يَوْمَ الْعِيدِ فَيُؤْتَهُمْ أَحَدُهُمْ

*** زہری فرماتے ہیں: دیہاتی علاقوں کے رہنے والے لوگوں کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ وہ عید کے دن آئیں اور

ان میں سے کوئی ایک شخص ان کی امامت کرے۔

5853 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْبَادِيَةِ لَمْ يُصَلُّوا صَلَاةَ

الْفِطْرِ إِلَّا فِي قَرْيَةٍ جَامِعَةٍ

*** عطاء فرماتے ہیں: اگر دیہاتی علاقوں کے رہنے والے لوگ نماز عید الفطر ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی بڑے شہر میں

آکر ادا کریں گے۔

5854 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَسْلَمَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَعَثَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُرَى عُرَيْنَةَ، وَفَدَكَ، وَيَبْعَعُ وَنَحْوَهَا مِنَ الْقُرَى مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الْمَدِينَةِ أَنْ

يُجْمَعُوا وَيَشْهَدُوا الْعِيدَيْنِ

*** زہری فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے عرینہ فدک بیع اور اس جیسے دیگر بستیوں کی طرف لوگوں کو بھیجا جو مدینہ منورہ سے تین دن کی مسافت پر تھیں (آپ نے یہ پیغام بھجوایا) کہ وہ لوگ جمعہ بھی ادا کریں اور عیدین کی نمازوں میں بھی شریک ہوں۔

5855 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن هشيم، عن عبید اللہ بن ابی بکر بن انس، عن جدہ انس بن مالک: انه كان يكون في منزله بالزاوية، فاذا لم يشهد العيد بالبصرة جمع أهله وولده ومواليه، ثم يأمر مولاہ عبد اللہ بن ابی عتبہ فصلى بهم ركعتين

*** حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ ”زاویہ“ میں اپنی رہائش گاہ میں موجود ہوتے تھے اور بصرہ میں نماز عید میں شرکت نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے اہل خانہ اپنی اولاد اور اپنے غلاموں کو جمع کرتے تھے پھر وہ اپنے غلام عبد اللہ بن ابوعتبہ کو حکم دیتے تھے تو وہ ان لوگوں کو دو رکعت پڑھا دیتا تھا۔

باب الزينة يوم العيد

باب: عید کے دن زیب و زینت اختیار کرنا

5856 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: اخبرني علي بن ابی حميد، ان طاوسا كان لا يدع جارية له سوداء ولا غيرها الا امرهن فيخضبن ايديهن وارجلهن ليوم الفطر ويوم الاضحى يقول: يوم عيد

*** علی بن ابو حمید بیان کرتے ہیں: طاؤس اپنی ہر ایک کنیز کو خواہ وہ سیاہ فام ہو یا سیاہ فام نہ ہو اسے یہ ہدایت کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں پر مہندی لگائے اور پاؤں پر مہندی لگائے ایسا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر ہوتا تھا۔ (بعض اوقات راوی نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں: عید کے موقع پر ہوتا تھا۔)

5857 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: اخبرت ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يختضبن بعد العشاء الاخرة الى الصبح

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کی ازواج عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اور صبح سے پہلے (عید کے موقع پر) مہندی لگاتی تھیں۔

5858 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: سالت جعفر بن محمد، فقلت: بلغني انك حدثت عن ابيك، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس لكل عيدين بردا، فقال: لم اقل ذلك، ولكني اخبرت عن ابي انه قال: لبس النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم عرفة حلة - او بردا -

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے امام جعفر صادق سے دریافت کیا میں نے کہا: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ آپ نے اپنے والد کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: نبی اکرم ﷺ دونوں عیدوں کے موقع پر مخصوص قسم کی چادر پہنتے تھے۔ تو انہوں نے جواب دیا: میں نے یہ نہیں کہا بلکہ مجھے اپنے والد کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن خلع پہنا تھا یا مخصوص قسم کی چادر پہنی تھی۔



کتاب فضائل القرآن

کتاب: قرآن مجید کے فضائل کے بارے میں روایات

باب گم فی القرآن من سجدة

باب: قرآن مجید میں کتنے سجده تلاوت ہیں؟

5859 - آثار صحابہ: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرِ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ اسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "سُجُودُ الْقُرْآنِ عَشْرٌ: الْأَعْرَافُ، وَالنَّحْلُ، وَالرَّعْدُ، وَبَنُو إِسْرَائِيلَ، وَمَرْيَمُ، وَالْحَجُّ، وَالْفُرْقَانُ، وَطَسُ الْوُسْطَى، وَالْمُتَزِيلُ، وَحَمُّ السَّجْدَةِ" فَقُلْتُ: وَلَمْ يَكُنْ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي صِصِ سَجْدَةٍ؟ قَالَ: لَا

* * * عطاء نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ بیان نقل کیا ہے: قرآن مجید میں دس سجده ہائے تلاوت ہیں: سورۃ اعراف میں سورۃ نحل میں سورۃ رعد میں سورۃ بنی اسرائیل میں سورۃ مریم میں سورۃ حج میں سورۃ فرقان میں سورۃ طس (درمیانی والی) میں سورۃ الم تنزیل میں اور سورۃ حم السجدہ میں۔

ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے دریافت کیا: کیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سورۃ ص میں سجده تلاوت نہیں کرتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

5860 - آثار صحابہ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ عُمَرَ يَعْدَانِ كَمُ فِي الْقُرْآنِ مِنْ سَجْدَةٍ، فَقَالَا: الْأَعْرَافُ، وَالنَّحْلُ، وَالرَّعْدُ، وَبَنُو إِسْرَائِيلَ، وَمَرْيَمُ، وَالْحَجُّ أَوْلَهَا، وَالْفُرْقَانُ، وَطَسُ، وَالْمُتَزِيلُ، وَصِصِ، وَحَمُّ السَّجْدَةِ، إِحْدَى عَشْرَةَ

* * * عکرمہ بن خالد بیان کرتے ہیں: سعید بن جبیر نے انہیں یہ بتایا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کو شمار کرتے ہوئے سنا کہ قرآن مجید میں کتنے سجده ہائے تلاوت ہیں؟ تو ان دونوں حضرات نے یہ فرمایا: سورۃ اعراف میں سورۃ نحل میں سورۃ رعد میں سورۃ بنی اسرائیل میں سورۃ مریم میں سورۃ حج کے آغاز میں سورۃ فرقان میں سورۃ طس میں سورۃ الم تنزیل میں سورۃ ص میں سورۃ حم السجدہ میں تو یہ گیارہ ہو گئے۔

5861 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضَّبَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: فِي

الْقُرْآنِ إِحْدَى عَشْرَةَ سَجْدَةً فَعَدَّهُنَّ. كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ
 * * ابو جمرہ رضی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قرآن مجید میں
 گیارہ سجدہ ہائے تلاوت ہیں پھر انہوں نے انہیں شمار کیا تو اسی طرح کی روایت نقل کی جس طرح کی روایت سعید بن جبیر کے
 حوالے سے گزر چکی ہے۔

5862 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْأَحْوَلُ، أَنَّ مُجَاهِدًا، أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ
سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ أَفِيْ صِ سُجُودٍ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ تَلَا (وَوَهَبْنَا لَهُ) (الأنعام: 84) حَتَّى بَلَغَ (فَبِهَذَا هُمْ أَقْتَدَهُ) (الأنعام: 90)
قَالَ: هُوَ مِنْهُمْ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: رَأَيْتُ عُمَرَ قَرَأَ صِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَلَ فَسَجَدَ فِيهَا ثُمَّ رَفِيَ عَلَى الْمِنْبَرِ
 * * سلیمان احوال بیان کرتے ہیں: مجاہد نے انہیں بتایا کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا: کیا
 سورہ ص میں سجدہ تلاوت ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی:

”اور ہم نے اُسے سہہ کیا“ انہوں نے یہ آیت یہاں تک تلاوت کیا: ”تو تم اُن لوگوں کی ہدایت کی پیروی کرو“۔

تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: وہ ان حضرات میں شامل ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے منبر پر سورہ ص کی تلاوت کی
 پھر وہ منبر سے نیچے اترے انہوں نے سجدہ تلاوت کیا پھر دوبارہ منبر پر چڑھ گئے۔

5863 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنِ عَلِيٍّ، وَذَكَرَهُ
الثَّوْرِيُّ، عَنِ عَاصِمٍ، أَيْضًا، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ عَلِيٍّ قَالَ: " الْعَزَائِمُ أَرْبَعٌ: الْمِ تَنْزِيلُ، وَحَمِ السَّجْدَةُ،
وَالنَّجْمُ، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ. " قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَنَا أَسْجُدُ فِي الْعَزَائِمِ كُلِّهَا - يَعْنِي الْعَزَائِمَ:
عِزْمَ عَلَيْكَ أَنْ تَسْجُدَ فِيهَا. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَنَا أَسْجُدُ فِيهَا، وَفِي جَمِيعِ السُّجُودِ إِذَا كُنْتُ وَحْدِي

* * حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: عزائم چار ہیں (یعنی سجدہ ہائے تلاوت چار ہیں) الم تنزیل میں ہم السجدہ میں سورہ
 نجم میں سورہ اقراء باسم ربك الذي خلق میں۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں ان تمام عزائم میں سجدہ تلاوت کرتا ہوں۔ یہاں عزائم سے مراد یہ ہے کہ تم پر اس موقع
 پر سجدہ تلاوت کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔

امام عبدالرزاق فرماتے ہیں: میں ان مواقع پر سجدہ تلاوت کرتا ہوں اور جب میں اکیلا ہوں تو دیگر تمام مقامات سجدہ پر سجدہ
 تلاوت کرتا ہوں۔

5864 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ سَجَدَ

فِي ص

* * سائب بن یزید فرماتے ہیں: میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سورہ ص میں سجدہ تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

5865 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي ص، وَلَيْسَتْ ص مِنَ الْعَزَائِمِ

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ ص میں سجدہ تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن سورہ ص کا سجدہ تلاوت لازم نہیں ہے۔

5866 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ ص عَلَى الْمِنْبَرِ، فَنَزَلَ فَسَجَدَ

*** حضرت ابومالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر سورہ ص کی تلاوت کی، پھر آپ منبر سے اترے اور آپ نے سجدہ تلاوت کیا۔

5867 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، سَجَدَ فِي ص

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام ابو معبد بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو سورہ ص میں سجدہ تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

5868 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ فِي ص سَجْدَةً؟ قَالَ: نَعَمْ، (أَوْلَيْكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدُهُ)

*** عبید اللہ بن ابویزید بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو سنا کہ ان سے سورہ ص میں سجدہ تلاوت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! (اور اس کی دلیل یہ آیت ہے:)

”یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی تو تم ان لوگوں کی ہدایت کی پیروی کرو۔“

5869 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ كَأَنَّ رَجُلًا يَكْتُبُ الْقُرْآنَ وَشَجَرَةً حِذَاءَهُ، فَلَمَّا مَرَّ بِمَوْضِعِ السَّجْدَةِ الَّتِي فِي ص سَجَدَتْ وَقَالَتْ: اللَّهُمَّ أَحْدِثْ لِي بِهَا شُكْرًا، وَأَعْظِمْ لِي بِهَا أَجْرًا، وَاحْطُطْ بِهَا وَرِزًّا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتَحْنُ أَحَقُّ مِنَ الشَّجَرَةِ

*** بکر بن عبداللہ بن مزنی بیان کرتے ہیں: ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اُس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے دیکھا، جیسے ایک شخص قرآن پاک تحریر کر رہا ہے اور اُس کے مد مقابل ایک درخت ہے، جب وہ شخص سورہ ص میں موجود آیت سجدہ پر پہنچا تو اُس درخت نے سجدہ کیا اور اُس درخت نے یہ کہا:

”اے اللہ! تو اس کی وجہ سے مجھے شکر کی دولت عطا کر اور اس کی وجہ سے میرے اجر میں اضافہ کر دے اور اس کی وجہ سے میرے گناہوں کو ختم کر دے!“

تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ہم (یہ کلمات کہنے کے) درخت کے مقابلہ میں زیادہ حقدار ہیں۔

5870 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَجْدَةٍ ص: سَجَدَهَا دَاوُدُ تَوْبَةً، وَسَجَدْتُهَا شُكْرًا

* * * عمر بن ذر اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے سورہ ص کے سجدہ تلاوت کے بارے میں یہ فرمایا

ہے: حضرت داؤد علیہ السلام نے توبہ کے طور پر یہ سجدہ کیا تھا اور ہم شکر کے طور پر یہ سجدہ کرتے ہیں۔

5871 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَسْجُدُ فِي ص

* * * طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: وہ سورہ ص میں سجدہ تلاوت کرتے

تھے۔

5872 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَةَ بْنَ أَبِي لُبَابَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ

يَقُولُ فِي ص سَجْدَةً

* * * عبدہ بن ابولبابہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: سورہ ص میں

سجدہ تلاوت ہے۔

5873 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّمَا هِيَ تَوْبَةٌ نَبِيِّ ذِكْرَتْ. فَكَانَ لَا يَسْجُدُ فِيهَا - يَعْنِي ص -

* * * مسروق بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہاں ایک نبی کی توبہ کا ذکر ہے۔ راوی کہتے

ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس موقع پر سجدہ تلاوت نہیں کرتے تھے، یعنی سورہ ص میں سجدہ تلاوت نہیں کرتے تھے۔

5874 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ سَعِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ فِطْرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَسْجُدُ

فِي الْأَخِرَةِ مِنْ حَمٍ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ

* * * مجاہد بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دوسری کے آخر میں وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ پر سجدہ تلاوت کرتے

تھے۔

5875 - آثار صحابہ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، أَنَّ ابْنَ

عَبَّاسٍ، قَالَ لِرَجُلٍ سَجَدَ فِي الْأُولَى: " (إِنْ كُنْتُمْ آيَاهُ تَعْبُدُونَ) (البقرة: 172): عَجِلْتَ "

* * * شہر بن حوشب بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک شخص سے یہ فرمایا: تم نے جلدی کی ہے اس

شخص نے پہلے سورت میں اس آیت پر سجدہ تلاوت کیا تھا۔

5876 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:

"أَنَّكَ كَانَ يَسْجُدُ فِي الْأَخِرَةِ (وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ) (فصلت: 38) "

* * حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آخری سورت میں یہاں سجدہ تلاوت کرتے تھے: (وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ) (فصلت)

(38)

5877 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة بن مصرف، عن إبراهيم أنه كان يسجد فيها (وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ) (فصلت: 38)

* * ابراہیم نخعی کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ اس مقام پر سجدہ تلاوت کرتے تھے: (وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ)

(فصلت: 38)

5878 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، أن الحسن كان يسجد في الأولى (إن كنتم آياه تعبدون) (البقرة: 172)

* * قتادہ بیان کرتے ہیں: حسن بصری پہلی میں سجدہ تلاوت کرتے تھے: (إن كنتم آياه تعبدون) (البقرة: 172)

5879 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق قال: سمعته يذكر عن بعضهم " أنه كان يسجد في الأولى (إن كنتم آياه تعبدون) (البقرة: 172)

* * ابو اسحاق نے بعض حضرات کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: وہ پہلی سورت میں اس مقام پر سجدہ تلاوت کرتے تھے: (إن كنتم آياه تعبدون) (البقرة: 172)

5880 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن مالك، ومعمّر، عن الزهري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، أن عمر، سجد في النجم، قام فوصل إليها سورة

* * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سورہ نجم میں سجدہ تلاوت کیا پھر وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک اور سورت ملا کر پڑھی۔

5881 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن عكرمة بن خالد، عن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في النجم فسجد الناس معه. قال المطلب: ولم أسجد معهم - هو يومئذ مشرك. قال المطلب: فلا أدع أن أسجد فيها أبداً وبه نأخذ

* * حضرت مطلب بن ابو وداعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے سورہ نجم میں سجدہ تلاوت کیا تو آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی سجدہ تلاوت کیا۔ حضرت مطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے ان لوگوں کے ساتھ سجدہ تلاوت نہیں کیا۔ راوی کہتے ہیں: اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان دنوں مشرک تھے۔ حضرت مطلب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: اب میں اس سورت میں سجدہ تلاوت کو کبھی ترک نہیں کروں گا۔

(امام عبد الرزاق فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔)

5882 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن حصين بن سبرة.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَرَأَ فِي الْفَجْرِ يَوْسُفَ، فَرَكَعَ، ثُمَّ قَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ بِالنَّجْمِ، قَامَ فَسَجَدَ، ثُمَّ قَرَأَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

*** حصین بن سبرہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: انہوں نے فجر کی نماز میں سورہ یوسف کی تلاوت کی پھر وہ رکوع میں گئے پھر انہوں نے دوسری رکعت میں سورہ نجم کی تلاوت کی اور وہ قیام سے سجدہ میں چلے گئے پھر انہوں نے سورہ زلزال کی تلاوت کی۔

5883 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ، أَنَّ عَمَّارًا، سَجَدَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ

*** زر بن حبیش بیان کرتے ہیں: حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے سورہ انشقاق میں سجدہ تلاوت کیا۔

5884 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ يَسْجُدَانِ فِي إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ - ثُمَّ قَالَ: أَوْ أَحَدَهُمَا، وَبِهِ نَأْخُذُ -

*** اسود بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کو سورہ انشقاق میں سجدہ تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ (پھر انہوں نے یہ کہا) کہ شاید ان میں سے کسی ایک شخص کو دیکھا ہے۔
(امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں:) ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

5885 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَسْجُدُ فِي إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ "

*** زہری بیان کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سورہ انشقاق میں سجدہ تلاوت کیا کرتے تھے۔

5886 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ يَسْجُدُ فِيهَا، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْجُدُ فِيهَا *** ابن سیرین بیان کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس میں سجدہ تلاوت کرتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت میں سجدہ تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

5887 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَا، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورہ انشقاق اور سورہ العلق میں سجدہ تلاوت کیا ہے۔

5888 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَيْسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أَسْجُدُ

فِي إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ

** امام عامر شمعی بیان کرتے ہیں: میں سورۃ الشقاق میں سجدہ تلاوت کروں گا۔

5889 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَلِيكَةَ، عَنْ عُثْمَانَ

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَدَيْرِ، أَنَّهُ حَضَرَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةَ النَّحْلِ حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ، نَزَلَ فَسَجَدَ، وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْقَابِلَةَ قَرَأَهَا حَتَّى إِذَا جَاءَ السَّجْدَةَ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا نَمَرُ بِالسَّجْدَةِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَأَحْسَنَ، وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ قَالَ: " وَلَمْ يَسْجُدْ عُمَرُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَزَادَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يُفْرَضِ السُّجُودُ عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءُ "

** ربیعہ بن عبد اللہ بن ہدیہ بیان کرتے ہیں: وہ جمعہ کے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے جنہوں

نے منبر پر سورۃ نحل کی تلاوت کی جب وہ سجدہ کے مقام پر آئے تو وہ منبر سے نیچے اترے انہوں نے سجدہ تلاوت کیا ان کے ساتھ لوگوں نے بھی سجدہ تلاوت کیا جب اگلا جمعہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر اس سورت کی تلاوت کی یہاں تک کہ سجدہ والی آیت پر پہنچے تو انہوں نے فرمایا: اے لوگو! ہم سجدہ والی آیت سے گزرنے لگے ہیں تو جو شخص سجدہ تلاوت کر لے گا تو وہ ٹھیک کرے گا اور اچھا کرے گا اور جو شخص نہیں کرے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔

راوی کہتے ہیں: تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ تلاوت نہیں کیا۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں: نافع نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے یہ بات مزید نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ

نے یہ فرمایا: ہم پر سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے البتہ اگر ہم چاہیں (تو کر سکتے ہیں)۔

5890 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يَسْجُدَانِ فِي

الْحَجِّ سَجْدَتَيْنِ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ سَجَدْتُ فِيهَا وَاحِدَةً كَانَتِ السَّجْدَةُ الْآخِرَةَ أَحَبَّ إِلَيَّ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ فَضِلْتُ بِسَجْدَتَيْنِ

** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عمر اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سورۃ حج میں دو مرتبہ سجدہ تلاوت کرتے

تھے۔ وہ یہ بھی روایت کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اگر میں اس سورت میں ایک سجدہ کروں تو دوسرے والا سجدہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہوگا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ بھی فرماتے ہیں: اس سورت کو اس اعتبار سے فضیلت دی گئی ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں۔

5891 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْجُدُ فِي الْحَجِّ

سَجْدَتَيْنِ

** عبد اللہ بن دینار بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سورۃ حج میں دو جگہ سجدہ تلاوت کرتے

ہوئے دیکھا ہے۔

5892 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

فِي سُورَةِ الْحَجِّ الْأُولَى عَزِيمَةٌ وَالْآخِرَةُ تَعْلِيمٌ، وَكَانَ لَا يَسْجُدُ فِيهَا

* * سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: سورہ حج میں پہلا سجدہ عزیمت کے طور پر

ہے (یعنی لازم ہے) اور دوسرا تعلیم دینے کے لیے ہے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما دوسرا سجدہ نہیں کرتے تھے۔

5893 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَرَأَ

النَّجْمَ يَسْجُدُ فِيهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَإِنْ لَمْ يَسْجُدْ رَكَعٌ "

* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب سورہ نجم کی تلاوت کرتے تھے تو وہ اس میں سجدہ تلاوت

کرتے تھے خواہ وہ نماز ادا کر رہے ہوں اور اگر وہ نماز میں سجدے میں نہیں جاتے تھے تو رکوع میں چلے جاتے تھے۔

5894 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَضِلْتُ

سُورَةَ الْحَجِّ بِسَجْدَتَيْنِ

* * حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: سورہ حج کو دو سجدوں کے ساتھ فضیلت عطا کی گئی ہے۔

5895 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنْبَأَنِي مَنْ رَأَى، عُمَرَ بِالْجَابِيَةِ،

سَجَدَ فِي الْحَجِّ مَرَّتَيْنِ

* * سعد بن ابراہیم بیان کرتے ہیں: مجھے اُس شخص نے یہ بات بتائی ہے جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو "جابیہ" کے مقام

پر سورہ حج میں دو مرتبہ سجدہ تلاوت کرتے ہوئے دیکھا۔

5896 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْجُدُ فِي إِذَا

السَّمَاءُ انْشَقَّتْ "

* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سورہ اذا السماء انشقت میں سجدہ تلاوت کرتے تھے۔

5897 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ

كَانَ إِذَا قَرَأَ بِالنَّجْمِ سَجَدَ، وَإِذَا قَرَأَ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَكَعَ وَسَجَدَ، وَإِذَا قَرَأَ بِهَا فِي

غَيْرِ الصَّلَاةِ سَجَدَ فِيهِمَا "

* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب سورہ نجم کی تلاوت کرتے تھے تو سجدہ تلاوت بھی کرتے تھے

اور جب سورہ اقرأ باسم ربك الذي خلق کی تلاوت کرتے تھے تو وہ تکبیر کہہ کر رکوع میں جاتے تھے اور سجدہ کرتے تھے لیکن جب وہ

نماز کے علاوہ اس سورت کی تلاوت کرتے تھے تو وہ ان دونوں سورتوں میں سجدہ تلاوت کرتے تھے۔

5898 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: إِذَا سَجَدَتْ

فِي سَجْدَةٍ فَلَا تَرَكَ حَتَّى تَقْرَأَ بَعْدَهَا آيَاتٍ

*** سلیمان بن موسیٰ فرماتے ہیں: جب تم آیت سجدہ تلاوت کرو تو اس وقت تک سجدہ میں نہ جاؤ جب تک اس کے بعد بھی کچھ آیات تلاوت نہیں کر لیتے۔

5899 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنِ النَّجْمِ، أَيْهَا سَجْدَةٌ؟ قَالَ زَيْدٌ: قَرَأْتُهَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَسْجُدْ

*** عطاء بن یسار کے بارے میں یہ بات منقول ہے: انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سورہ نجم کے بارے میں دریافت کیا: کیا اس میں سجدہ تلاوت ہے؟ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سورت تلاوت کی تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ تلاوت نہیں کیا تھا۔

5900 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ فِي الْمُفْصَلِ سَجْدَةٌ.

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: کسی بھی مفصل سورت میں سجدہ تلاوت نہیں ہے۔

5901 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے۔

5902 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ أَنَسًا، وَالْحَسَنَ، يَقُولَانِ: لَيْسَ فِي الْمُفْصَلِ سَجْدَةٌ

*** حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حسن بصری فرماتے ہیں: کسی مفصل سورت میں سجدہ تلاوت نہیں ہے۔

5903 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ مِثْلَهُ

*** عطاء سے بھی اس کی مانند روایت منقول ہے۔

5904 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَمَّنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ قَالَ: سَجَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُفْصَلِ إِذْ كَانَ بِمَكَّةَ يَقُولُ: ثُمَّ لَمْ يَسْجُدْ بَعْدُ

*** عکرمہ فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو مفصل سورت میں سجدہ تلاوت کرتے تھے اس کے بعد آپ نے یہ سجدہ تلاوت نہیں کیا۔

بَابُ السَّجْدَةِ عَلَيَّ مِنْ اسْتَمْعَافِهَا

باب: (آیت سجدہ کو) سننے والے شخص کو سجدہ تلاوت لازم ہونا

5905 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السُّجُودُ وَاجِبٌ؟ قَالَ: لَا، بَلْغَنِي

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَقْرَأُ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ فَسَجَدَ مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ: لَوْلَا أَنَّكُمْ سَجَدْتُمْ مَا سَجَدْتُ،
وَلَيْسَ فِي الصَّلَاةِ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا سجدہ تلاوت لازم ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک ایسی سورت کی تلاوت کی جس میں سجدہ تلاوت تھا تو ان کے آس پاس موجود لوگوں نے سجدہ تلاوت کیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر تم لوگوں نے سجدہ نہ کیا ہوتا تو میں یہ سجدہ نہ کرتا، کیونکہ یہ نماز میں نہیں ہے۔

5906 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ، أَنَّ عُمَانَ، مَرَّ بِقَاصِ فَقَرَأَ سَجْدَةً لِيَسْجُدَ مَعَهُ عُمَانُ، فَقَالَ عُمَانُ: إِنَّمَا السُّجُودُ عَلَى مَنْ اسْتَمَعَ ثُمَّ مَضَى وَلَمْ يَسْجُدْ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَدْ كَانَ ابْنُ الْمُسَيْبِ يَجْلِسُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ وَيَقْرَأُ الْقَاصِ السَّجْدَةَ فَلَا يَسْجُدُ مَعَهُ، وَيَقُولُ: إِنِّي لَمْ أَجْلِسْ لَهَا
*** سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا گزر ایک واعظ کے پاس سے ہوا جس نے آیت سجدہ تلاوت کی تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اُس کے ساتھ سجدہ تلاوت میں شریک ہوں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: سجدہ تلاوت اُس شخص پر لازم ہوتا ہے جو توجہ سے آیت کو سنتا ہے۔ پھر وہ تشریف لے گئے اور انہوں نے سجدہ تلاوت نہیں کیا۔

زہری بیان کرتے ہیں: سعید بن مسیب مسجد کے گوشے میں بیٹھے ہوئے ہوتے تھے کوئی واعظ آیت سجدہ تلاوت کر لیتا تھا لیکن سعید بن مسیب اُس کے ساتھ سجدہ تلاوت نہیں کرتے تھے وہ یہ فرماتے ہیں: میں اس کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہوں۔

5907 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَبِي اسْحَاقَ، عَنِ سُلَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قَرَأْتُ عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ السَّجْدَةَ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَنْظُرُ أَنْتَ قَرَأْتَهَا، فَإِنْ سَجَدْتَ سَجَدْنَا

*** سلیم بن حنظلہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے آیت سجدہ تلاوت کی تو ان کی طرف دیکھا انہوں نے دریافت کیا: تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تلاوت تم کر رہے ہو اگر تم سجدہ کرو گے تو ہم بھی سجدہ کر لیں گے۔

5908 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا، فَإِنْ مَرَرْتَ فَسَجِدُوا فَلَيْسَ عَلَيْكَ سُجُودٌ

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: سجدہ تلاوت اُس شخص پر لازم ہوتا ہے جو تلاوت کے لیے بیٹھا ہوا ہو اگر تم گزرتے ہو اور لوگ سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو تم پر سجدہ کرنا لازم نہیں ہوگا۔

5909 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيِّ قَالَ: مَرَّ سَلْمَانُ عَلَى قَوْمٍ فَعُودٍ فَقَرَأُوا السَّجْدَةَ فَسَجَدُوا، فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ: لَيْسَ لَهَا غَدُونَا

*** ابو عبدالرحمن سلمی بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آیت سجدہ تلاوت کی تو سجدہ بھی کیا، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے کہا گیا تو انہوں نے فرمایا: ہم اس کے لیے

نہیں آئے ہیں۔

5910 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ الْحُصَيْنِ، مَرَّ بِقَاصٍ فَقَرَأَ الْقَاصُ سَجْدَةً فَمَضَى عِمْرَانُ وَلَمْ يَسْجُدْ مَعَهُ، وَقَالَ: إِنَّمَا السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ جَلَسَ لَهَا

*** حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے: ایک مرتبہ اُن کا گزرا ایک واعظ کے پاس سے ہوا اُس واعظ نے آیت سجدہ تلاوت کی تو حضرت عمران رضی اللہ عنہ آگے گزر گئے انہوں نے اُس کے ساتھ سجدہ تلاوت نہیں کیا انہوں نے فرمایا: سجدہ کرنا اُس شخص پر لازم ہوگا جو اس تلاوت (کو سننے کے لیے) بیٹھا ہوا ہو۔

5911 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا الْقُرْآنَ، فَإِذَا مَرَّ بِسَجْدَةٍ كَبَّرَ وَسَجَدَ فَسَجَدْنَا مَعَهُ *** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے جب آپ آیت سجدہ پڑھتے تھے تو تکبیر کہہ کر سجدہ میں چلے جاتے تھے آپ کے ساتھ ہم بھی سجدہ کرتے تھے۔

5912 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ، قَرَأَ عَلَى الْمِنْبَرِ سُورَةَ فِيهَا سَجْدَةٌ ثُمَّ نَزَلَ فَسَجَدَ وَسَجَدَ النَّاسُ مَعَهُ، فَقَرَأَ فِي الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا تِلْكَ السُّورَةَ، فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيبًا مِنَ السَّجْدَةِ تَهَيَّأَ النَّاسُ لِلْسُّجُودِ، فَقَالَ: "إِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَيْنَا إِلَّا أَنْ نَشَاءَ، فَقَرَأَهَا وَلَمْ يَسْجُدْ

*** ہشام بن عروہ نے اپنے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منبر پر ایک سورت تلاوت کی جس میں سجدہ موجود تھا پھر وہ منبر سے نیچے اترے انہوں نے سجدہ تلاوت کیا اُن کے ساتھ لوگوں نے بھی سجدہ تلاوت کیا۔ اُس سے اگلے جمعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی سورت کی پھر تلاوت کی جب وہ سجدہ والی آیت کے قریب پہنچے اور لوگ سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر ہم نہ چاہیں تو ہم پر یہ سجدہ کرنا لازم نہیں ہے پھر انہوں نے وہ آیت تلاوت کی اور سجدہ تلاوت نہیں کیا۔

5911- صحیح البخاری - کتاب الجمعة ابواب سجود القرآن - باب من سجد لسجود القارئ حدیث: 1039 صحیح مسلم - کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب سجود التلاوة - حدیث: 932 صحیح ابن خزيمة - کتاب الصلاة باب استحباب سجود المستمع لقراءة القرآن عند قراءة القارئ السجدة إذا - حدیث: 536 صحیح ابن حبان - باب الإمامة والجماعة باب الحدث في الصلاة - ذكر ما يستحب لمن سمع تلاوة القرآن ان يسجد عند سجود حدیث: 2805 المستدرک علی الصحیحین للحاکم - ومن کتاب الإمامة ' واما حدیث عبد الوہاب - حدیث: 754 سنن ابی داود - کتاب الصلاة باب تفریع ابواب السجود - باب فی الرجل یسمع السجدة وهو راكب حدیث: 1216 السنن الکبری للبیہقی - کتاب الصلاة جباة ابواب سجود التلاوة - باب من قال یکبر إذا سجد ویکبر إذا رفع ومن قال حدیث: 3521 مسند احمد بن حنبل ' مسند عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما - حدیث: 4531

5913 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جریج قال: قلت لعطاء: أوجب السجود في الصلاة؟ فقال: لا، فقال: إذا كان واجبا عليك في الصلاة وجب عليك في القراءة، قلت: أیه أحب إليك؟ قال: السجود

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا نماز کے دوران سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! پھر انہوں نے فرمایا: اگر یہ نماز کے دوران تم پر واجب ہوتا تو تلاوت کے وقت بھی تم پر واجب ہو جاتا۔ میں نے دریافت کیا: آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ بات کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: سجدہ کر لینا (زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن یہ واجب نہیں ہے)۔

5914 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن معمر، عن زید بن اسلم قال: قرأ رجل سورة فيها سجدة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال: يا رسول الله، ما في هذه السورة سجدة؟ قال: بلى، ولكنك كنت إماماً فلو سجدت سجدنا. وقاله ابن جریج، عن عطاء

* * زید بن اسلم بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی اکرم ﷺ کی موجودگی میں ایک سورت کی تلاوت کی جس میں آیت سجدہ بھی موجود تھی جب وہ شخص تلاوت کر کے فارغ ہوا تو اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا اس سورت میں آیت سجدہ نہیں ہے؟ نبی اکرم ﷺ نے جواب دیا: جی ہاں! لیکن جب تم امام (یعنی قاری) ہو تو تم سجدہ کرو گے، تو ہم سجدہ کریں گے۔ یہ بات ابن جریج نے بھی عطاء کے حوالے سے نقل کی ہے۔

5915 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن محمد بن عمار وغير واحد، عن عاصم، عن ابن سيرين قال: سئلت عائشة عن سجود القرآن، فقالت: حق لله تؤذونه أو تطوع تطوعونه، فما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة أو حط عنه بها خطيئة له أو جمعها له كليهما.

* * ابن سیرین بیان کرتے ہیں: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے قرآن کے سجدہ ہائے تلاوت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے جسے تم ادا کرتے ہو اور یہ ایک نفل کا کام ہے جسے تم نفل کی طور پر سرانجام دیتے ہو جو بھی مسلمان اللہ تعالیٰ کے لیے ایک مرتبہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس شخص کے درجہ کو بلند کرتا ہے اس سجدہ کی وجہ سے اس شخص کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان دونوں کا اکٹھے ذکر کیا تھا (یعنی درجہ بھی بلند ہوتا ہے اور گناہ بھی مٹ جاتا ہے)۔

5916 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن يحيى بن العلاء، عن زید بن اسلم

* * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت زید بن اسلم سے منقول ہے۔

5917 - حدیث نبوی: عبد الرزاق قال: أخبرنا الأوزاعي، عن الوليد بن هشام، عن خالد بن أبي

طلحة بن معدان قال: قلت لثوبان حديثي بحديث لعل الله ينفعني به قال: قلت له ذلك ثلاثاً، فقال: سمعت

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ

*** خالد بن ابوظلمہ بن معدان بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے گزارش کی: آپ مجھے کوئی حدیث سنائیے تاکہ اللہ تعالیٰ اُس کے ذریعہ مجھے نفع عطا کرے! راوی کہتے ہیں: میں نے تین مرتبہ اُن سے یہ گزارش کی تو انہوں نے بتایا: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

”جو بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مرتبہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کی وجہ سے اُس بندہ کو ایک درجہ کو بلند کرتا ہے اور سجدہ کی وجہ سے اُس بندہ کے ایک گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔“

5918 - آثار صحابہ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ آخِرَ السُّورَةِ فَارْكَعْ إِنْ شِئْتَ أَوْ اسْجُدْ فَإِنَّ السَّجْدَةَ مَعَ الرَّكْعَةِ. قُلْتُ: مَنْ حَدَّثَكَ هَذَا يَا أَبَا إِسْحَاقَ؟ قَالَ: أَصْحَابُنَا عَلْقَمَةُ، وَالْأَسْوَدُ، وَالرَّبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ

*** ابواسحاق بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب آیت سجدہ سورت کے آخر میں ہو تو پھر اگر تم چاہو تو رکوع میں چلے جاؤ یا سجدہ کر لو کیونکہ سجدہ رکوع کے ساتھ ہی ہو جائے گا۔

(معمر نامی راوی بیان کرتے ہیں:) میں نے دریافت کیا: اے ابواسحاق! آپ کو یہ روایت کس نے بیان کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہمارے ساتھیوں نے، علقمہ نے، اسود نے اور ربیع بن خثیم نے۔

5919 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا كَانَتِ السَّجْدَةُ خَاتِمَةَ السُّورَةِ فَإِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ، وَإِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ

*** حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب سجدہ سورت کے آخر میں ہو پھر اگر تم چاہو تو رکوع میں چلے جاؤ اور اگر چاہو تو سجدہ تلاوت کر کے (دوبارہ کھڑے ہو کر کچھ آیات کی تلاوت کر کے رکوع میں جاؤ)۔

5920 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ سَمِعَ امْرَأَةً قَرَأَتْ سَجْدَةً قَالَ: لَا يَتَّخِذُهَا إِمَامًا، وَلَكِنْ لِيَقْرَأَهَا ثُمَّ يَسْجُدُ

*** ابراہیم نخعی ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو کسی عورت کو آیت سجدہ تلاوت کرتے ہوئے سنتا ہے ابراہیم فرماتے ہیں: وہ اُس عورت کو امام نہیں بنا سکتا، لیکن اُسے چاہیے کہ خود اُس سجدہ کی تلاوت کر کے سجدہ تلاوت کر لے۔

5921 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْأَعْرَافُ، وَبَنِي إِسْرَائِيلَ، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، وَالنَّجْمِ، وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، إِنْ شَاءَ رَكَعَ، وَإِنْ شَاءَ سَجَدَ

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: سورہ اعراف، سورہ بنی اسرائیل، سورہ العلق، سورہ نجم اور سورہ انشقاق میں موجود سجدہ ہائے تلاوت (کے بارے میں حکم یہ ہے) کہ اگر آدمی چاہے تو رکوع میں چلا جائے اور اگر چاہے تو سجدہ کر لے۔

5922 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ مُغِيرَةَ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذْ مَرَرْتُ بِالنَّجْمِ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، وَبَنَى إِسْرَائِيلَ، وَآخِرِ الْأَعْرَافِ، فَإِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ ثُمَّ وَصَلْتَ بِهَا شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، وَإِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ

*** ابراہیم نخعی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں: جب تم سورہ نجم یا سورہ انشقاق یا سورہ العلق یا سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اعراف کے آخری حصہ کی تلاوت کرو (جس میں آیت سجدہ موجود ہو) تو اگر تم چاہو تو سجدہ کر لو پھر اس کے بعد قرآن کی کچھ اور آیات تلاوت کرو (اور پھر رکوع میں جاؤ) اور اگر تم چاہو تو (سجدہ تلاوت کیے بغیر) رکوع میں چلے جاؤ۔

5923 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا بَلَغْتَ السَّجْدَةَ فَإِنْ شِئْتَ جَعَلْتَهَا رَكَعَةً. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ ابْنُ طَاوُسٍ

*** عطاء فرماتے ہیں: جب تم سجدہ تلاوت پر پہنچو تو اگر تم چاہو تو سجدہ کی جگہ رکوع ہی کر لو۔

ابن جریر نے یہ بات نقل کی ہے: طاؤس نے بھی یہی بات بیان کی ہے۔

5924 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ رُبَّمَا كَانَ رَكَعَ فِي الْم تَنْزِيلُ إِذَا بَلَغَ السَّجْدَةَ، وَكَانَ لَا يَدْعُهَا كُلَّ لَيْلَةٍ أَنْ يَقْرَأَ بِهَا

*** طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: اُن کے والد بعض اوقات سورہ الم تنزیل میں آیت سجدہ پر پہنچتے تھے تو وہ رکوع میں چلے جاتے تھے وہ روزانہ رات کے وقت اس سورت کی تلاوت کرتے تھے۔

5925 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ، أَيُّ مَسْجِدٍ وَضِعَ بِالْأَرْضِ أَوَّلَ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قَالَ: قُلْتُ: فَكَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ سَنَةً ثُمَّ قَالَ: حَيْثُ أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ، فَهُوَ مَسْجِدٌ. فَكَانَ التَّمِيمِيُّ رُبَّمَا قَرَأَ فِي السَّجْدَةِ وَهُوَ يَمُرُّ فَسَجَدَ كَمَا هُوَ عَلَى الطَّرِيقِ

*** حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! زمین میں سب سے پہلی کون سی مسجد بنائی گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسجد حرام! میں نے دریافت کیا: پھر کون سی بنائی گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسجد اقصیٰ! میں نے دریافت کیا: ان دونوں کے درمیان کتنا فرق ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چالیس سال کا! پھر آپ نے ارشاد فرمایا: تمہیں جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے تم نماز ادا کر لو وہ جگہ جائے نماز ہوگی۔

تیسری نامی راوی بعض اوقات آیت سجدہ تلاوت کرتے تھے اور وہ اُس وقت کہیں سے گزر رہے ہوتے تھے تو وہ راستے میں ہی سجدہ تلاوت کر لیتے تھے۔

5926 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ مُغِيرَةَ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ السَّجْدَةَ فِي

الصَّلَاةِ فَيَسْجُدُ فَيُضِيفُ إِلَيْهَا أُخْرَى قَالَ: إِذَا فَرَغَ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ

*** ابراہیم نخعی ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں: جو نماز کے دوران آیت سجدہ تلاوت کرنے کے بعد سجدہ تلاوت کرتا ہے پھر مزید تلاوت کرتا ہے وہ فرماتے ہیں: ایسا شخص جب نماز سے فارغ ہوگا تو دوسرے سجدہ سہو کرے گا۔

5927 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَجَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا قَرَأْتَ

السَّجْدَةَ حَوْلَ الْبَيْتِ فَاسْتَقْبِلِ الْبَيْتَ وَأَوْمِءْ إِيْمَاءً

*** ابن ابویلی نے اور عطاء نے یہ بات بیان کی ہے: جب تم خانہ کعبہ کے آس پاس آیت سجدہ تلاوت کرو تو تم قبلہ کی طرف رخ کر کے اشارہ کر دو۔

5928 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ إِسْرَائِيلَ، عَنِ مَنْصُورٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ

السَّجْدَةَ وَهُوَ يَمْشِي فَيَوْمِءُ إِيْمَاءً

*** ابراہیم نخعی نے اسود کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: اگر وہ چلتے ہوئے سجدہ تلاوت کرتے تھے تو اشارہ کر دیتے تھے (یعنی اشارہ سے سجدہ کر لیتے تھے)۔

5929 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ إِسْرَائِيلَ، عَنِ ثَوْبَرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ

السَّجْدَةَ فَلَمْ يَسْجُدْ أَوْ مَا مِنْ وَرَاءَهُ

*** ثوبیر بن ابوفاختہ بیان کرتے ہیں: اُن کے والد فرماتے ہیں: جب امام آیت سجدہ تلاوت کرے اور سجدہ نہ کرے تو اُس کے پیچھے موجود شخص اشارہ کے ذریعہ (سجدہ تلاوت کر لے)۔

بَابُ التَّسْلِيمِ فِي السَّجْدَةِ

باب: سجدہ تلاوت کرنے کے بعد سلام پھیرنا

5930 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَأَبِي قَلَابَةَ كَانَا إِذَا

قَرَأَا بِالسَّجْدَةِ يُكْبِرَانِ إِذَا سَجَدَا وَيُسَلِّمَانِ إِذَا فَرَغَا

*** قتادہ نے ابن سیرین اور ابو قلابہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: یہ دونوں حضرات جب سجدہ تلاوت سے متعلق آیت پڑھتے تھے تو تکبیر کہہ کر سجدہ میں جاتے تھے اور سجدہ سے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیرتے تھے۔

5931 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ

فِي السَّجْدَةِ

*** حکم بن عتیبہ یہ بات نقل کرتے ہیں: ابو احوص سجدہ تلاوت کرنے کے بعد سلام پھیرتے تھے۔

5932 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ

يَقْرَأُ بِنَا وَنَحْنُ مُتَوَجِّهُونَ إِلَى بَيْتِ سُلَيْمٍ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فَيَمُرُّ بِالسَّجْدَةِ فَيَوْمُ إِيمَاءٍ ثُمَّ يُسَلِّمُ
 * * * عطاء بن سائب بیان کرتے ہیں: ابو عبد الرحمن ہمیں تلاوت سنایا کرتے تھے ہم اُس وقت بنو سلیم کی طرف رخ کیے
 ہوئے تھے اور ہمارا رخ قبلہ کی طرف نہیں تھا انہوں نے آیت سجدہ تلاوت کی تو اشارہ کے ذریعہ سجدہ تلاوت کیا اور پھر سلام
 پھیرا۔

5933 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوري، عن الحسن بن عبید اللہ، عن ابراهيم، وعن معمر،
عن رجل، عن الحسن قال: ليس في السجود تسليم
 * * * حسن بصری فرماتے ہیں: سجدہ تلاوت کے بعد سلام نہیں پھیرا جاتا۔

بَابُ هَلْ تُقْضَى السَّجْدَةُ

باب: کیا سجدہ تلاوت کی قضاء کی جائے گی؟

5934 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن شرحبيل، عن المغيرة بن حكيم قال: كنت
مع ابن عمر فقرأ قاص بسجدة بعد الصبح فصاح عليه ابن عمر فسجد القاص ولم يسجد ابن عمر، فلما
طلعت الشمس قضاها ابن عمر بقول: سجدها. وقال الثوري: تقضى السجدة اذا سمعتها ولم تسجدها
 * * * مغیرہ بن حکیم بیان کرتے ہیں: میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا اُن کا گزرا ایک واعظ کے پاس سے ہوا
 تو اُس نے صبح کی نماز کے بعد آیت سجدہ تلاوت کی۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اُسے بلند آواز میں پکارا لیکن وہ واعظ سجدہ میں
 چلا گیا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سجدہ تلاوت نہیں کیا جب سورج نکل آیا تو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس کی
 قضاء کی۔ وہ فرماتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے وہ سجدہ کیا تھا۔ سفیان ثوری کہتے ہیں: اگر تم آیت سجدہ کی تلاوت سننے
 کے بعد سجدہ نہیں کرتے تو تم اُس کی قضاء کرو گے۔

5935 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن ابراهيم قال: اذا سمعت السجدة
وانت على غير وضوء فتيمم ثم اسجد.
 * * * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جب تم آیت سجدہ کی تلاوت سنتے ہو اور تم اُس وقت بے وضو ہوتے ہو تو تم تیمم کر کے
 سجدہ تلاوت کر لو۔

5936 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور قال: سمعت حمادًا يحدث عن ابراهيم
قال: يتوضأ ويسجد

* * * حماد بیان کرتے ہیں: ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: آدمی وضو کر کے سجدہ تلاوت کرے گا۔

5937 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم قال: كان ابن عمر يصبح عليهم اذا

رَأَهُمْ - يَعْنِي الْقَصَاصَ - يَسْجُدُونَ بَعْدَ الصُّبْحِ قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِيهِ أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ
 * * * سالم میان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب واعظین کو صبح کی نماز کے بعد سجدہ تلاوت کرتے ہوئے
 دیکھتے تھے تو انہیں بلند آواز میں چیخ کر منع کرتے تھے۔
 یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ نافع سے منقول ہے۔

بَابُ إِذَا سَمِعْتَ السَّجْدَةَ وَأَنْتَ تُصَلِّي وَفِي كَمِّ يُمْرَأُ الْقُرْآنُ

باب: جب آپ نماز ادا کرنے کے بعد آیت سجدہ ن لیں

اور کتنے عرصہ میں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے (یعنی مکمل ختم کرنا چاہیے)

5938 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ السَّجْدَةَ
 وَأَنْتَ تُصَلِّي فَاسْجُدْ، فَإِنْ كُنْتَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا أَجْزَأَكَ مِنَ السَّجْدَةِ
 * * * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جب تم نماز ادا کرنے کے دوران آیت سجدہ کو سن لو تو تم سجدہ کر لو لیکن اگر تم (نماز ادا
 کرتے ہوئے) رکوع یا سجدہ کی حالت میں ہو تو یہ سجدہ تلاوت کی جگہ کافی ہوگا۔

5939 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ السَّجْدَةَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ
 فَاسْجُدْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ سَاجِدًا

* * * جابر بیان کرتے ہیں: جب تم نماز کے دوران آیت سجدہ کو سنو تو تم سجدہ تلاوت کرو البتہ اگر تم سجدہ کی حالت میں
 ہو تو حکم مختلف ہے۔

5940 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: إِنْ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا

* * * طاؤس فرماتے ہیں: (ایسی صورت حال میں) نماز خود ایک مشغولیت ہے۔

5941 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا تُدْخِلُ فِي
 صَلَاتِكَ مَا لَيْسَ فِيهَا. قَالَ سُفْيَانُ: وَنَقُولُ: أَقْضَاهَا بَعْدُ

* * * ابن سیرین فرماتے ہیں: تم اپنی نماز میں وہ چیز داخل نہ کرو جو نماز کا حصہ نہیں ہے۔

سفیان کہتے ہیں: ہم یہ کہتے ہیں کہ تم بعد میں اس کی قضاء کر لینا۔

5942 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُّكُمْ أَنْ يُحْزَبَ الْإِنْسَانُ بِسُورَةٍ

قَبْلَ سُورَةٍ؟ قَالَ: لَا

* * * ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا یہ بات مکروہ قرار دی گئی ہے کہ آدمی کسی ایک سورت
 سے پہلے کسی دوسری سورت کو وظیفہ کے طور پر مقرر کر لے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

5943 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ قَالَ: إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِي فَقَالَ: أَيُّ الْكُفِّ خَيْرٌ؟ فَقَالَتْ: وَيُحَكَ، وَمَا يَضُرُّكَ؟ قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَارِئِنِّي مُصْحَفِكَ لِعَلِّي أَوْلَفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ فَإِنَّا نَقْرَاهُ غَيْرَ مُؤَلَّفٍ قَالَتْ: " وَمَا يَضُرُّكَ أَيُّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ، إِنَّمَا أَنْزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ الْمَفْصَلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى إِذَا تَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلَامِ نَزَلَ الْحَلَالُ وَالْحُرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ لَا تَشْرَبُوا الْخَمْرَ لَقَالُوا: لَا نَدْعُ الْخَمْرَ أَبَدًا، وَلَوْ نَزَلَ لَا تَقْرُبُوا النِّسَاءَ لَقَالُوا: لَا نَدْعُ أَبَدًا، لَقَدْ نَزَلَ بِمَكَّةَ - وَإِنِّي لَجَارِيَةٌ الْعَبِّ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السَّاعَةَ أَذْهَى وَأَمْرٌ، وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَهُ " قَالَ: فَأَخْرَجَتْ لَهُ الْمُصْحَفَ فَأَمَلَتْ عَلَيْهِ آيَ السُّورِ

* * یوسف بن ماہک بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس موجود تھا، ایک عراقی شخص اُن کے پاس آیا اور بولا: کون سا کفن زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: تمہارا استیانس ہو! تمہیں کیا نقصان ہے؟ اُس نے عرض کی: اے ام المؤمنین! آپ اپنا مصحف مجھے دکھائیں تاکہ میں اُس سے قرآن مجید کو نقل کر لوں، کیونکہ ہم اسے مرتب شدہ انداز میں نہیں پڑھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اگر تم کسی ایک چیز کو پہلے پڑھ لیتے ہو، قرآن مجید میں سے ایک سورت نازل ہوئی، جو مفصل سورتوں میں سے ہے، اُس میں جنت اور جہنم کا ذکر تھا، پھر جب لوگ اسلام کی طرف مائل ہو گئے، تو حرام اور حلال سے متعلق حکم نازل ہو گیا، اگر آغاز میں ہی یہ آیت نازل ہو جاتی کہ تم شراب نہ پیو! تو لوگوں نے یہ کہنا تھا کہ ہم تو شراب کبھی نہیں چھوڑیں گے اور اگر یہ آیت نازل ہو جاتی کہ تم لوگ عورتوں کے قریب نہ جاؤ! تو لوگوں نے یہی کہنا تھا کہ ہم اسے کبھی ترک نہیں کریں گے، جب مکہ میں قرآن نازل ہوا، تو میں اُس وقت ایک کسن لڑکی تھی، جو کھیلا کودا کرتی تھی اور اُس میں یہ آیت نازل ہوئی السَّاعَةَ أَذْهَى وَأَمْرٌ پھر جب سورہ بقرہ نازل ہوئی، تو میری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہو چکی تھی۔ راوی بیان کرتے ہیں: پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اُس شخص کے سامنے قرآن مجید نکالا اور اُسے کچھ سورتوں کی کچھ آیات کی املاء کروائی۔

5944 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ أَوْ رَادًا، ثُمَّ يُصَيِّفُ إِلَيْهَا سُورَةً أُخْرَى مِنَ الْقُرْآنِ، حَتَّى كَانَ رُبَّمَا أَضَافَ إِلَيْهَا سَبْعَ الْقُرْآنِ، وَكَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي سَبْعٍ. " قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةَ يَقْرَأُهُ فِي سَبْعٍ

* * ایوب اور دیگر حضرات نے یہ بات نقل کی ہے: ابن سیرین قرآن مجید کے اُوراد کو پڑھتے تھے (یعنی مختلف حصے متعین کر کے وظیفہ کے طور پر پڑھتے تھے) پھر وہ اُس کے ساتھ قرآن مجید کی کوئی دوسری سورت ملا دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ اُس کے ساتھ قرآن مجید کی سات سورتیں ملا دیتے تھے، وہ سات دن میں قرآن پڑھ لیتے تھے۔

معمر بیان کرتے ہیں: قتادہ سات دن میں پورا قرآن پڑھتے تھے۔

5945 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ حُصَيْنِ، عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ، يَقْرَأُ الْقُرْآنَ حَتَّى كَانَ وَمَا يَسْتَعِينُ مِنَ النَّهَارِ إِلَّا بِسِيرٍ

*** عبید اللہ بن عتبہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے یہاں تک کہ وہ دن میں سے صرف تھوڑے سے حصہ سے مدد حاصل کرتے تھے۔

5946 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود قال: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلِّ مِنْ ثَلَاثٍ فَهُوَ رَاجِزٌ.

*** حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جس شخص نے تین دن سے کم عرصہ میں پورے قرآن میں پڑھ لیا وہ شخص رجز پڑھنے والا ہے۔

5947 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، والثوري، عن علي بن بديمة، عن أبي عبيدة بن عبد الله عن ابن مسعود مثله

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

5948 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله: لا تقرأوا القرآن في أقل من ثلاث، اقرأوه في سبع، ويحافظ الرجل يوماً وليلاً على جزئه

*** ابو احوص بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: تین دن سے کم میں پورا قرآن نہ پڑھ لو تم سات دن میں اسے مکمل پڑھو آدمی باقاعدگی کے ساتھ اپنے معمول کے حصہ کی تلاوت کرے۔

5949 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، والثوري، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب قال: سمعت أبا بن كعب، أنا لنقرأ أو - إني لأقرأه - في ثمان

*** ابو مہلب بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: ہم (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) میں آٹھ دن میں پورا قرآن پڑھتا ہوں۔

5950 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أبي العالیه، أن معاذ بن جبل، كره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث

*** ابو العالیہ بیان کرتے ہیں: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تین دن سے کم میں پورا قرآن پڑھ لینے کو مروہ قرار دیتے تھے۔

5951 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن رجل، من الأنصار، عن أبيه قال: سألت زيد بن ثابت عن الرجل يقرأ القرآن في سبع، فقال: حسن، ولأن أقرأه في خمس عشرة - أو عشرين - أحب إلي، أقف فيه وأدبر

*** یحییٰ بن سعید نے ایک انصاری شخص کے حوالے سے اس کے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے: میں نے حضرت زید بن

ثابت بن العتیب سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو سات دن میں پورا قرآن پڑھ لیتا ہے تو انہوں نے جواب دیا: یہ اچھا ہے! لیکن اگر میں پندرہ یا بیس دن میں اسے مکمل کروں تو یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوگا کہ میں اسے ٹھہر کر اور اس میں غور و فکر کر کے اس کی تلاوت کروں۔

5952 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَانَ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ يُحْيِي بِهَا لَيْلَةً. " قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،: وَذَكَرَهُ هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ

* * ابن سیرین بیان کرتے ہیں: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رات کو نوافل ادا کرتے ہوئے ایک رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت کر لیتے تھے۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: ہشام نے ابن سیرین کے حوالے سے اس کی مانند نقل کیا ہے۔

5953 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ " قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي الْكَعْبَةِ فِي رَكْعَةٍ، وَقَرَأَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخَرَى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: لَا بَأْسَ أَنْ تَقْرَأَهُ فِي لَيْلَةٍ إِذَا فَهِمْتَ حُرُوفَهُ

* * سعید بن جبیر کے بارے میں یہ بات منقول ہے: انہوں نے خانہ کعبہ میں ایک رکعت میں پورے قرآن کی تلاوت کی پھر انہوں نے دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کی۔

سفیان ثوری فرماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر تم ایک رات میں پورے قرآن کی تلاوت کر لیتے ہو جبکہ تمہیں اس کے حروف کی سمجھ آ رہی ہو۔

5954 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَتَيْنِ، وَيَنَامُ مَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ فِي رَمَضَانَ

* * ابراہیم نخعی نے اسود کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: وہ دو راتوں میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے وہ رمضان کے مہینہ میں صرف مغرب اور عشاء کے درمیان سوتے تھے۔

5955 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي رَمَضَانَ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ فَإِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ قَرَأَهُ فِي لَيْلَتَيْنِ وَاغْتَسَلَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ

* * مغیرہ نے عمران کے حوالے سے ابراہیم نخعی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: وہ رمضان کے مہینہ میں تین دن میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے جب آخری عشرہ آتا تو وہ دو راتوں میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے وہ روزانہ رات کے وقت غسل کیا کرتے تھے۔

5956 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَكِيمٍ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: جَمَعْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُهُ فِي لَيْلَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أَفْرَقُ أَنْ يَطُولَ عَلَيْكَ الزَّمَانُ وَأَنْ تَمَلَّ، أَقْرَأُ بِهِ فِي شَهْرٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَسْتَمِعُ مِنْ قَوَّتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَ: أَقْرَأُ فِي عِشْرِينَ قَالَ: أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَسْتَمِعُ مِنْ قَوَّتِي وَشَبَابِي قَالَ: أَقْرَأُ فِي عَشْرَةٍ قَالَ: أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ، دَعْنِي أَسْتَمِعُ مِنْ قَوَّتِي وَمِنْ شَبَابِي قَالَ: أَقْرَأُ فِي سَبْعٍ قُلْتُ: أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ: دَعْنِي أَسْتَمِعُ مِنْ قَوَّتِي، فَأَبَى

*** حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے پورا قرآن یاد کر لیا، میں ایک رات میں اسے پڑھ لیتا تھا تو نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم پر طویل زمانہ گزرے گا (یعنی تمہاری عمر زیادہ ہو جائے گی) اور پھر تم اکتاہٹ کا شکار ہونے لگو گے، تم ایک مہینہ میں قرآن مجید ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنی قوت اور جوانی سے فائدہ حاصل کر لوں۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم بیس دن میں پورا قرآن پڑھ لیا کرو! انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنی قوت اور جوانی سے فائدہ حاصل کر لوں۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم دس دن میں پورا قرآن پڑھ لیا کرو! انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنی قوت اور جوانی سے فائدہ حاصل کر لوں۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم سات دن میں پورا قرآن پڑھ لیا کرو! میں نے عرض کی: آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنی قوت سے فائدہ حاصل کروں۔ تو نبی اکرم ﷺ نے یہ بات نہیں مانی۔

5957 - حدیث نبوی: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ؟ قَالَ: فِي أَرْبَعِينَ قَالَ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فِي شَهْرٍ قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثُمَّ قَالَ: فِي عَشْرٍ ثُمَّ قَالَ: فِي سَبْعٍ لَمْ يَنْزِلْ مِنْ سَبْعٍ

*** حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے سوال کیا: کتنے عرصہ میں پورا قرآن پڑھ لیا جانا چاہیے؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: چالیس دن میں! انہوں نے عرض کی: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ایک مہینہ میں! انہوں نے عرض کی: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں! نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: پندرہ دن میں پھر آپ ﷺ نے فرمایا: دس دن میں پھر آپ ﷺ نے فرمایا: سات دن میں! لیکن آپ نے سات دن سے کم کی اجازت نہیں دی۔

5958 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي كَمْ يُقْرَأُ الْقُرْآنُ؟ فَقَالَ: فِي شَهْرٍ فَقَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ سِمَاكِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى ثَلَاثٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَهُ فِيمَا دُونَ ثَلَاثٍ لَمْ يَفْهَمْهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَّغَنِي أَنَّهُ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ فَلَمْ يُسْرِعْ وَلَمْ يُبْطِءْ، وَمَنْ قَرَأَهُ فِي عِشْرِينَ فَهُوَ كَالْجَوَادِ الْمُضْمَرِ *** قِطَاعَهُ بَيَانُ كَرْتِي هِي: حَضْرَتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نَبِيَّ الْكَرِيمِ ﷺ سَعِ سَوَالِ كَيْفَا: كَتْنِي عَرَصَهُ مِي پُورَا قُرْآنِ

پڑھ لیا جانا چاہیے؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ایک ماہ میں! انہوں نے عرض کی: میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں! اُس کے بعد راوی نے حسب سابق حدیث نقل کی ہے یہاں تک کہ تین دن تک بات آگئی تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جو شخص تین دن سے کم میں پورا قرآن پڑھ لیتا ہے وہ اُسے سمجھتا ہی نہیں ہے۔

معمربیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے: جو شخص ایک ماہ میں پورا قرآن پڑھتا ہے وہ نہ تو زیادہ تیزی سے پڑھتا ہے اور نہ ہی سستی سے پڑھتا ہے اور جو شخص بیس دن میں پورا قرآن پڑھتا ہے تو وہ تربیت یافتہ گھوڑے کی مانند ہوتا ہے۔

5959 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن رجل، عن شعبة، عن سعيد بن أبي بردة قال: وقد ذكر معمر بعضه، عن سعيد بن أبي بردة قال: سمعت أبي يحدث، عن أبي موسى قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، فقال لهما: يسرا ولا تعسرا، ولا تفرقا، وتطاوعا قال أبو موسى: إن شرابا يصنع بأرضنا من العسل يقال البتع ومن الشعير يقال له المززر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام

قال معاذ لابن موسى: كيف تقرأ القرآن؟ قال: أقرأه في صلاتي وعلى راحلتي ومضطجعا وقاعداً أتفوقه تفوقاً، قال معاذ: لكني أنام ثم أقوم فأقرأه - يعني جزاءه -، فأحتسب نومتي كما احتسب قومتي، فكان معاذ بن جبل فضل عليه

*** حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب نبی اکرم ﷺ نے حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو یمن بھیجا تو ان دونوں سے فرمایا: تم دونوں آسانی فراہم کرنا، تنگی کا شکار نہ کرنا، ایک دوسرے سے جدا نہ ہونا، مل جل کے رہنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عرض کی: ہماری سرزمین پر شہد سے ایک مشروب بنایا جاتا ہے جسے ”بتع“ کہا جاتا ہے اور جو سے بنایا جاتا ہے جسے ”مززر“ کہا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم ﷺ نے ان سے فرمایا: ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا: آپ قرآن کی تلاوت کیسے کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: میں نماز میں بھی اس کی تلاوت کرتا ہے اپنی سواری پر رہتے ہوئے بھی اس کی تلاوت کرتا ہوں، لیٹ کر بھی اسے پڑھ لیتا ہوں، بیٹھ کر بھی اسے پڑھ لیتا ہوں، میں ہر حال میں اسے پڑھتا ہوں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: لیکن میں تو سو جاتا ہوں پھر اٹھتا ہوں اور اس کی تلاوت کرتا ہوں (یعنی اپنے مخصوص حصہ کی تلاوت کرتا ہوں) تو میں اپنی نیند کے ذریعہ اسی طرح ثواب کی امید رکھتا ہوں، جس طرح اپنے قیام کے ذریعہ ثواب کی امید رکھتا ہوں۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اس حوالے سے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ پر فضیلت حاصل ہوئی۔

بَابُ سُجُودِ الرَّجُلِ شُكْرًا

باب: آدمی کا سجدہ شکر کرنا

5960 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، عن محمد بن علي قال: مر رسول الله صلى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ نَعَّاشٍ يُقَالُ لَهُ: زَنِيمٌ فَخَرَّ سَاجِدًا، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ
 * * * امام محمد باقر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پستہ قامت شخص کے پاس سے گزرے
 جسے ”زیم“ کہا جاتا تھا تو آپ سجدہ میں چلے گئے پھر آپ نے سر اٹھایا اور ارشاد فرمایا: میں اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتا
 ہوں۔

5961 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه
 قَالَ: لَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَزَلَّتْ تَوْبَتُهُ خَرَّ سَاجِدًا

* * * عبد الرحمن بن كعب بن مالك نے اپنے والد (حضرت كعب بن مالك رضی اللہ عنہ) کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ
 جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور ان کی توبہ قبول ہونے کا حکم نازل ہوا تو وہ سجدے میں گر گئے۔

5962 - آثار صحابہ: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا الشوري، عن محمد بن قيس، عن أبي موسى
 الهمداني قال: كنت مع علي يوم النهروان، فقال: التمسوا إذا التمسوه فاجعلوا لا يجدونه، فجعل
 يعرق جبين علي، ويقول: والله ما كذبت ولا كذبت فالتمسوه قال: فوجدناه في ساقية - أو جدول - تحت
 قلتي، فأتى به علي فخر ساجدا

* * * ابو موسیٰ ہمدانی بیان کرتے ہیں: میں جنگ نہروان کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھا، انہوں نے
 دریافت کیا: تم ابھری ہوئی چھاتی والے شخص کو تلاش کرو! لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن وہ انہیں نہیں ملا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی
 پیشانی پر پسینہ آ گیا، انہوں نے فرمایا: اللہ کی قسم! نہ تو میں نے غلط بیانی کی ہے اور نہ ہی میرے ساتھ غلط بیانی کی گئی ہے، تم لوگ
 اسے تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں: تو ہم نے اسے ایک پانی یا شاید نالے میں مقتولین کے نیچے پایا، اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس
 لایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سجدے میں گر گئے۔

5963 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الشوري، عن أبي سلمة، عن أبي عون قال: سجد أبو بكر حين
 جاءه فتح اليمامة.

* * * ابو عون بیان کرتے ہیں: جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس یمامہ فتح ہونے کی اطلاع آئی تو وہ سجدے میں
 گر گئے۔

5964 - حدیث نبوی: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن أبي محمد بن علي، أن النبي
 صلى الله عليه وسلم خرج فرأى رجلاً نغاشياً - والنغاشي - القصير، ثم ذكر مثل حديث الشوري عن جابر

* * * ابو محمد بن علی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے پستہ قامت شخص کو دیکھا (راوی کہتے ہیں:)
 نغاشی چھوٹے قد کے شخص کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد راوی نے ثوری کی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کردہ روایت کی مانند روایت نقل کی
 ہے۔

بَابُ تَعَاهُدِ الْقُرْآنِ وَنَسْيَانِهِ

قرآن کو یاد رکھنا اور اُسے بھول جانا

5965 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: "لَا تَتَوَسَّدُوا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَشَدُّ تَفْصِيًّا مِنَ الْإِبِلِ الْمُعْقَلَةِ - أَوْ قَالَ: الْمَعْقُولَةِ - إِلَى عَطْنِهَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا مِنْهُ آيَةٌ إِلَّا وَلَهَا ظَهْرٌ وَبَطْنٌ، وَمَا فِيهِ حَرْفٌ إِلَّا وَلَهُ حَدٌّ وَلِكُلِّ حَدٍّ مَطْلَعٌ."

* * حسن بصری فرماتے ہیں: قرآن کو بھلانا دینا اُس ذات کی قسم! جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے! یہ بندھے ہوئے اونٹ سے زیادہ تیزی سے چلا جاتا ہے (یہاں ایک لفظ کے بارے میں راوی کو شک ہے)۔ اُس ذات کی قسم! جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے! اس کی ہر ایک آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے اور اس میں موجود ہر حرف کی ایک مخصوص حد ہے اور ہر ایک حد کے لیے ایک راستہ ہے۔

5966 - اقوال تابعین: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مَعْمَرًا قَالَ: امْحُهُ لَا تُحَدِّثْ بِهِ أَحَدًا

* * امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے یہ روایت معمر کو بیان کی تو انہوں نے فرمایا: تم اسے مٹا دو اور تم اسے کبھی بیان نہ کرنا۔

5967 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ، فَإِنَّهُ أَشَدُّ تَفْصِيًّا مِنْ صَدْرِ الرَّجُلِ مِنَ النَّعْمِ مِنْ عُقْلِيهَا، بِنَسْمَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ: إِنِّي نَسِيتُ آيَةَ كَيْتٍ وَكَيْتٍ بَلْ هُوَ نُسِيٌّ"

* * حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع حدیث کے طور پر یہ بات نقل کرتے ہیں: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

"قرآن کی حفاظت کرتے رہنا، کیونکہ یہ انسان کے سینہ سے اس سے زیادہ تیزی سے جاتا ہے، جتنی تیزی سے جانور رستی (کھولنے پر جاتا ہے) اور وہ شخص بہت بُرا ہے جو یہ کہے: کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا، بلکہ وہ اُسے بھلا دی گئی۔"

5968 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، أَوْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ وَحْشِيٌّ، لَهُوَ أَشَدُّ تَفْصِيًّا مِنَ الْإِبِلِ مِنْ عُقْلِيهَا، وَلَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي نَسِيتُ آيَةَ كَيْتٍ وَكَيْتٍ بَلْ هُوَ نُسِيٌّ

* * حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں:

"قرآن کی حفاظت کرتے رہنا، کیونکہ یہ سرکش ہے اور یہ اس سے زیادہ تیزی سے جاتا ہے، جتنی تیزی سے اونٹ

رتی سے نکلتا ہے اور کوئی بھی شخص یہ ہرگز نہ کہے: کہ میں فلاں فلاں آیت بھول گیا، بلکہ وہ اُسے بھلا دی گئی۔

5969 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ

قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "بِسْمَا لِلرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَنْ يَقُولَ: نَسِيتُ سُورَةَ كَيْتٍ وَكَيْتٍ بَلْ هُوَ نَسِيٌّ"

* * حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

"ایسا مرد یا عورت بہت بُرے ہیں جو یہ کہیں: کہ میں فلاں فلاں سورت کو بھول گیا ہوں، بلکہ وہ اُسے بھلا دی گئی۔"

5970 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: مَنْ

تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ بِغَيْرِ عُدْرٍ حُطَّ عَنْهُ بِكُلِّ آيَةٍ دَرَجَةٌ وَجَاءَ مَخْصُومًا

* * طلق بن حبيب فرماتے ہیں: جو شخص قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد پھر کسی عذر کے بغیر اُسے بھول جائے، تو ہر

ایک آیت کے عوض میں اُس کے ایک درجہ کو ختم کر دیا جاتا ہے اور جب وہ آئے گا، تو اُس سے حساب لیا جائے گا۔

5971 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْقُرْآنِ إِذَا عَاهَدَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ يَقْرُؤُهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ فَإِنْ عَقَلَهَا حَفِظَهَا وَإِنْ أَطْلَقَ عَقْلَهَا ذَهَبَتْ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ.

* * حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

"قرآن کی مثال جب قرآن کا عالم شخص رات اور دن میں اسے پڑھ کر اس کی حفاظت کرتا ہے اُس کی مثال ایک

ایسے شخص کی طرح ہے جس کے پاس اونٹ موجود ہو، اگر وہ اُسے باندھ کر رکھے گا، تو اُس کی حفاظت کر لے گا اور اگر

اُس کی رتی کھول دے گا، تو وہ اونٹ چلا جائے گا، تو قرآن کے عالم کی مثال بھی اسی طرح ہے۔"

5972 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

5971- صحیح البخاری - کتاب فضائل القرآن، باب استذکار القرآن و تعاهدہ - حدیث: 4747، صحیح مسلم - کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الامر بتعهد القرآن - حدیث: 1353، مستخرج ابی عوانة - مبتدا فضائل القرآن، باب ذکر الخبر الموجب لاستذکار القرآن و دراستہ - حدیث: 3095، صحیح ابن حبان - کتاب الرقائق، باب قراءة القرآن - ذکر تمثيل المصطفى صلى الله عليه وسلم الواظب على قراءة القرآن، حدیث: 764، موطا مالك - کتاب القرآن، باب ما جاء في القرآن - حدیث: 475، سنن ابن ماجه - کتاب الادب، باب ثواب القرآن - حدیث: 3781، السنن للنسائي - کتاب الافتتاح، جامع ما جاء في القرآن - حدیث: 937، مصنف ابن ابی شيبه - کتاب صلاة التطوع والإمامة و ابواب متفرقة، ما امر به من تعاهد القرآن - حدیث: 8438، السنن الكبرى للنسائي - العمل في افتتاح الصلاة، جامع ما جاء في القرآن - حدیث: 997، السنن الكبرى للبيهقي - کتاب الصلاة، جامع ابواب القراءة - باب المعاهدة على قراءة القرآن، حدیث: 3770، مسند احمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - حدیث: 4527، المعجم الاوسط للظبراني - باب الالف، من اسبه احمد - حدیث: 308

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

* * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نبی اکرم ﷺ سے منقول ہے۔

5973 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابَانَ، ذَكَرَهُ، عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ: مَا ذَنْبٌ يُؤْفَى بِهِ الْعَبْدُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعْدَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَنْسَى سُورَةَ كَانَ حَفِظَهَا

* * ابان نے بعض حضرات کے حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے:

”قیامت کے دن انسان کا کوئی بھی گناہ اتنا بڑا نہیں ہوگا جتنا بڑا یہ گناہ ہوگا کہ آدمی کوئی سورت یاد کرے اور پھر اس

کے بعد اسے بھول جائے۔“

5974 - حدیث نبوی: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا حَسَدَ إِلَّا عَلَى اثْنَتَيْنِ: رَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آثَاءَ

اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَرَجُلٍ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ - يَعْنِي الصَّدَقَةَ وَمَا أَشْبَهَهَا - آثَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ"

* * حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”رشک صرف دو طرح کے آدمیوں پر کیا جاسکتا ہے ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا کیا ہو اور وہ دن

رات اس کے ساتھ مصروف رہتا ہے اور ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہو اور وہ اس میں سے خرچ کرتا ہو

یعنی صدقہ وغیرہ کرتا ہو وہ رات دن ایسا کرتا ہو۔“

5975 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: يَرْحَمُ اللَّهُ فُلَانًا رَبَّمَا ذَكَرْنِي الْآيَةَ وَالْآيَاتِ الَّتِي قَدْ كُنْتُ نُسَيْتُهَا

5974 - صحیح البخاری - کتاب فضائل القرآن 'باب اغتباط صاحب القرآن - حدیث: 4741' صحیح مسلم - کتاب صلاة

الساغفرین وقصرها 'باب فضل من يقوم بالقرآن - حدیث: 1392' مستخرج ابی عوانة - مبتدا فضائل القرآن 'باب

حظر الحسد إلا فی اثنتین : رجد آتاه الله القرآن - حدیث: 3126' صحیح ابن حبان - کتاب العلم 'ذكر إباحة الحسد

لس اوتی کتاب اللہ تعالیٰ - حدیث: 125' سنن ابن ماجہ - کتاب الزهد 'باب الحسد - حدیث: 4207' مصنف ابن ابی

شیبہ - کتاب فضائل القرآن 'من قال : الحسد فی قراءۃ القرآن - حدیث: 29670' السنن الکبریٰ لسنانی - کتاب

فضائل القرآن 'اغتباط صاحب القرآن - حدیث: 7808' مشکل الآثار للطحاوی - باب بیان مشکل ما روى عن رسول

الله عليه السلام فی حدیث: 394' السنن الکبریٰ للبيهقي - کتاب الجنائز 'جماع ابواب صدقة التطوع . - باب وجود

الصدقة 'حدیث: 7363' مسند احمد بن حنبل 'مسند عبد الله بن عمر رضی الله عنهما - حدیث: 4412' مسند عبد الله

بن المبارک 'حدیث: 59' مسند الحمیدی - احادیث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی الله عنه 'حدیث: 596' مسند عبد

بن حمید - احادیث ابن عمر 'حدیث: 730' مسند ابی یعلیٰ الموصلی - مسند عبد الله بن عمر 'حدیث: 5287' المعجم

الاوسط للطبرانی - باب الالف 'باب من اسبه إبراهيم - حدیث: 2741' المعجم الکبیر للطبرانی - من اسبه عبد الله

ومما اسند عبد الله بن عمر رضی الله عنهما - سالم عن ابن عمر 'حدیث: 12941

* * ہشام اپنے والد کے حوالے سے نبی اکرم ﷺ کا یہ فرمان نقل کیا ہے:

”اللہ تعالیٰ فلاں شخص پر رحم کرے کہ وہ بعض اوقات مجھے ایک یا چند ایک وہ آیات یاد کروا دیتا ہے جو مجھے بھلا دی گئی ہوتی ہیں۔“

5976 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَتْ لَيْلَةَ حَمِ عَسَقٍ فَرَدَّدَهَا مِرَارًا حَمِ عَسَقٍ وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَقَالَ: يَا مَيْمُونَةُ، أَمَعِكَ حَمِ عَسَقٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: فَأَقْرِينِيهَا فَلَقَدْ أَنْسَيْتُ مَا بَيْنَ أَوَّلِهَا وَآخِرِهَا

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: امام جعفر صادق نے مجھے یہ بتائی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ نے رات کے وقت

سورہ حم عسق کی تلاوت کی تو آپ بار بار اس سورت کو دہراتے آپ اس رات سیدہ ميمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں موجود تھے پھر نبی اکرم ﷺ نے دریافت کیا: اے ميمونہ! کیا تمہیں حم عسق آتی ہے؟ انہوں نے عرض کی: جی ہاں! تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم

مجھے پڑھ کر سناؤ، کیونکہ اس کے ابتدائی اور آخری حصہ کا درمیانی حصہ مجھے بھلا دیا گیا ہے۔

5977 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى الْقَدَاةَ - أَوِ الْبَعْرَةَ - يُخْرِجُهَا الْإِنْسَانُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرِ ذَنْبًا أَكْبَرَ مِنْ آيَةٍ أَوْ سُورَةٍ أَوْتِيهَا الرَّجُلُ فَنَسِيهَا

* * حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”میرے سامنے میری امت کے اجر پیش کیے گئے یہاں تک کہ وہ گندگی اور میٹگنی بھی پیش کی گئی جسے انسان مسجد سے

باہر نکال دیتا ہے اور میرے سامنے میری امت کے گناہ بھی پیش کیے گئے تو میں نے اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں

دیکھا کہ ایک آیت یا سورت کا علم کسی شخص کو دیا گیا ہو اور پھر وہ اسے بھول جائے۔“

5978 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: وَبَلَّغَنِي، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ: لِأَنَّ

تَخْتَلِفَ النَّيَازُكَ فِي صَدْرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُسْقِطَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا

* * سعید بن جبیر فرماتے ہیں: نیزے میرے سینہ میں گھونپ دیئے جائیں یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہے

کہ میں قرآن کا کچھ حصہ بھول جاؤں۔

5979 - آثار صحابہ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زَرِّ بْنِ حُبَيْشٍ

قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَدِيمُوا النَّظَرَ فِي الْمُصْحَفِ، فَإِذَا اِخْتَلَفْتُمْ فِي يَأٍ وَتَاءٍ فَاجْعَلُوهَا ذِكْرُونِي الْقُرْآنَ

* * زر بن حبیش بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: باقاعدگی سے قرآن کو دیکھ کر تلاوت کیا کرو

اور جب تمہیں ”ی“ اور ”ت“ کے بارے میں اختلاف ہو تو اسے یہ بناؤ مجھے قرآن کی یاد کراؤ۔

5980 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُسَيْبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ رُفَيْعٍ، عَنْ شَدَّادٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: لَيَنْتَزِعَنَّ هَذَا الْقُرْآنُ مِنْ بَيْنِ أَظْهَرِكُمْ قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ يَنْتَزِعُ وَقَدْ اثْبَتَاهُ فِي صُدُورِنَا وَاثْبَتَاهُ فِي مَصَاحِفِنَا؟ قَالَ: "يُسْرَى عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي قَلْبِ عَبْدٍ مِنْهُ وَلَا مُصْحَفٍ مِنْهُ شَيْءٌ، وَيُصْبِحُ النَّاسُ فَقَرَاءَ كَالْبَهَائِمِ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّهِ (وَلَيَنْ شَتْنَا لِنُذْهِبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا) (الإسراء: 88)"

* * * شداد بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ قرآن تمہارے درمیان سے اٹھالیا جائے گا۔ میں نے دریافت کیا: اے ابو عبدالرحمن! اسے کیسے اٹھایا جاسکتا ہے؟ جبکہ ہم نے اسے اپنے سینہ میں بھی محفوظ کر لیا ہے اور اپنے مصحف میں بھی محفوظ کر لیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایک رات ایسی آئے گی جب کسی بندہ کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں رہے گا اور کسی مصحف میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں رہے گا، اگلے دن لوگ جانوروں کی طرف فقیر ہوں گے۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی:

"اگر ہم چاہیں تو ہم اس چیز کو لے جائیں جو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے اور پھر تم اپنے لیے اس کے حوالے سے ہمارے خلاف کوئی کار ساز نہیں پاؤ گے۔"

5981 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ إِسْرَائِيلَ، عَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْأَمَانَةَ، وَإِنَّ آخِرَ مَا يَبْقَى مِنْ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَيَصْلَيْنَ الْقَوْمُ الدِّينَ لَا دِينَ لَهُمْ، وَلَيَنْتَزِعَنَّ الْقُرْآنُ مِنْ بَيْنِ أَظْهَرِكُمْ قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَسْنَا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَقَدْ اثْبَتَاهُ فِي مَصَاحِفِنَا؟ قَالَ: يُسْرَى عَلَيْهِ لَيْلًا فَيُذْهِبُ بِهِ مِنْ أَجْوَابِ الرِّجَالِ فَلَا يَبْقَى مِنْهُ شَيْءٌ

* * * حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: تمہارے دین میں سے جو چیز سب سے پہلے ختم ہو جائے گی وہ امانت ہے اور تمہارے دین میں سے جو چیز سب سے آخر تک باقی رہے گی وہ نماز ہے وہ لوگ بھی نماز ضرور ادا کریں گے جن کا کوئی دین نہیں ہوگا اور ان کے درمیان سے قرآن کو اٹھالیا جائے گا۔ لوگوں نے کہا: اے ابو عبدالرحمن! کیا ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں اور کیا ہم نے اسے مصحف میں محفوظ نہیں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اس (قرآن) پر ایک رات ایسی آئے گی کہ جب یہ لوگوں کے اندر سے لے جایا جائے گا اور اس میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔

5982 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحَ فَقَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ مَعِيَ سُورَةٌ فَذَهَبَتْ لَا قَرَأَهَا فَمَا أَقْدِرُ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ آخِرُ: وَأَنَا أَيْضًا كَانَتْ مَعِيَ فَمَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَ: مَا أَدْرِي أَرْجُلَانِ - أَمْ ثَلَاثَةٌ - فَدَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّهَا رُفِعَتْ فِي قُرْآنِ رُفَعٍ

* * * زہری بیان کرتے ہیں: ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صبح کے وقت حاضر ہوا، اس نے عرض کی: مجھے

ایک سورت آتی تھی جو مجھ سے رخصت ہو گئی ہے اب میں اُسے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں پڑھ سکتا۔ ایک اور شخص نے بھی یہی عرض کی کہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے مجھے ایک سورت آتی ہے لیکن اب میں اُسے نہیں پڑھ سکتا۔ راوی کہتے ہیں: مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ دو آدمی تھے یا تین آدمی تھے۔ وہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: قرآن میں سے جو اٹھایا گیا وہ اٹھایا گیا۔

5983 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ وَفْدًا اتَى

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ فَسَأَلُوهُ أَنْ يُخَلِّيَهُمْ لِحَاجَتِهِمْ، فَقَالَ: إِنِّي فَاتِنِي اللَّيْلَةَ جُزْئِي مِنَ الْقُرْآنِ
** محمد بن عباد بن جعفر بیان کرتے ہیں: ایک وفد نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں مکہ آیا انہوں نے نبی اکرم ﷺ سے درخواست کی کہ آپ ان کی ضرورت کی تکمیل کے لیے انہیں کچھ وقت دیں۔ تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: گزشتہ رات میں قرآن کے اپنے معمول کے حصہ کی تلاوت نہیں کر سکا۔

5984 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَمَّنْ، سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ

قَدْ قَرَأَهُ صِبْيَانٌ وَعَبِيدٌ لَا عِلْمَ لَهُمْ بِتَأْوِيلِهِ وَلَمْ يَأْتُوا الْأَمْرَ مِنْ قَبْلِ أَوْلِيهِ، وَقَالَ: " (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ) ، وَمَا تَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ إِلَّا اتِّبَاعُهُ بِعِلْمِهِ، وَاللَّهُ مَا هُوَ بِحَفِظِ حُرُوفِهِ وَإِضَاعَةِ حُدُودِهِ، حَتَّى أَنْ أَحَدَهُمْ لَيَقُولُ: وَاللَّهِ لَقَدْ قَرَأْتُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ وَمَا أَسْقَطُ مِنْهُ حَرْفًا وَاحِدًا وَقَدْ أَسْقَطَهُ كُلَّهُ، مَا تَرَى لَهُ فِي الْقُرْآنِ مِنْ خُلُقٍ وَلَا عَمَلٍ، وَحَتَّى أَنْ أَحَدَهُمْ لَيَقُولُ: وَاللَّهِ إِنِّي لَأَقْرَأُ السُّورَةَ فِي نَفْسٍ وَاحِدٍ وَاللَّهُ مَا هُوَ إِلَّا بِالْقُرْآنِ وَلَا الْعُلَمَاءِ، وَلَا الْحُكَمَاءِ، وَلَا الْوَرَعَةِ، وَمَتَى كَانَ الْقُرْآنُ يُقُولُونَ مِثْلَ هَذَا؟ لَا كَثَرَ اللَّهُ فِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ هَؤُلَاءِ
** حسن بصری فرماتے ہیں: اس قرآن کو بچے بھی پڑھیں گے غلام بھی پڑھیں گے جنہیں اس کی تفسیر کا علم نہیں ہو اور وہ اس کو مکمل طور پر نہیں سمجھیں گے۔ پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی:

"یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے یہ برکت والی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔"

حسن بصری نے فرمایا: اس کی آیات میں غور و فکر سے مراد یہ ہے کہ اس کے علم کی پیروی کی جائے اللہ کی قسم! یہ صرف حروف کی حفاظت اور حدود کو ضائع کرنا نہیں ہے یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ایک شخص یہ کہتا ہے: اللہ کی قسم! میں نے پورا قرآن پڑھ لیا اس میں سے کوئی ایک حرف بھی نہیں چھوڑا حالانکہ وہ پورا قرآن چھوڑ چکا ہوتا ہے تمہیں اس کے اخلاق اور اس کے عمل میں قرآن کی کوئی جھلک نظر نہیں آئے گی یہاں تک کہ ان لوگوں میں سے ایک شخص یہ کہے گا: اللہ کی قسم! میں نے ایک سورت ایک ہی سانس میں پڑھ لی حالانکہ اللہ کی قسم! یہ لوگ نہ تو قرآن کے عالم ہیں اور نہ ہی ویسے عالم ہیں نہ سمجھدار ہیں نہ پرہیزگار ہیں اور جب اس طرح کے پڑھنے والے قاری ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اس طرح کے لوگوں کی کثرت نہ کرے۔

5985 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " لَيْسَ

الْخَطَا أَنْ تَقْرَأَ بَعْضَ الْقُرْآنِ فِي بَعْضٍ، وَلَا أَنْ تَخْتِمَ آيَةَ (غُفُورٍ رَحِيمٍ) (البقرة: 173) بِ (عَلِيمٍ حَكِيمٍ) (النساء: 26) أَوْ بِ (عَزِيزٍ حَكِيمٍ) (البقرة: 209) وَلَكِنَّ الْخَطَا أَنْ تَقْرَأَ مَا لَيْسَ فِيهِ أَوْ تَخْتِمَ آيَةَ رَحْمَةٍ بِآيَةِ عَذَابٍ "

* * ابراہیم بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بنی النبیؑ فرماتے ہیں: یہ غلطی نہیں ہے کہ تم قرآن کا کچھ حصہ دوسرے حصہ سے ملا کے پڑھ دو اور نہ یہ غلطی ہے کہ تم غفور رحیم والی آیت کو علیم حکیم پر جا کے ختم کر دو یا عزیز حکیم پر ختم کر دو بلکہ غلطی یہ ہے کہ تم اس چیز کو پڑھو جو قرآن میں نہیں ہے یا رحمت کے مضمون والی آیت کو عذاب کے مضمون والی آیت کے ساتھ ملا کے ختم کر دو۔

5986 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ أَقْرَأَ رَجُلًا (شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْإِثْمِ) (الدخان: 44) قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: طَعَامُ الْيَتِيمِ قَالَ: فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: الْفَاجِرُ

* * حضرت ابو درداء بنی النبیؑ کے بارے میں یہ بات منقول ہے: انہوں نے ایک شخص کو یہ آیت پڑھائی:

"شَجَرَةَ الزَّقُومِ طَعَامُ الْإِثْمِ"

راوی کہتے ہیں: تو اس شخص نے طَعَامُ الْإِثْمِ کی بجائے طَعَامُ الْيَتِيمِ پڑھ دیا۔ راوی کہتے ہیں: تو حضرت ابو درداء بنی النبیؑ نے فرمایا: یہ گناہگار شخص ہے۔

5987 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ بَيَانَ، عَنِ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، عَنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: أَقْرَأَ النَّاسَ لِهَذَا الْقُرْآنِ الْمُنَافِقُ لَا يَذَرُ مِنْهُ أَلْفًا وَلَا وَوًا يَلْفُهُ بِلِسَانٍ كَمَا تَلَفَتِ الْبَقْرَةُ الْكَلَّا بِلِسَانِهَا * * حضرت ابو درداء بنی النبیؑ بیان کرتے ہیں: اس قرآن کو سب سے زیادہ پڑھنے والا شخص منافق ہوگا وہ اس کی ہر الف اور واؤ کو زبان موڑ کر ادا کرے گا جس طرح گائے اپنی زبان کے ذریعہ چارہ چباتی ہے۔

5988 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ: كَيْفَ يَقْرَأُ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، فَلْيَسْأَلْهُ عَمَّا قَبْلَهَا " * * حضرت عبداللہ بن مسعود بنی النبیؑ فرماتے ہیں: جب کسی شخص اپنے ساتھی سے دریافت کرے کہ وہ فلاں آیت کیسے پڑھے؟ تو اسے اس سے پہلی والی آیت کے بارے میں سوال کرنا چاہیے۔

5989 - حدیث نبوی: عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ عَيْسَى بْنِ فَائِدٍ، عَنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَ لِقَى اللَّهَ أَجْذَمَ * * حضرت سعد بن عبادہ بنی النبیؑ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

"جو شخص قرآن کا علم حاصل کرنے کے بعد اسے بھول جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی حالت میں حاضر ہوگا کہ اسے جذام ہوگا۔"

5990 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ قَتَادَةَ، عَنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنِ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قَالَ

أَبِي بِن كَعْبٍ: كَأَيِّنْ تَقْرَأُ وَنَ سُورَةَ الْأَحْزَابِ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَضْعًا وَثَمَانِينَ آيَةً قَالَ: "لَقَدْ كُنَّا نَقْرَأُهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ أَوْ هِيَ أَكْثَرُ، وَلَقَدْ كُنَّا نَقْرَأُ فِيهَا آيَةَ الرَّجْمِ: الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ نِكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ"

* * زر بن حبیش بیان کرتے ہیں: حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم سورہ احزاب میں کتنی آیتیں تلاوت کرتے ہو؟ میں نے جواب دیا: اتنی سے کچھ زیادہ۔ انہوں نے جواب دیا: ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں اس سورت کو تقریباً سورہ بقرہ جتنی بڑی یا اس سے بھی زیادہ بڑی سورت کے طور پر تلاوت کرتے تھے اور ہم اس میں سنگسار کرنے کے حکم سے متعلق آیت تلاوت کرتے تھے جس میں یہ مذکور ہے کہ عمر رسیدہ (یعنی شادی شدہ) مرد اور عمر رسیدہ (یعنی شادی شدہ) عورت کو سنگسار کر دو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی سزا ہے اور اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔

بَابُ تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَفَضْلِهِ

باب: قرآن کی تعلیم دینا اور اس کی فضیلت

5991 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ شَافِعٌ لِأَصْحَابِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَتَعَلَّمُوا الْبَقْرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، تَعَلَّمُوا الزَّهْرَ أَوْ يَنْ فَانَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ - أَوْ غَيَابَتَانِ - أَوْ كَأَنَّهُمَا فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافٍ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبَيْهِمَا، وَتَعَلَّمُوا الْبَقْرَةَ فَإِنَّ تَعَلَّمَهَا بَرَكَةٌ، وَتَرَكْتُهَا حَسْرَةٌ: وَلَا يُطِيقُهَا الْبَطْلَةُ - يَعْنِي الْبَطْلَةَ السَّحْرَةَ -"

* * حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

"قرآن کا علم حاصل کرو؛ کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے عالم کے لیے شفاعت کرنے والا ہوگا، تم سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا علم حاصل کرو اور تم دو روشن سورتوں کا علم حاصل کرو؛ کیونکہ جب یہ قیامت کے دن آئیں گی، تو یہ دو بادلوں کی مانند ہوں گی (یہاں ایک لفظ کے بارے میں راوی کو شک ہے) یا یہ دونوں پرندوں کی دو صفوں کی مانند ہوں گی اور یہ اپنے عالم شخص کے حوالے سے بحث کریں گی، تم لوگ سورہ بقرہ کا علم حاصل کرو؛ کیونکہ اس کو سیکھنا برکت ہے اور اسے ترک کرنا حسرت ہے اور باطل لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے۔"

(راوی کہتے ہیں: یہاں باطل لوگوں سے مراد جادوگر ہیں۔)

5992 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لَوْ قِيلَ لِأَحَدِكُمْ: لَوْ غَدَوْتَ إِلَى الْقَرْيَةِ كَانَ لَكَ أَرْبَعُ قَلَانِصَ لَبَّاتٍ يَقُولُ: قَدْ آتَى لِي أَنْ أَغْدُوَ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ غَدَا فَتَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَتْ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ وَأَرْبَعٍ حَتَّى عَدَّ شَيْئًا كَثِيرًا. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ

أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ إِذَا أَصْبَحَ خَرَجَ آتَاهُ النَّاسُ إِلَى دَارِهِ فَيَقُولُ: عَلَى مَكَانِكُمْ، ثُمَّ يَمُرُّ بِالَّذِينَ يُقِرُّهُمْ الْقُرْآنَ، فَيَقُولُ: يَا فُلَانُ بَيِّ سُرَّةٍ أَنْتَ؟ فَيُخْبِرُونَهُ، فَيَقُولُ: بَيِّ آيَةٍ فَيَفْتَحُ عَلَيْهِ آيَةَ الَّتِي نَلِيهَا، ثُمَّ يَقُولُ تَعَلَّمَهَا فَإِنَّهَا خَيْرٌ لَكَ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ: فَيُظَنُّ الرَّجُلُ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي الْقُرْآنِ آيَةٌ خَيْرٌ مِنْهَا، ثُمَّ يَمُرُّ بِالْآخِرِ فَيَقُولُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى يَقُولَ لِذَلِكَ كُلِّهِمْ

* * ابواسحاق بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر تم میں سے کسی ایک شخص سے یہ کہا جائے: کہ اگر تم فلاں بستی میں جاؤ تو تمہیں چار اونٹنیاں ملیں گی تو وہ ساری رات یہی سوچنے میں گزار دے گا کہ شاید میرے جانے کا وقت ہو گیا ہے اگر کوئی شخص صبح کے وقت جا کر اللہ کی کتاب کی ایک آیت کا علم سیکھ لے تو یہ اس کے لیے چار اور مزید چار اور مزید چار یہاں تک کہ انہوں نے کافی زیادہ تعداد کا ذکر کر کے فرمایا: (اتنی زیادہ اونٹنیاں ملنے) سے زیادہ بہتر ہے۔

ابواسحاق بیان کرتے ہیں: (حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے) ابو عبیدہ نے مجھے بتایا: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صبح کے وقت تشریف لے جاتے تھے لوگ ان کے پاس ان کے گھر آ جاتے تھے تو وہ فرماتے تھے: تم لوگ اپنی جگہ پر رہو! پھر وہ ان لوگوں کے پاس سے گزرتے تھے جنہیں وہ قرآن کی تعلیم دیتے تھے وہ فرماتے تھے: اے فلاں! تم کون سی سورت پڑھ رہے ہو؟ وہ لوگ انہیں بتاتے تھے پھر وہ دریافت کرتے تھے: تم کون سی آیت پڑھ رہے ہو؟ پھر وہ اس کے سامنے اس کے ساتھ والی آیت پڑھ کر سنا تے تھے پھر یہ فرماتے تھے: تم اسے سیکھ لو! کیونکہ یہ تمہارے لیے آسمان اور زمین کے درمیان موجود ہر چیز سے زیادہ بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں: تو آدمی یہ سمجھتا تھا کہ قرآن میں اس آیت سے زیادہ بہتر اور کوئی آیت نہیں ہے پھر وہ ایک اور شخص کے پاس سے گزرتے تھے تو اسے بھی یہی کہتے تھے یہاں تک کہ وہ ان تمام افراد کو یہی کہا کرتے تھے۔

5993 - آثار صحابہ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: "مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَلَهُ بِكُلِّ آيَةٍ عَشْرٌ حَسَنَاتٍ لَا أَقُولُ (الم) (البقرة: 1) عَشْرٌ وَلَكِنْ أَلْفٌ وَوَلَامٌ وَمِثْمٌ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً"

* * ابو عبیدہ نقل کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

"جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ہر ایک آیت کے عوض میں دس نیکیاں ملتی ہیں۔"

میں یہ نہیں کہتا کہ "الم" پڑھنے پر دس نیکیاں ملتی ہیں بلکہ الف لام اور میم پڑھنے پر تیس نیکیاں ملتی ہیں۔

5994 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي حُسَيْنٍ يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَرْوَانَ: إِنَّ اللَّهَ اخْتَارَ الْكَلَامَ، فَاخْتَارَ الْقُرْآنَ، فَاخْتَارَ مِنْهُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَاخْتَارَ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ آيَةَ الْكُرْسِيِّ، وَاخْتَارَ الْبِلَادَ فَاخْتَارَ الْحَرَمَ، وَاخْتَارَ الْحَرَمَ فَاخْتَارَ الْمَسْجِدَ، وَاخْتَارَ الْمَسْجِدَ فَاخْتَارَ مَوْضِعَ الْبَيْتِ

* * عبداللہ بن مروان فرماتے ہیں: بے شک اللہ تعالیٰ نے کلام کو اختیار کیا پھر قرآن کو اختیار کیا پھر اس میں سے سورہ بقرہ کو اختیار کیا پھر سورہ بقرہ میں سے آیہ الکرسی کو اختیار کیا پھر اس نے شہروں کو اختیار کیا پھر اس نے حرم کو اختیار کیا پھر حرم میں

سے مسجد حرام کو اختیار کیا اور مسجد حرام میں سے اُس جگہ کو اختیار کیا جہاں خانہ کعبہ موجود ہے۔

5995 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ * * حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے: ”تم میں سب سے زیادہ فضیلت والا شخص وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرے اور اُس کی تعلیم دے۔“

5996 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ رَجُلًا، قَالَ لَهُ: إِنَّ إِخْوَانَكَ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَقْرَأُونَ عَلَيْكَ السَّلَامَ قَالَ: وَأَنْتَ فَأَقْرِئَهُمُ السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُمْ فَلْيُعْطُوا الْقُرْآنَ بِخَزَائِمِهِمْ، فَإِنَّهُ سَيَحْمِلُهُمْ عَلَى الْقَصْدِ وَالسَّهْوَةِ، وَيُجَنِّبُهُمُ الْجَوْرَ وَالْحَزُونََةَ - يَعْنِي بِخَزَائِمِهِمْ، يَعْنِي اجْعَلُوا الْقُرْآنَ مِثْلَ الْخِزَامِ فِي أَنْفِ أَحَدِكُمْ - فَاتَّبِعُوهُ وَاعْمَلُوا بِهِ

* * حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے: ایک شخص نے اُن سے کہا: اہل کوفہ سے تعلق رکھنے والے آپ کے بھائیوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے! تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا: تم انہیں بھی سلام کہہ دینا اور تم اُن سے کہنا کہ وہ لوگ قرآن کو اُس کے خزائم دیں، کیونکہ عنقریب لوگ آسانی اور سہولت سے اس کا علم حاصل کریں گے اور یہ ان سے زیادتی اور سختی کو دور کر دے گا۔

یہاں قرآن کے خزام سے مراد یہ ہے کہ تم قرآن کو یوں رکھو جس طرح کوئی شخص اپنے ناک میں تھلی رکھتا ہے، یعنی تم اس کی پیروی کرو اور اس پر عمل کرو۔

5997 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " شَيِّبَتْنِي هُوْدٌ وَأَخْوَاتُهَا: سُورَةُ الْوَاقِعَةِ، وَسُورَةُ الْقِيَامَةِ، وَالْمُرْسَلَاتِ، وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ " قَالَ: وَإِحْسِبُهُ ذَكَرَ سُورَةَ هُوْدٍ * * ابو اسحاق روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

5995- صحیح البخاری - کتاب فضائل القرآن، باب: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ - حدیث: 4744، مستخرج ابی عوانة - مبتدا فضائل القرآن، وما فیہ من ذلك فضل القراء علی غیرہم - حدیث: 3073، سنن ابن ماجہ - المقدمة، باب فی فضائل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم - باب فضل من تعلم القرآن وعلمہ، حدیث: 209، الجامع للترمذی، ابواب فضائل القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم - باب ما جاء فی تعلیم القرآن، حدیث: 2910، السنن الکبریٰ للنسائی - کتاب فضائل القرآن، فضل من تعلم القرآن - حدیث: 7773، مشکل الآثار للطحاوی - باب بیان مشکل ما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ، حدیث: 4471، مسند احمد بن حنبل - مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين - مسند عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حدیث: 404، البحر الزخار مسند البزار - ابو عبد الرحمن السلی، حدیث: 378

”سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے جیسے سورہ واقعہ، سورہ قیامت، سورہ مرسلات، سورہ تکوین، سورہ اشقاق، سورہ انفطار“۔

راوی کہتے ہیں: میرا خیال ہے انہوں نے سورہ ہود کا بھی ذکر کیا تھا۔

5998 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَأْذِبَةُ اللَّهِ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَتَعَلَّمَ مِنْهُ شَيْئًا فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ أَصْفَرَ الْبُيُوتِ مِنَ الْخَيْرِ الْبَيْتَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ خَرِبَ كَخَرَابِ الْبَيْتِ الَّذِي لَا عَامِرَ لَهُ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَخْرُجُ مِنَ الْبَيْتِ يَسْمَعُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ تَقْرَأُ فِيهِ

* * حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، تو جو شخص اس میں سے کچھ سیکھ سکتا ہو اسے ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ بھلائی سے خالی گھروں میں سے ایک وہ گھر ہے، جس میں اللہ کی کتاب میں سے کوئی چیز نہ ہو اور وہ گھر جس میں اللہ کی کتاب میں سے کوئی چیز نہ ہو وہ برباد ہے، جس طرح وہ گھر برباد ہوتا ہے جسے کوئی آباد کرنے والا نہ ہو اور شیطان ایسے گھر سے نکل جاتا ہے، جس میں وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کو سنتا ہے۔

5999 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ يَكْثُرُ خَيْرُهُ، وَيُوسَعُ عَلَى أَهْلِهِ، وَيَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَيَهْجُرُهُ الشَّيْطَانُ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي لَا يُقْرَأُ فِيهِ يُضَيِّقُ عَلَى أَهْلِهِ، وَيَقْلُ خَيْرُهُ، وَيَهْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، وَيَحْضُرُهُ الشَّيْطَانُ، وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَيُثَوَّرُ فِيهِ يُضِيءُ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا يُضِيءُ النَّجْمُ الْأَرْضَ قَالَ: ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَشِّرِ الْمَشَائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِنُورٍ مِنَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَقُولُ: إِنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ لَيَتَرَاءَوْنَ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَيَصَلُّونَ فِيهِ كَمَا يَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الدُّنْيَا الْكُفَّاءَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ

* * حضرت عبدالرحمن بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”بگور جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اس میں بھلائی زیادہ ہوتی ہے اور اس کے اہل خانہ کو زیادہ رزق عطا کیا جاتا ہے وہاں فرشتے موجود ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر سے دور ہو جاتے ہیں اور وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی، وہ اپنے اہل خانہ کے لیے تنگ ہوتا ہے، اس میں بھلائی کم ہوتی ہے، فرشتے اس سے لاتعلق رہتے ہیں، شیاطین وہاں حاضر رہتے ہیں اور جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس میں اس کے معانی پر بحث کی جاتی ہے، تو اس کی روشنی اہل آسمان کے لیے یوں ہوتی ہے، جس طرح ستارے کی روشنی اہل زمین کے لیے ہوتی ہے۔“

راوی بیان کرتے ہیں: پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”تاریکی میں مسجد کی طرف چل کر آنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے (ملنے والے) نور کی خوشخبری دے دو۔“

معمر بیان کرتے ہیں: میں نے اہل مدینہ میں سے ایک شخص کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا: اہل آسمان اس گھر کو اہتمام سے دیکھتے ہیں، جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے اور جس میں نماز ادا کی جاتی ہے، جس طرح دنیا میں رہنے والے لوگ آسمان میں موجود ستارے کو دیکھتے ہیں۔

6000 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سِقْرُ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ يَقْرَأُهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَرَجَاءِ ثَوَابِهِ مِنَ اللَّهِ فَذِلَّ ثَوَابُهُ عَلَى اللَّهِ، وَرَجُلٌ يَقْرَأُهُ رِيَاءً وَسُمْعَةً لِيَأْكُلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَذَلِكَ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ، وَرَجُلٌ يَقْرَأُهُ فَلَا تَجَاوِزَ قِرَاءَتَهُ - أَوْ قَالَ مِبْقَعَتَهُ تَرْقُوتَهُ -"

* * یحییٰ بن ابوکثیر ”مرفوع“ حدیث کے طور پر یہ بات نقل کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: ”تین طرح کے لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے ایک وہ شخص جو اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اس کے ثواب کے حصول کا طلبگار ہوگا، تو اس شخص کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہوگا، ایک وہ شخص ہے جو اسے دکھاوے کے لیے اور شہرت کے لیے پڑھے گا، تاکہ اس سے دنیاوی فوائد حاصل کرے، تو اس شخص پر اس کا وبال ہوگا، اسے کوئی ثواب حاصل نہیں ہوگا، اور ایک وہ شخص ہوگا، جو اسے پڑھے گا لیکن اس کی تلاوت اس کے گلے سے نیچے نہیں جائے گی (یہاں ایک لفظ کے بارے میں راوی کو شک ہے اور اس سے مراد حلقوم ہے)۔“

6001 - حدیث نبوی: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن سعيد الجريري، عن أبي السليل، عن عبد الله بن رباح، عن أبي بن كعب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أئى آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم، يكررها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليبيك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفعتين تقديسان للملك عند ساق العرش

* * حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے دریافت کیا: قرآن مجید کی کون سی آیت سب سے

6001- صحیح مسلم - کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل سورة الكهف - حدیث: 1384، مستخرج ابی عوانة - مبتدا فضائل القرآن، باب ذكر الخبر الموجب قراءة البقرة - حدیث: 3190، المستدرک علی الصحیحین ندحاكم - کتاب معرفة الصحابة رضی اللہ عنہم، ذكر مناقب ابی بن کعب رضی اللہ عنہ - حدیث: 5295، سنن ابی داود - کتاب الصلاة، باب تفريع ابواب الوتر - باب ما جاء في آية الكرسي، حدیث: 1261، مسند احمد بن حنبل - مسند الاصدار، حدیث المشايخ عن ابی بن کعب - حدیث: 20754، مسند الطيالسي - احادیث ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حدیث: 546، مسند عبد بن حميد - حدیث ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حدیث: 179، المعجم الكبير للنظراني - صفة ابی بن کعب وكنيته رضی اللہ عنہ، حدیث: 527

زیادہ عظمت والی ہے؟ تو حضرت اُبی بنی اللہؓ نے عرض کی: اللہ اور اُس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں! نبی اکرم ﷺ بار بار یہی سوال کرتے رہے تو حضرت اُبی بنی اللہؓ نے عرض کی: آیۃ الکرسی! نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے ابو منذر! تمہیں اس بات کا علم مبارک ہو! اُس ذات کی قسم ہے! جس کے دستِ قدرت میں میری جان ہے! اس (آیت) کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں جن کے ذریعہ یہ عرش کے پائے کے پاس اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔

6002 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن جابر، وغيره، عن الشعبي، عن مسروق، وشير بن شغل العبيسي، قال: جلسنا في المسجد فتاب اليهما، فقال احدهما لصاحبه: انه لم يقدم الينا الا انا لنحدثهم، فاما ان تحدثهم فاصدقك، واما ان احديثهم وتصدقني، فقال احدهما: سمعت عبد الله يقول: اعظم آية في القرآن آية الكرسي، قال الآخر: صدقت، قال الآخر: سمعت عبد الله يقول: "اجمع آية في القرآن (ان الله يامر بالعدل والاحسان) (النحل: 90) " قال: صدقت، وسمعتة يقول: "اشد آية في القرآن تفويضا (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) (الطلاق: 2) " قال: قال: صدقت، قال وسمعتة يقول: "اكبر آية في القرآن فرجا (يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم) (الزمر: 53) " قال: صدقت

* * امام شعمی نے مسروق اور شطیر بن شکل عبسی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں: ہم مسجد میں بیٹھے ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا: اگر وہ ہمارے پاس نہ آئے تو ہم ان لوگوں کو حدیث بیان کریں گے اگر تم حدیث بیان کرو گے تو میں تمہاری تصدیق کروں گا اگر میں حدیث بیان کروں گا تو تم میری تصدیق کرنا۔ پھر ان دونوں میں سے ایک نے کہا میں نے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے:

”قرآن مجید میں سب سے عظمت والی آیت ”آیۃ الکرسی“ ہے“

دوسرے صاحب نے کہا: آپ نے ٹھیک کہا ہے! پھر دوسرے صاحب نے یہ بیان کیا کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے: قرآن کی سب سے جامع آیت یہ ہے:

”بے شک اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔“

دوسرے صاحب نے کہا: آپ نے ٹھیک کہا ہے! میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا ہے:

”تفویض کے حوالے سے قرآن کی سب سے شدید ترین آیت یہ ہے:

”جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔“

تو دوسرے صاحب نے کہا: آپ نے ٹھیک کہا ہے! پھر انہوں نے کہا: میں نے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کو یہ فرماتے ہوئے سنا

ہے

شادی کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت یہ ہے:

”اے میرے وہ بندو! جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔“

تو دوسرے صاحب نے کہا: آپ نے ٹھیک کہا ہے۔

6003 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تَعْدِلُ ثَلَاثُ الْقُرْآنِ
 ** عمرو بن ميمون اودی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:
 ”قل هو الله احد ايك تهائى قرآن كے برابر ہے۔“

6004 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثَلَاثُ الْقُرْآنِ
 ** حميد بن عبد الرحمن فرماتے ہیں: قل هو الله احد ايك تهائى قرآن كے برابر ہے۔

6005 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عَمِيرٍ يَقُولُ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثَلَاثُ الْقُرْآنِ
 ** عبید بن عمیر فرماتے ہیں: قل هو الله احد ايك تهائى قرآن كے برابر ہے۔

6006 - اقوال تابعين: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثَلَاثُ الْقُرْآنِ
 ** عطاء بیان کرتے ہیں: ان تک یہ روایت پہنچی ہے کہ قل هو الله احد ايك تهائى قرآن كے برابر ہے۔

6007 - آثار صحابه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: مَنْ قَرَأَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْثَرَ وَأَطْيَبَ
 ** حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو شخص رات کے وقت سورہ کافرون کی تلاوت کر لیتا ہے تو وہ بہت زیادہ تلاوت کرتا ہے اور بڑا پاکیزہ کام کرتا ہے۔

6008 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ بَكْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

6003- صحیح مسلم - کتاب صلاة المسافرين وقصرها' باب فضل قراءة قل هو الله احد - حدیث: 1385: مستخرج ابی عوانة - مبتدا فضائل القرآن' باب بیان فضیلة سورة قل هو الله احد وثواب من يقرأها - حدیث: 3196: المستدرک علی الصحیحین للحاکم - کتاب فضائل القرآن' ذکر فضائل سور - حدیث: 2017: موطا مالك - کتاب القرآن' باب ما جاء فی قراءة قل هو الله احد وتبارك الذي - حدیث: 488: سنن الدارمی - ومن کتاب فضائل القرآن' باب: فی فضل قل هو الله احد - حدیث: 3373: سنن ابن ماجه - کتاب الادب' باب ثواب القرآن - حدیث: 3785: السنن الكبرى للنسائي - کتاب عمل اليوم والليلة' ذکر الاختلاف علی الربیع بن خثیم فی هذا الحدیث - حدیث: 10121: مشكل الآثار للطحاوی - باب بیان مشكل ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم' حدیث: 1038: مسند احمد بن حنبل - مسند الشاميين' بقية حدیث ابی مسعود البدری الانصاری - حدیث: 16803: البحر الزخار مسند البزار - الربیع بن خثیم حدیث: 1645: مسند ابی یعلی الموصلی - من مسند ابی سعید الخدری' حدیث: 981

الْمُزْنِي يَقُولُ: إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ نِصْفُ الْقُرْآنِ، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ رُبْعُ الْقُرْآنِ

*** بکر بن عبد اللہ مزنی فرماتے ہیں: سورہ "اذا زلزلت الارض" نصف قرآن ہے اور سورہ کافرون ایک چوتھائی

قرآن ہے۔

6009 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا يُحَدِّثُ "أَنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ وَقَلْبُ

الْقُرْآنِ يَسُ وَمَنْ قَرَأَهَا فَإِنَّهَا تَعْدِلُ الْقُرْآنَ - أَوْ قَالَ: تَعْدِلُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ كُلِّهِ - وَمَنْ قَرَأَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ فَإِنَّهَا تَعْدِلُ رُبْعَ الْقُرْآنِ، وَإِذَا زُلْزِلَتْ شَطْرَ الْقُرْآنِ"

*** معمر بیان کرتے ہیں: میں نے ایک شخص کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے: ہر چیز کا کوئی دل ہوتا ہے اور

قرآن کا دل سورہ یسین ہے جو شخص اس کی تلاوت کرتا ہے تو یہ پورا قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ

ہیں:) پورے قرآن کی تلاوت کرنے کے برابر ہے اور جو شخص سورہ کافرون کی تلاوت کرتا ہے تو یہ ایک چوتھائی قرآن کے برابر

ہے اور جو شخص سورہ زلزال کی تلاوت کرتا ہے تو یہ نصف قرآن کے برابر ہے۔

6010 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي اسْحَاقَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ:

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: إِنَّ الْقُرْآنَ شَافِعٌ وَمُشَفِّعٌ، وَمَاحِلٌ مُصَدِّقٌ، فَمَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ

*** عبد الرحمن بن یزید بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: قرآن شفاعت کرنے والا ایسا

فرد ہے جس کی شفاعت قبول ہوگی اور ایسا بحث کرنے والا ہے جس کی بات کی تصدیق کی جائے گی جو شخص اسے اپنے آگے

رکھے گا اسے قرآن جنت کی طرف لے جائے گا اور جو شخص اسے پس پشت ڈال دے گا اسے قرآن جہنم کی طرف بھیج دے گا۔

6011 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ شَافِعٌ وَمُشَفِّعٌ، وَصَادِقٌ مَاحِلٌ

*** حسن بصری روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

"یہ قرآن ایسا سفارش ہے جس کی سفارش قبول ہوگی اور سچا بحث کرنے والا ہے۔"

6012 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ اسْتَمَعَ آيَةً

مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*** حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جو شخص اللہ کی کتاب کی ایک آیت غور سے سنتا ہے تو یہ چیز اس کے

لیے قیامت کے دن نور ہوگی۔

6013 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَنَسِ - أَوْ عَنِ الْحَسَنِ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ، وَمَنْ تَعَلَّمَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ

كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*** ابان نے حضرت انس رضی اللہ عنہما شاید حسن بصری کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کیا ہے: ”جو شخص توجہ کے ساتھ اللہ کی کتاب کی ایک آیت سنتا ہے تو اس شخص کے لیے ایک نیکی ہوتی ہے جو دُگنی ہوتی ہے اور جو شخص اللہ کی کتاب کی ایک آیت کا علم حاصل کرتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی۔“

6014 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: بَلَّغْنَا "أَنَّ الْقُرْآنَ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صُورَةِ الشَّاحِبِ الْمُنَافِرِ فَيَقُولُ لِصَاحِبِهِ: تَعْرِفْنِي؟ فَيَقُولُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا خَلِيلُكَ، وَأَنَا ضَجِيعُكَ، وَأَنَا شَفِيعُكَ، وَأَنَا الَّذِي كُنْتُ أُسْهِرُ لَيْلَكَ وَأُنْصِبُ نَهَارَكَ، وَأَزُولُ مَعَكَ حَيْثُمَا زَلْتِ، كَانَ كُلُّ تَاجِرٍ قَدْ أَصَابَ مِنْ تِجَارَتِهِ وَأَنَا الْيَوْمَ لَكَ مِنْ وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ، فَيُعْطَى الْمَلِكُ بِيَمِينِهِ، وَالْخُلْدُ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ تَاجُ الْوَقَارِ عَلَى رَأْسِهِ، وَيُقَالُ لَهُ: أَذْهَبُ فِي نَعِيمٍ مُقِيمٍ، وَيُكْسَى أَبُوَاهُ حُلَّتَيْنِ لَمْ تَقُمْ بِهِمَا الدُّنْيَا، فَيَقُولَانِ: أَيُّ هَذَا وَلَمْ نَعْمَلْ لَهُ؟ فَيَقُولُ: بِأَخْذِ أَيْنِكُمَا الْقُرْآنَ، ثُمَّ يُقَالُ: اقْرَأْ وَارْقُ، فَمَنْ كَانَ يُرْتَلُّهُ فَبِحَسَابِ ذَلِكَ، وَمَنْ كَانَ يَهْتَدُهُ فَبِحَسَابِ ذَلِكَ

*** یحییٰ بن ابوکثیر بیان کرتے ہیں: ہم تک یہ روایت پہنچی ہے: قیامت کے دن قرآن کمزور اور نامانوس آدمی کی شکل میں آئے گا اور وہ اپنے عالم سے کہے گا: تم مجھے پہچانتے ہو؟ وہ دریافت کرے گا: تم کون ہو؟ قرآن کہے گا: میں تمہارا ساتھی ہوں میں تمہارا ہم نشین ہوں میں تمہارا مہربان ہوں میں وہ ہوں جسے تم رات میں جاگ کر پڑھتے تھے اور جسے تم دن میں مشقت میں پڑھتے تھے اب تم جہاں جاؤ گے میں تمہارے ساتھ رہوں گا پہلے ہر ایک تاجر اپنی تجارت درست کرتا ہے تو آج میں تمہارے لیے ہر تاجر سے ماوراء ہوں پھر اس کے دائیں ہاتھ میں بادشاہی دی جائے گی اور بائیں ہاتھ میں خلد دی جائے گی اور اس شخص کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا: جنت میں چلے جاؤ! اس کے ماں باپ کو دو خلعے پہنائے جائیں گے جس کی قیمت پوری دنیا نہیں ہو سکتی۔ وہ دونوں کہیں گے: یہ کس وجہ سے ہیں؟ ہم نے تو ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ تو پروردگار جواب دے گا: یہ تمہارے بیٹے کے قرآن کا علم حاصل کرنے کی وجہ سے ہیں۔ پھر یہ کہا جائے گا: تم (قرآن کی) تلاوت شروع کرو اور (جنت کے درجات پر) چڑھنا شروع کرو تم اسی طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا۔ تو اس حساب سے آدمی تیزی سے پڑھے گا (جس طرح وہ دنیا میں اسے پڑھتا تھا) تو اسی حساب سے (جنت میں اس کا درجہ ہوگا)۔

6015 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَصْحَابِهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: نِعْمَ كَنْزُ الصُّعْلُوكِ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ يَقُومُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَيَقُومُ بِهَا قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَنْ قَرَأَ آلَ عِمْرَانَ فَهُوَ غَنِيٌّ

*** حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مفلوک الحال شخص کا بہترین خزانہ سورہ آل عمران ہے جسے وہ رات کے آخری حصہ میں نوافل میں ادا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو شخص سورہ آل عمران پڑھتا ہے وہ شخص خوشحال ہے۔

6016 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَاهِرُ بِالْقُرْآنِ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرَّةِ، وَالَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ

* * سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے:
"قرآن کو مہارت سے پڑھنے والا شخص معزز نیک فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو شخص قرآن پڑھتے ہوئے مشکل کا شکار ہوتا ہو اسے دوگنا اجر ملے گا۔"

6017 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْهَجْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: "إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ مَا دُبُّهُ اللَّهُ فَتَعَلَّمُوا مِنْ مَادِيَّتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي أَمْرٌ بِهِ، وَهُوَ النُّورُ الْمُبِينُ وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ، عِصْمَةٌ لِمَنْ اعْتَصَمَ بِهِ، وَنَجَاةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ، لَا يَعْوَجُ فَيَقْرُومُ، وَلَا يَزْوِغُ فَيُشْعَبُ، وَلَا تَنْقُضِي عَجَائِبُهُ وَلَا يَخْلُقُ عَنْ رَدِّ، اتْلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمْ لِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، لَمْ أَقُلْ لَكُمْ (الم) (القرة: 1) وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ"

* * حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے تو تم جہاں تک چاہو اس دسترخوان سے علم حاصل کرو یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے جس کے بارے میں اُس نے حکم دیا ہے اور یہ وہ روشن کرنے والا نور ہے اور شفاء ہے جو نفع دیتی ہے جو شخص بچنا چاہتا ہے یہ اُس کے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے اور جو شخص اسے پکڑ لیتا ہے اُس کے لیے ذریعہ نجات ہے یہ ٹیڑھا نہیں ہوتا کہ اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت پڑے یہ بھٹکتا نہیں ہے کہ اسے ٹھیک کرنا پڑے اس کے عجائبات کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا اور نہ ہی یہ بار بار پڑھنے سے پرانا محسوس ہوگا تم اس کی تلاوت کرو اللہ تعالیٰ تمہیں ہر ایک حرف کے عوض میں دس نیکیاں عطا کرے گا میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ "الم" ایک حرف ہے بلکہ الف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔

6018 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ قَوْمًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَصْغَرَهُمْ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّهُ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، وَإِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَجِرَابٍ فِيهِ مِسْكٌ إِنْ فَتَحْتَهُ، أَوْ فُتِحَ فَاحَ رِيحُهُ، وَإِنْ أُوْكِيَ أُوْكِيَ عَلَى طِيبٍ

* * سلیمان بن یسار بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے کچھ لوگوں کو کسی مہم پر روانہ کیا تو ان میں سے سب سے کم عمر شخص کو ان کا امیر مقرر کیا لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: اس شخص کو تم سب کے مقابلہ میں سب سے زیادہ قرآن آتا ہے قرآن کے عالم کی مثال ایک ایسے مشکیزہ کی طرح ہے جس میں مشک موجود ہوتی ہے اگر تم اسے کھول دیتے ہو تو اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے اور اگر اس کا منہ بند ہے تو وہ ایک پاکیزہ چیز اندر رکھ کے بند ہے۔

6019 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَفِيهِ آيَةٌ سَيِّدَةٌ آيَةُ الْقُرْآنِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ، لَا تُقْرَأُ فِي بَيْتٍ وَفِيهِ شَيْطَانٌ إِلَّا خَرَجَ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے اس میں ایک آیت ہے جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے اور وہ آیت الکرسی ہے جس گھر میں بھی اسے پڑھا جاتا ہے شیطان اُس سے باہر نکل جاتا ہے۔“

6020 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ كَفَتَاهُ

*** حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کر لیتا ہے تو یہ دونوں اُس کے لیے کافی ہوتی ہیں۔“

6021 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ، وَزَادَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَحَدَّثَنِي بِهِ عَلْقَمَةُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: فَلَقِيتُ أَبَا مَسْعُودٍ فِي الطَّوَافِ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَحَدَّثَنِي بِهِ وَهُوَ يَطُوفُ

*** حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اس کی مانند نقل کرتے ہیں تاہم اس میں یہ الفاظ

زائد ہیں۔ علقمہ نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: میں نے طواف کے دوران حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے اس حدیث کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے طواف کرنے کے دوران مجھے یہ حدیث سنائی۔

6022 - اقوال تابعين: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: "مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ الْكَهْفِ

عَصِمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَالِ، وَمَنْ قَرَأَ آخِرَهَا - أَوْ قَالَ: قَرَأَهَا إِلَى آخِرِهَا - كَانَتْ لَهُ نُورًا مِنْ قُرْبِهِ إِلَى قَدَمِهِ"

*** قنادہ فرماتے ہیں: جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی دس آیات کی تلاوت کر لیتا ہے وہ دجال کی آزمائش سے محفوظ

رہے گا اور جو شخص اُس کی آخری آیات کی تلاوت کرتا ہے (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) جو شخص اس سورت کو آخر تک (یعنی مکمل) پڑھتا ہے تو یہ سورت اُس کے لیے سر سے پاؤں تک نور ہوگی۔

6023 - آثار صحابه: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ أَبِي مَجَلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ

عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "مَنْ تَوَضَّأَ، ثُمَّ فَرَّغَ مِنْ وُضُوئِهِ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، خُتِمَ عَلَيْهَا بِخَاتَمِ فَوْضِعَتْ تَحْتَ الْعَرْشِ فَلَا تُكْسَرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ كَمَا أَنْزَلْتُ ثُمَّ أَدْرَكَ الدَّجَالَ لَمْ يُسَلِّطْ عَلَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهِ سَبِيلٌ، وَمَنْ قَرَأَ

خَاتِمَةَ سُورَةِ الْكَهْفِ أَضَاءَ نُورُهُ مِنْ حَيْثُ قَرَأَهَا مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَكَّةَ "

* * حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو شخص وضو کرے اور پھر وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ پڑھے:

"تو بریب سے پاک ہے اے اللہ! اور حمد تیرے لیے مخصوص ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ اور

کوئی معبود نہیں ہے میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔"

تو ان کلمات پر مہر لگا دی جاتی ہے اور ان کو عرش کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے یہ مہر قیامت تک نہیں توڑی جائے گی اور جو شخص سورۃ

کہف اسی طرح تلاوت کرے جس طرح یہ نازل ہوئی تھی تو پھر اگر وہ دجال کا زمانہ پالے تو دجال اُس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا

اور وہ اُس پر قابو نہیں پاسکے گا اور جو شخص سورۃ کہف کی آخری آیات کی تلاوت کر لے تو اُس شخص کے لیے اُس جگہ سے جہاں اُس

نے اس سورت کو تلاوت کیا ہے وہاں سے لے کر مکہ تک نور روشن ہو جائے گا۔

6024 - آثار صحابہ: قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَاتَ رَجُلٌ

فَجَاءَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَعَدُوا عِنْدَ رَأْسِهِ، فَقَالَ: لَا سَبِيلَ لَكُمْ عَلَيْهِ، قَدْ كَانَ يَقْرَأُ لِي سُورَةَ الْمَلِكِ،

فَجَلَسُوا عِنْدَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ: لَا سَبِيلَ لَكُمْ إِنَّهُ كَانَ يَقُومُ عَلَيْنَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْمَلِكِ، فَجَلَسُوا عِنْدَ بَطْنِهِ، فَقَالَ: لَا

سَبِيلَ لَكُمْ عَلَيْهِ إِنَّهُ أَوْعَى فِي سُورَةِ الْمَلِكِ، فَسَمِيَتِ الْمَانِعَةَ "

* * حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک شخص کا انتقال ہوا عذاب کے فرشتے آئے اور اُس کے سر ہانے

آ کر بیٹھے تو سرنے کہا: تم اس پر کوئی قابو نہیں پاسکو گے، کیونکہ یہ میری خاطر سورۃ ملک کی تلاوت کرتا تھا وہ فرشتے اُس کے پاؤں

کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو پاؤں نے کہا: تم اس پر قابو نہیں پاسکتے کیونکہ یہ ہم پر کھڑا ہو کر سورۃ ملک کی تلاوت کرتا تھا فرشتے اُس کے

پیٹ کے پاس آ کر بیٹھے تو پیٹ نے کہا: تم اس پر کوئی قابو نہیں پاسکتے، کیونکہ اس نے میرے اندر (یعنی دل میں) سورۃ ملک کو محفوظ

کیا تھا تو اس سورت کو "رکاوٹ" کا نام دیا گیا۔

6025 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ ابْنِ

مَسْعُودٍ قَالَ: "يُوتَى الرَّجُلُ فِي قَبْرِهِ قَتَوَتِي رِجْلَاهُ فَتَقُولَانِ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَيَّ مَا قَبَلْنَا سَبِيلٌ، قَدْ كَانَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا

سُورَةَ الْمَلِكِ، ثُمَّ يُوتَى جَوْفُهُ فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَيَّ سَبِيلٌ كَانَ قَدْ أَوْعَى فِي سُورَةِ الْمَلِكِ، ثُمَّ يُوتَى رَأْسُهُ

فَيَقُولُ: لَيْسَ لَكُمْ عَلَيَّ مَا قَبَلِي سَبِيلٌ كَانَ يَقْرَأُ بِي سُورَةَ الْمَلِكِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَهِيَ الْمَانِعَةُ تَمْنَعُ مِنَ

عَذَابِ الْقَبْرِ، وَهِيَ فِي التَّوْرَةِ هَذِهِ سُورَةُ الْمَلِكِ وَمَنْ قَرَأَهَا فِي لَيْلَةٍ فَقَدْ أَكْفَرَ وَأَطْيَبَ

* * حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

"قبر میں آدمی کے پاس فرشتے آتے ہیں اور اُس کے پاؤں کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں تو پاؤں یہ کہتے ہیں: تم ہماری

طرف سے نہیں پاسکتے، کیونکہ یہ ہم پر (کھڑا ہو کر) سورۃ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا پھر وہ فرشتے اُس کے پیٹ کے

پاس آتے ہیں تو وہ کہتا ہے: تم یہاں سے نہیں پاسکتے کیونکہ اس نے میرے اندر سورۃ ملک کو محفوظ رکھا تھا پھر وہ

فرشتے سر کے پاس آتے ہیں تو وہ کہتا ہے: تم میری طرف سے نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ میرے ذریعہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا۔

امام عبدالرزاق کہتے ہیں: یہ سورت ”رکاوٹ“ ہے جو قبر کے عذاب کو روک دیتی ہے اور یہ سورہ ملک ”تورات“ میں بھی موجود تھی جو شخص رات کے وقت اس کی تلاوت کرتا ہے تو وہ بکثرت اور پاکیزہ (عمدہ کام کرتا ہے)۔

6026 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: مَنْ

قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِمِائَةِ آيَةٍ لَمْ تُحَاجِهِ الْقُرْآنَ

*** حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو شخص رات کے وقت ایک سو آیات کی تلاوت کر لے تو اس سے قرآن کے

بارے میں بحث نہیں کی جائے گی۔

6027 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيِّ

قَالَ: إِذَا كُنَّا نَتَعَلَّمُ الْعَشْرَ مِنَ الْقُرْآنِ لَمْ نَتَعَلَّمِ الْعَشْرَ الَّتِي بَعْدَهَا حَتَّى نَتَعَلَّمَ حَلَالَهَا وَحَرَامَهَا وَأَمْرَهَا وَنَهْيَهَا

*** ابو عبدالرحمن سلمی بیان کرتے ہیں: جب ہم قرآن کی دس آیات کا علم حاصل کرتے تھے تو اگلی دس آیات کا علم اس

وقت تک حاصل نہیں کرتے تھے جب تک ہم ان آیات سے متعلق حلال اور حرام امر اور نہی کا علم حاصل نہیں کر لیتے تھے۔

6028 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَطَاءِ الْخُرَّاسِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ

قَالَ: مَنْ قَرَأَ فِي لَيْلَةٍ بِمِائَةِ آيَةٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَرَأَ بِمِائَتِي آيَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَمَنْ قَرَأَ بِخَمْسِ مِائَةِ إِلَى أَلْفٍ أَصْبَحَ لَهُ قِنْطَارٌ مِنَ الْأَجْرِ قَالَ: فَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ كَمِ الْقِنْطَارِ؟ فَقَالَ: سَبْعُونَ أَلْفًا. قَالَ عُمَرُو، وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَ كَعْبًا، عَنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا. فَقَالَ كَعْبٌ: لِكِنِّي أَقُولُ مَنْ صَلَّى الْعَتَمَةَ لَوْ قَتِيهَا لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ

*** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”جو شخص رات کے وقت ایک سو آیات کی تلاوت کرتا ہے اس کا نام غافل لوگوں میں نہیں لکھا جاتا جو شخص دو سو

آیات کی تلاوت کرتا ہے اس کا نام اس رات کی عبادت کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے جو شخص پانچ سو سے لے کر

ایک ہزار تک آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے اجر کا ایک ”قنطار“ مقرر کیا جاتا ہے۔“

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا گیا: ایک قنطار کتنے کا ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ستر ہزار کا۔

عمر و نامی راوی بیان کرتے ہیں: میں نے زہری کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: مجھے اس شخص نے یہ بتایا جس نے حضرت

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے اس قول کے بارے میں کعب سے سوال کیا تھا تو کعب نے جواب دیا: میں یہ کہتا ہوں کہ جو شخص عشاء کی نماز

وقت پر ادا کر لے اس کا نام غافل لوگوں میں نہیں لکھا جاتا۔

6029 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّ رَجُلَيْنِ فِيمَا مَضَى كَانَ يَلْزِمُ أَحَدُهُمَا تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، فَجَادَلَتْ عَنْهُ حَتَّى نَجَا، وَأَمَّا صَاحِبُ السَّجْدَةِ الصُّغْرَى فَاُنْقَسَمَتْ فِي قَبْرِهِ قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَقِسْمٌ عِنْدَ رِجْلَيْهِ حَتَّى نَجَا، فَسُمِّيَتْ الْمُنْقَسِمَةَ "

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: عطاء نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ پہلے زمانہ میں دو لوگ تھے ان میں سے ایک باقاعدگی سے سورہ ملک کی تلاوت کرتا تھا تو اس سورت نے اس شخص کی طرف سے جھگڑا کیا یہاں تک کہ اس شخص کو نجات مل گئی اور دوسرا وہ شخص تھا جو چھوٹی والی سورہ سجدہ کی تلاوت کرتا تھا تو وہ سورت اس کی قبر میں دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ایک حصہ اس کے سر بانے کی طرف بیٹھ گیا اور ایک حصہ اس کے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا یہاں تک کہ اس شخص کو نجات نصیب ہوئی تو اس وجہ سے اس سورت کو "منقسمہ" (تقسیم ہونے والی سورت) کا نام دیا گیا۔

6030 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ لَا يَأْمُرُ بِنَيْهِ بِتَعْلِيمِ الْقُرْآنِ، إِنْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مُتَعَلِّمًا فَلْيَتَعَلَّمْ مِنَ الْمُفْصَلِ فَإِنَّهُ أَيْسَرُ "

* * عاصم بن عمر بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کی ہدایت نہیں دیتے تھے (وہ یہ فرماتے تھے) اگر تم میں سے کسی ایک نے سیکھنا ہی ہے تو مفصل سورتوں کو پہلے سیکھے کیونکہ یہ زیادہ آسان ہیں۔

6031 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: آلُ حَمْدٍ دِيْبَاجُ الْقُرْآنِ

* * مجاہد فرماتے ہیں: سورہ آل حم قرآن مجید کا دیباج (ریشم) ہے۔

6032 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْقُرْآنِ إِذَا عَاهَدَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ فَدَعَا وَقَرَأَ آتَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، كَمَثَلِ رَجُلٍ لَهُ إِبِلٌ فَإِنْ عَقَلَهَا حَفِظَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَ عَقَلَهَا ذَهَبَتْ، وَكَذَلِكَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ

* * حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

"قرآن کی مثال جب اسے پڑھنے والا اس کو باقاعدگی سے پڑھتا رہے اور دعا کرتا رہے اور رات دن تلاوت کرتا رہے اس کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے جس کے پاس اونٹ موجود ہو اگر وہ اس اونٹ کو باندھ کر رکھے گا تو اس کو محفوظ رکھے گا اور اگر اس کی رسی کو کھول دے گا تو وہ اونٹ چلا جائے گا تو قرآن کے عالم کی مثال بھی اسی طرح ہے۔"

6033 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فَاتَّبَعَ مَا فِيهِ هَدَاهُ اللَّهُ مِنَ الضَّلَالَةِ فِي الدُّنْيَا، وَوَقَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحِسَابَ، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: (فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى) (طہ: 128) "

* * حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس میں موجود احکام کی پیروی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اُسے گمراہی سے ہدایت نصیب کر دیتا ہے اور قیامت کے دن اُسے حساب سے محفوظ رکھے گا، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:

”جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوتا اور وہ بد بخت نہیں ہوگا۔“

6034 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ فَقَالَ: اقْرَأُوا فَاكُلُوا كِتَابَ اللَّهِ، قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ قَوْمٌ يُقِيمُونَهُ إِقَامَةَ الْقَدْحِ، وَيَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَأَجَّلُونَهُ

* * محمد بن منکدر بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس تشریف لائے جو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”تم لوگ تلاوت کرو یہ سب اللہ کی کتاب ہے اور یہ تلاوت اُس سے پہلے کرو کہ جب وہ لوگ آئیں گے جو اُسے یوں ٹھیک کریں گے جس طرح تیر کو ٹھیک کیا جاتا ہے اور وہ لوگ اُسے جلدی جلدی پڑھیں گے، ٹھہر ٹھہر کر نہیں پڑھیں گے۔“

6035 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَقْرَأُوا وَالْمِ السَّجْدَةَ، وَتَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ فَانَّهُمَا تَعْدِلُ كُلُّ آيَةٍ مِنْهُمَا سَبْعِينَ آيَةً مِنْ غَيْرِهِمَا، وَمَنْ قَرَأَهُمَا بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ كَانَتْ لَهُ مِثْلُهُمَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

* * یحییٰ بن ابوکثیر بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ حکم دیا کہ وہ سورۃ الم السجدہ کی تلاوت کریں اور سورۃ ملک کی تلاوت کریں، کیونکہ یہ دونوں سورتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے ہر ایک آیت اس کے علاوہ کسی بھی سورت کی ستر آیت کے برابر ہے جو شخص عشاء کے بعد ان دونوں سورتوں کو پڑھے گا تو یہ دونوں سورتیں اس طرح ہوں گی جس طرح شب قدر میں ہوں۔

6036 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ الْجَرِيرِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: لَقَدْ آتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَنَحْنُ نَرَى أَنَّ أَحَدًا لَا يَتَعَلَّمُ كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا وَهُوَ يُرِيدُ بِهِ اللَّهُ، حَتَّى إِذَا كَانَ هَاهُنَا بِآخِرَةِ ظَنَنْتُ أَنَّ نَاسًا يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ وَهُمْ يُرِيدُونَ بِهِ النَّاسَ وَمَا عِنْدَهُمْ، فَأَرِيدُوا اللَّهَ بِأَعْمَالِكُمْ وَقِرَاءَتِكُمْ، فَإِنَّمَا كُنَّا نَعْرِفُكُمْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ وَيُنَبِّئُنَا مِنْ أَخْبَارِكُمْ، وَأَمَّا الْيَوْمَ فَإِنَّمَا أَعْرِفُكُمْ بِأَقْوَابِكُمْ، مَنْ أَعْلَنَ لَنَا خَيْرًا ظَنَّنَا بِهِ خَيْرًا وَأَحْبَبْنَاهُ عَلَيْنَا، وَمَنْ أَعْلَنَ لَنَا شَرًّا ظَنَّنَا بِهِ شَرًّا وَأَبْغَضْنَاهُ عَلَيْنَا، سَرَائِرُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ

* * سعید جریری بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: مجھ پر ایک

ایسا زمانہ ایسا بھی آیا کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ جو شخص اللہ کی کتاب کا علم سیکھتا ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے بھی اسے حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ اب بزمانہ آ گیا ہے، جس کے بارے میں میرا یہ گمان ہے کہ لوگ قرآن کا علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعہ لوگوں کی توجہ چاہتے ہیں اور لوگوں کے پاس جو مال موجود ہے، وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو تم لوگ اپنے اعمال اور اپنی قرأت کے ذریعہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول خیال رکھو، کیونکہ ہم تمہیں جانتے ہیں، نبی اکرم ﷺ ہمارے درمیان موجود تھے، وحی نازل ہوتی تھی، نبی اکرم ﷺ تم لوگوں کے بارے میں ہمیں بتایا کرتے تھے اور آج تمہارے اقوال کے حوالے سے میں تمہیں پہچان گیا ہوں، جو شخص ہمارے سامنے بھلائی کا اعلان کرے گا، ہم اُس کے بارے میں بھلائی کا گمان رکھیں گے اور اُس بھلائی کے حوالے سے اُسے پسند کریں گے، جو شخص ہمارے سامنے بُرائی کا اعلان کرے، ہم اُس کے بارے میں بُرا گمان رکھیں گے اور اس وجہ سے اُسے ناپسند کریں گے اور تمہارے باطن کے معاملات تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہیں۔

6037 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ

فِي الْحَمْدِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

*** تیمی کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہوئے تین مرتبہ سانس لیتے تھے۔

6038 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ سُلَيْمِ الصَّنَعَانِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: كَانَ إِذَا نَزَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ سَمِعَ عِنْدَهُ وَجْهَهُ كَدَوِي النَّحْلِ، فَنَزَلَ عَلَيْهِ فَمَكَّنَا سَاعَةً، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ زِدْنَا وَلَا تَنْقُصْنَا، وَآكِرْمْنَا وَلَا تُهِنَّا، وَأَعْطِنَا وَلَا تَحْرِمْنَا، وَآثِرْنَا وَلَا تُؤْثِرْ عَلَيْنَا، وَارْضَ عَنَّا ثُمَّ قَالَ: أَنْزَلَ عَلَيَّ عَشْرَ آيَاتٍ، مَنْ أَقَامَهُنَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ حَتَّى خَتَمَ الْعَشْرَ

*** حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب نبی اکرم ﷺ پر وحی نازل ہوتی تھی، تو آپ کے چہرے کے پاس سے شہد کی مکھی کی بھینٹا بٹ کی طرح کی آواز آتی تھی (ایک مرتبہ) جب آپ پر وحی نازل ہو گئی، تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد نبی اکرم ﷺ نے قبلہ کی طرف رخ کیا، دونوں ہاتھ بلند کیے اور یہ دعا کی:

”اے اللہ! ہمیں مزید عطا کرنا، ہمیں کمی نہ کرنا، ہمیں عزت عطا کرنا، ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمیں عطا کرنا، ہمیں محروم نہ رکھنا، ہمیں ترجیح دینا، کسی کو ہم پر ترجیح نہ دینا اور ہم سے راضی رہنا۔“

پھر نبی اکرم ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی: مجھ پر دس ایسی آیات نازل ہوئی ہیں کہ جو شخص انہیں قائم رکھے گا (یعنی یاد کر لے گا) یا ان کی تلاوت کرتا رہے گا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر نبی اکرم ﷺ نے سورہ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ کی دس ابتدائی آیات کی تلاوت کی۔

بَابُ الْمُعَوِّذَاتِ

باب: معوذتین کا حکم

6039 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ جُهَيْنَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: بَيْنَا اَسِيرُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ لَمْ اَسْمَعْ مِثْلَهُنَّ وَلَمْ اَرَ مِثْلَهُنَّ الْمُعَوِّذَتَيْنِ

*** حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ میں نبی اکرم ﷺ کے ساتھ سفر کر رہا تھا آپ پر آیت نازل ہوئی جن کی مانند میں نے کبھی سنا اور نہ کبھی میں نے دیکھا وہ ”معوذتین“ ہیں۔

6040 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زُرَّارِ بْنِ حَبِيشٍ قَالَ: سَأَلْتُ اَبِيَّ بَنَ كَعْبٍ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، فَقَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُمَا، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قِيلَ لِي، فَقُلْتُ: قَالَ اَبِيٌّ: قَالَ لِي رَسُولُ اللّٰهِ - صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَحْنُ نَقُولُ *** زر بن حبیش بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ سے معوذتین کے بارے میں دریافت کیا تو

انہوں نے بتایا: میں نے نبی اکرم ﷺ سے ان دونوں کے بارے میں دریافت کیا تھا تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: مجھ سے یہ بات کہی گئی ہے میں نے کہا: حضرت اُبی رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی ہے: نبی اکرم ﷺ نے مجھ سے فرمایا تو ہم بھی یہ کہتے ہیں۔



کتاب الجنائز

کتاب: جناز کے بارے میں روایات

باب تَلْقِنَةُ الْمَرِيضِ

باب: (قریب المرگ) بیمار کو تلقین کرنا

6041 - اقوال تابعین: أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْقُوبَ

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادِ الدَّبَرِيِّ، قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامِ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ يُؤَمَّرُ بِتَلْقِينَةِ الْمَرِيضِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ؟ قَالَ: إِنِّي لَا حُبُّ ذَلِكَ

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا ایسے بیمار کو تلقین کرنے کا حکم دیا جاتا تھا جس کی موت قریب آچکی ہو؟ تو عطاء نے جواب دیا: میں اس بات کو پسند کرتا ہوں۔

6042 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ

ابْنَةَ شَيْبَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ: لَا تَذْكُرُوا مَوْتَكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَلَقِنُوهُمْ شَهَادَةَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

* * سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: اپنے مرحومین کا تذکرہ صرف اچھے الفاظ میں کرو اور انہیں اس بات کی گواہی دینے کی تلقین کرو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔

6043 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثْتُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: اخْضُرُوا

مَوْتَكُمْ فَالْزِمُوهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَغْمِضُوا أَعْيُنَهُمْ، وَأَقْرَأُوا عِنْدَهُمُ الْقُرْآنَ

* * حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اپنی قریب المرگ لوگوں کے پاس موجود رہو اور ان کے پاس لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو اور (ان کے مرنے کے بعد) ان کی آنکھیں بند کر دو اور ان کے پاس قرآن کی تلاوت کرو۔

6044 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ لِأَبِي

بَكْرِ الصِّدِّيْقِ ابْنٌ وَكَانَ فِيهِ بَعْضُ مَا لَمْ يَرْضَ أَبُو بَكْرٍ، فَكَانَ يُحَقِّرُهُ لِذَلِكَ، فَمَرِضَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُوهُ،

فَقَالَ لَهُ الْغُلَامُ: أُرْسِلَكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرِسَالَةٍ: أَيْلِغُهُ عَنِّي إِنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا

اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَاَنْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ

بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَلِّغْ ابْنَكَ أَنَّ لَهُ الْجَنَّةَ قَالَ: فَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ فَلَقِيَهُ عُمَرُ

فَاخْبَرَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: ارْجِعْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى نَسْتَبِتَ مِنْهُ، فَرَجَعَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ هَذَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لِلأَمْوَاتِ فَكَيْفَ الأَحْيَاءُ؟ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: مِثْلُهُ وَمِثْلُهُ حَتَّى عَدَّ بِضْعًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً قَالَ: وَأَشَارَ الْقَاسِمُ بِيَدِهِ أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ

*** قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادے تھے جن میں کوئی ایسی خامی تھی جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ناپسند تھی جس کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ انہیں اچھا نہیں سمجھتے تھے جب وہ بیمار ہوئے تو ان کے والد ان کے پاس تشریف لائے تو ان صاحبزادے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا: میں نے آپ کے ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام بھیجا ہے آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اُس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بتایا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنے بیٹے کو بتادو کہ اُسے جنت ملے گی۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکلے تو ان کی ملاقات حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُن سے کہا: آپ میرے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں تاکہ ہم اس بارے میں مزید تصدیق کروالیں۔ وہ واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن سے وہی فرمایا جو پہلے کہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! یہ حکم تو قریب المرگ لوگوں کے لیے ہے تو زندہ لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کی مانند مزید! اس کی مانند مزید! یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیس مرتبہ سے زیادہ مرتبہ شمار کروایا۔

قاسم نے اپنے ہاتھ کے اشارہ کر کے بتایا کہ چونتیس مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی۔

6045 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، وَمَنْصُورٍ - أَوْ أَحَدِهِمَا -، عَنْ هَلَالِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "مَنْ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَنْجَتْهُ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ"

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو شخص مرنے کے قریب لا الہ الا اللہ پڑھ لے وہ آخر کار ایک دن نجات پالے گا خواہ اُس سے پہلے اُسے جس بھی صورت حال کا سامنا کرنا پڑے۔

6046 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: لَقِّنُونِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ مَوْتِي، وَأَسْرِ عَوَابِي إِلَى حُفْرَتِي، وَلَا تَنْعُونِي؛ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ كَنَعِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِذَا خَرَجَ الرَّجَالُ بِجِنَازَتِي فَأَغْلِقُوا الْبَابَ فَإِنَّهُ لَا أَرَبَ لِي بِالنِّسَاءِ

*** علقمہ فرماتے ہیں: تم میری موت کے وقت مجھے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرنا اور مجھے جلدی دفن کر دینا اور میری موت کا اعلان نہ کرنا، کیونکہ مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میرے مرنے پر زمانہ جاہلیت کی طرح اعلان کیا جائے جب مرد میری میت لے

کر (گھر سے باہر) آجائیں تو دروازہ بند کر دینا کیونکہ خواتین اس میں شریک نہیں ہو سکتی ہیں۔

6047 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، يَرْفَعُهُ قَالَ: لَقِنُوا أَمْوَاطِكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

* * قتادہ "مرفوع" حدیث کے طور پر یہ بات نقل کرتے ہیں: (نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے):

"اپنے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو۔"

6048 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: لَقِنُوا أَمْوَاطِكُمْ لَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الْخَطَايَا فَقِيلَ لَهُ: كَيْفَ الْحَيُّ؟ قَالَ: هِيَ أَهْدَمُ وَأَهْدَمُ

* * حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اپنے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو کیونکہ یہ کلمہ

گناہوں کو ختم کر دیتا ہے ان سے کہا گیا: زندہ لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا: یہ ان کے لیے (گناہوں

کو) زیادہ ختم کرتا ہے زیادہ ختم کرتا ہے۔

6049 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ صَاحِبِ لَهُمْ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْرَبِيَّ

مُسْلِمًا، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "خَمْسُ بَصَدِيقِ اللَّهِ بِهَا الْعَبْدُ إِذَا قَالَ: إِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ

أَكْبَرُ، قَالَ اللَّهُ: صَدَقَ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ اللَّهُ: صَدَقَ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، قَالَ اللَّهُ: صَدَقَ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: لَا

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ قَالَ: صَدَقَ عَبْدِي." قَالَ: فَلَقِيتُ شُعْبَةَ، فَحَدَّثَنِي بِهَذَا عَنِ الْأَعْرَبِيِّ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ، وَزَادَ فِيهِنَّ: مَنْ قَالَ هُنَّ عِنْدَ مَوْتِهِ لَمْ تَمْسَهُ النَّارُ. قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَقَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بِإِسْنَادِهِ

* * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: پانچ چیزیں ایسی ہیں جن کے حوالے سے اللہ تعالیٰ بندہ کی تصدیق کرتا ہے

جب بندہ ان کلمات کو پڑھ لیتا ہے جب بندہ لا الہ الا اللہ والحمد للہ اکبر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ نے سچ کہا ہے

جب بندہ لا الہ الا اللہ والحمد للہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ نے سچ کہا ہے جب بندہ لا الہ الا اللہ لا شریک لہ کہتا ہے تو

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ نے سچ کہا ہے جب بندہ لا الہ الا اللہ وحدہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ نے سچ کہا

ہے جب بندہ لا الہ الا اللہ الملک ولہ الحمد کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: میرے بندہ نے سچ کہا ہے۔

ابو اسحاق بیان کرتے ہیں: میری ملاقات شعبہ سے ہوئی تو انہوں نے بھی اغرنامی راوی کے حوالے سے حضرت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ حدیث مجھے بیان کی جس میں یہ کلمات زیادہ تھے:

"جو شخص مرنے کے قریب یہ کلمات پڑھ لیتا ہے آگ اُسے نہیں چھوئے گی۔"

امام عبد الرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے یہ روایت عبد اللہ بن کثیر کے حوالے سے شعبہ کے حوالے سے ان کی سند کے

ساتھ سنی ہوئی ہے۔

بَابُ اِغْمَاضِ الْمَيِّتِ

باب: میت کی آنکھیں بند کر دینا

6050 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَسَمِعَ بُكَاءً مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ قَالَ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الْمَيِّتَ فَتُؤَمِّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُهُ، فَإِنَّ الْبَصَرَ يَشْخَصُ لِلرُّوحِ وَأَغْمَضَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا سَلَمَةَ

*** حضرت قبصہ بن ذویب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے جو قریب المرگ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کے پیچھے سے رونے کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا: فرشتے میت کے قریب موجود ہوتے ہیں تو اہل خانہ جو کہتے ہیں فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ (جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (بینائی روح کے پیچھے جاتی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بند کر دیں۔

6051 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: إِذَا أَغْمَضْتَ الْمَيِّتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا حَمَلْتَ الْمَيِّتَ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَسَبِّحْ وَبِهِ نَأْخُذُ

*** حضرت بکر بن عبد اللہ مزنی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: جب تم میت کی آنکھیں بند کرو تو تم یہ پڑھو: ”اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم رہتے ہوئے۔“ اور جب میت کو کندھا دو تو یہ کہو:

”اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے۔“

اور پھر تم سبحان اللہ پڑھو۔ (راوی کہتے ہیں:) ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

6052 - آثار صحابہ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أُمِّ الْهَدَيْلِ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا دُعِيَتْ إِلَى مَيِّتٍ يُنَازِعُ، فَقَالَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ: ”إِذَا حَضَرْتِيهِ فَقُولِي: السَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“ وَبِهِ نَأْخُذُ أَيْضًا

*** حسن بصری کی والدہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نقل کرتی ہیں: انہیں ایک میت کے بارے میں اطلاع دی گئی کہ وہ قریب المرگ ہے تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اس خاتون سے فرمایا: جب اس کا آخری وقت قریب آئے تو تم یہ کہنا: تمام رسولوں پر سلام ہو اور ہر طرح کی حمد اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ (راوی کہتے ہیں:) ہم اس کے مطابق بھی فتویٰ دیتے ہیں۔

بَابُ النَّعْيِ عَلَى الْمَيِّتِ

باب: میت کا اعلان کرنا

6053 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: لَا تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا كِفْعَلِ الْجَاهِلِيَّةِ

* * * عاتقہ بن قیس کے بارے میں یہ بات منقول ہے: جب ان کی وفات کا قریب آیا تو انہوں نے کہا: تم میرے بارے میں کسی شخص کو اطلاع نہ دینا، جس طرح زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا۔

6054 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: " إِذَا كَانَ مَنْ يَحْمِلُ الْجِنَازَةَ فَلَا تُؤْذِنُ أَحَدًا مَخَافَةَ أَنْ يُقَالَ: مَا أَكْثَرَ مَنْ اتَّبَعَهُ "

* * * عاتقہ فرماتے ہیں: جب جنازہ اٹھایا جائے تو تم کسی شخص کو نہ بتانا اس اندیشہ کے تحت کہ یہ کہا جائے کہ اس کے پیروکار کتنے ہیں؟

6055 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَا تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا، حَسْبِي مَنْ يَحْمِلُنِي إِلَى حُفْرَتِي

* * * حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ابو عبیدہ فرماتے ہیں: تم میرے بارے میں کسی کو اطلاع نہ دینا، میرے لیے وہ لوگ کافی ہوں گے جو مجھے اٹھا کر میری قبر تک لے جائیں۔

6056 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ، صَاحِبِ الدُّسْتَوَائِي، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَنْ يُؤْذَنَ صَدِيقُهُ، إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُطَافَ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ، أَنَعِيَ فَلَنَا كِفْعَلِ الْجَاهِلِيَّةِ

* * * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہو جائے تو اس کے دوست کو اطلاع دی جائے پہلے لوگ اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ محافل میں چکر لگا کر یہ کہا جائے: میں فلاں کے انتقال کی اطلاع دیتا ہوں، جس طرح زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا۔

6057 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: " نَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَ مُوتَةَ رَجُلًا رَجُلًا، بَدَأَ بِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ، ثُمَّ جَعْفَرَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، ثُمَّ قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ، ثُمَّ قَالَ: فَأَخَذَ اللِّوَاءَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَهُوَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللَّهِ "

* * * حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتہ میں شریک ہونے والے تمام افراد کا نام لے لے کر ان کے انتقال کی اطلاع دی آپ نے سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، پھر حضرت جعفر بن

ابوطالب رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پھر جہنم خالہ بن ولید نے لے لیا جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔

بَابُ غُسْلِ الْمَرْءِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ، وَحُرُوفِ الْمَيِّتِ إِلَى الْقِبْلَةِ

باب: جب کسی شخص کا موت کا وقت قریب آئے تو اس کا غسل کرنا اور میت کو قبلہ کی طرف پھیر دینا

6058 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ يُؤْمَرُ بِالْمَرْءِ إِذَا حَضَرَهُ الْمَوْتُ أَنْ يُطَهَّرَ بِالْغُسْلِ؟ قَالَ: إِنْ ذَلِكَ لِحَسَنٍ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: جب آدمی کی موت کا وقت قریب آئے تو کیا اسے یہ ہدایت کی جائے گی کہ وہ غسل کے ذریعہ طہارت حاصل کر لے؟ عطاء نے جواب دیا: یہ عمدہ ہے۔

6059 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ حُرُوفَ الْمَيِّتِ إِلَى الْقِبْلَةِ حِينَ يَحِينُ فَوْضُهُ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ، أَسِنَّةٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ أَحَدٍ يَعْقِلُ تَرَكَ ذَلِكَ مِنْ مَيِّتِهِ، وَاللَّهِ إِنْ الرَّجُلَ لِيَحْمَلَ فِرَاشَهُ حَتَّى يُحَرِّفَ بِهِ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ ذَلِكَ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: جب آدمی کا آخری وقت قریب آتا ہے تو اس وقت میت کا رخ قبلہ کی طرف کرنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا اسے دائیں پہلو پر کر دیا جائے، کیا یہ چیز سنت ہے؟ انہوں نے جواب دیا: سبحان اللہ! مجھے کسی بھی شخص کے بارے میں علم نہیں ہے کہ وہ میت کے حوالے سے اس چیز کو ترک کرنا چاہتا ہو اللہ کی قسم! آدمی کے بستر کو اٹھایا جاتا ہے یہاں تک کہ اسے پھیر دیا جاتا ہے اگر اس کی خود (قبلہ کی طرف رخ کرنے کی) استطاعت نہ ہو۔

6060 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ مُغِيرَةَ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: اسْتَقْبِلُ بِالْمَيِّتِ الْقِبْلَةَ. قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي عَلَى يَمِينِهِ كَمَا يُوضَعُ فِي اللَّحْدِ

* * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: تم میت کا رخ قبلہ کی طرف کر دو۔ سفیان کہتے ہیں: یعنی دائیں طرف کر دو جس طرح اسے لحد میں رکھا جاتا ہے۔

6061 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الْمَيِّتِ يُوَجَّهُ لِلْقِبْلَةِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَوَجْهَهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تُوجِّهْ، لَكِنْ اجْعَلِ الْقَبْرَ إِلَى الْقِبْلَةِ، قَبْرُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَبْرُ عُمَرَ، وَقَبْرُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى الْقِبْلَةِ

* * جابر نامی راوی بیان کرتے ہیں: میں نے امام شعبی سے ایسی میت کے بارے میں دریافت کیا، جس کا رخ قبلہ کی طرف کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا: اگر تم چاہو تو اس طرف کر دو اور اگر چاہو تو نہ کرو، لیکن قبر قبلہ کی سمت بنانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی

کی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی قبریں قبلہ کی سمت ہی ہیں۔

6062 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةَ، أَنَّ إِنْسَانًا حِينَ حَضَرَ ابْنَ

الْمُسَيَّبِ الْمَوْتُ وَهُوَ مُسْتَلْقٍ قَالَ: أَحْرِفُوهُ قَالَ: أَوْلَسْتُ عَلَيْهَا؟ يَعْنِي أَنَّهُ عَلَى الْقِبْلَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسْتَقْبِلَهَا لِأَنَّهُ مُسَلِّمٌ

* * اسماعیل بن امیہ بیان کرتے ہیں: جب سعید بن مسیب کا آخری وقت قریب آیا تو وہ چپت لیٹے ہوئے تھے ایک شخص نے کہا: ان کا رخ پھردو! تو سعید نے کہا: کیا میں اُس رخ پر نہیں ہوں؟ یعنی کیا وہ قبلہ کے رخ نہیں ہیں وہ اُس وقت قبلہ کی طرف رخ کیے ہوئے نہیں تھے لیکن کیونکہ وہ مسلمان تھے (اس لیے انہوں نے یہ کلمات کہے)۔

6063 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمِيَّةَ، أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى ابْنِ

الْمُسَيَّبِ وَهُوَ شَاكٍ مُسْتَلْقٍ، فَقَالَ: وَجْهُهُ لِلْقِبْلَةِ، فَعَضِبَ سَعِيدٌ وَقَالَ: أَوْلَسْتُ إِلَى الْقِبْلَةِ؟

* * اسماعیل بن امیہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص سعید بن مسیب کے ہاں داخل ہوا وہ اُس وقت بیمار تھے اور چپت لیٹے ہوئے تھے اُس شخص نے کہا: ان کا رخ قبلہ کی طرف کر دو۔ تو سعید غصہ میں آگئے اور بولے: کیا میں قبلہ کی طرف نہیں ہوں؟

6064 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ الْبَرَاءَ بْنَ مَعْرُورٍ الْأَنْصَارِيَّ لَمَّا حَضَرَهُ

الْمَوْتُ قَالَ لِأَهْلِهِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ: اسْتَقْبِلُوا بِي الْكَعْبَةَ

* * زہری بیان کرتے ہیں: حضرت براء بن معرور انصاری رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت جب قریب ہوا تو انہوں نے اپنے

اہل خانہ سے کہا وہ اُس وقت مدینہ میں تھے میرا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دو۔

6065 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، سَمِعْتُهُ أَوْ بَلَّغَنِي عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ

يَقُولُ: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ وَجَّهُوا آدَمَ حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، ثُمَّ غَمَّضُوهُ

* * حسن بصری فرماتے ہیں: جب آدمی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو فرشتے اُس کا رخ (کعبہ کی طرف) پھیر

دیتے ہیں پھر وہ اُس کی آنکھیں بند کرتے ہیں۔

بَابُ الْقَوْلِ عِنْدَ الْمَوْتِ

باب: مرنے کے وقت کیا کہا جائے؟

6066 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَضَرْتُمْ الْمَيِّتَ أَوِ الْمَرِيضَ فَقُولُوا خَيْرًا؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ

* * سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تم کسی میت یا (قریب المرگ) مریض کے

پاس موجود ہو تو تم بھلائی کی بات کرو کیونکہ تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔

6067 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، وَوَافَقَ دُخُولَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُرُوجَ نَفْسِهِ، فَسَمِعَ بُكَاءً فَقَالَ: لَا تَدْعُوا عَلَيَّ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ؛ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَحْضُرُ الْمَيِّتَ، أَوْ قَالَ: أَهْلَ الْبَيْتِ، فَيُؤْمِنُونَ عَلَيَّ دُعَائِهِمْ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ذُنُوبَهُ، وَأَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَأَعْظِمْ نُورَهُ، وَأَضِءْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَةَ أَبِي سَلَمَةَ فِي الْمَهْدِيِّينَ، وَأَخْلِفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَاعْفِرْ لَهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ الْبَصَرَ شَخْصٌ لِلرُّوحِ، أَلَمْ تَرَوْا إِلَى شَخْصٍ عَيْنِيهِ؟

*** ابو قلابہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لائے جو بیمار تھے نبی اکرم ﷺ داخل ہوئے تو اسی دوران ان کی جان نکل گئی آپ نے رونے کی آواز سنی تو آپ نے فرمایا: تم لوگ اپنے بارے میں صرف بھلائی کی دعا کرنا کیونکہ فرشتے میت کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) گھر والوں کے پاس موجود ہوتے ہیں اور وہ گھر والوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ پھر نبی اکرم ﷺ نے یہ دعا کی:

”اے اللہ! تو اس کے گناہوں کی مغفرت کر دے! اس کی قبر کو کشادہ کر دے! اس کے نور کو زیادہ کر دے! اس کے لیے اس کی قبر کو روشن کر دے! اے اللہ! ہدایت یافتہ لوگوں میں ابوسلمہ کے درجہ کو بلند کر دے اور پیچھے رہنے والوں میں ان کا کارساز بن جا! اے تمام جہانوں کے پروردگار! تو اس کی مغفرت کر دے۔“

(راوی بیان کرتے ہیں:) پھر نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: بینائی رُوح کے پیچھے جاتی ہے، کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ اس کی آنکھیں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہیں۔

6068 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: إِذَا عَايَنَ الْمَرِيضُ الْمَلَكَ ذَهَبَتِ الْمَعْرِفَةُ، يَعْنِي مَعْرِفَةَ النَّاسِ

6066-صحیح مسلم - کتاب الجنائز، باب ما يقال عند المريض والبيت - حدیث: 1578، المستدرک علی الصحیحین للحاکم - کتاب معرفة الصحابة رضی اللہ عنہم، ذکر ام المؤمنین ام سلمة بنت ابی امیة رضی اللہ عنہا - حدیث: 6803، سنن ابی داود - کتاب الجنائز، باب ما يستحب ان يقال عند الميت من الكلام - حدیث: 2724، سنن ابن ماجه - کتاب الجنائز، باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر - حدیث: 1443، السنن للنسائی - کتاب الجنائز، كثرة ذكر الموت - حدیث: 1811، مصنف ابن ابی شیبة - کتاب الجنائز، ما يقال عند المريض إذا حضر - حدیث: 10661، السنن الکبریٰ للنسائی - کتاب الجنائز، كثرة ذكر الموت - حدیث: 1931، السنن الکبریٰ للبيهقي - کتاب الجنائز، باب ما يستحب من الكلام عنده - حدیث: 6215، مسند احمد بن حنبل - مسند الانصار، مسند النساء - حدیث ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حدیث: 25950، مسند عبد بن حميد - حدیث ام سلمة رضی اللہ عنہا، حدیث: 1541، مسند ابی یعلیٰ الموصلی - مسند ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حدیث: 6806، المعجم الكبير للطبرانی - باب الياء، ما اسندت ام سلمة - قبيصة بن ذؤيب، حدیث: 19574

* * قاسم بن عبد الرحمن نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کیا ہے: جب بیمار شخص (موت کے) فرشتہ کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی جان پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ راوی کہتے ہیں: یعنی لوگوں کی جان پہچان ختم ہو جاتی ہے۔

6069 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَمْ تَرَوْا الْإِنْسَانَ إِذَا شَخَّصَ بَصَرَهُ؟ قَالُوا: بَلَى قَالَ: فَذَلِكَ حِينَ يَتَّبِعُ بَصَرُهُ نَفْسَهُ

* * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: ”کیا تم نے انسان کو دیکھا نہیں ہے کہ اس کی آنکھیں اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ لوگوں نے کہا: جی ہاں! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس وقت بینائی جان کے پیچھے جاتی ہے۔“

بَابُ وَضْعِ السِّيفِ

باب: تلوار رکھنا

6070 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنِ السِّيفِ يُوَضَّعُ عَلَى بَطْنِ الْمَيِّتِ قَالَ: إِنَّمَا يُفْعَلُ لِنَلَا يَنْتَفِخَ، وَلَا يَضْرُكَ أَفْعَلْتَ أَمْ لَا، وَسُئِلَ عَنِ الْحِذَاءِ يُدْخَلُ بِهِ الْقَبْرَ قَالَ: إِنَّمَا يُكْرَهُ كَرَاهِيَةَ الرَّأْيِ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: مَا أَحَبُّ أَنْ تَدْخُلَ بِالْحِذَاءِ الْقَبْرَ، وَبِهِ نَأْخُذُ

* * جابر بیان کرتے ہیں: امام شعبی سے دریافت کیا گیا: کہ میت کے پیٹ پر تلوار رکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ پیٹ پھول نہ جائے، تم یہ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ اس سے تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ امام شعبی سے جو توں سمیت قبر میں اترنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: پھسلنے کے اندیشے کی وجہ سے اسے مکروہ قرار دیا گیا ہے۔

امام عبد الرزاق کہتے ہیں: مجھے بھی یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم قبر میں جو توں سمیت داخل ہو، ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

بَابُ التَّعْزِيَةِ

باب: تعزیت کرنا

6071 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْزِي الْمُسْلِمِينَ فِي مَصَابِيهِمْ

* * عبد الرحمن بن قاسم اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ہاں فوتگی پر ان کے ساتھ تعزیت کیا کرتے تھے۔

6072 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرَةَ، شَيْخٌ مِنْ بَنِي

تَمِيمٍ قَالَ: يُقَالُ: مُعَزِّي الْمَصَائِبِ يُكْسَى رِدَاءً مِنْ إِيْمَانٍ يَكُونُ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ

* * * حجاج نامی راوی بیان کرتے ہیں: ابو عمرہ نے مجھے یہ بات بتائی جو بنو تميم سے تعلق رکھنے والے ایک بزرگ ہیں وہ

فرماتے ہیں: یہ بات کہی جاتی ہے کہ فوتگی والے لوگوں کے ساتھ تعزیت کرنے والے شخص کو ایمان کی چادر پہنائی جائے گی جو اس کے لیے جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہوگی۔

6073 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ، أَنَّ أُمَّةَ

بَنِ صَفْوَانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ وَجَدَ صَحِيفَةً مَرْبُوطَةً بِقِرَابِ صَفْوَانَ أَوْ بِسَيْفِهِ، وَإِذَا فِيهَا: هَذَا مَا سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ: "

أَيُّ رَبِّ، مَا جَزَاءُ مَنْ يَبُلُّ الدَّمَعُ وَجْهَهُ مِنْ خَشْيَتِكَ؟ قَالَ: صَلَوَاتِي، فَقَالَ: فَمَا جَزَاءُ مَنْ يُصَبِّرُ الْحَزِينَ

أَيْتِغَاءَ لِرُوحِهِكَ؟ قَالَ: أَكْسُوهُ ثِيَابًا مِنَ الْإِيْمَانِ يَتَبَوَّأُ بِهَا الْجَنَّةَ وَيَتَّقِي بِهَا النَّارَ قَالَ: فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَسُدُّ

الْأَرْمَلَةَ أَيْتِغَاءَ وَجْهِكَ؟ قَالَ: وَمَا يَسُدُّ؟ قَالَ: يَرُوبِهَا أَقِيمُهُ فِي ظِلِّي وَأُدْخِلُهُ جَنَّتِي " قَالَ: فَمَا جَزَاءُ مَنْ تَبَعَ

الْجِنَازَةَ أَيْتِغَاءَ وَجْهِكَ؟ قَالَ: يُصَلِّي مَلَائِكَتِي عَلَى جَسَدِهِ وَيُشَيِّعُ رُوحَهُ قَالَ: وَكَانَ فِيهِ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ

فَنَسِيْتُهَا قَالَ: فَاتَى يَحْيَى بْنُ جَعْدَةَ فَأَخَذَهَا مِنِّي

* * * عثمان بن اسود بیان کرتے ہیں: اُمیہ بن صفوان نے انہیں بتایا کہ انہوں نے (اپنے والد) حضرت صفوان رضی اللہ عنہ

کے مشکیزہ یا تلوار کے ساتھ ایک صحیفہ بندھا ہوا دیکھا، اُس میں یہ تحریر تھا:

"یہ وہ چیز ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے مانگی تھی (یا جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے

پروردگار سے سوال کیا تھا) انہوں نے کہا تھا: اے میرے پروردگار! اُس شخص کی جزاء کیا ہوگی؟ جس کا چہرہ تیری خشیت کی وجہ

سے آنسوؤں سے تر ہو جائے؟ تو پروردگار نے فرمایا: میری رحمت! حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا: اُس شخص کی جزاء کیا ہوگی؟

جو تیری رضا کے حصول کے لیے غمگین شخص کو صبر کی تلقین کرتا ہے؟ تو پروردگار نے فرمایا: میں اُسے ایمان کا لباس پہناؤں گا، جس

کے ذریعہ وہ جنت میں ٹھکانہ حاصل کرے گا اور جس کے ذریعہ وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا: اُس

شخص کی جزاء کیا ہوگی؟ جو تیری رضا کی خاطر بیوہ عورتوں کی دیکھ بھال کرے گا۔ راوی کہتے ہیں: میں نے اپنے استاد سے دریافت

کیا: لفظ "یسد" کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اُن کی دیکھ بھال کرنا۔ (تو پروردگار نے فرمایا:) میں اپنے سایہ رحمت

میں اُس کی دیکھ بھال کروں گا اور اُسے اپنی جنت میں داخل کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا: اُس شخص کی جزاء کیا ہو

گی؟ جو تیری رضا کے حصول کی خاطر جنازہ کے ساتھ جائے؟ تو پروردگار نے فرمایا: میرے فرشتے اُس کے جسم پر رحمت نازل

کریں گے اور اُس کی روح کو ساتھ لے کر چلیں گے۔"

راوی کہتے ہیں: اس روایت میں بیمار شخص کی عیادت کرنے والے شخص کی جزاء کا بھی ذکر تھا، لیکن وہ بات میں بھول گیا، پھر

یحییٰ بن جعدہ آئے تو انہوں نے یہ روایت مجھ سے حاصل کی۔

6074 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَرِيزٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ السَّلْمِيِّ، عَنْ لَمَائِهِمْ قَالَ: مَنْ عَزَى مُؤْمِنًا بِمُصِيبَةٍ دَخَلَتْ عَلَيْهِ كَسَاهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِذَاءً يُحَبِّرُ بِهِ، قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَكَيْفَ يُعَزَى؟ قَالَ: بَلَّغْنِي أَنَّ الْحَسَنَ مَرَّ بِأَهْلِ مَيِّتٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: أَعْظَمَ اللَّهُ أَجْرَكُمْ وَغَفَرَ اللَّهُ لِصَاحِبِكُمْ، ثُمَّ مَضَى وَلَمْ يَقْعُدْ، قُلْنَا لَهُ: مَنْ يُعَزَى؟ قَالَ: يُعَزَى كُلُّ حَزِينٍ، فَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ حَزِينًا لِصَاحِبِهِ وَأَخِيهِ أَشَدَّ مِنْ حُزْنِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

* * ابو عبد اللہ سلمی نے اپنے علماء کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: جو شخص کسی فوتگی کے وقت کسی مومن شخص کے ساتھ تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اُس شخص کو ایسی چادر پہنائے گا جس کے ذریعہ وہ شخص آراستہ ہوگا۔
امام عبد الرزاق سے ہم نے دریافت کیا: اُس کے ساتھ تعزیت کیسے کی جائے؟ تو انہوں نے جواب دیا: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ حسن بصری جب کسی اہل میت کے پاس سے گزرتے تھے تو اُن کے پاس ٹھہر کر یہ کہتے تھے: اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو زیادہ کرے! تمہارے ساتھی کی مغفرت کرے۔ پھر وہ تشریف لے جاتے تھے وہ بیٹھتے نہیں تھے۔ ہم نے اُن سے دریافت کیا: تعزیت کس کے ساتھ کی جائے گی؟ انہوں نے جواب دیا: ہر اُس شخص کے ساتھ تعزیت کی جائے گی جسے غم لاحق ہو کیونکہ بعض اوقات آدمی کو اپنے ساتھی اور بھائی کا غم اس سے زیادہ ہوتا ہے جتنا اپنے اہل خانہ کا اُسے غم ہوتا ہے۔

بَابُ غُسْلِ الْمَيِّتِ

باب: میت کو غسل دینا

6075 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وَتِرًا، ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، كُلُّهُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ فِي كُلِّ غَسَلَةٍ يُغَسَّلُ رَأْسُهُ مَعَ سَائِرِ جَسَدِهِ قَالَ: قُلْتُ: وَتَجْزِءُ وَاحِدَةً؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ أَنْقَوَهُ

* * عطاء فرماتے ہیں: میت کو طاق تعداد میں غسل دیا جائے گا تین یا پانچ یا سات مرتبہ ہر مرتبہ پانی اور بیری کے پتوں کے ذریعہ غسل دیا جائے گا اور ہر مرتبہ غسل دیتے ہوئے پورے جسم کے ساتھ سر کو بھی دھویا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں: میں نے دریافت کیا: کیا ایک مرتبہ بھی کافی ہوگا؟ عطاء نے جواب دیا: جی ہاں! اگر لوگ اُسے اچھی طرح صاف کر دیں۔

6076 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وَتِرًا

* * ابن سیرین فرماتے ہیں: میت کو طاق تعداد میں غسل دیا جائے گا۔

6077 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ يُخْبِرُنَا قَالَ:

غَسَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَمِيصٍ، وَغَسَلَ ثَلَاثًا كُلُّهُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَوَلِيَ عَلِيٌّ سَفَلَتَهُ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَخْتَصِنُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَبَّاسُ يَصُبُّ الْمَاءَ قَالَ: وَعَلِيٌّ يَغْسِلُ سَفَلَتَهُ وَيَقُولُ:

الْفَضْلُ لِعَلِيٍّ: اِرْحَنِي اِرْحَنِي، قَطَعْتَ وَتَيْبِي، اِنِّي لَاجِدُ شَيْئًا يَنْزِلُ عَلَيَّ، قَطَعْتَ وَتَيْبِي قَالَ: " وَغُسِّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بئرِ لَسْعَدِ بْنِ خَثِيمَةَ يُقَالُ لَهَا: الْغَرَسُ بِقَبَا قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ إِلَّا بِسِدْرٍ، وَبِهِ نَأْخُذُ. قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: يُبَدَأُ بِالرَّأْسِ أَوْ بِاللِّحْيَةِ؟ قَالَ: السَّنَةُ لَا شَكَّ يُبَدَأُ بِالرَّأْسِ ثُمَّ اللَّحْيَةَ

ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، أَنَّ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ: يُبَدَأُ بِالرَّأْسِ، ثُمَّ اللَّحْيَةَ، ثُمَّ الْمَيَامِنِ، يَعْنِي غَسَلَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ثُمَّ بِمَاءٍ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ. كُلُّ غَسَلَةٍ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ثُمَّ بِمَاءٍ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: امام محمد باقر نے مجھے یہ بات بتائی کہ نبی اکرم ﷺ کو قمیص سمیت غسل دیا گیا، آپ کو تین مرتبہ غسل دیا گیا، ہر مرتبہ پانی اور بیری کے پتوں کے ذریعہ غسل دیا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے زیریں حصے کے نگران تھے، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما آپ کو کروٹ دلا رہے تھے جبکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ پانی انڈیل رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے زیریں حصہ کو دھویا، تو حضرت فضل رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا: مجھے سنبھلنے دیں! مجھے سنبھلنے دیں! آپ نے میری وتین (شہہ رگ یا دل کی بڑی رگ) کاٹ دی ہے، مجھے محسوس ہوا ہے کہ جیسے کوئی چیز مجھ پر آئی ہے، آپ نے میری وتین (شہہ رگ یا دل کی بڑی رگ) کاٹ دی ہے۔

راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کو حضرت سعد بن خثیمہ رضی اللہ عنہ کے کنویں سے غسل دیا گیا تھا، جس کا نام "غرس" تھا اور جو قباء میں تھا۔

راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ ہمیشہ اپنا سر بیری کے پتے کے ذریعہ دھوتے تھے۔ (امام عبد الرزاق فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔)

(کتاب کے ناقل کہتے ہیں: میں نے امام عبد الرزاق سے دریافت کیا: کیا پہلے سر دھویا جائے گا؟ یا داڑھی دھوئی جائے گی؟ انہوں نے فرمایا: اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سنت یہ ہے پہلے سر کو دھویا جائے، پھر داڑھی کو دھویا جائے۔ پھر انہوں نے یہ بات بتائی کہ ابو قلابہ نے یہ بات نقل کی ہے: پہلے سر دھویا جائے گا، پھر داڑھی دھوئی جائے گی، پھر دائیں طرف کے اعضاء کو دھویا جائے گا، یعنی تین مرتبہ پانی اور بیری کے پتوں کے ذریعہ غسل دیا جائے گا، پھر پانی کے ذریعہ غسل دیا جائے گا، تو یہ ایک مرتبہ ہو جائے گا، ہر مرتبہ پانی اور بیری کے پتوں کے ذریعہ اور پھر پانی کے ذریعہ غسل دیا جائے، تو یہ ایک مرتبہ ہو جائے گا۔

6078 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اِنْ كَانَ ذَا صَفِيرَتَيْنِ مَضْفُورَتَيْنِ؟ قَالَ: تُنْشَرَانِ وَتُغْسَلَانِ، قُلْتُ: اَرَأَيْتَ السِّدْرَ لَا بُدَّ مِنْهُ؟ قَالَ: اِنَّكَ لَتُوجِبُ، اَمَّا السِّدْرُ فَطَهُورٌ، قُلْتُ: فَلَمْ يُوْجَدْ سِدْرٌ فَيُوْخَذُ خَطْمِيٌّ؟ قَالَ: لَا، سَيُوْجَدُ السِّدْرُ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اگر میت کی چوٹیاں بنی ہوئی ہوں، جو بندھی ہوئی ہوں۔

تو انہوں نے کہا: انہیں کھول کر دھویا جائے گا۔ میں نے دریافت کیا: کیا بیری کے پتوں کا استعمال لازمی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: یہ لازم ہے کیونکہ بیری کے پتے طہارت دیتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا: اگر بیری کے پتے نہیں ملتے تو کیا خطمی نامی بوٹی استعمال کی جاسکتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! بیری کے پتے مل ہی جائیں گے۔

6079 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: غُسْلُ الْمُتَوَفَّى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَمَنْ غَسَلَ مِثًا فَلْيَلْقِ عَلَى وَجْهِهِ ثَوْبًا، ثُمَّ لِيَبْدَأْ فليَوْضِئْهُ وَلِيَغْسِلْ رَأْسَهُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْسِلَ مَذَاكِرَهُ فَلَا يُفْضِ إِلَيْهَا، وَلَكِنْ لِيَأْخُذَ خِرْقَةً فَلْيَلْقِهَا عَلَى يَدِهِ، ثُمَّ لِيَدْخُلْ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ، وَلِيَمْسَحْ بَطْنَهُ حَتَّى يُخْرِجَ مِنْهُ الْأَذَى

* * * سلیمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں: مرحوم کو تین مرتبہ غسل دیا جائے گا جو شخص میت کو غسل دے گا وہ اپنے چہرے پر کپڑا رکھ لے گا پھر وہ آغاز میں میت کو وضو کرائے گا پھر اس کا سر دھوئے گا پھر جب وہ اس کی شرمگاہ کو دھونے لگے گا تو ہاتھ وہاں تک لے کے جائے گا بلکہ کپڑا لے کر اسے اپنے ہاتھ پر باندھے گا اور پھر کپڑے کے نیچے سے اپنا ہاتھ اندر داخل کرے گا اور اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرے گا تاکہ ساری گندگی نکل جائے۔

6080 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ: الْأُولَى بِمَاءٍ قَرَّاحٍ، وَيُوضِئُهُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، وَالثَّانِيَةَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَالثَّلَاثَةَ بِمَاءٍ قَرَّاحٍ، وَيَتَّبَعُ مَسَاجِدَهُ بِالطَّيِّبِ

* * * میت کو غسل دینے کے بارے میں ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: پہلی اُسے سادہ پانی سے غسل دیا جائے گا پھر آدی اُسے نماز کے وضو کی طرح وضو کروائے گا دوسری مرتبہ پانی اور بیری کے پتوں کے ذریعہ غسل دے گا تیسری مرتبہ سادہ پانی کے ذریعہ غسل دے گا اور سجدہ کے اعضاء پر خوشبو لگا دے گا۔

6081 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: رَأَيْتُهُ يُغْسِلُ مِثًا فَالْقَى عَلَى فَرْجِهِ خِرْقَةً وَعَلَى وَجْهِهِ خِرْقَةً أُخْرَى، وَوَضَّاهُ وَضُوءَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ بَدَأَ بِمِيَامِينِهِ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: يَبْدَأُ بِمِيَامِينِهِ قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوضِئَهُ نَزَعَ الَّتِي عَلَى وَجْهِهِ، فَأَمَّا الَّتِي عَلَى فَرْجِهِ فَلَا يُحَرِّكُهَا، وَلَكِنَّهُ يَضَعُ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَدْخُلُهَا تَحْتِ الْخِرْقَةِ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ أَيُّوبُ: وَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِدْرًا غَسَلُوهُ بِالْأَشْنَانِ إِذَا طَالَ مَرَضُهُ وَكَثُرَ

* * * معمر نے ایوب کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: میں نے انہیں ایک میت کو غسل دیتے ہوئے دیکھا انہوں نے میت کی شرمگاہ پر ایک کپڑا رکھ دیا اور اپنے چہرے پر دوسرا کپڑا ڈال دیا انہوں نے میت کو نماز کے وضو کی طرح وضو کروایا پھر میت کے دائیں اعضاء سے آغاز کیا۔

امام عبد الرزاق بیان کرتے ہیں: معمر بیان کرتے ہیں: قتادہ یہ فرماتے ہیں: میت کے دائیں طرف کے اعضاء سے آغاز کیا

جائے گا۔ وہ یہ فرماتے ہیں: آدمی جب میت کو غسل کروانے لگے گا تو اپنے چہرے پر موجود کپڑے کو اتار لے گا جہاں تک میت کی شرمگاہ پر موجود کپڑے کا تعلق ہے تو آدمی اُسے حرکت نہیں دے گا بلکہ اپنے ہاتھ پر کپڑا پیٹ کر پھر اُسے اُس کپڑے کے نیچے داخل کرے گا (جو میت کی شرمگاہ پر موجود ہے)۔

امام عبد الرزاق بیان کرتے ہیں: معمر نے یہ بات نقل کی ہے: ایوب فرماتے ہیں: جب لوگوں کو بیری کے پتے نہیں ملیں گے تو وہ میت کو اُشنان کے ذریعہ غسل دے دیں گے جبکہ میت کی بیماری زیادہ اور لمبی ہو چکی ہو۔

6082 - اقوال تابعین: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ: إِذَا طَالَ ضَنْيَ

الْمَيْتِ غَسَلِ بِالْأَشْنَانِ إِنْ شَاءَ وَ

*** ابو قلابہ بیان کرتے ہیں: جب میت کی بیماری طویل رہ چکی ہو تو میت کو اگر لوگ چاہیں گے تو اُشنان کے ذریعہ غسل دے دیں گے۔

6083 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: كَانَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصٌ فَنُودُوا أَنْ لَا تَنْزِعُوهُ

*** منصور فرماتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کے جسم پر قمیص موجود تھی تو یہ آواز آئی: کہ تم اسے نہ اتارو۔

6084 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُغَسَّلَ

الْمَيْتُ وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ فَضَاءً حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ بَسْتَرٌ

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: یہ بات مکروہ ہے کہ میت کو ایسی حالت میں غسل دیا جائے کہ اُس کے اور آسمان کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو میت اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ ہونا چاہیے۔

6085 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُّكْرَهُ غَسْلُهُ عُرْيَانًا؟ قَالَ: لِمَ

يُغَسَّلُ عُرْيَانًا؟ قُلْتُ: فَجُعِلَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ مِمَّنْ عَلَيْهِ لَا يَمَسُّ الثَّوْبُ وَيُغَسَّلُ مِنْ تَحْتِهِ قَالَ: حَسْبُهُ، وَقَدْ وُورِيَ حِينِيذٌ

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا میت کو برہنہ کر کے غسل دینا مکروہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا: برہنہ کر کے غسل کیوں دیا جائے؟ میں نے کہا: تو کیا اُس کے جسم پر موجود کپڑوں میں سے کسی کپڑے کو اُس پر رکھ دیا جائے گا اور پھر اُس کپڑے کو ہلائے بغیر اُس کے نیچے سے غسل دے دیا جائے گا۔ انہوں نے جواب دیا: یہ کافی ہے اور یہ چیز اُسے ڈھانپ لے گی۔

6086 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثْتُ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ آدَمُ رَجُلًا أَشْعَرَ طَوَّالًا آدَمَ، كَأَنَّهُ نَخْلَةٌ سَحُوقٌ، وَإِنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْوَفَاةُ نَزَلَتْ الْمَلَائِكَةُ بِحَنُوطِهِ وَكَفَّنِيهِ مِنَ الْجَنَّةِ، فَلَمَّا مَاتَ غَسَلُوهُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ثَلَاثًا، وَجَعَلُوا فِي الثَّلَاثَةِ كَافُورًا، وَكَفَّنُوهُ فِي وَتْرِ

ثِيَابٍ، وَحَفَرُوا لَهُ لَحْدًا وَصَلُّوا عَلَيْهِ، وَقَالُوا: هَذِهِ سُنَّةُ وَالدِّ آدَمَ مِنْ بَعْدِهِ
 * * حضرت اُبی بن کعب رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں:

”حضرت آدم علیہ السلام گندمی رنگت کے آدمی تھے اُن کے بال زیادہ تھے اور قد بھی لمبا تھا یوں جیسے وہ کھجور کا لمبا درخت ہوتے ہیں جب اُن کی وفات کا وقت قریب آیا تو فرشتے جنت سے اُن کو لگانے والی خوشبو اور اُن کا کفن لے کر نازل ہوئے جب اُن کا انتقال ہوا تو فرشتوں نے اُنہیں پانی اور بیری کے پتوں کے ذریعہ تین مرتبہ غسل دیا اور تیسری مرتبہ اُس میں کافور شامل کر لیا، فرشتوں نے اُنہیں طاق تعداد میں کفن دیا اور اُن کے لیے لحد تیار کی اور اُن کی نماز جنازہ ادا کی۔“

علماء فرماتے ہیں: حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اُن کی اولاد میں یہی معمول ہے۔

6087 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَالِحِ مَوْلَى التَّوَّامَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ:
 غُسِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَمِيصٍ، وَنَزَلَ فِي حُفْرَتِهِ عَلِيُّ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَصَالِحُ بْنُ سَعْدَانَ
 مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

* * حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قمیص کے اندر ہی غسل دیا گیا، آپ کی قبر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صالح بن سعدان اترے تھے۔

6088 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ قَالَ: نَزَلَتِ الْمَلَائِكَةُ حِينَ حَضَرَ آدَمَ
 الْوَفَاةَ، فَلَمَّا رَأَوْهُمْ عَرَفَهُمْ، فَقَبَّضُوهُ وَغَسَّلُوهُ وَكَفَّنُوهُ وَصَلُّوا عَلَيْهِ وَدَفَنُوهُ وَبَنُوهُ يَنْظُرُونَ
 عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ غَيْرَ ثَابِتٍ يَقُولُ: ثُمَّ قَالُوا: هَذِهِ سُنَّةُ وَالدِّكَ
 عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الْمَيْتِ يُغْتَسَلُ، قَالَ: يُوَضَعُ خِرْقَةٌ عَلَى وَجْهِهِ،
 وَأُخْرَى عَلَى فَرْجِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَضَّعَ كَشَفَ الْخِرْقَةَ الَّتِي عَلَى وَجْهِهِ، فَيُوَضَّعُ بِالْمَاءِ وَضُوءٌ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ
 يُغْتَسَلُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ مِنْ رَأْسِهِ إِلَى قَدَمَيْهِ، يَبْدَأُ بِمِيَامِنِهِ، وَلَا يَكْشِفُ الْخِرْقَةَ الَّتِي عَلَى فَرْجِهِ، وَلَكِنَّهُ
 يُلْفَ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسَلَ فَرْجَهُ، فَيَغْتَسِلُ مَا تَحْتَ الْخِرْقَةَ الَّتِي عَلَى فَرْجِهِ بِمَاءٍ، وَإِذَا غَسَّلَهُ
 مَرَّتَيْنِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ، غَسَّلَهُ مَرَّةً ثَالِثَةً بِمَاءٍ فِيهِ كَافُورٌ، وَالْمَرَّةَ كَذَلِكَ، فَإِذَا قَرَعَ الْغَائِسِلُ اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ
 شَيْءٌ مِنْ كَافُورٍ وَشَيْءٌ مِنْ سِدْرٍ هُثِمٍ أَوْ وَرَقٍ، يَبْدَأُ بِلِحْيَةِ الْمَيْتِ قَبْلَ رَأْسِهِ
 عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: رَأَيْتُهُ غَسَلَ مَيْتًا فَجَفَّفَ رَأْسَهُ بِالْمَجْمَرِ

* * ثابت بنانی بیان کرتے ہیں: جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا قریب آیا تو فرشتے نازل ہوئے جب حضرت آدم علیہ السلام نے اُنہیں دیکھا تو اُنہیں پہچان لیا، اُن فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا، اُنہیں غسل دیا، اُنہیں کفن دیا، اُن کی نماز جنازہ ادا کی، اُن کو دفن کیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بچے یہ سب کچھ دیکھتے رہے۔

معمر بیان کرتے ہیں: میں نے ثابت کے علاوہ لوگوں کو یہ بات بیان کرتے ہوئے سنا ہے: پھر ان فرشتوں نے یہ کہا: یہ آپ کی اولاد کے لیے سنت ہے۔

ابن سیرین میت کو غسل دینے کے بارے میں فرماتے ہیں: ایک کپڑا اُس کے چہرے پر رکھا جائے گا اور دوسرا اُس کی شرمگاہ پر رکھا جائے گا جب آدمی میت کو غسل کروانے کا ارادہ کرے گا تو اُس کے چہرے پر موجود کپڑے کو ہٹا دے گا پھر اُسے وضو کروائے گا جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے پھر وہ میت کے سر سے لے کر پاؤں تک اُسے پانی اور بیری کے پتوں کے ذریعہ دھوئے گا وہ دائیں طرف کے اعضاء سے آغاز کرتا ہے لیکن جب وہ اُس کی شرمگاہ کو دھونے کا ارادہ کرے گا تو اپنے ہاتھ پر ایک کپڑا لپیٹ کر اُس کپڑے کے نیچے سے دھو دے گا جو اُس کی شرمگاہ پر موجود ہے اور اُسے پانی کے ذریعہ دھوئے گا جب آدمی اُسے دو مرتبہ پانی اور بیری کے پتوں کے ذریعہ غسل دیدے گا تو تیسری مرتبہ پانی کے ذریعہ غسل دے گا جس میں کافور ملا ہوا ہوگا خاتون کا حکم بھی اسی طرح ہے جب غسل دینے والا فارغ ہوگا تو وہ کافور والا کچھ پانی لے کر اور کچھ بیری کے پتے لے کر انہیں ملائے گا اور میت کے سر سے پہلے میت کی داڑھی پر لگائے گا۔

معمر ایوب کے بارے میں نقل کرتے ہیں: میں نے انہیں ایک میت کو غسل دیتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے میت کے سر کو انگیٹھی کے ذریعہ خشک کیا۔

بَابُ غُسْلِ النِّسَاءِ

باب: خواتین کو غسل دینا

6089 - حدیث نبوی: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوَفِّتُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ

6089- صحیح البخاری - کتاب الجنائز - باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسر - حدیث: 1207، صحیح مسلم - کتاب الجنائز - باب فی غسل الميت - حدیث: 1608، صحیح ابن حبان - کتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما او مؤخر - فصل فی الغسل - ذکر الامر لمن جبر الميت ان یجمره وترا - حدیث: 3086، موطا مالك - کتاب الجنائز - باب غسل الميت - حدیث: 521، سنن ابی داود - کتاب الجنائز - باب کیف غسل الميت - حدیث: 2750، سنن ابن ماجه - کتاب الجنائز - باب ما جاء فی غسل الميت - حدیث: 1454، السنن للنسائی - کتاب الجنائز - غسل الميت بالماء والسر - حدیث: 1867، مصنف ابن ابی شیبہ - کتاب الجنائز - ما قالوا فی الميت کم یغسل مرة وما یجعل فی الماء - حدیث: 10715، السنن الکبریٰ للنسائی - کتاب الجنائز - غسل الميت بالماء والسر - حدیث: 1987، السنن الکبریٰ للبیہقی - کتاب الجنائز - جماع ابواب غسل الميت - باب ما یغسل به الميت وسنة التکرار فی غسله - حدیث: 6245، مسند احمد بن حنبل - اول مسند البصریین - حدیث ام عطیة - حدیث: 20289، مسند الحمیدی - احادیث ام عطیة الانصاریة رضی اللہ عنہا - حدیث: 355، المعجم الاوسط للطبرانی - باب العین - من اسبه عبد اللہ - حدیث: 4601، المعجم الکبیر للطبرانی - باب الفاء - باب النون - محمد بن سیرین - حدیث: 20999

رَأَيْتَنِّ، وَاغْسَلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، اجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَعْتَنَ فَأَذِنِّي قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَعْنَا
أَذْنَاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَةً فَقَالَ: اشْعِرْنَاهَا إِيَّاهُ قَالَتْ: جَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، وَأَرْسَلْنَاهُنَّ مِنْ خَلْفِهَا الْحَقْوُ
إِزَارٌ غَلِيظٌ.

*** سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ﷺ کی صاحبزادی انتقال ہوا تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم خواتین
اسے تین یا پانچ مرتبہ یا اگر مناسب سمجھو تو اس سے زیادہ مرتبہ غسل دینا، تم اسے پانی اور بیری کے پتوں کے ذریعہ غسل دینا اور تم
آخری مرتبہ میں کچھ کافور ملا لینا، جب تم فارغ ہو جاؤ تو مجھے بتانا۔ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: جب ہم فارغ ہوئیں تو ہم
نے نبی اکرم ﷺ کو بتایا تو نبی اکرم ﷺ نے اپنی چادر ہماری طرف بڑھائی اور فرمایا: یہ اس کے جسم پر پیٹ دینا۔ سیدہ ام
عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: ہم نے ان صاحبزادی کی تین چوٹیاں بنائیں اور انہیں ان کی پشت پر ڈال دیا۔
(راوی کہتے ہیں:) حقو، موٹے تہبند کے کپڑے کو کہتے ہیں۔

6090 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ
الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: تُوَفِّتُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ،
*** سیدہ ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ﷺ کی صاحبزادی کا انتقال ہوا، اس کے بعد حسب سابق
حدیث ذکر کی ہے۔

6091 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ مِثْلَهُ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے منقول ہے۔

6092 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ تَنْشُرُ رَأْسَهَا فَيُغْسَلُ مَعَهَا
مَنْشُورًا مِنْ أَجْلِ الْغُسْلِ الَّذِي فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: عورت کے سر کے بال کھول دیئے جاتے ہیں اور پھر
اس کے کھلے ہوئے بالوں کے ساتھ ہی اسے غسل دیا جاتا ہے اس کی وجہ وہ دھونا ہے جو اس پر لازم ہوتا ہے۔ انہوں نے جواب
دیا: جی ہاں!

6093 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ

يَقُولُ: كَانَتْ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ اللَّائِي بَايَعَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمَتْ
الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا، فَلَمْ تَدْرِ كُهُ، فَحَدَّثْنَا. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِأَيُّوبَ: مَا
قَوْلُهُ: اشْعِرْنَاهَا، اتُّوَزَّرُ بِهِ؟ قَالَ: لَا أَرَاهُ إِلَّا قَالَ: أَلْفَنَاهَا فِيهِ قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ أَنْ
تُشْعِرَ لُفَافَةَ وَلَا تُوَزَّرَ

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ أَيُّوبُ: سَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتُ سِيرِينَ تَقُولُ: حَدَّثَنَا أُمُّ عَطِيَّةَ أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ قُرُونٍ قَالَتْ: نَقَضْنَهُ فَنَغْسَلْنَهُ فَجَعَلْنَهُ ثَلَاثَ قُرُونٍ قَالَ: نَعَمْ، أَشَعْرَنَهَا فَوَضَعُوهُ مِمَّا يَلِي جَسَدَهَا

*** ابن سیرین فرماتے ہیں: انصار سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون جن کا نام سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا تھا یہ ان خواتین میں سے ہیں جنہوں نے نبی اکرم ﷺ کے دستِ اقدس پر اسلام قبول کیا تھا یہ خاتون بصرہ آئیں یہ اپنے بیٹے کی تلاش میں آئی تھیں لیکن وہ انہیں نہیں مل سکا تو اس خاتون نے ہمیں یہ بات بتائی اس کے بعد راوی نے حسب سابق حدیث ذکر کی ہے۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے ایوب سے دریافت کیا: روایت کے یہ الفاظ ”اشعرنہا“ سے مراد کیا ہے؟ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ اسے تہبند کے طور پر اوڑھا دو؟ انہوں نے جواب دیا: میری تو اس کے بارے میں یہ رائے ہے کہ اسے اس کے جسم پر لپیٹ دو۔

ابن سیرین بھی اسی طرح کہتے تھے وہ خاتون کے بارے میں یہ حکم دیتے تھے کہ لفافے کو اس کے جسم پر لپیٹ دیا جائے اسے تہبند کے طور پر نہ پہنایا جائے۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں: سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات بیان کی ہے کہ ان خواتین نے نبی اکرم ﷺ کی صاحبزادی کے سر کے بالوں کی تین چوٹیاں بنائی تھیں۔ وہ بیان کرتی ہیں: انہوں نے پہلے چوٹیاں کھولی تھیں پھر انہیں دھویا تھا پھر ان کی تین چوٹیاں بنائی تھیں۔ تو راوی نے یہ بات بیان کی ہے کہ ایسا ہی ہوا تھا اور پھر ان خواتین نے وہ چادر ان صاحبزادی کے جسم پر، (کسی اور کپڑے کے حائل کے بغیر) جسم کے ساتھ لپیٹی تھی۔

بَابُ عَصْرِ الْمَيِّتِ

باب: میت کے (پیٹ پر) دباؤ ڈالنا

6094 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: التَّمَسَ عَلِيُّ

مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُلْتَمَسُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ: يَا بِي وَأُمِّي طَيِّبًا حَيًّا، وَطَيِّبًا مَيِّتًا

*** سعید بن مسیب فرماتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کے جسم سے وہ چیز تلاش کرنا چاہی جو میت سے

تلاش کی جاتی ہے تو انہیں وہ چیز نہیں ملی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! آپ زندگی کے عالم میں بھی پاکیزہ تھے اور انتقال کے بعد بھی پاکیزہ ہیں۔

6095 - اقوال تابعین: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ

ثَلَاثًا، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الثَّلَاثِ غَسَلُوهُ خَمْسًا، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَ سَبْعًا،

*** ابن سیرین بیان کرتے ہیں: میت کو تین مرتبہ غسل دیا جائے گا اگر تین مرتبہ کے بعد بھی اس کے جسم سے کوئی چیز

نکل آتی ہے تو تم اسے پانچ مرتبہ غسل دو اگر پھر بھی اس کے جسم سے کوئی چیز نکل آتی ہے تو اسے سات مرتبہ غسل دیا جائے گا۔

6096 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ مِثْلَهُ. قَالَ هِشَامٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: يُغَسَّلُ ثَلَاثًا، فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ غُسِلَ مَا خَرَجَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى الثَّلَاثِ

* * ابن سیرین کے حوالے سے اس کی مانند منقول ہے۔ ہشام نقل کرتے ہیں: حسن بصری فرماتے ہیں: میت کو تین مرتبہ غسل دیا جائے گا اگر اس کے بعد کوئی چیز نکل آتی ہے تو جو چیز نکلے گی اسے دھولیا جائے گا تین مرتبہ سے زیادہ غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔

بَابُ أَجْرِ الْغَاسِلِ

باب: غسل دینے والے کا اجر

6097 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَّغَنِي عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ فِي قَوْلِهِ: مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا لَمْ يُغْسِ عَلَيْهِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا خَرَجَ مِنْ خَطَايَاهُ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

* * یحییٰ بن ابوکثیر بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے:

”جو شخص میت کو غسل دیتا ہے وہ گناہوں سے یوں نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا۔“

ابن جریر بیان کرتے ہیں: امام شعبی کے حوالے سے بھی اس کی مانند روایت مجھ تک پہنچی ہے البتہ اس میں انہوں نے یہ الفاظ زائد نقل کیے ہیں:

”جو شخص میت کو غسل دیتا ہے اور پھر اس میں کوتاہی نہیں کرتا۔“

ہر مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہی الفاظ منقول ہے:

”جو شخص میت کو غسل دیتا ہے تو وہ گناہوں سے یوں نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا۔“

6098 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا وَأَدَّى فِيهِ الْأَمَانَةَ كَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

* * حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو شخص میت کو غسل دیتا ہے اور اس ہارے میں امانت کو ادا کر دیتا ہے تو وہ

اپنے گناہوں سے یوں نکل جاتا ہے جیسے اس دن تھا جب اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا۔

بَابُ مَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا

باب: جو شخص میت کو کفن دیتا ہے

6099 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ

يُوسُفَ الَّذِي كَانَ يَهُودِيًّا فَاسْلَمَ يَقُولُ: فِي التَّوْرَةِ: مَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَمَنْ كَفَلَ صَغِيرًا حَتَّى صَارَ كَبِيرًا

* * منصور بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں: انہوں نے یوسف نامی اُس شخص کو سنا جو پہلے یہودی تھے اور پھر مسلمان ہو

گئے وہ یہ فرماتے ہیں: تورات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص میت کو کفن دیتا ہے تو یہ اسی طرح ہے جیسے کوئی کمسن بچے کا کفیل بنے یہاں تک کہ وہ بچہ بڑا ہو جائے۔

6100 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ يُوسُفَ، رَجُلٍ كَانَ مَعَ ابْنِ

الزُّبَيْرِ نَجْدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ: مَثَلُ الَّذِي يُكْفِنُ الْمَيِّتَ كَأَلَّذِي كَفَلَهُ صَغِيرًا حَتَّى مَاتَ

* * منصور بن صفیہ بیان کرتے ہیں: یوسف نامی ایک صاحب جو حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہوتے تھے وہ

یہ بیان کرتے ہیں: ہم نے اللہ کی کتاب (تورات) میں یہ بات پائی ہے کہ جو شخص میت کو کفن دیتا ہے اُس کی مثال اسی طرح ہے جیسے اُس نے میت کی کمسنی میں کفالت کی یہاں تک کہ میت کا انتقال ہو گیا (یعنی کمسنی سے لے کر اُس کے انتقال تک اُس کی کفالت کرتا رہا)۔

بَابُ مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ

باب: جو شخص میت کو غسل دیتا ہے کیا وہ غسل کرے گا یا وضو کرے گا؟

6101 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَعْلَى مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا

غَسَلَ؟ قَالَ: لَا، قَدْ اذُنُ نَجَسُوا صَاحِبَهُمْ، وَلَكِنْ وُضُوءٌ

* * عطاء بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا: جو شخص میت کو غسل دیتا ہے کیا اُس پر غسل

لازم ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! اس صورت میں تو تم اپنے ساتھی کو نجس قرار دے دو گے ایسا شخص وضو کرے گا۔

6102 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ مَنْصُورِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يَغْتَسِلُ مَنْ

غَسَلَ الْمَيِّتَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ نَجَسًا فَاغْتَسِلُوا، وَإِلَّا فَإِنَّمَا يَكْفِي أَحَدُكُمْ الْوُضُوءُ

* * ابراہیم نخعی کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ اُن سے سوال کیا گیا: جو شخص میت کو غسل دیتا ہے کیا وہ غسل

کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا: اگر تو میت نجس تھی تو تم غسل کر لو ورنہ تم میں سے کسی ایک شخص کے لیے وضو کر لینا کافی ہے۔

6103 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ

الْمُزَنِيُّ قَالَ: غَسَلَ أَبَاكَ أَرْبَعٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ، فَمَا زَادُوا عَلَيَّ أَنْ اِحْتَجَزُوا عَلَيَّ ثِيَابَهُمْ، فَلَمَّا فَرَعُوا

تَوَضُّؤًا وَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: أَلَا تَتَّقُونَ اللَّهَ، تَغْتَسِلُونَ مِنْ مَوْتَاكُمْ، أَلَنْجَسَ هُمْ؟
 * * * بکر بن عبداللہ مزنی بیان کرتے ہیں: علقمہ مزنی نے مجھے یہ بات بتائی کہ تمہارے والد کو چار ایسے حضرات نے غسل دیا جنہیں بیعت رضوان کا شرف حاصل ہے تو ان حضرات نے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کیا کہ اپنے کپڑے لیٹ لیے جب وہ اس سے فارغ ہوئے تو انہوں نے وضو کیا اور مرحوم کی نماز جنازہ ادا کی۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں نے ابو شعثاء کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کیا تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تم اپنے مرحومین کی وجہ سے غسل کرتے ہو؟ کیا وہ لوگ ناپاک ہیں؟

6104 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنْ كَانَ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا

* * * حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اگر وہ (میت) نجس تھی تو تم غسل کر لو۔

6105 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، كَانَا لَا يَرِيَانِ عَلَيَّ مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا غُسْلًا، وَقَالَا: إِنْ كَانَ صَاحِبِكُمْ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا

* * * حضرت عبداللہ بن مسعود اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما میت کو غسل دینے والے شخص پر غسل لازم ہونے کے قائل نہیں تھے یہ دونوں یہ کہتے تھے: اگر تمہارا ساتھی نجس تھا تو تم غسل کر لو۔

6106 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: اغْتَسِلَ مِنَ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: أَمْؤِمِّنٌ هُوَ؟ قُلْتُ: أَرَجُو قَالَ: فَتَمَسَّحَ مِنَ الْمُؤْمِنِ وَلَا تَغْتَسِلُ مِنْهُ

* * * سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے دریافت کیا: کیا میں میت کو غسل دینے کے بعد غسل کروں گا؟ انہوں نے دریافت کیا: کیا وہ مؤمن تھا؟ میں نے کہا: مجھے امید تو یہی ہے! انہوں نے فرمایا: تم مؤمن کو چھونے کی وجہ سے غسل نہ کرو۔

6107 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا غَسَلْتَ الْمَيِّتَ فَاصَابَكَ مِنْهُ أَدَى فَاغْتَسِلْ، وَإِلَّا إِنَّمَا يَكْفِيكَ الْوُضُوءُ

* * * حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جب تم میت کو غسل دو اور اس کی نجات تمہیں لگ جائے تو تم غسل کر لو ورنہ تمہارے لیے وضو کر لینا کافی ہے۔

6108 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنِ عَلِيِّ قَالَ: مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَبِهِ نَأْخُذُ

* * * حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو شخص میت کو غسل دیتا ہے اسے غسل کرنا چاہیے۔

(امام عبدالرزاق فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔)

6109 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنِ عَلِيِّ مِثْلَهُ
 * * * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔

6110 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: إِسْحَاقُ، عَنِ
 أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَبِهِ نَأْخُذُ
 * * * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:
 ”جو شخص میت کو غسل دے اُسے غسل کرنا چاہیے۔“

(امام عبدالرزاق فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔)

6111 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ غَيْرِهِ، عَنِ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ
 * * * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:
 ”جو شخص میت کو غسل دیتا ہے اُسے غسل کرنا چاہیے۔“

6112 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا
 فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ دَلَّاهُ فِي حُفْرَتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ
 * * * سعید بن مسیب فرماتے ہیں: جو شخص میت کو غسل دیتا ہے اُسے غسل کرنا چاہیے اور جو شخص اُسے قبر میں اتارتا ہے
 اُسے وضو کرنا چاہیے۔

6113 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شَهَابٍ قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يَغْتَسِلَ الَّذِي
 يَغْسِلُ الْمَيِّتَ

* * * ابن شہاب بیان کرتے ہیں: سنت یہ ہے کہ جو شخص میت کو غسل دیتا ہے وہ غسل کرے۔

6114 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ إِذَا غَسَلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ

6110- صحیح ابن حبان - کتاب الطہارۃ' باب نواقض الوضوء - ذکر الامر بالوضوء من حمل المیت' حدیث: 1177
 سنن ابی داود - کتاب الجنائز' باب فی الغسل من غسل المیت - حدیث: 2765' سنن ابن ماجہ - کتاب الجنائز' باب ما
 جاء فی غسل المیت - حدیث: 1458' مصنف ابن ابی شیبہ - کتاب الجنائز' من قال علی غاسل المیت غسل -
 حدیث: 10963' مصنف ابن ابی شیبہ - کتاب الجنائز' من قال علی غاسل المیت غسل - حدیث: 10964' السنن الکبریٰ
 للبیہقی - کتاب الطہارۃ' جماع ابواب الغسل للجمعة والاعیاد وغیر ذلك - باب الغسل من غسل المیت' حدیث: 1331
 مسند احمد بن حنبل' مسند ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ - حدیث: 7596' مسند الطیالسی - احادیث النساء' ما اسند ابو
 ہریرہ - صالح مولى التوامه عن ابی ہریرہ' حدیث: 2421' مسند ابن الجعد - من حدیث محمد بن عبد الرحمن بن ابی
 ذئب' حدیث: 2320' المعجم الاوسط للطبرانی - باب الالف' من اسمه احمد - حدیث: 993

* * ایوب بیان کرتے ہیں: ابن سیرین جب کسی میت کو غسل دیتے تھے تو وہ خود غسل کرتے تھے۔

6115 - آثار صحابہ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَنْطَ سَعِيدَ بْنِ زَيْدٍ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. " وَبِهِ يَأْخُذُ

* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو خوشبو لگائی تھی پھر انہوں نے ان کی نماز جنازہ ادا کی ان کی میت کو کندھا دیا پھر وہ مسجد میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی اور از سر نو وضو بھی نہیں کیا۔ (امام عبدالرزاق کہتے ہیں:) ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

6116 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، حَنْطَ سَعِيدَ بْنِ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأْ "

* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو خوشبو لگائی پھر انہوں نے ان کی میت کو کندھا بھی دیا پھر وہ مسجد میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی اور از سر نو وضو بھی نہیں کیا۔

بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ الرَّجُلَ

باب: عورت کا مرد کو (یعنی بیوی کا شوہر کو) غسل دینا

6117 - آثار صحابہ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ، غَسَلَتْهُ حِينَ تُوُفِّيَ، " أَوْصَى بِذَلِكَ

* * ابن ابوملیکہ بیان کرتے ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نے انہیں ان کے انتقال کے بعد غسل دیا تھا کیونکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسی بات کی وصیت کی تھی۔

6118 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ مِثْلَهُ * * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے۔

6119 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ غَسَلَتْهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ، وَأَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ غَسَلَتْهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَقُولُ نَحْنُ: لَا يُغْسَلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ؛ لِأَنَّهَا لَوْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا حِينَ مَاتَتْ. وَنَقُولُ: تَغْسِلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا؛ لِأَنَّهَا فِي عِدَّةٍ مِنْهُ

* * ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ان کی اہلیہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے غسل دیا تھا۔ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ان کی اہلیہ ام عبداللہ نے غسل دیا تھا۔

سغیان ثوری فرماتے ہیں: ہم یہ کہتے ہیں: مرد بیوی کو غسل نہیں دے سکتا کیونکہ اگر مرد چاہے تو بیوی کے انتقال کے بعد اس کی بہن سے شادی کر سکتا ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت شوہر کو غسل دے سکتی ہے کیونکہ وہ شوہر کی عدت میں ہوتی ہے۔

6120 - احوال تابعین: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَادًا: إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الْقَوْمِ

فَالْمَرْأَةُ تَغْسِلُ زَوْجَهَا، وَالرَّجُلُ امْرَأَتَهُ

*** سفیان ثوری فرماتے ہیں: میں نے حماد کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جب کچھ لوگوں کے ساتھ کسی عورت کا انتقال ہو جائے تو (اس نوعیت کی صورت حال میں) عورت شوہر کو غسل دے سکتی ہے اور شوہر عورت کو غسل دے سکتا ہے۔

6121 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: الرَّجُلُ

أَحَقُّ أَنْ يُغْسَلَ امْرَأَتَهُ مِنْ أُخِيهَا

*** ابو شعثاء بیان کرتے ہیں: عورت کے بھائی کے مقابلہ میں مرد اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ اپنی بیوی کو غسل

دے۔

6122 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

قَالَ: أَحَقُّ النَّاسِ بِغُسْلِ الْمَرْأَةِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا زَوْجُهَا

قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عُمَارَةُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ أُمِّ جَعْفَرِ بِنْتِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: أَوْصَتْ فَاطِمَةُ إِذَا مَاتَتْ أَنْ لَا يُغْسَلَهَا إِلَّا أَنَا وَعَلِيٌّ قَالَتْ: فَغَسَلْتُهَا أَنَا وَعَلِيٌّ

*** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: عورت کو غسل دینے کا اور اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کا سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہے۔

سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ وصیت کی تھی کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو میرے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور کوئی انہیں غسل نہ دے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: میں نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں غسل دیا تھا۔

6123 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ امْرَأَةَ أَبِي

بَكْرٍ غَسَلَتْهُ حِينَ تُوْفِي، ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ بِحَضْرَتِهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، وَإِنَّ هَذَا لِيَوْمٌ شَدِيدُ الْبُرْدِ، فَهَلْ عَلَيٌّ مِنْ غُسْلِي؟ قَالَ: لَا

*** سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال پر انہیں غسل دیا تھا پھر انہوں نے وہاں موجود مہاجرین سے سوال کیا اور یہ کہا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا اور آج سردی بہت زیادہ ہے تو کیا مجھ پر غسل لازم ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

6124 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ

بْنِ حَفْصِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ امْرَأَتَهُ أَسْمَاءَ أَنْ تَغْسِلَهُ وَكَانَتْ صَائِمَةً فَعَزَمَ عَلَيْهَا لِتُفْطِرَ فَدَعَتْ بِمَاءٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَشَرِبَتْ وَقَالَتْ: لَا أَتْبِعُهُ الْيَوْمَ إِثْمًا فِي قَبْرِهِ

*** ابو بکر بن حفص بن سعد بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کو یہ ہدایت کی تھی کہ وہ ہی انہیں غسل دیں، اُس دن سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے روزہ رکھا ہوا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ہدایت کی کہ وہ روزہ ختم کر دیں، پھر سورج غروب سے کچھ پہلے سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے پانی منگوا یا اور اُسے پی لیا۔ انہوں نے جواب دیا: آج میں ان کی قبر میں ان کے پیچھے گناہ کو نہیں بھیجوں گی۔

6125 - اِتْوَالِ تَابِعِينَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يَجِدُوا امْرَأَةً تَغْسِلُهَا غَسَلَهَا زَوْجُهَا أَوْ ابْنُهَا، وَإِنْ وَجَدُوا يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً غَسَلَتْهَا *** حسن بصری فرماتے ہیں: جب عورت انتقال کر جائے اور اُسے غسل دینے کے لیے کوئی اور عورت نہ ملے تو اُس کا شوہر یا اُس کا بیٹا اُس عورت کو غسل دیدیں گے، اگر کوئی یہودی یا عیسائی عورت مل جاتی ہے تو وہ عیسائی یا یہودی عورت اُسے غسل دے دے گی۔

6126 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ لَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ أَمَرَتْ عَلِيًّا فَوَضَعَ لَهَا غُسْلًا فَاغْتَسَلَتْ وَتَطَهَّرَتْ وَدَعَتْ ثِيَابَ اكْفَانِهَا فَأَتَيْتُ بِثِيَابٍ غَلَاظٍ فَلَبِسَتْهَا وَمَسَّتْ مِنَ الْخُنُوطِ ثُمَّ أَمَرَتْ عَلِيًّا أَنْ لَا تُكْشَفَ إِذَا قَضَتْ، وَأَنْ تُدْرَجَ كَمَا هِيَ فِي ثِيَابِهَا " قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَكَتَبَ فِي أَطْرَافِ اكْفَانِهِ: شَهِدَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

*** عبد اللہ بن محمد بن عقیل بن ابوطالب بیان کرتے ہیں: جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ ہدایت کی کہ وہ اُن کے لیے غسل کا پانی رکھیں! پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے غسل کیا، طہارت حاصل کی، انہوں نے اپنے کفن کے کپڑے منگوائے، وہ لائے گئے جو موٹے کپڑے کے بنے ہوئے تھے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں پہن لیا، پھر انہوں نے خوشبو لگائی، پھر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ ہدایت کی کہ جب اُن کا انتقال ہو جائے تو اُن سے کپڑا نہ ہٹایا جائے اور وہ جن کپڑوں میں ہیں انہی کپڑوں میں انہیں کفن میں رکھ دیا جائے۔

راوی کہتے ہیں: میں نے اپنے استاد سے دریافت کیا: کیا آپ کو کسی اور ایسے شخص کے بارے میں علم ہے جس نے ایسا کیا ہو؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! کثیر بن عباس نے ایسا کیا تھا، انہوں نے اپنے کفن کے کناروں پر یہ لکھا تھا: کثیر بن عباس اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے۔

بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ بَارِضٍ فَلَاةٍ

باب: جو شخص کسی بے آب و گیاہ جگہ پر انتقال کر جائے

6127 - اِتْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ بَارِضٍ فَلَاةٍ قَالَ:

يُتَمِّمُ وَيُمْسَحُ وَجْهَهُ بِالصَّعِيدِ، قَالَه مَعْمَرٌ، قَالَه حَمَادٌ

*** معمر بیان کرتے ہیں: میں نے حماد سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا جو کسی بے آب و گیاہ جگہ پر انتقال کر جاتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا: اُسے تیمم کروایا جائے گا اور اُس کے چہرے پر مٹی (والا ہاتھ) پھیر دیا جائے گا۔ معمر نے یہ بات بیان کی ہے اور حماد نے بھی یہی بات بیان کی ہے۔

بَابُ الرَّجُلِ يَمُوتُ مَعَ النِّسَاءِ، وَالنِّسَاءِ مَعَ الرَّجَالِ

باب: جو شخص خواتین کے ساتھ ہو اور انتقال کر جائے یا خواتین مردوں کے ساتھ ہوں اور (انتقال کر جائیں)

6128 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ جَارِيَةَ لَصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ مَرَضَتْ مَعَهُمْ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لَهَا نَافِعٌ: مَرَضَتْ وَلِيدَتُكَ مَعَنَا، فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَاتَتْ كَيْفَ إِذَا صَنَعْتُمْ بِهَا؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي قَالَتْ: تُدْفَنُ كَمَا هِيَ.

*** نافع بیان کرتے ہیں: سیدہ صفیہ بنت ابو عبیدہ کی ایک کنیز بیمار ہو گئی جو ان لوگوں کے ساتھ سفر کر رہی تھی تو نافع نے ان سے کہا: آپ کی کنیز جو ہمارے ساتھ تھی بیمار ہو گئی ہے۔ تو سیدہ صفیہ نے کہا: اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کہ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ میں نے جواب دیا: مجھے نہیں معلوم! انہوں نے جواب دیا: جس طرح یہ ہے اسی طرح دفن کر دینا۔

6129 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: تُدْفَنُ كَمَا هِيَ،

*** حسن بصری فرماتے ہیں: ایسی عورت کو اسی حالت میں دفن کر دیا جائے گا۔

6130 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تُدْفَنُ كَمَا هِيَ

*** عطاء فرماتے ہیں: اُس عورت کو اسی حالت میں دفن کر دیا جائے گا۔

6131 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا: تُغَسَّلُ وَعَلَيْهَا الثِّيَابُ

*** زہری اور قتادہ فرماتے ہیں: اُس کے جسم پر موجود کپڑوں سمیت اُسے غسل دے دیا جائے گا۔

6132 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَادٍ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ

لَيْسَ فِيهِنَّ رَجُلٌ، فَإِنَّهُ يُتَمِّمُ. وَبِهِ نَأْخُذُ

*** حماد فرماتے ہیں: جب کسی مرد کا انتقال ہو جائے جو خواتین کے ساتھ ہو اور ان خواتین کے ساتھ کوئی اور مرد نہ ہو تو

اُس مرد کو تیمم کروایا جائے گا۔ (امام عبدالرزاق کہتے ہیں:) ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

6133 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَبَلَّغْنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ حَمَادٍ يُتَمِّمُ،

* * ابراہیم نخعی کے حوالے سے بھی حماد کے قول کی مانند قول منقول ہے کہ ایسے مرد کو تیمم کروادیا جائے گا۔

6134 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ

قَوْلِ حَمَادٍ: يُتِمُّ. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُتِمُّ

* * ایک اور سند کے ساتھ ابراہیم نخعی کے حوالے سے حماد کے قول کی مانند قول منقول ہے کہ ایسے شخص کو تیمم کروادیا

جائے گا۔ ایک اور سند کے ساتھ ابراہیم نخعی کے حوالے سے یہ بات منقول ہے کہ ایسے شخص کو تیمم کروادیا جائے گا۔

6135 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زُهَيْرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ، وَالْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ، فَإِنَّهُمَا يُتَمَّمَانِ وَيُدْفَنَانِ، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَبِهِ نَأْخُذُ

* * مکحول روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”جب کوئی مرد خواتین کے ساتھ ہو اور انتقال کر جائے یا عورت مردوں کے ساتھ ہو اور انتقال کر جائے تو ان دونوں کو تیمم کروا کے دفن کر دیا جائے گا اور ان کی مثال اُس طرح ہوگی جس طرح کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جسے پانی نہیں ملتا۔“

(امام عبدالرزاق فرماتے ہیں:) ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

بَابُ الْمَرْأَةِ وَكَأَنَّهَا ذُو مَحْرَمٍ

باب: جب کوئی عورت ہو جس کے ساتھ کوئی محرم عزیز موجود نہ ہو

6136 - آثار صحابہ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

إِذَا غَيَّبَنِي أَبُو عَمْرٍو وَدَلَّانِي فِي حُفْرَتِي فَهُوَ حُرٌّ

* * سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جب ابو عمرو مجھے غیر موجود پائے (یعنی میرا انتقال ہو جائے) اور مجھے قبر میں اتار دے

تو وہ آزاد شمار ہوگا (یعنی انہوں نے اپنے غلام کے بارے میں یہ بات کہی تھی)۔

6137 - حدیث نبوی: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ قَالَ: لِيَدْخُلِ الْقَبْرَ رَجُلَانِ لَمْ يُقَارِفَا الْبَارِحَةَ، أَيْ لَمْ يَغْشِيَا النِّسَاءَ قَالَ: "فَدَخَلَ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ الْقَبْرِ قَالَ: الْحَقِي بِسَلْفِنَا عُثْمَانَ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّهَا امْرَأَةُ عُثْمَانَ بِنِ عَفَّانٍ

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ کی صاحبزادی کا انتقال ہوا تو آپ

ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس کی قبر میں دو ایسے آدمی داخل ہوں گے جنہوں نے گزشتہ رات اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت نہ کی ہو۔

راوی کہتے ہیں: تو دو آدمی قبر میں اترے جن میں سے ایک حضرت طلحہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ تھے جب یہ دو حضرات قبر سے باہر آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے (اس صاحبزادی کی میت سے) فرمایا: تم ہمارے پہلے فوت ہونے والے (عزیز) عثمان (بن مظعون) سے جا ملو۔

راوی بیان کرتے ہیں: علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ وہ صاحبزادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھیں۔

بَابُ الْحِنَاطِ

باب: خوشبو لگانا

6138 - اَقْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ، كَانَ يُطِيبُ الْمَيِّتَ بِالسُّكِّ فِيهِ

الْمِسْكُ

* * ابن سیرین بیان کرتے ہیں: میت کو سُک (نامی خوشبو) میں مشک ملا کے خوشبو لگائی جائے گی۔

6139 - آثَارِ صَحَابِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ، وَخَالِدِ الْحَدَّادِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ:

سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ فَقَالَ: أَوْلَيْسَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ؟

* * ابن سیرین بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے میت کو مشک لگانے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو

انہوں نے دریافت کیا: کیا یہ تمہاری سب سے پاکیزہ خوشبو نہیں؟

6140 - آثَارِ صَحَابِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُطِيبُ الْمَيِّتَ

بِالْمِسْكِ، يَذُرُّ عَلَيْهِ ذُرُورًا

* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما میت کو مشک کی خوشبو لگایا کرتے تھے وہ اُس پر چھڑکا کرتے تھے۔

6141 - آثَارِ صَحَابِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَّبِعُ

مَغَابِنَ الْمَيِّتِ وَمَرَّافِقَهُ بِالْمِسْكِ

* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما میت کی بغلوں پر اور کہنیوں پر مشک لگایا کرتے تھے۔

6142 - آثَارِ صَحَابِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ

سَلْمَانَ أَصَابَ مِسْكَ مِنْ بَلَنْجَرَ، فَأَعْطَاهُ امْرَأَتَهُ تَرْفَعُهُ، فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ لَهَا: أَيْنَ الَّذِي كُنْتُ اسْتَوْدَعْتُكَ؟

قَالَتْ: هُوَ هَذَا، فَاتَّهَ بِهِ قَالَ: رُشِيهِ حَوْلِي؛ فَإِنَّهُ يَأْتِينِي خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَلَا يَشْرَبُونَ

الشَّرَابَ يَجِدُونَ الرِّيحَ

* * امام شعبی بیان کرتے ہیں: حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو ”بلنجر“ کے مقام پر مشک ملی تو انہوں نے وہ اپنی اہلیہ کو

دے دی جسے اُس نے سنبھال کر رکھ لی جب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا: وہ چیز

کہاں ہے جو میں نے تمہارے پاس رکھوائی تھی۔ اُس خاتون نے جواب دیا: وہ یہ ہے! وہ خاتون اُسے لے آئی۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا: اسے میرے ارد گرد چھڑک دو کیونکہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق آئے گی جو کھانا نہیں کھاتے ہیں اور پانی نہیں پیتے ہیں، انہیں یہاں بدبو محسوس ہوگی۔

6143 - اِتْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اَبْكَرُهُ الْمِسْكَ حَنُوطًا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قُلْتُ: فَالْعَنْبَرُ؟ قَالَ: لَا، اِنَّمَا الْعَنْبَرُ وَالْمِسْكَ قَطْرَةٌ دَابَّةٍ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا مشک کو خوشبو کے طور پر لگانا مکروہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: عنبر کو؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! عنبر اور مشک جانوروں کے جسم کا حصہ ہوتے ہیں۔

6144 - اِتْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَالْخَلُوقُ لِلْمَيِّتِ؟ قَالَ: ذَلِكَ صُفْرَةٌ، وَقَدْ كَانَتْ الصُّفْرَةُ تُكْرَهُ

*** ابن جریج نے عطاء کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: میں نے اُن سے یہ بات دریافت کی: میت کو خلوق (مخصوص قسم کی خوشبو) لگانے کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا: وہ زردی ہے اور زرد رنگ لگانا مکروہ ہے۔

6145 - اَثَارِ صَاحِبِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخَوَّارِ، أَنَّهُ سَمِعَ بَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ، يُخْبِرُ عَنْ رَجُلٍ، اخْبَرَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ عَمَّارًا قَالَ: تَخَلَّقْتُ بِخَلُوقٍ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَرَنِي فَقَالَ: اذْهَبْ يَا ابْنَ أُمِّ عَمَّارٍ فَاغْسِلْهُ عَنْكَ قَالَ: فَرَجَعْتُ ففَغَسَلْتُهُ عَنِّي، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَانْتَهَرَنِي أَيْضًا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَرْجِعَ فَاغْتَسِلَ ثَلَاثًا

*** حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں نے خلوق (زرد رنگ کی خوشبو) لگائی، پھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور فرمایا: اے عمار کی والدہ کے صاحبزادے! تم جاؤ اور اسے اپنے جسم سے دھولو۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں واپس آیا، میں نے اُسے اپنے جسم سے دھولیا، پھر میں واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے مجھے پھر ڈانٹا اور مجھے یہ ہدایت کی کہ میں واپس جا کر اُسے دھولوں۔ میں نے پھر ایسا ہی کیا، میں پھر آپ کے پاس آیا تو آپ نے پھر مجھے ڈانٹا اور مجھے یہ ہدایت کی کہ میں واپس جاؤں۔ تو میں نے اُسے تین مرتبہ دھویا۔

6146 - اِتْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُّ الْحِنَاطِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْكَافُورُ قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ يُجْعَلُ مِنْهُ؟ قَالَ: فِي مَرَاقِهِ، قُلْتُ لَهُ: فِي إِبْطِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَفِي مَرْجِعِ رِجْلَيْهِ، وَفِي رُفْعِيهِ وَمَرَاقِهِ وَمَا هُنَالِكَ، وَفِي فِيهِ وَانْفِهِ وَعَيْنِيهِ وَأُذُنِهِ، قُلْنَا: أَيَابِسُ يُجْعَلُ الْكَافُورُ أَوْ يُبَلُّ بِمَاءٍ؟ قَالَ: بَلُّ يَابِسًا

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: آپ کے نزدیک میت کو لگانے والی کون سی خوشبو زیادہ

پسندیدہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا: کافور۔ میں نے دریافت کیا: یہ کہاں سے حاصل کی جاتی ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اُس کے مرق سے۔ میں نے اُن سے دریافت کیا: اُس کی بعل سے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! اُس کے ٹانگوں کے لوٹنے کی جگہ پر اُس کی شرمگاہ کی آس پاس کی جگہ پر اور یہاں اُس کے منہ میں اُس کے ناک میں اُس کی آنکھوں میں اُس کے کانوں میں۔ ہم نے دریافت کیا: کیا خشک چیز کو بھی کافور بنا لیا جاتا ہے یا پانی کے ساتھ تر کیا جاتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: خشک کو ہی بنا لیا جاتا ہے۔

6147 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَدِيٍّ، عَنِ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَتَّبَعُ مَسَاجِدَهُ بِالطِّيبِ

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: میت کے سجدہ کے مقامات پر خوشبو لگائی جائے گی۔

6148 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: بَلَّغْنِي، عَنِ اِبْرَاهِيمَ، اِنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الزَّعْفَرَانَ اَنْ

يُجْعَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ طِيبِ الْمَيِّتِ "

*** ابراہیم نخعی کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ میت کو لگائی جانے والی خوشبو میں

زعفران ملا یا ہائے۔

6149 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنِ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ:

لَمَّا تَوَقَّى الْاَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: اِذَا غَسَلْتُمُوهُ فَلَا تُهَيِّجُوهُ حَتَّى تَأْتُوْنِي بِهِ، فَلَمَّا فَرَّغَ مِنْ

غُسْلِهِ اَتَى بِهِ، فَدَعَا بِكَافُورٍ فَوَضَّاهُ بِهِ وَجَعَلَ عَلَيَّ وَجْهَهُ، وَفِي يَدَيْهِ وَرَاسِهِ وَرَجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: اَدْرِجُوهُ

*** حکیم بن جابر بیان کرتے ہیں: جب اشعث بن قیس کا انتقال ہوا تو حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے فرمایا: جب تم

لوگ اسے غسل دو تو اُس وقت تک آگے کام نہ کرنا جب تک مجھے بلوا نہیں لیتے، جب اُن کے غسل سے فارغ ہو گئے تو حضرت

امام حسن رضی اللہ عنہ کو بلوایا گیا، انہوں نے کافور منگوایا اور اُسے اُن کے چہرے پر دونوں ہاتھوں پر سر پر اور پاؤں لگایا اور پھر فرمایا:

اسے کفن میں لپیٹ دو۔

6150 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، اِنَّهُ رَأَى اَيُّوبَ يَذُرُّ عَلَيَّ الْمَيِّتِ وَلِحْيَتِهِ وَصَدْرِهِ ذَرِيرَةً "

*** معمر بیان کرتے ہیں: انہوں نے ایوب کو دیکھا کہ انہوں نے میت پر اُس کی داڑھی پر اور اُس کے سینہ پر زریہ

(نامی کی خوشبو) لگائی۔

بَابُ الْمَيِّتِ لَا يُتَّبَعُ بِالْمِجْمَرَةِ

باب: میت کے ساتھ آگ نہیں لے جانی جائے گی

6151 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: النَّارُ يُتَّبَعُ بِهَا الْمَيِّتُ، يَعْنِي

الْمِجْمَرَةَ قَالَ: لَا خَيْرَ فِي ذَلِكَ قَالَ: اِجْمَارُ نِيَابِهِ قَالَ: حَسَنٌ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا میت کے ساتھ آگ لے کر جانی جائے گی یعنی انگیٹھی لے جانی جائے گی؟ انہوں نے جواب دیا: اس میں بھلائی نہیں ہے۔ میں نے دریافت کیا: اُس کے کپڑوں کو دھونی دینے کے لیے؟ انہوں نے جواب دیا: یہ اچھا ہے! اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

6152 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ ابْنِ جُرَيْجٍ - الشَّكُّ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ لِأَهْلِهَا: أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا أَنَا مِتُّ، ثُمَّ كَفَّنُونِي، ثُمَّ حَنَطُونِي، وَلَا تَذَرُوا عَلَيَّ كَفَنِي حِنَاطًا

* * سیدہ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا: جب میں مر جاؤں تو تم میرے کپڑوں کو دھونی دے دینا، پھر مجھے کفن دینا، پھر مجھے خوشبو لگانا اور تم میرے کفن کے اوپر حنوط (نام کی خوشبو) نہ لگانا۔

6153 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: أَوْصَى ابْنُ الْمُسَيْبِ أَهْلَهُ أَنْ لَا يَتَّبِعُوهُ بِمَجْمَرٍ

* * ابن حرمہ بیان کرتے ہیں: سعید بن مسیب نے اپنے اہل خانہ کو یہ وصیت کی تھی کہ وہ ان کے ساتھ انگیٹھی نہ لے کے جائیں۔

6154 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ قَالَ: أَوْصَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَهْلَهُ أَنْ لَا يَضْرِبُوا عَلَيَّ قَبْرَهُ فُسْطَاطًا، وَلَا يَتَّبِعُوهُ بِمَجْمَرٍ، وَأَنْ يُسْرِعُوا بِهِ

* * سعید مقبری بیان کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل خانہ کو یہ ہدایت کی تھی کہ ان کی قبر پر خیمہ نہ لگایا جائے اور ان کے ساتھ انگیٹھی نہ لے جانی جائے اور انہیں جلدی لے جایا جائے۔

6155 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ نَهَى أَنْ يُتَّبَعَ بِنَارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ

* * سعید بن ابوسعید بیان کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس بات سے منع کیا تھا کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ آگ لے جانی جائے۔

6156 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: لَا أَعْلَمُ أَيُّوبَ إِلَّا كَانَ يُجْفَفُ رَأْسَ الْمَيِّتِ بِمَجْمَرٍ

* * معمر بیان کرتے ہیں: میرے علم کے مطابق ایوب میت کے سر کو انگیٹھی کے ذریعہ خشک کرتے تھے۔

6157 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: غُسِلَ الْمَيِّتُ وَتُرِّ، وَتَجْمِيرُهُ وَتُرِّ، وَثِيَابُهُ وَتُرِّ. وَكَانُوا يَقُولُونَ: لَا تَكُونُ آخِرَ زَادِهِ نَارٌ تَتَّبِعُهُ إِلَى قَبْرِهِ، وَيَدْخُلُ الْقَبْرَ كَمَا شَاءَ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُسَبَّقَ الْجِنَازَةُ، وَأَنْ يَتَقَدَّمَ الرَّائِبُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ، يَعْنِي يَقُولُ: نَارُ الْمَجْمَرَةِ

* * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: میت کو غسل طاق تعداد میں دیا جائے گا اور اُس کو دھونی طاق تعداد میں دی جائے گی اُسے کپڑے طاق تعداد میں دیئے جائیں گے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میت کے ساتھ آخری سامان آگ نہیں ہونا چاہیے جو اُس کے ساتھ اُس کی قبر تک جائے۔ وہ اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ جنازہ کے آگے چلا جائے یا کوئی سوار شخص جنازہ کے آگے چلے اُن کی مراد انگیٹھی کی آگ تھی۔

6158 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ يَقُولُ: تَجْمَرُ الثِّيَابُ قَبْلَ اَنْ تُلْبَسَهَا اَيَّاهُ. وَقَالَ اِبْرَاهِيمُ: لَا تَجْمَرُوا جَسَدَهُ، وَلَا تَحْتَ نَعْشِهِ، وَلَا يَدْنَى مِنْهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَجْمَرِ اِلَّا اَنْ تَجْمَرَ ثِيَابُهُ قَبْلَ اَنْ تُلْبَسَهُ

* * ابراہیم نخعی یہ فرماتے ہیں: میت کو کپڑے پہنائے جانے سے پہلے انہیں دھونی دی جاسکتی ہے۔
ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: تم لوگ میت کے جسم کو دھونی نہ دیں اور اُس کی چار پائی کے نیچے دھونی نہ دو اور دھونی میں سے کوئی چیز اُس کے جسم کے قریب نہ کرو البتہ اُسے کفن پہنانے سے پہلے اُس کے کپڑوں کو دھونی دے دو۔

6159 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْاَعْلَى قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُوَ يَتَّبِعُ جِنَازَةً مَعَهَا مَجْمَرٌ يُتَّبَعُ بِهَا، فَرَمَى بِهَا فَكَسَرَهَا وَقَالَ: سَمِعْتُ اِبْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَا تَشَبَّهُوا بِاهْلِ الْكِتَابِ
* * عبد الاعلیٰ بیان کرتے ہیں: میں سعید بن جبیر کے ساتھ تھا وہ ایک جنازہ کے ساتھ جا رہے تھے جس کے ساتھ انگیٹھی بھی تھی وہ انگیٹھی اُس کے ساتھ لے جالی جا رہی تھی تو سعید بن جبیر نے اُسے پھینک کر اُسے توڑ دیا اور یہ بتایا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: تم لوگ اہل کتاب کے ساتھ مشابہت اختیار نہ کرو۔

6160 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: اِذَا اُجْمِرَ الْمُتَوَفَّى فَلْيُبَدَأْ بِرَأْسِهِ حَتَّى تَبْلُغَ رِجْلَيْهِ، وَتَجْمَرُ وَتَرًا، نُبِّئْتُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِذَلِكَ
* * سلیمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں: جب میت کو دھونی دی جائے تو پہلے اُس کے سر کو دی جائے یہاں تک کہ اُس کے پاؤں تک پہنچا جائے اور اُسے طاق تعداد میں دھونی دی جائے مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے۔

6161 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: اخْبَرَنِي أَبُو حَيَّةَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: اَوْصَى مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ اَنْ لَا يَقْرَبَ قَبْسًا، يَعْنِي مَجْمَرَةً، وَلَا يُغَسَّلَ بِحَمِيمٍ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ قَبْرِهِ

* * ابو حییہ ثقفی بیان کرتے ہیں: حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال کے وقت یہ وصیت کی تھی کہ دھونی کو (یا) آگ کی انگیٹھی کو) اُن کے قریب نہ کیا جائے اور انہیں گرم پانی سے غسل نہ دیا جائے اور اُن کی قبر کے قریب اُن کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔

6162 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَنْشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ مَعَ امْرَأَةٍ مِجْمَرَةً عِنْدَ جِنَازَةٍ حِينَ ارَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَصَاحَ حَتَّى تَوَارَتْ فِي آجَامِ الْمَدِينَةِ

* * * حنش بن معتمر بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ایک خاتون کے ساتھ آنکھیں دیکھی جو ایک جنازہ کے پاس تھی، یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ اس خاتون کی نماز جنازہ ادا کرنے لگے تھے تو نبی اکرم ﷺ نے بلند آواز دی یہاں تک کہ وہ مدینہ منورہ کی عمارتوں کے پیچھے چھپ گئی۔

بَابُ الْكُفْنِ

باب: کفن کا بیان

6163 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: "كُفِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ اثْوَابٍ: أَحَدَهَا حَبْرَةٌ." قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَهَذَا الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ، وَبِهِ نَأْخُذُ * * * امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا جن میں ایک حبرہ (منقش چادر) تھی۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: اس پر اتفاق پایا جاتا ہے اور ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں (یعنی میت کو تین کپڑوں میں کفن دیا جائے گا)۔

6164 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ مِثْلَهُ

* * * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منقول ہے۔

6165 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كُفِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رِيْطَتَيْنِ وَبُرْدٍ أَحْمَرَ * * * سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کو (ایک پاٹ کی) دو چادروں اور ایک سرخ چادر میں کفن دیا گیا تھا۔

6166 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمِ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ: كُفِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُرْدَيْنِ أَبْيَضَيْنِ، وَبُرْدٍ أَحْمَرَ

* * * حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کو دو سفید چادروں اور ایک سرخ چادر میں کفن دیا

گیا تھا۔

6167 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُفِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبَيْنِ صُحَارِيِّينَ وَثَوْبِ حَبْرَةٍ

*** امام جعفر صادق رضي الله عنه اپنے والد (امام محمد باقر رضي الله عنه) کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صحاری کپڑوں اور ایک منقش چادر میں کفن دیا گیا تھا۔

6168 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كُفِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَانِيَّةٍ وَقَمِيصٍ

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یمانی حلتہ اور ایک قمیص میں کفن دیا گیا تھا۔

6169 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ بِنِ حُسَيْنٍ يَقُولُ: " بَلَّغْنَا

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، قِيلَ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: قَدْ اِخْتَلَفُوا فِيهِنَّ، مِنْهُنَّ قَمِيصٌ، قُلْتُ: عِمَامَةٌ؟ " قَالَ: لَا، ثَوْبَانِ سِوَى الْقَمِيصِ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَهُوَ الْقَمِيصُ الَّذِي غُسِلَ فِيهِ

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے امام محمد باقر رضي الله عنه کو یہ بات بیان کرتے ہوئے سنا ہے: ہم تک یہ روایت پہنچی ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا۔ ان سے دریافت کیا: وہ کپڑے کون سے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: اس بارے میں راویوں نے اختلاف کیا ہے، بعض حضرات نے قمیص کا ذکر کیا ہے۔ میں نے دریافت کیا: کیا اس میں عمامہ بھی تھا؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! قمیص کے علاوہ دو کپڑے تھے۔

امام عبد الرزاق کہتے ہیں: یہ وہ قمیص تھی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا تھا۔

6170 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كُفِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ وَقَمِيصٍ، وَلِحْدَ لَهُ، وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ

*** حسن بصری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حلتہ اور ایک قمیص میں کفن دیا گیا تھا، آپ کے لیے لحد تیار کی گئی تھی۔

معمر نے بھی یہ بات حسن بصری کے حوالے سے نقل کی ہے۔

6171 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُفِنَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحْوَلِيَّةٍ بَيْضٍ، يَعْنِي مِنْ ثِيَابِ السَّحُولِيِّ

*** سیدہ عائشہ صدیقہ رضي الله عنها بیان کرتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید سحولی کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا۔

سیدہ عائشہ رضي الله عنها کی مراد یہ تھی کہ وہ سوت کے کپڑے تھے۔

6172 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُفِنَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولٍ كُرْسُفٍ بَيْضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ

*** سیدہ عائشہ صدیقہ رضي الله عنها بیان کرتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید سحولی کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا، اس کفن

میں کوئی قمیص یا عمامہ نہیں تھا۔

6173 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: لَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ حَبْرَةٍ جُفِّفَ فِيهِ، ثُمَّ نَزِعَ وَجُعِلَ مَكَانَهُ السَّحُولُ، وَكَانَ الثَّوْبُ الْحَبْرَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: لَا أَلْبَسُ ثَوْبًا نَزَعَهُ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا

* * ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کو حمرہ (یعنی چادر) میں لپیٹا گیا اس کے ذریعہ آپ کے جسم کو خشک کیا گیا پھر اس چادر کو اتار لیا گیا اور اس کی جگہ سحولی کپڑا رکھ دیا گیا وہ یعنی چادر حضرت عبداللہ بن ابوبکر کی تھی انہوں نے فرمایا: میں ایسا کپڑا کبھی نہیں پہنوں گا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے جسم سے اتروادیا تھا۔

6174 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِيَ فِي ثَوْبٍ حَبْرَةٍ

* * سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ﷺ کو متکش چادر میں ڈھانپ دیا گیا۔

6175 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَفَّنَ فِي ثَلَاثَةِ اثْوَابٍ، وَصَلَّى عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ وَدُفِنَ لَيْلًا

* * ہشام بن عروہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا اور مسجد میں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی اور انہیں رات میں ہی دفن کر دیا گیا۔

6176 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عَائِشَةَ فِي كَفْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: فِي ثَلَاثَةِ اثْوَابٍ قَالَ: وَأَنَا كَفَّنُونِي فِي ثَلَاثَةِ ثَوْبِي هَذَا، وَبِهِ

6172- صحیح البخاری - کتاب الجنائز 'باب الكفن بغیر قمیص' - حدیث 1224، صحیح مسلم - کتاب الجنائز 'باب فی کفن المیت' - حدیث 1614، صحیح ابن حبان - کتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما او مؤخرًا 'فصل فی التکفین' - ذکر الخبر المدحض قول من زعم ان تکفین المیت فی القمیص' حدیث 3092، موطا مالک - کتاب الجنائز 'باب ما جاء فی کفن المیت' - حدیث 523، سنن ابی داود - کتاب الجنائز 'باب فی الكفن' - حدیث 2756، سنن ابن ماجه - کتاب الجنائز 'باب ما جاء فی کفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم' - حدیث 1464، السنن للنسائی - کتاب الجنائز 'کفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم' - حدیث 1880، مصنف ابن ابی شیبہ - کتاب الجنائز 'ما قالوا فی کفین المیت' - حدیث 10856، السنن الکبریٰ للنسائی - کتاب الجنائز 'کفن النبی صلی اللہ علیہ وسلم' - حدیث 2002، السنن الکبریٰ للبیہقی - کتاب الجنائز 'جاء ابواب عدد الكفن' - باب السنة فی تکفین الرجل فی ثلاثة اثواب لیس فیہن قمیص' حدیث 6295، مسند احمد بن حنبل - مسند الانصار 'الملحق المستدرک من مسند الانصار' - حدیث السیدة عائشة رضی اللہ عنہا 'حدیث 23595، مسند الشافعی - ومن کتاب الجنائز والحدود' حدیث 1512، مسند الطیالسی - احادیث النساء 'عنقبة بن قیس عن عائشة - عروہ بن الزبیر عن عائشة' حدیث 1543، مسند ابی یعلیٰ الموصلی - مسند عائشة' حدیث 4286، المعجم الاوسط للطبرانی - باب الالف' من اسمہ احمد - حدیث 1399

مَشَقٌّ، مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ، وَاغْسِلُوا، لِثَوْبِهِ الَّذِي كَانَ يُلْبَسُ قَالَتْ عَائِشَةُ: أَلَا نَشْتَرِي لَكَ جَدِيدًا؟ فَقَالَ: لَا، الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهَلَّةِ. أَيْ يَوْمَ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ قَالَ: أَيْ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالَتْ: يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ قَالَ: إِنِّي لَا رُجُؤَ إِلَى اللَّيْلِ، فَتُوفِّي حِينَ أَمْسَى وَدُفِنَ مِنْ لَيْلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ.

*** ہشام بن عروہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: تین کپڑوں میں! حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے بھی تم لوگ تین کپڑوں میں کفن دینا، ایک میرا یہ کپڑا ہے وہ درمیان سے پھٹا ہوا تھا اور اس کے ساتھ دو اور کپڑے کر لینا اور تم اس کپڑے کو دھو لینا، یعنی وہ کپڑا جو حضرت ابو بکر نے پہنا ہوا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: کیا ہم آپ کے لیے نیا کپڑا نہ خرید لیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: جی نہیں! زندہ شخص کو نئے کپڑے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس نے تو آخر خراب ہی ہونا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس دن ہوا تھا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: پیر کے دن! حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: آج کون سا دن ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: پیر کا دن ہے! حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے یہ امید ہے کہ رات تک میرا انتقال ہو جائے گا۔ تو اسی شام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور صبح ہونے سے پہلے ہی انہیں رات میں ہی دفن کر دیا گیا۔

6177 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَفَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَانِيَّةٍ وَقَمِيصٍ

*** ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یمانی حلہ اور ایک قمیص میں کفن دیا گیا تھا۔

6178 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ

لِثَوْبِيهِ الَّذِينَ كَانَ يُمَرِّضُ فِيهِمَا: اغْسِلُوهُمَا وَكَفِّنُونِي فِيهِمَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: "أَلَا نَشْتَرِي لَكَ جَدِيدًا قَالَ: لَا إِنَّ الْحَيَّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ"

*** سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے اُن دو کپڑوں کے بارے میں فرمایا: جن میں وہ بیمار تھے کہ تم ان دونوں کو دھو کر ان دونوں میں مجھے کفن دے دینا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: کیا ہم آپ کے لیے نیا کپڑا نہ خریدیں؟ تو انہوں نے فرمایا: جی نہیں! زندہ شخص مرنے والے کے مقابلہ میں نئے کپڑے کا زیادہ محتاج ہوتا ہے۔

6179 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَفَنَ فِي

ثَلَاثَةِ ثَوَابٍ مَلَأَ تِسْنِ مَمْصَرَتَيْنِ وَثَوْبٍ كَانَ يُلْبَسُهُ، وَقَالَ: الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ، إِنَّمَا هِيَ لِلْمُهَلَّةِ، يَعْنِي الصَّدِيدَ وَالْقَيْحَ

*** عبدالرحمن بن قاسم اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا، دو کپڑے تو گیرے رنگ کے تھے اور ایک کپڑا وہ تھا جو انہوں نے پہنا ہوا تھا، انہوں نے فرمایا: زندہ شخص نئے کپڑے کا زیادہ محتاج ہوتا

بے یہ تو خراب ہونے کے لیے ہیں، یعنی پیپ کے لیے ہیں اور خون کے لیے ہیں۔

6180 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، أن ابن عمر كان يكفن أهله في خمسة أثوابٍ منها عمامةٌ وقميصٌ وثلاثٌ لفائف.

* * * سالم بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے اہل خانہ میں سے ایک شخص کو پانچ کپڑوں میں کفن دیا تھا جس میں ایک عمامہ اور ایک قمیص بھی شامل تھی اور تین لفافے تھے۔

6181 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر مثله.

* * * یہی روایت حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے ایک اور سند کے ساتھ منقول ہے۔

6182 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر نحوه

* * * حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہی روایت ایک اور سند کے ساتھ منقول ہے۔

6183 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع قال: كان ابن عمر يسدل

طرف العمامة على وجه الميت، ثم يلف على رأسه من تحت الدفن، ثم يلوئها على رأسه، ثم يسدل الطرف الآخر أيضا على وجهه، قلنا لعبد الرزاق: وكيف؟ قال: أرانا معمر هكذا يضع طرف العمامة يسدلها على وجهه ثم يرذ الذي يسدل على الوجه إلى الحلق، ثم يضع العمامة على الذي يسدل على الوجه يرذ تحت الدفن، ثم يلوئها على رأسه، ثم يعيد طرف العمامة على جبهته، ثم يسدل ما بقي منها على وجهه أيضا

* * * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عمامہ کے پچ کو میت کے چہرے پر لٹکا دیتے تھے پھر وہ ٹھوڑی کے نیچے سے اس کے سر کو باندھ دیتے تھے پھر وہ اسے سر پر لپیٹ دیتے تھے پھر دوسری طرف کے کپڑے کو بھی اسی طرح چہرے پر لٹکاتے تھے۔

ہم نے امام عبد الرزاق سے دریافت کیا: یہ کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے بتایا: معمر نے ہمیں اس طرح کر کے دکھایا، انہوں نے عمامہ کا کنارہ میت کے چہرے پر رکھا اور پھر اس کپڑے کو چہرے پر ڈالا تھا اسے حلق تک لے آئے پھر انہوں نے عمامہ میت کے چہرے پر رکھا اور اسے ٹھوڑی کے نیچے سے واپس لے آئے پھر انہوں نے اسے سر پر لا کر اسے موڑ دیا، پھر وہ عمامہ کے کنارے کو میت کے چہرے پر لے آئے پھر باقی رہ جانے والے حصہ کو بھی انہوں نے چہرے پر لٹکا دیا۔

6184 - آثار صحابہ: أخبرنا عبد الرزاق، عن الثوري، عن عاصم بن عبد الله، عن سالم، عن ابن عمر، أن عمر كفن في ثلاثة أثواب؛ ثوبين سحوليين، وثوب كان يلبسه

* * * حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا، دو سحولی کپڑے تھے اور ایک وہ کپڑا تھا جسے وہ پہنتے تھے۔

6185 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن الحسن قال: كان يكفن في وتر قميص ولفافتين، يلبس القميص ويلف في اللفافتين، ويحشو الكرسف والذريرة. قال عبد الرزاق: قال معمر: ولا أعلمني إلا رأيت أيوب يحشو الكرسف

*** حسن بصری بیان کرتے ہیں: میت کو طاق تعداد کے کپڑوں میں کفن دیا جائے گا ایک قمیص ہوگی اور دو لفافے ہوں گے، میت کو قمیص پہنائی جائے گی اور لفافے لپیٹ دیئے جائیں گے اور اسے روئی اور ذریعہ کے ذریعہ بھر دیا جائے گا۔
امام عبد الرزاق بیان کرتے ہیں: معمر نے یہ بات نقل کی ہے کہ میرے علم کے مطابق میں نے ایوب کو دیکھا ہے کہ وہ روئی کے ذریعہ بھر دیتے تھے۔

6186 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: تحل عن الميت العقد *** ابن سيرين بیان کرتے ہیں: میت کی گرہیں کھول دی جائیں گی۔

6187 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى قال: يكفن الميت في وتر قميص ولفافتين، يلبس القميص، وتبسط اللفافة على الأخرى، ثم يدرج فيها ولا يزال عليه القميص *** سليمان بن موسى بیان کرتے ہیں: میت کو طاق تعداد کے کپڑوں میں کفن دیا جائے گا ایک قمیص ہوگی اور دو لفافے ہوں گے، قمیص کو پہنا دیا جائے گا اور ایک لفافہ کو دوسرے کے اوپر لپیٹ دیا جائے گا پھر اس میں میت کو رکھا جائے گا اور قمیص اس کے جسم پر موجود رہے گی۔

6188 - آثار صحابه: عبد الرزاق، عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: الميت يقمص ويوزر ويلف في الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد لفت فيه *** حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میت کو قمیص پہنائی جائے گی، تہبند پہنایا جائے گا اور تیسرے کپڑے کو لپیٹا جائے گا، اگر صرف ایک ہی کپڑا ہوتا ہے تو اس میں میت کو لپیٹ دیا جائے گا۔

6189 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن رجل من أهل المدينة، عن محمد بن أبي بكر، عن مولى لابي هريرة قال لاهله عند موته: لا تعموني، ولا تقمصوني؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتم ولم يقمص

*** محمد بن ابو بکر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ایک غلام کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ انہوں نے انتقال کے وقت اپنے اہل خانہ سے کہا کہ تم مجھے عمامہ نہ پہنانا، تم مجھے قمیص نہ پہنانا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ تو عمامہ پہنایا گیا تھا اور نہ قمیص پہنائی گئی تھی۔

6190 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال عطاء لا يوزر الميت، ولا يردي، ولكن يلف فيها لفاً

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء نے یہ بات بیان کی ہے کہ میت کو تہبند نہیں پہنایا جائے گا، اُسے (تہبند کے طور پر) چادر نہیں لپیٹی جائے گی بلکہ اُسے لفافہ کے طور پر چادر لپیٹی جائے گی۔

6191 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُكْفِنُ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ مِنْهُنَّ عِمَامَةٌ

* * طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اہل خانہ میں سے ایک شخص کو تین کپڑوں میں کفن دیا تھا جس میں عمامہ شامل نہیں تھا۔

6192 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَعَمَّمُ الْمَيِّتُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَيَحْسَى الْكُرْسُفَ؟ قَالَ: "نَعَمْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ شَيْءٌ"

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا میت کو عمامہ پہنایا جائے گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! میں نے دریافت کیا: کیا اُس میں روئی رکھی جائے گی؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! البتہ اگر اُس کے جسم سے کوئی چیز پھوٹتی نہیں ہے (یعنی خون وغیرہ باہر نہیں نکلتا تو اس کی ضرورت نہیں ہے)۔

6193 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: كُفِّنَ حَمْزَةَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَّغَنِي أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَمِرَ رَأْسُهُ انْكَشَفَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا خَمِرْنَا رِجْلَاهُ انْكَشَفَ رَأْسُهُ

* * ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیا گیا تھا۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: معمر نے یہ بات نقل کی ہے کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما کا سر ڈھانپا جاتا تھا تو اُن کے پاؤں کھل جاتے تھے اور جب ہم اُن کے پاؤں ڈھانپتے تھے تو اُن کا سر کھل جاتا تھا۔

6194 - حدیث نبوی: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزْرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قُتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَقُتِلَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَتْ صَفِيَّةُ ابْنَةَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بَثْوَبَيْنِ لَتُكْفِنَ بِهِمَا حَمْزَةَ، فَلَمْ يَكُنْ لِلْأَنْصَارِيِّ كَفَنٌ، فَاسْتَهَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الثَّوْبَيْنِ ثُمَّ كَفَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ثَوْبٍ

* * حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما غزوہ احد کے موقع پر شہید ہو گئے تھے اُن کے ساتھ انصار کا ایک اور شخص بھی شہید ہوا۔ حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہا دو کپڑے لے کر آئیں تاکہ ان دو کپڑوں میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما کو کفن دیا جائے انصاری کے پاس کفن کا کوئی کپڑا نہیں تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دو کپڑے اُن دونوں کے حصہ میں کر دیئے اور اُن دونوں میں سے ہر ایک کو ایک کپڑے میں کفن دیا گیا۔

6195 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: سَمِعْتُ خَبَّابَ بْنَ الْأَرْتِ يَقُولُ: إِنَّا هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبَغِي وَجْهَ اللَّهِ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ، فَمِنَّا

مَنْ مَضَى وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ الْمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ بُرْدَةً، فَإِذَا جَعَلْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسُهُ، وَإِذَا جَعَلْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ بَدَتْ رِجْلَاهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَعْلِهَا عَلَى رَأْسِهِ، وَيُجْعَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ إِذْخِرٍ، وَمِنَّا مَنْ آيَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يُهْدِيهَا، يَعْنِي يَأْكُلُهَا

*** حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہجرت کی تو ہمارا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ لازم ہو گیا، ہم میں سے کچھ لوگ رخصت ہو گئے انہوں نے اپنے اجر میں سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا، ان میں سے ایک حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے جو غزوہ اُحد میں شہید ہوئے انہوں نے ایک چادر چھوڑی تھی جب ہم وہ ان کے پاؤں پر رکھتے تھے تو ان کا سر ظاہر ہو جاتا تھا اور جب ہم وہ ان کے سر پر رکھتے تھے تو ان کے پاؤں ظاہر ہو جاتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چادر ان کے سر پر رکھی جائے اور پاؤں پر تھوڑی سی گھاس رکھ دی جائے۔ ہم میں سے بعض لوگ وہ ہیں جن کا پھل پک چکا ہے اور وہ اسے چن رہے ہیں یعنی کھا رہے ہیں۔

6196 - احوال تابعین: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُكْفَنُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِنَّ خُمَرَ رَأْسِهِ انْكَشَفَتْ رِجْلَاهُ، وَإِنْ خُمِرَتْ رِجْلَيْهِ انْكَشَفَ رَأْسُهُ قَالَ: وَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ أُمَّ عَائِشَةَ، وَأُمَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ، بِأَنْ تَغْسِلَ ثَوْبَيْنِ كَانَ يُمَرِّضُ فِيهِمَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَوْثِيَابًا جُدًّا أَوْ أَمَثَلٍ مِنْهَا؟ قَالَ: الْأَحْيَاءُ أَحَقُّ بِذَلِكَ

*** زید بن عمیر بیان کرتے ہیں: پہلے زمانہ میں کسی شخص کو ایک کپڑے میں کفن دیا جاتا تھا، اگر اس کا سر ڈھانپا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور اگر پاؤں ڈھانپے جاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا۔ راوی کہتے ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یا شاید سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یا سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے یہ ہدایت کی تھی کہ انہیں ان دو کپڑوں میں ہی غسل دیا جائے جس میں وہ بیمار رہے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: کیا نئے کپڑے نہ لیے جائیں یا زیادہ اچھے نہ لیے جائیں؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: زندہ لوگ اس کے زیادہ حقدار ہوتے ہیں۔

6197 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَاذَا بَلَغَكَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ مِنْ كَفَنِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: الْبَيَاضُ أَذْنَاهُ، قُلْتُ: إِنِّي أَرَى النَّاسَ قَدْ عَلَّقُوا الْقَبَاطِيَّ قَالَ: مُحَدَّثٌ، وَابْنُ الْقَبَاطِيِّ مِنْ ذَلِكَ الزَّمَانِ؟ أَرَهُوَ حَيًّا وَزَهُوَ مَيِّتًا؟

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: آپ تک کیا روایت پہنچی ہے کہ میت کے کفن کے حوالے سے کیا چیز مستحب ہے؟ انہوں نے جواب دیا: سفید کپڑا سب سے زیادہ مناسب ہے۔ میں نے دریافت کیا: میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ قبائی کپڑا لٹکا دیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: یہ بعد کی ایجاد کی ہوئی چیز ہے، قبائی کپڑا اس زمانہ میں کہاں ہوا کرتا تھا، کیا یہ زندہ شخص کے لیے کشادگی ہوگی اور مرحوم کے لیے تکبر ہوگا؟

6198 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ سَمُرَةَ بِنِ

جُنْدُبٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْبَيَاضِ، فَلْيَلْبَسْهُ أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ؛ فَإِنَّهُ مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ

* * حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”تم پر سفید کپڑے لازم ہیں تمہارے زندہ لوگ اس کپڑے کو پہنیں اور تم اس کپڑے میں اپنے مردوں کو کفن دو کیونکہ یہ تمہارا بہترین کپڑا ہے۔“

6199 - حَدِيثُ نُبِيِّ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبٍ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبُسُوءُ الْبَيَاضُ؛ فَإِنَّهَا أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

* * حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”تم لوگ سفید کپڑا پہنو کیونکہ یہ زیادہ پاکیزہ اور زیادہ پاک و صاف ہوتا ہے اور اس میں اپنے مردوں کو کفن دو۔“

6200 - آثَارُ صَحَابِهِ: عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الْبُسُوءُ مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَمِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ؛ فَإِنَّهُ يُبَسِّطُ الشَّعْرَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ.

* * حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: تم لوگ سفید کپڑے پہنو! کیونکہ یہ تمہارے بہترین کپڑے ہیں اور تم ان میں اپنے مردوں کو کفن دو اور تمہارے سرموں میں سب سے بہتر اِثْمِدُ ہے کیونکہ یہ بال اگاتا ہے اور بینائی کو تیز کرتا ہے۔

6201 - حَدِيثُ نُبِيِّ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

* * سعید بن جبیر حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نبی اکرم ﷺ سے اس کی مانند نقل کرتے ہیں۔

6202 - اقوال تابعين: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَضَرْتُ جِنَازَةَ هَمَّامِ بْنِ مُنْبِهِ، وَحَضَرَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَانَ وَالْيَا لِنَبِيِّ الْعَبَّاسِ، وَلَمْ يَرِ مِثْلَهُ قَطُّ، فَصَلَّى وَكَانَ عَلَى النَّعْشِ ثَوْبٌ فَأَرَادُوا أَنْ يَضَعُوهُ فِي قَبْرِهِ لِيُكْفَنَ فِيهِ فَجَذَبَهُ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَفَّنَهُ مَا أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَيْتِهِ عَلَيْهِ قَالَ: فَلَمْ يَتْرُكْهُمْ يُكْفِنُونَهُ فِيهِ

* * یحییٰ بن وہب بیان کرتے ہیں: میں ہمام بن منبہ کے جنازہ میں شریک ہوا، عمر بن عبد الحمید جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک صاحب تھے وہ بھی اس موقع پر موجود تھے یہ بنو عباس کے سب سے پہلے گورز تھے ان جیسا وہی اور شخص نہیں دیکھا گیا انہوں نے نماز پڑھائی تو میت کے اوپر ایک کپڑا موجود تھا لوگوں نے وہ کپڑا قبر میں رکھنا چاہا تا کہ اس میں میت کو کفن دیں تو انہوں نے اس کپڑے کو کھینچ لیا اور بولے: اس کا کفن وہ کپڑا تھا جس کپڑے میں اسے لپیٹ کر اس کے گھر

سے باہر لایا گیا تھا۔ راوی کہتے ہیں: تو انہوں نے اُس اضافی کپڑے میں اُس کو کفن نہیں دینے دیا۔

بَابُ ذِكْرِ الْكَفَنِ وَالْفَسَاطِيطِ

باب: کفن کا تذکرہ اور خیمہ لگانے کا تذکرہ

6203 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ حَضَرَ

أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ يَمُوتُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ يُعْتَفُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَدْ أَوْصَيْتُ أَهْلِي أَنْ لَا يَتَّبِعُونِي بِنَارٍ، وَلَا يَضْرِبُوا عَلَيَّ قَبْرِي فَسَطَاطًا، وَاحْمِلُونِي عَلَى قَطِيفَةٍ أَرْجُوَانِ

* * ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں: وہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے انتقال کے قریب اُن کے پاس موجود تھے

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بتایا: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

”میت کو اسی کپڑے میں زندہ کیا جائے گا جس کپڑے میں اُس کا انتقال ہوا تھا۔“

پھر حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے اپنے اہل خانہ کو ہدایت کی ہے کہ وہ میرے ساتھ آگ نہ لے کر جائے اور

میری قبر پر خیمہ نہ لگائیں اور مجھے ار جوان کی چادر کے اوپر اٹھا کر لے جائیں۔

6204 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ أَبُو

سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ جُعِلَتْ لَهُ قَطِيفَةٌ حُمْرَاءُ فَقَالَ رَجُلٌ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى حُمْرَةً فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الْحُمْرَةَ غَلَبَتْ عَلَيْكُمْ

* * محمد بن اسحاق نے ایک شخص کا یہ بیان نقل کیا ہے: جب حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اُن کے لیے ایک

سرخ چادر رکھی گئی تو ایک شخص نے کہا: میں نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہوئے سنا ہے کہ نبی

اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ چادر دیکھی تو فرمایا: خبردار! سرخ رنگ تم پر غالب آ جائے گا۔

6205 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ عَمَّتِهِ

بِنْتِ مُجَمِّعٍ، عَنْ بِنْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عُمَرَ وَلَا نَسِ بْنِ مَالِكٍ وَلَا خَرَمَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يَغْلِبَنَّكُمْ بَنُو أَبِي سَعِيدٍ عَلَى جِنَازَتِي وَاحْمِلُونِي عَلَى قَطِيفَةٍ قَبْصَرَانِيَّةٍ وَأَجْمُرُوا

عَلَيَّ بِأَوْقِيَّةٍ مَجْمَرٍ، وَكَفِّنُونِي فِي ثِيَابِي الَّتِي كُنْتُ أُصَلِّي فِيهَا وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَلَا تَضْرِبُوا عَلَيَّ فَسَطَاطًا وَلَا

تَتَّبِعُونِي بِنَارٍ وَفِي الْبَيْتِ قَبْطِيَّةً، فَكَفِّنُونِي فِيهَا مَعَ ثِيَابِي

* * ابراہیم بن اسماعیل نے اپنی پھوپھی کے حوالے سے روایت نقل کی ہے جو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی نواسی ہیں

کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اصحاب

سے یہ کہا کہ میرے جنازہ کے حوالے سے ابوسعید کے بچے آپ لوگوں پر غالب نہ آ جائیں، آپ لوگوں نے مجھے قیسرانی چادر میں رکھ کر اٹھانا ہے اور میرے ساتھ انگیٹھی کا ایک اوقیہ دھونی دینی ہے اور میرے اُن کپڑوں میں کفن دینا ہے جن میں نماز ادا کرتا تھا اور آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے اور میری قبر پر خیمہ نہیں لگانا اور میرے ساتھ آگ نہیں لے کے جانی، میرے گھر میں قبلی چادر موجود ہے آپ نے میرے کپڑوں سمیت اُس میں مجھے کفن دے دینا ہے۔

6206 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ قَالَ: شَهِدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ حِينَ مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ كَبْرًا رُبْعًا وَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ حَتَّى أَدْخَلَهُ قَبْرَهُ وَضَرَبَ عَلَيْهِ فُسْطَاطًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

* * عمران بن ابوعطاء بیان کرتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے طائف میں انتقال کے موقع پر محمد بن حنفیہ کے ساتھ موجود تھا، انہوں نے چار تکبیریں کہیں اور قبلہ کی سمت سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی میت کو لے کر اسے قبر میں اتارا اور انہوں نے تین دن تک اُن کی قبر پر خیمہ لگائے رکھا۔

6207 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ قَالَ: أَوَّلُ فُسْطَاطٍ ضُرِبَ عَلَى قَبْرِ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَعَلَى قَبْرِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا

* * محمد بن ابراہیم بیان کرتے ہیں: وہ سب سے پہلا خیمہ جو کسی مسلمان کی قبر پر لگایا گیا جو سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کی قبر پر لگایا گیا تھا، کیونکہ اُس دن بہت گرمی تھی۔

6208 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ مَنْ وَلِيَ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ وَإِنَّهُ بَلَّغَنِي أَنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ

* * ابن سیرین بیان کرتے ہیں: یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کے (تجہیز و تکفین کے معاملات) کا نگران بنے اُس کو اچھا کفن دینا چاہیے۔

ابن سیرین نے یہ بات بھی بیان کی ہے: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ پہلے لوگ کفن کے معاملہ میں اہتمام کرتے تھے۔

6209 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَجَادَ الْأَكْفَانُ

* * صفوان بن سلیم بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے یہ حکم دیا ہے کہ (میت کو) نیا کفن دیا جائے۔

6210 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: أُرْسِلُنِي حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَرَجُلًا آخَرَ نَشْتَرِي لَهُ كَفَنًا، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ حُلَّةَ حَمْرَاءَ جَيِّدَةً بِثَلَاثِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، فَلَمَّا آتَيْنَاهُ قَالَ: أَرُونِي مَا اشْتَرَيْتُمْ فَارَيْنَاهُ، فَقَالَ: رُدُّوهَا، وَلَا تَعَالُوا فِي الْكَفَنِ، اشْتَرُوا لِي ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ نَقِيَيْنِ، فَإِنَّهُمَا لَنْ

يُتْرَكَ عَلَيَّ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى الْبَسَ خَيْرًا مِنْهُمَا أَوْ شَرًّا مِنْهُمَا

*** صلہ بن زفر بیان کرتے ہیں: حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے مجھے اور ایک اور شخص کو بھیجا، تاکہ ہم اُن کے لیے کفن خرید لیں، تو میں نے تین سو درہم کے عوض میں اُن کے لیے ایک عمدہ سرخ حُلہ خریدا، جب ہم اُن کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا: تم مجھے دکھاؤ کہ تم نے کیا خریدا ہے؟ ہم نے انہیں دکھایا تو انہوں نے فرمایا: اسے واپس کر دو اور مہنگا کفن نہ خریدو، تم میرے لیے دو صاف سفید کپڑے خرید لو، کیونکہ یہ تھوڑی دیر کے لیے میرے جسم پر رہیں گے، پھر مجھے یا تو ان سے بہتر لباس پہنا دیا جائے گا، یا ان سے بُرا لباس پہنا دیا جائے گا۔

6211 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ: لَمَّا حَضَرَ حُذَيْفَةَ، قَالَ حُذَيْفَةُ لِأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ: أَيُّ اللَّيْلِ هَذَا؟ قَالَ: السَّحَرُ الْأَكْبَرُ قَالَ: "عَائِدًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ابْتَاغُوا لِي ثَوْبَيْنِ وَلَا تَغْلُوا عَلَيْكُمْ، فَإِنْ يَرْضَ عَنْ صَاحِبِكُمْ يُلْبَسُ خَيْرًا مِنْهَا، وَإِلَّا يُسَلَبُ سَلْبًا حَشِيئًا، أَوْ قَالَ: سَرِيعًا"

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِنْ يَرْضَ عَنْ صَاحِبِكُمْ يَكْسُ خَيْرًا مِنْهَا، وَإِلَّا تَرَامَى بِهِ أَرَا جِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، يَعْنِي النَّارَ

*** نزال بن سبرہ بیان کرتے ہیں: جب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت قریب آیا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا: آج کون سی رات ہے؟ انہوں نے جواب دیا: بڑی سحری والی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا: میں جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، تم لوگ میرے لیے دو کپڑے خرید لینا اور مہنگے نہ خریدنا، کیونکہ اگر تمہارے ساتھی سے رضامندی ہوگئی تو اُسے اُس (کفن) سے زیادہ بہتر لباس پہنا دیا جائے گا، ورنہ پھر اُسے سلب کیا جائے گا۔ (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں: جلدی کیا جائے گا۔)

قیس بیان کرتے ہیں: حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر تمہارے ساتھی سے راضی ہو گیا، تو اُسے اس سے بہتر لباس پہنایا جائے گا، ورنہ پھر قیامت کے دن تک کے لیے اُسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

6212 - آثار صحابہ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ بَشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَاشْتَرُوا لِي كَفَنًا بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا قَالَ: وَكَانَ مُوسَعًا عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَا لَا تُؤْذِنُوا بِي أَحَدًا إِلَّا مَنْ يَحْمِلُنِي إِلَى حُفْرَتِي

*** حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ابو عبیدہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب میرا انتقال ہو جائے تو تم میں درہم کے عوض میں میرے لیے کفن خرید لینا۔ راوی کہتے ہیں: حالانکہ اُن کے پاس اس سے زیادہ کی گنجائش تھی۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا: تم میرے بارے میں کسی کو اطلاع نہ دینا، ماسوائے اُن لوگوں کے جو مجھے اٹھا کے میری قبر تک پہنچادیں۔

بَابُ كَفَنِ الْمَرْأَةِ

باب: عورت کا کفن

6213 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي كَمْ تُكْفَنُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ وَثَوْبٍ فَوْقَهَا تُلْفٌ فِيهِ، قُلْتُ: وَلَا حِمَارًا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهَا تُجْمَعُ بِالْعَصَائِبِ، إِنَّ لَهَا هَيْئَةً كَهَيْئَةِ الرَّجُلِ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: عورت کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا جائے گا؟ انہوں نے جواب دیا: تین کپڑوں میں اور ایک کپڑا ان کپڑوں کے اوپر ہوگا جو لپیٹ دیا جائے گا۔ میں نے دریافت کیا: چادر نہیں ہوگی؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! لیکن پٹیاں جمع کی جائیں گی اور عورت کی ہیئت بھی مرد کی ہیئت کی طرح ہوگی۔

6214 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: تُكْفَنُ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِهَا وَحِمَارٍ وَلِفَافَةٍ تُدْرَجُ فِيهَا

* * سلیمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں: عورت کو اس کی قمیص اور لفافہ میں کفن دیا جائے گا اس لفافہ میں اسے لپیٹ دیا جائے گا۔

6215 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: "تُكْفَنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ، وَحِمَارٌ، وَثَلَاثُ لِفَافٍ"

* * حسن بصری فرماتے ہیں: عورت کو پانچ کپڑوں میں کفن دیا جائے گا: قمیص، چادر اور تین لفافے۔

6216 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ مَنْصُورٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: "تُكْفَنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ، وَحِمَارٌ، وَلِفَافٌ، وَمِنْطَقٌ، وَرِدَاءٌ"

* * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: عورت کو پانچ کپڑوں میں کفن دیا جائے گا: قمیص، چادر، لفافہ، کمر پر باندھنے والا کپڑا اور بڑی چادر۔

6217 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: "تُكْفَنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ، وَحِمَارٌ، وَخِرْقَةٌ، وَلِفَافَتَيْنِ"، قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَكَيْفَ يُصْنَعُ بِالْخِرْقَةِ؟ قَالَ: تُجْعَلُ كَهَيْئَةِ الْإِزَارِ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ

* * ابن سیرین بیان کرتے ہیں: عورت کو پانچ کپڑوں میں کفن دیا جائے گا: قمیص، چادر، کپڑا اور دو لفافے۔

ہم نے امام عبدالرزاق سے دریافت کیا: کپڑے کا کیا کیا جائے گا؟ انہوں نے جواب دیا: اس کی قمیص کے اوپر تہبند کی طرح اسے لپیٹ دیا جائے گا۔

6218 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَيْسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ " كَفَنَ ابْنَتَهُ فِي خُمْسَةِ أَثْوَابٍ، وَقَالَ: الرَّجُلُ فِي ثَلَاثٍ " * * * عيسى بن ابوعزه بیان کرتے ہیں: میں عامر شععی کے پاس موجود تھا، انہوں نے اپنی صاحبزادی کو پانچ کپڑوں میں کفن دلویا اور بولے: مرد کو تین کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے۔

6219 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَكُونُ خِرْقَةُ الْحَقْوِ فَوْقَ دِرْعِهَا * * * قتادہ بیان کرتے ہیں: پہلو پر باندھنے والا کپڑا قمیص کے اوپر باندھا جائے گا۔

6220 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ قَالَتْ: تَخْمَرُ الْمَرْأَةُ الْمَيِّتَةَ كَمَا تَخْمَرُ الْحَيَّةَ، وَتُدْرَعُ مِنَ الْخِمَارِ قَدْرَ ذِرَاعٍ تُسَدِّدُهُ عَلَيَّ وَجْهَهَا * * * ام ہزیل بیان کرتی ہیں: مردہ عورت کو اسی طرح اوڑھنی اڑھائی جائے گی جس طرح زندہ عورت کو اڑھائی جاتی ہے اور اس کی چادر میں سے سات بالشت جتنی چادر اس پر قمیص کے طور پر پہنائی جائے گی اور اسے اس کے چہرے پر بھی ڈال دیا جائے گا۔

بَابُ الْكَفْنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

باب: پورے مال میں سے کفن دینا

6221 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالَا الْكَفْنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ * * * زہری اور قتادہ فرماتے ہیں: پورے مال میں سے کفن دیا جائے گا۔

6222 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: الْكَفْنُ وَالْحَنُوطُ دَيْنٌ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ

* * * ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء نے مجھ سے کہا: کفن اور حنوط قرض ہے۔ عمرو بن دینار نے بھی یہی بات بیان کی ہے۔

6223 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْكَفْنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ * * * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: کفن پورے مال میں سے دیا جائے گا۔

6224 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُبَدَأُ بِالْكَفْنِ، ثُمَّ الدَّيْنِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ، قُلْتُ: فَأَجْرُ الْقَبْرِ وَغَسْلُ الْكَفْنِ؟ قَالَ: هُوَ مِنَ الْكَفْنِ

* * * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: سب سے پہلے کفن دیا جائے گا، پھر قرض ادا کیا جائے گا، پھر وصیت پوری کی جائے گی۔ میں نے دریافت کیا: قبر کا معاوضہ اور کفن کو دھونے کا معاوضہ (اس کا کیا حکم ہوگا؟) انہوں نے جواب دیا: یہ کفن میں شمار ہوگا۔

6225 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: الْكَفْنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ: وَقَالَ خِلَاسُ بْنُ عَمْرٍو مِنَ الثُّلُثِ

* * سعید بن مسیب فرماتے ہیں: کفن پورے مال میں سے دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات بھی نقل کی ہے: خلاص بن عمرو فرماتے ہیں: یہ مال کے ایک تہائی حصہ میں سے دیا جائے گا۔

6226 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: الْكَفْنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ: فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا فَهُوَ فِي الثُّلُثِ

* * طاؤس فرماتے ہیں: کفن پورے مال میں سے دیا جائے گا، اگر مال تھوڑا ہوگا تو یہ ایک تہائی حصہ سے دیا جائے گا۔

بَابُ كَفْنِ الصَّبِيِّ

باب: بچہ کا کفن

6227 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: كَفْنُ

الصَّبِيِّ فِي تَوْبٍ

* * سعید بن مسیب فرماتے ہیں: بچہ کو ایک کپڑے میں کفن دیا جائے گا۔

بَابُ شَعْرِ الْمَيِّتِ وَأَظْفَارِهِ

باب: میت کے بالوں اور ناخنوں کا حکم

6228 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ مِنْ شَعْرِ

الْمَيِّتِ، وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ كَانَ شَعْرُهُ طَوِيلًا فَاحْشَ الطُّوْلَ أَخِذْ مِنْهُ، وَأَظْفَارُهُ أَيْضًا كَذَلِكَ

* * ابن سیرین بیان کرتے ہیں: میت کے بال نہیں کاٹے جائیں گے اور اس کے ناخن نہیں تراشے جائیں گے۔

حسن بصری فرماتے ہیں: اگر میت کے بال بڑے طریقے سے لمبے ہوں تو انہیں کاٹ دیا جائے گا اور ناخنوں کا حکم بھی اسی

طرح ہے۔

6229 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: الْمَيِّتُ يَمُوتُ وَشَعْرُهُ طَوِيلٌ

أَيُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ؟ قَالَ: لَا، إِذَا مَاتَ فَلَا، إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطَّيَّرُ الْفَرَاشُ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ يُلْقَطُ فَيُجْمَعُ فَيَغِيبُ مَعَهُ إِذَا مَاتَ، فَلَا يُنْزَعُ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَمَّا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتَ فَنَعَمْ

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے بال طویل

ہیں تو کیا اس کے بالوں کو کاٹا جائے گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! جب وہ مر گیا ہے تو پھر نہیں کاٹا جائے گا انسان جب مر

جاتا ہے تو اس کے سر کی طرف سے بخارات اوپر جاتے ہیں پھر انہیں چن کر اکٹھا کیا جاتا ہے اور جب وہ مر جاتا ہے وہ اس کے ساتھ غائب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اُس کے جسم سے کوئی چیز الگ نہیں کی جائے گی البتہ جہاں تک مرنے سے پہلے کا تعلق ہے تو ایسا ہی کیا جائے گا۔

6230 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَانَ الْمَيِّتُ إِذَا انْتَزِعَ مِنْ رَأْسِ شَعْرِهِ

شَيْءٌ جُمِعَ فَيَغِيبُ مَعَهُ

* * ایوب فرماتے ہیں: میت کے سر کے بالوں میں سے جب کوئی چیز الگ کر دی جائے تو اُسے اکٹھا کر کے میت کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا۔

6231 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْسَى

قَالَ: فِي الشَّعْرِ وَالظَّفْرِ يَسْقُطُ مِنَ الْمَيِّتِ قَالَ: تَجْعَلُهُ مَعَهُ فِي كَفْنِهِ

* * عبد الرحمن بن ابویلیٰ بالوں اور ناخنوں کے بارے میں فرماتے ہیں: جو میت کے جسم سے گر جاتے ہیں وہ فرماتے ہیں: تم اُس کے کفن میں اُس کے ساتھ انہیں رکھ دو گے۔

6232 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَائِشَةَ، "رَأَتْ امْرَأَةً يَكْذُرُونَ

رَأْسَهَا، فَقَالَتْ: عَلَامَ تَنْصُونَ مَيِّتَكُمْ"

* * ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک عورت کو دیکھا کہ لوگ اس عورت کے سر کو کنگھی کر رہے تھے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: تم لوگ کس وجہ سے اپنے مردہ کو کنگھی کر رہے ہو۔

6233 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ حَمَّادٌ، عَنْ تَقْلِيمِ أَظْفَارِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ

إِنْ كَانَ أَقْلَفَ اتَّخِذْتَهُ

* * سفیان ثوری بیان کرتے ہیں: حماد سے میت کے ناخن تراشنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کہ اگر اُس کے ختنے نہ ہوئے ہوں تو تم اُس کے ختنے بھی کرو گے؟

6234 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ يُكْرَهُ أَنْ يُحْلَقَ عَانَةُ الْمَيِّتِ،

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَقَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ كَانَ فَاحِشًا أُخِذَ مِنْهُ

* * ابن سیرین کے بارے میں یہ بات منقول ہے وہ فرماتے ہیں: یہ بات مکروہ ہے کہ میت کے زیر ناف بال صاف کیے جائیں۔

امام عبد الرزاق بیان کرتے ہیں: معمر نے یہ بات نقل کی ہے اور حسن بصری نے یہ کہا ہے: اگر وہ انتہائی بُرے طریقہ سے بڑھے ہوئے ہوں تو پھر انہیں صاف کیا جائے گا۔

6235 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، حَلَقَ

عانة ميب

* * ابوقلابہ بیان کرتے ہیں: حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک میت کے زیر ناف بال صاف کروائے تھے۔

بَابُ النَّعْشِ وَالِاسْتِغْفَارِ

باب: میت کی چارپائی اور استغفار کا حکم

6236 - اَقْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَنْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِهِ لِنَعْشِ الْمَرْأَةِ؟

قَالَ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، حَسِبْتُ أَنَّهَا رَأَتْ ذَلِكَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: خاتون کی میت کے لیے چارپائی کا طریقہ سب سے پہلے کس نے شروع کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: سیدہ اسماء بن عمیس نے میرا خیال ہے کہ انہوں نے حبشہ کی سرزمین پر یہ چیز دیکھی تھی۔

6237 - اَقْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانُوا إِذَا

حَمَلُوا الْمَرْأَةَ عَلَى السَّرِيرِ قَلَبُوهَا فَجَعَلُوهَا بَيْنَ قَوَائِمِهِ حَتَّى أَخْبَرَتْهُمْ أَسْمَاءُ

* * عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں: پہلے لوگ عورت کو چارپائی پر رکھتے تھے پھر اُسے اُلٹا دیتے تھے اور اُسے اُس کے پاؤں کے درمیان رکھتے تھے یہاں تک کہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا نے انہیں ایسا کرنے کے بارے میں بتایا۔

6238 - اَقْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَكَرَّهُ الْقَطِيفَةُ الصَّفْرَاءُ لِلنَّعْشِ؟

قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ قَالَ: فَالْحُمْرَاءُ؟ قَالَ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ خَاتِمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِيِّ، يَعْنِي ثِيَابًا مِنَ الْحَرِيرِ، وَقَطِيفَةَ الْأَرْجُوانِ، وَالْمِثْرَةَ، هَيْئَةً كَانَتْ تُجْعَلُ تَحْتَ الرَّجُلِ بِمَنْزِلَةِ الطَّنْفَسَةِ كَهَيْئَةِ الْبُرْدَعَةِ اللَّطِيفَةِ ذَاتِ ذَبَاذِبِ حُمْرٍ وَصَفْرِ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا میت کی چارپائی کے لیے زرد رنگ کی چادر کو رکھنا مکروہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا: مجھے علم نہیں ہے! ابن جریج نے دریافت کیا: سرخ کو؟ انہوں نے بتایا: حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہننے سے اور قسی کپڑے سے یعنی ریشم سے بنے ہوئے کپڑے سے اور ار جوان کے بنے ہوئے کپڑے سے اور میسرہ سے منع کیا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کے لیے اُس طرح رکھی جاتی ہے جس طرح آدمی کا بچھنا ہوتا ہے جو سرخ اور زرد خانوں والے نرم قالین جیسا ہوتا ہے۔

6239 - اَقْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُهُ: اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ؟

قَالَ: مُحَدَّثَةٌ، وَبَلَّغَنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِيَذَى الْجَادِيَيْنِ: اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: یہ کہنا کہ تم لوگ اس کے لیے دعائے مغفرت کرواؤ

تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے! انہوں نے جواب دیا: یہ نئی ایجاد کی ہوئی چیز ہے، نبی اکرم ﷺ کے بارے میں یہ بات مجھ تک پہنچی ہے کہ آپ نے ذوالجہادین کے بارے میں یہ فرمایا تھا: تم لوگ اس کے بارے میں دعائے مغفرت کرو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے گا۔

6240 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن رجل، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا سعيد الخدري، أوصى أهله أن لا يحملوه على قطيفة أرجوان

* * حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے: انہوں نے اپنے اہل خانہ کو یہ وصیت کی تھی کہ ان کی میت کو ار جوانی چادر پر رکھ کر نہ لے جایا جائے۔

6241 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوري، عن عبد الرحمن بن حرملة قال: كنت مع ابن المسيب في جنازة فسمع رجلا يقول: استغفروا الله، فقال: "ما يقول راجزهم هذا؟ قد حرجت على اهلي أن يرجز معي راجزهم هذا، وأن يقول: مات سعيد بن المسيب فاشهدوه، حسبي من يقلبني إلى ربي، وأن يمشوا معي بمجمرة، فإن يكن لي عند ربي خير فمأ عبد الله أطيب من طيبكم"

* * عبد الرحمن حرمہ بیان کرتے ہیں: میں سعید بن مسیب کے ساتھ ایک جنازہ میں شریک ہوا تو انہوں نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا: تم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرو! تو سعید نے کہا: یہ رجز پڑھنے والا بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے اپنے اہل خانہ کو حرج میں مبتلا کیا، کہ اگر ان کا یہ رجز پڑھنے والا میرے ساتھ رجز پڑھے اور یہ کہے کہ سعید بن مسیب کا انتقال ہو گیا ہے تو تم لوگ گواہ ہو جاؤ، میرے لیے وہ شخص کافی ہے جو مجھے میرے پروردگار کی بارگاہ تک پہنچادے اور یہ کہ لوگ میرے ساتھ آگ کی انگیٹھی لے کے جائیں، اگر میرے پروردگار کے پاس میرے لیے بھلائی ہوگی، تو تمہاری اس خوشبو کے مقابلہ میں وہ کتنی زیادہ پاکیزہ ہے۔

6242 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن حرملة، عن ابن المسيب مثله

* * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ سعید بن مسیب سے منقول ہے۔

6243 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوري، عن بكير العامري قال: سمع سعيد بن جبير، رجلا يقول: استغفروا لها، فقال: لا غفر الله لك

* * بکیر عامری بیان کرتے ہیں: سعید بن جبیر نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا: تم لوگ اس (میت کے لیے) دعائے مغفرت کرو تو سعید نے کہا: اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت نہ کرے۔

6244 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني الحكم بن أبان، أنه سمع عكرمة، مولى ابن عباس يقول: توفى ابن لابي بكر كان يشرب الشراب، فقال أبو هريرة: استغفروا له فإننا نستغفر لمسيء مثله

* * حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے غلام عکرمہ بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہو گیا جو شراب پیا کرتا تھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم لوگ اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، کیونکہ اس جیسے گناہگار شخص کے لیے دعائے مغفرت کی جانی چاہیے۔

6245 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: أَخَذَ أَبُو جُحَيْفَةَ بِقَوَائِمِ سَرِيرِ عَمْرِو بْنِ شَرْحِبِيلٍ، فَمَا فَارَقَهُ حَتَّى آتَى الْقَبْرَ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي مَيْسِرَةَ
* * اسماعیل بن ابوالخالد بیان کرتے ہیں: ابو جحیفہ نے عمرو بن شرحبیل کی چار پائی کے پائے پکڑے اور ان سے اس وقت تک جدا نہیں ہوئے جب تک وہ قبر تک نہیں آگئے وہ یہی کہتے رہے: اے اللہ! تو ابو میسرہ کی مغفرت کر دے!

6246 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ أَبِي هَمَّامِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَسَنِ أَخَذَ بِقَوَائِمِ سَرِيرِ طَاوُسٍ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ ثِيَابِهِ شَقِيقَتْ عَلَيْهِ، وَسَقَطَتْ قَلَنْسُوتُهُ، فَمَا فَارَقَهُ حَتَّى آتَى الْقَبْرَ، قُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَ: بَيْنَ عَمُودَيْ النَّعْشِ، قُلْنَا: وَأَيْنَ مَاتَ طَاوُسٌ؟ قَالَ: بِمَكَّةَ

* * امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: میں نے اپنے والد ہمام بن نافع کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: میں نے عبداللہ بن حسن کو دیکھا کہ انہوں نے طاؤس کے پلنگ کے پائے پکڑے اور میں نے دیکھا کہ ان کے کچھ کپڑے پھٹ بھی گئے تھے اور ان کی ٹوپی نیچے بھی گر گئی تھی، لیکن وہ پھر بھی طاؤس کی میت سے الگ نہیں ہوئے یہاں تک کہ میت کو قبر تک پہنچا دیا گیا۔
راوی کہتے ہیں: میں نے امام عبدالرزاق سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ میت کی چار پائی کے عمودی حصہ کے درمیان تھے۔ ہم نے دریافت کیا: طاؤس کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ انہوں نے جواب دیا: مکہ میں۔

بَابُ الْمَشْيِ بِالْجِنَازَةِ

باب: جنازہ کے ساتھ چلنا

6247 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْرِعُوا بِجِنَائِكُمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً عَجَلْتُمْ بِهَا إِلَى الْخَيْرِ، وَإِنْ كَانَتْ
6247 - صحيح البخاری - كتاب الجنائز، باب السرعة بالجنائز - حدیث: 1265، صحيح مسلم - كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنائز - حدیث: 1619، صحيح ابن حبان - كتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما او مؤخرا، فصل في حمل الجنائز وقولها - ذكر الامر بالإسراع في السير بالجنائز لعله معلومة، حدیث: 3097، موطا مالك - كتاب الجنائز، باب جامع الجنائز - حدیث: 576، سنن ابی داود - كتاب الجنائز، باب الإسراع بالجنائز - حدیث: 2783، سنن ابن ماجه - كتاب الجنائز، باب ما جاء في شهود الجنائز - حدیث: 1472، السنن للنسائي - كتاب الجنائز، السرعة بالجنائز - حدیث: 1893، السنن الكبرى للنسائي - كتاب الجنائز، السرعة بالجنائز - حدیث: 2014، السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الجنائز، جماع ابواب المشي بالجنائز - باب الإسراع في المشي بالجنائز، حدیث: 6460، مسند احمد بن حنبل - مسند ابی هريرة رضي الله عنه - حدیث: 7108

طَالِحَةَ اسْتَرَحْتُمْ مِنْهَا وَوَضَعْتُمُوهَا عَنْ رِقَابِكُمْ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”جنازوں کو تیزی سے لے کے جاؤ، کیونکہ اگر وہ اچھا ہوگا، تو تم اُسے بھلائی تک جلدی پہنچا دو گے اور اگر وہ بُرا ہوگا، تو تم اُس سے نجات حاصل کر لو گے اور اپنی گردنوں سے اُسے اتار دو گے۔“

6248 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: اسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ، وَلَا

تَهَوِّدُوا تَهَوِّدَ أَهْلِ الْكِتَابِ

*** حسن بصری فرماتے ہیں: اپنے جنازوں کو جلدی لے کے جاؤ اور تم اہل کتاب کی طرح آرام آرام سے نہ چلو۔

6249 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ مَنصُورٍ، عَنِ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: اُنْبَسِدْ

بِالْجَنَائِزِ، وَلَا تَذُبُّوا دَيْبَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارِيِّ

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: یہ بات کہی جاتی ہے کہ جنازوں کو جلدی لے جاؤ یہود و نصاریٰ کی طرح تاخیر نہ کرو۔

6250 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ نُبَيْحٍ قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ

الْخُدْرِيُّ: مَا مِنْ جِنَازَةٍ إِلَّا تُنَاشِدُ حَمَلَتَهَا، إِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً وَاللَّهُ رَاضٍ عَنْهَا قَالَتْ: "أُنشِدُكُمْ بِاللَّهِ إِلَّا اسْرَعْتُمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً بِاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهَا سَاخِطٌ قَالَتْ: "أُنشِدُكُمْ بِاللَّهِ إِلَّا رَجَعْتُمْ بِي، فَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَهُوَ يَسْمَعُهُ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، فَلَوْ أَنَّ الْإِنْسَانَ سَمِعَهُ خَرَعَ وَجَزِعَ، الْخَرَعُ يَعْنِي الضَّعْفَ وَالْهَيْبَةَ"

*** حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہر جنازہ اپنے اٹھانے والوں کو مخاطب کر کے کچھ کہتا ہے، اگر وہ جنازہ

مؤمن ہو اور اللہ تعالیٰ اُس سے راضی ہو تو وہ میت یہ کہتی ہے: میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر یہ کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے جلدی لے جاؤ، اگر وہ میت اللہ تعالیٰ کا کفر کرنے والے کی ہو اور اللہ تعالیٰ اُس پر ناراض ہو تو وہ میت یہ کہتی ہے: میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے واپس لے جاؤ (اور انسانوں اور جنات کے) دو گروہوں کے علاوہ ہر مخلوق اُن کی بات سنتی ہے، اگر انسان اُس کو سن لے تو ہیبت زدہ ہو کر بے ہوش ہو جائے۔

لفظ ”خرع“ کا مطلب کمزور ہونا اور ہیبت زدہ ہونا ہے۔

6251 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ الْمَشْيُ بِالرَّجُلِ، اسْرِعْ بِهِ؟

قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَالْمَرْأَةُ؟ قَالَ: "تُسْرِعُ بِهَا أَيْضًا وَلَكِنْ أَدْنَى بِالْإِسْرَاعِ مِنَ الرَّجُلِ، إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هَيْبَةً لَيْسَتْ لِلرَّجُلِ، قِيلَ: فَمَا حَيَاكُنَّكُمْ أَوْ حَبَاتِكُمْ هَذِهِ؟" قَالَ: وَهُوَ

*** ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: مرد کے جنازہ کے ساتھ کیسے چلا جائے گا، کیا ہم اُسے

تیزی سے لے جائیں گے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: عورت کو؟ انہوں نے جواب دیا: تم اُسے بھی تیزی کے ساتھ لے کر جاؤ گے، لیکن مرد کے مقابلہ میں ذرا کم تیزی ہوگی، کیونکہ عورت کی حیثیت مرد کی طرح نہیں ہوتی۔

6252 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جریج قال: أخبرني عطاء قال: حضر نافع مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بسرف، فقال ابن عباس: هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أو قال: هذا زوج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رفعت نعشها فلا تزغزغوا، ولا تزلزلوا، وارفقوا، فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع فكان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة، قال عطاء: كانت التي لم يقسم لها صفيّة بنت حيي بن أخطب، قال ابن جریج: وأمرت عائشة بالإسراع بالجنائز

* * عطاء بیان کرتے ہیں: نافع، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ سیدہ ميمونة رضی اللہ عنہا کے جنازہ میں شریک ہوئے جو نبی اکرم ﷺ کی زوجہ محترمہ تھیں، یہ "سرف" کے مقام کی بات ہے تو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ نبی اکرم ﷺ کی زوجہ محترمہ تھیں، جب تم ان کی میت کو اٹھاؤ تو تم اسے ہلانا نہیں اور جھٹکانہ دینا، تم نرمی سے کام لینا، نبی اکرم ﷺ کی نوازاں جن میں سے آپ آٹھ کے لیے باری مقرر کرتے تھے اور ایک کے لیے باری مقرر نہیں کرتے تھے۔

عطاء بیان کرتے ہیں: جس خاتون کے لیے نبی اکرم ﷺ باری مقرر نہیں کرتے تھے وہ سیدہ صفيہ بنت حيي بن أخطب رضی اللہ عنہا تھیں۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے جنازہ کو تیزی سے لے جانے کی ہدایت کی تھی۔

6253 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جریج، عن أبي الزناد قال: شهدت جنازة مع عبد الله بن جعفر. فجلس في المقبرة، ثم جعل ينظر إلى الجنازة مقبلا وهم بطاء، فقال: "سبحان الله لما أحدث الناس في الجنائز، لقد كنت أسمع الرجل يذكر الرجل ويخوفه فيقول: اتق الله، ليوشكن أن يجمز بك، لا والله ما كان المشي بالجنائز إلا جمزا"

* * ابو زناد بیان کرتے ہیں: میں عبد اللہ بن جعفر کے ساتھ ایک جنازہ میں شریک ہوا، وہ قبرستان میں بیٹھ گئے پھر وہ جنازہ کو آتا ہوا دیکھتے رہے لیکن وہ بیٹھے رہے پھر انہوں نے کہا: سبحان اللہ! لوگوں نے جنازہ کے بارے میں کتنی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں پہلے میں ایک شخص کو سنتا تھا کہ وہ دوسرے شخص کو نصیحت دلا رہا ہوتا تھا اور خوف دلا رہا ہوتا تھا اور یہ کہتا تھا: تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو! غنیمت یہ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا اللہ کی قسم! اب جنازہ کے ساتھ چلنے والے صرف تیزی سے چلیں گے۔

6254 - حدیث نبوی: أخبرنا عبد الرزاق، عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند قال: حدثني محمد بن عمرو بن حنبله الدبلي، عن ابن لكعب بن مالك، عن أبي قتادة قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً فمرّ عليه بجنازة، فقال: مستريح، أو مستراح منه قال: قلنا: يا رسول الله، ما مستريح ومستراح منه؟ قال: العبد الصالح يستريح من نصب الدنيا وهيمها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والشجر والدواب

* * حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک دن ہم نبی اکرم ﷺ کے ساتھ تھے ایک جنازہ آپ کے پاس سے

گزارا تو آپ نے ارشاد فرمایا: یا تو یہ راحت حاصل کرنے والا ہے یا اس سے راحت حاصل کر لی گئی ہے۔ ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ! راحت حاصل کرنے والا اور جس سے راحت حاصل کر لی گئی ہے اس سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: نیک بندہ دنیا کی تنگی اور پریشانی سے راحت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے اور گناہگار بندہ سے دوسرے بندے درخت اور جانور راحت حاصل کر لیتے ہیں۔

6255 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: رُوحُ الْمَيِّتِ بِيَدِ الْمَلِكِ يَقُولُ: اسْمِعْ مَا يُشْنَى عَلَيْكَ حِينَ يُغَسَّلُ وَحِينَ يُحْمَلُ، فَإِذَا دُفِنَ كَلَّمَتْهُ الْأَرْضُ، وَقَالَتْ: أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَالْوَحْشَةِ وَالذُّودِ فَمَاذَا أَعَدَدْتَ لِي

* * * عبد الرحمن بن ابولیلی بیان کرتے ہیں: میت کی روح فرشتہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے جب میت کو غسل دیا جاتا ہے اور جب اسے اٹھایا جاتا ہے تو اس وقت فرشتہ کہتا ہے: تم سنو کہ تمہاری کیسی تعریف ہو رہی ہے؟ جب میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو زمین اس کے ساتھ بات چیت کرتی ہے اور یہ کہتی ہے: کیا تمہیں پتا نہیں تھا کہ میں تنہائی وحشت کا گھر ہوں تم نے میرے لیے کیا تیاری کی ہے؟

بَابُ كَسْرِ عَظْمِ الْمَيِّتِ

باب: میت کی ہڈی توڑ دینا

6256 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، أَحْيَى يَحْيَى، عَنْ عُمَرَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَسْرُ عِظَامِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِهَا حَيًّا

* * * سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: "میت کی ہڈی توڑنا زندہ شخص کی ہڈی توڑنے کی مانند ہے۔"

6257 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرَّجَالِ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَسْرُ عِظَامِ الْمَيِّتِ كَكْسْرِهَا حَيًّا قَالَ سُفْيَانُ: يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ إِثْمًا. أَخْبَرَنَا

* * * سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: "میت کی ہڈی توڑنا زندہ شخص کی ہڈی توڑنے کے مترادف ہے۔"

سفیان کہتے ہیں: علماء اس بات کے قائل ہیں: گناہ ہونے کے حوالے سے یہ برابر ہے۔

6258 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِثْلَهُ

سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِزَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ فِي جِنَازَةِ قَالَ: وَعَلِيٌّ آخِذٌ بِيَدِي وَنَحْنُ خَلْفُهَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا، فَقَالَ: إِنَّ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الَّذِي يَمْشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلَاةِ الْفَدَى، وَانَّهُمَا لَيَعْلَمَانِ مِنْ ذَلِكَ مَا أَعْلَمُ وَلَكِنَّهُمَا لَا يُحِبَّانِ أَنْ يَشُقَّ عَلَى النَّاسِ

* * سعید بن عبد الرحمن بن ابزوی اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جنازہ میں شرکت کی۔ راوی کہتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، ہم جنازہ کے پیچھے تھے جبکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما جنازہ کے آگے چل رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جنازہ کے پیچھے چلنے والے شخص کو جنازہ کے آگے چلنے والے شخص پر وہی فضیلت حاصل ہے جو باجماعت نماز ادا کرنے والے کو تنہا نماز ادا کرنے والے پر فضیلت حاصل ہے جو چیز مجھے پتا ہے یہ دونوں حضرات بھی اُس سے واقف ہیں، لیکن یہ دونوں اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ لوگوں کو مشقت کا شکار کریں۔

6264 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: مَشَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْ جِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ

* * عمرہ بنت عبد الرحمن بیان کرتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے جنازہ کے آگے چلے تھے۔

6265 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي مَاجِدِ الْحَنْفِيِّ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْنَا نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَشِيِّ مَعَ الْجَنَائِزِ فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ، وَلَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا

* * حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنازہ کے ساتھ چلنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: جنازہ متبوع ہوتا ہے وہ تابع نہیں ہوتا جو شخص اس کے آگے چلتا ہے وہ اس کے ساتھ شمار نہیں ہوتا۔

6266 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ

الْمَلَائِكَةَ تَمْشِي خَلْفَهَا قَالَ: وَحَدَّثْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَانَ يُنْهَى مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ أَنْ يَسْلُكَ عَنْ طَرِيقِهَا

* * حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: فرشتے جنازہ کے پیچھے چلتے ہیں۔

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات مجھے بتائی گئی ہے کہ جو شخص جنازہ میں شریک ہوتا ہے اُسے اس بات سے منع کیا جاتا تھا کہ وہ جنازہ کے راستہ سے ہٹ کر چلے۔

6267 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الْمُطَرِّحِ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ

زُحَيْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: جَاءَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ جَالِسٌ وَهُوَ مُحْتَبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: أبا حَسَنِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْمَشِيِّ أَمَامَ الْجِنَازَةِ إِذَا شَهِدْتُهَا أَيْ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَخْلَفَهَا أَمْ أَمَامَهَا؟ قَالَ: فَقَطَّبَ عَلِيُّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ أَمْثَلُكَ يَسْأَلُ عَنْ هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: نَعَمْ، وَاللَّهِ لِمِثْلِي يَسْأَلُ عَنْ مِثْلِ هَذَا، فَمَنْ يَسْأَلُ عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلَّا مِثْلِي؟ فَقَالَ عَلِيُّ: وَالَّذِي بَعَثَ

مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ إِنَّ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الْمَاشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى التَّطَوُّعِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: يَا أَبَا حَسَنِ، أِبْرَائِكَ تَقُولُ هَذَا أَمْ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا سَعِيدٍ أَمْثِلْ هَذَا أَقْوَلُهُ بِرَأْيِي، لَا وَاللَّهِ بَلْ سَمِعْتَهُ مِرَارًا يَقُولُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا اثْنَتَيْنِ وَلَا ثَلَاثَةٍ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَوَاللَّهِ مَا جَلَسْتُ جَالِسًا مُنْذُ شَهِدْتُ جِنَازَةَ إِلَّا لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَشَهِدَهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَجَمِيعُ الصَّحَابَةِ، فَنَظَرْتُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا، قَالَ فَضَحِكَ عَلِيٌّ وَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُمَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: نَعَمْ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ حَدَّثَنِي بِهِنَّ غَيْرُكَ مَا صَدَّقْتُهُ، وَلَكِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ الْكُذِبَ لَيْسَ مِنْ شَأْنِكَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمَا، إِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، ثُمَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ أَيْنَ هُوَ، وَلَكِنْ كُنْتُ رَأَيْتَهُمَا يَفْعَلَانِ ذَلِكَ فَإِنَّهُمَا لَيَعْلَمَانِ أَنَّ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الْمَاشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى صَلَاةِ التَّطَوُّعِ، كَمَا يَعْلَمَانِ أَنَّ دُونََ غَدِ لَيْلَةٍ، وَلَقَدْ سَمِعَا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَمِعْتُ، وَلَكِنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَجْتَمَعَ النَّاسُ وَيَتَصَايِقُوا فَاحْتَبَا أَنْ يَتَقَدَّمَا وَأَنْ يُسَهَّلَا، وَقَدْ عَلِمَا أَنَّهُ يُقْتَدَى بِهِمَا، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَقَدَّمَا، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَا أَبَا حَسَنِ: أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ الْجِنَازَةَ أَحْمَلُهَا وَاجِبٌ عَلَيَّ مِنْ شَهِدْتَهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ، فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ الْجِنَازَةَ فَقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَيْكَ، وَاجْعَلْهَا نُصْبًا بَيْنَ عَيْنَيْكَ فَإِنَّمَا هِيَ مَوْعِظَةٌ وَتَذَكُّرَةٌ وَعِبْرَةٌ، فَإِنْ بَدَأَ لَكَ أَنْ تَحْمِلَهُ فَانْظُرْ إِلَى مُقَدِّمِ السَّرِيرِ فَانْظُرْ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ فَاجْعَلْهُ عَلَى مَنْكِبِكَ الْأَيْمَنِ، فَإِذَا جِئْتَ الْمَقْبَرَةَ فَصَلِّتْ عَلَيْهَا فَلَا تَجْلِسْ، وَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ، فَإِنَّكَ تَرَى أَمْرًا عَظِيمًا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَخُوكَ أَخُوكَ، كَانَ يُنَافِسُكَ فِي الدُّنْيَا وَيُشَاحِكُ فِيهَا، تَصَاقِبُ بِهِ سَهْوَةً الْأَرْضِ قُصُورًا، فَإِذَا هُوَ يَدْخُلُ فِي جَوْفِ قَبْرِ مَنْحَرِفًا عَلَى جَنْبِهِ، فَإِنْ لَمْ يَدْعُوكَ فَلَا تَدْعُ أَنْ تَقُومَ حَتَّى يُدَلِّيَ فِي حُفْرَتِهِ، وَإِنْ قَاتَلُوكَ قِتَالًا

* * حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جو اس وقت احتباء کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے انہیں سلام کیا انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو جواب دیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا: اے ابوالحسن! آپ مجھے جنازہ کے آگے چلنے کے بارے میں بتائیے! اب میں جنازہ کے ساتھ شریک ہوتا ہوں تو اس میں کیا افضل ہے پیچھے چلنا یا آگے چلنا؟ راوی کہتے ہیں: تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی دونوں آنکھوں کو بند کیا پھر فرمایا: سبحان اللہ! کیا آپ جیسا شخص اس مسئلہ کے بارے میں دریافت کر رہا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: جی ہاں! اللہ کی قسم! میرے جیسا شخص اس مسئلہ کے بارے میں دریافت کر رہا ہے اس مسئلہ کے بارے میں میرے جیسا کوئی شخص ہی سوال کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا: اُس ذات کی قسم! جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ہمراہ مبعوث کیا ہے! جنازہ کے پیچھے چلنے والے شخص کو جنازہ کے آگے چلنے والے شخص پر وہی فضیلت حاصل

ہے جو فرض نماز کو نفل نماز پر حاصل ہے۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے اُن سے کہا: اے ابوالحسن! کیا یہ بات آپ اپنی رائے سے ارشاد فرما رہے ہیں؟ یا آپ نے اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی کوئی بات سنی ہے؟ راوی کہتے ہیں: تو حضرت علی رضی اللہ عنہ غصہ میں آئے اور انہوں نے کہا: سبحان اللہ! اے ابوسعید! کیا میں اس طرح کی بات اپنی رائے سے بیان کروں گا؟ جی نہیں! اللہ کی قسم! میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سات مرتبہ گنویا۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اُس اللہ کی قسم! میں جب سے جنازہ میں شریک ہوا ہوں، اُس کے بعد میں نہیں بیٹھا، ایک انصاری کا جنازہ تھا، اُس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ شریک ہوئے، میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ جنازہ کے آگے چل رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں: تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بس پڑے، انہوں نے فرمایا: کیا آپ نے اُن دونوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا؟ تو حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: جی ہاں! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر آپ کے علاوہ کسی اور نے مجھے یہ بات بتائی ہوتی تو میں اُس کی تصدیق نہ کرتا، لیکن مجھے اس بات کا پتا ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ ان دونوں صاحبان کی مغفرت کرے! اس اُمت میں سب سے بہتر حضرت ابوبکر بن ابوقحافہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں، پھر اللہ تعالیٰ بھلائی کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے، لیکن اگر آپ نے خود ان دونوں حضرات کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ دونوں حضرات بھی جانتے ہوں گے کہ جنازہ کے پیچھے چلنے والے شخص کو جنازہ کے آگے چلنے والے شخص پر وہی فضیلت حاصل ہے، جو فرض نماز کو نفل نماز پر حاصل ہوتی ہے اور یہ لوگ اس بات کو اسی طرح جانتے ہیں، جس طرح اس بات کا علم ہوتا ہے کہ کل سے پہلے رات آئے گی اور ان دونوں نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اسی طرح سنی ہوگی، جس طرح میں نے سنی ہے، لیکن ان دونوں حضرات نے اس بات کو ناپسند کیا کہ لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تنگی ہو جائے، تو ان دونوں نے یہ سمجھا کہ یہ دونوں آگے چلیں اور سہولت رہے، یہ دونوں جانتے تھے کہ ان کی پیروی کی جاتی ہے، اس لیے یہ دونوں آگے چلے تھے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا: اے ابوالحسن! اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ اگر میں کسی جنازہ میں شریک ہوتا ہوں تو جو شخص جنازہ میں شریک ہوتا ہے، کیا اُس کے لیے میت کو کندھا دینا واجب ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: جی نہیں! لیکن یہ زیادہ بہتر ہے، جو شخص چاہے وہ اختیار کر لے اور جو شخص چاہے وہ ترک کر دے، جب آپ جنازہ میں شریک ہوتے ہیں، تو آپ اُسے اپنے سامنے رکھیں اور اپنی نگاہیں اُس پر جما کر رکھیں، کیونکہ یہ چیز وعظ و نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور عبرت حاصل کرنے کے لیے مناسب ہے، اگر آپ کو مناسب لگتا ہے کہ آپ اسے کندھا دیں تو پھر آپ چارپائی کے آگے والے حصہ کا جائزہ لیں اور اُس میں بائیں طرف کو دیکھیں، اُس جگہ کو اپنے دائیں کندھے پر رکھیں، جب آپ قبرستان آ جائیں، تو میت کی نماز جنازہ ادا کریں اور وہاں بیٹھیں نہیں، آپ قبر پر کھڑے رہیں، کیونکہ آپ ایک عظیم بات دیکھیں گے، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا ہے:

”تمہارا بھائی، تمہارا بھائی جو دنیا میں تمہارے ساتھ رہا کرتا تھا اور دنیا میں تمہارے پاس ہوا کرتا تھا، اس کے لیے

زمین کی نرمی تنگ ہو رہی ہے اور یہ قبر میں داخل ہو رہا ہے اگر یہ تمہیں نہیں بلاتا تو تم اس چیز کو ترک نہ کرو کہ اس کے قبر میں اتارے جانے تک تم کھڑے رہو خواہ لوگ تمہارے ساتھ لڑائی ہی کیوں نہ کریں۔“

بَابُ فَضْلِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

باب: جنازہ کے ساتھ جانے کی فضیلت

6268 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ جِنَازَةً فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ، وَمَنْ انْتظرَهَا حَتَّى تُوَضَعَ فِي اللَّحْدِ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ

* * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”جو شخص نماز جنازہ ادا کرتا ہے اُسے اجر کا ایک قیراط ملتا ہے اور جو شخص (نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد) اس کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میت کو لحد میں اتار دیا جائے تو اُسے دو قیراط ملتے ہیں۔“

عرض کی گئی دو قیراط سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو بڑے پہاڑ جتنا (اجر و ثواب)۔

6269 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ انْتظرَهَا حَتَّى يُقْضَى قِضَاؤُهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أَحَدٍ

* * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”جو شخص جنازہ کے ساتھ جاتا ہے اور اُس کی نماز جنازہ ادا کرتا ہے اُسے ایک قیراط ملتا ہے اور جو شخص انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اُس کے (کفن دفن سے) فارغ ہوا جائے تو اُسے دو قیراط ملتے ہیں جن میں سے چھوٹا قیراط اُحد پہاڑ جتنا ہوتا ہے۔“

6270 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِأَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَإِنْ شَهِدَ دَفَنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَعْظَمُ مِنْ أَحَدٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بَعْضُ حَدِيثِكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَقَامَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَخَذَ بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى انْطَلَقَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ لَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ: أُنشِدُكَ بِاللَّهِ، أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَإِنْ شَهِدَ دَفَنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ وَالْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أَحَدٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: اللَّيْمُ نَعَمْ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْغَلُنِي غَرَسُ الْوَدِيِّ وَلَا صَفْقُ بِالْأَسْوَاقِ، إِنَّمَا كُنْتُ أَطْلُبُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْلَةً يُطْعَمُ بِهَا أَوْ كَلِمَةً يُعَلِّمُ بِهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْتَ الزَّمَانَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْلَمْنَا بِحَدِيثِهِ

*** ولید بن عبدالرحمن جرحی بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”جو شخص جنازہ کے ساتھ جاتا ہے اور اُس کی نماز جنازہ ادا کرتا ہے اُسے ایک قیراط ملتا ہے اور اگر وہ میت کے دفن میں بھی شریک ہو تو اُسے دو قیراط ملتے ہیں جو اُحد پہاڑ سے بڑے ہوتے ہیں۔“

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اے ابو ہریرہ! آپ کی حدیث کا کچھ حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے منقول ہے۔ راوی کہتے ہیں: تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ہاتھ پکڑا اور انہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی: میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر یہ کہتا ہوں کہ کیا آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

”جو شخص جنازہ کے ساتھ جاتا ہے اور اُس کی نماز جنازہ ادا کرتا ہے اُسے ایک قیراط ملتا ہے اور اگر وہ اُس کے دفن میں بھی شریک ہو تو اُسے دو قیراط ملتے ہیں اور ایک قیراط اُحد پہاڑ سے بڑا ہوتا ہے۔“

تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اللہ جانتا ہے کہ ایسا ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے (حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے) فرمایا: میں کھیتی باڑی اور بازاروں میں بھاؤ تاؤ کرنے میں مصروف نہیں رہا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کی کسی چیز کا طلبگار ہوتا تھا جو آپ مجھے کھلا دیتے تھے یا کسی بات کا طلبگار ہوتا تھا جو آپ مجھے تعلیم دے دیتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا: اے حضرت ابو ہریرہ! آپ ہم سب سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں ہم سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔

6271 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جَبْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ جِنَازَةً وَتَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يَتَّبِعْ فَلَهُ قِيرَاطٌ مِثْلُ أُحُدٍ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

”جو شخص نماز جنازہ ادا کرتا ہے اور جنازہ کے ساتھ رہتا ہے اُسے اجر کے دو قیراط ملتے ہیں جو اُحد پہاڑ جتنے ہوتے ہیں اور جو شخص صرف نماز جنازہ ادا کرتا ہے اور (دفن تک ساتھ نہیں رہتا) تو اُسے ایک قیراط ملتا ہے جو اُحد پہاڑ جتنا ہوتا تھا۔“

6272 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنِ أَبِيهِ قَالَ: رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلًا انْصَرَفَ حِينَ صَلَّى عَلَيَّ الْجِنَازَةَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: انْصَرَفَ هَذَا بِقِيرَاطٍ مِنَ الْأَجْرِ

* * طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد واپس چلا گیا تو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ شخص اجر کا ایک قیراط لے کر واپس چلا گیا ہے۔

6273 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: اتَّبَعَ عَطَاءٌ جِنَازَةَ فَصَلَّى عِنْدَ دَارِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَاذَا لِي مِنَ الْاَجْرِ قَالَ: بِقَدْرِ مَا اتَّبَعْتُ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء ایک جنازہ کے ساتھ گئے انہوں نے عبد العزیز کے گھر کے پاس نماز جنازہ ادا کی ایک شخص نے ان سے کہا: مجھے اس کا کتنا اجر ملے گا؟ تو انہوں نے فرمایا: جتنی دیر تم اس کے ساتھ رہو گے۔

6274 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ: سُئِلَ مُجَاهِدٌ: صَلَاةُ التَّطَوُّعِ أَفْضَلُ أَمْ اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ؟ قَالَ: بَلِ اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ

* * عثمان بن اسود بیان کرتے ہیں: مجاہد سے سوال کیا گیا: نفل نماز ادا کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ یا جنازہ کے ساتھ جانا؟ انہوں نے جواب دیا: جنازہ کے ساتھ جانا۔

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ

باب: وضو کے بغیر نماز جنازہ ادا کرنا

6275 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ أَيَحْمِلُهَا غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِرًا، وَلَكِنْ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا مُتَوَضِّئًا، وَلَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْحَائِضُ، هُوَ الْقَائِلُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الذَّهَابُ إِلَى الْمَنَاسِكِ وَالذَّفْعَتَيْنِ بَوُضُوءٍ؟ قَالَ: وَبِغَيْرِ وُضُوءٍ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: ایک شخص جنازہ کے ساتھ جاتا ہے تو کیا وہ بے وضو حالت میں جنازہ کو کندھا دے سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! البتہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ بات ہے کہ وہ با وضو حالت میں ہو البتہ وہ نماز جنازہ صرف با وضو حالت میں ہی ادا کر سکتا ہے، حیض والی عورت نماز جنازہ ادا نہیں کر سکتی۔ ابن جریج کہتے ہیں: میں نے ان سے دریافت کیا: مناسک کی ادائیگی کے لیے جانے یا دونوں مواقع کی روانگی کے لیے وضو شرط ہے؟ انہوں نے جواب دیا: یہ بغیر وضو بھی ہو سکتے ہیں۔

6276 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ غَيْرِ مُتَوَضِّئٍ، فَإِنْ فَعَلَ آعَادَ الصَّلَاةَ مَا لَمْ يُدْفِنِ الْمَيِّتَ، فَإِذَا دُفِنَ فَقَدْ مَضَتْ صَلَاتُهُ

* * زہری فرماتے ہیں: بے وضو حالت میں نماز جنازہ ادا نہیں کی جاسکتی، اگر کوئی شخص ایسا کر لیتا ہے تو اگر میت دفن نہیں کیا گیا تو نماز جنازہ کو دہرائے گا اور اگر دفن کر دیا گیا تو اس کی نماز رخصت ہوگی۔

6277 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ غَيْرِ مُتَوَضِّئٍ، فَإِنْ جَاءَتْهُ جِنَازَةٌ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَخَافَ الْفَوْتَ تَيَّمَّمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَبِهِ نَأْخُذُ
* * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: بے وضو حالت میں نماز جنازہ ادا نہیں کی جاسکتی، اگر جنازہ آجائے اور آدمی بے وضو ہو اور اسے جنازہ کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو تو وہ تہتم کر کے اس کی نماز جنازہ ادا کر لے گا۔

(امام عبدالرزاق کہتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔)

6278 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا حَضَرَ الْجِنَازَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيَتَيَّمَّمْ، وَبِهِ نَأْخُذُ
* * امام شعبی بیان کرتے ہیں: جب کوئی شخص بے وضو حالت میں جنازہ کے پاس آئے (یعنی نماز جنازہ ہونے لگی ہو) تو وہ شخص تہتم کر لے۔

(امام عبدالرزاق کہتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔)

6279 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنْ رَجُلٍ، أَخْبَرَهُ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى جِنَازَةٍ فَجَعَلَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَحَشَمَهُ بِالْوُضُوءِ، فَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: مَا هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ: بَلَّغَنِي فِيمَا أَحْسَبُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: يَتَوَضَّأُ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ قَالَ أَبُو قِلَابَةَ رَفَعَتْ إِلَيْكَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا، إِنَّمَا مَرَّ بِجِنَازَةٍ وَالنَّاسُ فِي أَسْوَاقِهِمْ فَجَعَلُوا يَتَّبِعُونَ الْجِنَازَةَ هَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلْيَتَوَضَّأْ أَيْ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا مُتَوَضِّئًا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لِمِثْلِ هَذَا كُنْتُ أَحَبُّ قُرْبِكَ مِنِّي

* * معمر نے ایک شخص کے حوالے سے دوسرے شخص کا یہ بیان نقل کیا ہے: عمر بن عبدالعزیز نے نماز جنازہ پڑھائی پھر انہوں نے اپنے اہل خانہ کو اور اپنے خادموں کو وضو کرنے کا حکم دیا۔ ابو قلابہ نے دریافت کیا: امیر المؤمنین! یہ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے جو میرے خیال میں نبی اکرم ﷺ کے حوالے سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: جو شخص نماز جنازہ ادا کر لے وہ بعد میں وضو کرے۔

ابو قلابہ نے کہا: یہ آپ تک مختلف طور پر پہنچی ہے، اصل میں ایک مرتبہ جنازہ گزرا تھا، لوگ اس وقت بازاروں میں مصروف تھے تو لوگ اسی حالت میں جنازہ کے ساتھ جانے لگے تو نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص نماز جنازہ ادا کرنا چاہتا ہے وہ وضو کر لے، یعنی صرف با وضو حالت میں ہی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ اس پر عمر بن عبدالعزیز نے کہا: اس (یعنی ابو قلابہ) جیسے لوگوں کے بارے میں مجھ یہ بات پسند ہے کہ یہ میرے قریب رہیں۔

6280 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ إِنْ فَاجَأَتْكَ جِنَازَةٌ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَصَلِّ عَلَيْهَا

* * امام شعبی بیان کرتے ہیں: اگر اچانک جنازہ سامنے آجائے اور تم اس وقت بے وضو ہو تو تم نماز جنازہ ادا کر لو۔

بَابُ خَفْضِ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجِنَازَةِ

باب: جنازہ کے ساتھ آواز پست رکھنا

6281 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَدْرَكْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُّونَ خَفْضَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجِنَازِ، وَعِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَعِنْدَ الْقِتَالِ وَبِهِ نَأْخُذُ * * حسن بصری فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم ﷺ کے اصحاب کو پایا ہے کہ وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جنازہ کے ساتھ قرآن کی تلاوت کے وقت اور جنگ کے وقت آواز کو پست رکھا جائے۔

(امام عبدالرزاق کہتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔)

6282 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَبَعَ الْجِنَازَةَ أَكْثَرَ الشَّكَاةِ، وَأَكْثَرَ حَدِيثٍ نَفْسِهِ

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی اکرم ﷺ جب کسی جنازہ کے ساتھ شریک ہوتے تھے تو زیادہ تر خاموش رہتے تھے اور زیادہ تر اپنے خیالوں میں گم رہتے تھے۔

6283 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْفَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا إِذَا شَهِدُوا الْجِنَازَةَ عَرَفَ ذَلِكَ فِيهِمْ ثَلَاثًا

* * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: پہلے لوگ جب جنازہ میں شریک ہوتے تھے تو ان میں تین چیزیں پہچانی جاتی تھیں۔

بَابُ الرُّكُوبِ مَعَ الْجِنَازَةِ

باب: جنازہ کے ساتھ سوار ہو کر جانا

6284 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: "مَا رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ جِنَازَةٍ قَطًّا، قَالَ: وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ

* * زہری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کبھی بھی کسی جنازہ کے ساتھ سوار ہو کر نہیں گئے۔ راوی کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا: حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کبھی بھی (سوار ہو کر) نہیں گئے۔

6285 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: "صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ الدَّخْدَاحِ قَالَ: فَلَمَّا فَرَّغَ مِنَ الْجِنَازَةِ أَتَى بِفَرَسٍ فَعَقَلَهُ رَجُلٌ وَالْفَرَسُ عُرَى فَرَكِبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ، وَنَحْنُ نَسْعَى حَوْلَهُ"

*** حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن دحاح کی نماز جنازہ ادا کی جب آپ جنازہ سے فارغ ہوئے تو ایک گھوڑا لایا گیا جسے ایک شخص نے باندھا ہوا تھا، اُس گھوڑے کی پشت پر کوئی چیز نہیں تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اُس پر سوار ہو گئے اور آپ اُسے مناسب رفتار سے لے کر روانہ ہوئے، ہم آپ کے ساتھ دوڑتے ہوئے گئے۔

6286 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ اَنْ يَمْرَ

الرَّايِبُ بَيْنَ يَدَيِ الْجَنَازَةِ

*** ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: پہلے لوگ اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ کوئی سوار شخص جنازہ کے آگے سے گزرے۔

6287 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ فَضِيلٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ: اَكَانُوا

يَكْرَهُونَ الْمَشِيَ اَمَامَ الْجَنَازَةِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ السِّيْرَ اَمَامَهَا، يَعْنِي الرَّايِبَ، قَالَ اِبْرَاهِيمُ: وَرَأَيْتُ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدَ يَمْشِيَانِ اَمَامَهَا، وَقَالَ ابْنُ اَبِي اَوْفَى لِقَائِدِهِ لَا تُقَدِّمْنِي اَمَامَهَا

*** ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: میں نے علقمہ سے سوال کیا: کیا پہلے لوگ اس بات کو مکروہ سمجھتے تھے کہ جنازہ کے

آگے چلا جائے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! تاہم پہلے لوگ سوار ہو کر جنازہ کے آگے چلنے کو مکروہ سمجھتے تھے۔ ابراہیم کہتے ہیں: میں نے علقمہ اور اسود کو دیکھا کہ وہ جنازہ کے آگے پیدل چلا کرتے تھے اور ابن ابواوفی اپنے ساتھ لے جانے والے کو کہا کرتے تھے: تم مجھے اس کے آگے لے کر نہ چلو۔

بَابُ مَنَعَ النِّسَاءِ اِتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ

باب: خواتین کا جنازہ کے ساتھ جانے کا مکروہ ہونا

6288 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: نَهَيْتُنَا عَنِ

اِتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا

*** سیدہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: ہمیں (یعنی خواتین) کو جنازہ کے ساتھ جانے کو منع کیا گیا، لیکن اس بارے میں ہم پر شدت نہیں کی گئی۔

6289 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ اَبِي اُمِيَّةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

لَوْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاى النِّسَاءَ الْيَوْمَ نَهَاھُنَّ عَنِ الْخُرُوْجِ اَوْ حَرَّمَ عَلَيھُنَّ الْخُرُوْجَ *** سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کی خواتین کو دیکھ لیتے تو انہیں گھر سے نکلنے سے منع کر دیتے۔ (راوی کوشک ہے، شاید یہ الفاظ ہیں: اُن کے لیے باہر نکلنا حرام قرار دے دیتے۔)

6290 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ اَبِيہِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَتَّبِعُ جِنَازَةً، فَاِذَا بِاَمْرَاةٍ عَجُوْزٍ تَتَّبِعُھَا، فَغَضِبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي

وَجِهِهِ، فَأَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ، ثُمَّ وَضَعَ السَّرِيرَ، فَلَمْ يُكَبِّرْ عَلَيْهَا حَتَّى قَالُوا: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ تَوَارَتْ
بِأَخْصَاصِ الْمَدِينَةِ قَالَ: ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا

* * * عمر بن ذراپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ ایک جنازہ کے ساتھ جا رہے تھے وہاں ایک بوڑھی عورت بھی جنازہ کے ساتھ آ رہی تھی تو نبی اکرم ﷺ غصہ میں آ گئے یہاں تک کہ غصہ کے آثار آپ کے چہرے پر محسوس ہوئے آپ کے حکم کے تحت اس خاتون کو واپس کر دیا گیا پھر نبی اکرم ﷺ نے وہ چار پائی رکھوائی تو نبی اکرم ﷺ نے اس وقت تک نماز جنازہ کی تکبیر نہیں کہی جب تک لوگوں نے یہ عرض نہیں کر دی کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ہمراہ مبعوث کیا ہے! وہ عورت مدینہ منورہ کی آبادی کے پیچھے چھپ گئی ہے! راوی کہتے ہیں: تو پھر نبی اکرم ﷺ نے اس میت کی نماز جنازہ کی تکبیر کہی۔

6291 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْوَادِعِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَرَأَى امْرَأَةً فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى لَمْ يَرَهَا ثُمَّ كَبَّرَ

* * * ابو عطیہ وادعی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ ایک جنازہ میں تشریف لے گئے تو آپ نے ایک خاتون کو دیکھا آپ کے حکم کے تحت اس خاتون کو واپس کر دیا گیا یہاں تک کہ جب وہ خاتون نظر سے اوجھل ہو گئی تو نبی اکرم ﷺ نے تکبیر کہی۔

6292 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: تَبَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِنَازَةَ فَرَأَى امْرَأَةً عَلَى آثَرِهَا فَأَمَرَ بِالْجِنَازَةِ فَحَبَسَتْ، وَبَعَثَ رَجُلًا فَرَدَّ الْمَرْأَةَ حَتَّى إِذَا وَارَى بِهَا الْبُيُوتَ مَشَا بِهَا

* * * مجاہد بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ ایک جنازہ کے ساتھ جا رہے تھے آپ ﷺ نے ایک خاتون کو جنازہ کے پیچھے آتے ہوئے دیکھا تو آپ کے حکم کے تحت جنازہ کو وہیں روک لیا گیا۔ نبی اکرم ﷺ نے ایک شخص کو بھیجا اس نے اس عورت کو واپس کیا جہاں تک جب وہ عورت گھروں کے پیچھے چھپ گئی تو وہ لوگ (جنازہ کو لے کر آ گئے) گئے۔

6293 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَقْفُلُونَ عَلَى النِّسَاءِ الْأَبْوَابَ حَتَّى يُخْرِجَ الرِّجَالَ الْجِنَائِزَ

* * * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: خواتین جنازہ کے ساتھ صرف دروازہ تک آتی ہیں یہاں تک کہ مرد جنازہ کو (گھر سے) باہر لے جاتے ہیں۔

6294 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ: لِلنِّسَاءِ فِي الْجِنَازَةِ نَصِيبٌ

* * * عمرو بن یحییٰ فرماتے ہیں: خواتین کے لیے جنازہ میں شریک ہونے کا حصہ ہے۔

6295 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: "خُرُوجُ النِّسَاءِ عَلَى الْجِنَائِزِ؟" قَالَ: يَفْتِنَنَّ

* * ابن جریج کہتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا خواتین جنازہ کے ساتھ جاسکتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا: وہ آزمائش کا شکار ہو جائیں گی۔

6296 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَبَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: خُرُوجُ النِّسَاءِ عَلَى الْجَنَائِزِ بَدْعٌ

* * امام شععی فرماتے ہیں: خواتین کا جنازہ کے ساتھ جانا بدعت ہے۔

6297 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَلِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سُئِلَ: "أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ عَلَى الْجَنَائِزِ؟" قَالَ: لَا تُصَلِّي عَلَيْهَا طَوَاهِرًا وَلَا حَائِضًا

* * امام شععی کے بارے میں یہ بات منقول ہے، ان سے دریافت کیا گیا: کیا عورت نماز جنازہ ادا کرے گی؟ انہوں نے جواب دیا: عورت نماز جنازہ ادا نہیں کرے گی، خواہ وہ پاک ہو یا حیض کی حالت میں ہو۔

6298 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُورِقِ الْعَجَلِيِّ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَرَأَى النِّسَاءَ فَقَالَ: أَتَحْمِلْنَهُ فِيمَنْ يَحْمِلُهُ؟ قُلْنَ: لَا قَالَ: أَتَدْخُلْنَهُ فِيمَنْ يَدْخُلُهُ؟ قُلْنَ: لَا قَالَ: أَتُحْتَبِنَ التُّرَابَ فِيمَنْ يَحْتَبُو؟ قُلْنَ: لَا قَالَ: فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ، غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ

* * مورق عجلی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ ایک جنازہ میں تشریف لائے، تو آپ نے کچھ خواتین کو دیکھا تو دریافت کیا: کیا تم اسے کندھا دو گی؟ ان لوگوں کے ساتھ جو اسے کندھا دے رہے ہیں، ان خواتین نے جواب دیا: جی نہیں! نبی اکرم ﷺ نے دریافت کیا: جو لوگ اس میت کو قبر میں اتاریں گے، کیا تم ان کے ساتھ اسے اندر اتارو گی؟ ان خواتین نے جواب دیا: جی نہیں! نبی اکرم ﷺ نے دریافت کیا: جو لوگ اس پر مٹی ڈالیں گے، کیا تم بھی ان کے ساتھ مٹی ڈالو گی؟ ان خواتین نے عرض کی: جی نہیں! نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: پھر تم گناہگار ہو کر واپس جاؤ، اجر یافتہ ہو کر نہ جاؤ۔

6299 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، أَنَّ عُمَرَ، رَأَى نِسَاءً مَعَ جَنَازَةٍ، فَقَالَ: ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ، فَوَاللَّهِ مَا تَحْمِلْنَ وَلَا تَدْفِنْنَ، يَا مُؤَذِيَاتِ الْأَمْوَاتِ وَمُفْتِنَاتِ الْأَحْيَاءِ

* * معمر بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ خواتین کو جنازہ کے ساتھ دیکھا تو فرمایا: تم گناہگار ہو کر واپس جاؤ، اجر یافتہ ہو کر نہ جاؤ، اللہ کی قسم! نہ تو تم نے اسے کندھا دینا ہے، نہ دفن کرنا ہے، اے مرنے والوں کو اذیت دینے والیو! اور زندہ لوگوں کو آزمائش کا شکار کرنے والیو!

6300 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَبِي فِي وَجُوهِنَّ التُّرَابَ، فَإِنْ مَضَيْنَ رَجَعَّ

* * مسروق کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ ایسی خواتین پر مٹی پھینکتے تھے اور جب وہ خواتین واپس چلی جاتی تھیں، تو پھر وہ واپس آتے تھے (یا مٹی پھینکنا بند کرتے تھے)۔

6301 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَ: الْحَسَنُ لَا تَدْعُ حَقًّا

لِبَاطِلٍ

* * * خالد بن دینار بیان کرتے ہیں: حسن فرماتے ہیں: تم کسی باطل کی وجہ سے حق کو نہ چھوڑو۔

6302 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي

جِنَازَةٍ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمَقْبَرَةَ سَمِعَ نَائِحَةً، أَوْ رَأَيْتُهَا، فَقَالَ لَهَا شَرًّا، وَقَالَ لِمُجَاهِدٍ: إِنَّكَ خَرَجْتَ تَرِيدُ الْأَجْرَ، وَإِنَّ هَذِهِ تُرِيدُ بِكَ الْوِزْرَ، إِنَّا نُهِنَا أَنْ نَتَّبِعَ جِنَازَةَ مَعَهَا رَأَيْتُهَا قَالَ: فَرَجَعُ وَرَجَعْتُ مَعَهُ

* * * مجاہد فرماتے ہیں: میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک جنازہ میں شریک ہوا جب وہ قبرستان پہنچے تو

انہوں نے ایک نوحہ کرنے والی عورت کی آواز سنی تو انہوں نے اس عورت کی طرف رخ کر کے بڑے کلمات کہے پھر انہوں نے مجاہد سے کہا: تم اجر کے حصول کے لیے نکلے تھے اور یہ عورت تمہارے لیے گناہ دلوانا چاہتی ہے ہمیں اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ ایسے جنازہ کے ساتھ جائیں جس کے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی عورت ہو۔ راوی کہتے ہیں: تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما واپس چلے گئے اور میں بھی ان کے ساتھ واپس آ گیا۔

6303 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،

وَمُجَاهِدٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، تَبِعَ جِنَازَةَ فَرَأَى نِسَاءً يَتَّبِعْنَهَا وَيَصْرُخْنَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ وَقَالَ: أَلَيْسَ لَكُنَّ، أَدَى عَلَى الْمَيِّتِ، وَفِتْنَةٌ عَلَى الْحَيِّ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

* * * سعید بن جبیر اور مجاہد بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک جنازہ کے ساتھ گئے انہوں نے جنازہ کے

ساتھ کچھ خواتین کو ساتھ آتے ہوئے اور چیخ و پکار کرتے ہوئے دیکھا تو ان کی طرف رخ کر کے فرمایا: تم پر افسوس ہے! تم میت کو اذیت پہنچا رہی ہو اور زندہ لوگوں کو آزمائش کا شکار کر رہی ہو۔ انہوں نے تین مرتبہ یہ کلمات کہے۔

6304 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَاتَتْ بِنْتُ لَوْهَبٍ، فَلَمَّا خَرَجَ الرَّجَالُ أَغْلَقَ الْبَابَ،

وَلَمْ يَدْعِ النِّسَاءَ يَتَّبِعْنَهَا

* * * امام عبدالرزاق اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: وہب کی صاحبزادی کا انتقال ہو گیا جب مرد باہر آئے تو

انہوں نے دروازہ بند کروایا اور خواتین کو ساتھ نہیں آنے دیا۔

بَابُ الْقِيَامِ حِينَ تَرَى الْجِنَازَةَ

باب: جنازہ کو دیکھ کر کھڑا ہونا

6305 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرُ

بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً، فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ أَوْ تُوَضَّعَ

*** حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”جب کوئی شخص جنازہ دیکھے تو وہ کھڑا ہو جائے جب تک وہ جنازہ آگے نہیں چلا جاتا یا اسے زمین پر نہیں رکھ دیا جاتا۔“

6306 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمُ،

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بات نقل کی ہے: حضرت عامر بن ربیعہ عدوی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

”جب تم کوئی جنازہ دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ جب تک وہ آگے نہیں نزر جاتا۔“

6307 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنِ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ،

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔

6308 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يُخْبِرُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔

6309 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لَجِنَازَةٍ يَهُودِيٍّ حَتَّى تَوَارَتْ

6305- صحیح البخاری - کتاب الجنائز باب القيام للجنائز - حدیث: 1258 صحیح ابن حبان - کتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما او مؤخرًا فصل في القيام للجنائز * ذكر البيان بان الامر بانها امر المرء به الى ان تخلفنا حدیث: 3106 صحیح مسلم - کتاب الجنائز باب القيام للجنائز - حدیث: 1641 سنن ابی داود - کتاب الجنائز باب القيام للجنائز - حدیث: 2774 سنن ابن ماجه - کتاب الجنائز باب ما جاء في القيام للجنائز - حدیث: 1537 السنن للنسائی - کتاب الجنائز باب الامر بالقيام للجنائز - حدیث: 1899 مصنف ابن ابی شیبہ - کتاب الجنائز من قال یقام للجنائز إذا مرت - حدیث: 11699 شرح معانی الآثار لبطحاوی - کتاب الجنائز باب الجنائز تمر بالقوم ایقومون لها ام لا ؟ - حدیث: 1769 مسند احمد بن حنبل - مسند المکیین حدیث عامر بن ربیعہ - حدیث: 15409 مسند الحمیدی - احادیث عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ حدیث: 140 مسند ابی یعی الموصلی - حدیث عامر بن ربیعہ حدیث: 7041

*** حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب ایک یہودی کے جنازہ کی وجہ سے کھڑے ہو گئے تھے یہاں تک کہ وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔

6310 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن عیینة، عن زكريا، عن الشعبي، أن أبا مسعود الأنصاري، وقيس بن سعد، كانا يقومان للجنازة قال: وكان مروان جالساً ومعه أبو سعيد الخدري فمرت جنازة، فقال مروان: ما هذا؟ فقال: أمرنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: فهات إذا

*** امام شعبی بیان کرتے ہیں: حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ اور حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہما جنازہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: مروان بیٹھا ہوا تھا اُس کے ساتھ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی تھے ایک جنازہ گزرا تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے مروان نے کہا: یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے (یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے) تو مروان نے کہا: پھر ٹھیک ہے۔

6311 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، عن أبي معمر قال: كنا مع علي فمرت بجنازة فقام لها ناس، فقال علي: من أفتاكم بهذا؟ فقالوا: أبو موسى، فقال: إنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، وكان يتشبه بأهل الكتاب، فلما نهى انتهى

*** ابو معمر بیان کرتے ہیں: ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ موجود تھے ایک جنازہ گزرا تو لوگ اُس کے لیے کھڑے ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: تمہیں یہ فتویٰ کس نے دیا ہے؟ لوگوں نے بتایا: حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسا کیا تھا لیکن یہ چیز اہل کتاب کے عمل سے مشابہت رکھتی ہے جب اس سے منع کر دیا گیا تو آپ اس سے باز آ گئے۔

6312 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني موسى بن عقيب، عن قيس بن مسعود، عن أبيه أنه شهد جنازة مع علي بن أبي طالب بالكوفة، فرأى ناساً قياماً ينتظرون الجنازة أن توضع، فأشار إليهم بدرجة معه أو سوط اجلسوا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جلس بعدما كان يقوم

*** قیس بن مسعود اپنے والد کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفہ میں ایک جنازہ میں شریک ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو کھڑے ہو کر جنازہ کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا کہ اُسے رکھ دیا جائے تو انہیں درے کے ذریعہ اشارہ کیا یا لاشی کے ذریعہ اشارہ کیا کہ تم لوگ بیٹھ جاؤ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کھڑے ہوتے تھے لیکن پھر آپ بعد میں بیٹھے رہتے تھے۔

6313 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين، أن ابن عباس، والحسن بن علي، مرت بهم جنازة، فقام أحدهما وجلس الآخر، فقال الذي قام: أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام، قال الآخر: بلى، وقعد

* * ابن سیرین بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو ان میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور دوسرے بیٹھے رہے تو جو صاحب کھڑے ہوئے تھے انہوں نے یہ کہا: کیا آپ یہ بات نہیں جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (جنازہ کو دیکھ کر) کھڑے ہوئے تھے؟ تو دوسرے صاحب نے جواب دیا: جی ہاں! لیکن (بعد میں) آپ بیٹھے بھی رہے تھے۔

6314 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عِنْدَ الْقَبْرِ ثُمَّ جَلَسَ "
* * مسعود بن حکم، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: وہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس کھڑے رہے پھر آپ تشریف فرما ہوئے۔

6315 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فَشَهِدْتُ جِنَازَةَ أُمِّ عَمْرٍو بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا صَلَّى عَلَيْهَا جَلَسَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَقُمْتُ، فَقَالَ لِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ: اجْلِسْ، فَقُلْتُ: "بَلَّغْنِي أَنَّ ابْنَ عَمْرٍو كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: اجْلِسْ فَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ "

* * قتادہ بیان کرتے ہیں: میں مدینہ منورہ میں موجود تھا میں ام عمرو بنت زبیر کے جنازہ میں شریک ہوا جب ان کی نماز جنازہ ادا کر لی گئی تو سعید بن مسیب بیٹھ گئے اور میں کھڑا رہا سعید بن مسیب نے مجھ سے کہا: تم بھی بیٹھ جاؤ! میں نے کہا: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے۔ تو سعید نے کہا: تم بیٹھ جاؤ! تم پر کوئی حرج نہیں ہوگا۔

6316 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعِ، أَنَّ ابْنَ عَمْرٍو كَانَ يَسْبِقُ الْجِنَازَةَ حَتَّى يَأْتِيَ الْبَيْعَ فَيَجْلِسُ، فَإِذَا رَأَاهَا قَامَ، " قَالَ نَافِعٌ: فَكُنْتُ أَسْتُرُهُ حَتَّى لَا يَرَاهَا "
* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جنازہ کے آگے آجاتے تھے یہاں تک کہ وہ بیع پہنچ کر بیٹھ جاتے تھے پھر جب وہ جنازہ کو دیکھتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ نافع بیان کرتے ہیں: میں ان کے لیے رکاوٹ رکھتا تھا تا کہ وہ اسے نہ دیکھ پائیں۔

6317 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قِيَامٌ مِنْ يَرَاهَا؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ مَوْلى السَّائِبِ قَالَ: اتَّبَعَ ابْنُ عَمْرٍو جِنَازَةَ وَمَعَهُ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أَبِي عَقْرَبٍ وَأَنَا اتَّبِعُهُمْ، فَقَالَ: فَمَضَى أَمَامَهَا فَجَلَسَ حَتَّى إِذَا حَدَّثَتْ بِهِ قَامَ حَتَّى خَلَفْتُهُ "

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: جو شخص جنازہ کو دیکھتا ہے اس کے کھڑے ہونے کا حکم ہے؟ انہوں نے جواب دیا: عبید نے یہ بات بیان کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک جنازہ کے ساتھ گئے ان کے ساتھ عبید بن عمیر اور ابن ابو عقرب تھے میں بھی ان حضرات کے ساتھ ہوں۔ راوی کہتے ہیں: تو وہ جنازہ کے آگے چلے گئے اور جا کر بیٹھ

گئے یہاں تک کہ جب جنازہ اُن کے قریب آیا تو وہ کھڑے ہو گئے یہاں تک کہ وہ جنازہ آگے گزر گیا۔

6318 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قِلَابَةَ يَقُولُ: قِيَامُ الرَّجُلِ عَلَى الْقَبْرِ حَتَّى يُوضَعَ الْمَيِّتُ بِدَعَةٍ

* * ابو قلابہ بیان کرتے ہیں: آدمی کا قبر پر اتنی دیر تک کھڑے رہنا جب تک میت کو رکھ نہیں دیا جاتا یہ بدعت ہے۔

6319 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَتْ تَمْرُ بِهِمُ الْجِنَازَةُ، فَمَا يَقُومُ أَحَدٌ مِنْهُمْ

* * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: پہلے لوگوں کے پاس سے جنازہ گزرتا تھا تو اُن میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا تھا۔

6320 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَعِيبُ عَلَيَّ مَنْ يَقُومُ إِذَا مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ

* * ہشام بن عروہ اپنے والد کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: وہ ایسے لوگوں پر اعتراض کرتے تھے جو جنازہ کے پاس سے گزرنے پر کھڑے ہو جاتے تھے۔

6321 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَامَ لِلْجِنَازَةِ الْيَهُودُ

* * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جنازہ کے لیے کھڑے ہونے کا آغاز یہودیوں نے کیا تھا۔

6322 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْمِسْوَرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ كَانَ لَا يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ

* * زہری نقل کرتے ہیں: حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ اُس وقت تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک میت کو قبر میں نہیں رکھ دیا جاتا تھا۔

6323 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ لَا يَجْلِسُ حَتَّى يُوضَعَ الْمَيِّتُ فِي اللَّحْدِ

وَيَرَوِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَيُّوبُ: فَسَأَلْتُ نَافِعًا، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَضِعَتِ الْجِنَازَةُ عَلَى الْأَرْضِ جَلَسَ

* * ابن سیرین کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ اُس وقت تک نہیں بیٹھتے تھے جب تک میت کو لحد میں نہیں رکھ دیا جاتا تھا۔

یہی روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے منقول ہے۔

ایوب بیان کرتے ہیں: میں نے نافع سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

اُس وقت بیٹھتے تھے جب جنازہ کوزمین پر رکھ دیا جاتا تھا۔

6324 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنِ زَادَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَوَجَدْنَا الْقَبْرَ لَمْ يُلْحَدْ فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا * * * حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں شریک ہوئے تو ہم نے قبر کو پایا کہ ابھی لحد نہیں بنی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور ہم بھی بیٹھ گئے۔

6325 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ: كَانَ يُقَالُ: إِذَا مَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْجِنَازَةِ فَقُومُوا حَتَّى تَرْفَعَ، فَحَوْلَهَا النَّاسُ فَقَالُوا: قُومُوا حَتَّى تُوَضَعَ * * * مجاہد بیان کرتے ہیں: یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم نماز جنازہ ادا کر لو تو اُس وقت تک کھڑے رہو جب تک جنازہ کو اٹھا نہیں لیا جاتا پھر لوگوں نے اُسے منتقل کیا اور لوگوں نے کہا: تم لوگ اُس وقت تک کھڑے رہو جس وقت تک اسے رکھ نہیں دیا جاتا۔

6326 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءَ قُلْتُ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةٍ وَكُنْتَ غَيْرَ مُتَّبِعِهَا؟ قَالَ: أَدْخُلْ وَلَا تَنْظُرْ أَنْ تَرْفَعَ * * * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے سوال کیا میں نے کہا: اگر آپ نماز جنازہ ادا کر لیں اور آپ جنازہ کے ساتھ نہ جانا چاہتے ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا: پھر میں داخل ہو جاؤں گا اور میں اس بات کا انتظار نہیں کروں گا کہ اسے کب اٹھایا جاتا ہے؟

6327 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، وَغَيْرِهِ، عَنِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: إِذَا مَرَّتْ بِكَ جِنَازَةٌ فَقُمْ، فَإِنْ اتَّبَعْتَهَا فَلَا تَجْلِسُ حَتَّى تُوَضَعَ * * * حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب جنازہ تمہارے پاس سے گزرے تو تم کھڑے ہو جاؤ اگر تم اُس کے ساتھ جاتے ہو تو اُس وقت تک نہ بیٹھو جب تک اُسے رکھ نہیں دیا جاتا۔

بَابُ كَيْفَ الصَّلَاةِ عَلَى الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ

باب: مردوں اور خواتین کی نماز جنازہ کیسے ادا کی جائے گی؟

6328 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنِ عَلِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ، كَانَ الرَّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ * * * حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب مردوں اور خواتین (کے جنازہ ایک ساتھ موجود ہوں) تو مرد امام کے پاس ہوں گے اور خواتین دوسری طرف ہوں گی۔

6329 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي اسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: الرَّجَالُ قَبْلَ النِّسَاءِ، وَالْكِبَارُ قَبْلَ الصِّغَارِ

* * * حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: (امام کی طرف کے حساب سے) مرد خواتین سے پہلے ہوں گے اور بڑی عمر کے لوگ کم سن بچوں سے پہلے ہوں گے۔

6330 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ فَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ فَيَجْعَلُ الرَّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ أَمَامَ ذَلِكَ وَبِهِ نَأْخُذُ

* * * سعید بن مسیب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں: انہوں نے کچھ جنازے پڑھائے تو انہوں نے مردوں کو امام کی طرف رکھا اور خواتین کو ان سے آگے (قبلہ کی طرف) رکھا۔ (امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔)

6331 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَعَ ابْنِ عُمَرَ عَلَى رَجُلٍ وَأَمْرَأَةٍ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَلِي الْإِمَامَ، وَالْمَرْأَةُ وَرَاءَ ذَلِكَ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

* * * عثمان بن موهب بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم کے ساتھ ایک مرد اور ایک عورت کی نماز جنازہ میں شرکت کی تو مرد کو امام کی طرف رکھا گیا اور خاتون کو اس کے دوسری طرف (قبلہ کی سمت میں) رکھا گیا امام نے چار تکبیریں کہیں۔

6332 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الرَّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ وَرَاءَ ذَلِكَ

* * * زہری فرماتے ہیں: مرد امام کی طرف ہوں گے اور خواتین دوسری طرف ہوں گی۔

6333 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ جَعَلَ الرَّجُلُ يَلِي الْإِمَامَ، وَالْمَرْأَةُ أَمَامَ ذَلِكَ

* * * موسیٰ بن طلحہ بیان کرتے ہیں: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مرد کو امام کی طرف رکھا تھا اور خاتون کے اس کے آگے (قبلہ کی طرف) رکھا تھا۔

6334 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ كَانَ الرَّجَالُ يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ أَمَامَ ذَلِكَ،

* * * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جب مردوں اور خواتین کے جنازے اکٹھے ہو جائیں تو مرد امام کی طرف ہوں گے اور خواتین اس سے آگے (قبلہ کی سمت میں ہوں گی)۔

6335 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ مِثْلَهُ

** * اسی کی مانند روایت سعید بن مسیب کے حوالے سے منقول ہے۔

0338 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، وَاسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، صَلَّى عَلَىٰ أُمِّ كَلثُومِ بِنْتِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدِ بْنِ عُمَرَ فَجَعَلَ زَيْدًا يَلِيهِ وَالْمَرْأَةَ أَمَامَ ذَلِكَ

** * امام شعبی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت زید رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف رکھا اور خاتون کو ان کے آگے (قبلہ کی طرف رکھا)۔

0337 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، صَلَّى عَلَىٰ تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعًا، فَجَعَلَ الرَّجَالَ يَلُونَ الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ يَلُونَ الْقِبْلَةَ، فَصَفَّهُنَّ صَفًّا، وَوَضَعَتْ جِنَازَةَ أُمِّ كَلثُومِ ابْنَةِ عَلِيٍّ امْرَأَةَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَابْنِ لَهَا يُقَالُ لَهُ: زَيْدٌ، وَضَعَا جَمِيعًا، وَالْإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَفِي النَّاسِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو قَتَادَةَ، فَوَضَعَ الْغُلَامَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، قَالَ رَجُلٌ: فَانْكَرْتُ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي قَتَادَةَ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: هِيَ السُّنَّةُ

** * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ نو جنازے اکٹھے پڑھائے تو انہوں نے مردوں کو امام کی طرف رکھوایا اور خواتین کو قبلہ کی طرف رکھوایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان جنازوں کی صفیں بنوائی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا جو حضرت عمر بن خطاب کی اہلیہ تھیں اور ان کے صاحبزادے جن کا نام زید رکھا گیا تھا، ان دونوں کو ایک ساتھ رکھا گیا۔ سعید بن العاص ان دنوں امام تھے اور لوگوں میں حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابوسعید خدری، حضرت ابوقتادہ رضی اللہ عنہم موجود تھے تو اس بچہ کو امام کی طرف رکھا گیا۔ ایک شخص نے کہا: میں اس بات کا انکار کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابوقتادہ رضی اللہ عنہم کی طرف دیکھا میں نے کہا: یہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا: یہ سنت ہے۔

0338 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الرَّجَالَ مِمَّا يَلِي الْإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ أَمَامَ ذَلِكَ

** * عطاء فرماتے ہیں: مرد امام کی طرف ہوں گے اور خواتین اُس سے آگے (قبلہ کی سمت میں) ہوں گی۔

0339 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الْأَسْقَعِ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى النَّسَاءِ وَالرِّجَالِ جَمِيعًا جَعَلَ الرَّجَالَ مِمَّا يَلِيهِ، وَالنِّسَاءَ أَمَامَ ذَلِكَ

** * سلیمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں: حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ جب مردوں اور خواتین کی ایک ساتھ نماز جنازہ پڑھتے تھے تو وہ مردوں کو اپنی طرف رکھتے تھے اور خواتین کو اُس سے آگے (قبلہ کی سمت میں رکھتے تھے)۔

6340 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَزِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: "رَأَيْتُهُ جَاءَ إِلَى جَنَائِزِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ، فَتَمَالَ: أَيْنَ الصَّعَافِقَةَ، أَوْ مَا تَقُولُ الصَّعَافِقَةُ؟ يَعْنِي الَّذِينَ يَطْعَنُونَ قَالَ: ثُمَّ جَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلُونَ الْإِمَامَ وَالنِّسَاءَ أَمَامَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ عَلَى إِثْرِ بَعْضٍ"، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ بِأَمِّ كُلثومٍ وَزَيْدٍ، وَثُمَّ رِجَالٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: أَرَاهُ ذَكَرَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا

* * امام شعیبی کے بارے میں یہ بات منقول ہے: راوی کہتے ہیں: میں نے انہیں دیکھا کہ وہ کچھ مردوں اور خواتین کے جنازہ ادا کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے دریافت کیا: طعن کرنے والے لوگ کہاں ہیں؟ راوی کہتے ہیں: پھر انہوں نے مردوں کے جنازے امام کے قریب رکھوائے اور خواتین کے جنازے اُس سے آگے رکھے وہ سب ایک دوسرے کے آگے پیچھے (ترتیب کے ساتھ صف میں) رکھے گئے۔ پھر انہوں نے یہ بات ذکر کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا (اور ان کے صاحبزادے) حضرت زید رضی اللہ عنہ کے جنازوں کے ساتھ اسی طرح کیا تھا وہاں بنو ہاشم سے تعلق رکھنے والے کچھ افراد بھی موجود تھے۔ راوی کہتے ہیں: میرا خیال ہے: وہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما تھے۔

6341 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الرِّجَالُ يَلُونَ الْقِبْلَةَ وَالنِّسَاءُ يَلُونَ الْإِمَامَ

* * حسن بصری فرماتے ہیں: مرد قبلہ کی طرف ہوں گے اور خواتین کے جنازے امام کی طرف ہوں گے۔

6342 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: يُصَلِّي عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ وَحَدَهُ

* * ابن سیرین فرماتے ہیں: ان میں سے ہر ایک کی الگ سے نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔

6343 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلَيْنِ وَصَفَّ أَحَدَهُمَا خَلْفَ الْآخَرِ، ثُمَّ قَالَ: "اصْنَعُوا بِهِمْ هَكَذَا، وَإِنْ كَانُوا عَشْرَةً" * * ابواسحاق بیان کرتے ہیں: میں نے امام شعیبی کو دو آدمیوں کو جنازہ پڑھاتے ہوئے دیکھا انہوں نے ایک کو دوسرے کے پیچھے رکھ کے اُس کی صف بنائی اور پھر یہ کہا: تم ان کے ساتھ اسی طرح کرو خواہ دس لوگ ہوں۔

بَابُ جَنَائِزِ الْأَحْرَارِ وَالْمَمْلُوكِينَ

باب: آزاد لوگوں اور غلاموں کے جنازے کا حکم

6344 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ الْأَحْرَارُ وَالْمَمْلُوكِينَ فَأَلَّاحِرَارُ يَلُونَ الْإِمَامَ

* * امام شعیبی فرماتے ہیں: جب آزاد اور غلام (لوگوں کے جنازے اکٹھے ہوں) تو آزاد لوگ امام کی طرف ہوں گے۔

بَابُ آيِنَ تَوْضِعِ الْمَرْأَةِ مِنَ الرَّجُلِ

باب: مرد کے مقابلہ میں عورت کی میت کو کہاں رکھا جائے گا؟

6345 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: تُجَعَلُ الْمَرْأَةُ فِي الْمُصَلَّى عِنْدَ رِجْلِ الرَّجُلِ

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: جنازہ گاہ میں عورت کی میت کو مرد کی ٹانگ کے قریب رکھا جائے گا۔

6346 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ وَائِلَةَ بِنِ الْأَسْقَعِ، وَكَانَ

مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَعَلَ رُءُوسَ النِّسَاءِ إِلَى رُكْبَتَيْ الرَّجَالِ قَالَ: وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ فَلَا يُنْكِرُونَ عَلَيْهِ

*** سلیمان بن موسیٰ نے حضرت وائلہ بن اسقع رضی اللہ عنہما، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب

وہ مردوں اور خواتین کی نماز جنازہ ادا کرتے تھے تو وہ خواتین کے سر مردوں کے گھٹنوں کے قریب رکھوایا کرتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اصحاب بھی موجود تھے اور انہوں نے ان کا انکار نہیں کیا۔

6347 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ خُصَيْفِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ، صَلَّى مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَوْ

فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَلَى الْجَنَائِزِ فَكَانَا يَجْعَلَانِ الْمَرْأَةَ عِنْدَ مَنْكِبِ الرَّجُلِ

*** خصیف بیان کرتے ہیں: مجھے اُس شخص نے یہ بات بتائی ہے جس نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ یا شاید

حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی تھی یہ دونوں حضرات خاتون کو مرد کے کندھے کے قریب رکھتے تھے۔

6348 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُسَاوِي بَيْنَ رُءُوسِهِمْ

إِذَا صَلَّى عَلَى الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ " وَبِهِ نَأْخُذُ،

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے سر ایک دوسرے کے برابر رکھوایا کرتے تھے جب وہ

مردوں اور خواتین کی نماز جنازہ پڑھتے تھے۔

(امام عبدالرزاق کہتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔)

6349 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے منقول ہے۔

6350 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: إِذَا كَانَ جِنَازَةُ

رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فَضِلَّ الرَّجُلُ بِالرَّأْسِ حِينَ يُوضَعَانِ فِي الْمُصَلَّى

*** سعید بن مسیب فرماتے ہیں: جب مرد اور عورت کے جنازے ہوں تو جب انہیں جنازہ گاہ میں رکھا جائے گا تو سر

کے حوالے سے مرد کو فضیلت دی جائے گی (یعنی اُس کا سر ذرا اونچا ہوگا)۔

بَابُ آيِنَ يَقُومُ الْإِمَامُ مِنَ الْجِنَازَةِ

باب: جنازہ کے مقابلہ میں امام کہاں کھڑا ہوگا؟

6351 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ مُغِيرَةَ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَقُومُ الْإِمَامُ عِنْدَ صَدْرِ

الرَّجُلِ، وَمَنْكِبِ الْمَرْأَةِ

* * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: امام مرد کے سینے کے مقابل کھڑا ہوگا اور عورت کے کندھے کے مقابل کھڑا ہوگا۔

6352 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ مُغِيرَةَ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يَقُومُ الْإِمَامُ عِنْدَ صَدْرِ

الرَّجُلِ، وَمَنْكِبِ الْمَرْأَةِ

* * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: امام مرد کے سینے کے مقابل ہوگا اور عورت کے کندھے کے مقابل ہوگا۔

6353 - حَدِيثُ نَبِيِّ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنِ

سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ لَقَامَ وَسَطَهَا وَبِهِ نَأْخِذُ

* * حضرت سمرہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ایک خاتون کی نماز جنازہ ادا کی تو آپ اس کے درمیان کے

مدقابل کھڑے ہوئے۔

(امام عبدالرزاق فرماتے ہیں:) ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

6354 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ أَصْدَقُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: يَقُومُ

الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا عِنْدَ صَدْرِهَا

* * حسن بصری فرماتے ہیں: مرد عورت کی جب نماز جنازہ ادا کرے گا تو اس کے سینہ کے مقابل کھڑا ہوگا۔

بَابُ إِذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُ الرِّجَالِ

باب: جب کئی مردوں کے جنازے اکٹھے ہو جائیں؟

6355 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ قَدِمَ جِنَازَتِي رَجُلَيْنِ

فَصَفَّ أَحَدَهُمَا خَلْفَ الْأُخْرَى قَالَ: اصْنَعُوا بِهِمْ هَكَذَا وَإِنْ كَانُوا عَشْرَةَ

* * ابواسحاق بیان کرتے ہیں: میں نے امام شعبی کو دیکھا کہ ان کے سامنے دو آدمیوں کے جنازے آئے تو انہوں نے

ان دونوں کی صف بنالی جو ایک دوسرے کے پیچھے تھے تو انہوں نے فرمایا: اگر دس لوگ بھی ہوں تو تم انہیں اسی طرح رکھو۔

6356 - حَدِيثُ نَبِيِّ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ رَجُلٍ، عَنِ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، وَقَدَّمَ إِلَى الْقَبْلَةِ أَقْرَاهُمْ لِلْقُرْآنِ وَبِهِ نَأْخِذُ

* * عکرمہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے شہداءِ احد کی نماز جنازہ ادا کی آپ نے ان سب کی نماز جنازہ ادا کی

اور قبلہ کی طرف اس شخص کو رکھا جس کو قرآن زیادہ آتا تھا۔

(امام عبدالرزاق فرماتے ہیں:) ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

بَابُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى الْجَنَائِزِ

باب: نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے، تکبیر کہتے ہوئے رفع یدین کرنا

6357 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تَرْفَعُ يَدَيْكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ

التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْبَعِ وَبِهِ نَأْخُذُ

* * زہری فرماتے ہیں: چاروں تکبیروں میں سے ہر ایک تکبیر میں تم رفع یدین کرو گے۔

(امام عبدالرزاق فرماتے ہیں:) ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

6358 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَرْفَعُ الْإِمَامُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ عَلَى

الْجَنَائِزِ، وَالنَّاسُ خَلْفَهُ

* * عطاء فرماتے ہیں: امام نماز جنازہ میں جب بھی تکبیر کہے گا تو دونوں ہاتھ بلند کرے گا اور لوگ اس کے پیچھے ہوں گے۔

6359 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ

أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَاتِ كُلِّهِنَّ

* * قیس بن ابوحازم کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ تمام تکبیروں میں رفع یدین کرتے تھے۔

6360 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ

كَانَ يَرْفَعُ فِي التَّكْبِيرَاتِ الْأَرْبَعِ عَلَى الْجِنَازَةِ

* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز جنازہ کی چاروں تکبیروں میں رفع یدین کرتے تھے۔

6361 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ

يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ

* * ابراہیم نخعی کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ نماز جنازہ کی پہلی تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے پھر نہیں کرتے تھے۔

6362 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي

التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ، وَكَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا

* * معمر نے اپنے بعض مشائخ کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صرف پہلی تکبیر میں

رفع یدین کرتے تھے اُس کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے وہ چار تکبیریں کہتے تھے۔

6363 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَ ذَلِكَ

* * * معمر بیان کرتے ہیں: اُن تک یہ روایت پہنچی ہے: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

باب: میت کی نماز جنازہ ادا کرنے کا زیادہ حقدار کون ہے؟

6364 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَصَلَّى صُهَيْبٌ

عَلَى عُمَرَ

* * * زہری فرماتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے حضرت

عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی۔

6365 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: صَلَّى الزُّبَيْرُ عَلَى عُمَرَ وَدَفَنَهُ، وَكَانَ أَوْصَى

إِلَيْهِ

* * * قتادہ بیان کرتے ہیں: حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں دفن کروایا، کیونکہ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اُن کے بارے میں وصیت کی تھی۔

6366 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: صَلَّى عَلَى عَائِشَةَ

وَإِلَامَامُ يَوْمَئِذٍ أَبُو هُرَيْرَةَ

* * * ابن جریج نے نافع کا یہ بیان نقل کیا ہے: میں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ ادا کی، اُن دنوں امام حضرت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے۔

6367 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: يُصَلِّي عَلَيْهَا مَنْ

كَانَ يَوْمَئِذٍ فِي حَيَاتِهَا قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي قَوْمٍ آخِرِينَ فَقَالَ سُؤَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ ذَلِكَ

* * * سوید بن غفلہ بیان کرتے ہیں: عورت کی نماز وہ شخص پڑھائے گا جو اُس کی زندگی میں اُس کی امامت کرتا تھا۔

راوی کہتے ہیں: یہ بات انہوں نے اس لیے بیان کی تھی کہ ایک خاتون کا انتقال کسی دوسری قوم میں ہوا تھا تو ایسی صورت حال میں

سوید بن غفلہ نے یہ بات بیان کی تھی۔

6368 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ يُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ أَنْمَتَهُمْ

قَالَ: وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ فِي قَوْمٍ آخِرِينَ يُصَلِّي عَلَيْهَا إِمَامُ ذَلِكَ الْحَيِّ الَّذِي مَاتَتْ فِيهِمْ

* * * ابراہیم نخی فرماتے ہیں: لوگوں کا امام اُن کے جنازے پڑھائے گا۔ وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں: جب کوئی عورت کسی

دوسری قوم میں انتقال کر جائے تو اُس قبیلہ کا امام اُس کی نمازِ جنازہ پڑھائے گا، جن لوگوں کے درمیان اُس عورت کا انتقال ہوا ہے۔

6369 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: شَهِدْتُ حُسَيْنًا حِينَ مَاتَ الْحَسَنُ وَهُوَ يَدْفَعُ فِي قَفَا سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ يَقُولُ: تَقَدَّمَ فَلَوْلَا السُّنَّةُ مَا قَدَّمْتُكَ، وَسَعِيدٌ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ قَالَ: فَلَمَّا صَلَّوْا عَلَيْهِ قَامَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ: اتَّفَسُونَ عَلَى ابْنِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْبَةً يَدْفِنُونَهُ فِيهَا؟ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي

*** ابو حازم بیان کرتے ہیں: جب حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، وہ سعید بن العاص کو پکڑ کر اُسے آگے کر رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے: تم آگے ہو جاؤ، اگر یہ سنت نہ ہوتی تو میں تمہیں آگے نہ کرتا۔ سعید اُن دنوں مدینہ منورہ کا گورنر تھا۔ راوی بیان کرتے ہیں: جب اُن لوگوں نے نمازِ جنازہ ادا کر لی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا: کیا تم اپنے نبی کے صاحبزادے کے دفن کے سلسلے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہو پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا: ”جو شخص ان دونوں سے محبت رکھتا ہے، وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اور جو شخص ان دونوں سے بغض رکھتا ہے، وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔“

6370 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ الْآبُ، ثُمَّ الزَّوْجُ، ثُمَّ الْإِبْنُ، ثُمَّ الْآخُ *** حسن بصری فرماتے ہیں: عورت کی نمازِ جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار باپ ہے پھر شوہر ہے پھر بیٹا ہے پھر بھائی ہے۔

6371 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: اسْتَأْذَنْتُ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا *** امام شعبی فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سے اُن کی نمازِ جنازہ ادا کرنے کی اجازت لی۔

6372 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الزَّوْجُ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الْآخِ *** عطاء فرماتے ہیں: بھائی کے مقابلہ میں عورت کا شوہر اُس کی نمازِ جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار ہوگا۔

6373 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: الْوَلِيُّ أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا

*** مسروق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں: عورت کی نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار اُس کا امی ہوگا۔

6374 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: مَاتَ امْرَأَةٌ لِأَبِي بَكْرٍ فَجَاءَ إِخْوَتُهَا يُنَازِعُونَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: "لَوْلَا أَنِّي أَحَقُّ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهَا مَا نَازَعْتُكُمْ فِي ذَلِكَ قَالَ: فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ دَخَلَ الْقَبْرَ فَأَخْرَجَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ وَلَهُ يَوْمَانِ ثَلَاثُونَ أَوْ أَرْبَعُونَ ابْنًا وَابْنَةً، فَصَاحُوا عَلَيْهِ فَافَاقَ فَقَالَ: مَا فِي الْأَرْضِ نَفْسٌ وَلَا نَفْسٌ ذُبَابٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ نَفْسِي، قِيلَ لَهُ: لَمْ؟ قَالَ: مَخَافَةٌ أَنْ يُدْرِكَنِي زَمَانٌ لَا أَمْرُ فِيهِ بِمَعْرُوفٍ وَلَا أَنْهَى فِيهِ عَنْ مُنْكَرٍ، فَمَا خَيْرِي يَوْمَئِذٍ؟

*** حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے بھائی آئے اور نماز جنازہ پڑھانے کے بارے میں ان سے اختلاف کرنے لگے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر میں اس عورت کی نماز جنازہ پڑھانے کا زیادہ حقدار نہ ہوتا تو میں اس بارے میں تم سے کبھی اختلاف نہ کرتا۔ راوی کہتے ہیں: پھر وہ آگے بڑھے انہوں نے اُس خاتون کی نماز جنازہ پڑھائی پھر وہ قبر میں اترے تو جب انہیں باہر نکالا گیا تو ان پر غشی طاری تھی اُس وقت ان کے تیس یا چالیس بچے تھے لوگوں نے چیخ کر انہیں پکارا تو انہیں ہوش آیا پھر انہوں نے فرمایا: زمین میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے یہاں تک کہ مکھی کا وجود بھی ایسا نہیں ہے کہ جو میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہو کہ میری جان نکل جائے (یعنی میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ میری جان نکل جائے)۔ ان سے دریافت کیا گیا: وہ کیوں؟ انہوں نے کہا: اس اندیشہ کے تحت کہ کہیں مجھے ایسا زمانہ نصیب نہ ہو جس میں میں نیکی کا حکم نہ دے سکوں اور بُرائی سے منع کر سکوں تو پھر اُس وقت مجھ میں کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔

6375 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ زَوْجُهَا

*** حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: عورت کی نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار اُس کا شوہر

بَابُ كَيْفَ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

باب: نبی اکرم ﷺ کی نماز جنازہ کیسے ادا کی گئی تھی؟

6376 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَمْ يَوْمَهُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ كَانُوا يَدْخُلُونَ الْوُجَا الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ

وَالْحُجْرَةَ فَيَدْعُونَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ وَيَدْخُلُ آخَرُونَ، حَتَّى فَرَّغَ النَّاسُ

*** سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کی نماز جنازہ میں کسی نے لوگوں کی امامت نہیں کی تھی، لوگ گروہوں کی شکل میں آئے تھے مرد آئے پھر خواتین آئیں پھر بچے آئے اُس گھر میں جہاں نبی اکرم ﷺ موجود تھے وہ حجرہ میں آ کر دعا کرتے تھے پھر باہر نکل جاتے تھے پھر دوسرے لوگ آ جاتے تھے یہاں تک کہ سب لوگ فارغ ہو گئے۔

6377 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "قَبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ، وَلَمْ يُدْفَنَ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ، حَتَّى كَانَ مِنْ آخِرِ يَوْمِ الثَّلَاثَةِ قَالَ: وَغَسِلَ وَعَلِيهِ قَمِيصٌ، وَكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ اثْوَابٍ: ثَوْبَيْنِ صَحَارِيِّينَ وَبُرْدِ حَبْرَةَ، وَصَلِّيَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِمَامٍ، وَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي النَّاسِ خَلُّوا الْجِنَازَةَ وَأَهْلَهَا وَلِحْدَ لَهْ، وَجِعَلْ عَلَى لِحْدِهِ اللَّبْنُ"

*** امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اپنے والد (امام محمد باقر رضی اللہ عنہ) کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کا پیر کے دن انتقال ہوا، اُس دن اور اُس رات میں آپ کو دفن نہیں کیا گیا یہاں تک کہ منگل کے دن کا آخری حصہ آ گیا۔ راوی کہتے ہیں: جب نبی اکرم ﷺ کو غسل دیا گیا تو آپ کی قمیص آپ کے جسم پر رہنے دی گئی آپ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا، دو صحاری کپڑے تھے اور ایک منقش چادر تھی۔ نبی اکرم ﷺ کی نماز کسی امام کے بغیر ادا کی گئی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں یہ اعلان کیا کہ اب جنازہ اور اُس کے اہل کے لیے جگہ چھوڑ دو۔ نبی اکرم ﷺ کے لیے لحد تیار کی گئی اور آپ کی لحد پر اینٹیں رکھی گئیں۔

بَابُ دَفْنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ

باب: مرد اور عورت کو دفن کرنا

6378 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ وَائِلَةَ بِنَ الْأَسْقَعِ كَانَتْ إِذَا دَفِنَ الرَّجَالَ وَالنِّسَاءَ جَمِيعًا يَجْعَلُ الرَّجُلَ فِي الْقَبْرِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، وَيَجْعَلُ الْمَرْأَةَ وَرَاءَهُ فِي الْقَبْرِ، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَإِنْ كَانَا رَجُلَيْنِ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ كَبَّرَ الْإِمَامُ قَالَ: الْأَكْبَرُ إِمَامُ الْأَصْغَرِ

*** سلیمان بن موسیٰ بیان کرتے ہیں: حضرت وائلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ نے جب مردوں اور عورتوں کو اکٹھے دفن کروایا تو انہوں نے قبر میں مرد کو قبلہ کی طرف سمت رکھا اور عورت کو قبر میں اُس کے دوسری طرف رکھا۔

سلیمان بیان کرتے ہیں: جب دو آدمی ایک ہی قبر میں دفن کیے جائیں گے تو امام بڑے کو آگے کرے گا۔ راوی کہتے ہیں: اس سے مراد یہ ہے کہ بڑا شخص چھوٹے کا امام ہوتا ہے۔

6379 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ يَدْفِنُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرِ وَاحِدٍ، وَيَسْأَلُ أَيُّهُمْ أَقْرَأُ لِلْقُرْآنِ؟ فَيَقْدِمُهُ يَقُولُ: مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، ذَكَرَهُ الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي الصَّعِيرِ، عَنْ جَابِرٍ

*** حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: غزوہ احد کے موقع پر نبی اکرم ﷺ نے دو یا تین آدمیوں کو ایک ہی قبر میں دفنایا۔ آپ یہ دریافت کرتے تھے: ان میں سے کس کو زیادہ قرآن آتا ہے؟ تو اُسے آگے کر دیتے تھے۔ (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) اُسے قبلہ کی سمت میں رکھواتے تھے۔

زہری نے یہ روایت اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے۔

6380 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَدِّمُ فِي الْقَبْرِ إِلَى الْقِبْلَةِ أَقْرَاهُمْ، ثُمَّ ذَا السِّنِّ

*** حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ قبر میں قبلہ کی طرف اُس شخص کو رکھواتے تھے جو سب سے زیادہ قرآن کا عالم تھا پھر اُس شخص کو رکھواتے تھے جس کی عمر زیادہ ہو۔

بَابُ اللَّحْدِ

باب: لحد کا بیان

6381 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: "وَلِيَ غُسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَفَنَهُ وَاجْتَنَانَهُ دُونَ النَّاسِ أَرْبَعَةٌ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي تَالِبٍ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَصَالِحُ شُقْرَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَحْدُوا لَهُ، وَنَصَبُوا عَلَيْهِ اللَّبْنَ نَضْبًا"

*** سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کو غسل دینے، آپ کو دفن کرنے کے نگران باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر چار آدمی بنے تھے: حضرت علی، حضرت عباس، حضرت فضل اور حضرت صالح شقران مولى نبی اکرم ﷺ کے غلام تھے ان لوگوں نے نبی اکرم ﷺ کے لیے لحد تیار کی تھی اور اُس پر اینٹیں لگائی تھیں۔

6382 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ لَحَدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَصَبَ عَلِيٌّ لَحْدَهُ اللَّبْنَ

*** امام زین العابدین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم ﷺ کے لیے لحد تیار کروائی تھی اور آپ کی لحد پر اینٹیں لگائی تھیں۔

6383 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا تُوْفِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ رَجُلٌ يَلْحَدُ وَرَجُلٌ يَشُقُّ، فَاجْتَمَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: اللَّهُمَّ خِرُّ لَهْ قَالَ: فَطَلَعَ الَّذِي يَلْحَدُ فَلَحَدَ لَهُ

*** عبدالرحمن بن قاسم اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: جب نبی اکرم ﷺ کا وصال ہوا تو مدینہ منورہ میں دو آدمی تھے ان میں سے ایک لحد بناتا تھا اور ایک شق کے طور پر قبر کھودتا تھا نبی اکرم ﷺ کے اصحاب اکٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا: اے

اللہ! نبی اکرم ﷺ کے لیے کسی ایک کو اختیار کر لے! راوی کہتے ہیں: تو وہ شخص پہلے آ گیا جو لحد بناتا تھا، تو اُس نے نبی اکرم ﷺ کے لیے لحد تیار کی۔

6384 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلَانِ: أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ الْقُبُورَ، وَالْآخَرُ يَشُقُّ فَلَمَّا تُوَفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: أَيُّهُمَا جَاءَ أَمْرُنَاهُ يَعْمَلُ عَمَلَهُ، فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ فَأَمَرُوهُ فَلَحَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

* * ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں: مدینہ منورہ میں دو آدمی تھے جن میں سے ایک قبروں میں لحد بناتا تھا اور دوسرا شق کے طور پر قبر بناتا تھا جب نبی اکرم ﷺ کا وصال ہوا تو لوگوں نے کہا: جو شخص پہلے آ گیا ہم اُسے یہ ہدایت کریں گے کہ وہ نبی اکرم ﷺ کے لیے یہ خدمت سرانجام دے۔ تو وہ شخص پہلے آ گیا جو لحد بناتا تھا، تو لوگوں نے اُسے ہدایت کی تو اُس نے نبی اکرم ﷺ کے لیے لحد تیار کی۔

6385 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْطَانَ، عَنْ زَادَانَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لغيرِنَا * * حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: ”لحد ہمارے لیے ہے اور شق دوسروں کے لیے ہے۔“

6386 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ اللَّحْدَ، وَيَكْرَهُونَ الشَّقَّ، وَيَكْرَهُونَ الْأَجْرَفِي الْقَبْرِ، وَيَسْتَحِبُّونَ اللَّبْنَ وَالْقَصَبَ، وَكَانُوا يَكْرَهُونَ إِذَا سُويَ عَلَى الْمَيِّتِ أَنْ يَقُومَ الْوَلِيُّ عَلَى قَبْرِهِ فَيَعْزِي بِهِ * * ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: پہلے لوگ لحد کو پسند کرتے تھے اور شق کو ناپسند کرتے تھے، وہ قبر میں اجر کو ناپسند کرتے تھے، وہ لوگ اینٹ اور نرکل (کانے) رکھنے کو مستحب سمجھتے تھے اور وہ لوگ اس بات کو بھی مکروہ سمجھتے تھے کہ جب میت کو دفن کر دیا جائے تو اُس کا ولی قبر کے پاس کھڑا ہو اور اُس کے ساتھ تعزیت کی جائے۔

6387 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الَّذِي لَحَدَ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَّ الَّذِي أَلْفَى الْقَطِيفَةَ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُقْرَانُ

6385- سنن ابی داؤد - کتاب الجنائز، باب فی اللحد - حدیث 2809، سنن ابن ماجہ - کتاب الجنائز، باب ما جاء فی استحباب اللحد - حدیث 1549، السنن للنسائی - کتاب الجنائز، اللحد والشق - حدیث 1992، مصنف ابن ابی شیبہ - کتاب الجنائز، فی اللحد للمیت من اقر به وکره الشق - حدیث 11426، السنن الکبریٰ للنسائی - کتاب الجنائز، اللحد والشق - حدیث 2111، مشکل الآثار للطحاوی - باب بیان مشکل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله حدیث 2366، مسند الحمیدی - احادیث جریر بن عبد الله البجلي رضى الله عنه، حدیث 779، مسند الطيالسی - احادیث جریر بن عبد الله البجلي، حدیث 697، المعجم الکبیر للطبرانی - باب الجیم، باب من اسمه جابر - زادان ابو عمر، حدیث 2270

*** امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: جس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد بنائی تھی ان کا نام حضرت ابو طلحہ تھا اور جن صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر ڈالی تھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت شقران رضی اللہ عنہ تھے۔

6388 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرِشَ فِي قَبْرِهِ جَرْدٌ قَطِيفَةٌ كَانَتْ يَرْكَبُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهِ، فَلَنَا لِأَبِي بَكْرٍ: فَلَوْ فَعَلَ النَّاسُ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَلَّا، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ كغَيْرِهِ

*** حسن بصری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف میں وہ چادر بچھائی گئی تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بیٹھا کرتے تھے۔

راوی کہتے ہیں: ہم نے امام عبدالرزاق سے دریافت کیا: اگر اب بھی لوگ ایسا کریں (تو کیا حکم ہوگا؟) انہوں نے جواب دیا: ہرگز نہیں! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہے۔

6389 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ فُرِشَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةٌ فَذَكِيَّةٌ

*** معمر بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں فدک سے آئی ہوئی ایک چادر بچھائی گئی تھی۔

6390 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَحْيَى بْنِ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِ، عَنْ عَمِيهِ قَالَ: مَاتَتْ مَيْمُونَةُ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرَفٍ فَأَخَذَتْ رِدَائِي فَبَسَطْتُهُ تَحْتَهَا فَأَخَذَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَمَى بِهِ

*** عبید اللہ بن عبد اللہ اپنے چچا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا انتقال "سرف" کے مقام پر ہوا تو میں نے اپنی چادر لی اور ان کے نیچے بچھادی تو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس چادر کو پکڑ کر ایک طرف کر دیا۔

6391 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، مِنْ أَصْحَابِهِمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِتَدَ لَبْنَةٌ جُعِلَ إِلَيْهَا رَأْسُهُ تَدَعُمُهُ وَلَا تُجْعَلُ تَحْتِ خَدِّهِ، فَلَنَا لِأَبِي بَكْرٍ: لَبْنَةٌ صَحِيحَةٌ أَمْ كُسِيرَةٌ؟ قَالَ: بَلْ لَبْنَةٌ

*** ابو بکر بن محمد نے کئی حضرات کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اینٹ تکیہ کے طور پر رکھی گئی آپ کا سر مبارک اس پر رکھ دیا گیا اسے آپ کے رخسار کے نیچے نہیں رکھا گیا۔

راوی کہتے ہیں: ہم نے امام ابو بکر بن محمد سے دریافت کیا: کیا وہ اینٹ سالم تھی یا ٹوٹی ہوئی تھی؟ انہوں نے جواب دیا: بس وہ اینٹ تھی۔

6392 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعَلِيٍّ أَنَّهُ لُحِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَعُرِضَ عَلَيْهِ اللَّبَنُ وَنُصِبَ

*** ابن جریج نے حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد بنائی گئی تو آپ کے لیے اطراف میں اینٹیں رکھی گئیں اور انہیں نصب کیا گیا۔

بَابُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ

باب: جنازہ پر تکبیر کہنا

6393 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ، وَابْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ لِأَصْحَابِهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا، وَبِهِ نَأْخُذُ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو نجاشی کے انتقال کی اطلاع دی یہ حضرات مدینہ منورہ میں موجود تھے ان حضرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صفیں بنالیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے چار تکبیریں کہیں۔

(امام عبدالرزاق کہتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔)

6394 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنِ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ حَنِيفٍ أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا

*** حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کی نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے اس پر چار تکبیریں کہیں۔

6395 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانُوا يُكْتَبِرُونَ

فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا وَخَمْسًا وَأَرْبَعًا حَتَّى كَانَ زَمَنُ عُمَرَ فَجَمَعَهُمْ فَسَأَلَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِمَا رَأَى، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ كَأَطْوَلِ الصَّلَاةِ، يَعْنِي الظُّهْرَ

*** ابو وائل بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں لوگ سات یا پانچ یا چار تکبیریں کہا کرتے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے اس بارے میں دریافت کیا، شخص نے اپنی رائے کے مطابق انہیں بتایا تو ان سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ چار تکبیریں کہی جائیں گی جو سب سے طویل نماز یعنی ظہر کی نماز میں ہوتی ہیں۔

6396 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ رَزِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَبَّرَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى أَمِيهِ

أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ، وَمَا حَسَدَهَا خَيْرًا

* * امام شعبی فرماتے ہیں: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنی والدہ کے انتقال پر چار تکبیریں کہی تھیں۔

6397 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي قَبْرَةَ، قَالَ: كَبَّرَ عُمَرُ عَلَى زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَسَأَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَدْخُلُهَا قَبْرَهَا؟ فَقُلْنَ: مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتِهَا

* * امام شعبی، عبدالرحمن بن ابی بزی کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہی تھیں، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے دریافت کیا تھا کہ انہیں ان کی قبر میں کون اتارے گا؟ تو ان ازواج نے جواب دیا: جو ان کی زندگی میں انہیں دیکھ سکتا تھا۔

6398 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: كَبَّرَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي تَالِبٍ بِنْتِ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ

* * عمیر بن سعید بیان کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یزید بن مکلف نخعی کی نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہی تھیں۔

6399 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ يَقُولُ: صَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِي تَالِبٍ عَلَى سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا

* * عبداللہ بن معقل فرماتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے ان پر چھ تکبیریں کہی تھیں۔

6400 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةِ حَمْسًا

* * ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک جنازہ میں پانچ تکبیریں کہی تھیں۔

6401 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ قَدْ فَعَلَ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ

* * ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: انہوں نے سب کیا ہے لیکن لوگوں کا اتفاق چار تکبیروں پر ہو گیا۔

6402 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ النَّاسَ بِالْحَمْدِ، وَيُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَائِزِ ثَلَاثًا

* * حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ لوگوں کو جمع کر کے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے اور جنازہ پر تین تکبیریں کہتے تھے۔

6403 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ، أَنَّ عَلِيًّا، صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حَنِيفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا، ثُمَّ انْفَتَحَ إِلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّهُ بَدَّرَنِي، قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَقَدْ مَ عُلِقْنَا مِنَ الشَّامِ، فَقَالَ لِابْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّ إِخْوَتَكَ بِالشَّامِ يُكَبِّرُونَ عَلَى جَنَائِزِهِمْ حَمْسًا، فَلَوْ وَقَفْتُمْ لَنَا

وَقَبَا تُتَابِعُكُمْ عَلَيْهِ، فَاطْرَقَ عَبْدُ اللَّهِ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: انظُرُوا جَنَائِزَكُمْ فَكَبِّرُوا عَلَيْهَا مَا كَبَّرَ ائِمَّتِكُمْ، لَا وَقْتُ وَلَا عَدَدٌ

*** عبد اللہ بن معقل بیان کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے اُس پر چھ تکبیریں کہیں پھر وہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور بولے: یہ ”بدری“ ہیں۔

امام شععی بیان کرتے ہیں: علقمہ شام سے آئے تو انہوں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا: آپ کے بھائی شام میں جنازوں پر پانچ تکبیریں کہتے ہیں اگر آپ ہمارے لیے اس کی کوئی متعین تعداد ذکر کر دیں تو ہم اُس کی پیروی کیا کریں؟ تو حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے ایک لمحہ کے لیے سوچا پھر فرمایا: تم اپنے جنازوں کا جائزہ لو اور ان پر اتنی ہی تکبیر کہو جتنی تمہارے آئمہ تکبیر کہتے ہیں اس کا کوئی وقت یا کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔

6404 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن أبي إسحاق الهجري قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى صلى على بنت له فكبر عليها أربعاً، ثم قام ساعة فسبحوا به، فقال: إنكم ترون ابني أكبر خمسا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أربعاً قال: ثم ركب معها، وجعل يقول لقائده: لا تقدمني أمامها، وجعل النساء يبكين، فقال: لا ترئين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهي على المراتي قال ابن عيينة: وكان ابن أبي أوفى أعمى، ويرون قيامه بعد التكبير الرابعة يدعو للميت وعمامة الناس عليه

*** ابو اسحاق ہجری بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبد اللہ بن ابو اوفی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی صاحبزادی کی نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے چار تکبیریں کہیں پھر وہ کچھ دیر کھڑے رہے اور تسبیح پڑھتے تھے پھر انہوں نے فرمایا: اب تم دیکھو گے کہ اب میں پانچویں مرتبہ تکبیر کہنے لگا ہوں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار مرتبہ تکبیریں کہتے ہوئے دیکھا۔ راوی کہتے ہیں: پھر وہ اُس خاتون کے جنازہ کے ساتھ سوار ہوئے اور وہ ساتھ لے کر چلنے والے شخص سے یہ کہنے لگے: تم مجھے جنازہ کے آگے نہ لے کے جانا۔ خواتین نے رونا شروع کیا تو حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا: تم نہ رونا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے سے منع کیا ہے۔

ابن عیینہ کہتے ہیں: حضرت ابن ابو اوفی رضی اللہ عنہ نابینا تھے اور لوگ چوتھی تکبیر کے بعد ان کے کھڑے ہو کر میت کے لیے دعا کرنے کے بارے میں یہ رائے رکھتے تھے (جس کی اُن کی وضاحت کی) اور عام لوگوں کا بھی یہی معمول ہے۔

6405 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عطاء قال: التكبير على الرجل والمرأة أربعاً، قلت: بالليل والنهار؟ قال: نعم، قلت: فوضعا رجلين جميعاً، قال يكبر عليهما أربع تكبيرات، فقال السائل: فإن أناسا يقولون: ثلاث كما المغرب ثلاث قال: ما سمعنا بذلك

*** عطاء فرماتے ہیں: مرد اور عورت کی نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہی جائیں گی۔ میں نے دریافت کیا: خواہ رات میں یا دن میں؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: اگر لوگ دو لوگوں کے جنازے ایک ساتھ رکھ دیتے ہیں؟ تو فرمایا: اُن دونوں پر چار تکبیریں کہی جائیں گی۔ سائل نے دریافت کیا: کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تین تکبیریں ہوتی ہیں جس طرح

مغرب کی نماز میں تکبیریں ہوتی ہیں۔ تو عطاء نے جواب دیا: ہم نے اس بارے میں کوئی روایت نہیں سنی ہے۔

6406 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُوْفِي الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ أَصْحَمَةً، هَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ: فَصَفْنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مَعَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَتَفْسِيرُ أَصْحَمَةً بِالْعَرَبِيَّةِ: عَطَاءٌ

* * عطاء بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: آج حبشہ میں ایک نیک آدمی کا انتقال ہو گیا، اُصحمہ کا (یعنی شاہ حبشہ نجاشی کا) تم لوگ آؤ اور اس کی نماز جنازہ ادا کرو۔ راوی کہتے ہیں: ہم نے صنمیں بنالیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی آپ کے ساتھ ہم نے بھی نماز جنازہ ادا کی۔ امام عبد الرزاق کہتے ہیں: عربی میں ”اُصحمہ“ کا مطلب عطاء ہے۔

6407 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْضِعِ الْجَنَازَةِ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: أَتَذَرُونَ عَلِيَّ مَن صَلَّيْتُ؟ قَالُوا: لَا قَالَ: عَلِيَّ أَصْحَمَةً

* * سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے چار تکبیریں کہیں پھر آپ نے دریافت کیا: کیا تم لوگ جانتے ہو کہ میں نے کس کی نماز جنازہ ادا کی ہے؟ لوگوں نے عرض کی: جی نہیں! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اُصحمہ (یعنی حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی)۔

6408 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ أَنَّهُمْ لَمْ يَخْلِفُوا ابْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّجَاشِيِّ بِبَيْعِ الْمُصَلَّى " قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ النَّوْرِيُّ إِذَا كَبَّرَ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا سَلَّمَ وَلَمْ يَنْتَظِرِ الْخَامِسَةَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: حارث بن عبد الرحمن بن ابو ذباب نے مجھے یہ بات بتائی ہے: علماء کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ جنت البقیع کی جنازہ گاہ میں ادا کی تھی۔ امام عبد الرزاق بیان کرتے ہیں: سفیان ثوری جب کسی جنازہ میں چار تکبیریں کہتے تھے تو وہ سلام پھیر دیتے تھے وہ پانچویں تکبیر کا انتظار نہیں کرتے تھے اور میں بھی ایسا ہی کرتا ہوں۔

6409 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أُمِّ كَلْثُومٍ أُخْتِ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ وَتُوْفِيَتْ بِمَكَّةَ فَصَلَّى عَلَيْهَا بِالْبَيْعِ بِبَيْعِ الْمُصَلَّى، وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا

* * ابن جریر نے ابو بکر نامی راوی کے حوالے سے اُن کے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو مدینہ منورہ میں ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت

البقیع کی جنازہ گاہ میں اُن کی نماز جنازہ ادا کی اور اس میں چار تکبیریں کہیں۔

6410 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ عُمَرَ كَانَ يُطِيلُ الْقِيَامَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَيُكَبِّرُ الْإِمَامَ أَرْبَعًا

*** موسیٰ بن عقبہ نافع کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز جنازہ میں طویل قیام کرتے تھے اور امام کے طور پر چار تکبیریں کہتے تھے۔

6411 - اقوال تابعین: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ جَاءَ بِأُخْرَى كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، فَيَكُونُ أَرْبَعًا لِأُخْرَى وَخَمْسًا لِلأُولَى، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِ الْمَيِّتِ نَافِيًا، أَوْ أَنْ يَمُرَّ الرَّكِبُ بَيْنَ يَدَيْ الْجِنَازَةِ، وَأَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ الْمَيِّتِ مِنْ مُقَدِّمِ السَّرِيرِ أَوْ مُؤَخَّرِهِ، وَأَنْ يَمُرَّ أَهْلُ الْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيْ الْجِنَازَةِ قَرِيبًا أَوْ خَلْفَهَا قَرِيبًا، يُفْحِمُ بِذَلِكَ الْمَيِّتَ، وَإِذَا فَاجَأَتْهُ جِنَازَةٌ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ تَيَمَّمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَإِذَا فَاتَتْهُ مِنَ التَّكْبِيرِ شَيْءٌ بَادَرَ قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَ فَكَبَّرَ مَا فَاتَهُ

*** ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: جب امام نماز جنازہ کے لیے تکبیر کہہ دے پھر دوسرا جنازہ لایا جائے تو امام اُس پر بھی چار تکبیریں کہے گا۔ اس طرح دوسرے جنازہ کے لیے چار تکبیریں ہوں گی اور پہلے کے لیے پانچ ہو جائیں گی۔ ابراہیم نخعی اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ میت کے ساتھ آخری چیز ہو یا کوئی سوار شخص جنازے کے آگے سے گزرے یا کوئی شخص چارپائی کے اگلے یا پیچھے حصہ میں چارپائی کی چوڑائی کی سمت کے درمیان کھڑا ہو یا اہل میت میں سے کچھ لوگ جنازہ کے آگے سے اُس کے قریب ہو کر یا قریب سے کچھ پیچھے ہو کر گزریں اور وہ اُس کے ذریعہ میت کی تعظیم کریں اُن کے پاس جب اچانک کوئی جنازہ آتا اور وہ اُس وقت با وضو نہیں ہوتے تھے تو وہ تیمم کر کے نماز جنازہ ادا کر لیتے تھے اور اگر اُن کی کوئی تکبیر رہ جاتی ہے تو وہ اگلی تکبیر ہونے سے پہلے جلدی ہی فوت شدہ تکبیر ادا کر لیتے تھے۔

بَابُ مَنْ فَاتَتْهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ

باب: جس شخص کی کوئی تکبیر رہ جائے

6412 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ مَعَ الْإِمَامِ فَكَبِّرْ مَا فَاتَكَ

*** ابن جریج نے عطاء کا یہ قول نقل کیا ہے: جب تمہاری امام کے ساتھ کوئی تکبیر رہ جائے تو جو تکبیر رہ گئی تھی تم وہ کہہ لو۔

6413 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَادٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ فَبَادِرْ قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَ، وَبِهِ نَأْخُذُ

* * عطاء ثوری حماد مغیرہ اور ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جب تمہاری کوئی تکبیر رہ جائے تو تم اگلی تکبیر سے پہلے اسے کہہ

لو۔

(امام عبدالرزاق فرماتے ہیں:) ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

6414 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ فَضَى

مَا فَاتَهُ

* * قتادہ فرماتے ہیں: جب کسی شخص کی نماز جنازہ میں سے کوئی تکبیر رہ جائے تو وہ فوت شدہ تکبیر کی قضاء کر لے۔

6415 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ عَلَى الْجِنَازَةِ

إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ لَمْ يَقْضِهِ

* * حسن بصری فرماتے ہیں: جب جنازہ میں سے کسی شخص کی تکبیر رہ جائے تو وہ اس کی قضاء نہیں کرے گا۔

6416 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: إِذَا جُنْتُ وَقَدْ

كَبَّرَ الْإِمَامُ عَلَى الْمَيِّتِ، فَقُمْتَ فِي الصَّفِّ فَلَمْ تُكَبِّرْ حَتَّى يُكَبِّرُوا فَكَبِّرْ مَعَهُمْ

* * حارث بن زید بیان کرتے ہیں: جب تم آؤ اور امام میت کے لیے تکبیر کہہ چکا ہو تو تم صف میں کھڑے ہو جاؤ تم

تکبیر نہ کہو جب وہ لوگ اگلی تکبیر کہیں تو تم ان کے ساتھ تکبیر کہہ دو۔

بَابُ السَّهْوِ وَالصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَائِزِ وَلَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَائِزِ شَيْءٌ

باب: نماز جنازہ کے دوران سہواً ہونا نماز جنازہ کو کوئی چیز منقطع نہیں کرتی ہے

6417 - آثار صحابہ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ ثَلَاثًا،

ثُمَّ انْصَرَفَ نَاسِيًا، فَتَكَلَّمَ وَكَلَّمَ النَّاسَ "فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّكَ كَبَّرْتَ ثَلَاثًا قَالَ: فَصَفُّوا فَفَعَلُوا فَكَبَّرَ

الرَّابِعَةَ

* * حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے: انہوں نے جنازہ پر تین تکبیریں کہیں پھر وہ بھول کر نماز ختم

کر بیٹھے لوگوں نے اس بارے میں بات چیت کی انہوں نے لوگوں کے ساتھ بات چیت کی لوگوں نے کہا: اے ابو حمزہ! آپ نے

تین تکبیریں کہی تھیں۔ راوی کہتے ہیں: پھر ان لوگوں نے صفیں بنائیں اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے چوتھی تکبیر کہی۔

6418 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةٍ فَلَا يَضُرُّكَ مَا مَرَّ

بَيْنَ يَدَيْكَ يَقُولُ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؟ يَقُولُ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ أَيْضًا

* * قتادہ بیان کرتے ہیں: جب تم نماز جنازہ ادا کرو تو جو شخص اس کے آگے سے گزرتا ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں

پہنچائے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں: وہ کون سا نماز کو منقطع کر رہا ہے۔

معمربہتے ہیں: حسن بصری نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔

بَابُ الْقِرَاءَةِ وَالِدُعَاءِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ

باب: میت کی نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے قرأت کرنا اور دعا کرنا

6419 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنثَانَا، وَغَائِبِنَا وَشَاهِدِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَيَّ الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَيَّ الْإِيمَانَ وَبِهِ نَأْخُذُ

*** ابو سلمہ بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ میت کے لیے دعا کرتے ہوئے یہ کلمات پڑھتے تھے: ”اے اللہ! تو ہمارے زندہ اور مردوں لوگوں کی ہمارے چھوٹوں اور بڑوں کی ہمارے مردوں اور عورتوں کی ہمارے موجود اور غیر موجود لوگوں کی مغفرت فرما دے! اے اللہ! ہم میں سے جس شخص کو تو زندہ رکھے اُسے اسلام پر زندہ رکھنا اور ہم میں سے جسے تو موت دے اُسے ایمان پر موت دینا۔“

(امام عبد الرزاق فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔)

6420 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ مُزَيْنَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَوْلِ عَلَى الْمَيِّتِ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهُ، هَدَيْتَهُ لِلْإِسْلَامِ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ، وَجِئْنَا نَشْفَعُ لَهُ فَاغْفِرْ لَهُ

*** ابواسحاق نے مزینہ قبیلہ سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کے حوالے سے نبی اکرم ﷺ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ آپ میت کی نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھتے تھے:

6419- سنن ابی داؤد - کتاب الجنائز، باب الدعاء للمیت - حدیث: 2802، سنن ابن ماجہ - کتاب الجنائز، باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنائز - حدیث: 1493، السنن للنسائی - کتاب الجنائز، الدعاء - حدیث: 1970، المستدرک علی الصحیحین للحاکم - کتاب الجنائز، حدیث: 1259، صحیح ابن حبان - کتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما او مؤخرًا، فصل في الصلاة على الجنائز - ذکر ما يدعو البرء به في الصلاة على الجنائز، حدیث: 3125، مصنف ابن ابی شیبہ - کتاب الجنائز، ما قالوا في الصلاة على الجنائز - حدیث: 11162، السنن الكبرى للنسائی - کتاب الجنائز، الدعاء - حدیث: 2089، مشکل الآثار للطحاوی - باب بیان مشکل ما روی عن رسول الله عليه السلام من حدیث: 807، السنن الكبرى للبيهقي - کتاب الجنائز، جباة ابواب التكبير على الجنائز ومن اولی يادخاله القبر - باب الدعاء في صلاة الجنائز، حدیث: 6575، مسند احمد بن حنبل - مسند الشاميين، حدیث ابی ابراهيم الانصاری - حدیث: 17229، البحر الزخار مسند البزار - وما روی ابو سلمة بن عبد الرحمن، حدیث: 933، مسند ابی يعلى البوصلى - مسند ابی هريرة، حدیث: 5872، المعجم الاوسط للطبرانی - باب الالف، من اسمه احمد - حدیث: 1147، المعجم الكبير للطبرانی - من اسمه عبد الله، وما اسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - حبيب بن ابی ثابت، حدیث: 12469

”اے اللہ! یہ تیرا بندہ ہے یہ تیرے بندہ کا بیٹا ہے تو نے اسے پیدا کیا تھا تو نے ہی اس کی روح کو قبض کر لیا ہے تو نے ہی اسے اسلام کی ہدایت دی تھی تو اس کے پوشیدہ اعلانیہ معاملات کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے ہم اس کی سفارش کرنے کے لیے آئے ہیں تو تو اس کی مغفرت کر دے۔“

6421 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَقُولُ ثَلَاثًا عَلَى الْجَنَائِزِ: اللَّهُمَّ أَصْبَحَ عَبْدُكَ فُلَانٌ، إِنْ كَانَ صَبَاحًا، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً قَالَ: ”أَمْسَى عَبْدُكَ فَذُتْخَلِي مِنَ الدُّنْيَا وَتَرَكَهَا لِأَهْلِهَا، وَافْتَقَرَ إِلَيْكَ وَاسْتَعْنَيْتَ عَنْهُ، وَكَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ فَاغْفِرْ لَهُ، وَتَجَاوَزْ عَنْهُ، وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ

* * سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نماز جنازہ میں تین مرتبہ یہ دعا پڑھتے کرتے تھے: ”اے اللہ! تیرے فلاں بندہ کی صبح ہوگئی۔“

(راوی کہتے ہیں:) وہ یہ کلمات اُس وقت کہتے تھے جب صبح ہوتی تھی اور اگر شام ہوتی تھی تو یہ کہتے تھے:

”تیرے بندہ کی شام ہوگئی یہ دنیا سے چلا گیا اور یہ دنیا اہل دنیا کے لیے چھوڑ گیا اب یہ تیری بارگاہ کا محتاج ہے اور تو اس سے بے نیاز ہے یہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں تو تو اس کی مغفرت کر دے اور اس سے درگزر فرما۔“

معمر نے یہی روایت قتادہ کے حوالے سے نقل کی ہے۔

6422 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى الْمَيِّتِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَحْيَانِنَا وَأَمْوَاتِنَا، وَآلِفَ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاجْعَلْ قُلُوبَنَا عَلَى قُلُوبِ أَحْيَارِنَا، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ ارْجِعْهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ، اللَّهُمَّ عَفْوَكَ وَكَانَ إِذَا جَاءَهُ نَعْيُ الرَّجُلِ الْغَائِبِ قَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمُهْتَدِينَ، وَاخْلُفْهُ فِي تَرْكِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَنَحْتَسِبْهُ عِنْدَكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ وَلَا تَحْرِمْنا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَا بَعْدَهُ

* * حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ میت کی نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھتے تھے:

”اے اللہ! تو ہمارے زندہ اور مرحومین لوگوں کی مغفرت فرما دے ہمارے دلوں کے درمیان الفت قائم کر دے ہمارے درمیان بہتری رکھ دے ہمارے دلوں کو ہمارے بہترین لوگوں کے دلوں کی مانند کر دے اے اللہ! تو اس کی مغفرت کر دے اے اللہ! تو اس پر رحم کر اے اللہ! تو اسے ایسے معاملہ کی طرف لوٹا جو اس کے پہلے والے معاملہ سے زیادہ بہتر ہو اے اللہ! تو ہی معاف کر دے۔“

راوی بیان کرتے ہیں: جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کسی غیر موجود شخص کے انتقال کی اطلاع آتی تھی تو وہ یہ پڑھتے تھے: ”بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور بے شک ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اے اللہ! ہدایت یافتہ لوگوں

میں اس کے درجہ کو بلند کر دے اور اس کے پسماندگان میں ان کا دیکھ بھال کرنے والا ہو جائے تمام جہانوں کے پروردگار! ہم اس کے حوالے سے تیری بارگاہ میں ثواب کی امید رکھتے ہیں اے اللہ! تو ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھنا اور اس کے بعد ہمیں آزمائش کا شکار نہ کرنا۔

6423 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَاعْفِرْ لَهُ، وَأُورِدْهُ حَوْضَ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 * * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھتے تھے:
 ”اے اللہ! اس میں برکت رکھ دے! اے اللہ! تو اس پر رحمت نازل کر اور اس کی مغفرت کر دے اور اسے اپنے رسول کے حوض پر وارد کرنا۔“

6424 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ، يَعْنِي بَارِكْ فِيهِ: تُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ
 * * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما (اُس کے بعد حسب سابق روایت ہے)۔ روایت کے یہ الفاظ:
 تو اس میں برکت رکھ دے اس سے مراد یہ ہے کہ تو اس کو جنت میں داخل کر دے۔

6425 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَى الْجَنَازِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا لَعَمْرُ اللَّهِ أُخْبِرُكَ: أَتْبِعُهَا مَعَ أَهْلِهَا، فَإِذَا وَضَعُوهَا كَبَّرْتُ وَحَمِدْتُ اللَّهَ وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

* * سعید بن ابوسعید اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا: آپ نماز جنازہ کیسے ادا کرتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: میں تمہیں اس بارے میں بتاتا ہوں، میں اہل میت کے ساتھ جاتا ہوں جب وہ لوگ میت کو رکھ دیتے ہیں تو تکبیر کہتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، پھر یہ دعا کرتا ہوں:

”اے اللہ! یہ تیرا بندہ ہے، تیرے بندہ کا بیٹا ہے، تیری کنیز کا بیٹا ہے، یہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، تو اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے اے اللہ! اگر یہ اچھا تھا تو اس کی اچھائی میں اضافہ کر دے اور اگر بُرا تھا تو اس سے درگزر فرما اور اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ رکھنا اور اس کے بعد ہمیں کسی آزمائش کا شکار نہ کرنا۔“

6426 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى

الْجَنَائِزِ، وَأَخْبَرَنِي عَنْ أَبِي صَالِحِ الزِّيَّاتِ قَالَ: تَبَدُّا بِالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَحْيَانِنَا وَأَمْوَاتِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَآلِفَ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَاجْعَلْ قُلُوبَنَا عَلَى قُلُوبِ أَخْيَارِنَا، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَارْزُدْهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ، وَاجْعَلِ الْيَوْمَ خَيْرَ يَوْمٍ جَاءَ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے نماز جنازہ کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ابوصالح زیات یہ فرماتے ہیں: تم پہلے نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجو گے پھر تم یہ پڑھو گے:

”اے اللہ! ہمارے زندہ اور مرحومین کی مغفرت فرمادے ہمارے درمیان بہتری رکھ، ہمارے دلوں میں الفت رکھ ہمارے دلوں کو ہمارے بہترین لوگوں کے دلوں کی مانند کر دے اے اللہ! تو اس کی مغفرت کر دے اس پر رحم کر دے اور جس بہتری میں یہ تھا اسے اُس سے زیادہ بہتری کی طرف لے جا اور آج کے دن کو اس کے لیے سب سے بہترین دن کر دے اے اللہ! تو اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ رکھنا اور اس کے بعد ہمیں آزمائش کا شکار نہ کرنا۔“

6427 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ تَمَامِ السَّنَةِ أَوْ إِنَّهُ مِنَ السَّنَةِ

* * طلحہ بن عبید اللہ بن عوف بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی اقتداء میں ایک نماز جنازہ ادا کی تو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی میں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: یہ سنت کی تکمیل کے لیے ہے (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں): یہ سنت ہے۔

6428 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا اِمَامَةَ بْنَ سُهَيْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ ابْنَ الْمُسَيْبِ قَالَ: السَّنَةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ اَنْ يُكَبَّرَ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِاَمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ، وَلَا يَقْرَأُ اِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْاُولَى، ثُمَّ يُسَلِّمُ فِي نَفْسِهِ عَنْ يَمِينِهِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ شَهَابٍ قَالَ: الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْاُولَى

* * زہری بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہما کو سعید بن مسیب کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا: نماز جنازہ ادا کرنے میں سنت یہ ہے کہ آدمی تکبیر کہے پھر سورہ فاتحہ پڑھے پھر نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجے پھر بطور خاص میت کے لیے دعا کرے وہ صرف پہلی تکبیر کے بعد تلاوت کرے گا اور پھر اپنے دل میں (یعنی پست آواز میں) دائیں طرف سلام پھیرے گا۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں: ابن شہاب نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ نماز جنازہ میں تلاوت صرف پہلی تکبیر کے بعد ہوگی۔

6429 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: جَمَعْتُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

أَرْبَعِينَ كِتَابًا فَأَمْسَكَ مِنْهَا كِتَابًا وَاحِدًا فِيهِ: "يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ فَلَانٌ خَلَقْتَهُ، إِنْ تَعَاقَبَهُ فَبُذِّبِهِ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُ فَإِنَّكَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللَّهُمَّ صَعِدَ رُوحُهُ فِي السَّمَاءِ وَوَسِعَ عَنْ جَسَدِهِ الْأَرْضُ، اللَّهُمَّ نَوِّرْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَأَفْسِحْ لَهُ فِي الْجَنَّةِ، وَأَخْلِفْهُ فِي أَهْلِهِ، اللَّهُمَّ لَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ، وَلَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ" ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَأَمَرَنِي مَعْمَرٌ فَسَأَلْتُ ابْنَ مُجَاهِدٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْهُ مَعْمَرٌ فَحَدَّثَنِي بِهِ

*** مجاہد کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: میں نے نمازِ جنازہ کے بارے میں چالیس رسالے تحریر

کئے پھر ان میں سے ایک رسالے کو روک لیا جس میں یہ تحریر تھا:

"(امام یا نمازِ جنازہ پڑھنے والا شخص) تکبیر کہے گا پھر وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود

بھیجے گا پھر وہ یہ دعا پڑھے گا: اے اللہ! فلاں شخص تیرا بندہ تھا جسے تو نے پیدا کیا، اگر تو اس کے گناہوں کی وجہ سے

اسے سزا دیتا ہے (تو تیری مرضی ہے) اور اگر تو اس کی مغفرت کر دیتا ہے تو تو مغفرت کرنے والا ہے اور رحم کرنے

والا ہے اے اللہ! اس کی روح کو آسمان میں بلند کر دے اور اس کے جسم کے لیے زمین کو کشادہ کر دے اے اللہ! اس

کی قبر میں اس کے لیے نور کر دے اور اس کے لیے جنت میں کشادہ جگہ رکھ دے اور اس کے اہل خانہ کا نگران ہو جا

اے اللہ! اس کے بعد تو ہمیں گمراہ نہ کرنا اور اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ رکھنا اور ہماری اور اس کی مغفرت کر دینا۔"

ابن جریر نے بھی یہ روایت مجاہد کے حوالے سے نقل کی ہے۔ امام عبد الرزاق کہتے ہیں: معمر نے مجھے یہ ہدایت کی: میں نے

مجاہد کے صاحبزادے اس روایت کے بارے میں دریافت کیا (تو انہوں نے مجھے یہ حدیث سنائی) پھر جب معمر نے مجھ سے اس

کے بارے میں دریافت کیا تو میں نے یہ حدیث انہیں بیان کی۔

6430 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، كَانَ يَقْرَأُ فِي التَّكْبِيرَاتِ كَلِمًا

بِأَمِّ الْقُرْآنِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ فَلَانٌ، عَظُمَ أَجْرُهُ وَنُورُهُ وَالْحَقُّ بِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْسِحْ لَهُ فِي

قَبْرِهِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

*** حسن بصری فرماتے ہیں: تمام تکبیرات کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے اور آدمی یہ پڑھے گا:

"اے اللہ! فلاں شخص تیرا بندہ ہے تو اس کے اجر اور اس کے نور کو زیادہ کر دے اور اسے اس کے نبی کے ساتھ ملا دے

اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دے اے اللہ! تو اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ رکھنا اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔"

6431 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِمَنْحَةِ الْكَلْبِ

فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ

*** حسن بصری کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ ہر تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے۔

6432 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ

التَّكْبِيرَاتِ، وَكَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَآلِفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَاجْعَلْ قُلُوبَهُمْ عَلَى قُلُوبِ آخِيَارِهِمْ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمُهْتَدِينَ، وَاخْلُفْهُ فِي تَرْكِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ

*** ابن سیرین کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ کسی بھی تکبیر کے بعد تلاوت نہیں کرتے تھے وہ یہ دعا پڑھتے

تھے:

”اے اللہ! مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کی، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی مغفرت کر دے، ان کے درمیان اُلفت قائم کر دے، ان کے دلوں کو بہترین بندوں کے دلوں جیسا کر دے، اے اللہ! ہدایت یافتہ لوگوں میں اس (مرحوم) کے درجہ کو بلند کر دے اور اس کے پسماندگان کا نگران ہو جا، اے اللہ! تو اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ رکھنا اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔“

6433 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ أَيَقْرَأُ عَلَى الْمَيِّتِ

إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا

*** حماد نے ابراہیم نخعی کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ میں نے ان سے سوال کیا: جب آدمی نماز جنازہ ادا کرے

گا تو کیا وہ تلاوت کرے گا؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

6434 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: التَّكْبِيرَةُ الْأُولَى عَلَى

الْمَيِّتِ ثِنَاءٌ عَلَى اللَّهِ، وَالثَّانِيَةُ صَلَاةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالثَّلَاثَةُ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَالرَّابِعَةُ تَسْلِيمٌ

*** امام شعبی فرماتے ہیں: میت کی نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے پہلی تکبیر کے بعد اللہ تعالیٰ کی ثناء بیان کی جائے گی

دوسری تکبیر کے بعد نبی اکرم ﷺ پر درود بھیجا جائے گا، تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کی جائے گی اور چوتھی تکبیر کے بعد

سلام پھیر دیا جائے گا۔

6435 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: "عَلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ

مَوْقُوتٌ؟ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ، قَالَ سُفْيَانُ: وَبَلَّغْنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: عَلَيْهِ الدُّعَاءُ وَالِاسْتِغْفَارُ

*** منصور بیان کرتے ہیں: میں نے ابراہیم نخعی سے دریافت کیا: میت کی (نماز جنازہ ادا کرنے کے بارے میں) کیا

کوئی متعین چیز بھی ہے؟ انہوں نے کہا: مجھے اس کا علم نہیں ہے۔

سفیان کہتے ہیں: ہم تک یہ روایت پہنچی ہے کہ ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: میت کے لیے دعا کی جائے گی اور استغفار کیا جائے

گا۔

6436 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: مَا نَعْلَمُ فِي

الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ قِرَاءَةٍ وَلَا دُعَاءٍ شَيْنًا مَعْلُومًا

** سعید بن مسیب فرماتے ہیں: میت کی نماز جنازہ میں ہمیں کسی تلاوت کا علم نہیں ہے اور نہ ہی کسی متعین دعا کا علم ہے۔

6437 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جریج، قال حدثت عن أبي هريرة، وأبي الدرداء، وأنس بن مالك، وابن عباس: أنهم كانوا يقرءون بأم القرآن، ويدعون ويستغفرون بعد كل تكبيرة من الثلاث، ثم يكبرون الرابعة فيصرفون ولا يقرءون

** ابن جریج بیان کرتے ہیں: مجھے حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو درداء، حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ حضرات سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے اور تین تکبیروں میں سے ہر ایک تکبیر کے بعد دعا کرتے تھے اور استغفار کرتے تھے پھر یہ لوگ چوتھی تکبیر کہنے کے بعد نماز ختم کر دیتے تھے (اُس کے بعد یہ کچھ نہیں پڑھتے تھے)۔

6438 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جریج قال: قلت لعطاء: أيكبره أن يجمع مع الميت أحد في الصلاة على الجنائز؟ قال: ما بلغنا ذلك

** ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا یہ بات مکروہ ہے کہ نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے میت کے ساتھ کسی کو (دعا میں) اکٹھا کیا جائے؟ انہوں نے جواب دیا: یہ بات ہم تک روایت نہیں ہوئی ہے۔

6439 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جریج، عن أبي الحويرث، عن ابن عباس، أنه كان إذا صلى على الجنائز قال: اللهم اجعله لنا فرطاً، واجعل الجنة بيننا وبينه مؤعداً، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده

** حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات منقول ہے: جب وہ نماز جنازہ ادا کرتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے:

”اے اللہ! تو اسے ہمارے لیے پیش رو بنا دے اور جنت کو ہمارے اور اس کے درمیان ملاقات کی جگہ بنا دے اے اللہ! تو اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ رکھنا اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا۔“

6440 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن رجل، من أهل المدينة، عن إسحاق بن عبد الله، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عطاء بن يسار، أن زيد بن ثابت، كان يقول على الجنائز: "اللهم عبدك وابن عبدك، أحييته ما شئت وقبضته حين شئت وتبعته إذا شئت اللهم، إن كان زاكياً فزكّه، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده، اللهم اغفر لنا وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان" (الحشر: 10)، الآية

** عطاء بن یسار بیان کرتے ہیں: حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نماز جنازہ میں یہ پڑھتے تھے:

”اے اللہ! (یہ مرحوم) تیرا بندہ ہے تیرے بندے کا بیٹا ہے جب تک تو نے چاہا اسے زندہ رکھا اور جب تو نے چاہا

اس کی روح کو قبض کر لیا اور جب تو چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر دے گا اے اللہ! اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکی میں اضافہ کر دے اور اگر گناہگار تھا تو اس سے درگزر فرما اے اللہ! تو اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ رکھنا اور اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا اے اللہ! ہماری اور ہمارے ان بھائیوں کی مغفرت کر دے جو ایمان کے حوالے سے ہم سے سبقت لے جا چکے ہیں۔“

6441 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: إِذَا كَثُرَتْ خَلْفَ الْإِمَامِ عَلَى الْجِنَازَةِ فَاسْمِعْ نَفْسَكَ * * * معمر فرماتے ہیں: جب تم نماز جنازہ میں امام کے پیچھے تکبیر کہو گے تو پست آواز میں (دعا اور کلمات) پڑھو گے۔

6442 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقُلْتُ لَهُ: أَفْضَلُ مَا يُقَالُ عَلَى الْمَيِّتِ الْإِسْتِغْفَارُ

* * * طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کے بارے میں نقل کرتے ہیں: میں نے ان سے دریافت کیا: (یا میں نے ان سے کہا: تو انہوں نے جواب دیا:) میت کے لیے جو کچھ (دعا کے طور پر) کہا جائے اس میں سب سے افضل استغفار ہے۔

بَابُ تَسْلِيمِ الْإِمَامِ عَلَى الْجِنَازَةِ

باب: امام کا نماز جنازہ میں سلام پھیرنا

6443 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: إِذَا صَلَّى الْإِمَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ سَلَّمَ فِي نَفْسِهِ، عَنْ يَمِينِهِ وَبِهِ نَأْخُذُ

* * * حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: جب امام نماز جنازہ ادا کرے گا تو سلام پست آواز میں پھیرے گا اور صرف دائیں طرف پھیرے گا۔ (امام عبد الرزاق کہتے ہیں:) ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

6444 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً خَفِيفَةً عَلَى الْجِنَازَةِ

* * * محابد بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نماز جنازہ میں پست آواز میں سلام پھیرتے تھے۔

6445 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الْإِمَامُ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ، عَنْ يَمِينِهِ تَسْلِيمَةً خَفِيفَةً، قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِبَّاسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ * * * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: نماز جنازہ میں امام دائیں طرف پست آواز میں سلام پھیرے گا۔

سنیان ثوری نے یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ ابراہیم نخعی کے حوالے سے نقل کی ہے۔

6446 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً خَفِيفَةً

* * سعید بن جبیر فرماتے ہیں: امام پست آواز میں سلام پھیرے گا۔

6447 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى جِنَازَةٍ حَتَّى سَمِعَهُ

مَنْ تَلِيهِ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

* * معمر بیان کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ روایت مجھ تک پہنچی ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ

میں سلام پھیرتے ہوئے قریب کے لوگوں تک آواز پہنچائی۔

ابن جریج نے بھی یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کی ہے۔

6448 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُسَلِّمُ الْإِمَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ كَمَا يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ

وَيُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ

* * عطاء فرماتے ہیں: نماز جنازہ میں امام اسی طرح سلام پھیرے گا جس طرح وہ نماز میں سلام پھیرتا ہے اور وہ اپنے

پیچھے موجود لوگوں کو سلام کرے گا۔

6449 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ سَلَّمَ

حَتَّى يَسْمَعَهُ مَنْ تَلِيهِ "

* * حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ جب وہ نماز جنازہ ادا کرتے تھے تو (اتنی بلند آواز

میں) سلام پھیرتے تھے کہ قریب کے لوگوں تک آواز جاتی تھی۔

6450 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا

قَضَى الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ سَلَّمَ عَلَى يَمِينِهِ "

* * نافع نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ جب وہ نماز جنازہ ختم کرتے تھے تو

دائیں طرف سلام پھیرتے تھے۔

6451 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، فَأَسْمَعَهُمْ

بِالتَّسْلِيمِ

* * تیمی کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: ابن سیرین نے ایک نماز جنازہ ادا کی تو سلام پھیرنے

کی آواز لوگوں تک پہنچائی (یعنی بلند آواز میں سلام پھیرا)۔

بَابُ كَمْ يَدْخُلُ الْقَبْرَ

باب: کتنے لوگ قبر میں داخل ہوں گے؟

6452 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تُدْخِلُ الْقَبْرَ كَمْ شِئْتَ،

* * زہری فرماتے ہیں: جتنے تم چاہو اتنے لوگ قبر میں داخل کر لو۔

6453 - اِوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ، وَبِهِ نَأْخُذُ

* * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ ابراہیم نخعی سے بھی منقول ہے، ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

6454 - حَدِيثُ نَبِيِّ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوَّامَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

نَزَلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَشُقْرَانُ

* * حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں حضرت علی، حضرت فضل بن

عباس (اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام) حضرت شقران رضی اللہ عنہم داخل ہوئے تھے۔

6455 - حَدِيثُ نَبِيِّ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْحَبٍ

قَالَ: " كَانِي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةً: عَلِيٌّ، وَالْفَضْلُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ،

وَأَسَامَةُ أَوْ عَبَّاسٌ "

* * امام شعبی بیان کرتے ہیں: ابن ابومرحب نے یہ بات بیان کی ہے: میں گویا کہ اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر

شریف کو دیکھ رہا ہوں کہ چار آدمی اس میں موجود تھے: حضرت علی، حضرت فضل بن عباس، حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت

اسامہ یا شاید حضرت عباس رضی اللہ عنہم۔

6456 - حَدِيثُ نَبِيِّ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصِدِّقُ أَنَّهُ نَزَلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ، وَوَلِيَّ عَلِيٍّ سَفَلَتَهُ فِي الْقَبْرِ، وَنَزَلَ مَعَهُمْ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَتِ الْأَنْصَارُ: قَدْ

كَانَ لَنَا حَظٌّ فِي حَيَاتِهِ فَاجْعَلُوا لَنَا حَظًّا فِي مَوْتِهِ، فَانزَلُوا ذَلِكَ الْأَنْصَارِيَّ مَعَهُمْ، وَبَلَغَنِي أَنَّهُ خَوْلِيُّ بَنِ أَوْسٍ

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: اس شخص نے مجھے یہ بات بتائی ہے جس کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کی قبر مبارک میں حضرت علی اور حضرت فضل رضی اللہ عنہما اترے تھے، قبر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیریں حصے کے نگران حضرت علی رضی اللہ عنہ

ہونے تھے ان لوگوں کے ساتھ ایک انصاری بھی اترتا تھا کیونکہ انصار نے یہ کہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی ہمارا

ایک حصہ تھا، اس لیے آپ کے وصال میں بھی ہمارے لیے حصہ مقرر کریں۔ راوی کہتے ہیں: تو اس انصاری کو ان لوگوں نے دیگر

لوگوں کے ساتھ اتارا تھا۔

اور ایک روایت میں یہ بات منقول ہے: أن انصاری کا نام حضرت خولی بن اوس رضی اللہ عنہ تھا۔

بَابُ الْقَوْلِ حِينَ يُدَلَّى الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ

باب: جب میت کو قبر میں اتارا جائے تو کیا پڑھا جائے؟

6457 - اِوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْقَوْلِ حِينَ يُدَلَّى الْمَيِّتَ فِي

الْقَبْرِ، فَقَالَ: مَاتَ ابْنُ لُعْبِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَلَمَّا تَنَاوَلَهُ مِنْ فَوْقِ الْقَبْرِ سَمِعْتُ عَبِيدًا يَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، صَلَاتِنَا وَنُسُكِنَا وَمَحْيَانَا وَمَمَاتِنَا لَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أَمَرْنَا وَنَحْنُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَبِهِ نَأْخُذُ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: جب میت کو قبر میں اتار جائے تو کیا پڑھا جائے؟ انہوں نے جواب دیا: عبید بن عمیر کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، جب انہیں قبر کے اوپر سے پکڑا گیا (تاکہ نیچے اتارا جائے) تو میں نے عبید کو یہ کہتے ہوئے سنا:

”اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر جو بالکل ٹھیک تھا اور یہ شخص مشرک نہیں تھا، ہماری نماز، ہماری قربانی، ہماری زندگی اور ہماری موت تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور ہم مسلمان ہیں۔“
(امام عبدالرزاق کہتے ہیں:) ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

6458 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، وَعَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَا: كَانَ يُقَالُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ حِينَ يُدْلَى: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، وَفِي سَبِيلِكَ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْهُ مِنْكَ بِقَبُولِ حَسَنِ، وَأَوْرِدْهُ إِلَى خَيْرِ مَرَدٍ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ

* * عبدالکریم جزری نے مقسم اور زیاد بن ابومریم کا یہ بیان نقل کیا ہے: جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے اور یہ پڑھا جاتا ہے:

”اے اللہ! تیرے اسم سے برکت حاصل کرتے ہوئے تیری راہ میں اور تیرے رسول کے دین پر (ثابت قدم رہتے ہوئے) ہم اسے قبر میں اتار رہے ہیں (اے اللہ! تو اسے اپنی بارگاہ میں اچھے طریقے سے قبول کر لے اور اسے بہترین انجام کی طرف لے کے جا، اے اللہ! تو اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ رکھنا اور اس کے بعد ہمیں آزمائش کا شکار نہ کرنا۔“

6459 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا دَلَّيْتَ الْمَيِّتَ فِي لَحْدِهِ فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ قَبْرَهُ، وَالْجَنَّةُ بِنَيْبِهِ وَأَنْتَ عَنْهُ رَاضٍ غَيْرُ غَضَبَانَ

* * مجاہد فرماتے ہیں: جب تم میت کو لحد میں رکھو تو یہ پڑھو:

”اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اور اللہ کے رسول کے دین پر قائم رہتے ہوئے (ہم یہ کام کر رہے ہیں) اے اللہ! تو اس کی قبر کو اس کے لیے کشادہ کر دے اور اس کی قبر کو اس کے لیے نورانی کر

دے اور اسے اس کے نبی کے ساتھ ملا دے اور تو اس سے راضی ہو جا اس پر غضبناک نہ ہونا۔

6460 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَجِبُونَ أَنْ

يَسْرُلُوا عَلَى الْمَيِّتِ: بِسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ افْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ قَبْرَهُ، وَالْحَقُّهُ بِنَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ عَنْهُ رَاضٍ غَيْرُ غَضْبَانَ

* * * خیثمہ بیان کرتے ہیں: پہلے لوگ یہ بات مستحب سمجھتے تھے کہ میت کے پاس یہ کلمات پڑھیں:

”اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اور اللہ کے رسول کے دین پر رہتے ہوئے (ہم

اسے سپردِ خاک کر رہے ہیں) اے اللہ! تو اس کی قبر کو اس کے لیے کشادہ کر دے اور اس کی قبر کو اس کے لیے نورانی

کر دے اور اسے اس کے نبی کے ساتھ ملا دے اور تو اس سے راضی ہو جا اس سے ناراض نہ ہونا۔“

6461 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَجِبُونَ أَنْ

يَسْرُلُوا عَلَى الْمَيِّتِ: بِسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اجِرْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ

* * * خیثمہ بیان کرتے ہیں: پہلے لوگ یہ بات مستحب سمجھتے تھے کہ وہ میت پر یہ کلمات پڑھیں:

”اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اور اللہ کے رسول کے دین پر رہتے ہوئے (ہم

اسے سپردِ خاک کر رہے ہیں) اے اللہ! تو اسے جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اور شیطان کے شر سے

محفوظ رکھنا۔“

6462 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ

بْنِ مُزَاهِمٍ قَالَ: قَالَ النَّزَّالُ بْنُ سَبْرَةَ: " إِذَا أَدْخَلْتَنِي حُفْرَتِي فَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ فِي هَذَا الْبَيْتِ، وَبَارِكْ فِي دَاجِلِهِ

* * * نزال بن سبرہ بیان کرتے ہیں: جب تم مجھے قبر میں اتارنا تو یہ کہنا:

”اے اللہ! اس گھر میں برکت رکھنا اور اس میں داخل ہونے والے میں بھی برکت رکھنا۔“

6463 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ

كَانَ يَقُولُ إِذَا أَدْخَلَ الْمَيِّتَ فِي قَبْرِهِ: بِسْمِ اللَّهِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ نَأْخُذُ

* * * عاصم بن ضمیرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: وہ جب میت کو قبر میں اتارتے تھے تو یہ کہتے

تھے

”اللہ تعالیٰ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اور اللہ کے رسول کے دین پر رہتے ہوئے (ہم

اسے سپرد خاک کر رہے ہیں)۔“

(امام عبدالرزاق فرماتے ہیں:) ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

6464 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، كَانَ يَقُولُ إِذَا أَدْخَلَ الْمَيِّتَ اللَّحْدَ: بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالْيَقِينِ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ

*** اسماعیل بن ابوالخالد بیان کرتے ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب میت کو لحد میں رکھتے تھے تو یہ پڑھتے تھے: ”اللہ کے نام سے برکت حاصل کرتے ہوئے اور اللہ کے رسول کے دین پر رہتے ہوئے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین رکھتے ہوئے (ہم اسے سپرد خاک کرتے ہیں)۔“

بَابُ مِنْ حَيْثُ يَدْخُلُ الْمَيِّتُ الْقَبْرَ

باب: میت کو قبر میں کس طرف سے اتارا جائے گا؟

6465 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَضَرْتُ جِنَازَةَ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ الْخَارِفِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، فَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ كَشَفَ ثَوْبَ النَّعْشِ عَنْهُ حِينَ أَدْخَلَ الْقَبْرَ، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ، وَقَالَ: رَأَيْتُ الدَّرِيرَةَ عَلَى كَفْنِهِ، وَاسْتَلَّهُ مِنْ نَحْوِ رَجُلٍ الْقَبْرِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا

*** ابواسحاق بیان کرتے ہیں: میں حارث اعور خارفی کے جنازہ میں شریک ہوا جو حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے شاگردوں میں سے ایک تھے تو میں نے عبداللہ بن یزید انصاری کو دیکھا کہ انہوں نے میت کے اوپر سے کپڑا ہٹایا جب انہیں قبر میں داخل کیا جانے لگا اور بولے: یہ ایک شخص تھا۔ راوی کہتے ہیں: میں نے ان کے کفن پر زریہ (نام کی خوشبو) لگی ہوئی دیکھی پھر انہیں پاؤں کی طرف سے قبر میں اتارا گیا۔ پھر انہوں نے یہ بات بیان کی: اس طرح (قبر میں اتارا جاتا ہے)۔

6466 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ: لَا تُشْعِرُوا أَبِي أَحَدًا، وَسَلُونِي إِلَى رَبِّي سَلًا،

*** ربیع بن خثیم بیان کرتے ہیں: تم کسی کو میرے بارے میں اطلاع نہ دینا اور مجھے میرے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔

6467 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ مِثْلَهُ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے۔

6468 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَامِرًا أَدْخَلَ

ابنتہ القبر من قبل الرجلین

* * * نبی بن ابوعزہ بیان کرتے ہیں: میں عامر (شععی) کے پاس موجود تھا جب انہوں نے اپنی صاحبزادی کو پاؤں کی طرف سے قبر میں اتارا۔

6469 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن جریج قال: أخبرني عمران بن موسى قال: سأل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو رأسه والناس بعده

* * * عمران بن موسیٰ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کو سر کی طرف سے اور آپ کے بعد لوگوں کو بھی سر کی طرف سے قبر میں اتارا گیا۔

6470 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن جریج، عن غير واحد، من أهل المدينة، عن محمد بن عمرو، وأبي النصر، وسعيد بن خالد، ويحيى بن ربيعة، وأبي الزناد، وموسى بن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل من نحو رأسه وأبو بكر وعمر، إن الأمر قبلهم لم يزل على ذلك، وكذلك المرأة، قال أبو بكر: وأخبرني أبو بكر بن محمد

* * * حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سر کی طرف سے قبر میں اتارا گیا تھا پہلے زمانہ میں یہی معمول رہا عورت کے بارے میں بھی یہی حکم ہے۔
امام عبدالرزاق کہتے ہیں: ابوبکر بن محمد نے مجھے اس بارے میں بتایا ہے۔

6471 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن الثوري قال: حدثت عن إبراهيم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل القبر من قبل القبلة

* * * ابراہیم نخعی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کو قبلہ کی سمت سے قبر شریف میں اتارا گیا۔
6472 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن عمر بن سعد، أن علياً أخذ يزيد بن المكف من قبل القبلة وبه نأخذ

* * * عمر بن سعد بیان کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یزید بن مکف کو قبلہ کی سمت سے (قبر میں) اتارا تھا۔
(امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔)
6473 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن عمران بن أبي عطاء قال: شهدت محمد بن الحنفية حيث مات ابن عباس أخذ من نحو القبلة حين أدخله القبر

* * * عمران بن ابوعطاء بیان کرتے ہیں: میں (حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے) محمد بن حنفیہ کے پاس موجود تھا جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا انتقال ہوا تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی میت کو قبلہ کی سمت سے پکڑا تھا اور انہیں قبر میں اتارا تھا۔

بَابُ الدَّرِيرَةِ تُدْرُ عَلَى النَّعْشِ

باب: میت پر زریرہ (نام کی خوشبو) لگانا

6474 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَوْصَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ أَنْ لَا

يُدْرَأَ عَلَى ثَوْبِ نَعْشِهَا حَنُوطٌ

* * * ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں: سیدہ اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا نے یہ وصیت کی تھی کہ ان کی میت کے کپڑے پر زریرہ (

نام کی خوشبو) نہ لگائی جائے۔

6475 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى الْقُرَشِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ

الْعَزِيزِ يَنْهَى عَنِ الدَّرِيرَةِ تُدْرُ فَوْقَ النَّعْشِ

* * * طلحہ بن یحییٰ قرشی بیان کرتے ہیں: میں نے عمر بن عبدالعزیز کو دیکھا کہ انہوں نے میت کے اوپر زریرہ (نام کی

خوشبو) لگانے سے منع کیا ہے۔

بَابُ سِتْرِ الثَّوْبِ عَلَى الْقَبْرِ

باب: قبر پر کپڑے کے ذریعہ پردہ کر دینا

6476 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: مَاتَ الْحَارِثُ الْخَارِفِيُّ فَرَأَيْتُ

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: اكْشُطُوا هَذَا الثَّوْبَ فَإِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ، يَعْنِي سِتْرَ الثَّوْبِ عَلَى الْقَبْرِ

* * * ابواسحاق بیان کرتے ہیں: حارث خارفی کا انتقال ہو گیا تو میں نے عبداللہ بن یزید کو دیکھا کہ انہوں نے فرمایا: تم

لوگ یہ کپڑا ڈھانپ دو کیونکہ یہ ایک شخص تھا۔ ان کی مراد یہ تھی کہ قبر پر کپڑے کے ذریعہ پردہ کر دیا جائے۔

6477 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبٍ فَسِتَرَ عَلَى الْقَبْرِ حِينَ دَلَّى سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فِيهِ

قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فِي قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَمَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَسِتَرَ عَلَى

الْقَبْرِ بِثَوْبٍ فَكُنْتُ مِمَّنْ يُمَسِّكُ الثَّوْبَ وَبِهِ نَأْخُذُ

* * * امام شعبی بیان کرتے ہیں: زید بن مالک نے یہ بات نقل کی ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد بن

معاذ رضی اللہ عنہ کو قبر میں اتارنا تھا تو آپ نے ایک کپڑے کے ذریعہ پردہ کرنے کا حکم دیا تھا تو قبر پر پردہ کر دیا گیا تھا۔

سعید بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی قبر میں اترے تھے آپ کے ساتھ حضرت اسامہ بن

یزید رضی اللہ عنہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر کپڑے کے ذریعہ پردہ کر دیا تھا، میں ان افراد میں سے ایک تھا جنہوں نے کپڑے کو پکڑا ہوا

تھا۔

(امام عبدالرزاق فرماتے ہیں:) ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

بَابُ حَثِي التُّرَابِ

باب: (قبر پر) مٹی ڈالنا

6478 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَلْحَدُونَ لِمَوْتَاهُمْ، وَيَنْصِبُونَ اللَّيْنَ عَلَى اللَّحْدِ نَصْبًا، ثُمَّ يَحْتُونَ عَلَيْهِمُ التُّرَابَ وَبِهِ نَأْخُذُ

* * زہری فرماتے ہیں: مہاجرین اپنے مرحومین کے لیے لحد بنوایا کرتے تھے اور وہ لحد پر اینٹیں نصب کرواتے تھے پھر وہ اس پر مٹی ڈال دیتے تھے۔

(امام عبدالرزاق فرماتے ہیں:) ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

6479 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، لَمَّا دَفَنَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَتَّى عَلَيْهِ التُّرَابَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا يُدْفَنُ الْعِلْمُ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ فَقَالَ: وَابْنُ عَبَّاسٍ وَاللَّهِ قَدْ دُفِنَ بِهِ عِلْمٌ كَثِيرٌ

* * علی بن زید بن جدعان بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دفن کروایا تو ان پر مٹی ڈالی۔ پھر انہوں نے یہ بتایا: علم کو یوں دفن کر دیا جاتا ہے۔

علی بن زید بیان کرتے ہیں: میں نے یہ روایت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو سنائی، تو انہوں نے فرمایا: اللہ کی قسم! جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو دفن کیا گیا، تو بہت زیادہ علم کو دفن کر دیا گیا۔

6480 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عَلِيًّا حَتَّى عَلِيَّ يَزِيدُ بْنُ الْمُكْفَفِ قَالَ: هُوَ أَوْ غَيْرُهُ ثَلَاثًا

* * عمیر بن سعد بیان کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یزید بن مکفف (کی قبر) پر مٹی ڈالی اور بولے: (حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے یا شاید کوئی اور بولا:) یہ تین مرتبہ ڈالی جائے گی۔

بَابُ الرَّشِّ عَلَى الْقَبْرِ

باب: قبر پر پانی چھڑکنا

6481 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ بِقَبْرِ قَدْرُشٍ بِالْمَاءِ، فَقَالَ: اَكُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا عَلَى هَذَا؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ

* * قتادہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبر کے پاس سے ہوا، جس پر پانی چھڑکا گیا تھا تو آپ نے دریافت کیا: کیا ہم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی تھی؟ لوگوں نے عرض کی: جی نہیں! تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔

6482 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَالْأَسْلَمِيِّ قَالَا: عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ الرَّثُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 * * امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اور اسلمی نے (امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے) والد (امام محمد باقر رضی اللہ عنہ) کا یہ بیان نقل کیا ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں (بعد از دفن قبر پر) پانی چھڑکا جاتا تھا۔

6483 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبُقْعِ، فَإِذَا هُوَ بِقَبْرِ رَطْبٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ السُّوَيْدَاءُ الَّتِي كَانَتْ فِي بَنِي غَنَمٍ مَاتَتْ فَدُفِنَتْ لَيْلًا قَالَ: فَصَلَّى عَلَيْهَا، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: أَمَا إِذَا مَاتَ لِي حَمِيمٌ وَفَاتَتْنِي الصَّلَاةُ عَلَيْهِ فَقَدْ أَوْجَبَ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهِ، وَأَمَّا النَّاسُ هَكَذَا، فَالِدُّعَاءُ أَحَبُّ إِلَيَّ
 * * قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جنت البقیع کے پاس سے ہوا تو وہاں ایک تازہ قبر موجود تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس شخص کے بارے میں دریافت کیا (جس کی وہ قبر تھی) تو لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! یہ وہ سیاہ فام کنیر ہے جو بنو غنم کے ہاں ہوتی تھی اس کا انتقال ہو گیا، تو اسے رات میں ہی دفن کر دیا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں: تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس خاتون کی نماز جنازہ ادا کی۔

امام عبدالرزاق فرماتے ہیں: جب میرا کوئی قریبی عزیز فوت ہو جائے اور میں اُس کی نماز جنازہ ادا نہ کر پاؤں، تو یہ بات لازم ہوگی کہ میں اُس کی نماز جنازہ ادا کروں، لیکن لوگ تو اس طرح ہیں اور دعا کرنا میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے۔

بَابُ الْجَدَثِ وَالْبُنْيَانِ

باب: قبر کو اونچا بنانا (اور اُس پر) عمارت بنانا

6484 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، أَنَّ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ جَدَثُهُ شِبْرًا، وَجَعَلُوا ظَهْرَهُ مُسْنَمًا لَيْسَتْ لَهُ حَدَبَةٌ
 * * ابن جریر بیان کرتے ہیں: ابو بکر نامی راوی نے کئی راویوں کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ایک باشت اونچی رکھی گئی تھی اور لوگوں نے اُس پر چونا لگایا تھا جس میں کبڑا پن نہیں تھا۔

6485 - حدیث نبوی: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَقَطَ الْحَائِطُ الَّذِي عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ، فَسُتِرَ ثَمَّ بِنِي، فَقُلْتُ لِلَّذِي سَتَرَهُ: ارْفَعْ نَاحِيَةَ السُّتْرِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَإِذَا عَلَيْهِ جُبُوبٌ، وَإِذَا عَلَيْهِ رَمْلٌ كَأَنَّهُ مِنْ رَمْلِ الْعَرَصَةِ

* * عبدالرحمن بن قاسم بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس موجود دیوار گر گئی، تو پردہ کیا گیا اور پھر اُس عمارت کو بنایا گیا۔ میں نے اُس شخص سے کہا: جس نے پردہ کیا ہوا تھا، تم پردے کا کنارہ اٹھاؤ، تاکہ میں اُس کی زیارت کر

لوں۔ تو اس پر پتھر تھے اور اس پر ریت موجود تھی جیسے میدان کی ریت ہوتی ہے۔

6486 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحِبِيلَ، أَنَّهُ قَالَ: لَا تُطِيلُوا جَدَثِي

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ: فَإِنِّي رَأَيْتُ الْمُهَاجِرِينَ يَكْرَهُونَ ذَلِكَ
* * عمرو بن شرحبیل فرماتے ہیں: تم میری قبر کو لمبا (یا اونچا) نہ بنانا۔

امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: معمر نے اپنی روایت میں یہ بات نقل کی ہے: میں نے مہاجرین کو دیکھا ہے کہ وہ اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے۔

6487 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ أَسْأَلُكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْعُ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، يَعْنِي قُبُورَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَمْثَلًا فِي بَيْتٍ إِلَّا طَمَسْتَهُ

* * ابوالائل بیان کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابوہاشم سے کہا: میں تمہیں اس کام کے لیے بھیج رہا ہوں جس کام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا، تم جس بھی بلند قبر کو دیکھو اسے برابر کر دینا، راوی کہتے ہیں: اس سے مراد مسلمانوں کی قبریں تھیں اور جس بھی گھر میں کوئی تصویر دیکھنا اسے مٹا دینا۔

6488 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ، وَأَنْ يَقْضَصَ، وَأَنْ يُنَى عَلَيْهِ

* * ابوزبیر بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منع کرتے ہوئے سنا ہے کہ آدمی قبر پر بیٹھے یا اس پر چونا لگایا جائے یا قبر پر عمارت تعمیر کی جائے۔

6488-صحیح مسلم - کتاب الجنائز، باب النهی عن تجصيص القبر والبناء عليه - حدیث: 1663، صحیح ابن حبان - کتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدما او مؤخرًا، فصل فی القبور - ذکر الزجر عن الكتابة علی القبور، حدیث: 3221، المستدرک علی الصحیحین للحاکم - کتاب الجنائز، حدیث: 1303، سنن ابی داود - کتاب الجنائز، باب فی البناء علی القبر - حدیث: 2823، السنن للنسائی - کتاب الجنائز، الزیادة علی القبر - حدیث: 2010، مصنف ابن ابی شیبہ - کتاب الجنائز، فی تجصيص القبر والأجر يجعل له - حدیث: 11561، السنن الکبری للنسائی - کتاب الجنائز، الزیادة علی القبر - حدیث: 2129، شرح معانی الآثار للطحاوی - کتاب الجنائز، باب الجلوس علی القبور - حدیث: 1892، السنن الکبری للبیہقی - کتاب الجنائز، جماع ابواب عدد الکفن - باب لا یزاد فی القبر علی اکثر من ترابه لئلا یرتفع، حدیث: 6359، مسند احمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما - حدیث: 13888، مسند الطیالسی - احادیث النساء، ما اسند جابر بن عبد اللہ الانصاری - الافراد عن جابر، حدیث: 1894، مسند عبد بن حمید - من مسند جابر بن عبد اللہ، حدیث: 1076، المعجم الاوسط للطبرانی - باب العین، باب الیم من اسمه، حدیث: 6091

6489 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُثْمَانَ " أَمَرَ بِتَسْوِيَةِ الْقُبُورِ قَالَ: وَلَكِنْ يَرْفَعُ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا "، فَقَالَ: فَمَرُّوا بِقَبْرِ أُمِّ عُمَرَ وَبِنْتِ عُثْمَانَ قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَسُوِيَ

* * زہری بیان کرتے ہیں: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قبروں کو برابر کرنے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا: البتہ یہ زمین سے کچھ اونچی رکھی جائے۔

راوی بیان کرتے ہیں: اُن لوگوں کا گزر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اُم عمرو کی قبر کے پاس سے ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم کے تحت اُسے بھی برابر کر دیا گیا۔

6490 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تَرْبِيعَ الْقَبْرِ، يَعْنِي رَأْسَ الْقَبْرِ "

قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَأَخْبَرَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ قُبُورُ أَهْلِ أُحُدٍ جُثِّي مُسَنَّمَةً

* * حسن بصری کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ قبر کو مربع کی شکل میں (یعنی چوکور شکل میں) بنانے کو مکروہ قرار دیتے تھے اُن کی مراد قبر کا سرہانہ ہے۔

سفیان ثوری کہتے ہیں: ہمارے بعض اصحاب نے امام شعبی کا یہ بیان نقل کیا ہے: اہل اُحد کی قبریں کوہان نما تھیں اور ان پر چونکا ہوا تھا۔

6491 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو نَعَامَةَ قَالَ: حَضَرَتْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ وَشَهِدَ جَنَازَةً فَقَالَ: جَمِهَرُوا الْقُبُورَ جَمَهْرَةً، يُقَالُ: لَا تُرْفَعُ وَلَا تُسَنَّمُ

* * مسعر نے ایک شخص کا یہ بیان نقل کیا ہے جس کا نام ابونعامہ تھا وہ بیان کرتے ہیں: میں موسیٰ بن طلحہ کی نماز جنازہ میں شریک ہوا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں موجود تھے انہوں نے کہا: تم قبروں کو (گارے والی) مٹی لگا کر نہ بناؤ، یہ بات کہی جاتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے: نہ تو اسے بلند کیا جائے اور نہ ہی اس پر چونکا لگایا جائے۔

6492 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَحْسِبُهُ ثُمَامَةَ بْنَ شَفِيٍّ: أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَضَرَ دَفْنَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَفِّفُوا عَنْ صَاحِبِكُمْ يَعْنِي أَنْ لَا تُكْثِرُوا عَلَى قَبْرِهِ مِنَ التُّرَابِ

* * حضرت ثمامہ بن شفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اُس کے دفن کے وقت موجود تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم اپنے ساتھی کے لیے تخفیف رکھنا۔ (راوی کہتے ہیں: اس سے مراد یہ ہے کہ تم اُس کی قبر پر زیادہ مٹی نہ ڈالنا۔

6493 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُبْنَى عَلَى الْقَبْرِ أَوْ يُجَصَّصَ أَوْ يُتَغَوَّطَ عِنْدَهُ، وَكَانَ يَقُولُ: لَا تَتَّخِذُوا قُبُورَ إِخْوَانِكُمْ حِشَانًا

* * * عبد اللہ بن طاؤس اپنے والد کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: وہ اس بات کو مکروہ قرار دیتے تھے کہ قبر پر عمارت قائم کی جائے یا اُس پر چونا لگایا جائے یا اُس کے پاس پاخانہ کیا جائے۔
وہ یہ فرماتے تھے: تم اپنے بھائیوں کی قبروں کو بیت الخلاء نہ بناؤ۔

6494 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوری قال: إذا مرَّ بالقبرِ بمكة عشرَ سنينَ فاصنعَ به ما بدا لك دارًا أو مسجدًا أو حرتًا أو ما كان، فأما في بلادكم فَعِشْرِينَ سَنَةً

* * * سفیان ثوری کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ فرماتے ہیں: جب تمہارا گزر مکہ میں کسی قبر کے پاس سے ہو جسے دس سال ہو چکے ہوں تو اب تمہاری مرضی ہے تم اُسے جو مرضی بناؤ گھر بناؤ یا مسجد بناؤ یا کھیت بناؤ یا جو مرضی بناؤ لیکن جہاں تک تمہارے دوسرے علاقوں کا تعلق ہے تو وہاں یہ مدت بیس سال ہوگی۔

6495 - احوال تابعین: عبد الرزاق، قال: أخبرنا النعمان بن أبي شيبَةَ قال: نُوِّقِيَ عَمِّي لِي بِالْجَنْدِ فَدَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلِيٍّ ابْنِ طَاوُسٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَلْ تَرَى أَنْ أَقْصِصَ قَبْرَ أَخِي؟ قَالَ: فَضَحِكَ وَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا شَيْبَةَ، خَيْرٌ لَكَ أَلَّا تَعْرِفَ قَبْرَهُ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُ وَتَدْعُوَ لَهُ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُنْبَى عَلَيْهَا أَوْ تُجَصَّصَ أَوْ تُزْدَرَعَ، فَإِنَّ خَيْرَ قُبُورِكُمْ الَّتِي لَا تُعْرَفُ

* * * نعمان بن ابوشیبہ بیان کرتے ہیں: میرے چچا کا انتقال ”جند“ کے مقام پر ہوا تو میں اپنے والد کے ساتھ طاؤس کے صاحبزادے کے پاس گیا انہوں نے کہا: اے ابو عبد الرحمن! کیا آپ کی یہ رائے ہے کہ میں اپنے بھائی کی قبر پر چونا لگواؤں؟ راوی کہتے ہیں: تو وہ ہنس پڑے اور بولے: سبحان اللہ! اے ابوشیبہ! تمہارے لیے یہ بات زیادہ بہتر ہے کہ تمہیں اُس کی قبر کی شناخت بھی نہ ہو ماسوائے اس چیز کے کہ تم اُس کی قبر پر آ کر اُس کے لیے دعائے مغفرت کرو اور اُس کے لیے دعا کرو کیا تم یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول نے مسلمانوں کی قبروں پر عمارت بنانے سے یا چونا لگانے سے منع کیا ہے تمہاری قبروں میں بہتر قبریں وہ ہیں جن کی شناخت نہ ہو۔

6496 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن النعمان قال: سمعتُ طاووسًا، سُئِلَ عَنْ رَكِيَّةٍ بَيْنَ الْقُبُورِ فَكَّرَهُ أَنْ يُشْرَبَ مِنْهَا وَلَا يُتَوَضَّأَ، قُلْتُ: مَا الرَكِيَّةُ؟ قَالَ: يَقُولُ بَعْضُهُمْ: هُوَ الْبُئْرُ، وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: هُوَ الْغَدِيرُ يَكُونُ بَيْنَ الْقُبُورِ، قُلْتُ: فَأَيُّهُمَا تَقُولُهُ؟ قَالَ: نَقُولُ: هُوَ الْبُئْرُ، قُلْتُ: افْتَكَّرَهُ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَلِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّ الْقُبُورَ إِذَا كَثُرَ الْغَيْثُ غَرِقَتْ، فَلِذَلِكَ أَكْرَهُ الْوُضُوءَ مِنْهَا

* * * طاؤس کے بارے میں یہ بات منقول ہے: اُن سے قبرستان کے درمیان موجود کنویں کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے اُس میں سے پانی پینے یا اُس میں سے وضو کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ میں نے دریافت کیا: لفظ ”رکیہ“ سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اس سے مراد کنواں ہے جبکہ بعض حضرات نے یہ کہا ہے: اس سے مراد وہ کنواں ہے جو قبرستان

کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ میں نے دریافت کیا: ان دونوں میں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد کتواں ہے۔ میں نے دریافت کیا: کیا آپ اس کو مکروہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وضو کیا جائے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: وہ کیوں؟ انہوں نے جواب دیا: اس لیے کہ جب بارش زیادہ ہوتی تو قبریں ڈوب جاتی ہیں اسی لیے میں اس سے وضو کرنے کو مکروہ قرار دیتا ہوں۔

6497 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ الْأَخْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنِ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَقْصِصِ الْقُبُورِ، وَتَكْلِيلِهَا، وَالْكِتَابَةِ عَلَيْهَا، قَالَ الْبَجَلِيُّ: - يَعْنِي التَّكْلِيلَ رَفْعَهَا، - وَقَالَ غَيْرُهُ: التَّكْلِيلُ أَنْ يُطْلَى فَوْقَهَا شِبْهُ الْقَصَّةِ

* * * راشد بن سعد بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے قبروں پر چونا لگانے سے انہیں اونچا کرنے سے اور ان پر کوئی چیز تحریر کرنے سے منع کیا ہے۔

بجلی کہتے ہیں: لفظ ”تکلیل“ سے مراد قبر کو اونچا کرنا ہے جبکہ بعض حضرات نے یہ کہا ہے: ”تکلیل“ سے مراد یہ ہے کہ چوڑے کی طرح کی کوئی اور چیز قبر کے اوپر لگانا۔

بَابُ حُسْنِ عَمَلِ الْقَبْرِ

باب: قبر کو عمدہ طریقہ سے بنانا

6498 - حدیث نبوی: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَبْرِ يُحْفَرُ فَقَالَ: اصْنَعُوا كَذَلِكَ ثُمَّ قَالَ: مَا بِي أَنْ يَكُونَ يُغْنِي عَنْهُ شَيْئًا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عُمِلَ الْعَمَلُ أَنْ يُحْكَمَ قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَّغَنِي فِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يُغْنِ عَنْهُ شَيْئًا، وَلَكِنَّهُ أَطِيبُ إِلَى نَفْسِ أَهْلِهِ

* * * زید بن اسلم بیان کرتے ہیں: ایک قبر کی کھدائی ہو رہی تھی، نبی اکرم ﷺ اُس کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا: تم لوگ اسی طرح کام کرو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا: یہ (مرحوم کے) کسی کام نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ جب کوئی کام کیا جائے تو اُسے مضبوطی سے کیا جائے۔

ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں: یہ چیز اس (مرحوم کے) کسی کام نہیں آئے گی، لیکن اُس کے اہل خانہ کے نزدیک یہ چیز پسندیدہ ہوگی۔

6499 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنِ مَكْحُولٍ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى قَبْرِ ابْنِهِ إِذْ رَأَى فُرْجَةَ فَقَالَ لِلْحَفَّارِ: انْتِنِي بِمَدْرَةٍ لِأَسَدَهَا، أَمَا إِنَّهَا لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَكِنَّ يَقْرُبُ بَعِينَ الْحَيِّ

*** کھول بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ اپنے صاحبزادے کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اسی دوران آپ نے کشادگی دیکھی تو آپ نے قبر کھودنے والے سے کہا: میرے پاس پھاؤ ڈالے کر آؤ تاکہ میں اسے برابر کر دوں یہ چیز (مرحوم کو) کوئی نفع یا نقصان نہیں دے گی، لیکن زندہ شخص کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے گی۔

6500 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ جَالِسًا عَلَى قَبْرِ وَهُوَ يُلْحَدُ، فَقَالَ لِلَّذِي يُلْحَدُ: أَوْسِعْ مِنْ قَبْلِ رِجْلَيْهِ *** عاصم بن کلب اپنے والد کے حوالے سے ایک انصاری کا یہ بیان نقل کیا ہے: نبی اکرم ﷺ ایک قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اس کی لحد تیار کی جا رہی تھی تو آپ نے لحد بنانے والے شخص سے کہا: پاؤں کی طرف سے اسے کشادہ کرو۔

6501 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْفَرُوا وَأَوْسِعُوا وَأَحْسِنُوا وَادْفِنُوا الْإِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي قَبْرِ، وَقَدِّمُوا أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا، فَكَانَ أَبِي ثَالِثَ ثَلَاثَةٍ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا فَقَدِّمَ *** ہشام بن عامر بیان کرتے ہیں: غزوہ اُحد کے موقع پر میرے والد شہید ہو گئے تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم لوگ قبر کھودو اور اسے کشادہ رکھنا اور عمدہ طریقہ سے بنانا اور دو یا تین آدمیوں کو ایک قبر میں دفن کرنا اور آگے اسے رکھنا جسے قرآن زیادہ آتا ہو۔ راوی کہتے ہیں: تو میرے والد تین آدمیوں میں سے تیسرے نمبر پر تھے لیکن کیونکہ انہیں قرآن زیادہ آتا تھا اس لیے انہیں پہلے رکھا گیا۔

بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ حِينَ يَفْرُغُ مِنْهُ

باب: (جب میت کو دفن کر کے) فارغ ہوا جائے تو میت کے لیے دعا کرنا

6502 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ لَمَّا فَرَعُوا مِنْ قَبْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ وَالنَّاسُ مَعَهُ قَامَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَوَقَفَ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ قَالَ: أَسَمِعْتُمْ مِنْ قَوْلِهِ شَيْئًا؟ قَالَ: لَا

*** عبد اللہ بن عبید اللہ بن ابوملیکہ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ جب وہ عبد اللہ بن سائب کی قبر (پر مٹی وغیرہ ڈال کر) فارغ ہوئے تو ان کے ساتھ دیگر لوگ بھی تھے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے وہ قبر کے پاس ٹھہرے اور انہوں نے مرحوم کے لیے دعا کی۔ راوی کہتے ہیں: میں نے عبد اللہ سے دریافت کیا: کیا آپ نے حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی دعا میں سے کوئی بات سنی تھی؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں!

6503 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ، عَنْ غَيْرٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مِنْ أَهْلِ بَلَدِهِمْ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَى قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ حِينَ فَرَعُ مِنْهُ فَدَعَا لَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ فَمِنْ

هُنَالِكَ أُخِذَ ذَلِكَ "

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: ابو بکر نے اپنے شہر کے کئی حضرات کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ جب نبی اکرم ﷺ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو آپ ان کی قبر کے پاس ٹھہرے آپ نے ان کے لیے دعا کی اور ان کے لیے دعائے رحمت کی تو یہیں سے اس طریقہ کو حاصل کیا گیا ہے۔

6504 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: وَقَفَ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ عَلَى قَبْرِ بَعْدَ أَنْ فُرِغَ مِنْهُ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ تَبِّتْهُ، هُوَ الْآنَ يُسَأَلُ

*** ایوب بیان کرتے ہیں: ابن منکدر ایک (میت کو دفن سے) فارغ ہونے کے بعد اس کی قبر کے پاس ٹھہرے اور یہ دعا کی:

”اے اللہ! اسے ثابت قدم رکھنا کیونکہ اس وقت اس سے سوال کیا جائے گا۔“

6505 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي مُدْرِكٍ الْأَشْجَعِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، إِذَا سَوَّى عَلَى الْمَيِّتِ قَبْرَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ أَسْلَمَهُ إِلَيْكَ وَالْأَهْلُ وَالْمَالُ وَالْعَشِيرَةُ، وَذَنْبُهُ عَظِيمٌ فَاعْفِرْ لَهُ

*** ابو مدرک اشجعی بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب میت کی قبر کو بنوا لیتے تھے (یعنی دفن سے فارغ ہو جاتے تھے) تو یہ دعا کرتے تھے:

”اے اللہ! یہ تیرے سپرد ہے (یہ بھی) اہل خانہ مال خاندان (سب تیرے سپرد ہے) اس کا گناہ عظیم ہے تو تو اس کی مغفرت کر دے۔“

6506 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: كَبَّرَ عَلِيُّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَلَّفِ أَرْبَعًا وَجَلَسَ عَلَى الْقَبْرِ وَهُوَ يُدْفَنُ قَالَ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَوَلَدُ عَبْدِكَ، نَزَلَ بِكَ الْيَوْمَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ، اللَّهُمَّ وَسِّعْ لَهُ فِي مَدْخَلِهِ، وَاعْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ، فَإِنَّا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَيْرًا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ وَبِهِ نَأْخُذُ

*** عمیر بن سعید بیان کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یزید بن مکلف کی نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہیں وہ ان کی قبر کے پاس بیٹھ گئے جبکہ انہیں دفن کیا جا رہا تھا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ دعا کی:

”اے اللہ! یہ تیرا بندہ ہے تیرے بندے کی اولاد ہے آج یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے اور تو سب سے بہترین میزبان ہے اے اللہ! تو اس کے لیے اس کے داخلے کی جگہ کو (یعنی قبر کو) کشادہ کر دے اور اس کے گناہوں کی مغفرت کر دے کیونکہ ہمیں اس کے بارے میں صرف بھلائی کا علم ہے اور تو اس کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے۔“

(امام عبدالرزاق فرماتے ہیں:) ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

6507 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ فَرَّغَ مِنْ دَفْنِ مَيْمُونَةَ وَقَفَ عَلَى الْقَبْرِ

فَدَعَا سَاعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ "

* * امام عبدالرزاق بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم) کی زوجہ محترمہ اور اپنی خالہ (سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہما) کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو وہ قبر کے پاس کھڑے ہوئے انہوں نے کچھ دیر دعا کی اور پھر واپس گئے۔

بَابُ الْمَزَابِي وَالْجُلُوسِ عَلَى الْقَبْرِ

باب: قبر پر (شکار کے لیے) جا لگانا یا (قبر پر) بیٹھنا

6508 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَزَابِي قُبُورًا، وَالْمَزَابِي الَّتِي تَتَّخَذُ لِلصَّيْدِ * * ابن جریج بیان کرتے ہیں: مجھے یہ روایت بتائی گئی ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر مزابی لگانے سے منع کیا ہے۔

راوی کہتے ہیں: مزابی سے مراد وہ چیز ہے جسے شکار کے لیے لگایا جاتا ہے۔

6509 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: يُكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ عَلَى الْقُبُورِ أَوْ يُجْلَسَ عَلَيْهَا، قُلْتُ لَهُ: اتَّخَطَاهُ؟ قَالَ: ائْكَرَهُهُ قَالَ: إِنَّا إِذَا بَلَّغْنَا قَبْرَ أَحَدِهِمْ إِنَّا لَنَطْوُهُ * * ابن جریج بیان کرتے ہیں: عطاء نے مجھ سے کہا: اس بات کو مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ قبر پر وضو کیا جائے یا قبر پر بیٹھا جائے۔ میں نے دریافت کیا: کیا آپ قبر پر پاؤں دیں گے؟ انہوں نے جواب دیا: میں اسے مکروہ قرار دوں گا۔ وہ یہ فرماتے ہیں: جب ہم کسی کی قبر پر پہنچیں گے تو ہم اس پر پاؤں دے دیں گے۔

6510 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَجَاءَ مَقْبَرَةَ مَكَّةَ، فَقِيلَ لَهُ: ائْطُو عَلَى الْقَبْرِ قَالَ: فَأَيْنَ أَطْوُهَا؟ هَا هُنَا؟ وَأَشَارَ إِلَى ثِنْيَةِ الْمَدِينَةِ * * سعید بن جبیر کے بارے میں یہ بات منقول ہے وہ مکہ کے قبرستان آئے تو ان سے کہا گیا: کیا آپ قبروں پر پاؤں دیں گے انہوں نے فرمایا: میں کہاں پاؤں دوں گا؟ کیا یہاں؟ انہوں نے اہل مدینہ کی گھائی کی طرف اشارہ کر کے یہ کہا۔

6511 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لِأَنَّ أَجْلِسَ عَلَى جَمْرَةٍ فَتَحْرِقَ رِذَائِي، ثُمَّ قِمِصِي، ثُمَّ إِزَارِي، ثُمَّ تَفْضِي إِلَى جِلْدِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

* * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں انگارے پر بیٹھ جاؤں جو میری چادر کو پھر میری قمیص کو پھر میرے تہبند کو جلا

کر میری جلد تک پہنچ جائے یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہوگا کہ میں کسی مسلمان شخص کی قبر پر بیٹھوں۔

6512 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ زَيْدٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ

مَسْعُودٍ: لِأَنَّ أَطَا عَلَى جَمْرِ الْقَضَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَطَا عَلَى قَبْرِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ

* * * طلق بن حبيب بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں جلتے انگارے اپنے پاؤں کے نیچے

دے دوں یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہوگا کہ میں کسی مسلمان شخص کی قبر پر پاؤں دوں۔

6513 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمِ الْبَرَادِ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ

مِثْلَهُ

* * * یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے۔

بَابُ صِفَةِ حَمْلِ النَّعْشِ

باب: میت کی چار پائی کو اٹھانے کا طریقہ

6514 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ سَعِيدِ

بْنِ جُبَيْرٍ فِي جِنَازَةٍ، فَحَمَلَ سَعِيدٌ قَبْدًا بِمُقَدِّمِ الْعُودِ الَّذِي عَلَى الرَّأْسِ فَجَعَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى طَرَفِهِ الَّذِي يَلِي الرَّجُلَ فَحَمَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ جَاءَ طَرَفَهُ الَّذِي يَلِي الرَّأْسَ فَجَعَلَهُ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ انْصَرَفَ عَلَى يَمِينِهِ، وَقَالَ: هَكَذَا حَمَلُ الْجَنَائِزِ

* * * اسماعیل بن ابوکثیر بیان کرتے ہیں: وہ ایک جنازہ میں سعید بن جبیر کے ساتھ تھے سعید نے جنازہ کو کندھا دیتے

ہوئے سرہانے کی طرف لکڑی کے آگے والے حصے سے آغاز کیا اور وہ انہوں نے اپنے دائیں کندھے پر رکھ لی پھر وہ اسی سمت میں پاؤں کی طرف آگے پھرا انہوں نے اُسے اپنے بائیں کندھے پر رکھا پھر وہ سر کی طرف آگے اور اُسے انہوں نے اپنے بائیں کندھے پر رکھا پھر وہ واپس دائیں طرف آئے اور انہوں نے بتایا: جنازہ کو اس طرح کندھا دیا جاتا ہے۔

6515 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: رَأَيْتُهُ حَمَلَ جِنَازَةً قَبْدًا بِمُقَدِّمِ السَّرِيرِ

فَجَعَلَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْمَنِ، ثُمَّ جَعَلَ كَمَا ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: وَقَالَ أَيُّوبُ: إِذَا حَمَلْتَهُ الْأُولَى هَكَذَا فَاحْمِلْ بَعْدَ كَيْفِ بَشْتِ

* * * معمر نے ایوب کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے: میں نے انہیں ایک جنازہ کو کندھا دیتے ہوئے دیکھا انہوں

نے چار پائی کے آگے والے حصے سے آغاز کیا اور اُسے اپنے دائیں کندھے پر رکھ لیا اُس کے بعد انہوں نے اسی طرح کیا جس کا ذکر ابن جریج نے سعید بن جبیر کے حوالے سے کیا ہے۔ ایوب بیان کرتے ہیں: جب تم پہلی مرتبہ کندھا دو گے تو اس طرح کرو گے اُس کے بعد جیسے تم چاہو ویسے کندھا دو۔

6516 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: ابْدَأْ بِالْيَمَانِ، وَكَانَ هُوَ يَبْدَأُ بِيَدِهِ ثُمَّ رَجَلِيهِ

* * * حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: دائیں طرف سے آغاز کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ خود پہلے سر ہانے کی طرف سے آغاز کرتے تھے اور پھر پاؤں کی طرف سے کندھا دیتے تھے۔

6517 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُسُطَاسٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا اتَّبَعَ أَحَدُكُمْ الْجِنَازَةَ، فَلْيَأْخُذْ بِجَوَانِبِهَا كُلِّهَا، فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ، ثُمَّ لِيَتَطَوَّعَ بَعْدَ أَوْ يَتْرُكْ

* * * حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب کوئی شخص جنازہ کے ساتھ جائے تو اُس کے تمام اطراف سے اُسے کندھا دے کیونکہ یہ سنت ہے اُس کے بعد اگر وہ چاہے تو نقلی طور پر مزید ایسا کرے اور اگر چاہے تو ترک کر دے۔

6518 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْمُهَزَّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَمَلَ الْجِنَازَةَ بِجَوَانِبِهَا الْأَرْبَعِ فَقَضَى الَّذِي عَلَيْهِ

* * * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو شخص چاروں طرف سے جنازہ کو کندھا دیتا ہے وہ اپنے ذمہ فرض کو ادا کر دیتا ہے۔

6519 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الْمُطَّرِحِ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ لِعَلِيِّ: يَا أَبَا حَسَنِ، أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ الْجِنَازَةَ حَمَلُهَا وَاجِبٌ عَلَيَّ مَنْ شَهِدَهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ، فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ جِنَازَةً فَقَدِمْتُهَا بَيْنَ يَدَيْكَ وَاجْعَلْهَا نُصْبًا بَيْنَ عَيْنَيْكَ، فَإِنَّمَا هِيَ مَوْعِظَةٌ وَتَذَكُّرَةٌ وَعِبْرَةٌ، فَإِنْ بَدَأَ لَكَ أَنْ تَحْمِلَ فَانظُرْ إِلَى مُقَدِّمِ السَّرِيرِ، وَانظُرْ إِلَى جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ فَاجْعَلْهُ عَلَى مَنْبِكِكَ الْأَيْمَنِ

* * * ابو امامہ بیان کرتے ہیں: حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے ابوالحسن! اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میں کسی جنازہ کے ساتھ جاتا ہوں تو کیا جنازہ میں شریک ہونے والوں کو میت کو کندھا دینا واجب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا: جی نہیں! لیکن یہ بہتر ہے جو شخص چاہے اُسے اختیار کر لے اور جو شخص چاہے اُسے ترک کر دے جب تم جنازہ کے ساتھ شریک ہو تو اُسے اپنے سامنے رکھو اور اپنی دونوں آنکھوں کے مد مقابل رکھو کیونکہ اُس سے وعظ حاصل ہوگا، نصیحت حاصل ہوگی اور عبرت حاصل ہوگی پھر اگر تم کندھا دینا چاہو تو چار پائی کے اگلے حصہ کا جائزہ لو اور پھر اُس میں بھی بائیں طرف کا جائزہ لو اور اُسے اپنے دائیں کندھے پر رکھو۔

6520 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هُشَيْمِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْأَزْدِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ حَمَلَ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ الْأَرْبَعِ قَالَ: بَدَأَ بِيَمَانِئِهَا ثُمَّ تَنَحَّى عَنْهَا فَكَانَ مِنْهَا بِمَنْزِلَةِ مُزَجِرٍ

الکلب

* * از دی بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ وہ ایک جنازہ میں شریک ہوئے تو انہوں نے چار پائی کے چاروں کونوں کو کندھا دیا۔ راوی کہتے ہیں: انہوں نے دائیں طرف سے آغاز کیا پھر پیچھے ہٹ گئے۔ وہ اس کے ساتھ یوں چل رہے تھے جیسے کتے کو ہٹانے کے لیے (سب سے پیچھے چل رہے ہوں۔)

بَابُ انْصِرَافِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَازَةِ قَبْلَ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُمْ

باب: لوگوں کا باقاعدہ اجازت ملنے سے پہلے جنازہ سے واپس چلے جانا

6521 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَقُومُ إِذَا شَهِدَ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا

لَهُ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا

* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب کسی جنازہ میں شریک ہوتے تھے تو اس کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد اس وقت تک نہیں اٹھتے تھے جب تک انہیں اجازت نہیں دی جاتی تھی۔

6522 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ الْمِسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَيَّ

جِنَازَةٍ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يُؤْذَنَ لَهُ

* * حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے: جب وہ نماز جنازہ کو ادا کرتے تھے تو اس وقت تک واپس نہیں جاتے تھے جب تک انہیں اجازت نہیں دی جاتی تھی۔

6523 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ هَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي

هُرَيْرَةَ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَا: "أَمِيرَانِ وَلَيْسَا بِأَمِيرَيْنِ: الرَّجُلُ

يَكُونُ مَعَ الْجِنَازَةِ فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ وَلَيْهَا، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ لَيْسَ لِأَصْحَابِهَا أَنْ

يَصْدُرُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا"، قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَّغَنِي

عَنْ عُمَرَ وَعَلِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَنْصَرِفَانِ حَتَّى يَسْتَأْذِنَا

* * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: دو طرح کے امیر ایسے ہیں جو باقاعدہ امیر نہیں ہوتے (لیکن ان کی بات مانی پڑتی ہے) ایک یہ کہ آدمی کسی جنازہ میں شریک ہو اس کی نماز جنازہ ادا کر لے تو آدمی کو اس وقت تک واپس جانے کا اختیار نہیں ہوگا جب تک میت کے ولی سے اجازت نہیں لیتا اور دوسرا حیض والی عورت اس کے ساتھ والوں کے لیے واپس جانا اس وقت تک مناسب نہیں ہوگا جب تک وہ اجازت نہیں لیتے۔

معمرنے اپنی روایت میں یہ بات نقل کی ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت تک واپس نہیں جاتے تھے جب تک اجازت نہیں لیتے تھے۔

• • معمر بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات مجھ تک پہنچی ہے کہ یہ دونوں حضرات اجازت لینے سے پہلے واپس نہیں جاتے تھے۔

6524 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أبي اسحاق، أن ابن مسعود قال: إذا صليت على جنازة فقد قضيت الذي عليك فخلها وأهلها، فكان ينصرف ولا يستأذنهم

* * * ابو اسحاق بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب تم نماز جنازہ ادا کر لو تو تم نے اپنے ذمہ لازم چیز کو ادا کر دیا ہے اب تم جنازہ کو اور اُس کے متعلقین کو اُن کے حال پر رہنے دو۔ (راوی کہتے ہیں: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ) ایسی صورت حال میں واپس چلے جاتے تھے وہ اہل میت سے اجازت نہیں لیتے تھے۔

6525 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زيد بن ثابت أنه كان ينصرف ولا ينتظر اذنهم وبه نأخذ

* * * حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ (جنازہ میں شریک ہونے کے بعد) واپس چلے جاتے تھے وہ اُن لوگوں کی اجازت کا انتظار نہیں کرتے تھے۔
(امام عبدالرزاق فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔)

6526 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن الثوري، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زيد بن ثابت قال: إذا صليت على الجنازة فقد قضيت الذي عليك فخل بينها وبين أهلها

* * * حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب تم نماز جنازہ ادا کر لو تو تم نے اپنے ذمہ لازم چیز کو ادا کر دیا اب میت کو اور اُن کے اہل خانہ کو اُن کے حال پر رہنے دو۔

6527 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن الحسن، وقتادة أنهما كانا ينصرفان ولا ينتظران اذنهم

* * * حسن بصری اور قتادہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے: یہ حضرات واپس چلے جاتے تھے اور اجازت کا انتظار نہیں کرتے تھے۔

6528 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جريج، وعن غيره، عن يزيد بن عبد الله بن الهادي، أنه رأى القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير وهما يتبعان جنازة، فسمعا النداء قبل أن يفرغ، فقاما حين سمعا النداء قبل أن يفرغا منها

* * * یزید بن عبداللہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے قاسم بن محمد اور عروہ بن زبیر کو دیکھا کہ یہ دونوں ایک جنازہ کے ساتھ جا رہے تھے فارغ ہونے سے پہلے انہوں نے ایک پکار سنی جب انہوں نے یہ پکار سنی تو اُس سے فارغ ہونے سے پہلے ہی یہ دونوں حضرات کھڑے ہو گئے (اور واپس چلے گئے)۔

6529 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثْتُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ خَرَجَ مَعَ جَنَازَةٍ فَلَمَّا وُضِعَتْ فِي الْقَبْرِ انْصَرَفَ وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ ایک جنازہ کے ساتھ گئے جب جنازہ کو قبر میں اتار لیا گیا تو وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے اجازت نہیں لی۔

6530 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى مُسْكَةٍ مِنْ دِينِهَا مَا لَمْ يَكْلُوا النَّاسَ الْجَنَائِزَ إِلَى أَهْلِهَا

* * حارث بن وہب روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا:

”میری امت اپنے دین پر اس وقت تک گامزن رہے گی جب تک وہ جنازوں کو اس کے اہل خانہ کے سپرد نہیں کرتے۔“

بَابُ يُدْفَنُ فِي التُّرْبَةِ الَّتِي مِنْهَا خُلِقَ

باب: آدمی اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے جس سے اُسے پیدا کیا گیا ہو

6531 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ وَرَّازٍ، عَنْ عِكْرَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: يُدْفَنُ كُلُّ إِنْسَانٍ فِي التُّرْبَةِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا * * * عکرمہ فرماتے ہیں: ہر انسان اسی مٹی میں دفن ہوتا ہے جس سے اُسے پیدا کیا گیا ہو۔

6532 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ يَحْيَى بْنِ بَهْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا تُدْفَنُ الْأَجْسَادُ حَيْثُ تُقْبَضُ الْأَرْوَاحُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: - يَعْنِي إِذَا مَاتَ لَا يُحْمَلُ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى غَيْرِهَا، يُدْفَنُ فِي مَقْبَرَةِ قَوْمِهِ، فَأَمَّا فِي مَوْضِعِهِ حَيْثُ يَمُوتُ فَلَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ إِلَّا بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

* * یحییٰ بن بہمان بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”جب روح قبض ہو جاتی ہے تو جسم کو دفن کر دیا جاتا ہے۔“

امام عبدالرزاق فرماتے ہیں: اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اُسے اُس بستی سے کسی دوسری جگہ منتقل نہ کیا جائے تاکہ اُسے آبائی قبرستان میں دفن کیا جائے البتہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آدمی کا انتقال جس جگہ ہوا ہے اُسے عین اسی جگہ دفن کیا جائے تو یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا (اور کسی کے ساتھ نہیں کیا جاسکتا)۔

6533 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي نُوحُ بْنُ أَبِي بِلَالٍ، عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ

الْهُدَلِي، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ إِلَّا بَعَثَ اللَّهُ مَلَكًا فَآخَذَ مِنَ الْأَرْضِ تُرَابًا فَجَعَلَهُ عَلَى مَقْطَعِ سُرَّتِهِ فَكَانَ فِيهِ شِفَاؤُهُ، وَكَانَ قَبْرُهُ فِي مَوْضِعٍ أَخَذَ التُّرَابَ مِنْهُ

* * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو بھیجتا ہے وہ زمین سے کچھ مٹی لے کر اس مٹی کو اس بچہ کے ناف کے کانٹے کی جگہ پر رکھ دیتا ہے اس میں اس کے لیے شفاء ہوتی ہے اور جس جگہ سے وہ مٹی لی گئی ہوتی ہے اس کی قبر بھی وہیں بنتی ہے۔

بَابُ لَا يُنْقَلُ الرَّجُلُ مِنْ حَيْثُ يَمُوتُ

باب: آدمی کا (جس شہر میں) انتقال ہوا ہو اُسے وہاں سے دوسری جگہ منتقل نہ کیا جائے

6534 - حَدِيثُ نَبِيِّ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْأَلُوا أَيَّنَ يَقْبُرُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى قَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَمْ يَقْبُرْ نَبِيٌّ إِلَّا حَيْثُ يَمُوتُ قَالَ: فَأَخْرُوا فِرَاشَهُ فَحَفَرُوا لَهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: میرے والد نے یہ مجھے یہ بات بتائی ہے کہ صحابہ کرام کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کریں؟ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان کی کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

”نبی کی قبر وہیں بنتی ہے جہاں اُس کا انتقال ہوا ہو۔“

راوی کہتے ہیں: تو لوگوں نے آپ کا بستر ہٹایا اور آپ کے بستر کے عین نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبر کھودی۔

6535 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْ حَضَرْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ - تَعْنِي أَخَاهَا - مَا دُفِنَ إِلَّا حَيْثُ مَاتَ، وَكَانَ مَاتَ بِالْحُبَشِيِّ فَدُفِنَ بِأَعْلَى مَكَّةَ، وَالْحُبَشِيُّ قَرِيبٌ مِنْ مَكَّةَ

* * ابن ابوملیکہ بیان کرتے ہیں: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: اگر میں عبدالرحمن کے پاس موجود ہوتی (اس سے مراد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر ہیں) تو اُس کو وہیں دفن کیا جاتا جہاں اُس کا انتقال ہوا تھا۔ (راوی بیان کرتے ہیں:) اُن کا انتقال حبشی (نامی جگہ پر) ہوا تھا اور انہیں مکہ کے بالائی حصہ میں دفن کیا گیا۔ (راوی کہتے ہیں:) حبشی، مکہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔

6536 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ مَنْصُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أُمَّهُ صَفِيَّةُ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: عَزَيْتُ عَائِشَةَ فِي أَحْيَاهَا، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَحْيَى، إِنَّ أَكْثَرَ مَا أَجِدُ فِيهِ مِنْ شَأْنِ أَحْيَى أَنَّهُ لَمْ يُدْفَنَ حَيْثُ مَاتَ

*** منصور بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں: اُن کی والدہ صفیہ نے یہ بات انہیں بتائی کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی کی انتقال کے سلسلہ میں اُن سے تعزیت کرنے کے لیے گئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اللہ تعالیٰ میرے بھائی پر رحم کرے! مجھے اپنے بھائی کے معاملہ میں سب سے زیادہ افسوس اس بات کا ہے کہ اُسے اُس جگہ دفن نہیں کیا گیا جہاں اُس کا انتقال ہوا تھا۔

6537 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جریج، أخبرني كثير بن كثير، عن أمه عائشة بنت أبي

عقرب، عن عائشة أم المؤمنين، أنها قالت: لو حضرته - تعني أخاها - دفن تحت فراشه

*** أم المؤمنين سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: اگر میں اُس کے پاس موجود ہوتی (سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی مراد

اُن کے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے) تو اُسے اُس کے پھونے کے نیچے دفن کیا جاتا۔

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ

باب: میت کے دفن ہو جانے کے بعد اُس کی نماز جنازہ ادا کرنا

6538 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت البناني، عن أبي رافع، أن إنسانا كان يقوم على

المسجد فينقى منه الشيء يجده، فتوفى فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بأيام فقالوا: توفى يا رسول الله قال: فهلا أذنتموني، فإن صلاتي عليهم نور في قبورهم

*** حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک شخص مسجد کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا اور اگر اُسے کوڑا کرکٹ وغیرہ نظر آتا

تھا تو اُسے صاف کر دیتا تھا اُس کا انتقال ہو گیا اس کے کچھ دن گزرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! اُس کا تو انتقال ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا میرا ان لوگوں کے لیے نماز جنازہ ادا کرنا ان کی قبروں میں ان کے لیے نور ہوتا ہے۔

6539 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة قال: توفى عبد الرحمن بن

أبي بكر على ستة أميال من مكة فحملناه حتى جئنا به إلى مكة فدفناه فقدمت علينا عائشة بعد ذلك فعابت ذلك علينا، ثم قالت: أين قبر أخي؟ فدللناها عليه فوضعت في هودجها عند قبره فصلت عليه

*** ابن ابوملیکہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہما کا انتقال مکہ سے چھ میل کے فاصلہ پر ہوا، ہم اُن کی

میت اٹھا کر مکہ آئے اور انہیں مکہ میں دفن کیا۔ اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ہمارے پاس آئیں اور انہوں نے اس حوالے سے ہم پر اعتراض کیا پھر انہوں نے دریافت کیا: میرے بھائی کی قبر کہاں ہے؟ ہم نے انہیں اس بارے میں بتایا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہودج کو اُن کی قبر کے پاس رکھا گیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اُن کی نماز جنازہ ادا کی۔

6540 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن الثوري، عن سليمان الشيباني، عن الشعبي، عن ابن عباس، أن

رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة بعد ما دفن

* * حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دفن ہو جانے کے بعد (میت کی) نماز جنازہ ادا کی ہے۔

6541 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ سَوْدَاءَ كَانَتْ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ فَمَاتَتْ فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَمَا دُفِنَتْ

* * قاسم بن محمد بیان کرتے ہیں: ایک سیاہ فام عورت مسجد میں ہوتی تھی اس کا انتقال ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دفن ہو جانے کے بعد اس کی نماز جنازہ ادا کی۔

6542 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: اشْتَكَبْتُ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ عَنْهَا وَكَانَ أَحْسَنَ شَيْءٍ أُرِيَ قَالَ: أَحْسَنَ النَّاسِ عِبَادَةَ لِلْمَرِيضِ قَالَ: فَقَالَ: إِنْ مَاتَتْ فَأَذِنُونِي بِهَا فَتُوفِّيَتْ لَيْلًا، فَأَصْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ فَأَخْبَرُوهُ بِخَبَرِهَا، وَأَنَّهُمْ دَفَنُوهَا لَيْلًا قَالَ: فَاتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَبَّرَ أَرْبَعًا

* * حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نواحی علاقہ کے رہنے والی ایک خاتون بیمار ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں دریافت کرتے رہتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کا عیادت سب سے اچھے طریقے سے کرتے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر اس کا انتقال ہو جائے تو تم لوگ مجھے بتا دینا۔ اس خاتون کا انتقال رات کے وقت ہو گیا اگلے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو لوگوں نے اس کی صورت حال کے بارے میں آپ کو بتایا کہ وہ لوگ تو اسے رات میں ہی دفن کر چکے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں: تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی قبر کے پاس تشریف لائے اور آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے چار تکبیریں کہیں۔

6543 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ حَنْشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ: جَاءَ نَاسٌ بَعْدَمَا صَلَّى عَلَيَّ سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ، فَأَمَرَ عَلِيٌّ قُرْظَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَنْ يُؤْمَهُمْ وَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ بَعْدَمَا دُفِنَ

* * حنش بن معتمر بیان کرتے ہیں: حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہما کی نماز جنازہ ہو جانے کے بعد کچھ لوگ آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرظہ انصاری کو یہ ہدایت کی کہ ان کی امامت کریں اور انہوں نے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہما کے دفن ہو جانے کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی۔

6544 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يُعَادُ عَلِيٌّ مَيِّتِ الصَّلَاةِ * * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: میت کی نماز جنازہ دوبارہ ادا نہیں کی جائے گی۔

6545 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا انْتَهَى إِلَى

جِنَازَةٍ وَقَدْ صَلَّى عَلَيْهَا دَعَا وَانصَرَفَ وَلَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ

* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب کسی ایسے جنازے تک پہنچتے تھے جس کی نماز جنازہ ادا کی جا چکی ہو تو وہ صرف دعا کر کے واپس چلے جاتے تھے وہ نماز جنازہ کو دوبارہ ادا نہیں کرتے تھے۔

6546 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَدِمَ بَعْدَمَا تَوَقَّى عَاصِمَهُ

أَخُوهُ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالَ: أَيْنَ قَبْرُ أَخِي فَدَلُّوهُ عَلَيْهِ، فَاتَاهُ فَدَعَا لَهُ وَبِهِ نَأْخُذُ

* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بھائی عاصم کے انتقال کے بعد آئے انہوں نے ان کے بارے میں دریافت کیا کہ میرے بھائی کی قبر کہاں ہے؟ لوگوں نے ان کی راہنمائی ان کی قبر کی طرف کی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان کی قبر کے پاس آئے اور ان کے لیے دعا کی۔

(امام عبدالرزاق فرماتے ہیں:) ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

6547 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ لَمْ يُصَلِّ

عَلَيْهَا

قَالَ مَعْمَرٌ: كَانَ قَتَادَةَ إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَيْهَا

* * حسن بصری کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ جب ان کی نماز جنازہ رہ جاتی تھی تو وہ نماز جنازہ (دوبارہ) ادا نہیں کرتے تھے۔

معمربیان کرتے ہیں: قتادہ کی جب نماز جنازہ رہ جاتی تھی تو وہ پھر بھی (بعد میں دوبارہ) نماز جنازہ ادا کر لیتے تھے۔

بَابُ الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

باب: رات کے وقت دفن کرنا

6548 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: دَفْنُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: رات کے وقت دفن کرنے (کا حکم کیا ہے؟) انہوں

نے جواب دیا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

6549 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنِ غَيْرِ طَائِلٍ

وَدُفِنَ لَيْلًا فَزَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُضْطَرَّ النَّاسُ إِلَى

ذَلِكَ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ

* * حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے اپنے اصحاب میں

سے ایک صاحب کا ذکر کیا جن کا انتقال ہو گیا تھا، جنہیں نامناسب دفن دیا گیا تھا اور رات میں ہی دفن کر دیا گیا تھا، تو نبی اکرم ﷺ نے اس بات سے منع کیا کہ کسی شخص کورات میں دفن کیا جائے جب تک اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جاتی، البتہ اگر لوگ (کسی اور وجہ سے) اس کے لیے مجبور ہو جائیں (تو حکم مختلف ہے)۔ نبی اکرم ﷺ نے یہ بھی ارشاد فرمایا: جب کوئی شخص اپنے بھائی کو کفن دے تو اچھا کفن دے۔

6550 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُفِنَ لَيْلًا

* * * عکرمہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کورات میں دفن کیا گیا تھا۔

6551 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا شَعَرْنَا بِدَفْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَمِعْنَا صَوْتَ الْمَسَاحِي مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

* * * سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: ہمیں نبی اکرم ﷺ کے دفن ہونے کا پتا بھی نہیں چلا یہاں تک کہ ہم نے رات کے آخری حصہ میں پھاؤڑے چلنے کی آواز سنی۔

6552 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، دُفِنَ لَيْلًا وَصَلِيَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ

* * * ہشام بن عروہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کورات میں دفن کر دیا گیا اور ان کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی گئی۔

6553 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، أَنَّ عُمَرَ، دَفَنَ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بَعْدَ مَا صَلَّى

* * * عبید بن سباق بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ادا کر کے انہیں دفن کروادیا۔

6554 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ حَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُفِنَتْ بِاللَّيْلِ قَالَ: فَرَّبَهَا عَلِيٌّ مِنْ أَبِي بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، كَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ

* * * حسن بن محمد بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کورات میں دفن کر دیا گیا۔ راوی بیان کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ اس بات سے بچنا چاہ رہے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں کیونکہ ان دونوں کے درمیان کچھ (ناراضگی) تھی۔

6555 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ، إِلَّا أَنَّهُ

قَالَ: أَوْصَتْهُ بِذَلِكَ

*** یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے تاہم اس میں یہ بات منقول ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس بات کی وصیت کی تھی (کہ انہیں رات میں دفن کیا جائے)۔

6556 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، دَفَنَ فَاطِمَةَ لَيْلًا وَلَمْ يُؤْذِنْ

بِهَا أَبَا بَكْرٍ

*** سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو رات میں ہی دفن کر دیا تھا انہوں نے اس بارے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اطلاع نہیں دی تھی۔

6557 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ شَرِيحٌ، يَدْفِنُ لَيْلًا

*** امام شععی بیان کرتے ہیں: قاضی شریح (مرحومین کو) رات میں ہی دفن کر دیتے تھے۔

6558 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ قَالَ: كَانَ شَرِيحٌ يَتَعَمَّدُ بِمَوْتَاهُ

اللَّيْلِ، وَإِذَا أَصْبَحَ سُنِلَ عَنْهُ فَقَالَ: قَدْ هَدَا وَنَرَجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَرَاخَ

*** عاصم احوال بیان کرتے ہیں: قاضی شریح جان بوجھ کر مرحومین کو رات کے وقت دفن کرتے تھے جب اگلے دن ان سے اس مرحوم کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو وہ یہ کہتے تھے: وہ رخصت ہو چکا ہے اور ہمیں یہ امید ہے کہ اب وہ راحت حاصل کر چکا ہے۔

6559 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ، وَغَيْرَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ

يَقُولُونَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ إِنْ دَعَا رَفَعَ صَوْتَهُ وَإِنْ صَلَّى رَفَعَ صَوْتَهُ، وَإِنْ قَرَأَ رَفَعَ صَوْتَهُ، فَشَكَاهُ أَبُو ذَرٍّ

إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا الْأَعْرَابِيَّ قَدْ آذَانِي، لَئِنْ دَعَا لَيَرْفَعَنَّ

صَوْتَهُ، وَلَئِنْ قَرَأَ لَيَرْفَعَنَّ صَوْتَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُهُ فَإِنَّهُ آوَاهُ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةُ

تَبُوكَ رَأَيْتُ نَارَ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: لَأَتِينَ هَذَا النَّارَ فَلَأَنْظُرَنَّ مَا عِنْدَهَا، فَإِذَا جِنَازَةٌ تُجَهَّزُ، وَإِذَا رَجُلٌ فِي الْقَبْرِ وَإِذَا

هُوَ يَقُولُ هَلُمُّوا أَذْنُوا إِلَيَّ صَاحِبِكُمْ أَذْنُوا إِلَيَّ صَاحِبِكُمْ، فَإِذَا فِي الْقَبْرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا

الْأَعْرَابِيُّ الْجِنَازَةَ

*** حسن بن مسلم اور ان کے دیگر ساتھیوں نے یہ بات بیان کی ہے: نجد سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جب دعا کرتا تھا

تو بلند آواز میں کرتا تھا اور جب نماز پڑھتا تھا تو بلند آواز میں پڑھتا تھا اور جب تلاوت کرتا تھا تو بلند آواز میں کرتا تھا۔ حضرت

ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! یہ دیہاتی شخص میرے لیے مشکل پیدا

کرتا ہے جب یہ دعا کرتا ہے بلند آواز میں کرتا ہے جب یہ تلاوت کرتا ہے تو بلند آواز میں کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اُسے کرنے دو کیونکہ یہ نیک شخص ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: غزوہ تبوک کے موقع پر میں نے رات کے وقت آگ دیکھی تو میں نے سوچا کہ میں اس آگ کے پاس جا کر اس بات کا جائزہ لیتا ہوں کہ اس کے پاس کیا ہے؟ تو وہاں ایک جنازہ تیار کیا جا رہا تھا اور ایک شخص قبر میں موجود تھا اور یہ کہہ رہا تھا: چلو! اپنے ساتھی کو میری طرف بڑھاؤ! راوی کہتے ہیں: تو قبر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اور جنازہ اُس دیہاتی شخص کا تھا۔

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْحِينِ الَّتِي تُكْرَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ

باب: ایسے وقت میں نماز جنازہ ادا کرنا، جس وقت میں نماز ادا کرنا مکروہ ہوتا ہے

6560 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ، أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُصَلِّي عَلَى الْجِنَازِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا صَلَّوْهَا فِي وَقْتِهَا. عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

* * ایوب بیان کرتے ہیں: میں نے نافع سے دریافت کیا: کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عصر کی نماز کے بعد یا صبح کی نماز کے بعد نماز جنازہ ادا کر لیتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! جبکہ لوگ نماز کے وقت میں اُس نماز جنازہ کو ادا کر لیں۔

6561 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

* * کی مانند روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حوالے سے منقول ہے۔

6562 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ كَانَا يُصَلِّيَانِ عَلَى الْجِنَازِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَالصُّبْحِ مَا كَانَا فِي وَقْتِ

* * حسن بصری اور قتادہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے: یہ دونوں حضرات عصر اور صبح کی نماز کے بعد نماز جنازہ ادا کر لیتے تھے جبکہ اُس کا وقت باقی ہو (یعنی سورج غروب ہونے والا نہ ہو یا بالکل طلوع ہونے والا نہ ہو)۔

6563 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازِ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ شَيْئًا

* * حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات منقول ہے: وہ سورج طلوع ہونے کے وقت نماز جنازہ ادا کرنے کو مکروہ سمجھتے تھے جب تک سورج کچھ بلند نہیں ہو جاتا۔

6564 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْرَجُوا بِالْجِنَازِ قَبْلَ أَنْ تَطْفُلَ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ

* * حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: سورج کے غروب ہونے کے قریب ہونے سے پہلے جنازہ لے آؤ۔

6565 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ يَوْمَ وَضِعَتْ جِنَازَةُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ بِسَقِيعِ الْعُرْقِدِ: يُرِيدُونَ أَنْ يُصَلُّوا، عَلَيْهَا بَعْدَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَصَاحَ بِالنَّاسِ ابْنُ عُمَرَ: أَلَا تَتَّقُونَ اللَّهَ إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ لَكُمْ أَنْ تُصَلُّوا عَلَى الْجِنَازِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ وَلَا

بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ فَانْتَهَى النَّاسُ فَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهَا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ

* * حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ بات منقول ہے: جس دن حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کا جنازہ دہشت البقیع میں رکھا گیا اور لوگ صبح کی نماز کے بعد اور سورج نکلنے سے پہلے ان کی نماز جنازہ ادا کرنا چاہتے تھے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بلند آواز میں لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا: کیا تم لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہو! تمہارے لیے صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد سورج کے غروب ہونے تک نماز جنازہ ادا کرنا درست نہیں ہے۔ (راوی کہتے ہیں: تو لوگ اس سے باز آ گئے اور انہوں نے سورج نکلنے کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی۔

6566 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْجَبْرِ

الَّذِي تُكْرَهُ فِيهِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: تُكْرَهُ

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: اُس وقت میں نماز جنازہ ادا کرنا جس میں نماز ادا کرنے سے مکروہ ہے (اس کا حکم کیا ہوگا؟) انہوں نے جواب دیا: یہ مکروہ ہوگا۔

6567 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى

الْجِنَازَةِ مَا لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ

* * حسن بصری فرماتے ہیں: جب تک سورج غروب نہیں ہوتا، اُس وقت تک نماز جنازہ ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں

ہے۔

6568 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كُنْتُ

بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فِي الْفِتْنَةِ فَجَاءَ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ عَقِيلَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَدْ وَضَعَ بِبَابِ الْمَسْجِدِ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ يَسَارٍ، انْظُرْ آغَابَتِ الشَّمْسُ؟ فَقَالَ: لَا، فَأَبَى أَنْ يَقُومَ قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: انْظُرْ آغَابَتِ الشَّمْسُ؟ فَظَرْتُ فَقُلْتُ: لَا، فَأَبَى أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ قَالَ: فَذَهَبُوا بِهِ فَصَلُّوا عَلَيْهِ وَهُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُؤَمِّمَهُمْ ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ حِينَئِذٍ بِمَكَّةَ

* * عبداللہ بن عبداللہ بن یسار بیان کرتے ہیں: میں مدینہ منورہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس موجود تھا یہ فتنہ کے زمانہ کی بات ہے۔ انصار سے تعلق رکھنے والے ایک صحابہ عباس بن سہل آئے اور انہوں نے کہا: اے ابو عبدالرحمن! حضرت عقیل بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کا جنازہ مسجد کے دروازہ پر رکھ دیا گیا ہے تاکہ ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔ (راوی کہتے ہیں: یہ عصر کے بعد کی بات ہے) تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اے ابن یسار! تم دیکھو! کیا سورج غروب ہو چکا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ راوی کہتے ہیں: پھر وہ واپس گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: تم دیکھو! کیا سورج غروب ہو چکا ہے؟ راوی کہتے ہیں: میں نے جائزہ لیا تو میں نے کہا: جی نہیں! تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے نماز جنازہ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ راوی کہتے ہیں: وہ لوگ چلے گئے اور انہوں نے نماز جنازہ ادا کر لی وہ

لوگ یہ چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اُن لوگوں کی امامت کرتے۔ راوی کہتے ہیں: اُن دنوں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما مکہ کے حکمران تھے۔

6569 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ كَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: "نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُصَلِّيَ فِي ثَلَاثِ سَاعَاتٍ وَأَنْ نَدْفِنَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ حَتَّى تَبْيَضَّ وَتَرْتَفِعَ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا حَتَّى يَسْتَبِينَ غُرُوبُهَا، وَنِصْفَ النَّهَارِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ"

* * * حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ہمیں اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم تین اوقات میں نماز ادا کریں یا ان میں اپنے مردوں کو دفن کریں: سورج طلوع ہونے کے وقت جب تک وہ روشن اور بلند نہیں ہو جاتا سورج غروب ہونے کے وقت جب تک وہ واضح طور پر غروب نہیں ہو جاتا اور گرمی کی شدت میں نصف النہار کے وقت۔

بَابُ هَلْ يُصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ وَسَطَ الْقُبُورِ

باب: کیا قبرستان کے درمیان میں نماز جنازہ ادا کی جاسکتی ہے؟

6570 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَسَطَ الْمَبْقِعِ بَيْنَ الْقُبُورِ قَالَ: وَالْإِمَامُ يَوْمَ صَلَّيْنَا عَلَى عَائِشَةَ؟ أَبُو هُرَيْرَةَ، وَحَضَرَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ * * * نافع بیان کرتے ہیں: ہم نے سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما کی نماز جنازہ جنت البقیع میں قبروں کے

6569- صحیح مسلم - کتاب صلاة المسافرين وقصرها' باب الاوقات التي نهى عن الصلاة فيها - حديث: 1415' مستخرج
ابن عوانة - مبتدا ابواب مواقيت الصلاة' بيان حظر الصلاة في ثلاث ساعات وإيجاب الإمساك عن الصلاة فيها -
حديث: 890' صحيح ابن حبان - كتاب الصلاة' فصل في الاوقات المنهى عنها - ذكر البيان بان هذا العدد المحصور في
حبر ابي هريرة لم' حديث: 1565' سنن الدارمي - كتاب الصلاة' باب اي ساعة تكره فيها الصلاة - حديث: 1452' سنن
ابن داود - كتاب الجنائز' باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها - حديث: 2793' سنن ابن ماجه - كتاب الجنائز'
باب ما جاء في الاوقات التي لا يصلى فيها على الميت' حديث: 1514' السنن للنسائي - كتاب المواقيت' الساعات التي نهى
عن الصلاة فيها - حديث: 560' مصنف ابن ابي شيبة - كتاب صلاة التطوع والإمامة و ابواب متفرقة' من كان ينهى عن
الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها - حديث: 7248' السنن الكبرى للنسائي - مواقيت الصلوات' ذكر الساعات التي
نهى عن الصلاة فيها - حديث: 1526' شرح معاني الآثار للطحاوي - باب مواقيت الصلاة' حديث: 537' مشكل الآثار
للطحاوي - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه' حديث: 3343' السنن الكبرى للبيهقي - كتاب
الصلاة' جماع ابواب الساعات التي تكره فيها صلاة التطوع - باب النهي عن الصلاة في هاتين الساعتين' حديث: 4073'
مسند احمد بن حنبل - مسند الشاميين' حديث عقبه بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم - حديث: 17069'
مسند الضيالى - وعقبه بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم' حديث: 1082' مسند ابي يعلى الموصلي - مسند عقبه بن
عامر الجهني' حديث: 1714'

درمیان ادا کی تھی۔ راوی کہتے ہیں: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے ہماری امامت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کی تھی اور اس موقع پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔

بَابُ إِذَا حَضَرَتِ الْمَكْتُوبَةُ وَالْجِنَازَةُ

باب: جب فرض نماز کا وقت ہو جائے اور جنازہ بھی موجود ہو

6571 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا حَضَرَتْ صَلَاةُ مَكْتُوبَةٍ وَجِنَازَةٌ بَدَأَ

بِالْمَكْتُوبَةِ

* * * قتادہ فرماتے ہیں: جب فرض نماز کا وقت ہو جائے اور نماز جنازہ بھی ادا کرنی ہو تو پہلے فرض نماز ادا کی جائے گی۔

6572 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ

وَوَضَعَتْ جِنَازَةً عِنْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَبَدَأَ فَصَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَ ذَلِكَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِقَتَادَةَ فَقَالَ: لَوْ كَانَ بَدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ

* * * سعید بن ابوعروبہ بیان کرتے ہیں: میں نے حسن بصری کو دیکھا کہ مغرب کی نماز کے قریب ایک جنازہ لا کے رکھا

گیا، تو حسن بصری نے پہلے نماز جنازہ ادا کی، اُس کے بعد انہوں نے مغرب کی نماز ادا کی۔ میں نے اس بات کا تذکرہ قتادہ سے کیا تو انہوں نے کہا: اگر وہ فرض نماز پہلے ادا کر لیتے تو یہ زیادہ مناسب ہوتا۔

6573 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَّغْنِي، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِذَا حَضَرَتِ الْجِنَازَةُ وَصَلَاةُ

الْمَكْتُوبَةِ فَأَبْدَأَ بِالْمَكْتُوبَةِ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

* * * معمر بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے: حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب جنازہ موجود ہو اور فرض نماز کا

وقت بھی ہو جائے تو پہلے فرض نماز ادا کرو۔

6574 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشُّورِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ يُبَدَأُ

بِالْمَكْتُوبَةِ

* * * سعید بن مسیب کے حوالے سے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قول کی مانند قول منقول ہے، یعنی فرض نماز پہلے ادا کی جائے

گی۔

6575 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ جِنَازَةً وَضِعَتْ فِي مَقْبَرَةِ الْبَصْرَةِ

حِينَ أَصْفَرَتِ الشَّمْسُ، فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهَا حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَ أَبُو بَرزَةَ الْمُنَادِي فَنَادَى، ثُمَّ قَامَ فَتَقَدَّمَ

أَبُو بَرزَةَ فَصَلَّى بِهِمُ الْمَغْرِبَ، وَفِي النَّاسِ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، ثُمَّ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ وَبِهِ نَأْخُذُ

* * * ابن جریر بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک مرتبہ بصرہ کے قبرستان میں ایک جنازہ لا کے رکھا گیا

یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب سورج زرد ہو چکا تھا تو سورج غروب ہونے تک اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اہم دیا تو مؤذن نے اذان دی پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے وہ آگے بڑھے انہوں نے لوگوں کو مغرب کی نماز پڑھائی لوگوں میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ موجود تھے اس کے بعد انہوں نے نماز جنازہ ادا کی۔

(امام عبد الرزاق فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔)

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ فِي الْمَسْجِدِ

باب: مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا

6576 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: رَأَى أَبِي النَّاسِ

يَخْرُجُونَ مِنَ الْمَسْجِدِ لِيُصَلُّوا عَلَى جِنَازَةٍ، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ؟ مَا صَلَّيَ عَلَيَّ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

* * ہشام بن عروہ بیان کرتے ہیں: میرے والد نے کچھ لوگوں کو نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکلتے ہوئے

دیکھا تو انہوں نے دریافت کیا: یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ تو مسجد میں ہی ادا کی گئی تھی۔

6577 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّيْتُ عَلَيَّ عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ

* * حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مسجد میں ادا کی گئی تھی۔

6578 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَمَرَتْ أَنْ يُمَرَّ، عَلَيْهَا

بِجِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ فِي الْمَسْجِدِ حِينَ مَاتَ لِتَدْعُو، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ النَّاسُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا أَسْرَعَ مَا نَسِيَ

النَّاسُ، مَا صَلَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

* * ابو نصر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: سیدہ عائشہ نے یہ ہدایت کی تھی کہ حضرت سعد بن

مالک رضی اللہ عنہ کا جنازہ مسجد میں لایا جائے یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کا انتقال ہو گیا تھا تا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی اس کی دعا

(یعنی نماز جنازہ) میں شریک ہوں۔ لوگوں نے (مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنے) پر اعتراض کیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: لوگ

کتی جلدی باتیں بھول جاتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہیل بن بیضاء رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ مسجد میں ہی ادا کی تھی۔

6579 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ نَبْهَانَ قَالَ:

6579- سنن ابو داود - کتاب الجنائز باب الصلاة على الجنائز في المسجد - حدیث 2792 سنن ابن ماجہ - کتاب

الجنائز باب ما جاء في الصلاة على الجنائز في المسجد - حدیث 1512 مصنف ابن ابی شیبہ - کتاب الجنائز من کرد

الصلاة على الجنائز في المسجد - حدیث 11765 شرح معانی الآثار للطحاوی - کتاب الجنائز باب الصلاة على الجنائز

هل ينبغي ان تكون في المساجد او - حدیث 1798 السنن الکبری للبیہقی - کتاب الجنائز جماع ابواب التکبیر على

الجنائز ومن اولی بإدخاله القبر - باب الصلاة على الجنائز في المسجد حدیث 6637 مسند احمد بن حنبل مسند ابی

حریرة رضی اللہ عنہ - حدیث 9540 مسند الطیالسی - احادیث النساء ما اسند ابو هريرة - صالح مولى التوامة عن ابی

هريرة حدیث 2417 مسند ابن الجعد - من حدیث محمد بن عبد الرحمن بن ابی ذنب حدیث 2317

سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ جِنَازَةً فِي الْمَسْجِدِ فَلَا شَيْءَ لَهُ
 * * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے:
 ”جو شخص مسجد میں نماز جنازہ ادا کرتا ہے اُسے کچھ نہیں ملتا۔“

6580 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ يُقَالُ لَهُ: مُسْلِمٌ، عَنْ
 كَثِيرِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا رَفَعَهُ قَالَ: لَا عَرَفْنَا مَا صَلَّيْتُ عَلَيَّ جِنَازَةً فِي الْمَسْجِدِ
 * * کثیر بن عباس نے ”مرفوع“ حدیث کے طور پر یہ بات نقل کی ہے کہ میں اس بات سے بخوبی واقف ہوں کہ مسجد
 میں نماز جنازہ ادا نہیں کی جاتی۔

بَابُ الرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ

باب: جس شخص کی نماز جنازہ لوگوں کا ایک گروہ ادا کرے

6581 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ.
 رَضِيعِ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُوتُ فَيُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النَّاسِ
 فَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ إِلَّا شَفَعُوا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَالْأُمَّةُ مِائَةٌ رَجُلٍ. قَالَه الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ
 * * سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے:
 ”جس شخص کی نماز جنازہ لوگوں کی ایک امت ادا کرے اور وہ لوگ اُس کے لیے دعائے مغفرت کریں تو ان کی
 شفاعت قبول ہوتی ہے۔“

امام عبد الرزاق بیان کرتے ہیں: یہاں ”امت“ سے مراد ایک سو لوگ ہیں یہ بات سفیان ثوری اور معمر نے بیان کی ہے۔
6582 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي
 طَالِبٍ فَقَالَ: أَلَا تَقُومُ فَتُصَلِّي عَلَيَّ هَذِهِ الْجِنَازَةَ، فَقَالَ: إِنَّا لَقَائِمُونَ، وَمَا يُصَلِّي عَلَيْهِ إِلَّا عَمَلُهُ
 * * اسماعیل نے ایک شخص کا یہ بیان نقل کیا ہے: ایک شخص حضرت علی بن ابوطالب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے
 دریافت کیا: آپ اٹھ کر یہ نماز جنازہ ادا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم لوگ تو کھڑے ہوتے ہیں اس کی
 نماز جنازہ صرف اس کا عمل ادا کرتا ہے۔

بَابُ الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْحُبْلَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

باب: اہل کتاب سے تعلق رکھنے والی ایسی عورت کا حکم جو کسی مسلمان شخص کی حاملہ ہو

(یعنی مسلمان کے بچے کی ماں بننے والی ہو)

6583 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ النَّصْرَانِيَّةُ مِنَ

السُّلَيْمِ فَمَاتَتْ حَامِلًا دُفِنَتْ مَعَ أَهْلِ دِينِهَا. أَخْبَرَنَا

* * زہری فرماتے ہیں: جب کوئی عیسائی عورت کسی مسلمان سے حاملہ ہو جائے اور پھر وہ حاملہ ہونے کے دوران فوت ہو جائے تو اُسے اُس کے دین والے لوگوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔

6584 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يَلِيهَا أَهْلُ دِينِهَا، وَتُدفَنُ مَعَهُمْ

* * عطاء فرماتے ہیں: اُس کے دین کے لوگ اُسے مل جائیں گے اور اُسے اُن کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔

6585 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ شَيْخًا، مِنْ أَهْلِ

الشَّامِ أَخْبَرَهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ دَفَنَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ "

* * حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے: انہوں نے اہل کتاب سے تعلق رکھنے والی ایک عورت کو جو ایک مسلمان سے حاملہ ہوئی تھی اُسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا تھا۔

6586 - آثار صحابہ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ

الْأَسْقَعِ، دَفَعَ امْرَأَةً مِنَ النَّصَارَى مَاتَتْ وَهِيَ حُبْلَى مِنْ مُسْلِمٍ فِي مَقْبَرَةٍ لَيْسَتْ بِمَقْبَرَةِ النَّصَارَى وَلَا مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ بَيْنَ ذَلِكَ. قَالَ سُلَيْمَانُ: وَيَلِيهَا أَهْلُ دِينِهَا

* * حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے: انہوں نے ایک عیسائی عورت کو ایک ایسی جگہ دفن کیا تھا جو نہ تو مسلمان کا قبرستان شمار ہوتی تھی اور نہ ہی عیسائیوں کا قبرستان شمار ہوتی تھی اور وہ عیسائی عورت ایک مسلمان شخص سے حاملہ ہوئی تھی۔

سلیمان کہتے ہیں: تاہم انہوں نے اس کو اُس کے دین سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے حوالے کیا تھا (کہ وہ اُس کی آخری رسومات اپنے دین کے مطابق ادا کریں)۔

بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ

باب: نماز جنازہ ادا کرتے وقت صفیں درست کرنا

6587 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَحِقُّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يُسَوُّوا

صُفُوفَهُمْ عَلَى الْجَنَائِزِ كَمَا يُسَوُّونَهَا فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: لَا، إِنَّمَا هُمْ قَوْمٌ يُكَبِّرُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا لوگوں پر یہ بات لازم ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہوئے صفیں درست کریں جس طرح وہ نماز ادا کرتے ہوئے صفیں درست کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! یہ لوگ نہ فکیر تبتہ ہیں اور نہ دعائے مغفرت کر دیتے ہیں۔

بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى الطِّفْلِ

باب: بچہ کی نماز جنازہ ادا کرنا

6588 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الطِّفْلِ

قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا، وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا

* * حسن بصری کے بارے میں یہ بات منقول ہے: جب وہ بچہ کی نماز جنازہ ادا کرتے تھے تو اُس میں یہ دعا کرتے تھے:

”اے اللہ! اسے ہمارے لیے پیشرو بنا دینا اور اسے ہمارے لیے اجر کا باعث بنا دینا“۔

6589 - اقوال تابعین: عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الطِّفْلِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ سَلَفًا لِوَالِدَيْهِ

وَفَرَطًا وَأَجْرًا. عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

* * حسن بصری کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ وہ بچہ کی نماز جنازہ میں یہ دعا کرتے تھے:

”اے اللہ! تو اسے اس کے ماں باپ کے لیے پیشرو اور آگے جانے والا اور اجر کے حصول کا باعث بنا دینا“۔

6590 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ

* * عبد الکریم کے حوالے سے بھی حسن بصری کی مانند کلمات منقول ہیں۔

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الصَّغِيرِ وَالسَّقِطِ وَمِيرَاثِهِ

باب: نابالغ بچے، پیدائش سے پہلے مر جانے والے بچے

کی نماز جنازہ ادا کرنے اور اُن کی وراثت کا حکم

6591 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَّ

الْمَوْلُودُ صَلَّى عَلَيْهِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَوَرِثَ إِذَا اسْتَهَلَّ

* * حسن بصری فرماتے ہیں: جب بچہ (پیدائش کے وقت) چیخ کے روئے تو اُس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ زہری

فرماتے ہیں: جب وہ چیخ کر روئے تو اُس کی وراثت کے احکام بھی جاری ہوں گے۔

6592 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُورَثُ حَتَّى يَسْتَهْلَ وَإِنْ تَحَرَّكَ

قَالَ: وَلَوْ عَطَسَ كَانَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الْاسْتِهْلَالِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ نَأْخُذُ

* * زہری فرماتے ہیں: بچہ کی وراثت کے احکام اُس وقت تک جاری نہیں ہوں گے جب تک وہ چیخ کر نہیں روتا، خواہ

اُس نے حرکت بھی کی ہو۔ راوی کہتے ہیں: میرے نزدیک اگر وہ چھینک لیتا ہے تو یہ بھی چیخ کر رونے کی مانند ہوگا۔

امام عبدالرزاق فرماتے ہیں: ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔

6593 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

لَوْ مَكَتَ فِيهِ الرُّوحُ ثَلَاثًا لَمْ يَرِثْ حَتَّى يَسْتَهْلَ

* * * قنادہ فرماتے ہیں: اگر بچہ میں تین دن تک بھی روح موجود رہی ہو لیکن اس کی وراثت کے احکام اس وقت تک جاری نہیں ہوں گے جب تک وہ چیخ کر نہیں روتا۔

6594 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: شَهِدْتُ الْقَوَابِلَ

عَلَى صَبِيٍّ تَحْرَكَ وَلَمْ يَسْتَهْلَ فَلَمْ يُورَثْهُ شُرَيْحٌ

* * * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: میں کچھ دائیوں کے پاس موجود تھا ایک بچہ پیدا ہوا اس نے حرکت کی، لیکن وہ چیخ کر نہیں رویا تو قاضی شریح نے اس کی وراثت کے احکام جاری نہیں کیے۔

6595 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَ صُلِّيَ عَلَيْهِ،

وَعَقِلَ، وَوَرِثَ

* * * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جب بچہ چیخ کر روئے گا تو اس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی اس کی دیت یا وراثت کے احکام بھی جاری ہوں گے۔

6596 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَ صُلِّيَ عَلَيْهِ

* * * حسن بصری فرماتے ہیں: جب بچہ چیخ کر روئے گا تو اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔

6597 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَتَّصِلِي عَلَى الَّذِي قَدْ اسْتَهَلَ

فَصَاعِدًا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: فَوَلَدٌ خَرَجَ مَيِّتًا ثَلَاثًا؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ أَنَّ ذَلِكَ يُصَلَّى عَلَيْهِ

* * * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے دریافت کیا: کیا آپ ایسے بچہ کی نماز جنازہ ادا کریں گے جو چیخ کر رویا ہو؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: لیکن جو بچہ مردہ پیدا ہوا ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا: میں نے ایسی کوئی روایت نہیں سنی کہ اس کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔

6598 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شَهَابٍ فِي السَّقِطِ يُولَدُ وَالصَّبِيُّ

حَيًّا لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَهْلَ صَارِحًا

* * * ابن جریج بیان کرتے ہیں: ابن شہاب نے مردہ پیدا ہونے والے بچہ کے بارے میں یہ بات بیان کی ہے کہ جب تک بچہ چیخ کر نہیں روتا اس وقت تک اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔

6599 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ اسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي اسْحَاقَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ السَّقِطِ، يَقَعُ

مَيِّتًا أَيْصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَصِيحَ، فَإِذَا صَاحَ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَوَرِثَ

* * * ابواسحاق بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مردہ پیدا ہونے والے بچہ کے بارے میں دریافت کیا

گیا: کیا اُس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! جب تک وہ چیخ کر نہیں روتا، جب وہ چیخ کر روئے گا، تو اُس کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی اور اُس کی وراثت کے احکام بھی جاری ہوں گے۔

6600 - آثار صحابہ: قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: صَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى مَوْلُودِ صَغِيرٍ

سَقَطَ لَا أَدْرِي أَسْتَهْلَ أَمْ لَا؟ صَلَّى عَلَيْهِ فِي دَارِهِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهِ فَدُفِنَ

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى، ابْنَ مُجَاهِدٍ مَاتَ لَهُ سَقَطٌ فَلَفَّهُ فِي حِرْقَةٍ وَوَضَعَهُ فِي كُمِهِ وَذَهَبَ

بِهِ وَحَدَّهُ وَدَفَنَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ

* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک کسن بچہ کی نماز جنازہ ادا کی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ وہ پیدائش کے وقت چیخ کر رویا تھا یا نہیں رویا تھا؟ راوی کہتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے گھر میں اُس کی نماز جنازہ ادا کی تھی، پھر اُسے بھجوا دیا تھا، تاکہ اُسے دفن کر دیا جائے۔

امام عبدالرزاق فرماتے ہیں: مجھے اُس شخص نے یہ بات بتائی ہے: جس نے مجاہد کے صاحبزادے کو دیکھا کہ اُن کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوا، تو انہوں نے اُسے کپڑے میں لپیٹ کر اپنی آستین میں رکھا اور اکیلے اُسے لے گئے اور اُسے دفن کیا اور اُس کی نماز جنازہ ادا کی۔

6601 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ

سِيرِينَ قَالَ: إِذَا تَمَّ خَلْقُهُ وَنَفَخَ فِيهِ الرُّوحَ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَسْتَهْلَ. قَالَ قَتَادَةُ: وَيُسَمَّى، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِاسْمِهِ - أَوْ قَالَ -: يُدْعَى بِاسْمِهِ "

* * ابن سیرین بیان کرتے ہیں: جب بچہ کی تخلیق مکمل ہو جائے اور اُس میں روح بھی پھونکی گئی ہو، تو اُس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، اگرچہ وہ چیخ نہ کرے۔

قتادہ بیان کرتے ہیں: ایسے بچہ کا نام بھی رکھا جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن اُس کے نام سے زندہ کیا جائے گا۔ (راوی کوشک ہے، شاید یہ الفاظ ہیں: اُس کے نام سے بلایا جائے گا۔)

6602 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ

الْمُعِيزَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: السَّقَطُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِأَبَوَيْهِ بِالْعَافِيَةِ وَالرَّحْمَةِ

* * حضرت معیذ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مردہ پیدا ہونے والے بچہ کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور اُس کے ماں باپ کے لیے عافیت اور رحمت کی دعا کی جائے گی۔

6603 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: إِذَا لَمْ يَتَمَّ خَلْقُهُ دُفِنَ وَلَمْ

يُصَلَّ عَلَيْهِ

* * ابن سیرین فرماتے ہیں: اگر بچہ کی تخلیق مکمل نہ ہوئی ہو، تو اُسے دفن کر دیا جائے گا اور اُس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی

جائے گی۔

6604 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَالَ: أَحَقُّ مَنْ صَلَّى عَلَيهِ ابْنَاؤُنَا * * * قتادہ نے ابو بکر نامی راوی کا یہ قول نقل کیا ہے: جن کی ہم نماز جنازہ ادا کرتے ہیں ان میں سب سے زیادہ حقدار

ہمارے بچے ہیں۔

6605 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى ابْنِ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا

* * * امام شعبی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہونے والے اپنے صاحبزادے کی نماز جنازہ ادا کی تھی ان صاحبزادے کی عمر چھ ماہ تھی۔

6606 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ غَالِبِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ: عَلِيٌّ مَنْ فِيكَ الْإِسِيرُ؟ قَالَ: عَلَى الْأَرْضِ الَّتِي نُقَاتِلُ عَنْهَا قَالَ: وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَوْلُودِ مَتَى يَجِبُ سَهْمُهُ؟ قَالَ: إِذَا اسْتَهَلَ وَجَبَ سَهْمُهُ

* * * بشیر بن غالب اسدی بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا: قیدی کو آزاد کروانا کس کے ذمہ لازم ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا: اُس زمین پر جس کی خاطر ہم لڑائی کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں: ہم نے ان سے تو مولود بچے کے بارے میں دریافت کیا: اُس کا حصہ کب لازم ہوگا؟ تو انہوں نے جواب دیا: جب وہ چیخ کر رونے لگے تو اُس کا حصہ لازم ہو جائے گا۔

6607 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَقْرَأُ لِلصَّبِيِّ إِذَا اسْتَهَلَ

* * * سعید بن مسیب فرماتے ہیں: بچہ جب چیخ کر روتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اُس کا حصہ مقرر کرتے تھے۔

6608 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ فِي السَّفْسُوسِ: يَرْتُّ إِذَا سُمِعَ صَوْتُهُ

* * * حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما مولود بچے کے بارے میں یہ فرماتے ہیں: جب اس کی آواز سنائی دے تو وہ وارث بنا۔

6609 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: "تُوْقِيَتْ أُخْتُ لِي صَغِيرَةً، فَأَمَرَ بِهَا أَبِي مَوْلَى لَهَا فَذَفَنَهَا وَمَا خَرَجَ عَلَيْهَا وَلَا اتَّبَعَهَا - قَالَ: حَسِبْتُهُ قَالَ: - وَلَا صَلَّى عَلَيْهَا"

* * * ہشام بن عروہ فرماتے ہیں: میری بہن کا انتقال ہو گیا جو مولود تھی۔ میرے والد نے اس کے بارے میں غلام بوعلم دیا تو اس نے اس بچی کو دفن کر دیا۔ میرے والد خود اس کے لئے نہیں گئے اور نہ ہی اس کے ساتھ گئے۔ (راوی کہتے ہیں: میرا خیال

ہے یہ الفاظ بھی ہیں: انہوں نے اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی۔

6610 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُصَلِّي عَلَى الْمَنْفُوسِ الَّذِي لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

* * سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے کہ انہوں نے ایسے بچہ کی نماز جنازہ ادا کی جس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ دعا کی: "اے اللہ! اسے قبر کے عذاب سے بچانا۔"

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى وَلَدِ الزَّانَا وَالْمَرْجُومِ

باب: زنا کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے بچے اور سنگسار شدہ شخص کی نماز جنازہ ادا کرنا

6611 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزَّانَا لِأَنَّ كُلَّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى

الْفِطْرَةِ. وَقَالَهَا الْحَسَنُ

* * زہری فرماتے ہیں: زنا کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے بچہ کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔

حسن بصری نے بھی یہی بات بیان کی ہے۔

6612 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي النُّعْمَانِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ:

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى وَلَدِ الزَّانَا وَأُمُّهُ مَاتَتْ فِي نَفْسِهَا

* * عمرو بن یحییٰ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے بچہ کی نماز جنازہ ادا کی تھی، اس کی ماں کا انتقال نفاس کے دوران ہی ہو گیا تھا۔

6613 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي وَلَدِ الزَّانَا إِذَا مَاتَ طِفْلاً صَغِيرًا لَا يُصَلَّى

عَلَيْهِ

* * قتادہ زنا کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے بچہ کے بارے میں یہ فرماتے ہیں: اگر وہ کمسنی میں انتقال کر جائے تو اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔

6614 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ وَلَدِ الزَّانَا حِينَ يُوَلَّدُ بَعْدَ مَا

اسْتَهَلَ أَيُّصَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: كَيْفَ وَهُوَ كَذَلِكَ؟ قَالَ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى الْفِطْرَةِ فَطَرَةَ الْإِسْلَامِ،

قُلْتُ: فَكَبِّرَ فَكَانَ رَجُلَ سَوْءٍ؟ قَالَ: وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، قُلْتُ: فَأَمَّهُ مَاتَتْ فِي نَفْسِهَا؟ قَالَ: فَلَا أَدْعُهَا، وَهُوَ يَقُولُ:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَقَالَ لِي عَطَاءٌ بَعْدَ ذَلِكَ: "يُصَلَّى عَلَى وَلَدِ الزَّانَا إِذَا اسْتَهَلَ، وَعَلَى أُمِّهِ إِنْ مَاتَتْ

مِنْ نَفْسِهَا، وَعَلَى الْمُتَلَاعِنِينَ، وَعَلَى الَّذِي يُقَادُ مِنْهُ وَعَلَى الْمَرْجُومِ وَعَلَى الَّذِي يُزَاحِفُ فَيَفِرُّ فَيُقْتَلُ، وَعَلَى

الَّذِي يَمُوتُ مِيتَةَ السُّوءِ قَالَ: لَا أَدْعُ الصَّلَاةَ عَلَى مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ: قُلْتُ: مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ؟ قَالَ: فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّ هَؤُلَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ؟ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ، فَقَالَ: مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عطاء سے زنا کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے بچہ کے بارے میں دریافت کیا جو پیدائش کے بعد چیخ کر روتا ہے تو کیا اسکی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! میں نے دریافت کیا: جب اُس کی یہ صورت حال ہے تو پھر کیسے ادا کی جائے گی؟ انہوں نے جواب دیا: اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فطرت پر یعنی دین اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا ہے۔ میں نے دریافت کیا: اگر وہ شخص بڑا ہو کر بڑا آدمی بنتا؟ انہوں نے کہا: اُس کی پھر بھی نماز جنازہ ادا کی جاتی۔ میں نے دریافت کیا: اگر اُس کی ماں کا بھی اُس کے نفاس کے دوران انتقال ہو جاتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا: میں اسے ترک نہیں کروں گا پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی:

”بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کی مغفرت نہیں کرے گا کہ کسی کو اُس کا شریک ٹھہرایا جائے۔“

اُس کے بعد عطاء نے مجھ سے کہا کہ زنا کے نتیجہ میں پیدا ہونے والا بچہ جب پیدائش کے بعد چیخ کر رویا ہو تو اُس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اور اُس کی ماں کی بھی نماز جنازہ ادا کی جائے گی اگر اُس کا نفاس کا دوران انتقال ہو جاتا ہے اور لعان کرنے والے میاں بیوی کی نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی اور جس بندہ سے قصاص لیا گیا یا جس بندہ کو سنگسار کیا گیا یا جو بندہ میدان جنگ سے فرار اختیار کر گیا تھا اور فرار اختیار کرتے ہوئے مارا گیا اور وہ بندہ جو بڑے طریقہ سے مرا ہو ان سب کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ عطاء نے کہا: میں ایسے کسی شخص کی نماز جنازہ کو ترک نہیں کروں گا جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو۔ میں نے دریافت کیا: اگر یہ پتا چل جائے کہ یہ بندہ جہنمی ہے تو اُس کے بعد بھی ادا کریں گے؟ انہوں نے کہا: یہ کیسے پتا چل سکتا ہے کہ یہ لوگ جہنمی ہیں؟ ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں نے عمرو بن دینار سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے عطاء کے جواب کی مانند جواب دیا۔

6615 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَمْ يَكُونُوا يَحْجُبُونَ

الصَّلَاةَ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقَبْلَةِ

* * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: پہلے لوگ اہل قبلہ میں سے کسی بھی شخص کی نماز جنازہ کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے تھے (یا نماز

جنازہ پڑھنے کا انکار نہیں کرتے تھے)۔

6616 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يُصَلِّي عَلَى الْمَرْجُومِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ

رَجِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَسْلِمِيَّ فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ

* * زہری فرماتے ہیں: سنگسار شدہ شخص کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔ زہری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

اسلمی کو سنگسار روایا تھا لیکن آپ نے اُس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی تھی۔

6617 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ قَالَ: رَجِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ امْرَأَةً، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا

* * ابوقلابہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ایک خاتون کو سنگسار کروایا تھا، لیکن آپ نے اُس کی نمازِ جنازہ ادا کی

تھی۔

6618 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: أَيُّصَلِّي عَلَى الَّذِي يُقَادُ مِنْهُ فِي حَدِّ؟

قَالَ: نَعَمْ، إِلَّا مَنْ أُقِيدَ مِنْهُ فِي رَجْمٍ

* * معمر بیان کرتے ہیں: میں نے زہری سے دریافت کیا: جس شخص سے حد میں قصاص لیا گیا ہو، کیا اُس کی نمازِ جنازہ

ادا کی جائے گی؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! البتہ جس شخص کو سزا کے طور پر سنگسار کیا گیا ہو، اُس کا حکم مختلف ہے۔

6619 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمْرَةَ يَقُولُ:

مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ مَاتَ فُلَانٌ قَالَ: لَمْ

يَمُتْ ثُمَّ آتَاهُ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ مَاتَ؟ قَالَ: نَحَرَ نَفْسَهُ

بِمَشْقَصٍ عِنْدَهُ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ

* * حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کے زمانہ اقدس میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ایک شخص

نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، اُس نے عرض کی: یا رسول اللہ! فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اُس کا

انتقال نہیں ہوا۔ پھر وہ دوسری مرتبہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا پھر تیسری مرتبہ حاضر ہوا، تو نبی اکرم ﷺ نے دریافت کیا: اُس کا

انتقال کیسے ہوا ہے؟ اُس شخص نے بتایا: اُس نے تیر کے ذریعہ خودکشی کر لی ہے۔ راوی کہتے ہیں: تو نبی اکرم ﷺ نے اُس کی نمازِ

جنازہ ادا نہیں کی۔

6620 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: الَّذِي يَقْتُلُ نَفْسَهُ يُصَلِّي

عَلَيْهِ، وَالْمَرْجُومُ يُصَلِّي عَلَيْهِ

* * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جو شخص خودکشی کر لیتا ہے اُس کی نمازِ جنازہ ادا کی جائے گی اور جس شخص کو سنگسار کیا جاتا ہے

اُس کی بھی نمازِ جنازہ ادا کی جائے گی۔

6621 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: رَجِمَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ فَصَلَّى عَلَى أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى الْآخَرِ

* * سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے دو آدمیوں کو سنگسار کروایا تھا، آپ نے اُن میں سے ایک کی

نمازِ جنازہ ادا کی تھی اور دوسرے کی نمازِ جنازہ ادا نہیں کی تھی۔

6622 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى

المرجوم

* * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: سنت یہ ہے کہ سنگسار شدہ شخص کی نماز جنازہ ادا کی جائے۔

6623 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: "صَلِّ عَلَيَّ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ سُوءٍ جِدًّا، قُل: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ" قَالَ: "وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ اجْتَنَبَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"

* * قتادہ فرماتے ہیں: تم ہر اس شخص کی نماز جنازہ ادا کرو جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو اگرچہ وہ کتنا ہی برا آدمی کیوں نہ ہو تم یہ کہو: اے اللہ! تو تمام مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کی مغفرت کر دے۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں: اہل علم میں سے کسی کے بارے میں بھی مجھے یہ علم نہیں ہے کہ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے شخص کی نماز جنازہ سے اجتناب کیا ہو۔

6624 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: مَا عَلِمْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا تَرَكَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ

* * ابن سیرین فرماتے ہیں: اپنے اصحاب میں سے مجھے کسی کا علم نہیں ہے کہ اس نے اہل قبلہ میں سے کسی بھی شخص کی نماز جنازہ کو ترک کیا ہو۔

6625 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ صَلَّى عَلَى وَلَدِ الزَّيْنَاءِ، فَقِيلَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هُوَ شَرُّ الثَّلَاثَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ خَيْرُ الثَّلَاثَةِ

* * ميمون بن مهران بیان کرتے ہیں: وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس موجود تھے جنہوں نے زنا کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے بچے کی نماز جنازہ ادا کی۔ یہ بات کہی گئی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو ایسے بچے کی نماز جنازہ ادا نہیں کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تینوں میں سب سے زیادہ برا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ تینوں میں سب سے بہتر ہے۔

6626 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا رَجَمَ عَلِيُّ شَرَاةَ الْهَمْدَانِيَّةِ جَاءَ أَوْلِيَآؤُهَا فَقَالُوا: كَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا؟ فَقَالَ لَهُمْ: اصْنَعُوا بِهَا مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتَاكُمْ، يَعْنِي غُسْلَهَا وَالصَّلَاةَ عَلَيْهَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ حِينَ رَجَمَ شَرَاةَ، فَقُلْتُ: مَا تَفْعَلُ هَذِهِ عَلَيَّ شَرَّ أَحْوَالِهَا قَالَ: فَضَرَبَنِي بِقَضِيْبٍ كَانَ فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: أَوْجَعْتَنِي قَالَ: وَإِنْ أَوْجَعْتِكَ إِنَّهَا لَنْ تُعَذِّبَ بَعْدَهَا أَبَدًا، لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يُنَزِّلْ فِي الْقُرْآنِ حَدًّا فَأَقِيمَ عَلَيَّ صَاحِبِهِ إِلَّا كَانَ كَفَّارَةً لَهُ كَالَّذِينَ بِالذَّنْبِ

*** امام شعیبی بیان کرتے ہیں: جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شراحہ ہمدانیہ نامی خاتون کو سنگسار کرایا تو اُس کے اولیاء حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے دریافت کیا: اب ہم اس کے ساتھ کیا کریں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اُن سے فرمایا: تم اس کے ساتھ وہی کچھ کرو جو تم اپنے مرحومین کے ساتھ کرتے ہو یعنی اُس کو غسل دو، اُس کی نماز جنازہ ادا کرو اور اس طرح کے دیگر کام کرو۔ سفیان ثوری بیان کرتے ہیں: عبدالرحمن بن ابولیلی نے یہ بات نقل کی ہے: میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا جب انہوں نے شراحہ نامی خاتون کو سنگسار کروایا تھا، میں نے کہا: اس خاتون کا انتقال بدترین حالت میں ہوا ہے۔ راوی کہتے ہیں: تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ میں موہو چھڑی کے ساتھ مجھے مارا جس سے مجھے تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا: میں نے یہ تکلیف تمہیں اس لیے دی ہے کہ اب اس عورت کو اس کے بعد کبھی (اس جرم کی وجہ سے) عذاب نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو بھی حد نازل کی ہو اور وہ اُس کے مرتکب شخص پر جاری ہو جائے تو یہ اُس شخص کے لیے کفارہ بن جاتی ہے جس طرح قرض کا بدلہ قرض ہوتا ہے۔

6627 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن جریج قال: أخبرني الحکم بن أبان، أنه سمع عكرمة، مولى ابن عباس يقول: قال: عبد الله بن عبد الله بن أبي النبي صلى الله عليه وسلم: دعني أقتل أبي فإنه يؤذي الله ورسوله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل أباك ثم ذهب ثم رجع إليه فقال: دعني أقتله، فقال: لا تقتل أباك ثم جاء الثالثة، فقال له مثل ذلك قال: فتوضأ يا رسول الله لعلني أسقيه لعله أن يلين قلبه، قال فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فسقاه إياه، فقال: سقيتك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سقيتني بول أمك، قال ابن عباس: فلما كان مرضه الذي مات فيه جأه النبي صلى الله عليه وسلم فتكلمنا بكلام بينهما، فقال عبد الله قد فهمت ما تقول، امنن علي فكفني في قميصك هذا وصل لي قال: فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه ذلك وصلى عليه، قال ابن عباس: والله أعلم أي صلاة كانت، وما خادع محمد صلى الله عليه وسلم إنساناً قط.

*** عکرمہ نے یہ بات نقل کی ہے: عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی: آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اپنے باپ کو قتل کر دوں کیونکہ وہ اللہ اور اُس کے رسول کو اذیت پہنچاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم اپنے باپ کو قتل نہ کرو۔ پھر وہ شخص چلا گیا، پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اُس نے عرض کی: آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اُسے قتل کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم اپنے باپ کو قتل نہ کرو۔ پھر وہ تیسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس سے پھر یہی بات ارشاد فرمائی، اُس نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ وضو کیجئے تاکہ آپ کے وضو کے بچائے ہوئے پانی کو اُسے پلاؤں تو شاید اُس کا دل نرم ہو جائے۔ راوی کہتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، وہ پانی اُس شخص نے اپنے والد کو پلایا، پھر اُس نے بتایا کہ میں نے تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی پلایا ہے، تو اُس نے کہا: تم نے مجھے اپنی ماں کا پیشاب پلا دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جب وہ اُس بیماری

میں مبتلا ہوا جس میں اُس کا انتقال ہوا تھا تو نبی اکرم ﷺ اُس کے پاس آئے اور ان دونوں کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی تو عبد اللہ نامی راوی کہتے ہیں: مجھے پتا چل گیا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھ پر یہ احسان کیجئے کہ اپنی یہ قمیص مجھے دے دیجئے اور میری نماز جنازہ ادا کیجئے گا۔ راوی کہتے ہیں: تو نبی اکرم ﷺ نے اپنی وہ قمیص اُسے دے دی اور اُس کی نماز جنازہ بھی ادا کی۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سی نماز تھی کیونکہ نبی اکرم ﷺ نے کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کی۔

6628 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ هَذَا سَمَاءُ عَبْدِ اللَّهِ وَكَانَ اسْمُهُ الْحَبَابُ
* * * عکرمہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے عبد اللہ کے صاحبزادے کا نام تبدیل کیا تھا آپ نے اُن کا نام عبد اللہ رکھا تھا پہلے اُن کا نام حباب تھا۔

6629 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ اتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ فَأَمَرَ بِهِ فَأَخْرَجَ إِلَيْهِ فَوَضَعَهُ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَالْبَسَهُ فَمِيصَهُ وَنَفَثَ عَلَيْهِ مِنْ رِيقِهِ " قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ

* * * حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ عبد اللہ بن ابی کو قبر میں رکھے جانے کے بعد اُس کے پاس آئے آپ کے حکم کے تحت اُسے قبر سے باہر نکالا گیا آپ نے اُسے اپنے گھٹنوں پر رکھا اُسے اپنی قمیص پہنائی اُس پر اپنا لعاب دہن ڈالا باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔

6630 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ بِالْمَدِينَةِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ إِلَى بَنِي الْحَارِثِ فَرَأَى جِنَازَةً عَلَى خَشَبَةٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقِيلَ: عَبْدٌ لَنَا فَكَانَ عَبْدًا سُوءٍ مَسْخُوطًا جَافِيًا قَالَ: أَكَانَ يُصَلِّي هَذَا؟ فَقَالُوا: نَعَمْ قَالَ: أَكَانَ يَقُولُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: كَادَتِ الْمَلَائِكَةُ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، أَرْجِعُوا

6629- صحیح البخاری - کتاب الجنائز 'باب الكفن في القميص الذي يكف او لا يكف - حدیث: 1223' صحیح مسلم - کتاب صفات المنافقين واحكامهم' حدیث: 5084' صحیح ابن حبان - کتاب الجنائز وما يتعلق بها مقدا او مؤخرًا' فصل في زيارة القبور - ذكر خبر قد احتج به من لم يحكم صناعة العلم ان' حدیث: 3231' السنن للنسائي - کتاب الجنائز' القميص في الكفن - حدیث: 2005' السنن الكبرى للبيهقي - کتاب الجنائز' جماع ابواب عدد الكفن - باب جواز التكفين في القميص' حدیث: 6309' مسند احمد بن حنبل' مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما' حدیث: 14809' مسند الحميدي - احاديث جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه' حدیث: 1189' مسند ابى يعلى الوصلى - مسند جابر' حدیث: 1785

فَاَحْسِنُوا غُسْلَهُ وَكَفَنَهُ وَدَفَنَهُ

*** ابو بکر بن عبد اللہ بن ابوملیکہ بیان کرتے ہیں: انہوں نے مدینہ منورہ میں لوگوں کو یہ بات بیان کرتے ہوئے سنا کہ نبی اکرم ﷺ سوار ہو کر بنو حارث کی طرف گئے آپ نے لکڑیوں پر ایک جنازہ دیکھا تو دریافت کیا: یہ کس کا ہے؟ بتایا گیا کہ یہ ہمارے ایک غلام کا ہے یہ ایک بُرا غلام تھا جس کی پٹائی ہوتی تھی اور جو جفا کرنے والا تھا۔ نبی اکرم ﷺ نے دریافت کیا: کیا یہ نماز ادا کرتا تھا؟ لوگوں نے جواب دیا: جی ہاں! نبی اکرم ﷺ نے دریافت کیا: کیا یہ اعتراف کرتا تھا کہ حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں؟ لوگوں نے عرض کی: جی ہاں! نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تو فرشتے میرے اور اس کے درمیان حائل ہیں تم لوگ واپس جاؤ اور اسے اچھی طریقہ سے غسل دے کر کفن دے کر دفن کرو۔

6631 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرْتُ، عَنْ عَبَسَةَ بِنِ سُهَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زُهَيْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بِالْبَقِيعِ عَبْدًا أَسْوَدًا يَحْمِلُ مَيْتًا فَقَالَ: لِمَنْ يَحْمِلُهُ؟ مَا هَذَا؟ قَالُوا: عَبْدٌ لِفُلَانٍ قَالَ: فَمَا هُوَ قَالُوا: أَحْبَبْتُ النَّاسِ وَأَسْرَقُهُ وَأَحْزَبُهُ فِي أَشْيَاءٍ مِنَ الشَّرِّ يَذْكُرُونَهَا مِنْهُ، فَقَالَ: عَلَيَّ بِسَيِّدِهِ فَسَأَلَهُ عَنْهُ فَذَكَرَ نَحْوًا مِمَّا ذَكَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ كَانَ يُصَلِّي؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: وَيَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ كَادَتْ الْمَلَائِكَةُ تَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَنْفًا فَدَعَا حَدَادًا فَفَزَعَهُ حَدِيدَةً، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فُغْسِلَ ثُمَّ كَفَنَهُ مِنْ عِنْدِهِ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ

*** محمد بن زہیر بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے بقیع (کے میدان میں) ایک سیاہ فام شخص کو دیکھا جس کی میت اٹھا کر لائی جا رہی تھی نبی اکرم ﷺ نے کندھا دینے والے لوگوں سے دریافت کیا: یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا: فلاں شخص کا غلام ہے نبی اکرم ﷺ نے دریافت کیا: اسے کیا ہوا ہے؟ (اسے اس طرح کیوں لے کر جا رہے ہو؟) لوگوں نے بتایا: یہ سب سے زیادہ بُرا شخص ہے سب سے زیادہ چور تھا سب سے زیادہ بھگوڑا تھا اور اس میں اور بھی بہت سی خرابیاں پائی جاتی تھیں لوگوں نے اس کا ذکر کیا۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اس کے آقا کو میرے پاس لے کر آؤ! نبی اکرم ﷺ نے اُس سے اُس غلام کے بارے میں دریافت کیا تو اُس نے بھی وہی چیزیں ذکر کیں جو پہلے ذکر ہو چکی تھیں۔ نبی اکرم ﷺ نے دریافت کیا: کیا یہ نماز ادا کرتا تھا؟ لوگوں نے جواب دیا: جی ہاں! نبی اکرم ﷺ نے دریافت کیا: کیا یہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ لوگوں نے عرض کی: جی ہاں! نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اُس ذات کی قسم ہے جس کے دست قدرت میں میری جان ہے! ابھی فرشتے میرے اور اس کے درمیان موجود ہیں۔ راوی کہتے ہیں: پھر نبی اکرم ﷺ نے لوہار کو بلایا، لوہا الگ کر دیا، پھر آپ نے اُس غلام کے بارے میں حکم دیا تو اُسے غسل دیا گیا اور نبی اکرم ﷺ کی طرف سے کفن دیا گیا پھر نبی اکرم ﷺ نے اُس کی نماز جنازہ ادا کی۔

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى السَّبِيِّ

باب: قیدی کی نماز جنازہ ادا کرنا

6632 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى السَّبِيِّ،

فَقَالَ: صَلَّى عَلَى مَنْ صَلَّى مِنْهُمْ قَالَ مَعْمَرٌ: وَإِذَا صَلَّيْتَ عَلَى السَّبِيِّ صَلَّيْتَ عَلَى وَلَدِهِ

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ الصَّبِيُّ مِنَ السَّبِيِّ أَوْ غَيْرِهِمْ بَيْنَ أَبِيهِ وَهُمَا مُشْرِكًا فَإِنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ أَبِيهِ فَإِنَّهُ مُسْلِمٌ إِذَا مَاتَ وَهُوَ صَبِيٌّ يُصَلَّى عَلَيْهِ. قَالَ: وَقَالَ حَمَادٌ: إِذَا مَلَكَتِ الصَّبِيَّ فَهُوَ مُسْلِمٌ

* * * معمر نے ایک شخص کا یہ بیان نقل کیا ہے: میں نے امام شعبی سے قیدی کی نماز جنازہ ادا کرنے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا: ان قیدیوں میں سے جو شخص بھی نماز ادا کرتا ہو تم اس کی نماز جنازہ ادا کرو۔ معمر کہتے ہیں: جب کسی قیدی کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی تو اس کی اولاد کی بھی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ امام عبد الرزاق نے سفیان ثوری کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ جب کوئی بچہ کسی قیدی کا ہو یا اس کے علاوہ کسی اور کا ہو اور اس کے ماں باپ مشرک ہوں تو اس بچہ کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی اور اگر اس کے ماں باپ مشرک نہیں ہیں تو وہ بچہ مر جائے تو مسلمان شمار ہوگا اور اس بچہ کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔

حماد بیان کرتے ہیں: جب تم (کسی غیر مسلم کے) بچہ کے مالک بن جاؤ تو وہ بچہ مسلمان شمار ہوگا۔

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى الشَّهِيدِ وَغُسْلِهِ

باب: شہید کی نماز جنازہ ادا کرنا اور اسے غسل دینا

6633 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي صَعِيرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الشَّهْدَاءِ الَّذِينَ قُتِلُوا يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ شَهِدْتُ عَلَى هَؤُلَاءِ فَرَمَلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ فَكَانَ يَدْفِنُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ فِي الْقَبْرِ وَيَسْأَلُ أَيُّهُمْ كَانَ أَقْرَأَ لِلْقُرْآنِ فَيَقْدِمُونَهُ. قَالَ جَابِرٌ: فَدَفِنَ أَبِي وَعَمِّي فِي قَبْرِ وَاحِدٍ يَوْمَئِذٍ

* * * حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: غزوہ احد کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کو دیکھا جو اس دن شہید ہوئے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا: میں ان لوگوں کے بارے میں گواہی دیتا ہوں تم لوگ انہیں ان کے خون آلود کپڑوں کے اندر لپیٹ دو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبر میں دو یا تین آدمیوں کو دفن کروایا آپ یہ دریافت کرتے تھے: ان میں سے کس کو قرآن زیادہ آتا ہے؟ تو آپ اسے (قبلہ کی سمت میں) آگے رکھتے تھے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: اس دن میرے والد اور میرے چچا کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا۔

6634 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلشُّهَدَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ: إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ مَضَوْا، وَقَدْ شَهِدْتُمْ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَأْكُلُوا مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَلَكِنَّكُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ أُجُورِكُمْ، وَلَا أَدْرِي مَا تَحْدِثُونَ بَعْدِي

* * حسن بصری بیان کرتے ہیں: غزوہ اُحد کے دن نبی اکرم ﷺ نے شہداء کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اور میں ان لوگوں کے بارے میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اجر میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، لیکن تم لوگ اپنے اجر میں سے (دنیاوی فائدے کو) حاصل کر لو گے اور مجھے یہ نہیں معلوم کہ میرے بعد تم لوگ کیا کچھ کرو گے؟

6635 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمْ يُصَلُّوا عَلَى الشُّهَدَاءِ يَوْمَ أُحُدٍ * * زہری فرماتے ہیں: شہداء اُحد کی نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی تھی۔

6636 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ أَبِي مَالِكٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ

* * حضرت ابو مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے شہداء اُحد کی نماز جنازہ ادا کی تھی۔

6637 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى بَدْرٍ

* * عطاء بن ابی رباح بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے شہداء بدر کی نماز جنازہ ادا کی تھی۔

6638 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ عَطَاءِ قَالَ: مَا رَأَيْتُهُمْ يُغَسِّلُونَ الشَّهِيدَ، وَلَا يُحَنِّطُونَهُ، وَلَا يُكْفَنُّ، قُلْتُ: كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْهِ؟ قَالَ: كَمَا يُصَلَّى عَلَى الْآخِرِ الَّذِي لَيْسَ بِشَهِيدٍ

* * عطاء فرماتے ہیں: میں نے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ وہ شہید کو غسل دیتے ہوں یا اسے خوشبو لگاتے ہوں یا ات کفن دیا جاتا ہو۔ (ابن جریر کہتے ہیں:) میں نے دریافت کیا: ہم ان کی نماز جنازہ کیسے ادا کریں گے؟ انہوں نے جواب دیا: جس طرح دوسرے شخص کی ادا کی جاتی ہے جو شہید نہیں ہوتا۔

6639 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: أَمَرَ مُعَاوِيَةَ بِقَتْلِ حُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ، فَقَالَ حُجْرٌ: لَا تَحْلُوا عَنِّي قَيْدًا - أَوْ قَالَ - : حَدِيدًا وَكَفْنُونِي بِشِيَابِي وَدَمِي "

* * ابن سیرین بیان کرتے ہیں: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حجر بن عدی کو قتل کرنے کا حکم دیا تو حجر نے کہا: تم میری بیڑیاں نہ کھولنا اور میرے خون آلود کپڑوں میں ہی مجھے کفن دے دینا۔

6640 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ مَخْوَلٍ، عَنِ الْعِزَّارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ قَالَ: لَا تَغْسِلُوا عَنِّي دَمًا وَلَا تَنْزِعُوا ثَوْبًا إِلَّا الْخَفَيْنِ، وَارْمُسُونِي فِي الْأَرْضِ رَمْسًا، فَإِنِّي رَجُلٌ مُعَاجِجٌ أَحَاجُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

* * * زید بن صوحان بیان کرتے ہیں: (حجر بن عدی نے کہا تھا) تم میرے خون کو مجھ سے نہ دھونا اور میرے کپڑے نہ اتارنا صرف موزے اتار دینا اور مجھے زمین میں دفن کر دینا میں ایک ایسا شخص ہوں جو قیامت کے دن جھگڑا کریگا۔

6641 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُصْعَبٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ وَلَدِ زَيْدٍ قَالَ:

ادْفِنُونَا وَمَا أَصَابَ الثَّرَى مِنْ دِمَائِنَا قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَمَّارُ الدُّهْنِيُّ قَالَ: قَالَ زَيْدٌ: شَدُّوا عَلَيَّ ثِيَابِي وَادْفِنُونِي وَابْنَ أُمِّي فِي قَبْرِ وَاحِدٍ يَعْنِي أَخَاهُ سَرْحَانَ، فَإِنَّا قَوْمٌ مُخَاصِمُونَ

* * * مصعب نے ایک شخص کے حوالے سے زید بن صوحان کی آل میں سے ایک شخص کا یہ بیان نقل کیا ہے: تم لوگ ہمیں

دفن کر دینا اور جو بھی ہمارا خون ہے اس خون سمیت دفن کر دینا۔

عمار دہنی نے یہ بات نقل کی ہے: زید نے کہا: تم لوگ میرے کپڑے مجھ پر باندھ دینا اور مجھے اور میرے بھائی کو ایک ہی قبر

میں دفن کرنا ان کی مراد ان کے بھائی سرحان تھے کیونکہ ہم ایسے لوگ ہیں جن سے جھگڑا کیا جائے گا۔

6642 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ

سَعْدِ بْنِ عُبَيْدٍ وَكَانَ يُدْعَى فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَارِيءَ، وَكَانَ لَقِيَ عَدُوًّا فَأَنْهَزَمَ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ عَمْرٌ: هَلْ لَكَ فِي الشَّامِ لَعَلَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَيْكَ قَالَ: لَا إِلَّا الَّذِينَ فَرَرْتُ مِنْهُمْ قَالَ: فَخَطَبَهُمْ بِالْقَادِسِيَّةِ فَقَالَ: إِنَّا

لَأَقْرُ الْعَدُوَّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غَدًا، وَإِنَّا مُسْتَشْهِدُونَ فَلَا تَغْسِلُوا عَنَّا دَمًا، وَلَا نُكْفِنُ إِلَّا فِي ثَوْبٍ كَانَ عَلَيْنَا

* * * عبد الرحمن بن ابولیلی بیان کرتے ہیں: سعد بن عبید کونبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تری صاحب کہا جاتا تھا

جب وہ دشمن کے سامنے آتے تھے تو انہیں پسپا کر دیتے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا تم شام جانا چاہو گے؟ کہ اللہ تعالیٰ تم پر

احسان کرے! انہوں نے جواب دیا: جی نہیں! البتہ ان لوگوں کا معاملہ مختلف ہے جن سے میں فرار ہوا تھا۔ راوی کہتے ہیں: پھر

انہوں نے قادسیہ کے مقام پر لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے یہ کہا: کل ہم اگر اللہ نے چاہا تو دشمن کا سامنا کریں گے اگر ہم میں سے

کوئی شخص شہید ہو جائے تو تم لوگ ہمارے خون کو نہ دھونا اور ہمارے جسموں پر جو کپڑے ہیں ان میں ہی ہمیں دفن کر دینا۔

6643 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْنَا سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى: كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَى

الشَّهِيدِ عِنْدَهُمْ؟ فَقَالَ: كَهَيْئَتِهَا عَلَى غَيْرِهِ قَالَ: وَسَأَلْنَا عَنْ دَفْنِ الشَّهِيدِ فَقَالَ: أَمَا إِذَا كَانَ فِي الْمَعْرَكَةِ فَإِنَّا

نَدْفِنُهُ كَمَا هُوَ وَلَا نَغْسِلُهُ وَلَا نُكْفِنُهُ وَلَا نُحْبِطُهُ، وَأَمَا إِذَا انْقَلَبْنَا بِهِ وَبِهِ رَمَقٌ فَإِنَّا نَغْسِلُهُ وَنُكْفِنُهُ وَنُحْبِطُهُ،

وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَى ذَلِكَ، وَكَانَ عَلَيْهِ مَنْ مَضَى قَبْلَنَا مِنَ النَّاسِ

* * * ابن جریر بیان کرتے ہیں: ہم نے سلیمان بن موسیٰ سے دریافت کیا: شہید کی نماز جنازہ کیسے ادا کی جائے گی؟

انہوں نے جواب دیا: جس طرح دوسرے لوگوں کی ادا کی جاتی ہے۔ ہم نے ان سے شہید کو دفن کرنے کے بارے میں دریافت کیا

تو انہوں نے فرمایا: اگر تو میدان کار ساز کے اندر ہی دفن کرنا ہے تو پھر ہم اُسے اسی طرح دفن کر دیں گے جس طرح وہ ہے ہم نہ تو

اُسے غسل دیں گے نہ کفن دیں گے اور نہ ہی اُسے خوشبو لگائیں گے، لیکن اگر ہم اُسے میدان سے واپس لے آتے ہیں اور اُس میں

زندگی کی رمق موجود ہوتی ہے (اور بعد میں وہ پڑاؤ میں آ کر شہید ہوتا ہے) تو ہم اُسے غسل بھی دیں گے اُسے کفن بھی دیں گے اُسے خوشبو بھی لگائیں گے ہم نے لوگوں کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے اور ہم سے پہلے لوگوں کا یہ طریقہ کار تھا۔

6644 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: إِذَا مَاتَ الشَّهِيدُ فِي الْمَعْرَكَةِ دُفِنَ كَمَا هُوَ، فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا يُنْقَلَبُ بِهِ صُنِعَ كَمَا صُنِعَ بِالْآخِرِ

*** عبد اللہ بن عبد الرحمن بن زید بیان کرتے ہیں: جب کوئی شہید جنگ کے دوران شہید ہو جائے تو اُسے اسی کی اسی حالت میں دفن کر دیا جائے گا، لیکن اگر وہ واپس لائے جانے کے بعد انتقال کرتا ہے تو اُس کے ساتھ اسی طرح کا طرز عمل اختیار کیا جائے گا، جس طرح کسی عام فوت ہونے والے شخص کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

6645 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ خَيْرَ الشَّهَدَاءِ: فَغَسِلَ وَصَلَّى عَلَيْهِ وَكُفِنَ لِأَنَّهُ عَاشَ بَعْدَ طَعْنِهِ

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہونے والے لوگوں میں سب سے زیادہ بہتر تھے، لیکن انہیں غسل بھی دیا گیا، اُن کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی اور انہیں کفن بھی دیا گیا، کیونکہ وہ زخمی ہونے کے بعد زندہ رہے تھے۔

6646 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ: غُسِّلَ عَلِيٌّ وَكُفِنَ وَصَلَّى عَلَيْهِ

*** یحییٰ بن جزار بیان کرتے ہیں: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غسل بھی دیا گیا، کفن بھی دیا گیا اور اُن کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔

6647 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ الشَّهِيدُ مَكَانَهُ لَمْ يُغَسَّلْ، فَإِذَا حُمِلَ حَيًّا غُسِّلَ

*** ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: جب شہید شخص اسی جگہ انتقال کر جائے تو اُسے غسل نہیں دیا جائے گا، لیکن جب اُسے زندہ اٹھا کر لایا جائے (اور بعد میں وہ انتقال کر جائے) تو اُسے غسل دیا جائے گا۔

6648 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سِئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ اللَّصُوصُ فَقَالَ: لَا يُغَسَّلُ

*** عبد اللہ بن عیسیٰ بیان کرتے ہیں: امام شعبی سے ایسے شخص کے بارے میں دریافت کیا گیا، جسے چور قتل کر دیتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا: اُسے غسل نہیں دیا جائے گا۔

6649 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: يُصَلَّى عَلَى الشَّهِيدِ وَلَا يُغَسَّلُ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ طَيَّبَهُ

*** عکرمہ فرماتے ہیں: شہید کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی لیکن اُسے غسل نہیں دیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اُسے پاک قرار دیا ہے۔

6650 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ الْمُسَيْبِ، قَالَا: يُغَسَّلُ الشَّهِيدُ فَإِنَّ كُلَّ مَيِّتٍ يُجَنَّبُ

*** حسن بصری اور سعید بن مسیب فرماتے ہیں: شہید کو غسل دیا جائے گا کیونکہ ہر میت جنسی ہوتی ہے۔

6651 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ، وَقَالَ: أَهَاجِرُ مَعَكَ فَأَوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ بَعْضَ أَصْحَابِهِ، فَلَمَّا كَانَتْ غَزْوَةُ خَيْبَرَ - أَوْ قَالَ: حُنَيْنٍ - غَنِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا يُقَسَّمُ، وَقَسَمَ لَهُ فَأَعْطَى أَصْحَابَهُ مَا قَسَمَ، وَكَانَ يَرْعَى ظَهْرَهُمْ، فَلَمَّا جَاءَ دَفَعُوهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: قَسَمْتُ قَسَمَهُ لَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: قَسَمْتُ قَسَمْتُهُ لَكَ قَالَ: مَا عَلَيَّ هَذَا اتَّبَعْتُكَ، وَلَكِنِّي اتَّبَعْتُكَ عَلَى أَنْ أُرْمَى هَاهُنَا - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى حَلْقِهِ - بِسَهْمٍ فَأَمُوتَ فَأَدْخَلَ الْجَنَّةَ قَالَ: إِنْ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِصَدَقَتِكَ فَلْيَبْرَأْ قَلِيلًا ثُمَّ نَهَضُوا فِي قِتَالِ الْعَدُوِّ، فَأَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْمَلُ وَقَدْ أَصَابَهُ سَهْمٌ حَيْثُ أَشَارَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَهْوَاؤُ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: صَدَقَ اللَّهُ فَصَدَقَهُ فَكَفَّنَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُبَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَدَّمَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَكَانَ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ صَلَاتِهِ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا عَبْدُكَ خَرَجَ مُهَاجِرًا فِي سَبِيلِكَ، قُتِلَ شَهِيدًا

*** حضرت شداد بن الہادی بیان کرتے ہیں: ایک دیہاتی شخص نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ آپ پر ایمان لے آیا اس نے آپ کی پیروی کی اس نے عرض کی: میں آپ کے ساتھ ہجرت کروں گا۔ تو نبی اکرم ﷺ نے اس کے بارے میں اپنے بعض ساتھیوں کو ہدایت کی جب غزوہ خیبر کا یا شاید غزوہ حنین کا موقع آیا تو نبی اکرم ﷺ کو کچھ مال غنیمت حاصل ہوا جسے تقسیم کیے جانا تھا آپ نے اس دیہاتی کا بھی حصہ مقرر کیا اور اس کے ساتھیوں کو اس کا حصہ عطا کر دیا۔ وہ اپنی بریاں چرانے کے لیے گیا ہوا تھا جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھیوں نے اس کا حصہ اس کے سپرد کیا اس نے دریافت کیا: یہ کیا ہے؟ ان کے ساتھیوں نے جواب دیا: یہ وہ حصہ ہے جو نبی اکرم ﷺ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ وہ اس حصہ کو لے کر نبی اکرم ﷺ کے پاس آیا اس نے کہا: حضرت محمد ﷺ یہ کیا ہے؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: یہ وہ حصہ ہے جو میں نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے۔ اس نے عرض کی: میں نے اس لیے آپ کی پیروی نہیں کی تھی میں نے تو اس لیے آپ کی پیروی کی تھی کہ مجھے یہاں نیرنگ بنانے کے لیے اپنے حلق کی طرف اشارہ کر کے یہ بات کہی اور پھر میں مرجاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے تم اللہ تعالیٰ نے بارے میں سچ بول رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری بات کو سچ ثابت کر دے گا۔

راوی کہتے ہیں: تھوڑی ہی دیر گزری کہ وہ لوگ دشمن سے لڑائی کے لیے چلے گئے پھر اُسے اٹھا کر نبی اکرم ﷺ کے پاس لایا گیا تو اُسے اسی جگہ تیر لگا تھا جس کی طرف اُس نے اشارہ کیا تھا۔ نبی اکرم ﷺ نے دریافت کیا: کیا یہ وہی ہے؟ کیا یہ وہی ہے؟ لوگوں نے عرض کی: جی ہاں! نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اس نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سچ بیانی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سچ کو ظاہر کر دیا۔ پھر نبی اکرم ﷺ نے اپنے جبہ مبارک میں اُسے کفن دیا پھر آپ نے اُسے آگے رکھوا کر اُس کی نماز جنازہ ادا کی نماز جنازہ کے دوران آپ کے جو کلمات سنائی دیئے اُن میں یہ کلمات بھی تھے:

”اے اللہ! یہ تیرا بندہ ہے جو تیری راہ میں ہجرت کرنے کے لیے نکلا تھا اور شہید ہونے کے طور پر قتل ہوا۔“

6652 - اِتْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلَ اِنْسَانَ عَطَاءً: اَيُّصَلِّيْ عَلَى الشَّهِيدِ؟ قَالَا نَعَمْ، فَقِيْلَ لَهُ: وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ؟ قَالَ: قَدْ صُلِّيَ عَلَيَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: بَلَّغْنِي اَوْ شُهَدَاءَ بَدْرٍ دُفِنُوا كَمَا هُمْ

* * ابن جریج بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے عطاء سے سوال کیا: کیا شہید کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں! اُن سے دریافت کیا: کیا وہ جنت میں ہوگا؟ (تو اُس کے باوجود اُس کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی؟) تو عطاء نے کہا: نبی اکرم ﷺ کے لیے بھی تو دعائے رحمت کی گئی تھی۔

ابن جریج کہتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ غزوہ بدر کے شہداء کو اُن کی اسی حالت میں دفن کر دیا گیا تھا (یعنی انہیں غسل اور کفن وغیرہ نہیں دیا گیا تھا)۔

6653 - حَدِيثُ نَبِيِّ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَمْزَةَ يَوْمَ اُحُدٍ سَبْعِينَ صَلَاةً، كُلَّمَا اَتَى بِرَجُلٍ صَلَّى عَلَيْهِ، وَحَمْزَةُ مَوْضِعٌ يُصَلِّي عَلَيْهِ مَعَهُ

* * امام شعبی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے غزوہ احد کے موقع پر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ستر مرتبہ نماز جنازہ ادا کی تھی جب بھی کسی شخص کو لایا جاتا تو آپ اُس کی نماز جنازہ ادا کرتے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی میت وہاں رکھی رہتی آپ اُس کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بھی نماز جنازہ ادا کرتے تھے۔

6654 - اِتْوَالِ تَابِعِينَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ. قَالَ يُلْقَى عَنِ الشَّهِيدِ. كَمَا جَلِدُ يَعْْنِي اِذَا قُتِلَ

* * مجاہد فرماتے ہیں: اس شہید کے جسم سے چیزیں اتار لی جائیں گی اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ شہید ہو جائے تو اُس کے جسم سے چمڑے کی چیزیں اتار لی جائیں گی (یعنی جو جنگ میں ہتھیار کے طور پر کام آتی ہیں)۔

6655 - اَثَارِ صَاحِبِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ اسْرَائِيْلَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ اَبِي اسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنِ عَلِيٍّ قَالَ: " يُنْزَعُ مِنَ الْقَتِيْلِ خُفَّاهُ وَسَرَاوِيْلُهُ وَكُمَّتُهُ - اَوْ قَالَ - : عِمَامَتُهُ وَيَزَادُ ثَوْبًا، اَوْ يُنْقَصُ ثَوْبًا حَتَّى يَكُوْنَ وَتَرًا "

* * حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مقتول شخص سے اُس کے موزے اور اُس کی شلو اور اُس کی آستین (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) اُس کا عمامہ اتار لیا جائے گا یا جو بھی اضافی کپڑا ہو اور اتنے کپڑے دیئے جائیں گے جو طاق تعداد میں ہوں۔

6656 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن عیینة، عن ابي الزبير، انه سمع جابر بن عبد الله يقول: لما اراد معاوية ان يجري الكظامة قال: من كان له قتيل فليات قتيله - يعنى قتلى احد - قال: فاخرجهم رطابا يتشون قال: فاصابت المسحاة رجل رجل منهم فانفطرت دما فقال ابو سعيد: لا ينكر بعد هذا منكر ابدا

* * حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ندی بنانے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا: جس شخص کا کوئی قاتیل ہو وہ اپنے قاتیل کے پاس چلا جائے اُن کی مراد وہ لوگ تھے جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے راوی کہتے ہیں: ان لوگوں نے ان (شہداء کے اجسام) بالکل تروتازہ حالت میں نکالے۔ راوی کہتے ہیں: پھر اُن میں سے ایک شخص کے پاؤں پر پھاؤڑا لگا تو اُس کے پاؤں میں سے خون پھوٹ پڑا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا: اس کے بعد کوئی منکر کبھی انکار نہیں کر سکے گا۔

6657 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن عیینة، عن اسماعيل بن ابي خالد، عن قيس بن ابي حازم قال: رآى بعض اهل طلحة بن عبید الله انه رآه فى النوم فقال: انكم قد دفنتمونى فى مكان قد اتانى فيه الماء فحوّلونى منه فحوّلوه، فاخرجوه كأنه سلقه لم يتغير منه شىء الا شعرات من لحيته

* * قیس بن ابو حازم بیان کرتے ہیں: حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے گھر والوں میں سے کسی نے انہیں خواب میں دیکھا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا: تم لوگوں نے مجھے ایک ایسی جگہ پر دفن کر دیا ہے جہاں مجھ تک پانی آجاتا ہے تم لوگ مجھے اُس جگہ سے منتقل کر دو۔ تو اُن لوگوں نے انہیں اُس جگہ سے منتقل کر دیا تو جب انہیں قبر سے نکالا گیا تو وہ بالکل تروتازہ تھے اُن کے جسم کی کوئی بھی چیز متغیر نہیں ہوئی تھی، صرف داڑھی کے کچھ بال متغیر محسوس ہوئے تھے۔

6658 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن الثوري، عن الأسود، عن نبيح، عن جابر بن عبد الله قال: كنا حملنا القتلى يوم احد لندفنه فجاء منادى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: ادفنوا القتلى فى مصارعهم فرددناهم

* * حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: غزوہ احد کے موقع پر ہم اپنے شہیدوں کو اٹھا کر لے جانے لگے تاکہ انہیں دفن کریں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کرنے والا آیا اور اُس نے کہا کہ تم شہداء کو میدان جنگ میں دفن کرو۔ تو ہم نے اُن مقتولین کو واپس کر دیا۔

6659 - اقوال تابعين: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: اخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال: لا يدفن الشهيد فى حذاء خفين، ولا نعلين، ولا سلاح، ولا خاتم قال: ندفنه فى المنطقه والياب. قال: وبلغنى عن ابراهيم النخعي لا يدفن برقعة

*** محمد بن عبد الرحمن بن ابولیلی بیان کرتے ہیں: شہید کو اُس کے موزوں یا جوتوں یا ہتھیاروں یا انگٹھی سمیت دفن نہیں کیا جائے گا البتہ ہم اُن کے کپڑوں اور کمر پر باندھنے والے کپڑے سمیت دفن کریں گے۔
ابراہیم نخعی کے بارے میں یہ روایت مجھ تک پہنچی ہے کہ شہید کو اُس کے رومال سمیت دفن نہیں کیا جائے گا۔

بَابُ الرَّجُلِ يَمُرُّ عَلَى الْمَيِّتِ فَلَا يَدْفِنُهُ

باب: جو شخص کسی میت کے پاس سے گزرے اور اُسے دفن نہ کرے

6660 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: ذُكِرَ لِعُمَرَ امْرَأَةٌ تُوْفِيَتْ بِالْبَيْدَاءِ فَجَعَلَ النَّاسُ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَلَا يَدْفِنُونَهَا حَتَّى مَرَّ عَلَيْهَا كَلْبٌ فَدَفِنَهَا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي لَأَرْجُو لِكَلْبٍ بِهَا خَيْرًا قَالَ: فَسَأَلَ عُمَرُ عَنْهَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: لَمْ أَرَهَا، فَقَالَ: لَوْ رَأَيْتَهَا وَلَمْ تَدْفِنَهَا لَجَعَلْتُكَ نَكَالًا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ: إِنَّ أَبَا لَوْلُؤَةَ طَعَنَ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا فَمَاتَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ مِنْهُمْ عُمَرُ وَكَلْبٌ، وَعَاشَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ ثُمَّ نَحَرَ نَفْسَهُ بِخَنْجَرٍ "

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک خاتون کا ذکر کیا گیا جو کھلے میدان میں انتقال کر گئی، لوگ اُس کی میت کے پاس سے گزرتے رہے لیکن انہوں نے اُس عورت کو دفن نہیں کیا یہاں تک کہ کلب نامی راوی صاحب اُس میت کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اُس کو دفن کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ (کو جب اس بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے) فرمایا: مجھے کلب کے بارے میں اس کام کی وجہ سے بھلائی کی امید ہے۔ راوی کہتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اُس خاتون کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: میں نے تو اُس عورت کو نہیں دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر تم نے اُسے دیکھا ہوتا اور پھر بھی دفن نہ کیا ہوتا، تو میں تمہیں سزا دیتا۔

زہری بیان کرتے ہیں: ابولؤلؤ نے بارہ افراد کو زخمی کیا تھا، جن میں سے چھ حضرات کا انتقال ہو گیا تھا، جن میں سے ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور کلب نامی وہ صاحب بھی تھے جبکہ اُن میں سے چھ حضرات زندہ بچ گئے تھے اُس کے بعد اُس (ابولؤلؤ) نے خنجر کے ذریعہ خودکشی کر لی تھی۔

بَابُ الْقَوْلِ إِذَا رَأَيْتَ الْجِنَازَةَ

باب: جب جنازہ دیکھیں تو کیا پڑھیں؟

6661 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا مَرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ قَالَ: رُوحِي فَإِنَّا عَادُونَ، أَوْ اغْدِي فَإِنَّا رَائِحُونَ، مَوْعِظَةٌ بَلِيغَةٌ، وَغَفْلَةٌ سَرِيعَةٌ، يَذْهَبُ الْأَوَّلُ وَيَبْقَى الْآخِرُ لَا عَقْلَ لَهُ

*** حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات منقول ہے: جب اُن کے پاس سے جنازہ گزرتا تھا، تو وہ یہ کہتے تھے:

تم صبح جا رہے ہو تو ہم بھی شام کو آ جائیں گے اور اگر تم شام کو جا رہے ہو تو ہم بھی صبح کو آ جائیں گے یہ ایک بلوغ نصیحت ہے اور غفلت بہت زیادہ ہے پہلے لوگ رخصت ہو گئے اور بعد والے باقی رہ گئے جن کو کوئی عقل نہیں ہے۔

6662 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ قَالَ: يُقَالُ إِذَا رُئِيَ الْجَنَازَةُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، هَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ زِدْنَا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، سَلَّمَ نَحْنُ لِلَّهِ رَبَّنَا. وَبِهِ نَأْخُذُ، يَعْنِي سَلَّمَ تَسْلِيمٌ أَيْ نَحْنُ لَكَ

*** عبد الکریم بن ابوالمخارق بیان کرتے ہیں: جب جنازہ نظر آئے تو یہ پڑھا جائے:

”اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا اے اللہ! تو ہمارے ایمان میں اور سوچنے میں اضافہ کر دے! ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔“

(امام عبدالرزاق فرماتے ہیں:) ہم اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ سلم اور تسلیم سے مراد یہ ہے کہ ہم تیرے لیے مخصوص ہیں۔

6663 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْجَنَازَةِ قَالَ: هُوَ أَنْتَ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَنَا

*** عطاء فرماتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جب جنازہ کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو وہ فرماتے تھے: وہ یا تو تم ہو اور اگر نہیں مانتے تو پھر میں ہوں۔

بَابُ الطَّعَامِ عَلَى الْمَيِّتِ

باب: میت پر کھانا دینا

6664 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: "ثَلَاثٌ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ: الْبِيَاحَةُ، وَالطَّعَامُ عَلَى الْمَيِّتِ، وَبَيْتُوتَةُ الْمَرْأَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ لَيْسَتْ مِنْهُمْ." ذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِلَالِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ

*** سعید بن جبیر فرماتے ہیں: تین کام زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھتے ہیں: نوحہ کرنا، میت پر کھانا دینا اور عورت کا ایسے اہل میت کے ہاں رات بسر کرنا جن کا اس سے کوئی واسطہ نہ ہو۔ یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

6665 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ خَالِدِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ أَبِيهِ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اصْنَعُوا لِيَالٍ

جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْفُلُهُمْ

*** حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے انتقال کی اطلاع آئی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان کے پاس ایسی صورت حال آگئی ہے جس نے انہیں مشغول کر دیا ہے۔

6666 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ جَائِنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَسْمَاءُ لَا تَقُولِي هُجْرًا، وَلَا تَضْرِبِي صَدْرًا قَالَتْ: وَأَقْبَلْتُ فَاطِمَةَ وَهُوَ يَقُولُ: يَا ابْنَ عَمَاهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى مِثْلِ جَعْفَرٍ فَلْتَبِكِ الْبَاكِئَةَ قَالَتْ: ثُمَّ عَاجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ: اصْنَعُوا لِي جَعْفَرٍ طَعَامًا، فَقَدْ شُغِلُوا الْيَوْمَ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَوْدَةَ ابْنَةِ حَارِثَةَ امْرَأَةِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَتْ: قَدْ كَانَ يُؤْمَرُ أَنْ نَصْنَعَ لِأَهْلِ الْمَيْتِ طَعَامًا

*** سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: جب حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے فرمایا: اے اسماء! کوئی نامناسب بات نہ کہنا اور سینہ نہ پیٹنا۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: اسی دوران سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ کہتے ہوئے آئیں: ہائے میرے چچا زاد! تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جعفر جیسے شخص پر رونے والیوں کو رونا چاہیے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خانہ کے پاس گئے اور ارشاد فرمایا: جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ آج کے دن وہ مصروف ہیں۔

راوی بیان کرتے ہیں: عبداللہ بن ابوبکر نامی راوی نے سودہ بنت حارثہ نامی خاتون جو عمرو بن حزم کی اہلیہ ہیں، ان کا یہ بیان نقل کیا ہے: یہ حکم دیا گیا تھا کہ ہم میت کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کریں۔

بَابُ الصَّبْرِ وَالْبُكَاءِ وَالنِّيَاحَةِ

باب: صبر کرنا، رونا، نوحہ کرنا

6667 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى، وَالْعِبْرَةُ لَا يَمْلِكُهَا ابْنُ آدَمَ، صَبَابَةُ الْمَرْءِ إِلَى أَخِيهِ *** حسن بصری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: صبر صدمہ کے آغاز میں ہوتا ہے اور انسان عبرت کا مالک نہیں ہوتا آدمی کی بیقراری اپنے بھائی کی وجہ سے ہوتی ہے۔

6668 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِامْرَأَةٍ قَدْ أُصِيبَتْ بِوَلَدِهَا فَسَمِعَ مِنْهَا مَا يَكْرَهُ فَوَقَفَ عَلَيْهَا يَعْظُهَا فَقَالَتْ لَهُ: اذْهَبْ إِلَيْكَ، فَلَيْسَ

فِي صَدْرِكَ مَا فِي صَدْرِي، فَوَلَّى عَنْهَا، فَقِيلَ لَهَا: وَيَحْكُ مَا تَدْرِينَ مَنْ وَقَفَ عَلَيْكَ؟ هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّبَعْتُهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا عَرَفْتُكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبِي إِلَيْكَ، فَإِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُولَى

* * یحییٰ بن کثیر بیان کرتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ نبی اکرم ﷺ کا گزر ایک خاتون کے پاس سے ہوا جس کے بچہ کا انتقال ہوا تھا تو نبی اکرم ﷺ نے اُس کی طرف سے ایسی آواز سنی جو آپ کو اچھی نہیں لگی، آپ اُسے وعظ و نصیحت کرنے کے لیے اُس کے پاس ٹھہر گئے تو اُس خاتون نے آپ سے کہا: آپ چلے جائیں! آپ کے سینہ میں اتنا غم نہیں ہے جتنا میرے سینہ میں ہے۔ تو نبی اکرم ﷺ اُس خاتون کے پاس سے چلے گئے۔ اُس خاتون سے کہا گیا: تمہارا ستیا ناس ہو! کیا تمہیں پتا نہیں چلا کہ تمہارے پاس کون ٹھہرا تھا وہ اللہ کے رسول تھے۔ وہ خاتون نبی اکرم ﷺ کے پیچھے آئی اُس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں آپ کو پہچانی نہیں تھی۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم چلی جاؤ! کیونکہ صبر صدمہ کے آغاز میں ہوتا ہے۔

6669 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: بَلَّغْنِي أَنَّ الصَّبْرَ عِنْدَ

الصَّدْمَةِ الْأُولَى

* * مجاہد فرماتے ہیں: مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ صبر صدمہ کے آغاز میں ہوتا ہے۔

6670 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرْسَلَتْ ابْنَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَتِي تُقْبِضُ فَاتِنَا، فَأَرْسَلْتُ: يقرأ عَلَيْكَ السَّلَامُ وَيَقُولُ: إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ، وَلَهُ مَا أَعْطَى، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَأَرْسَلْتُ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لِيَأْتِيَنِّي قَالَ: فَقَامَ، فَقُمْنَا، وَمَعَهُ مِعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبِيُّ بَنٍ كَعْبٍ وَسَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَ: فَأَخَذَ الصَّبِيَّةَ وَنَفْسَهَا تَتَقَعَّقُ فِي صَدْرِهَا فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ سَعْدُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: هَذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللَّهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرَّحَمَاءَ

6670- صحیح البخاری - کتاب الجنائز 'باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: " یعذب المیت - حدیث: 1237 'صحیح مسلم - کتاب الجنائز' باب البكاء علی المیت - حدیث: 1582 'صحیح ابن حبان - کتاب البر والإحسان' باب الرحمة - ذکر البیان بان اللہ جل و علا إنما یرحم من عباده الرحماء ' حدیث: 462 'سنن ابی داود - کتاب الجنائز' باب فی البكاء علی المیت - حدیث: 2734 'سنن ابن ماجہ - کتاب الجنائز' باب ما جاء فی البكاء علی المیت - حدیث: 1583 'السنن للنسائی - کتاب الجنائز' الامر بالاحتساب والصبر عند نزول المصيبة - حدیث: 1854 'السنن الکبریٰ للنسائی - کتاب الجنائز' الامر بالاحتساب - حدیث: 1974 'السنن الکبریٰ للبیہقی - کتاب الجنائز' جماع ابواب البكاء علی المیت - 156 'باب الرغبة فی ان یتعزی بها امر اللہ تعالیٰ به' حدیث: 6725 'مسند احمد بن حنبل - مسند الانصار' حدیث اسامة بن زید حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم - حدیث: 21239 'مسند الطیالسی - اسامة بن زید رحمه اللہ' حدیث: 665 'البحر الزخار مسند البزار - ما روی ابو عثمان النهدی' حدیث: 2254 'الادب المفرد للبخاری - باب عیادة الصبیان' حدیث: 530

*** حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: ہم نبی اکرم ﷺ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے نبی اکرم ﷺ کی صاحبزادی نے آپ کو پیغام بھجوایا کہ میری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ تو نبی اکرم ﷺ نے اسے سلام بھیجا اور یہ فرمایا: اللہ تعالیٰ جو کچھ واپس لے وہ اس کا ہے اور جو کچھ اس نے عطا کیا ہو وہ بھی اسی کی ملکیت ہے اس کی بارگاہ میں ہر چیز کے لیے ایک متعین مدت ہے تو تم صبر سے کام لو اور ثواب کی امید رکھو۔ تو اس صاحبزادی نے نبی اکرم ﷺ کو پیغام بھجوایا کہ آپ کو یہ قسم دی کہ آپ ضرور تشریف لائیں۔ راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کھڑے ہوئے ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ نبی اکرم ﷺ کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے اس بچی کو پکڑا تو اس کا سانس سینہ میں اُکھڑ کر آ رہا تھا تو نبی اکرم ﷺ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! یہ کس وجہ سے ہے؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: یہ وہ رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے رحم کرنے والے بندوں پر ہی رحم کرتا ہے۔

6671 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ،

یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے۔

6672 - حدیث نبوی: قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَخْبَرَنِيهِ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ مَكْحُولٍ

قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْرَاهِيمَ ابْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، فَلَمَّا رَأَاهُ دَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ، تَبْكِي؟ مَتَى يَرَاكَ الْمُسْلِمُونَ تَبْكِي يَبْكُوا قَالَ: فَلَمَّا تَرَقَّرَتْ عَبْرَتُهُ قَالَ: إِنَّمَا هَذَا رَحِمٌ، وَإِنَّ مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ، إِنَّمَا أَنْهَى النَّاسَ عَنِ الْيَأْسِ وَأَنَّ يُنْدَبَ الْمَيِّتُ بِمَا لَيْسَ فِيهِ فَلَمَّا قَضَى قَالَ: لَوْلَا أَنَّهُ وَعَدُّ جَامِعٌ وَسَبِيلٌ مَاتِيٌّ، وَأَنَّ الْآخِرَ مِنَّا يَلْحَقُ بِالْأَوَّلِ لَوْ جَدْنَا غَيْرَ الَّذِي وَجَدْنَا، وَإِنَّا بِكَ يَا اِبْرَاهِيمَ لَمَحْزُونُونَ، تَدْمَعُ الْعَيْنُ، وَيَجِدُ الْقَلْبُ، وَلَا نَقُولُ مَا يُسْحِطُ الرَّبُّ، وَفَضْلُ رِضَاعِهِ فِي الْجَنَّةِ

*** مکحول بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ تشریف لائے آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹیک

لگائی ہوئی تھی نبی اکرم ﷺ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی سانس اُکھڑ رہی تھی جب نبی اکرم ﷺ نے انہیں دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا آپ رورہے ہیں؟ جب مسلمان آپ کو روتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ بھی روتے لگیں گے۔ راوی کہتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: یہ رحم ہے اور جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا میں نے لوگوں کو نوحہ کرنے سے اور میت کے بارے میں ایسی چیزیں بیان کرنے سے منع کیا ہے جو اس میں موجود نہیں ہوتی ہیں۔ جب آپ ﷺ کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا تو نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر متعین وعدہ نہ ہوتا اور آنے کا راستہ نہ ہوتا اور بعد والوں نے بھی پہلے والوں سے جا کر ملنا نہ ہوتا تو صورت حال اس سے مختلف ہوتی جو اس وقت ہے اے ابراہیم! تمہاری وجہ سے ہم غمگین ہیں آنکھیں رورہی ہیں اور دل میں غم ہے اور ہم کوئی ایسی بات نہیں کہتے جو

پروردگار کو ناراض کرے اس کی رضاعت (کی تکمیل) جنت میں ہوگی۔

6673 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ، بَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَتَاهُ، مِنْ رَبِّهِ مَا أَدْنَاهُ، يَا أَبَتَاهُ إِلَى جِبْرِيلَ أَنْعَاهُ، يَا أَبَتَاهُ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ مَاوَاهُ

* * حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: (نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت) سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے روتے ہوئے کہا: اے ابا جان! آپ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں کتنے مقرب تھے! اے ابا جان! ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کے انتقال کی اطلاع دیتے ہیں اے ابا جان! جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے۔

6674 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَيْضًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ سَلَمَةَ بْنَ الْأَزْرَقِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عُمَرَ ذَاتَ يَوْمٍ بِالسُّوقِ، فَمُرَّ بِجِنَازَةٍ يُسَكِّي عَلَيْهَا فَعَابَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ وَانْتَهَرَهُمْ، فَقَالَ لَهُ سَلَمَةُ بْنُ الْأَزْرَقِ: لَا تَقُلْ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَاشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ سَمِعْتَهُ يَقُولُ وَتُوقِيَتِ امْرَأَةٌ مِنْ كَنَانِ مَرْوَانَ فَشَهِدْتُهَا فَأَمَرَ مَرْوَانَ بِالنِّسَاءِ اللَّائِي يَبْكِينَ أَنْ يُضْرَبْنَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: دَعُهُنَّ يَا أَبَا عَبْدِ الْمَلِكِ فَإِنَّ مَرَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ يُسَكِّي عَلَيْهَا وَأَنَا مَعَهُ وَمَعَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَانْتَهَرَ عُمَرُ اللَّائِي يَبْكِينَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُهُنَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَالْنَّفْسُ مُصَابَةٌ، وَالْعَيْنُ دَامِعَةٌ، وَإِنَّ الْعَهْدَ حَدِيثٌ. قَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ قَالَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ

* * سلمہ بن ازرق بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ بازار میں بیٹھے ہوئے تھے اسی دوران ایک جنازہ گزرا جس پر رویا جا رہا تھا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان لوگوں پر تنقید کرتے ہوئے انہیں جھڑکا، سلمہ بن ازرق نے ان سے کہا: اے ابو عبدالرحمن! آپ ایسا نہ کہیں! کیونکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں گواہی دے کر یہ بات بیان کرتا ہوں کہ میں نے انہیں کہتے ہوئے سنا ہے کہ مروان کے عزیزوں میں سے ایک خاتون کا انتقال ہو گیا تو میں اس کے جنازہ میں شریک ہوا، مروان نے خواتین کے بارے میں یہ حکم دیا کہ جو خواتین روتی ہیں، ان کی پٹائی کی جائے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: اے ابو عبدالملک! تم انہیں کرنے دو! کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا ایک جنازہ کے پاس سے ہوا، جس پر رویا جا رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھا اور آپ کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رونے والی ان خواتین کو ڈانٹا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اے خطاب کے بیٹے! انہیں رونے دو! کیونکہ انہیں مصیبت لاحق ہوئی ہے، آنکھ روتی ہے اور مصیبت کا وقت قریب ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے دریافت کیا: کیا تم نے خود ان کی زبانی یہ بات سنی ہے؟ تو میں نے جواب دیا: جی ہاں! تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں!

6675 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: تُوِّفِيَتْ ابْنَةُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِمَكَّةَ فَجِئْنَا لِنَشْهَدَهَا، أَوْ قَالَ: فَجِئْنَا لِنَحْضَرَهَا فَحَضَرَهَا ابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي لَجَالِسٌ بَيْنَهُمَا جَلَسْتُ إِلَى أَحَدِهِمَا ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُ فَجَلَسَ إِلَيَّ جَنِبِي، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِعُمَرِ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ مُوَاجِهُهُ: أَلَا تَنْهَى عَنِ الْبُكَاءِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَدْ كَانَ عُمَرُ يَقُولُ بَعْضَ ذَلِكَ، ثُمَّ حَدَّثَ قَالَ: صَدَرْتُ مَعَ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ إِذَا هُوَ بِرُكْبٍ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ، ثُمَّ قَالَ: أَذْهَبُ فَانظُرْ مَنْ هُوَ لِأَيِّ الرُّكْبِ، فَانظَرْتُ فَإِذَا هُوَ صُهَيْبٌ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ: فَادْعُهُ لِي قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى صُهَيْبٍ، فَقُلْتُ: ارْتَحِلْ فَالْحَقْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَمَّا أَنْ أَصِيبَ عُمَرُ دَخَلَ صُهَيْبٌ يَبْكِي يَقُولُ: وَآخَاهُ وَآصَاحِبَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا صُهَيْبُ تَبْكِي عَلَيَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ، وَاللَّهِ مَا حَدَّثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الْمُؤْمِنِينَ بِبُكَاءِ أَحَدٍ، وَلَكِنْ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَحَسْبُكُمْ الْقُرْآنُ (لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) (الأنعام: 164) قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عِنْدَ ذَلِكَ: وَاللَّهِ أَضْحَكُ وَأَبْكِي، قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: فَوَاللَّهِ مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ مِنْ شَيْءٍ

*** عبد اللہ بن ابوملیکہ بیان کرتے ہیں: حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی کا انتقال مکہ میں ہوا تو ہم ان کے جنازہ میں شرکت کے لیے آئے (یہاں ایک لفظ کے بارے میں راوی کوشک ہے) اُس جنازہ میں حضرت عبد اللہ بن عمر اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہم بھی شریک ہوئے۔ راوی کہتے ہیں: میں ان دونوں حضرات کے درمیان بیٹھ گیا، میں ان میں سے ایک کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ اسی دوران دوسرے صاحب تشریف لے آئے اور میرے پہلو میں آ کر بیٹھ گئے تو حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عمرو سے کہا: کیا آپ انہیں رونے سے منع نہیں کرتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”میت کو اُس کے اہل خانہ کے اُس پر رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔“

اس پر حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اس طرح کی بات کہا کرتے تھے پھر حضرت عبد اللہ بن عباس نے بتایا: ایک مرتبہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے واپس آ رہا تھا یہاں تک کہ جب ہم بیداء کے مقام پر پہنچے تو وہاں ایک درخت کے سائے میں کچھ سوار موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تم جاؤ اور جا کر جائزہ لو کہ یہ سوار کون ہیں؟ میں نے جا کر دیکھا تو وہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ تھے۔ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آ کر اس بارے میں بتایا تو انہوں نے کہا: اُسے میرے پاس بلا کے لے کے آؤ۔ میں واپس حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور میں نے کہا: آپ تیار ہو جائیں اور امیر المؤمنین کے ساتھ مل جائیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا گیا تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روتے ہوئے اُن کے پاس آئے اور بولے: ہائے بھائی جان!

ہائے ساتھی! تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے صہیب! تم مجھ پر رو رہے ہو جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے:

”میت کے گھر والوں کے اُس پر رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔“

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بتایا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے یہ بات ذکر کی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر رحم کرے! اللہ کی قسم! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ کسی کے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومنوں کو عذاب دے گا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے: اللہ تعالیٰ کافر شخص کے گھر والوں کے اُس پر رونے کے ذریعہ کافر کے عذاب میں اضافہ کر دیتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ بھی فرمایا: تم لوگوں کے لیے (دلیل کے طور پر) قرآن کی یہ آیت کافی ہے:

”کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔“

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس موقع پر یہ آیت بھی تلاوت کی:

”اور اللہ تعالیٰ ہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔“

ابن ابوملیکہ بیان کرتے ہیں: اللہ کی قسم! اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کچھ نہیں کہا۔

6676 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ صُهَيْبًا، قَالَ لِعُمَرَ: يَا أَخَاهُ، يَا

صَاحِبَاهُ، فَقَالَ عُمَرُ: اسْكُتْ، وَيَحْكُكَ أَمَا سَمِعْتَنَا نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْمُعْوَلَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ؟

* * ابن سیرین بیان کرتے ہیں: حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا: اے بھائی جان! اے میرے ساتھی!

تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: تم خاموش ہو جاؤ! تمہارا استیاناں ہو! کیا تم نے ہمیں نہیں سنا کہ ہم یہ بات چیت کیا کرتے تھے کہ رونے کی وجہ سے آدمی کو عذاب دیا جاتا ہے۔

6677 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ذَلِكَ، مِنْ عُمَرَ، مِثْلَ

حَدِيثِ مَعْمَرٍ

* * اسی کی مانند روایت ایک اور سند کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے۔

6678 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا، يُقَالُ لَهُ أَبُو عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ،

يَقُولُ وَهُوَ فِي جِنَازَةِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَقَامَ النِّسَاءُ يُبْكِينَ عَلَى رَافِعٍ فَأَجْلَسَهُنَّ مِرَارًا، ثُمَّ قَالَ لَهُنَّ: وَيَحْكُنَّ

إِنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا طَاقَةَ لَهُ بِالْعَذَابِ، وَإِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِكِبَائِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

* * ابو عمر نامی ایک بزرگ بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا وہ اُس وقت

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کے جنازہ میں شریک تھے اور خواتین حضرت رافع رضی اللہ عنہ پر رو رہی تھیں، اُن خواتین کو انہوں نے کئی مرتبہ

بٹھایا اور پھر اُن سے کہا: تمہارا استیاناں ہو! رافع بن خدیج ایک بوڑھے آدمی ہیں، وہ عذاب کی طاقت نہیں رکھتے ہیں اور میت کے

گھر والوں کے اُس پر رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔

6679 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: يَرْحَمُ اللَّهُ عُمَرَ وَابْنَ عُمَرَ سَمِعَا شَيْئًا لَمْ يَحْفَظَاهُ، إِنَّمَا مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَالِكٍ يَبْكِي عَلَيْهِ أَهْلُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَهْلَهُ يَكُونُ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ قَالَتْ: وَكَانَ الرَّجُلُ قَدْ أَحْرَمَ

*** سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: اللہ تعالیٰ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پر رحم کرے! انہوں نے ایک بات سنی، لیکن اسے صحیح طور پر یاد نہیں رکھ سکے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا ایک فوت شدہ شخص کے پاس سے ہوا، جس کے اہل خانہ اس پر رو رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس کے اہل خانہ اس پر رو رہے ہیں اور اسے عذاب دیا جا رہا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اس شخص نے کسی حرام کام کا ارتکاب کیا تھا۔

6680 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: لَمَّا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ بَكَى عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ وَأَبْوَا إِلَّا أَنْ يَبْكُوا فَقَالَ عُمَرُ لِهَشَامِ بْنِ الْوَلِيدِ: قُمْ فَأَخْرِجِ النِّسَاءَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: إِنِّي أُخْرِجُكَ، قَالَ عُمَرُ: ادْخُلْ فَقَدْ أَذِنْتُ لَكَ، فَقَالَ: فَدَخَلَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَمْخْرِجِيَّ أَنْتِ، أَيُّ بَنِي؟ فَقَالَ: أَمَا لِكَ فَقَدْ أَذِنْتُ قَالَ: فَجَعَلَ يُخْرِجُهُنَّ عَلَيْهِ امْرَأَةً امْرَأَةً، وَهُوَ يَضْرِبُهُنَّ بِالِدِرَّةِ حَتَّى أَخْرَجَ أُمَّ فَرَوَةَ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُنَّ، أَوْ قَالَ: فَفَرَّقَ بَيْنَ النَّحْوِيِّ

*** سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں: جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، تو ان پر رو یا جانے لگا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: زندہ لوگوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے، لیکن لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی اور وہ روتے رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہشام بن ولید سے کہا: تم اٹھو اور خواتین کو باہر نکال دو۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا: میں تمہیں باہر نکالتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: میں تمہیں اجازت دیتا ہوں! تم اندر آ جاؤ! راوی کہتے ہیں: تو وہ صاحب اندر آئے! سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اے میرے بیٹے! کیا تم باہر نکالنے والے تھے! تو انہوں نے کہا: آپ کے لیے میں اجازت دیتا ہوں (کہ آپ یہاں ٹھہری رہیں) پھر اس کے بعد راوی نے ایک ایک خاتون کو باہر نکالنا شروع کیا وہ دڑے کے ذریعہ انہیں مار بھی رہے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ام فروہ کو بھی باہر نکال دیا، انہوں نے ان خواتین کو منتشر کر دیا۔ (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) انہوں نے نوحہ کرنے والی خواتین کو الگ کر دیا۔

6681 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ اجْتَمَعَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ نِسَاءٌ يَبْكِينَ، فَجَاءَ عُمَرُ وَمَعَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَعَهُ الدِّرَّةُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ادْخُلْ عَلَيَّ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَأَمْرُهَا فَلْتَحْتَجِبْ، وَأَخْرِجُجُهنَّ عَلَيَّ قَالَ: فَجَعَلَ يُخْرِجُجُهنَّ عَلَيْهِ وَهُوَ يَضْرِبُهُنَّ بِالِدِرَّةِ، فَسَقَطَ خِمَارُ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ خِمَارُهَا، فَقَالَ: دَعُوهَا وَلَا حُرْمَةَ لَهَا. كَانَ مَعْمَرٌ يُعْجَبُ مِنْ قَوْلِهِ لَا حُرْمَةَ لَهَا

*** عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں: جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، تو خواتین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں

اکٹھی ہو کر رونے لگیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے ان کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بھی تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس دُڑہ بھی تھا، انہوں نے کہا: اے ابو عبداللہ! تم ام المؤمنین کے پاس تشریف لے جاؤ (کیونکہ وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خال تھیں) اور انہیں یہ ہدایت کرو کہ وہ پردہ کر لیں اور ان خواتین کو باہر میرے پاس بھیج دیں۔ راوی کہتے ہیں: تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے ان خواتین کو حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بھیجنا شروع کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے انہیں دُڑہ مارنا شروع کیا، اسی دوران ایک خاتون کی چادر گر گئی، تو لوگوں نے کہا: امیر المؤمنین! اس خاتون کی چادر ہے! تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: اسے رہنے دو! اس کی کوئی حرمت نہیں ہے۔

معمر نامی راوی حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ان الفاظ پر حیرانگی کا اظہار کرتے تھے کہ اس کی کوئی حرمت نہیں ہے۔

6682 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابراهيم بن محمد، عن عبد الكريم قال: حدثني نصر بن عاصم، ان عمر بن الخطاب، سمع نواحة بالمدينة ليلا، فأتى عليها فدخل ففرق النساء فأدرك النائحة فجعل يضربها بالذرة، فوقع خمارها فقالوا: شعرها يا أمير المؤمنين، فقال: أجل فلا حرمة لها

*** نصر بن عاصم بیان کرتے ہیں: ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما نے مدینہ منورہ میں رات کے وقت نوحہ کرنے والی خواتین کی آواز سنی، تو اُس کے پاس گئے وہ اندر داخل ہوئے اور وہ خواتین کو ادھر ادھر کر کے نوحہ کرنے والی خاتون تک پہنچ گئے اور اُسے دُڑہ کے ذریعہ مارا، تو اُس کی چادر گر گئی، تو لوگوں نے کہا: امیر المؤمنین! اس کی چادر! تو حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے کہا: کوئی بات نہیں! اس کی کوئی حرمت نہیں۔

6683 - حدیث نبوی: عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من شق الجيوب، وضرب الخدود، ودعا بدعوى الجاهلية

*** سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے: "وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو (مصیبت کے وقت) گریبان پھاڑے یا گال پیٹے یا زمانہ جاہلیت کی سی چیخ و پکار کرے۔"

6684 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: دخلنا على الأشعري فبكت عليه أم ولده فنهيناها وقلنا: أعلى مثل أبي موسى تبكين؟ فقال: دعوها فلتهريق من دمعها سجلا أو سجلين، ولكني أشهدكم اني برىء ممن حلق، أو سلق، أو خرق

*** عبدالرحمن بن ابولیلی بیان کرتے ہیں: ہم لوگ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کے پاس گئے، ان کی ام ولد ان پر رونے لگیں، ہم نے اُس خاتون کو ایسا کرنے سے منع کیا، ہم نے کہا: کیا تم حضرت ابوموسیٰ جیسے آدمی پر رورہی ہو! تو حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما نے کہا: اسے کرنے دو! یہ تھوڑے سے آنسو بہالے گی، لیکن میں تم لوگوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں ایسے ہر ایک شخص

سے لا تعلق ہوں جو سر منڈواتا ہے یا چیخ و پکار کرتا ہے یا گریبان پھاڑتا ہے۔

6685 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر، عن الأعمش، عن أبي وإيل، قال لعمر: إن نسوة من بنى المغيرة، قد اجتمعن في دار خالد بن الوليد يبكين عليه، وأنا نكره أن نؤذيك فلو نهيتهن، فقال: ما عليهن أن يهرقن من دموعهن على أبي سليمان سجلا أو سجلين ما لم يكن نفع، أو لقلقة، يعنى الصراخ * * ابو اہل بیان کرتے ہیں: انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ بنو مغیرہ سے تعلق رکھنے والی کچھ خواتین حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان پر رونے کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں، ہمیں اچھا تو نہیں لگتا کہ ہم آپ کو تکلیف دیں، لیکن اگر آپ ان خواتین کو منع کر دیں تو یہ مناسب ہوگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر وہ ابوسلیمان پر کچھ آنسو بہا لیتی ہیں جبکہ اس میں نفع (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) لقلقہ نہ ہو۔ راوی کہتے ہیں: اس سے مراد چیخ کر رونا ہے۔

6686 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن ابن معانق، أو عن أبي معانق، عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربعة يقين من أمر الجاهلية: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة، وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب كسيث ثيابا من قطران ودرعاً من لهب النار"

* * حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

"زمانہ جاہلیت کے کاموں میں سے چار چیزیں باقی رہ گئی ہیں: حسب پر فخر کرنا، نسب پر طعن کرنا، ستاروں کے ذریعہ بارش کی امید رکھنا اور نوحہ کرنا، نوحہ کرنے والی عورت جب مرے گی تو اُسے تارکول کے کپڑے اور جہنم کے انگاروں کی قمیص پہنائی جائے گی۔"

6687 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري قال: "ثلاث لا يدعهن الناس أبداً: الطعن في الأحساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة"

* * زہری فرماتے ہیں: تین چیزوں لوگ کبھی ترک نہیں کریں گے: حسب میں طعن کرنا، ستاروں کے ذریعہ بارش کے نزول کی امید رکھنا اور نوحہ کرنا۔

6688 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن معمر، عن ليث، عن سعيد بن جبير قال: "ثلاث من أمر الجاهلية: النياحة، والطعام على الميت، وبيتوتة المرأة عند أهل الميت ليست منهم" * * سعید بن جبیر فرماتے ہیں: تین چیزیں زمانہ جاہلیت کے کام سے تعلق رکھتی ہیں: نوحہ کرنا، میت پر کھانا دینا اور عورت کا ایسے اہل میت کے ہاں رات بسر کرنا جن کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔

6689 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن الشوري، عن هلال بن خباب، عن أبي البخري قال: الطعام على الميت من أمر الجاهلية، وبيتوتة المرأة عند أهل الميت من أمر الجاهلية، والنياحة من أمر الجاهلية

* * ابو خری بیان کرتے ہیں: میت پر کھانا دینا زمانہ جاہلیت کا معمول تھا اور عورت کا اہل میت کے ہاں ٹھہر جانا زمانہ جاہلیت کا معمول تھا اور نوحہ کرنا زمانہ جاہلیت کا معمول تھا۔

6690 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ ثَابِتِ بْنِ النَّبَاطِيِّ، عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعْنَ أَنْ لَا يَنْحُنَّ، فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ نِسَاءً أَسْعَدَنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَسُعِدْنَهُنَّ فِي الْإِسْلَامِ؟ قَالَ: لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا عَقْرَ فِي الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلْبَ، وَلَا جَنْبَ وَمَنْ انْتَهَبَ فَلَيْسَ مِنَّا

* * حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خواتین نے بیعت کی تو آپ نے ان سے یہ بیعت لی کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی تو خواتین نے عرض کی: یا رسول اللہ! کچھ خواتین نے زمانہ جاہلیت میں ہمارا ساتھ دیا تھا تو کیا ہم اسلام میں ان کا ساتھ دے سکتی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام میں اس طرح کا کوئی ساتھ نہیں ہوگا اور اسلام میں شغار کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اسلام میں عقر (قبروں پر اون قربان کرنے) کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جلب کی اور جب کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور جو شخص کوئی چیز اچک لیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

6691 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ قَتَادَةَ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ حِينَ بَايَعَهُنَّ أَنْ لَا يَنْحُنَّ وَلَا يَجْلُبْنَ لِحَدِيثِ الرِّجَالِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: إِنَّا نَغِيبُ وَلَنَا أَصْيَافٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَسْتُ أَوْلِيكَ أَعْيُنِي

* * قتادہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے بیعت لیتے ہوئے یہ بیعت لی کہ وہ نوحہ نہیں کریں گی اور یہ وہ جلب نہیں کریں گی تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آپ کی خدمت میں عرض کی: بعض اوقات ہم اپنے گھر میں موجود نہیں ہوتے اور ہمارے ہاں کوئی مہمان آجاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس طرح کے لوگ میری مراد نہیں ہیں۔

6692 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ، اسْتَأْذَنَتْ عَلَى أَبِيهَا، فَقَالَ لِمَنْ عِنْدَهُ: قَوْمُوا، فَدَخَلَتْ فَبَيْنَمَا هِيَ عِنْدَهُ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَبَكَتْ فَقَالَ: أَعْلِمْتِ، أَوْلَكُمْ تَسْمَعِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِكُغَاءِ الْحَيِّ

* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ بات نقل کی ہے: سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد کے ہاں اندر آنے کی اجازت مانگی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آس پاس موجود لوگوں سے کہا: تم لوگ اٹھ جاؤ! جب سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا آئیں تو ان کی موجودگی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر مدہوشی طاری ہونا شروع ہوئی تو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے لگیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: کیا تمہیں پتا نہیں ہے (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں): کیا تم نے یہ بات نہیں سنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے: زندہ شخص کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔

6693 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ

يَقُولُ: قُتِلَ أَبِي يَوْمَ أُحُدٍ فَأَتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ مُجَدَّعًا، قَدْ مُثِلَ بِهِ قَالَ: فَأَكْبَبْتُ أَبِي عَلَيْهِ وَالْقَوْمُ يُعْزُونََنِي، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَانِي وَلَا يَنْهَانِي، حَتَّى رُفِعَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا زَالَتِ الْمَلَائِكَةُ حَوْلَهُ حَتَّى رُفِعَ قَالَ: فَكَانَ عَلِيٌّ أَبِي دَيْنًا، وَكَانَ الْغُرَمَاءُ يُاتُونَ النَّخْلَ فَيَنْظُرُونَهِ فَيَسْتَقِيلُونَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَجِدَ فَأَذِنِي قَالَ: فَأَتَيْتُهُ، فَذَهَبَ مَعِي، حَتَّى قَامَ فِيهِ فَدَعَا بِالْبَرَكَاتِ قَالَ: فَقَضَيْتُ مَا كَانَ عَلِيٌّ أَبِي، وَفَضَلَ لَنَا طَعَامٌ كَثِيرٌ

*** محمد بن منکر بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا: میرے والد غزوہ احد میں شہید ہو گئے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا گیا، ان کا ناک کا ٹاٹا تھا اور ان کے جسم کا منہ کیا گیا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں: میں روتے ہوئے ان پر جھکنے لگا، تو لوگوں نے مجھے منع کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے لیکن آپ نے مجھے منع نہیں کیا، یہاں تک کہ میرے والد کی میت کو اٹھالیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب تک اس کی میت کو اٹھایا نہیں گیا، فرشتے مسلسل اس کے ارد گرد رہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میرے والد کے ذمہ کچھ قرض تھا اور ان کے قرض خواہ آنے لگے اور تقاضا کرے لگے، ان کے نزدیک کھجوروں کی پیداوار کم تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: جب تم کھجوریں اتارنے لگے تو مجھے اطلاع دے دینا۔ راوی کہتے ہیں: میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ میرے ساتھ تشریف لائے یہاں تک کہ آپ وہاں کھڑے ہوئے، آپ نے برکت کی دعا کی تو میں نے اپنے والد کے ذمہ تمام قرض ادا کر دیئے اور پھر بھی ہمارے پاس بہت سا انانج بچ گیا۔

6694 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُحُدٍ سَمِعَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ نَحِيْبًا وَبُكَاءً، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قِيلَ: الْأَنْصَارُ تَبْكِي عَلَى قَتْلِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِي لَهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الْأَنْصَارَ فَجَمَعُوا نِسَائِهِمْ، وَأَدْخَلُوهُمْ دَارَ حَمْزَةَ يَبْكِينَ عَلَيْهِ فَسَمِعَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فْقِيلَ: إِنَّ الْأَنْصَارَ حِينَ سَمِعُوا تَقُولُ: لَكِنَّ حَمْزَةَ لَا بَوَاكِي لَهُ جَمَعُوا نِسَائِهِمْ يَبْكِينَ عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْأَنْصَارِ خَيْرًا وَنَهَاهُمْ عَنِ النَّيَاحَةِ

*** عکرمہ بیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد سے واپس تشریف لائے تو آپ نے اہل مدینہ میں سے رونے والوں کی آواز سنی تو دریافت کیا: یہ کس وجہ سے ہے؟ عرض کی گئی: انصار اپنے مقتولین پر رورہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لیکن حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے۔ جب انصار کو اس بات کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنی خواتین کو اکٹھا کیا اور انہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جمع کیا، تاکہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر روئیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کی آواز سنی تو دریافت کیا: یہ کس وجہ سے ہے؟ تو عرض کی گئی: انصار نے جب آپ کی بات سنی کہ حمزہ پر کوئی رونے والی نہیں ہے تو انہوں نے اپنی

خواتین کو اکٹھا کیا، تاکہ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ پر روئیں۔ تو نبی اکرم ﷺ نے انصار کے بارے میں بھلائی کی بات ارشاد فرمائی اور پھر ان لوگوں کو نوحوہ کرنے سے منع کر دیا۔

6695 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن جریج قال: أخبرنا خبراً رفع إلى أبي عبيدة بن الجراح صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى عبد الله بن ثابت أبا الربيع يعودُهُ في مرضه مرتين فتوفي حين أتاه في الأخرى منهما فصرخ به النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد حيل بيننا وبين أبي الربيع، فإننا لله وإنا إليه راجعون فلما سمعت ذلك بناته وبنات أخيه فمُن يبكين، فقال لهن جبر بن عتيك: لا تؤذين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهن يا أبا عبد الله فليبكين أبا الربيع ما دام بينهن، فإذا وجب فلا يبكينه، قالت ابنته: لقد كنت قد قضيت جهازك في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد وقع أجر أبي الربيع على نيتي، ماذا تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله، فقال: إن شهداء أمتي إذا لقليل فقالوا: فما الشهداء يا رسول الله؟ قال: المطعون شهيداً، والمبطن شهيداً، وصاحب الحريق شهيداً، وصاحب الغرق شهيداً، وصاحب ذات الجنب شهيداً، وصاحب الغم شهيداً، والمرأة تموت بجمع شهيداً وكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه

*** ابن جریج بیان کرتے ہیں: مجھے ایک روایت بتائی گئی ہے: جو نبی اکرم ﷺ کے صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے حوالے سے منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ ابو ربیع عبد اللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لائے آپ ان کی بیماری کے دوران دو مرتبہ تشریف لائے جب آپ دوسری مرتبہ تشریف لائے تو اس مرتبہ میں ان کا انتقال ہو گیا، نبی اکرم ﷺ نے ایک یا شاید دو مرتبہ بلند آواز کی پھر آپ نے ارشاد فرمایا: ہمارے اور ابو ربیع کے درمیان رکاوٹ بن گئی ہے بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب حضرت ابو ربیع رضی اللہ عنہ کی صاحبزادیوں یا ان کی بھتیجیوں نے یہ بات سنی تو وہ کھڑی ہو کر رونے لگیں تو جبر بن عتیك نے ان خواتین سے کہا: تم اللہ کے رسول کو اذیت نہ دو! تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اے ابو عبد اللہ! انہیں کرنے دو! جب تک ابو ربیع ان کے درمیان موجود ہے یہ ابو ربیع پر رو سکتی ہیں، لیکن جب واجب ہو جائے گی تو پھر یہ خواتین نہ روئیں۔ ان صاحب کی صاحبزادی نے کہا: آپ نے اللہ کی راہ میں اپنے سامان کو تیار کر لیا ہے۔ تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ابو ربیع کا اجر اس کی نیت کے مطابق لازم ہو گیا ہے، تم لوگ کسے شہادت شمار کرتے ہو؟ لوگوں نے عرض کی: اللہ کی راہ میں قتل ہونے کو۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: اس صورت میں تو میری امت کے شہداء بہت کم ہوں گے۔ لوگوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! پھر شہید کون لوگ ہیں؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: طاعون کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے، پیٹ کی بیماری سے مرنے والا شہید ہے، جل کر مرنے والا شہید ہے، ڈوب کر مرنے والا شہید ہے، ذات الجنب کی وجہ سے مرنے والا شہید ہے، غم کی وجہ سے مرنے والا شہید ہے اور جو عورت زچگی کے دوران فوت ہو جاتی ہے وہ شہید ہے۔ راوی

کہتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے اُس صحابی کو اپنی قمیص میں کفن دیا۔

6696 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: **آتَتْ امْرَأَةً النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْوَحْيُ يَنْزِلُ عَلَيْكَ وَقَدْ أُصِيبَ ابْنَايَ حَيْثُ تَعْلَمُ، فَإِنْ يَكُونَا مُؤْمِنَيْنِ قُلْنَا فِيهِمَا بِالَّذِي نَعْلَمُ، وَإِنْ كَانَا مُنَافِقَيْنِ لَمْ نَبْكِهِمَا وَلَا نُنْعِمُهُمَا عَيْنًا قَالَ: بَلْ هُمَا مُؤْمِنَانِ، وَهُمَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَالَتْ: الْأَنْ إِذَا أُبَالِغُ فِي الْبُكَاءِ عَلَيْهِمَ**

*** عمر بن عبدالعزیز بیان کرتے ہیں: ایک خاتون نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اُس نے عرض کی: کیا آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر وحی نازل ہوتی ہے؟ میرے بیٹے انتقال کر چکے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں اگر تو وہ دو مؤمن ہیں تو ہم اُن کے بارے میں وہی کہتے ہیں جن کا ہمیں علم ہے اور اگر وہ دونوں منافق ہیں تو ہم اُن پر نہیں روتے ہیں اُن پر آنسو نہیں بہاتے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جی نہیں! بلکہ وہ دونوں مؤمن ہیں اور وہ دونوں اہل جنت ہیں۔ تو اُس عورت نے کہا: اب میں اُن پر خوب روؤں گی۔

6697 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: **أُغْمِيَ عَلِيَّ ابْنَ رَوَاحَةَ، فَجَعَلَتْ امْرَأَتُهُ تَقُولُ: وَآ كَذَا وَآ كَذَا، فَلَمَّا آفَاقَ قَالَ: "مَا قُلْتِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُقَالُ لِي: أَكْذَلِكَ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: لَا"**

*** امام شععی بیان کرتے ہیں: حضرت ابن رواحہ رضی اللہ عنہ پر غشی طاری ہوئی تو اُن کی اہلیہ نے کہنا شروع کیا: ہائے یہ اور ہائے وہ! جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا: تم نے جو بھی بات کی تو مجھ سے یہی پوچھا گیا: کہ کیا تم واقعی ایسے ہو؟ تو میں نے جواب دیا: جی نہیں!

6698 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ قَيْسِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: **لَمَّا قُتِلَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ أَبْطَأَ اسْمَاءُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْتِهِ ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا نَزَفَتْ عَبْرَتُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِمَ أَبْطَأَتْ عَنَّا، ثُمَّ جِئْتِ تَحْزِنُنَا؟ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ الْفَدُ جَاءَهُ، فَلَمَّا رَأَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْبِلًا قَالَ: إِنِّي لَلْأَقْرَبِ مِنْكَ الْيَوْمَ مَا لَقِيتُ مِنْكَ أَمْسٍ فَلَمَّا دَنَا دَمَعَتْ عَيْنُهُ فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ**

*** حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کو نبی اکرم ﷺ کے پاس آنے میں تاخیر ہو گئی وہ کچھ دیر نبی اکرم ﷺ کے پاس نہیں آئے اُس کے بعد جب وہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم ﷺ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے اُن کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے نبی اکرم ﷺ رو رہے تھے جب اُن کے آنسو کچھ تھمے تو نبی اکرم ﷺ نے دریافت کیا: تم نے ہمارے پاس آنے میں تاخیر کیوں کر

دی؟ اور پھر تم ہمیں غمگین کرنے کے لیے آگے ہو۔ راوی کہتے ہیں: جب اگلے دن وہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب نبی اکرم ﷺ نے انہیں آتے ہوئے دیکھا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تمہاری طرف سے آج میں ایک ایسی صورت حال کا سامنا کروں گا جس کا سامنا میں نے کل بھی تمہاری طرف سے کیا تھا (یعنی آج پھر تمہیں دیکھ کر مجھے رونا آجائے گا)۔ جب وہ قریب آئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے تو نبی اکرم ﷺ بھی رونے لگے۔

6699 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، أَخَذَتْهُ غَشِيَةُ الْمَوْتِ فَبَكَتْ عَلَيْهِ - يَعْنِي عَائِشَةَ - بَيْتٍ مِنَ الشَّعْرِ:

(البحر الطویل)

مِنْ لَا يَزَالُ دَمْعُهُ مُقَنَّعًا ... لَا بُدَّ يَوْمًا أَنَّهُ مُهْرَاقٌ

قَالَ: فَافَاقَ قَالَ: بَلْ (جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ) (ق: 19)

* * * سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پر موت کی غشی طاری ہوئی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان پر

رونا شروع کیا اور یہ شعر پڑھا:

”جس شخص کے آنسو مسلسل رکے ہوئے تھے آخر ایک دن تو انہوں نے بہنا ہی تھا“۔

راوی کہتے ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ہوش آیا تو انہوں نے فرمایا: جی نہیں! بلکہ یہ پڑھو:

”موت کی بے ہوشی (یعنی سختی یا دنیا سے لاقلمی) آگئی۔ یہ وہی چیز ہے جس سے تم بھاگتے تھے“۔

6700 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطِ الْقُرَشِيِّ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُصِيبَ أَحَدُكُمْ بِمُصِيبَةٍ فَلْيَذْكَرْ مُصِيبَتَهُ بِي فَلْيَعْرِزْ ذَلِكَ عَنْ

مُصِيبَتِهِ قَالَ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفِي الْجَنَّةِ خَيْلٌ فَإِنِّي أُحِبُّ الْخَيْلَ؟ قَالَ: يُدْخِلُكَ اللَّهُ

إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَلَا تَشَاءُ أَنْ تَرْكَبَ فَرَسًا مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ يَطِيرُ بِكَ فِي آتِي جَنَّةٍ شِئْتَ إِلَّا فَعَلْتَ

* * * حضرت عبدالرحمن بن سابط قرشی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”جب تم میں سے کسی شخص کو کوئی مصیبت لاحق ہو تو وہ مجھے لاحق ہونے والی مصیبت کو یاد کر لے اور اس کے ذریعہ

اپنی مصیبت میں خود تسلی دے“۔

راوی بیان کرتے ہیں: انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ کیونکہ مجھے گھوڑے بہت پسند

ہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اگر اللہ نے چاہا تو وہ تمہیں جنت میں داخل کرے گا اور پھر تمہیں وہ چیز مل جائے گی جس کے

تم آرزو مند ہو تم سرخ یا قوت سے بنے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو گے جو تمہیں جنت میں جہاں چاہو گے اڑا کے لے جائے گا۔

6701 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ أَبِي

سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ زَوْجِهَا أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "مَا مِنْ

أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُصَابُ مُصِيبَةً فَيَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ وَأَنَا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَغِيثُ بِمُصِيبَتِي عِنْدَكَ، اللَّهُمَّ
أَبْدِلْنِي بِهَا خَيْرًا مِنْهَا " فَجَعَلْتُ أَقُولُ فِي نَفْسِي مَنْ خَيْرٌ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَخَطَبَنِي فَتَزَوَّجْتُهُ

*** حضرت عمر بن ابوسلمہ رضی اللہ عنہ اپنی والدہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ان کے شوہر حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کے
بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں: انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:
”جس بھی مسلمان کو کوئی مصیبت لاحق ہو اور اس وقت وہ یہ پڑھے:

”بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں اور بے شک ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اے اللہ! میں تیری
بارگاہ میں اپنی اس مصیبت پر ثواب کی امید رکھتا ہوں اے اللہ! تو مجھے اس کے بدلے میں بہتر چیز عطا کر دے۔“

(سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں:) میں نے دل میں سوچا کہ کیا حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر بھی کوئی اور شخص ہو سکتا ہے؟ تو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نکاح کا پیغام دیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کر لی۔

**6702 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَقَالَ: " إِنَّ أَوَّلَ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ يُغْفَرُ لَهُ بِهَا مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ
مَلَائِكِينَ بَرِيحَانٍ مِنَ الْجَنَّةِ وَبَرِيظَةٍ، وَعَلَى أَرْجَاءِ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ قَدْ جَاءَ الْيَوْمَ مِنَ الْأَرْضِ
رِيحٌ طَيِّبَةٌ وَنَسَمَةٌ طَيِّبَةٌ، فَلَا يَمْرُ بِيَابٍ إِلَّا فُتِحَ لَهُ، وَلَا يَمْلِكُ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ، وَشَيَعَهُ حَتَّى يُوتَى بِهِ الرَّحْمَنُ
فَيَسْجُدُ لَهُ قَبْلَ الْمَلَائِكَةِ وَتَسْجُدُ الْمَلَائِكَةُ بَعْدَهُ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى الشُّهَدَاءِ فَيَجِدُهُمْ فِي رِيَاضٍ خَضِرٍ وَثِيَابٍ
مِنْ حَرِيرٍ عِنْدَ ثَوْرٍ وَحُوتٍ يُلْغَثَانِ كُلَّ يَوْمٍ لَغْثَةً لَمْ يُلْغَثَا بِالْأَمْسِ مِثْلَهَا فَيَظِلُّ الْحُوتُ فِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَإِذَا
أَمْسَى وَكَزَهُ الثَّوْرُ بِقَرْنِهِ فَذَكَاهُ لَهُمْ فَآكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ فَوَجَدُوا فِي لَحْمِهِ طَعْمَ كُلِّ رَائِحَةٍ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ
وَيَلْبَسُ الثَّوْرُ نَافِثًا فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا أَصْبَحَ غَدَا عَلَيْهِ، ثُمَّ الْحُوتُ فَوَكَّزَهُ بِذَنْبِهِ فَذَكَاهُ لَهُمْ فَآكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ
فَوَجَدُوا فِي لَحْمِهِ طَعْمَ كُلِّ ثَمَرَةٍ مِنْ ثَمَارِ الْجَنَّةِ فَيَنْظُرُونَ إِلَى مَنَازِلِهِمْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا يَدْعُونَ اللَّهَ أَنْ تَقُومَ
السَّاعَةُ، وَإِذَا تُرْفَى الْمُؤْمِنُ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَائِكِينَ بَرِيحَانٍ مِنَ الْجَنَّةِ وَحِرْقَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ تُقْبِضُ فِيهَا نَفْسَهُ،
وَيُقَالُ: أَخْرَجِي أَيْتَهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ إِلَى رُوحٍ وَرِيحَانٍ، وَرَبِّكَ عَلَيْكَ غَيْرُ غَضْبَانَ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رَائِحَةٍ
وَجَدَهَا أَحَدٌ قَطُّ بِأَنْفِهِ، وَعَلَى أَرْجَاءِ السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ قَدْ جَاءَ الْيَوْمَ مِنَ الْأَرْضِ رِيحٌ طَيِّبَةٌ
وَنَسَمَةٌ كَرِيمَةٌ فَلَا تَمْرُ بِيَابٍ إِلَّا فُتِحَ لَهَا وَلَا يَمْلِكُ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهَا وَشَيَعَهُ حَتَّى يُوتَى بِهِ الرَّحْمَنُ فَتَسْجُدُ
الْمَلَائِكَةُ قَبْلَهُ وَيَسْجُدُ بَعْدَهُمْ، ثُمَّ يُدْعَى مِيكَائِيلُ فَيَقَالُ: اذْهَبْ بِهَذِهِ النَّفْسِ فَاجْعَلْهَا مَعَ أَنْفُسِ الْمُؤْمِنِينَ
حَتَّى آسَأَلَكَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، فَيُوسَعُ عَلَيْهِ سَبْعِينَ طَوْلَهُ وَسَبْعِينَ عَرْضَهُ، وَيُنْبَدُّ لَهُ فِيهِ فِيهِ
رِيحَانٌ، وَيُسْتَرُّ بِحَرِيرٍ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ كُسِيَ نُورُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ جُعِلَ لَهُ نُورٌ مِثْلُ**

الشَّمْسِ، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْعُرْوِيسِ لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا تُوَفِّيَ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكَينِ بِحِرْقَةٍ مِنْ بَجَادِ أَنْتَرٍ مِنْ كُلِّ نَتْنٍ وَأَحْسَنُ مِنْ كُلِّ حَشِينٍ، فَيَقَالُ: أَخْرَجِي أَيْتَهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ وَلَبَسَ مَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ، فَتَخْرُجُ كَأَنَّ رَائِحَةَ وَجَدَهَا أَحَدٌ قَطُّ بِأَنْفِهِ، ثُمَّ يُؤَمَّرُ بِهِ فِي قَبْرِهِ فَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ ثُمَّ يُرْسَلُ عَلَيْهِ حَيَاتٌ كَأَنَّهَا أَعْنَاقُ الْبُخْتِ يَأْكُلُ لَحْمَهُ، وَيَقِيضُ لَهُ مَلَائِكَةٌ صُمٌّ بَكُمْ عُمَى لَا يَسْمَعُونَ لَهُ صَوْتًا وَلَا يَرَوْنَهُ فَيَرْحَمُوهُ، وَلَا يَمْلُونَ إِذَا ضَرَبُوا، يَدْعُونَ اللَّهَ بِأَنْ يُدِيمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْلُصَ إِلَى النَّارِ"

* * * حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”شہید کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اُس کے تمام گزشتہ گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ اُس کی طرف جنت کے پھول اور چادر کے ہمراہ دو فرشتوں کو بھیجتا ہے اور پھر فرشتے آسمان پر یہ کہہ رہے ہوتے ہیں: سبحان اللہ! آج زمین کی طرف سے کتنی پاکیزہ خوشبو اور کتنی پاکیزہ جان آ رہی ہے اُس شہید کی روح آسمان کے جس بھی دروازہ سے گزرتی ہے تو وہ دروازہ اُس کے لیے کھول دیا جاتا ہے اور جس بھی فرشتہ کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ فرشتہ اُس کے لیے دعائے رحمت کرتا ہے اور کچھ فرشتے اُس کا ساتھ بھی دیتے ہیں یہاں تک کہ اُسے رحمن کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا ہے تو وہ شہید فرشتوں سے پہلے پروردگار کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور فرشتے اُس کے بعد سجدہ کرتے ہیں پھر اُسے شہداء کی طرف لے جائے جانے کا حکم ہوتا ہے تو وہ اُن شہداء کو سرسبز باغات اور ریشمی کپڑوں میں پاتا ہے وہاں نیل اور مچھلیاں ہوتی ہیں وہ مچھلی جنت کی نہر میں ہوتی ہے جب شام ہوتی ہے تو وہ نیل اپنے سینک کے ذریعہ اُس کا شکار کرتا ہے پھر وہ شہداء اُس شہید کے لیے اُس نیل کو ذبح کرتے ہیں وہ لوگ اُس کا گوشت کھاتے ہیں پھر وہ لوگ اُس کے گوشت میں جنت کی بر نہر کی خوشبو کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں اور وہ نیل گھوم پھر رہا ہوتا ہے جب اگلا دن آتا ہے تو وہ اُترتا ہے تو وہ لوگ اُس کا گوشت کھاتے ہیں وہ اُس کے گوشت میں جنت کے ہر پھل کا مزہ محسوس ہوتا ہے پھر وہ صبح و شام اپنی رہائشی جگہوں کا جائزہ لیتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ قیامت قائم ہو جائے اور جب مؤمن انتقال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے پھول اور جنت کے کپڑے کے ہمراہ دو فرشتوں کو اُس کی طرف بھیجتا ہے وہ اُس میں اُس کی جان کو لپیٹ لیتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے: اے پاکیزہ جان! تم آرام اور راحت کی طرف روانہ ہو جاؤ! تمہارا پروردگار تم پر غضب ناک نہیں ہوگا اور تم ایسی حالت میں نکلو کہ تمہاری خوشبو سب سے عمدہ ہو جسے کوئی بھی شخص اپنی ناک کے ذریعہ محسوس کر سکتا ہے اور آسمانوں پر فرشتے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں: اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے! آج زمین کی طرف سے پاکیزہ خوشبو اور پاکیزہ جان آ رہی ہو! وہ روح جس بھی دروازہ کے پاس سے گزرتی ہے اُس کے لیے وہ دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جس بھی فرشتے کے پاس سے گزرتی ہے وہ فرشتہ اُس کے لیے دعائے رحمت کرتا ہے کچھ فرشتے اُس کے ساتھ چلتے ہیں یہاں تک کہ اُسے رحمن کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے تو

فرشتے اُس سے پہلے سجدہ کر لیتے ہیں اور وہ روح اُن کے بعد سجدہ کرتی ہے پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بلا یا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے: اس جان کو لے جاؤ اور اسے مؤمنوں کی جانوں کے ساتھ رکھ دو یہاں تک کہ قیامت کے دن میں تم سے ان کے بارے میں دریافت کروں گا (یا تم سے انہیں طلب کروں گا) پھر اُس کی قبر کے بارے میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اُس کے لیے وہ ستر گز لمبی اور ستر گز چوڑی ہو جاتی ہے اور اُس جان کے لیے اُس قبر میں خوشبو رکھ دی جاتی ہے اور ریشم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے اگر اُس شخص کو قرآن آتا ہو تو اُس کا نور اُسے پہنا دیا جاتا ہے اور اگر اُس کے ساتھ کچھ بھی نہ ہو تو اُس کے ساتھ ایسا نور رکھا جاتا ہے جو سورج جیسا ہوتا ہے اور اُس کی مثال دُلہن کی طرح ہوتی ہے جسے صرف وہی شخص بیدار کرتا ہے جو اُس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔

جب کافر انتقال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کھر درے کپڑے کے ہمراہ دو فرشتے اُس کی طرف بھیجتا ہے جو سب سے زیادہ بد بودار اور سب سے بد بودار کھر درے ہوتے ہیں پھر یہ کہا جاتا ہے: اے خبیث روح! تم باہر نکل آؤ! تم نے اپنے لیے جو کچھ آگے بھیجا ہے وہ بہت بُرا ہے۔ تو وہ یوں نکلتی ہے جیسے بدترین بد بودار کوئی چیز ہوتی ہے جسے کوئی شخص اپنے ناک کے ذریعہ محسوس کر سکتا ہے پھر اُس کی قبر کے بارے میں حکم دیا جاتا ہے تو وہ اُس پر تنگ ہو جاتی ہے یہاں تک کہ اُس کی پسلیاں ایک دوسرے میں جڑ جاتی ہیں پھر اُس پر سانپ مسلط کر دیئے جاتے ہیں جو سختی اونٹوں کی گردنوں جتنے موٹے ہوتے ہیں وہ اُس کا گوشت کھاتے ہیں پھر ایسے فرشتے اُس کی پٹائی کرتے ہیں جو گونگے بہرے اور اندھے ہوتے ہیں وہ اُس کی کوئی آواز نہیں سنتے وہ اُسے دیکھتے نہیں ہیں کہ انہیں اُس پر رحم آجائے اور وہ اُس کی پٹائی کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ یہی کام کرتے رہیں یہاں تک کہ اُسے جہنم کی طرف لے جایا جائے۔

6703 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان قال: حدثني محمد بن عمرو بن علقمة قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: "إِذَا وَضِعَ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَالزَّكَاةُ عَنِ يَمِينِهِ، وَالصَّوْمُ عَنْ يَسَارِهِ، وَالصَّدَقَةُ وَالصَّلَاةُ وَالْمَعْرُوفُ وَالْإِحْسَانُ إِلَى النَّاسِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، فَيُؤْتَى مِنْ قَبْلِ رَأْسِهِ فَتَقُولُ الصَّلَاةُ: مَا قَبْلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قَبْلِ يَمِينِهِ فَتَقُولُ الزَّكَاةُ: مَا قَبْلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قَبْلِ يَسَارِهِ فَتَقُولُ الصَّوْمُ: مَا قَبْلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُؤْتَى مِنْ قَبْلِ رِجْلَيْهِ فَتَقُولُ الصَّدَقَةُ: مَا قَبْلِي مَدْخَلٌ، فَيَجْلِسُ" قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَإِنَّهُ يَسْمَعُ قَرَعَ نِعَالِهِمْ قَالَ: فَيَجْلِسُ وَيُمَثِّلُ لَهُ الشَّمْسُ قَدْ دَنَتْ لِلْغُرُوبِ، فَيَقُولُ: دَعُونِي أَصَلِّي، فَيَقَالُ لَهُ: إِنَّكَ سَتَفْعَلُ، فَيَقَالُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ يَقُولُ: أَمَحَمَّدٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّهُ جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ قَالَ: فَيَقَالُ لَهُ: عَلَيْهَا حَيِّتْ وَعَلَيْهَا مَتَّ وَعَلَيْهَا تُبَعْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ: فَذَلِكَ قَوْلُهُ: (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ) (إبراهيم: 27) قَالَ: فَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَى مَسَاكِينِهِ فِيهَا، فَيَقَالُ لَهُ: لَوْ كُنْتَ عَصَيْتَ كَانَتْ هَذِهِ مَسَاكِينِكَ.

فَيَزِدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا، وَيُفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ قَالَ: سَبْعِينَ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَنْطَبٍ: ثُمَّ يُقَالُ: نَمَّ نَوْمَةَ الْعُرُوسِ لَا يُوقِظُهُ إِلَّا أَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَيْهِ - رَجَعَ الْحَدِيثُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ - قَالَ: "تُجْعَلُ رُوحُهُ فِي النَّسِيمِ الطَّيِّبِ فِي أَجْوَابِ طَيْرٍ تَعْلُقُ بَيْنَ شَجَرٍ مِنْ شَجَرِ الْجَنَّةِ، أَوْ تَعْلُقُ بِشَجَرِ الْجَنَّةِ قَالَ: وَتَعُودُ الْأَجْسَادُ لِلَّذِي خَلَقَتْ لَهُ قَالَ: وَإِنَّ الْكَافِرَ يُوتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ فَلَا يُوجَدُ لَهُ شَيْءٌ، فَيَجْلِسُ ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، مَرَّتَيْنِ؟ لَا يَذْكُرُهُ حَتَّى يُلْقَنَهُ، فَيَقُولُ: مُحَمَّدًا قَالَ: كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيُقَالُ لَهُ: صَدَقْتَ، عَلَيْهَا حَيِّتْ وَعَلَيْهَا مَتَّ وَعَلَيْهَا تُبَعْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يَفْتَحُ بَابَ مِنَ الْجَنَّةِ فَيَرَى مَسَاكِنَهَا فَيُقَالُ لَهُ: لَوْ كُنْتَ فَعَلْتَ وَأَطَعْتَ اللَّهَ كَانَتْ هَذِهِ مَسَاكِنَكَ، فَيَزِدَادُ حَسْرَةً وَثُبُورًا قَالَ: ثُمَّ يُغْلَقُ عَلَيْهِ وَيَفْتَحُ لَهُ بَابَ مِنَ النَّارِ فَيَرَى مَسَاكِنَهُ فِيهَا وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ وَيَزِدَادُ حَسْرَةً وَثُبُورًا، وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ حَتَّى تَلْتَقِيَ أَضْلَاعُهُ"، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (مَعِيشَةً ضَنْكًا) (طه: 124) قَالَ: وَتُجْعَلُ رُوحُهُ فِي سَبْعِينَ

* * ابو سلمہ بن عبد الرحمن 'حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو نماز اس کے سر بانے آجاتی ہے زکوٰۃ اُس کے دائیں طرف آجاتی ہے روزہ بائیں طرف آجاتا ہے صدقہ صدر حمی بھلائی اور احسان جو اُس نے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ اُس کے پاؤں کی طرف آجاتے ہیں جب کوئی فرشتہ اُس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز یہ کہتی ہے: میری طرف سے تمہیں جانے کی جگہ نہیں ملے گی پھر اُس میت کے دائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو زکوٰۃ یہ کہتی ہے: میری طرف سے تمہیں راستہ نہیں ملے گا پھر اُس کے بائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو روزہ یہ کہتا ہے: میری طرف سے راستہ نہیں ملے گا پھر اُس کے پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے تو صدقہ کہتا ہے: میری طرف سے راستہ نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں: پھر اُس میت کو بٹھا لیا جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: وہ لوگوں کے جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے پھر اُسے بٹھایا جاتا ہے تو اُسے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سورج غروب ہونے کے قریب ہے تو وہ یہ کہتا ہے: تم لوگ مجھے موقع دو تا کہ میں نماز ادا کر لوں۔ تو اُس سے کہا جاتا ہے: تم ایسا کر چکے ہو۔ پھر اُس سے دریافت کیا جاتا ہے: ان صاحب کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے: کیا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں! فرشتے کہتے ہیں: جی ہاں! وہ کہتا ہے: میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق لے کر آئے تھے تو اُس میت سے یہ کہا جاتا ہے: تم اسی عقیدہ پر زندہ رہے اور اسی پر تمہارا انتقال ہوا اور اگر اللہ نے چاہا تو اسی پر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہی مراد ہے:

"اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں مضبوط قول پر ثابت قدم رکھتا ہے۔"

راوی بیان کرتے ہیں: پھر اُس شخص کے لیے جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے تو وہ جہنم میں ٹھکانے کو دیکھتا ہے اُس سے کہا جاتا ہے: اے اے تم نے نافرمانی کی ہوتی تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا اس کے نتیجے میں اُس شخص کے رشک اور خوشی میں اضافہ ہو جاتا ہے پھر اُس شخص کے لیے اُس کی قبر کو ستر گز تک کشادہ کر دیا جاتا ہے۔

یہاں عبدالرحمن بن یحییٰ نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں: پھر یہ کہا جاتا ہے: تم ذہن کی طرح سو جاؤ، جسے وہی شخص بیدار کرتا ہے جو اُس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔

اُس کے بعد راوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی، جس میں یہ الفاظ ہیں: اُس شخص کی روح پاکیزہ برتن میں رکھ کے پرندوں کے پیٹ میں رکھا جاتا ہے، جو جنت کے درختوں سے لٹکے ہوتے ہیں۔ (یہاں ایک لفظ کے بارے میں راوی کو شک ہے) اور جسم اُس چیز کی طرف لوٹ جاتے ہیں، جس کے لیے وہ پیدا ہوئے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: جب کافر شخص کے سر ہانے کی طرف سے آیا جاتا ہے، تو وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تو وہاں اُسے بٹھالیا جاتا ہے اور پھر اُس سے دریافت کیا جاتا ہے: تم ان صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ سوال دو مرتبہ ہوتا ہے، لیکن اُسے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہے، تو اُسے تلقین کی جاتی ہے، تو وہ یہ کہتا ہے: یہ حضرت محمد ہیں! وہ کہتا ہے: میں اس بارے میں وہی کہا کرتا تھا، جو لوگ کہا کرتا تھا۔ تو اُس سے کہا جاتا ہے: تم سچ کہہ رہے ہو! تم اسی عقیدہ پر زندہ رہے، اسی عقیدہ پر مر گئے اور اگر اللہ نے چاہا تو اسی عقیدہ پر دوبارہ زندہ ہو گے۔ پھر جنت کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، وہ اُس میں رہائشی جگہ کو دیکھتا ہے، تو اُس سے کہا جاتا ہے: اگر تم ایسا کر لیتے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر لیتے، تو یہ جگہ تمہاری رہائش ہوتی۔ جس کے نتیجے میں اُس کی حسرت اور افسوس میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر اُس کے لیے اُس دروازہ کو بند کیا جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، تو وہ اُس میں رہائشی جگہ کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو عذاب تیار کیا ہے اُس کو دیکھتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اُس کی حسرت اور افسوس میں اضافہ ہو جاتا ہے، پھر اُس شخص کی قبر اُس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اُس کی پسلیاں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہی مراد ہے۔

راوی کہتے ہیں: تو اُس کی روح کو ”سجین“ (نامی جگہ) پر رکھ دیا جاتا ہے۔

بَابُ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ

باب: قبروں کی زیارت کرنا

6704 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِعِنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ

* * * عکرمہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”قبروں کی زیارت کرنے والی خواتین پر لعنت کی گئی ہے۔“

6705 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ

زَارَ الْقُبُورَ فَلَيْسَ مِنَّا

* * * قتادہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”جو شخص قبروں کی زیارت کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

6706 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوري، عن المجالد بن سعيد، قال سمعت الشعبي يقول: لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور لوزرت قبر ابنتي
* * امام شعمی بیان کرتے ہیں: اگر نبی اکرم ﷺ نے قبروں کی زیارت کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اپنی بیٹی کی قبر کی زیارت کرتا۔

6707 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن ابراهيم قال: كانوا يكرهون زيارة القبور
* * ابراہیم نخعی فرماتے ہیں: پہلے لوگ قبروں کی زیارت کرنے کو مکروہ قرار دیتے تھے۔

6708 - حدیث نبوی: أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر قال: أخبرنا عطاء الخراساني قال: حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فإنها تذكروا الآخرة، ونهيتكم عن نبيذ الجمر فانتبذوا في كل وعاء، واجتنبوا كل مسكر، ونهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وتزودوا وادخروا

* * عبد اللہ بن بریدہ نے اپنے والد کا یہ بیان نقل کیا ہے: نبی اکرم ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: ”میں نے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا اب تم ان کی زیارت کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں اور میں نے تمہیں گھڑے کی نمید پینے سے منع کیا تھا اب تم ہر طرح کے برتن میں نمید تیار کر سکتے ہو البتہ ہر قسم کی نشہ آور چیز سے بچ کے رہنا اور میں نے تمہیں تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا اب تم اسے کھاؤ بھی زادراہ کے طور پر بھی ساتھ رکھو اور ذخیرہ بھی کرو۔“

6709 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع قال: كان ابن عمر يمر على قبر واقف
أخيه فيقف عليه فيدعو له ويصلي عليه. عبد الرزاق،

* * نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے بھائی ”واقف“ کی قبر کے پاس سے گزرے تو اس کے پاس

6708- صحیح مسلم - کتاب الجنائز باب استئذان النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل في - حديث: 1676
مستخرج ابى عوانة - مبتدا كتاب الاضاحي بيان الاخبار البيحة - حديث: 6349 صحیح ابن حبان - کتاب الجنائز
وما يتعلق بها مقما او مؤخرًا فصل في زيارة القبور - ذكر الإباحة للرجل زيارة القبور والاموات حديث: 3225 سنن
ابى داود - كتاب الاشرية باب في الادعية - حديث: 3230 السنن للنسائي - كتاب الجنائز زيارة القبور - حديث: 2015
مصنف ابن ابى شيبة - كتاب الجنائز من رخص في زيارة القبور - حديث: 11609 السنن الكبرى للنسائي - كتاب
الجنائز زيارة القبور - حديث: 2134 مشكل الآثار للطحاوي - باب بيان مشكل ما روى عن رسول الله صلى الله
عليه حديث: 4129

ٹھہر کر انہوں نے اُس مرحوم کے لیے دعا کی اور اُس کے لیے دعائے رحمت کی۔

6710 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ

* * * اسی کی مانند روایت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ایک اور سند کے ساتھ منقول ہے۔

6711 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ائْتُوا مَوْتَاكُمْ فَسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ، وَصَلُّوا عَلَيْهِمْ فَإِنَّ لَكُمْ فِيهِمْ عِبْرَةً. قَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: "

وَرَأَيْتُ عَائِشَةَ تَزُورُ قَبْرَ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَمَاتَ بِالْحُبَشِيِّ وَقُبِرَ بِمَكَّةَ

* * * ابن ابوملیکہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"تم اپنے مرحومین کے پاس جایا کرو انہیں سلام کیا کرو ان کے لیے دعائے رحمت کیا کرو کیونکہ ان میں تمہارے

لیے عبرت ہے۔"

ابن ابوملیکہ بیان کرتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ وہ اپنے بھائی عبدالرحمن بن ابوبکر کی قبر کی زیارت

کے لیے آئیں جن کا انتقال حبشی کے مقام پر ہوا تھا اور ان کو مکہ میں دفنایا گیا تھا۔

6712 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ:

سَمِعْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِّي وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟

قُلْنَا: بَلَى قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلِي انْقَلَبَ فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَوَضَعَ رِداءَهُ حَتَّى بَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى

فِرَاشِهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْتُ ظَنًّا أَنِّي قَدْ رَقَدْتُ، ثُمَّ انْتَعَلَ رُوَيْدًا وَأَخَذَ رِداءَهُ رُوَيْدًا، فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي

وَاخْتَمَرْتُ، ثُمَّ تَقَنَعْتُ بِإِزَارِي فَأَنْطَلَقْتُ فِي أَثَرِهِ حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَرَفَعَ يَدَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ

انْحَرَفَ فَأَنْحَرَفْتُ، فَأَسْرَعُ فَأَسْرَعْتُ، وَهَرَوَلُ فَهَرَوَلْتُ، وَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ، فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ، فَلَيْسَ إِلَّا أَنْ

اضْطَجَعْتُ، فَدَخَلَ فَقَالَ: مَا لِكَ يَا عَائِشَةُ حَشِيًّا رَابِيَةً؟ قُلْتُ: لَا شَيْءَ قَالَ: أَتُخْبِرِينِي أَوْ لِيُخْبِرَنِي اللَّطِيفُ

الْخَبِيرُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ قَالَ: أَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟ قُلْتُ: نَعَمْ

قَالَتْ: فَلَهَزَ فِي صَدْرِي لَهْزَةً أَوْجَعْتَنِي، ثُمَّ قَالَ: أَظُنُّنَّ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَرَسُولُهُ فَقُلْتُ: مَهْمَا يَكْتُمُ

النَّاسُ فَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ، نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكَ وَقَدْ وَضَعْتَ ثِيَابَكَ،

فَنَادَانِي وَأَخْفَى مِنْكَ، فَاجْبُتْهُ وَأَخْفَيْتُهُ مِنْكَ وَظَنَنْتُ أَنَّكَ قَدْ رَقَدْتَ وَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكَ وَخَشِيتُ أَنْ

6712- صحیح مسلم - کتاب الجنائز، باب ما یقال عند دخول القبور والدعاء لاهلها - حدیث: 1672، صحیح ابن حبان

- کتاب إخباره صلی اللہ علیہ وسلم عن مناقب الصحابة، ذکر البیان بان جبریل علیہ السلام کان لا یدخل عی

المصطفی - حدیث: 7217، السنن للنسائی - کتاب الجنائز، الامر بالاستغفار للمؤمنین - حدیث: 2020، السنن الکبری

للنسائی - کتاب الجنائز، الاستغفار للمؤمنین - حدیث: 2139، مسند احمد بن حنبل - مسند الانصار، الملحق المستدرک

من مسند الانصار - حدیث السیدة عائشة رضی اللہ عنہا، حدیث: 25317

تَسْتَوْحِشِي، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ أَهْلَ الْبُقْعِ فَاسْتَغْفِرَ لَهُمْ قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ؟ قَالَ: "قُولِي: السَّلَامُ عَلَي أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَلْآحِقُونَ

* * محمد بن قیس بن مخرمہ بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم ﷺ کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا: کیا میں تمہیں اپنے اور نبی اکرم ﷺ کے بارے میں نہ بتاؤں! ہم نے عرض کی: جی ہاں! سیدہ عائشہ نے فرمایا: ایک رات جب میرے ہاں نبی اکرم ﷺ نے ٹھہرنا تھا تو آپ (رات میں کسی وقت) اٹھے آپ نے اپنے جوتے اپنے پاؤں کے پاس رکھ لیے آپ نے اپنی چادر اتاری یہاں تک کہ آپ نے اپنے تہبند کے کنارے کو اپنے بستر پر پھیلا لیا کچھ دیر بعد جب آپ کو گمان ہوا کہ میں سوچکی ہوں تو آپ نے آہستگی سے جوتے پہنے آہستگی سے چادر لی (اور گھر سے باہر تشریف لے گئے) میں نے بھی اپنی چادر اپنے سر پر رکھی اور اُسے اوڑھ لیا اور پھر میں بھی آپ کے پیچھے گھر سے باہر نکل آئی، نبی اکرم ﷺ جنت البقیع تشریف لے گئے آپ نے دونوں ہاتھ بلند کر کے تین مرتبہ دعا کی آپ خاصی دیر وہاں ٹھہرے رہے پھر آپ واپس تشریف لائے تو میں بھی واپس آگئی آپ تیزی سے چل رہے تھے تو میں بھی تیزی سے آگئی آپ اور زیادہ تیزی سے چلے تو میں اور زیادہ تیزی سے چلی آپ گھر پہنچے تو میں بھی گھر پہنچ چکی تھی میں آپ سے پہلے گھر پہنچ چکی تھی میں اندر آ چکی تھی ابھی میں لیٹی ہی تھی کہ نبی اکرم ﷺ بھی اندر تشریف لے آئے۔ نبی اکرم ﷺ نے دریافت کیا: اے عائشہ! کیا وجہ ہے کہ تمہارا سانس پھولا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی: کچھ نہیں! نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: یا تو تم مجھے بتا دو یا پھر لطف کرنے والی اور خبر رکھنے والی ذات (یعنی اللہ تعالیٰ) مجھے بتا دے گا۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! پھر میں نے نبی اکرم ﷺ کو پورا واقعہ بتایا تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم ہی وہ بیوٹی تھیں جسے میں نے اپنے آگے دیکھا تھا میں نے عرض کی: جی ہاں۔ راوی کہتے ہیں: تو نبی اکرم ﷺ نے میرے سینہ پر ہاتھ مارا جس کی تکلیف مجھے محسوس ہوئی پھر آپ نے فرمایا: کیا تم یہ گمان کر رہی تھی کہ اللہ اور اُس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کی: بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں لوگ چھپا لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہوتا ہے جی ہاں!

نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: جبرائیل میرے پاس آئے تھے یہ اُس وقت کی بات ہے جب تم نے دیکھا تھا یہ اُس وقت تمہارے ہاں نہیں آتے تھے کیونکہ تم اضافی کپڑے اتار چکی ہوتی تھیں انہوں نے باہر سے مجھے آواز دی اور آواز پست رکھی میں نے انہیں جواب دیا اور میں نے بھی تمہیں بیدار نہیں کرنا چاہا میرا یہ خیال تھا کہ تم سوچکی ہو تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں تمہیں بیدار کروں مجھے یہ بھی اندیشہ ہوا کہ کہیں تم وحشت محسوس نہ کرو تو جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ میں جنت البقیع جاؤں اور ان لوگوں کے لیے دعائے مغفرت کروں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: میں نے دریافت کیا: (قبرستان میں جاؤں تو) میں کیا پڑھوں؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم یہ کہو:

"مؤمنوں اور مسلمانوں کی بستی والوں پر سلام ہو! اللہ تعالیٰ ہم سے پہلے والوں پر اور بعد والوں پر رحم کرے! بے شک ہم بھی اگر اللہ نے چاہا تو ان سے آملیں گے۔"

6713 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزُورُ قَبْرَ حَمْزَةَ كُلَّ جُمُعَةٍ

*** امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ بنتی بنتا ہر جمعہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھیں۔

6714 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثْتُ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَقَابِرِ، فَأَمَرَنَا فَجَلَسْنَا، ثُمَّ تَخَطَّيْنَا الْقُبُورَ حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى قَبْرِ مِنْهَا، فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَنَاجَاهُ طَوِيلًا، ثُمَّ ارْتَفَعَ نَحِيبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاكِيًا، فَبَكَيْنَا لِبُكَائِهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ فَلَقِيَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: مَا الَّذِي أَبْكََاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لَقَدْ أَبْكَانَا وَأَفْرَعَنَا، فَأَخَذَ بِيَدِ عُمَرَ، ثُمَّ أَوْمَأَ إِلَيْنَا فَاتَيْنَاهُ، فَقَالَ: أَفْرَعَكُمْ بُكَائِي؟ فَقُلْنَا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "فَإِنَّ الْقَبْرَ الَّذِي رَأَيْتُمُونِي عِنْدَهُ قَبْرُ أُمِّي آمِنَةَ بِنْتِ وَهْبٍ وَإِنِّي اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي زِيَارَتِهَا فَآذَنَ لِي، ثُمَّ اسْتَأْذَنْتُهُ فِي الْاسْتِغْفَارِ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، وَأُنزِلَ (مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ) (التوبة: 113) الْآيَةَ، (وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ) (التوبة: 114) فَأَخَذَنِي مَا يَأْخُذُ الْوَالِدَ لِلْوَالِدِ مِنَ الرَّأْفَةِ، فَذَلِكَ أَبْكَانِي، أَلَا إِنِّي نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيْسَعَكُمْ، وَعَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُزْهِدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، وَكُلُّوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ، وَأَنْفِقُوا مِنْهَا مَا شِئْتُمْ، فَإِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ إِذَا الْخَيْرُ قَلِيلٌ، وَتَوَسَّعَ عَلَى النَّاسِ، أَلَا وَإِنَّ الْوِعَاءَ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا، كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ"

*** حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے آپ کے ساتھ ہم بھی آگے یہاں تک کہ ہم لوگ قبرستان پہنچ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تو ہم بیٹھ گئے پھر ہم کچھ قبروں کو پھلانگتے ہوئے ایک قبر تک آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے پاس بیٹھ گئے اور آپ نے خاصی دیر تک مناجات کی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز بلند ہوئی تو آپ کے رونے کی وجہ سے ہم بھی رونے لگے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ کیوں رورہے ہیں؟ راوی کہتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھی رُلا دیا تھا اور ہمیں بھی خوف زدہ کر دیا تھا پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہماری طرف اشارہ کیا ہم آپ کے پاس آ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا: کیا میرے رونے کی وجہ سے تم لوگ پریشان ہو گئے ہو؟ ہم نے عرض کی: جی ہاں! یا رسول اللہ! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے مجھے جس قبر کے پاس دیکھا ہے یہ میری والدہ سیدہ آمنہ بنت وہب کی قبر ہے میں نے اپنے پروردگار سے ان کی قبر کی

6714- صحیح ابن حبان - کتاب الرقائق، باب الادعیة - ذکر ما يستحب للمراء ان يترك الاستغفار لقرابته المشركين

اصلا، حدیث: 985، المستدرک علی الصحیحین للحاکم - کتاب التفسیر، تفسیر سورة التوبة - حدیث: 3226، مشکل

الآثار للطحاوی - باب بیان مشکل ما روى عن رسول الله صلى الله عليه، حدیث: 2071

زیارت کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے مجھے اجازت دے دی پھر میں نے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے مجھے اجازت نہیں دی۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی:

”نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت کریں۔“
یہ آیت اور اس کے بعد یہ آیت بھی ہے:

”ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔“

تو اس کے نتیجے میں مجھے وہی افسوس ہوا جو کسی بھی بچہ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کی وجہ سے افسوس ہوتا ہے اس چیز نے مجھے زلا دیا خبردار! میں نے تمہیں تین چیزوں سے منع کیا تھا: قبروں کی زیارت کرنے سے اور تین دن کے بعد قربانی کا گوشت کھانے سے اور مخصوص قسم کے برتنوں میں نبیذ تیار کرنے سے تو اب تم قبرستان کی زیارت کر سکتے ہو کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبت کرتے ہیں اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں اور قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں اس میں سے جتنا چاہو خرچ کرو اور میں نے تمہیں منع کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ گوشت کم تھا اور لوگوں کے لیے گنجائش زیادہ تھی اور خبردار! برتن کسی بھی چیز کو حرام نہیں کرتا البتہ برنشہ اور چیز حرام ہے۔

6715 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ صَفْوَانَ أَنَّ أَمِنَةَ بِنْتَ وَهْبٍ أُمَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُفِنَتْ فِي شَعْبِ أَبِي دَبٍّ

* * عثمان بن صفوان بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا کو ”شعب ابی دب“ میں دفن کیا گیا۔

6716 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي قُبُورَ الشَّهَدَاءِ عِنْدَ رَأْسِ الْحَوْلِ، فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَعَمَ عُقْبَى الدَّارِ. قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ

* * محمد بن ابراہیم تیمی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ ایک سال کے بعد بعض شہداء کی قبروں پر تشریف لے جاتے تھے اور یہ پڑھتے تھے:

”تم پر سلام ہو اس وجہ سے جو تم نے صبر کیا ہے اور آخرت کا ٹھکانہ بڑا بہترین ہے۔“

راوی بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

6717 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْبَجَلِيِّ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ تَأْتِي قَبْرَ حَمْزَةَ وَكَانَتْ قَدْ وَضَعَتْ عَلَيْهِ عَلَمًا لَوْ تَعْرِفُهُ، وَذِكْرٌ أَنَّ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ كَانَ عَلَيْهِمُ النُّقْلُ، يَعْنِي حِجَارَةَ صِغَارًا

* * اصبح بن نباتہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر تشریف

لے جاتی تھیں، انہوں نے ان کی قبر پر ایک نشان رکھا ہوا تھا، تاکہ اس قبر کو پہچان لیں۔

اس بات کا ذکر بھی کیا گیا ہے: نبی اکرم ﷺ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبروں پر بھی چھوٹے پتھر رکھے گئے

ہیں۔

بَابُ التَّسْلِيمِ عَلَى الْقُبُورِ

باب: اہل قبرستان کو سلام کرنا

6718 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: "

التَّسْلِيمُ عَلَى الْقُبُورِ: السَّلَامُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ مِنْ أَهْلِ الدِّيَارِ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ. " قَالَ مَعْمَرٌ: فَكَانَ قِتَادَةٌ يَذْكُرُ نَحْوَ هَذَا وَيَزِيدُ: أَنْتُمْ لَنَا فَرَطًا وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ

* * مجاہد بیان کرتے ہیں: اہل قبرستان کو سلام کرنے کا طریقہ یہ ہے: (کہ تم یہ پڑھو):

"مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں، مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں، اس بستی کے رہنے والوں پر سلام ہو! اللہ تعالیٰ

ہم میں سے پہلے چلے جانے والوں پر رحم کرے! اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے آملیں گے۔"

معمر بیان کرتے ہیں: قتادہ اس کی مانند الفاظ نقل کرتے ہیں اور اس میں یہ الفاظ زائد نقل کرتے ہیں:

"تم لوگ ہمارے پیشرو ہو اور ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم سے آملیں گے۔"

6719 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ أَبِيهِ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَقْبَرَةٍ، أَوْ قَالَ: بِالْبَقِيعِ، ثُمَّ قَالَ: "السَّلَامُ عَلَى

أَهْلِ الدِّيَارِ مَنْ فِيهَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، دَارِ قَوْمٍ مَيِّتِينَ، وَإِنَّا فِي آثَارِهِمْ - أَوْ قَالَ -: فِي آثَارِكُمْ لَاحِقُونَ"

* * علاء بن عبد الرحمن بن يعقوب اپنے والد کے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی

اکرم ﷺ قبرستان کے پاس سے گزرے (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں: جنت البقیع کے پاس سے گزرے تو آپ نے یہ

دعا پڑھی:

"اس بستی والوں پر سلام ہو جس میں مسلمان بھی ہیں (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں: مرحوم لوگ رہتے ہیں اور

ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں (راوی کوشک ہے شاید یہ الفاظ ہیں: ہم تمہارے پیچھے تم سے آملیں گے۔"

6720 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَنْطَلِقُ بِطَوَائِفٍ مِنْ أَصْحَابِهِ إِلَى دَفْنَى بَقِيعِ الْغَرْقِدِ، فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ، لَوْ تَعْلَمُونَ مِمَّا

نَجَّأَكُمُ اللَّهُ مِمَّا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ ثُمَّ يَلْتَفِتُ إِلَى أَصْحَابِهِ وَفِيهِمْ يَوْمِنِذِ الْإِفَاضِلِ فَيَقُولُ: أَنْتُمْ خَيْرٌ أُمَّ هُنُؤُلَاءِ؛

فَيَقُولُونَ: نَرْجُو أَنْ لَا يَكُونُوا خَيْرًا مِنَّا، هَاجَرْنَا كَمَا هَاجَرُوا وَجَاهَدْنَا كَمَا جَاهَدُوا، فَيَقُولُ: بَلْ هُمْ خَيْرٌ مِنْكُمْ، قَدْ مَسُوا وَلَمْ يَأْكُلُوا مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَأَنْتُمْ تَأْكُلُونَ مِنْ أُجُورِكُمْ، فَإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ مَضُوا، وَقَدْ شَهِدْتُ لَهُمْ وَإِنِّي لَا أَدْرِي مَا تُحَدِّثُونَ بَعْدِي

* * ابن جریر بیان کرتے ہیں: مجھے یہ بات بتائی گئی ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ اپنے کچھ اصحاب کے ساتھ جنت البقیع میں دفن ہونے والے لوگوں کی طرف تشریف لے گئے اور آپ نے یہ دعا

”اے اہل قبرستان! تم پر سلام ہو! اگر تم لوگ اُس چیز کا علم رکھتے ہو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات عطا کی ہے اُس چیز کے مقابلہ میں جو تمہارا بعد رونما ہوئی ہے۔“

پھر نبی اکرم ﷺ اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے جن میں اُن دنوں فضیلت رکھنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ نبی اکرم ﷺ نے دریافت کیا: کیا تم لوگ زیادہ بہتر ہو یا یہ لوگ زیادہ بہتر ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی: ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہم سے بہتر نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے ہجرت کی جس طرح انہوں نے ہجرت کی، ہم نے جہاد کیا جس طرح انہوں نے جہاد کیا۔ تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: بلکہ یہ لوگ تم سے زیادہ بہتر ہیں کیونکہ یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے اور انہوں نے اپنے اجر میں سے کچھ بھی نہیں پایا جبکہ تم اپنے اجر میں سے حاصل کر لو گے، یہ لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اور میں ان کے حق میں گواہی دیتا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ میرے بعد تم لوگ کیا کرو گے۔

6721 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَسْرُ بِقَبْرِ إِلَّا سَلَّمَ

* * سالم بن عبد اللہ بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اسے سلام کرتے تھے۔

6722 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ نَقُولُ فِي التَّسْلِيمِ عَلَى الْقُبُورِ فَقَالَ: ”قُولِي: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَدَاحِقُونَ“

* * سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: میں نے نبی اکرم ﷺ سے سوال کیا: ہم قبرستان والوں کو سلام کرتے ہوئے کیا پڑھیں گے؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: تم یہ پڑھو:

”مؤمنوں اور مسلمانوں کی بستی کے رہنے والوں پر سلام ہو! اللہ تعالیٰ ہم میں سے پہلے والے لوگوں پر اور بعد والے لوگوں پر رحم کرے! اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی تم لوگوں سے آئیں گے۔“

6723 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ، عَنِ ابْنِ عَجَلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ:

اکرم ﷺ کی قبر مبارک کے پاس دیکھا تو انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور فرمایا: نبی اکرم ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: ”تم لوگ میری قبر کو عید نہ بنا لینا اور تم لوگ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لینا تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔“

6727 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَرَرْتُ بِمُوسَى لَيْلَةَ أُسْرَى بِي وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ

* * * حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما یہ بات بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: ”معرانج کی رات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے۔“

6728 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ سَرِجٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، اشْتَكَى خِلَافَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ حِينَ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الطَّائِفِ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو الْقَارِي: إِنْ مَاتَ فَهَا هُنَا وَأَشَارَ إِلَى طَرِيقِ الْمَدِينَةِ

* * * نافع بن سرجس بیان کرتے ہیں: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما مکہ میں نبی اکرم ﷺ کی غیر موجودگی میں بیمار ہو گئے یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی اکرم ﷺ طائف تشریف لے گئے ہوئے تھے جب آپ واپس تشریف لائے تو نبی اکرم ﷺ نے عمرو قاری سے بارے میں فرمایا: اگر اس کا انتقال ہوا تو یہاں ہوگا۔ نبی اکرم ﷺ نے مدینہ منورہ کے راستے کی طرف اشارہ کر کے بتایا (یعنی ان کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوگا)۔

6729 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلَفَ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَهُوَ بِمَكَّةَ رَجُلًا فَقَالَ: إِنْ مَاتَ فَلَا تَدْفِنُهُ حَتَّى تُخْرِجَهُ مِنْهَا

6727- صحیح مسلم - کتاب الفضائل باب من فضائل موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم - حدیث: 4483 صحیح ابن حبان - کتاب الإسراء ذکر خبر اوہم عالمنا من الناس انہ مضاد لخبر مالک بن - حدیث: 49 السنن للنسائی - کتاب قیام اللیل و تطوع النہار ذکر صلاۃ نسی اللہ موسیٰ علیہ السلام - حدیث: 1620 مصنف ابن ابی شیبہ - کتاب المغازی حدیث المعراج حین اسری بالنبی علیہ السلام - حدیث: 35892 السنن الکبریٰ للنسائی - کتاب قیام اللیل و تطوع النہار ذکر صلاۃ نسی اللہ موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم باللیل - حدیث: 1304 مشکل الآثار للطحاوی - باب بیان مشکل ما روی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ حدیث 4379 مسند احمد بن حنبل مسند انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ - حدیث: 11996 مسند عبد بن حمید - مسند انس بن مالک حدیث: 1208 مسند ابی یعلیٰ الموصلی - ثابت البنانی عن انس حدیث 3234

*** عبد الرحمن بن ہر مز بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے چھوڑا وہ مکہ میں رہتے تھے آپ نے ارشاد فرمایا: اگر اس کا انتقال ہوا تو تم اسے دفن نہ کرنا، بلکہ اسے یہاں سے لے جانا۔

6730 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن ابن جریج، قال ابن خثیم: عن نافع بن سرجس قال: عُدْنَا أَبَا وَاقِدِ الْبَكْرِيِّ فِي وَجَعِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَمَاتَ فَدُفِنَ فِي قُبُورِ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ: وَمَاتَ نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدُفِنُوا هُنَاكَ فِي قُبُورِ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ: وَاتَّبَعْتُ بَعْضَهُمْ. بَلَّغَنِي أَنِّي الْقُبُورُ الَّتِي دُونَ فَخٍّ، وَمَا زِلْتُ أَسْمَعُ وَأَنَا غُلَامٌ: إِنَّهَا قُبُورُ الْمُهَاجِرِينَ

*** نافع بن سرجس بیان کرتے ہیں: ہم ابو واقد بکری کی بیماری کے دوران جس میں ان کا انتقال ہوا ان کی عیا کرنے کے لیے گئے، ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو مہاجرین کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ راوی کہتے ہیں: نبی اکرم ﷺ۔ اصحاب میں سے کچھ انصار کا بھی انتقال ہوا تو انہیں بھی وہاں مہاجرین کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ راوی کہتے ہیں: میں نے ان میں سے کسی ایک صاحب کے بارے میں یہ بات سنی ہے کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے: یہ وہ قبرستان ہے جو "فخ" نامی جگہ ہے۔ کچھ پہلے آتا ہے اور میں بچپن سے ہی یہی سنتا آ رہا ہوں کہ یہ مہاجرین کا قبرستان ہے۔

6731 - اقوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جریج، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي قال: يُبَعَثُ مَنْ مَاتَ وَدُفِنَ فِي تِلْكَ الْمَقْبَرَةِ آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: وَكُنْتُ أَسْمَعُ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّهُ مَنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ

*** یحییٰ بن عبد اللہ صیفی بیان کرتے ہیں: جو شخص انتقال کر جائے اور اس قبرستان میں دفن ہو تو اسے قیامت کے دن امن کی حالت میں اٹھایا جائے گا۔

راوی بیان کرتے ہیں: میں اس سے پہلے یہ بات سن چکا ہوں کہ جو شخص حرم کی حدود میں مرے گا اسے بھی یہ نعمت حاصل ہو گی۔

6732 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن جریج قال: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الْأَعْرَجِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ السَّائِبَ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيِّ فَقَالَ: إِنْ مَاتَ سَعْدٌ فَلَا تَدْفِنُهُ بِمَكَّةَ

*** اعرج بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے حضرت سائب بن عبد القاری رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور فرمایا: اگر سعد کا انتقال ہو جائے تو تم اسے مکہ میں دفن نہ کرنا۔

6733 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، أن ابن عمر، أو صاهم: لا تدفوناه، فَعَلَبَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَالِدٍ حَتَّى دَفَنُوهُ بِالْحَرَمِ

*** نافع بیان کرتے ہیں: حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان لوگوں کو یہ وصیت کی تھی کہ وہ انہیں دفن نہ کریں لیکن عبد اللہ بن خالد ان لوگوں پر غالب آگئے اور انہوں نے انہیں حرم کی حدود میں دفن کر دیا۔

6734 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن ابن جریج قال: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي خِدَاشٍ، أَنَّ ابْنَ عَتَّاسِ

قَالَ: لَمَّا أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَقْبَرَةِ وَهُوَ عَلَى طَرِيقِهَا الْأَوَّلِ أَشَارَ بِيَدِهِ وَرَاءَ الصُّفْرَةِ، فَقَالَ: نِعَمَ الْمَقْبَرَةُ قُلْتُ لِلَّذِي يُخْبِرُنِي: خَصَّ الشَّعْبَ؟ قَالَ: هَكَذَا كُنَّا نَسْمَعُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَّ الشَّعْبَ الْمُقَابِلَ بِالْبَيْتِ

* * * حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم ﷺ نے قبرستان کی طرف دیکھا تو آپ اس وقت پہلے والے راستہ پر چل رہے تھے آپ نے اپنے دست مبارک کے ذریعہ زردی کے پرے اشارہ کیا اور فرمایا: یہ اچھا قبرستان ہے۔ راوی کہتے ہیں: جس شخص نے مجھے یہ بات بتائی تھی میں نے اُس سے دریافت کیا: کیا نبی اکرم ﷺ نے کسی گھائی کو مخصوص قرار دیا ہے؟ اُس نے جواب دیا: ہم نے تو یہی سنا ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے اُس گھائی کو مخصوص قرار دیا تھا جو اُس بیت اللہ کے مقابل ہے۔

6735 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: مَا أَحَبُّ أَنْ أُدْفَنَ بِالْبَقِيعِ، لِأَنْ أُدْفَنَ فِي غَيْرِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُدْفَنَ فِيهِ، إِنَّمَا أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ إِمَّا ظَالِمٌ فَلَا أَحَبُّ أَنْ أَكُونَ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، وَإِمَّا صَالِحٌ فَلَا أَحَبُّ أَنْ تُنْفَى عِظَامُهُ

* * * ہشام بن عروہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے مجھے کسی اور جگہ پر دفن کر دیا جائے یہ میرے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہوگا کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے کیونکہ آدمی دو میں سے کسی ایک طرح کا ہو سکتا ہے یا تو وہ ظالم ہوگا تو مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں قبر میں بھی ظالم کے ساتھ رہوں یا پھر وہ نیک آدمی ہوگا تو مجھے یہ بات بھی پسند نہیں ہے (مجھے دفن کرنے کے لیے) اُس کی ہڈیاں نکال لی جائیں۔

6736 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُدْعَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حُشِرَ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بُعِثَتْ فِي أَهْلِ الْبَقِيعِ

* * * سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”جب قیامت کے دن لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے تو مجھے جنت البقیع والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔“

بَابُ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

باب: قبر کی آزمائش

6737 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ زَادَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى جِنَازَةٍ فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْقَبْرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلِيَّ رَأَى وَسْنَا الطَّيْرَ، وَهُوَ يَلْحَدُ لَهُ، فَقَالَ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، نَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي إِقْبَالٍ مِنَ الْأَخِرَةِ وَانْقَطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا نَزَلَتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ

كَانَ وَجُوهَهَا الشَّمْسُ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ كَفَنٌ وَحَنُوطٌ، فَجَلَسُوا مِنْهُ مَدَّ البَصْرِ حَتَّى إِذَا خَرَجَ رُوحُهُ صَلَّى عَلَيْهِ
كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلاَّ
وَهُمْ يَدْعُونَ اللّٰهَ أَنْ يُعْرِجَ بِرُوحِهِ قِبَلَهُمْ، فَإِذَا عُرِجَ بِرُوحِهِ قِبَلَهُمْ قَالُوا: أَيُّ رَبِّ، عَبْدُكَ فَالَانَ، فَيَقُولُ:
أَرْجِعُوهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ إِلَيْهِمْ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيهَا نُعِيدُهُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى، فَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفَقَ
نِعَالِ أَصْحَابِهِ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ، فَيَأْتِيهِ آتٍ فَيَقُولُ: مَنْ رَبُّكَ؟ مَا دِينُكَ؟ مَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي اللّٰهُ، وَدِينِي
الإِسْلَامُ، وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَنْتَهَرُهُ فَيَقُولُ: مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ وَهِيَ آخِرُ فِتْنَةٍ
تُعْرَضُ عَلَى الْمُؤْمِنِ فَذَلِكَ حِينَ يَقُولُ: (يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ)
(إبراهيم: 27) فَيَقُولُ: رَبِّي اللّٰهُ، وَدِينِي الإِسْلَامُ، وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَيَقُولُ لَهُ: صَدَقْتَ، ثُمَّ يَأْتِيهِ
آتٍ حَسَنُ الوَجْهِ طَيِّبُ الرِّيحِ حَسَنُ الثِّيَابِ، فَيَقُولُ لَهُ: أَبَشِّرُ بِكَرَامَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَنُعِيمٌ مُّقِيمٍ، فَيَقُولُ: أَنْتَ
بَشْرَكَ اللّٰهُ بِخَيْرٍ مِنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ المَصَالِحُ، كُنْتُ وَاللّٰهُ سَرِيعًا فِي طَاعَةِ اللّٰهِ بَطِينًا فِي مَعْصِيَةِ اللّٰهِ
فَجَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَبَابٌ مِنَ النَّارِ، فَيَقَالُ: هَذَا مَنْزِلُكَ لَوْ عَصَيْتَ اللّٰهَ أَنْزَلَكَ اللّٰهُ
بِهِ هَذَا، فَإِذَا رَأَى مَا فِي الْجَنَّةِ قَالَ: رَبِّ عَجَلْ قِيَامَ السَّاعَةِ، كَيْمَا أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي، فَيَقَالُ: اسْكُنْ، وَإِنَّ
الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْيَا وَاقْبَالٍ مِنَ الآخِرَةِ نَزَلَتْ إِلَيْهِ مَلَائِكَةٌ غَلَاظٌ شَدَّادٌ يَنْزِعُونَ رُوحَهُ كَمَا
يُنْتَزَعُ السَّفُودُ الكَبِيرُ الشَّعْبُ مِنَ الصُّوفِ المُبْتَلِ وَيُنْتَزَعُ نَفْسُهُ مَعَ العُرُوقِ، فَإِذَا خَرَجَ رُوحُهُ لَعَنَهُ كُلُّ مَلَكٍ
بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّمَاءِ، وَتَغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، لَيْسَ أَهْلُ بَابٍ إِلاَّ وَهُمْ يَدْعُونَ أَنْ لاَّ
يُعْرِجَ بِرُوحِهِ قِبَلَهُمْ، فَإِذَا عُرِجَ بِرُوحِهِ قَالُوا: رَبَّنَا هَذَا عَبْدُكَ فَالَانَ، فَيَقُولُ: أَرْجِعُوهُ إِنِّي عَهِدْتُ إِلَيْهِمْ أَنِّي
مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى قَالَ: فَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفَقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ،
فَيَأْتِيهِ آتٍ فَيَقُولُ: مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيَقُولُ: رَبِّي اللّٰهُ، وَدِينِي الإِسْلَامُ، وَنَبِيِّ مُحَمَّدٌ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْتَهَرُهُ انْتِهَارًا شَدِيدًا، فَيَقُولُ: مَنْ رَبُّكَ؟ وَمَا دِينُكَ؟ وَمَنْ نَبِيُّكَ؟ فَيَقُولُ: لاَ أَدْرِي، فَيَقُولُ:
لاَ دَرَيْتَ وَلاَ تَلَوْتُ، فَيَأْتِيهِ آتٍ قَبِيحُ الثِّيَابِ مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ: أَبَشِّرُ بِهَوَانٍ مِنَ اللّٰهِ وَعَذَابٍ مُّقِيمٍ، فَيَقُولُ:
وَأَنْتَ فَبَشْرَكَ اللّٰهُ بِالشَّرِّ مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الخَبِيثُ، كُنْتُ بَطِينًا عَنِ طَاعَةِ اللّٰهِ سَرِيعًا فِي مَعْصِيَةِ
اللّٰهِ فَجَزَاكَ اللّٰهُ شَرًّا، ثُمَّ يُقَيِّضُ لَهُ أَعْمَى أَصَمَّ أَبْكَمَ فِي يَدِهِ مِرْزَبَةٌ لَوْ ضَرَبَ بِهَا جَبَلًا كَانَ تُرَابًا، فَيَضْرِبُهُ
ضَرْبَةً فَيَصِيرُ تُرَابًا، ثُمَّ يُعِيدُهُ اللّٰهُ كَمَا كَانَ فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أُخْرَى فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ
الثَّقَلَيْنِ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ النَّارِ وَيُمَهِّدُ لَهُ فِرَاشٌ مِنَ النَّارِ " قَالَ مَعْمَرٌ، وَسَمِعْتُهُ عَنْ مُعَاذِ أَنَّهُ قَالَ: يَسْمَعُهُ
كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ

* * * حضرت براء بن العزيم بیان کرتے ہیں: ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازہ میں شریک ہوئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

قبر کے پاس بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے، یوں جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، میت کے لیے لہ تیار کی جا رہی تھی تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: میں قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ بات آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمائی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا:

”جب مؤمن آخرت کی طرف آتا ہے اور دنیا سے لا تعلق ہو جاتا ہے تو فرشتے اُس پر نازل ہوتے ہیں اور اُن فرشتوں کے چہرے سورج کی طرح چمکدار ہوتے ہیں، اُن میں سے ہر ایک کے پاس کفن اور خوشبو ہوتی ہے اور وہ حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں یہاں تک کہ جب مؤمن کی روح نکلتی ہے تو ہر فرشتہ جو آسمان اور زمین کے درمیان موجود ہوتا ہے اور ہر فرشتہ جو آسمان میں موجود ہوتا ہے وہ اُس روح کے لیے دعائے رحمت کرتا ہے، اُس روح کے لیے جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، ہر دروازے پر تعینات فرشتے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اُس مؤمن کی روح اُن لوگوں کی طرف سے اوپر جائے، جب اُن لوگوں کی طرف سے روح اوپر جاتی ہے تو وہ فرشتے یہ کہتے ہیں: اے میرے پروردگار! یہ تیرا فلاں بندہ ہے! تو پروردگار فرماتا ہے: اسے واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو اُس مٹی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں انہیں واپس لوٹا دوں گا اور اس میں سے ہی انہیں دوبارہ اٹھاؤں گا۔ تو وہ مؤمن (مردہ اپنی قبر میں) اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے جب وہ اُسے چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر کوئی اُس کے پاس آتا ہے اور دریافت کرتا ہے: تمہارا پروردگار کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے نبی کون ہیں؟ تو جواب دیتا ہے: میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرے نبی حضرت محمد ﷺ ہیں (یہاں متن کے الفاظ میں کچھ خرابی ہے) تو یہ وہ آخری آزمائش ہوتی ہے جو مؤمن کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے یہی مراد ہے:

”اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قول پر ثابت قدم رکھتا ہے۔“

تو وہ مؤمن بندہ یہ کہتا ہے: میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی حضرت محمد ﷺ ہیں۔ تو فرشتہ اُس سے کہتا ہے: تم سچ کہہ رہے ہو! پھر ایک اور شخص اُس کے پاس آتا ہے جس کا چہرہ خوبصورت ہوتا ہے اور خوشبو اچھی ہوتی ہے، کپڑے عمدہ ہوتے ہیں، وہ اُس سے کہتا ہے: اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی عزت افزائی اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کی خوشخبری قبول کرو! تو بندہ کہتا ہے: اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بھلائی کی خوشخبری دے! تم کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے: میں تمہارا نیک عمل ہوں، اللہ کی قسم! تم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں بڑے تیز تھے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سست تھے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا کرے! پھر اُس کے لیے جنت کا دروازہ اور جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ ہونا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہاں بھیج دینا تھا۔ جب وہ بندہ جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو عرض کرتا ہے: میرے پروردگار! تو جلدی سے قیامت کو قائم کر دے تاکہ میں اپنے بال بچوں کی طرف واپس جاسکوں، تو یہ کہا جاتا ہے: تم سکون سے رہو!“

(پھر نبی اکرم ﷺ نے فرمایا:) جب کافر شخص دنیا سے لاتعلق ہوتا ہے اور آخرت میں آتا ہے تو فرشتے سخت ترین حالت میں سختی کے ساتھ اُس کی روح نکالتے ہیں جس طرح روئی میں سے نکالا جاتا ہے اور وہ اُس کی رگوں کے اندر سے اُس کی جان کو کھینچ لیتے ہیں جب اُس کی روح نکلتی ہے تو زمین اور آسمان میں موجود اور آسمان پر موجود ہر فرشتہ اُس پر لعنت کرتا ہے آسمان کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں ہر دروازہ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اُس کی روح اُن کی طرف سے اوپر نہ جائے جب اُس کی روح اوپر جاتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں: اے ہمارے پروردگار! یہ تیرا فلاں بندہ ہے! تو پروردگار فرماتا ہے: تم اسے واپس لے جاؤ کیونکہ میں نے ان لوگوں کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ میں انہیں اس زمین سے پیدا کروں گا اور اس میں انہیں لوٹا دوں گا اور دوبارہ اس میں سے ہی اٹھاؤں گا۔ نبی اکرم ﷺ فرماتے ہیں: تو وہ اپنے ساتھیوں کے جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے جب وہ لوگ اُسے چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ اُس کے پاس آتا ہے اور دریافت کرتا ہے: تمہارا پروردگار کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارا نبی کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے: میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے میرا دین اسلام ہے میرے نبی حضرت محمد ﷺ ہیں تو فرشتہ اُسے سختی سے ڈانٹتے ہوئے یہ کہتا ہے: تمہارا پروردگار کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے نبی کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے: مجھے نہیں معلوم! فرشتہ کہتا ہے: نہ تو تمہیں معلوم ہے اور نہ ہی تم نے تلاوت کی ہے۔ پھر ایک اور شخص اُس کے پاس آتا ہے جس کے کپڑے انتہائی بُرے ہوتے ہیں اور انتہائی بدبودار ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے: اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے عزتی اور ہمیشہ رہنے والے عذاب کی خبر حاصل کرو! تو وہ بندہ کہتا ہے: اللہ تعالیٰ تمہیں بھی بُری خبر دے! تم کون ہو؟ وہ جواب دیتا ہے: میں تمہارا بُرا عمل ہوں تم اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں سست تھے اور اُس کی نافرمانی میں بڑے تیز تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بُری جزاء دی ہے۔ پھر اُس شخص پر اندھے اور بہرے فرشتے مسلط کیے جاتے ہیں جن کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے اگر وہ گرز کسی پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے وہ فرشتہ وہ گرز اُس بندہ پر مارتا ہے تو وہ مٹی ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اُسے پہلے کی طرح دوبارہ بنا دیتا ہے پھر وہ فرشتہ دوسری مرتبہ اُس پر گرز مارتا ہے تو وہ بندہ ایسے چیخ مارتا ہے جسے انسانوں اور جنات کے علاوہ ہر چیز سنتی ہے پھر اُس بندہ کے لیے جہنم کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اُس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے۔

یہاں معاذ نامی راوی نے یہ الفاظ نقل کیے ہیں: ”دو گروہوں کے علاوہ ہر چیز اُس کی آواز سنتی ہے۔“

6738 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لِعُمَرَ: كَيْفَ بِكَ يَا عُمَرُ بِفَتَانِي الْقَبْرِ إِذَا آتَاكَ يَحْفِرَانِ بَأْيَابِهِمَا، وَيَطَّانِ فِي أَشْعَارِهِمَا، أَعْيُنُهُمَا كَالْبَرْقِ الْخَاطِطِ، وَأَصْوَاتُهُمَا كَالرَّعْدِ الْقَاصِفِ، مَعَهُمَا مِزْرَبَةٌ لَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا أَهْلُ مَنَى لَمْ يَقْلُوهَا قَالَ عُمَرُ: وَأَنَا عَلَى مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ؟ قَالَ: وَأَنْتَ عَلَى مَا أَنْتَ عَلَيْهِ الْيَوْمَ قَالَ: إِذَا أَكْفِيَهُمَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ: وَبِحَانَ حَبِيْبِ بْنِ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ يَقُولُ: نَعَمْ، ذَلِكَ مُنْكَرٌ وَنَكِيْرٌ

* * عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اے عمر! اُس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا جب قبر کی آزمائش والے فرشتے آئیں گے جب وہ تمہارے پاس ایسی حالت میں آئیں گے کہ وہ اپنے دانتوں کے ذریعہ زمین کو کھود رہے ہوں گے اور وہ اپنے بال اپنے پاؤں کے نیچے دے رہے ہوں گے اُن کی آنکھیں ایسی ہوں گی جیسے چمکتی ہوئی بجلی ہوتی ہے اور اُن کی آوازیں ہوگی جیسے کڑکتی ہوئی بجلی ہوتی ہے اُن کے پاس گرز ہوگا اگر تمام اہل منی پر اُسے مارا جائے تو وہ لوگ تھوڑے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اُس وقت میں اسی صورت حال میں ہوں گا جس پر اب ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اُس وقت تم اسی صورت حال پر ہو گے جس پر اب ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: پھر اگر اللہ نے چاہا تو میں ان دونوں کے لیے کفایت کر جاؤں گا۔

عبید بن عمیر یہ کہتے تھے: جی ہاں! وہ فرشتے منکر اور نکیر ہیں۔

6739 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَلَى جِنَازَةٍ، فَقَالَ: "مَا أَنْتُمْ بِبَارِحِينَ وَهُمْ يَدْفُونُهُ حَتَّى يَسْمَعَ صَاحِبُكُمْ خَبَطَ نِعَالِكُمْ، فَيَأْتِيهِ صَاحِبُ الْقَبْرِ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ، فَتَقُولُ لِسَانَهُ: لَا تَأْتِهِ مِنْ قِبَلِي فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يَقُومُ بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَنْصَبُ، فَهَذَا حِينَ اسْتَرَاحَ، ثُمَّ يَأْتِيهِ مِنْ نَحْوِ رِجْلَيْهِ فَتَقُولُ رِجْلُهُ: لَا تَأْتِهِ مِنْ قِبَلِنَا فَإِنَّهُ كَانَ يَمْشِي بِنَا إِلَى الصَّلَوَاتِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ قِبَلِ يَمِينِهِ فَيَقُولُ: لَا تَأْتِهِ مِنْ قِبَلِي فَإِنَّهُ كَانَ يَبْسُطُ يَمِينَهُ بِالصَّدَقَةِ، فَيَأْتِيهِ مِنْ قِبَلِ شِمَالِهِ فَيَقُولُ شِمَالُهُ: لَا تَأْتِهِ مِنْ قِبَلِي فَإِنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ عَلَيَّ السِّلَاحَ - أَوْ قَالَ -: فِي السِّلَاحِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَيَقُومُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَيَقْرَعُهُ فَيَقُولُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيُثَبِّتُهُ اللَّهُ، وَإِنْ كَانَ شَاكًا قَالَ: لَا أَدْرِي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْنًا، فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ يَحْضُرُهُ إِلَّا الثَّقَلَانِ"

* * یحییٰ بن ابوکثیر نے ایک راوی کا یہ بیان نقل کیا ہے: ہم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جنازہ میں شریک ہوئے تو انہوں نے فرمایا: ابھی جب تم اسے دفن کر دو گے تو تھوڑی ہی دیر بعد تمہارا ساتھی تمہارے جوتوں کی آہٹ بھی سنے گا پھر قبر والا فرشتہ اس کے پاس اس کے سر ہانے کی طرف سے آئے گا تو اس کی زبان یہ کہے گی: تم میری طرف سے نہ آؤ کیونکہ یہ (میرے ذریعے) اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا تھا تو اس طرف سے اُسے نجات مل جائے گی پھر وہ فرشتہ اُس کے پاؤں کی طرف سے آئے گا تو اُس کا پاؤں یہ کہے گا: تم ہماری طرف سے نہ آؤ کیونکہ یہ ہمارے ذریعہ چل کر نمازوں کی طرف جاتا تھا پھر وہ فرشتہ اُس کے دائیں طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا: تم میری طرف سے نہ آؤ کیونکہ یہ اس ہاتھ کو صدقہ دینے کے لیے پھیلاتا تھا پھر وہ فرشتہ بائیں طرف سے آئے گا تو وہ بائیں ہاتھ یہ کہے گا: تم میری طرف سے نہ آؤ کیونکہ یہ مجھ کو اٹھاتا تھا (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں: میرے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہتھیار اٹھاتا تھا پھر وہ فرشتہ اُس کے سامنے کی طرف سے آئے گا اور اُس سے دریافت کرے گا: تم ان صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ اُس بندے کو ثابت رکھے گا لیکن اگر یہ بندہ شک کا شکار ہوا تو یہ کہے گا: مجھے نہیں معلوم! میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تھا۔ تو وہ فرشتہ اس پر ایسی ضرب لگائے گا جس کے

نتیجہ میں آنے والی چیخ کو وہاں موجود ہر چیز سن لے گی، صرف انسان اور جنات نہیں سنیں گے۔

6740 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلَهُ عَنْ آيَةٍ، فَلَمْ يُخْبِرْهُ، فَوَلَّى الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى) (البقرة: 159) فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: كَيْفَ إِذَا دَخَلْتَ قَبْرَكَ فَأَخْرَجَ لَكَ مَلَكًا أَسْوَدًا أَرْقَانِ، يَطَّانُ فِي أَشْعَارِهِمَا، وَيُخْفِرَانِ بَأَنْبِإِهِمَا، فَيَسْأَلَانِ عَنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيُّ رَجُلٍ أَنْتَ، إِنْ أَنْتَ ثَبَّتَ فِيهِ؟ وَذَكَرَ أَنَّ مَعَهُمَا مِزْرَبَةً لَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الثَّقَلَانِ - أَوْ قَالَ - أَهْلُ مَنَى مَا أَطَافُوهَا، كَيْفَ بِكَ إِذَا وُضِعَ جِسْرُ جَهَنَّمَ، فَأَيُّ رَجُلٍ أَنْتَ، إِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ عَلَيْهِ أَوْ سَلِمْتَ؟ وَكَيْفَ بِكَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا مَوْضِعُ قَدَمِكَ وَلَا ظِلٌّ إِلَّا ظِلُّ عَرْشِ الرَّحْمَنِ، فَأَيُّ رَجُلٍ أَنْتَ إِذَا اسْتَظَلَلْتَ بِهِ؟ أَذْهَبَ إِلَيْكَ، فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِنْ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ

*** محمد بن قیس بیان کرتے ہیں: ایک شخص حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے ایک آیت کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں نہیں بتایا، تو وہ شخص واپس چلا گیا اور جاتے ہوئے یہ آیت پڑھنے لگا:

”بے شک وہ لوگ جو اُس چیز کو چھپاتے ہیں جو واضح باتیں اور ہدایت ہم نے نازل کی ہے۔“

اس پر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اُس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا؟ جب تم اپنی قبر میں داخل ہو گے تو تمہارے سامنے دو سیاہ اور نیلے فرشتے آئیں گے، جن کے بال اتنے لمبے ہوں گے کہ اُن کے پاؤں کے نیچے آ رہے ہوں گے، وہ اپنی اطراف کے دانتوں کے ذریعہ زمین کھود رہے ہوں گے اور پھر وہ دونوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کریں گے، تو اُس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ اگر تم ایسے عالم میں ثابت قدم رہے (تو کیا رہ پاؤ گے؟) پھر حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے یہ بات ذکر کی کہ اُن کے پاس ایسے گرز ہوں گے کہ اگر تمام انسان اور جنات (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں:) تمام اہل منی اُن کے برخلاف اکٹھے ہو جائیں تو بھی اُس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے، اُس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا؟ جب جہنم کا پل لگایا جائے گا تو تمہاری کیا کیفیت ہوگی؟ کیا تم اُس سے گزر پاؤ گے یا بچ جاؤ گے؟ اور اُس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا؟ جب تمام روئے زمین پاؤں رکھنے کی جگہ جتنی ہوگی اور رحمن کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اُس وقت تمہارا کیا عالم ہوگا؟ کیا تم اُس سائے کو حاصل کر پاؤ گے؟ تم یہ لے کر چلے جاؤ، اُس اللہ کی قسم جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے! یہ تمام باتیں حق ہیں۔

6741 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: (فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا) (طہ: 124) قَالَ: يُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ

*** حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت کی:

”تو اُس کے لیے تنگ زندگی ہوگی۔“

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اس سے مراد یہ ہے کہ اُس کی قبر اُس کے لیے تنگ ہو جائے گی، یہاں تک کہ اُس کی

پسلیاں ایک دوسری میں پیوست ہو جائیں گی۔

6742 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا نَحْلًا لِيَنِي النَّجَّارِ فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رِجَالٍ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ مَا تَوَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُعَذِّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرِغًا مِنَ الْقَبْرِ فَأَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَتَعَوَّذُوا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ "

* * حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے تو آپ نے بنو نجار کے کچھ آدمیوں کی آوازیں سنیں جو زمانہ جاہلیت میں فوت ہو چکے تھے اور انہیں ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم (کے عذاب) سے پریشان ہوتے ہوئے باہر تشریف لے گئے آپ نے اپنے اصحاب کو یہ حکم دیا کہ وہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کریں۔

6743 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أُمِّ خَالِدِ بِنْتِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أُمِّهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَسْتَعِيدُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ * * سیدہ ام خالد بنت سعید بن العاص رضی اللہ عنہما اپنی والدہ کا یہ بیان نقل کرتی ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے ہوئے سنا ہے۔

6744 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: "إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا، فَإِذَا دَخَلَ الْمُؤْمِنُ قَبْرَهُ، وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ آتَاهُ مَلَكٌ شَدِيدُ الْإِنْتِهَارِ، فَقَالَ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: أَقُولُ إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُهُ، فَيَقُولُ لَهُ الْمَلَكُ: أَطَّلِعُ إِلَى مَقْعَدِكَ الَّذِي كَانَ لَكَ مِنَ النَّارِ فَقَدْ أَنْجَاكَ اللَّهُ مِنْهُ وَأَبْدَلَكَ مَكَانَهُ مَقْعَدَكَ الَّذِي تَرَى مِنَ الْجَنَّةِ، فَيَرَاهُمَا كِلَيْهِمَا فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: أَبَشِّرُ أَهْلِي؟ فَيَقَالُ لَهُ: اسْكُنْ فَهَذَا مَقْعَدُكَ أَبَدًا وَالْمُنَافِقُ إِذَا تَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ يُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ، فَيَقَالُ لَهُ: لَا دَرِيَّتَ، انْظُرْ مَقْعَدَكَ الَّذِي كَانَ لَكَ مِنَ الْجَنَّةِ قَدْ أَبْدَلَكَ اللَّهُ مَكَانَهُ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ "

* * حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: اس امت کو ان کی قبروں میں آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا جب مؤمن قبر میں داخل ہوگا اور اس کے ساتھی اُسے چھوڑ کر چلے جائیں گے تو ایک فرشتہ اُس کے پاس آئے گا جو سختی سے جھڑکنے والا ہوگا اور وہ یہ دریافت کرے گا: ان صاحب کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو مؤمن یہ کہے گا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور اُس کے بندے ہیں۔ تو فرشتہ کہے گا: تم اپنی اُس جگہ کو دیکھ لو جو جہنم میں تمہارے لیے ہونی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اُس سے نجات دی اور اُس کی جگہ تمہیں وہ جگہ دے دی ہے جو تم جنت میں دیکھ رہے ہو۔ تو وہ آدمی دونوں جگہوں کو دیکھ لے گا۔ مؤمن بندہ یہ کہے گا: کیا میں اپنے اہل خانہ کو خوشخبری دوں؟ تو اُس سے کہا جائے گا: تم آرام سے رہو! ہمیشہ کے لیے تمہارا یہی

ٹھکانہ ہے! جب منافق کے ساتھی اُسے چھوڑ کر چلے جائیں گے تو اُس سے دریافت کیا جائے گا: تم ان صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہ کہے گا: مجھے نہیں معلوم! میں وہی بات کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو اُس سے کہا جائے گا: تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے تم اپنے اُس ٹھکانہ کا جائزہ لو! جو تمہیں جنت میں ملنا تھا اب اللہ تعالیٰ نے اُس کی جگہ تمہیں جہنم کا ٹھکانہ دے دیا ہے۔

6745 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ عَرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَالْجَنَّةُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَالنَّارُ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَيْثُ تَبَعْتُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

* * * حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: جب آدمی انتقال کر جاتا ہے تو صبح و شام اُس کا ٹھکانہ اُس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اگر وہ اہل جنت میں سے ہو تو جنت کا (ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے) اور اگر وہ اہل جہنم میں سے ہو تو جہنم کا (ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے) اور یہ کہا جاتا ہے: یہ تمہارا ٹھکانہ ہے! قیامت کے دن تمہیں زندہ کر کے ادھر لے جایا جائے گا۔

6746 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ عَلَى إِيْمَانِهِ وَالْمُنَافِقُ عَلَى نِفَاقِهِ

* * * حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: (قیامت کے دن) ہر بندہ کو اسی حالت پر زندہ کیا جائے گا جس پر وہ مرا تھا مؤمن کو اُس کے ایمان پر اور منافق کو اُس کی منافقت پر (زندہ کیا جائے گا)۔

6747 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَجِنَازَةٌ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ: اهْتَزَّ لَهَا عَرْشُ الرَّحْمَنِ

6747- صحیح البخاری - کتاب المناقب، باب مناقب سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ - حدیث: 3615، صحیح مسلم - کتاب فضائل الصحابة رضی اللہ تعالیٰ عنہم، باب من فضائل سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ - حدیث: 4616، صحیح ابن حبان - کتاب إخباره صلى الله عليه وسلم عن مناقب الصحابة، ذكر استبشار العرش وارتياحه لوفاة سعد بن معاذ - حدیث: 7139، المستدرک علی الصحیحین للحاکم - کتاب معرفة الصحابة رضی اللہ عنہم، ذکر مناقب سعد بن معاذ بن النعمان بن امرء القیس بن، حدیث: 4880، سنن ابن ماجہ - المقدمة، باب فی فضائل اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم - فضل سعد بن معاذ، حدیث: 156، سنن سعید بن منصور - کتاب الجهاد، باب جامع الشهادة - حدیث: 2772، مصنف ابن ابی شیبہ - کتاب الفضائل، ما ذکر فی سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ - حدیث: 31673، السنن الکبریٰ للنسائی - کتاب المناقب، مناقب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المهاجرین والانصار - سعد بن معاذ سید الاوس رضی اللہ عنہ، حدیث: 7955، مشکل الآثار للطحاوی - باب بیان مشکل ما روى عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ، حدیث: 3523، مسند احمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما، حدیث: 13892، مسند ابی یعلیٰ البوصلی - مسند جابر، حدیث: 1886، المعجم الکبیر للطبرانی - من اسبه زرارة، باب السین - باب: اهتز العرش لبوت سعد بن معاذ، حدیث: 5195

* * حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: میں نے نبی اکرم ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اُس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ آپ ﷺ کے سامنے موجود تھا، (آپ نے فرمایا):
”اس کے لیے رحمن کا عرش جھوم اٹھا ہے۔“

6748 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، وَسَمِعْتُ أَنَا هِشَامَ بْنَ حَسَّانَ يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَائَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَائَهُ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّنَا نَكْرَهُ الْمَوْتَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُؤْمِنَ كَشَفَ لَهُ عَمَّا يَسْرُهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَائَهُ

* * حسن بصری روایت کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے:

”جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اُس کی حاضری کو پسند کرتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو ناپسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اُس کی حاضری کو ناپسند کرتا ہے۔“

(راوی کہتے ہیں:) ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم سب موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی مؤمن کی روح قبض کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اُس کے لیے اُن چیزوں سے پردہ ہٹا دیتا ہے جو اُسے خوش کر دیں، تو ایسی صورت حال میں انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اُس کی حاضری کو پسند کرتا ہے۔

6749 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الشَّوْرَيْ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي عَطِيَّةَ الْوَادِعِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْنَا: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَائَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَائَهُ، وَالْمَوْتُ قَبْلَ لِقَاءِ اللَّهِ، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَكُمْ بِحَدِيثٍ لَمْ تَسْأَلُوهُ عَنْ آخِرِهِ وَسَأَحَدِيكُمْ عَنْ ذَلِكَ: إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ خَيْرًا قَبِضَ لَهُ مَلَكًا قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ فَسَدَّدَهُ وَيَسْرُهُ حَتَّى يَمُوتَ، وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا كَانَ، فَإِذَا حَضَرَ فَرَأَى ثَوَابَهُ مِنَ الْجَنَّةِ فَجَعَلَ يَتَهَوَّعُ نَفْسَهُ، وَدَّ أَنْهَا خَرَجَتْ، فَعِنْدَ ذَلِكَ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ فَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَائَهُ، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدٍ سُوءًا قَبِضَ لَهُ شَيْطَانًا قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ فَصَدَّهُ وَأَضَلَّهُ وَفَتَنَهُ حَتَّى يَمُوتَ شَرًّا مِمَّا كَانَ، وَيَقُولُ النَّاسُ مَاتَ فُلَانٌ وَهُوَ شَرٌّ مِمَّا كَانَ، فَإِذَا حَضَرَ فَرَأَى ثَوَابَهُ مِنَ النَّارِ جَعَلَ يَتَبَلَّعُ نَفْسَهُ وَدَّ أَنْهُ لَا يَخْرُجُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَرِهَ اللَّهُ لِقَائَهُ

* * ابو عطیہ وادعی بیان کرتے ہیں: میں اور مسروق سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے، ہم نے عرض کی:

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اُس کی حاضری کو پسند کرتا ہے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اُس کی حاضری کو ناپسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے تو موت آتی ہے۔

تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ابو عبد الرحمن پر رحم کرے! انہوں نے تمہیں ایک حدیث بیان کی ہے، تمہیں اُس کے

بارے میں اب کسی اور سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، میں تمہیں اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں! جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے بارے میں بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اُس کے مرنے سے ایک سال پہلے اُس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اُس کے مرنے تک اُسے سیدھا راستہ بھاتا ہے اور اُسے آسانی فراہم کرتا ہے پھر وہ بندہ بہترین حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ جب اُس کا آخری وقت قریب آتا ہے تو وہ جنت میں ملنے والا اجر و ثواب دیکھتا ہے تو اُس کا نفس اُس کا مشتاق ہوتا ہے اور اُس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ (دنیا سے) رخصت ہو جائے ایسی صورت حال میں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اُس کی حاضری کو پسند کرتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بُرے بندہ کے بارے میں ارادہ کرتا ہے تو اُس کے مرنے سے ایک سال پہلے ایک شیطان اُس پر مسلط کر دیتا ہے جو اُسے (نیکی کے کاموں سے) روکتا ہے اُسے گمراہ کرتا ہے اُسے آزمائش کا شکار کرتا ہے یہاں تک کہ وہ شخص بدترین حالت میں انتقال کرتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں: فلاں شخص کا انتقال ہو گیا حالانکہ وہ شخص بدترین حالت میں ہوتا ہے جب اُس کا آخری وقت قریب آتا ہے تو اُسے جہنم میں ملنے والا بدلہ دکھایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں اُس کا نفس گھبرا جاتا ہے اور وہ اس بات کا خواہشمند ہوتا ہے کہ اُس کی جان نہ نکلے ایسی صورت حال میں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کو پسند نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ بھی اُس کی حاضری کو پسند نہیں کرتا۔

6750 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: قَالَ عَلِيُّ: حَرَامٌ عَلَى نَفْسٍ أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى

الْجَنَّةِ أَمْ إِلَى النَّارِ

* * حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: نفس کے لیے یہ بات حرام ہے کہ وہ اُس وقت تک (جسم سے نکلے) جب تک اُس

یہ پتا نہیں چل جاتا کہ اُس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم ہے؟

6751 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ يُونُسَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّهُ سَيَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ بَعْدِكُمْ يُكْذِبُونَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ،

وَيُكْذِبُونَ بِالرَّحْمَنِ، وَيُكْذِبُونَ بِالذَّجَالِ، وَيُكْذِبُونَ بِالْحَوْضِ، وَيُكْذِبُونَ بِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ

* * حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے:

تمہارے بعد عنقریب ایسے لوگ سامنے آئیں گے جو قبر کے عذاب کو جھوٹا قرار دیں گے، رحمن کو جھٹلائیں گے، دجال کو جھٹلائیں گے

اور حوض کوثر کو جھٹلائیں گے (یعنی ان سب باتوں کا انکار کریں گے) اور وہ ان لوگوں کو جھٹلائیں گے جنہیں جہنم سے نکال دیا

جائے گا۔

6752 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ عَمْرِو بْنِ شَرْحِبِيلَ قَالَ: "مَاتَ رَجُلٌ

فَلَمَّا أُدْخِلَ قَبْرَهُ أَتَتْهُ الْمَلَائِكَةُ فَقَالُوا: إِنَّا جَالِدُوكَ مِائَةَ جَلْدَةٍ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ قَالَ: فَذَكَرَ صَلَاتَهُ وَصِيَامَهُ

وَجِهَادَهُ قَالَ: فَخَفَّفُوا عَنْهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى عَشْرَةٍ، ثُمَّ سَأَلَهُمْ حَتَّى خَفَّفُوا عَنْهُ حَتَّى آتَى إِلَى وَاحِدَةٍ فَقَالُوا إِنَّا

جَالِدُوكَ جَلْدَةً وَاحِدَةً لَا بُدَّ مِنْهَا فَجَلَدُوهُ جَلْدَةً اضْطَرَمَّ قَبْرُهُ نَهَارًا، وَغُشِيَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ: فِيْمَ

جَلَدُونِي هَذِهِ الْجِلْدَةَ! قَالُوا: إِنَّكَ بُلْتِ يَوْمًا ثُمَّ صَلَّيْتَ وَلَمْ تَتَوَضَّأْ، وَسَمِعْتَ رَجُلًا يَسْتَعِيْثُ مَظْلُومًا فَلَمْ تَعْنَهُ

* * عمرو بن شریل بیان کرتے ہیں: ایک شخص کا انتقال ہو گیا جب اُسے اُس کی قبر میں اتارا گیا تو فرشتے آئے انہوں نے دریافت کیا: ہم تمہیں اللہ کے عذاب میں سے ایک سو کوڑے لگائیں گے تو وہ شخص اپنی نماز روزے اور جہاد کا ذکر کرے گا تو فرشتے اُس میں تخفیف کرتے جائیں گے یہاں تک کہ دس کوڑے رہ جائیں گے وہ شخص پھر ان فرشتوں سے درخواست کرے گا تو وہ فرشتے اور تخفیف کر دیں گے یہاں تک کہ ایک کوزا رہ جائے گا پھر فرشتے یہ کہیں گے کہ اب ہم تمہیں ایک کوزا تو ضرور لگائیں گے اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو وہ فرشتے جب اُسے ایک کوزا لگائیں گے تو اُس کی قبر دن کے وقت میں تاریک ہو جائے گی اور اُس پر نئی طاری ہو جائے گی جب اُسے ہوش آئے گا تو وہ دریافت کرے گا: ان لوگوں نے یہ کوزا مجھے کیوں لگایا تھا؟ وہ فرشتے جواب دیں گے: ایک دن تم نے پیشاب کرنے کے بعد نماز ادا کر لی تھی اور وضو نہیں کیا تھا اور تم نے ایک شخص کو ظلم کے خلاف مدد مانگتے ہوئے سنا تھا اور تم نے اُس کی مدد نہیں کی تھی۔

6753 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَنْ قَتَادَةَ أَيْضًا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ وَهُوَ عَلَى بَعْلَةٍ فَحَادَثَ بِهِ، فَقَالَ: حَادَثٌ وَحَقٌّ لَهَا، إِنَّ صَاحِبِي هَذَيْنِ الْقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ مِنْ غَيْرِ كَبِيرٍ وَبَلَاءٍ، أَمَّا هَذَا لِأَحَدِهِمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرُ مِنْ الْبَوْلِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَأْكُلُ لَحْمَ النَّاسِ ثُمَّ كَسَرَ حَبِيْذَةً مِنْ نَخْلِ فَعَرَسَ عَلَى كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً، فَقِيلَ لَهُ: مَا يَنْفَعُهُمَا هَذَا؟ فَقَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا دَامَا رَطْبَيْنِ

* * طاؤس اور قتادہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا آپ اُس وقت نجر پر سوار تھے وہ بے چین ہوا نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: یہ بے چین ہوا ہے اور بالکل ٹھیک ہوا ہے کیونکہ ان دو قبر والے لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے یا آزمائش کی وجہ سے نہیں ہو رہا ان میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا لوگوں کا گوشت کھاتا تھا (یعنی نصیب کرتا تھا)۔ پھر نبی اکرم ﷺ نے کھجور کی ایک شاخ لی اور انہیں ان میں سے ہر ایک کی قبر پر گاڑ دیا۔ آپ ﷺ کی خدمت میں عرض کی گئی: کیا اس کا ان دونوں کو فائدہ ہوگا؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ہو سکتا ہے جب تک یہ ٹہنیاں تر رہتی ہیں تب تک ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔

6754 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: هَذَا قَبْرُ فُلَانٍ، وَهَذَا قَبْرُ فُلَانٍ، وَهُمَا يُعَذَّبَانِ فِي غَيْرِ كَبِيرٍ وَبَلَاءٍ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَتَأَذَى بِبَوْلِهِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَهْمُرُ النَّاسَ ثُمَّ أَخَذَ جَرِيْذَةً رَطْبَةً فَكَسَرَهَا، فَوَضَعَ عَلَى هَذَا وَاحِدَةً وَعَلَى هَذَا وَاحِدَةً، وَقَالَ: عَسَى أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا الْعَذَابُ مَا دَامَا رَطْبَيْنِ، أَوْ رَطْبَيْنِ. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ مِثْلَهُ

* * طاؤس کے صاحبزادے بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ نے ارشاد

فرمایا: یہ فلاں کی قبر ہے اور یہ فلاں کی قبر ہے! انہیں (بظاہر) کسی بڑے گناہ یا آزمائش کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ان میں سے ایک شخص پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا لوگوں کی چغلی کیا کرتا تھا پھر نبی اکرم ﷺ نے ایک تر شاخ لی اسے توڑا اور ایک حصہ اس کی قبر پر رکھ دیا اور ایک حصہ دوسرے کی قبر پر رکھ دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا: جب تک یہ دونوں شاخیں تر رہیں گی ان دونوں کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔

یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

6755 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَوْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ

* * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما یا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ﷺ یہ پڑھا کرتے تھے:

”اے اللہ! میں قبر کے عذاب سے اور جہنم کے عذاب سے اور جہنم کی آزمائش سے اور دجال کی آزمائش سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

6756 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ طَوْقِ رَجُلٍ مِنَ الْعَتِيقِ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْمُهَلَّبِ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ سُلَيْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْحَمَّامِ، فَكَانَ سُلَيْمَانُ فِي الْبَيْتِ الدَّاحِلِ وَكُنْتُ أَنَا وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْبَيْتِ الثَّانِي لَيْسَ مَعَنَا آخِرُ قَالَ: فَجَعَلَ يَسْأَلُنِي عَنْ شَجَاعَتِي وَأُخْبِرُهُ، فَقَالَ لِي عُمَرُ: يَا أَبَا خَالِدٍ، إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا، أَمَا أَحَدُهُمَا فِيسِرٌ وَأَمَا الْآخِرُ فَعَلَانِيَّةٌ أَمَا السِّرْفَانِي كُنْتُ نَزَلْتُ فِي قَبْرِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ حِينَ دَلَّوهُ فِي قَبْرِهِ، فَلَمَّا أَخَذْنَاهُ مِنْ سَرِيرِهِ فَوَضَعْنَاهُ عَلَى أَيْدِينَا اضْطَرَبَ فِي أَكْفَانِهِ فَوَضَعْنَاهُ فِي قَبْرِهِ، فَقَالَ ابْنُهُ: أَبِي حَتَّى أَبِي حَتَّى، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَاكَ لَيْسَ بِحَتَّى، وَلَكِنَّهُمْ يَلْقَوْنَ هَذَا فِي قُبُورِهِمْ، وَأَمَا الْعَلَانِيَّةُ فَإِنَّ هَذَا اسْتَعْمَلَكَ عَلَى الْعِرَاقِ فَاتَّقِ اللَّهَ فِيهِمْ فَإِنَّهُمْ قَدْ لَقُوا مِنَ الْحَجَّاجِ بَلَاءً، وَلَقُوا مِنْ قُتَيْبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ

* * یزید بن مہلب بیان کرتے ہیں: وہ (اس وقت کا خلیفہ) سلیمان اور عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ ایک حمام میں موجود تھے سلیمان اندر والے کمرے میں تھا میں اور عمر بن عبدالعزیز دوسرے کمرے میں تھا ہمارے ساتھ کوئی اور شخص نہیں تھا تو انہوں نے مجھ سے میری بہادری کے بارے میں دریافت کرنا شروع کیا میں نے انہیں بتانا شروع کیا پھر عمر بن عبدالعزیز نے مجھ سے کہا: اے ابو خالد! میں آپ کو ایک بات بیان کرنے لگا ہوں جس میں سے ایک تو پوشیدہ رخصتی ہے اور دوسری ظاہر کر سکتے ہیں جہاں تک پوشیدہ بات کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ میں ولید بن عبدالملک کی قبر میں اترتا تھا جب اسے قبر میں اتارا گیا تھا جب ہم نے اس کی چارپائی کو پکڑا اور اسے اپنے ہاتھوں پر رکھا تو وہ اپنے کفن کے اندر مضطرب ہوا ہم نے اسے اس کی قبر میں اتار دیا اس کے بیٹے نے کہا: میرا باپ زندہ ہے! میرا باپ زندہ ہے! تو میں نے کہا: تمہارا باپ زندہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو قبروں میں اس طرح کی

صورتِ حال کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ظاہر کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ (یعنی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک) تمہیں عراق کا گورنر مقرر کرتا ہے تو تم ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان لوگوں کو پہلے ہی حجاج کی طرف سے بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور تمہیں بن مسلم کی طرف سے بھی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔

6757 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا يُفْتَنُ رَجُلَانِ مُؤْمِنٌ وَمُنَافِقٌ، أَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيُفْتَنُ سَبْعًا، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيُفْتَنُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَلَا يُسَالُ عَنْ مُحَمَّدٍ وَلَا يَعْرِفُهُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَنَا أَقُولُ: قَدْ قِيلَ لِي ذَلِكَ، فَمَا زَايَنَا مِثْلَ إِنْسَانٍ أَغْفَلَ هَالِكُهُ سَبْعًا أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْهُ

* * * عبد اللہ بن عمر بیان کرتے ہیں: دونوں طرح کے آدمیوں کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مومن کو بھی اور منافق کو بھی، جہاں تک مومن کا تعلق ہے تو اسے سات دن تک آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور منافق کو چالیس دن تک آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جہاں تک کافر شخص کا تعلق ہے تو اس سے نبی اکرم ﷺ کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا اور وہ نبی اکرم ﷺ کو پہچانتا بھی نہیں ہے۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں: میں یہ کہتا ہوں: اس بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی اپنے ہلاکت کا شکار کرنے والے کو سات دن تک خود سے دور رکھے یوں کہ اس کی طرف سے صدقہ کیا گیا ہو۔

6758 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عُيَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَذَكَرَ مُنْكَرًا وَنَكِيرًا: "يَخْرُجَانِ فِي أَفْوَاهِهِمَا وَأَعْيُنِهِمَا النَّارُ، وَعَلَيْهِمَا الْمُسُوحُ، وَتَرْجُفُ بِهِ الْأَرْضُ، حَتَّى إِذَا حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَقْلِهِ فَلَمْ يَعْقِلْ شَيْئًا بِعَقْلِهِ إِلَّا مَا أَلْقَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ فَقَالَا: مَنْ رَبُّكَ؟ فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَيَقُولَانِ لَهُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا أَفْلَحْتَ، وَيَبْلُغُ مَا أَشْقَاكَ، صَدَقْتَ وَاللَّهِ، عَلَى ذَلِكَ عِشْتَ، وَعَلَى ذَلِكَ وَاللَّهِ تَمُوتُ، وَعَلَى ذَلِكَ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَيَبْلُغُ انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللَّهُ عَنْكَ مِنْ رَحْمَتِهِ، وَانْظُرْ إِلَى مَقْعَدِكَ مِنَ النَّارِ، ثُمَّ يُسَلَّبُ كَفَنَهُ فَيَبْدُلُ ثِيَابًا مِنْ نَارٍ، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، ثُمَّ يُفْتَحُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ كُؤُةٌ تَخْرُجُ عَلَيْهِ مِنْهَا حَرُّهَا وَرِيحُهَا وَنَسْتُهَا

* * * ابن جریج بیان کرتے ہیں: عبید بن عمیر نے منکر نکیر کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا: ان کے منہ اور آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی اور ان دونوں پر مسوح ہوگا، ان کے ذریعہ زمین کانپے گی یہاں تک کہ آدمی کی عقل رخصت ہو جائے گی اور آدمی کو اپنے عقل کے ذریعہ کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی، ماسوائے اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر القاء کر دے۔ دونوں فرشتے دریافت کریں گے: تمہارا پروردگار کون ہے؟ اس کے بعد راوی نے معمر کی نقل کردہ روایت کی مانند روایت نقل کی ہے۔

ابن جریج بیان کرتے ہیں: طاؤس کے صاحبزادے نے اپنے والد کا یہ بیان نقل کیا: وہ دونوں فرشتے اس سے کہیں گے: نہ تو تمہیں سمجھ ہے اور نہ ہی تم کامیاب ہوئے! تمہارا استیانس ہو! تم کتنے بد بخت ہو! تم نے سچ کہا ہے اللہ کی قسم! تم اسی حالت میں زندہ رہے اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں موت دی اور اسی حالت میں اگر اللہ نے چاہا تو تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا

تمہارا استیانس ہو! تم اس بات کا جائزہ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری رحمت کو تم سے کس طرح پھیر دیا ہے اور تم جہنم میں اپنے ٹھکانہ کو دیکھ لو پھر اس کا کفن اتار کر اسے جہنم کے کپڑوں میں تبدیل کر دیا جائے گا اور اس کے لیے قبر تنگی ہو جائے گی یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں پیوست ہو جائیں گی یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک کھڑکی کھول دی جائے گی جس میں سے جہنم کی گھری اس کی ہو اور اس کی بو اس بندے تک آئے گی۔

6759 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن معمر قال: قال أبو هريرة: "تأكل الأرض ابن آدم كله إلا عظم الذنب، ومنه يركب - أو قال - يوصل" قال: وقال: تُمطر الأرض مطراً يُنبث أجساد الناس حتى يصير جسداً بغير روح، ثم يُنفخ فيه الروح

* * * حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ذنب کی ہڈی کے علاوہ ابن آدم کے پورے جسم کو زمین کھالیتی ہے حصہ سے انسان کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا (راوی کو شک ہے شاید یہ الفاظ ہیں: دوبارہ ملایا جائے گا۔
راوی بیان کرتے ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ بھی فرمایا: بارش نازل ہوگی جو ان اجسام کو اگا دے گی یہاں تک کہ ایسے جسم ہوں گے جن میں روح نہیں ہوگی تو پھر ان میں روح پھونک دی جائے گی۔

6760 - احوال تابعین: عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: قال عبيد بن عمير: "ذلك منكر ونيكر يخوجان في افواههما واعينهما النار، وعليهما المسوح، وترجف به الارض حتى اذا حيل بينه وبين عقله فلم يعقل شيئاً بعقله إلا ما ألقى الله على لسانه، قال: من ربك؟ فيقول: الله، فما دينك؟ فيقول: الإسلام؛ فمن نبيك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: ما يدريك؟ هل رأيت؟ فيقول: لا، ولكن جاء بذلك كتاب الله فآمنت به وصدقت، فيقولان: صدقت، على ذلك والله عشت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعك إن شاء الله، انظر رحمك الله إلى ما صرف الله عنك من النار، وانظر إلى مقعدك من الجنة، ثم يسدل بكفيه ثياباً من ثياب الجنة، ويوسع عليه قبره مَدَّ بصره، ويفتح بينه وبين الجنة كوة يدخل عليه منها ريحها وروحها وبردها وطيبها، وأما المنافق فيضرب بالمزرية ضربة فيقع فيقولان له: من ربك؟ فيقول: الله، وما دينك؟ فيقول: الإسلام، ومن نبيك؟ فيقول: محمد، فيقولون: لم تقول ذلك هل رأيت؟ فيقول: لا والله ما أدرى"

* * * عبید بن عمیر فرماتے ہیں: وہ منکر اور نکیر ہوں گے جن کے منہ اور آنکھوں سے آگ نکل رہی ہوگی ان پر مسوح ہو گا زمین ان کے ذریعہ کانپے گی یہاں تک کہ وہ آدمی اور اس کی عقل کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گے اور آدمی کو محض اپنی عقل کی بنیاد پر کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی ماسوائے اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر جاری کر دے گا۔ وہ دونوں فرشتے دریافت کریں گے: تمہارا پروردگار کون ہے؟ بندہ کہے گا: اللہ تعالیٰ ہے وہ دریافت کریں گے: تمہارا دین کیا ہے؟ بندہ کہے گا: اسلام ہے وہ دریافت کریں گے: تمہارے نبی کون ہیں؟ بندہ جواب دے گا: حضرت محمد ﷺ ہیں۔ وہ دریافت کریں گے: تمہیں کیسے پتا چلا؟

کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ بندہ جواب دے گا: جی نہیں! لیکن میرے پاس اس بارے میں اللہ تعالیٰ کی کتاب آئی تھی تو میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ تو وہ دونوں فرشتے کہیں گے: تم نے سچ کہا ہے اللہ کی قسم! تم اسی عقیدہ پر زندہ رہے اسی عقیدہ پر تمہارا انتقال ہو اور اگر اللہ نے چاہا تو اسی عقیدہ پر تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تم اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا جائزہ لو! جو اس نے تم پر کی ہے اور تم سے جہنم کو پھیر دیا ہے اور تم جنت میں اپنے ٹھکانہ کو دیکھ لو پھر اس کے کفن کو جنت کے کپڑوں میں تبدیل کر دیا جائے گا اس کی قبر کو تاحد زکاہ کشادہ کر دیا جائے گا اس کے اور جنت کے درمیان ایک کھڑکی کھول دی جائے گی جس میں سے جنت کی ہوا اس کی ٹھنڈک اور اس کی خوشبو اس بندہ تک آئے گی۔

جہاں تک منافق کا تعلق ہے تو اسے گرز کے ذریعہ مارا جائے گا، وہ بیٹھے گا تو فرشتے اس سے دریافت کریں گے: تمہارا پروردگار کون ہے؟ وہ جواب دے گا: اللہ تعالیٰ! فرشتے دریافت کریں گے: تمہارا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے گا: اسلام! فرشتے دریافت کرے گا: تمہارے نبی کون ہیں؟ وہ جواب دے گا: حضرت محمد ﷺ! پھر فرشتے دریافت کریں گے: تم یہ بات کیسے کہتے ہو! کیا تم نے انہیں دیکھا ہے؟ تو وہ جواب دے گا: اللہ کی قسم! میں نہیں جانتا۔

بَابُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ

باب: بیمار کی عیادت کرنا

6761 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَائِدٌ لِمَرِيضٍ فِي خُرْفَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَرْجِعَ

* * ابو قلابہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا ہے:

”بیمار کی عیادت کرنے والا شخص واپس آنے تک جنت کے باغات میں سے (پھل) چننا رہتا ہے۔“

6762 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُوْدُوا الْمَرِيضَ، وَاتَّبِعُوا الْجَنَائِزَ فَإِنَّهُنَّ تُذَكِّرُنَ الْآخِرَةَ

* * قتادہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے:

”بیمار کی عیادت کرو، جنازہ کے ساتھ جاؤ، کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔“

6763 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ

6761- صحیح مسلم - کتاب البر والصلوة والأدب، باب فضل عیادة المریض - حدیث: 4764، مصنف ابن ابی شیبہ -

کتاب الجنائز، ما جاء فی ثواب عیادة المریض - حدیث: 10647، السنن الکبریٰ للبیہقی - کتاب الجنائز، باب فضل

العیادة - حدیث: 6195، مسند احمد بن حنبل - مسند الانصار، ومن حدیث ثوبان - حدیث: 21824، مسند الطیالسی -

و ثوبان رحمہ اللہ، حدیث: 1069، المعجم الکبیر للطبرانی - باب الثاء، باب من اسبه ثعلبة - ثوبان مولی رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث: 1430

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَجِيبُوا الدَّاعِيَ، وَعُودُوا الْمَرِيضَ، وَفُكُّوا الْعَانِي
 ** حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:
 ”دعوت کو قبول کرو، بیمار کی عیادت کرو اور قیدی کو چھڑاؤ۔“

6764 - آثار صحابہ: عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن بسطام بن مسلم، عن زبناح العنبري، عن بكر بن عبد الله المزني، أن أنس بن مالك، قال له: يا أبا عبد الله، إنا كنا نتحدث أن عائذ المريضة يخوض في الرحمة فإن سأل بالمريضة قائما أجمته الرحمة، وإن قعد عمرته

** بکر بن عبد اللہ مزنی بیان کرتے ہیں: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا: اے ابو عبد اللہ! ہم تو یہ کرتے ہیں کہ بیمار کی عیادت کرنے والا شخص رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے اور اگر وہ کھڑا ہو کر بیمار کی مزاج پرسی کرتا ہے تو رحمت اُس کے منہ میں ڈال دی جاتی ہے اور اگر وہ بیٹھ جائے تو وہ اُس میں غوطہ لگاتا ہے۔

6765 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن معمر، عن أبان، عن أنس، أو الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا، وشيع جنازة، ووفق له صيام ذلك اليوم أمسى وقد وجبت له الجنة قال: وقال الحسن: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيكم عاد اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا قال: أيكم تصدق اليوم بشيء من ماله؟ قال أبو بكر: أنا قال: فأيتكم شيع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا قال: فأيتكم أصبح صائما؟ قال أبو بكر: أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجبت يعني الجنة

** حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یا شاید حسن بصری کے حوالے سے یہ بات منقول ہے: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”جو شخص (ایک ہی دن میں) بیمار کی عیادت بھی کرے اور جنازہ کے ساتھ بھی جائے اور اُس نے اُس دن مکمل روزہ رکھا ہو تو ایسے شخص پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔“

حسن بصری بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے دریافت کیا: آج تم میں سے کس نے بیمار کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: میں نے! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا: آج اپنے مال میں سے کسی نے کوئی چیز صدقہ کی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: میں نے! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا: تم میں سے کون شخص آج جنازہ کے ساتھ گیا تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: میں! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا: تم میں سے کس شخص نے آج روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: میں! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے واجب کر لی ہے۔ (راوی کہتے ہیں: یعنی جنت واجب کر لی ہے)۔

6766 - حدیث نبوی: عبد الرزاق، عن محمد بن راشد قال: أخبرني مكحول، أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنت يا رسول الله؟ قال: بخير من رجل لم يصم اليوم ولم يعد مريضا فقال الرجل:

وَمَا عِيَادَةُ الْمَرِيضِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: كَصِيَامٍ

* * * مکھول بیان کرتے ہیں: ایک شخص نے نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں عرض کی: یا رسول اللہ! آپ کا کیا حال ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا: ایسے آدمی کی طرف سے بھلائی ہے جس نے ایک دن روزہ نہ رکھا ہو اور ایک دن بیمار کی عیادت نہ کی ہو ان صاحب نے عرض کی: یا رسول اللہ! بیمار کی عیادت کرنے والے کا کیا حکم ہے؟ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: روزہ رکھنے کی مانند ہے۔

6767 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ عَلِيَّ ابْنَهُ الْحَسَنَ وَعِنْدَهُ الْأَشْعَرِيُّ، فَقَالَ: مَا غَدَا بِكَ أَيُّهَا الشَّيْخُ؟ قَالَ: سَمِعْتُ بَوَّاجِعَ ابْنِ أَخِي فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعُوذَهُ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْنَعُنَا مَا فِي أَنْفُسِنَا أَنْ نُحَدِّثَكَ مَا سَمِعْنَا: إِنَّهُ مَنْ عَادَ مَرِيضًا نَهَارًا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ عَادَهُ لَيْلًا صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ

* * * ابان نے ایک شخص کا یہ بیان نقل کیا ہے: حضرت علی بن ابی طالب نے اپنے صاحبزادے حضرت حسن بن علیؓ کے پاس تشریف لائے ان کے پاس حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ بھی تھے حضرت علی بن ابی طالب نے ان سے دریافت کیا: اے بزرگوار! آپ صبح کس کام کے سلسلہ میں آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: مجھے اپنے بھتیجے کی بیماری کا پتا چلا تو میں نے یہ پسند کیا کہ میں اس کی عیادت کروں۔ حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا: جو کچھ ہمارے من میں ہے وہ ہمیں اس بات سے نہیں روکتا ہے کہ ہم نے جو کچھ سن رکھا ہے اسے بیان کر دیں جو شخص دن کے وقت کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اور اگر کوئی شخص شام کے وقت کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں۔

6768 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَفْضَلُ الْعِيَادَةِ أَخْفَهَا

* * * طاؤس کے صاحبزادے اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: سب سے زیادہ فضیلت والی عیادت وہ ہے جو سب

سے مختصر ہو۔

6769 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ، أَصْدَقُ: أَنَّ عَمْرَوَ بْنَ حُرَيْثٍ، عَادَ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ فَلَقِيَ عَلِيًّا، فَقَالَ عَلِيٌّ لِعَمْرٍو: أَعَدَّتْ حُسَيْنًا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: عَلِيُّ مَا فِي النَّفْسِ؟ قَالَ: إِنَّكَ يَا أَبَا حَسَنِ لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُخْرِجَ مَا فِي النَّفْسِ قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَمْنَعْنِي نَصِيحَةً لَكَ، أَيُّمَا أَمْرٍ عَادَ مَرِيضًا وَكَلَّ بِهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّى مِثْلَهَا مِنَ الْعَدُوِّ، وَإِنْ جَلَسَ جَلَسَ فِي رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ

* * * ابن جریر نے ایک راوی کا یہ بیان نقل کیا ہے: عمرو بن حرث حضرت امام حسین بن علیؓ کی عیادت کرنے کے لیے گئے ان کی ملاقات حضرت علی بن ابی طالب سے ہوئی حضرت علی بن ابی طالب نے عمرو سے دریافت کیا: کیا تم نے حسین کی عیادت کی ہے؟ انہوں

نے عرض کی: جی ہاں! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا: تمہارے من میں کیا ہے؟ اُس نے عرض کی: اے ابوالحسن! آپ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے کہ جو کچھ آپ کے من میں ہے آپ اُسے ظاہر کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تمہاری نیرنوا میں رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ جو بھی شخص کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتوں کو اُس کے لیے متعین کر دیا جاتا ہے جو اگلے دن تک اُس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں اور اگر کوئی شخص بیٹھ کر (بیمار کی) مزاج پرسی کرتا ہے تو وہ شخص جنت کے باغ میں اور اللہ کی رحمت میں بیٹھتا ہے۔

6770 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ يَقُولُ: مَا

يَلْقَى أَهْلُ الْمَرِيضِ مِنْ عِيَادَةِ نَوَكِي الْقُرَّاءِ أَشَدَّ مِمَّا يَلْقَوْنَ مِنْ مَرِيضِهِمْ

*** امام شعبی فرماتے ہیں: مریض کے اہل خانہ میں سے جو شخص بھی عیادت کرنے والے شخص سے ملتا ہے تو وہ اس سے زیادہ شدید ہوتی ہے، جتنی صورت حال انہیں اُن کے بیمار کی طرف سے پیش آتی ہے۔

بَابُ الْعَرَقِ لِلْمَرِيضِ

باب: بیمار شخص کو پسینہ آنا

6771 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْرِقُ

فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ

*** قتادہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس بیماری کے دوران انتقال ہوا اُس میں آپ کو پسینہ آیا کرتا تھا۔

6772 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عَلْقَمَةَ قَالَ: كَانَ عِنْدَ أَخِ

لَهُ وَهُوَ يَسُوقُ فَجَعَلَ يَرُشُّ جَبِينَهُ، فَضَحِكَ عَلْقَمَةُ، فَقَالَ لَهُ يَزِيدُ بْنُ أَوْسٍ: مَا يَضْحَكُكَ يَا أَبَا سَبَلٍ؟ قَالَ:

إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ تَخْرُجُ رَشْحًا، وَإِنَّ نَفْسَ الْكَافِرِ تَخْرُجُ مِنْ شِدْقِهِ

كَمَا تَخْرُجُ نَفْسُ الْحِمَارِ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيَسْبَدُّ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِالْحَسَنَةِ قَدْ عَمِلَهَا لِتَكُونَ بِهَا، وَإِنَّ الْكَافِرَ

لَيَهْوَنُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ بِالْحَسَنَةِ قَدْ عَمِلَهَا لِتَكُونَ بِهَا

*** علقمہ بیان کرتے ہیں: اُن کا ایک بھائی تھا وہ قریب المرگ تھا اُس کی پیشانی پر پسینہ آیا تو علقمہ ہنس پڑے تو

اس پر یزید نے اُن سے کہا: اے ابو سبل! آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ انہوں نے کہا: میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو

بیان کرتے ہوئے سنا ہے: مؤمن کی جان پسینہ نکلنے کے عالم میں نکلتی ہے اور کافر کی جان اُس کی باچھوں میں سے یوں نکلتی ہے

جس طرح گدھے کا سانس نکلتا ہے اور مؤمن کی موت کے وقت اُس پر اُس کی بُرائی کی وجہ سے سختی کی جاتی ہے جس کا اُس نے

ارتکاب کیا تھا تاکہ یہ سختی اُس کا بدلہ بن جائے اور کافر شخص کی موت اُس کے لیے اُس اچھائی کی وجہ سے آسان ہو جاتی ہے جو اُس

نے کی تھی تاکہ یہ اُس کا بدلہ ہو جائے۔

6773 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ يَمْرُضُ الرَّجُلُ الَّذِي كُنَّا نَرَى أَنَّهُ صَالِحٌ فَيُشَدُّ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَيَمْرُضُ الرَّجُلُ الَّذِي مَا كُنَّا نَرَى فِيهِ خَيْرًا فَيَهْوَنُ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَبْقَى مِنْ ذُنُوبِهِ شَيْءٌ فَيُشَدُّ عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِأَنَّهُ يَلْقَى اللَّهَ لَا ذَنْبَ لَهُ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ تَبَقَى مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ فَيَهْوَنُ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ يَلْقَى اللَّهَ وَلَا حَسَنَةَ لَهُ قَالَ الثَّوْرِيُّ: بَلَّغْنَا أَنَّ عِلَاجَ مَلِكِ الْمَوْتِ أَشَدُّ مِنْ أَلْفِ ضَرْبَةٍ بِالسَّيْفِ

* * * قنادہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم ﷺ کے اصحاب نے عرض کی: یا رسول اللہ! ایک آدمی بیمار ہوتا ہے جس کے بارے میں ہماری یہ رائے ہے کہ وہ نیک ہے، لیکن اُس پر موت شدید ہوتی ہے، اور ایک آدمی بیمار ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بھلائی نہیں ہے، لیکن اُس کی موت اُس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: آدمی کے گناہوں میں سے کوئی چیز باقی رہ گئی ہوتی ہے، تو موت کے وقت اُس پر سختی کی جاتی ہے تاکہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اُس کا کوئی گناہ نہ ہو، اور منافق شخص کی نیکیوں میں سے کوئی نیکی باقی رہ گئی ہوتی ہے، تو اُس کے لیے موت کے وقت آسانی کر دی جاتی ہے، تاکہ جب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اُس کے پاس کوئی نیکی نہ ہو۔

سفیان ثوری بیان کرتے ہیں: ہم تک یہ روایت پہنچی ہے: موت کے فرشتے کا سامنے آنا، تلوار کی ایک ہزار ضربوں سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔

بَابُ تَقْبِيلِ الْمَيِّتِ

باب: میت کو بوسہ دینا

6774 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَتَى الْبَيْتَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ بُرْدَ جَبْرَةَ وَكَانَ مُسَجِّى عَلَيْهِ بِهِ، فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ وَقَبَّلَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَيْنِ، لَقَدْ مِتَّ الْمَوْتَةَ الَّتِي لَا مَوْتَ بَعْدَهَا

* * * ابوسلمہ بن عبدالرحمن بیان کرتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ حدیث بیان کی ہے: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اُس گھر میں آئے جہاں نبی اکرم ﷺ کا وصال ہوا تھا اور یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہوا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم ﷺ کے چہرے سے یمنی چادر ہٹائی، آپ کو اُس چادر کے ذریعہ ڈھانپ دیا گیا تھا، انہوں نے نبی اکرم ﷺ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا، پھر وہ نبی اکرم ﷺ پر جھک گئے اور آپ کو بوسہ دیا، پھر وہ بولے: اللہ کی

قسم! اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا! آپ اُس والی موت کا سامنا کر چکے ہیں، جس کے بعد کوئی اور موت نہیں آئے گی۔

6775 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيِّتٌ فَأَكَبَتْ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، ثُمَّ بَكَى حَتَّى رَأَيْتُ الدَّمُوعَ تَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ "

* * سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ﷺ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے جن کا انتقال ہو چکا تھا، نبی اکرم ﷺ ان پر جھکے، آپ نے انہیں بوسہ دیا، پھر آپ روئے یہاں تک کہ آپ کے رخساروں پر آپ کے آنسو بہنے لگے۔

بَابُ مَوْتِ الْفُجَاءَةِ

باب: اچانک موت

6776 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَوْتُ الْفُجَاءَةِ تَخْفِيفٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ، وَأَسْفٌ عَلَى الْكُفَّارِ

* * حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: اچانک موت مؤمن کے لیے تخفیف ہوتی ہے اور کافر شخص کے لیے افسوس کا باعث ہوتی ہے۔

6777 - اقوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَمُوتُ عَلَى سَكَلٍ

حَالٍ

* * حسن بصری فرماتے ہیں: مؤمن ہر قسم کی حالت میں انتقال کر جاتا ہے۔

6778 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ يَبُولُ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: " إِنِّي لَأَجِدُ فِي ظَهْرِي شَيْئًا فَلَمْ يَلْبَسْ أَنْ مَاتَ، فَنَاحَتْهُ الْجِنُّ فَقَالُوا: (البحر السريع)

قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْرَجِ ... سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ

وَرَمَيْنَاهُ بِسَهْمَيْنِ ... فَلَمْ نُخْطِءْ فُؤَادَهُ

* * قتادہ بیان کرتے ہیں: حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگے، پھر وہ واپس آئے اور بولے:

مجھے اپنی پشت پر کوئی چیز محسوس ہو رہی ہے، پھر کچھ ہی عرصہ بعد ان کا انتقال ہو گیا، تو ایک جن نے ان کا لوحہ ان الفاظ میں کہا: ”ہم نے خزرج قبیلہ کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا ہے، ہم نے انہیں دو تیر مارے ہیں، جو سیدھے

ان کے دل پر لگے ہیں۔

6779 - آثارِ تابعہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، يَذْكُرُ أَنَّ حُدَيْفَةَ،

كَانَ يَشَدُّ فِي مَوْتِ الْفَجَائَةِ، أَخَذَهُ عَلَى سَخَطٍ

* * * یحییٰ بن ابوکثیر بیان کرتے ہیں: حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ اچانک موت کو بہت شدید سمجھتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ناراضگی

کی گرفت ہے۔

6780 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ

الْحَوَارِيِّ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَفْتِرَابِ السَّاعَةِ إِذَا كَثُرَ الْفَالِجُ

وَمَوْتُ الْفَجَائَةِ

قَالَ: وَأَخْرَجَنِي حَبِيبٌ، عَنِ الْحَوَارِيِّ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

لَيَفْشُونَ الْفَالِجَ النَّاسَ حَتَّى يُظُنُّ أَنَّه طَاعُونَ

* * * حواری بن زیاد بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

”قیامت کے قریب کی نشانیوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ فالج زیادہ ہو جائے گا اور اچانک موت زیادہ ہوگی۔“

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے:

”فالج اتنا زیادہ لوگوں میں پھیل جائے گا کہ یوں لگنا لیا جائے گا کہ شاید یہ طاعون کی طرح ہے۔“

6781 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَوْتُ الْفَجَائَةِ تَخْفِيفٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ

وَإِخْذَةٌ عَلَى الْكُفَّارِ

* * * سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے:

”اچانک موت مؤمن کے لیے سہولت ہوتی ہے اور کافروں کے لیے ناراضگی کی گرفت ہوتی ہے۔“

بَابُ عُمَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُمَرِ بَعْضِ أَصْحَابِهِ

باب: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اور آپ کے بعض اصحاب کی عمر مبارک کا تذکرہ

6782 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ: تُوْفِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَأُنزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ مِنْ ذَلِكَ بِمَكَّةَ عَشْرًا وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا. عَبْدُ

الرَّزَّاقِ،

* * * سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی عمر شریف 63 برس تھی اس میں

سے 10 سال تک مکہ مکرمہ میں آپ پر قرآن نازل ہوا اور 10 سال تک مدینہ منورہ میں نازل ہوا۔

6783 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ مِثْلَهُ، قَالَ: وَمَاتَ أَبُو بَكْرٍ مِثْلَهُ

*** سعید بن مسیب کے حوالے سے بھی اس کی مانند منقول ہے وہ بیان کرتے ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کا انتقال بھی اتنی ہی عمر میں ہوا تھا۔

6784 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا، وَتُوفِّيَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ

*** حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول شروع ہوا تو آپ کی عمر 40 برس تھی آپ 13 برس مکہ میں مقیم رہے اور 10 سال مدینہ میں مقیم رہے آپ کا وصال 63 برس کی عمر میں ہوا۔

6785 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: وَكَلَّ مِيكَائِيلُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ ثَلَاثَ سِنِينَ يُعَلِّمُ أَسْبَابَ النَّبُوَّةِ، فَلَمَّا كَانَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَأَرْبَعِينَ وَكَلَّ بِهِ جِبْرَائِيلُ فَنَزَلَ عَلَيْهِ بِالْقُرْآنِ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، ثُمَّ تُوُفِّيَ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَتُوفِّيَ عُمَرُ وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ

*** امام شعبی بیان کرتے ہیں: حضرت میکائیل علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلق کیا گیا، اُس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو نبوت کے اسباق کی تعلیم دی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 43 برس ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ سے متعلق کیا گیا وہ مکہ میں 10 سال تک قرآن لے کر آپ پر نازل ہوتے رہے اور مدینہ منورہ میں بھی 10 سال تک نازل ہوتے رہے پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا انتقال ہوا تھا تو اُس وقت اُن کی عمر بھی 63 برس تھی۔

6786 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، وَلَا بِالْجَعْدِ وَلَا بِالسَّبِطِ، وَلَا بِالْأَدَمِ وَلَا بِالْأَبْيَضِ، أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ، وَأَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرًا، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرًا، وَقَبِضَ وَهُوَ ابْنُ سِتِّينَ سَنَةً، وَلَمْ يَكُنْ فِي رَأْسِهِ وَلَا فِي لِحْتِهِ عَشْرُونَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ

*** حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بہت زیادہ لمبے تھے اور نہ ہی بالکل چھوٹے تھے آپ کے بال نہ تو بالکل گھٹکھریا لے تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی بالکل گندمی تھے اور نہ ہی بالکل سفید تھے آپ پر وحی اُس وقت نازل ہونا شروع ہوئی جب آپ کی عمر 40 برس تھی آپ 10 سال مکہ میں مقیم رہے اور 10 سال مدینہ میں

مقیم رہے جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر 60 سال تھی اس وقت آپ کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں بیس سفید بال بھی نہیں تھے۔

6787 - احوال تابعین: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ: كَمْ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: عَشْرَ سِنِينَ قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: بِضْعَ عَشْرَةَ قَالَ: كَذَبَ، إِنَّمَا أَخَذَهُ مِنْ قَوْلِ الشَّاعِرِ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: فَمَقَّتْ عُرْوَةَ حِينَ كَذَبَهُ

* * عمرو بن دینار بیان کرتے ہیں: میں نے عروہ سے دریافت کیا: نبی اکرم ﷺ مکہ میں کتنا عرصہ مقیم رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: دس سال! میں نے دریافت کیا: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تو یہ کہتے ہیں: دس سے کچھ زیادہ سال رہے تھے تو انہوں نے جواب دیا: وہ غلط کہتے ہیں انہوں نے اسے شاعر کے قول سے حاصل کیا ہوگا۔

عمرو بن دینار کہتے ہیں: جب عروہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو غلط قرار دیا تو میں ان کی طرف دیکھا رہ گیا (یا یہ مطلب ہے: میں نے انہیں گھور کر دیکھا)

6788 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُخَبِّرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ عَلِيًّا مَاتَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ

* * امام محمد باقر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اس وقت ان کی عمر 65 برس تھی۔

6789 - آثار صحابہ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ عَلِيًّا، قُتِلَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانٍ وَخَمْسِينَ

* * امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ بات نقل کرتے ہیں: جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اس وقت ان کی عمر 58 سال تھی۔

6790 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، وَأَبُو بَكْرٍ بِمَنْزِلَتِهِ، وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ابْنُ سِتٍّ وَخَمْسِينَ، وَعُثْمَانُ ابْنُ إِحْدَى وَسِتِّينَ

* * حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: جب نبی اکرم ﷺ کا وصال ہوا تو آپ کی عمر 65 سال تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بھی اتنی ہی عمر تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر بھی 65 سال تھی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی عمر 61 سال تھی۔

6791 - حدیث نبوی: عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَ عَلَى رَأْسِ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ " قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: وَتَوَلَّى أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَأْسِ ثَلَاثٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَمَاتَ عُمرُ عَلَى رَأْسِ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ

° * * سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: نبی اکرم ﷺ کا انتقال 63 سال کی عمر میں ہوا۔
ابن شہاب بیان کرتے ہیں: سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی 63 سال کی عمر میں ہوا تھا۔
ابن شہاب بیان کرتے ہیں: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال 55 سال کی عمر میں ہوا تھا۔



6791-صحیح البعاری - کتاب المناقب، باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم - حديث: 3364، صحيح مسلم - كتاب الفضائل، باب كم سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض؟ - حديث: 4435، صحيح ابن حبان - كتاب التاريخ، ذكر البيان بان هذا العدد المذكور في خبر انس لم يرد - حديث: 6479، السنن الكبرى للنسائي - كتاب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الاختلاف في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم - حديث: 6888، مشكل الآثار للضحوى - باب بيان مشكل ما اختلف فيه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - حديث: 1669، مسند احمد بن حنبل - مسند الانصار، المسند المستدرک من مسند الانصار - حديث السيدة عائشة رضي الله عنها، حديث: 24093، مسند ابى يعنى الموصلى - مسند عائشة، حديث: 4552، المعجم الكبير للطبراني - سن ابى بكر وخطبته، حديث: 25، الشانل المحمدية لترمذى - باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث: 371

علم تصوف و اخلاقیات کے عظیم ترین ماخذ کا آسان اور عام فہم ترجمہ

شہیر برادرز احیاء العلوم

شیخ الانامی حجت الاسلام الامام ابو حامد محمد غزالی برہنہ الشیخ

ترجمہ و تہجہ، تہذیب و تحشیہ
صوفی محمد علی شاہ شاہ مسعودی

شہیر برادرز® زبیدہ سنٹر، ۴۰، اردو بازار لاہور
فون: 042-37246006

E-mail: shabbirbrother786@gmail.com

ابوالعلاء محمد بن محمد بن ابی بکر صلی اللہ علیہ وسلم کی تصانیف، ترجمہ، شرح و تخریج کی ہوئی کتب

3

جلدیں مکمل

جامع ترمذی شریف

3

جلدیں مکمل

صحیح مسلم شریف

8

جلدیں مکمل

صحیح بخاری شریف

3

جلدیں مکمل

سنن نسائی شریف

3

جلدیں مکمل

سنن ابوداؤد شریف

2

جلدیں مکمل

سنن ابن ماجہ

Shabbir 0322-7202212

زبیہ سنٹر، ۴۰، اردو بازار، لاہور
فون: 042-37246006

شبیر برادرز®

shabbirbrother786@gmail.com